

# جامع بریلی

مترجم من حضرت

مترجم من حضرت

مترجم من حضرت

مترجم من حضرت

صدر نظر خان شہدائے کبریٰ کی یاد میں

مَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا  
رسول خدا جو کچھ تم کو دیں اس کو لے لو اور جس سے منع فرمائیں اس سے باز آ جاؤ

# جامع ترمذی

مترجم مع مختصر شرح

جلد اول

از تالیف

امام محمد بن عیسیٰ ترمذی  
رحمۃ اللہ علیہ

مترجم: مولانا فضل احمد صاحب مدظلہ



اڈو ناز احمد ایسے جٹال روڈ  
کراچی پاکستان 2213768

دارالاشاعت

## بسم اللہ الرحمن الرحیم عرض ناشر

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔

اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے ادارے کے ذریعہ دین اسلام کی نہایت اہم اور مفید کتب کو شائع کرنے کا موقع عطا فرمایا اور تبلیغ و اشاعت کا یہ کام الحمد للہ مسلسل جاری ہے۔

اس ادارے کو اب تک تفسیر، فقہ، سیرت نبوی ﷺ، تصوف، تاریخ جیسے موضوعات پر کتب شائع کرنے کے علاوہ حدیث کی کئی بڑی مستند و مشہور کتب شائع کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ جن میں اب تک اس کتاب سے قبل درج ذیل کتب شائع ہو کر مقبول ہو چکی ہیں۔

۱۔ تہذیب البخاری ترجمہ و شرح صحیح بخاری شریف، ۳ جلد کامل۔

۲۔ تجرید بخاری شریف عربی مع اردو ترجمہ۔

۳۔ تقریر بخاری اردو۔

۴۔ ریاض الصالحین عربی مع اردو ترجمہ۔

۵۔ مظاہر حق جدید شرح مشکوٰۃ شریف، ۵ جلد۔

۶۔ تنظیم الاشارات اردو شرح مشکوٰۃ، ۲ حصے کامل۔

۳۔ معارف الحدیث ترجمہ و شرح، حصے کامل۔

زیر نظر کتاب جامع ترندی مع ترجمہ و حواشی پیش خدمت ہے۔ پہلے بھی اس کا اردو ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔ فی زمانہ ترجمہ قدیم ہونے کی وجہ سے اس کی زبان سمجھ میں آنا مشکل ہوتا تھا۔ اس لئے ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ کوئی مستند صاحب علم اس کا اردو ترجمہ دوز حاضر کے لئے آسان زبان میں کر دے اور جا بجا مشکل مقامات پر تشریحی نوٹ کا بھی اضافہ کر کے اس کی افادیت عام آدمی تک بخوبی پہنچا سکے۔ اس مقصد کے لئے کافی انتظار و جستجو کے بعد کئی صاحب علم حضرات کے مشورے سے جناب مولانا فضل احمد صاحب (تعارف علیحدہ تحریر ہے) سے درخواست کی گئی۔ کافی پس و پیش اور ادارے کی طرف سے مسلسل

اصرار کے بعد احقر کی فرمائش پر انہوں نے اس کام کا بیڑہ اٹھالیا اور تقریباً ۲ سال کے عرصہ میں یہ کام مکمل ہو سکا ہے۔ اس نسخہ میں ایک تبدیلی یہ بھی کر دی ہے کہ پوری کتاب میں باب نمبر اور حدیث نمبر ڈال دیئے ہیں تاکہ حوالہ دینا اور اسے تلاش کرنا آسان ہو جائے۔ اس سے کتاب کی افادیت میں کافی اضافہ ہو گیا ہے جو پہلے سے طبع شدہ نسخوں میں نہیں ہے۔

حدیث کے کام کی اہمیت اور احتیاط کو پیش نظر رکھتے ہوئے ترجمہ و حواشی کا مسودہ دارالعلوم کراچی کے استاد حدیث جناب محمود اشرف صاحب کو دکھایا گیا۔ انہوں نے اس کے مختلف مقامات دیکھ کر پسندیدگی کا اظہار کیا اور ایک مضمون تحریر فرمایا جو سند کے طور پر کتاب کا حصہ ہے۔

اس کے علاوہ ہمیں کتاب میں شامل کرنے کے لئے ”امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ“ کے مستند و مفصل حالات کی تلاش تھی جو ہمیں جامع ترمذی کی مشہور اردو شرح درس ترمذی میں شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب مدظلہم کے تحریر کئے ہوئے مل گئے، وہ بھی بصد شکر یہ یہاں شامل کئے جا رہے ہیں۔

تصحیح کے لئے بھی حتی الامکان کوشش کی ہے کہ بہتر سے بہتر ہو سکے اور انشاء اللہ توقع یہی ہے کہ اس میں قارئین کو شکایت نہ ہوگی۔ لیکن پھر بھی کوئی غلطی یا خامی محسوس ہو تو ادارے کو مطلع فرمائیں۔ انشاء اللہ فوری دور کیا جائے گا۔

احقر کے والد ماجد محمد رضی عثمانی صاحب مرحوم کی یہ بڑی خواہش تھی کہ صحاح ستہ کی کتب کو جدید ترجمہ و حواشی کے ساتھ شائع کیا جائے اور یہ کام انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں شروع کر دیا تھا۔ اس کا بنیادی خاکہ اور اس کام کا طریقہ بھی انہوں نے ہی بتایا تھا۔ اسی کے مطابق یہ کام اب بحسن و خوبی تیار ہو کر ہاتھوں میں ہے۔ اس وقت ان کی شدید کمی محسوس ہو رہی ہے۔ آپ سب حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ والد صاحب مرحوم کے لئے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما کر درجات عالیہ پر فائز فرمائے۔ آمین۔

آخر میں یہ بھی دعا فرمائیں کہ ہماری اس کوشش کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنی زندگی کے تمام کاموں میں اخلاص عطا فرمائے۔ آمین۔

والسلام

ناکارہ خلیل اشرف عثمانی

## تعارف مترجم

### جناب مولانا فضل احمد صاحب مدظلہ

میرے استاد محترم مولانا فضل احمد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف دینی علوم سے بخوبی آراستہ کیا بلکہ علوم جدیدہ پر بھی گہری نظر عطا فرمائی ہے۔ آپ تقریباً چوبیس سال سے درس و تدریس سے وابستہ ہیں اور اسکول و کالج سے لے کر یونیورسٹی تک تعلیم و تدریس کی خدمات انجام دیتے رہے ہیں اور طلباء میں آپ کو اپنے علمی مقام اور تدریسی اسلوب کی وجہ سے ایک خاص مقبولیت حاصل رہی ہے۔

آپ نے درس نظامی کی تکمیل مخزن العلوم عید گاہ خانپور اور جامع العلوم بہاولنگر میں کی۔ فاضل عربی کی سند بھی آپ کے پاس ہے اور ترجمہ قرآن کی سند فضیلت بھی مولانا عبداللہ درخواسی صاحب کے مدرسہ سے حاصل کی۔ اس کے علاوہ علوم جدیدہ میں بھی مختلف اسناد حاصل کی ہیں۔ علوم اسلامیہ میں ایم۔ اے کیا۔ دوسرا ایم۔ اے آپ نے تاریخ اسلام میں کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے قانون میں ایل ایل بی اور تعلیم میں بی ایڈ کی ڈگری بھی حاصل کی۔ ابھی حال ہی میں آپ نے ایک علمی مقالہ ”مسئلہ انکار حدیث کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ“ پر ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کی ہے۔

آج کل آپ جامعہ کراچی میں شعبہ علوم اسلامی میں استاد ہیں اور ایم اے کی جماعتوں کو پڑھا رہے ہیں۔ تدریس کے علاوہ تحریر کے میدان میں بھی مولانا محترم ایک خاص مقام رکھتے ہیں اور مختلف علمی و دینی رسائل میں آپ کے علمی، دینی اور تاریخی مضامین شائع ہوتے رہتے ہیں۔

ناشر

خلیل اشرف عثمانی

## عرض مترجم

احمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیٰ عظیم فضله و اشکرہ علیٰ جزیل  
احسانہ و اصلی و أسلم علیٰ اشرف رسلہ و أفضل انبیائہ

خدائے بزرگ و برتر کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ رسول اکرم ﷺ کی احادیث مبارکہ کا گراں مایہ نسخہ، کتب صحاح ستہ کی مشہور و معروف کتاب ”جامع ترمذی“ کا آسان، عام فہم اردو زبان میں ترجمہ کرنے اور اس کے اہم و مشکل مقامات و موضوعات کی مستند، جامع و مختصر تشریح کے جس اہم کام کا آغاز اس کی توفیق و عنایت سے کیا تھا، بحمد اللہ اسی کی خصوصی عنایت کی بدولت آج یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچا۔ اس انعام خداوندی پر میں اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں، کم ہے۔ میں یہاں پر اپنے استاد محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر امتیاز صاحب کا شکر یہ ادا کرنا بھی اپنا فریضہ سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے اس اہم کام کی تکمیل میں قدم قدم پر میری نہ صرف رہنمائی فرمائی بلکہ اپنے قیمتی مشوروں سے بھی نوازا۔ اگر میں اپنے عزیز ترین دوست جناب زاہد عبداللہ صاحب کا شکر یہ ادا نہ کروں تو یہ بڑی زیادتی ہوگی کہ جنہوں نے اس کام کی تکمیل میں میرے ساتھ مثالی تعاون فرمایا۔

نجل اس کے کہ میں اس کے ناشر کا عمیق قلب سے شکر ادا کروں اس حقیقت کا اظہار کر دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ اس اہم ترین کام کی انجام دہی کے لئے مجھے ان کے اس والہانہ لگاؤ، مسلسل اصرار اور تقاضائے پیہم نے ہی آمادہ کیا ورنہ میں تو ہر دفعہ ان کی خواہش کو اپنی بے پناہ مصروفیات اور گھریلو حالات کی بناء پر نالتا ہی رہا۔ بہر حال میں اس کتاب کے ناشر میرے عزیز ترین تلمیذ رشید جناب ظلیل اشرف صاحب کا سپاس گزار ہوں کہ جن کی خصوصی توجہ اور جہد مسلسل کی بدولت یہ کتاب زیور طباعت سے آراستہ و پیراستہ ہو کر آپ کے مطالعہ کی زینت بنی۔

میں اپنے محترم برادر م معزز رفیق کار و مصنف ہادی عالم ﷺ (غیر منقوٹ سیرت) جناب ولی رازی صاحب کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں کہ جن کی تحریک اور دلچسپی سے اس نیک کام کی ابتداء ہوئی۔ آخر میں ان تمام احباب کا بھی شکر یہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس کام کی تکمیل اور اس کتاب کی طباعت میں مجھے کسی نہ کسی صورت میں ان کا تعاون حاصل رہا۔

ترجمہ و تشریح کے لئے جن امور کا خاص خیال رکھا اس کی تفصیل اس طرح ہے۔

۱۔ ترجمہ نہایت سادہ، آسان، عام فہم اور با محاورہ کرنے کا التزام کیا گیا۔

۲۔ تحت اللفظ ترجمہ سے اجتناب کیا گیا تاکہ مفہوم واضح اور ذہن نشین ہو جائے۔

۳۔ ترجمہ میں صحت کا خاص خیال رکھا گیا۔

۴۔ زبان و بیان میں معیار کے ساتھ ساتھ ادب و احترام کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا۔

۵۔ جدید تعلیم یافتہ احباب کی نفسیاتی ضرورتوں کو پیش نظر رکھا گیا۔

۶۔ قرآن کریم کی آیات مذکورہ کے ترجمہ میں بھی متعدد تراجم کو سامنے رکھ کر معیار صحت اور اعلیٰ ادبی مقام کی رعایت کے ساتھ ساتھ انہیں سلیس اور عام فہم اور بامحاورہ انداز میں پیش کرنے کی پوری پوری کوشش کی گئی۔

۷۔ حدیث کے بعض اہم اور مشکل الفاظ کی تشریح بھی حاشیہ میں کر دی گئی۔

۸۔ تشریحات کے لئے مختلف اہم مصادر اور مراجع جیسے جامع البیان، الجامع الاحکام القرآن، معارف القرآن، اعلاء السنن، معارف السنن، اوجز المسائل، فتح الباری، فضل الباری، ارشاد الساری، انوار الباری، عمدۃ القاری، تحفۃ الاحوذی، العرف الشذی، فتح الملہم، تقریر بخاری، درس ترندی، مظاہر حق، عون المعبود، ہدایہ، امداد الفتاویٰ، فتاویٰ دارالعلوم، امداد الاحکام، جواہر الفقہ، کتاب الفقہ، فتاویٰ عالمگیری اور فتاویٰ رشیدیہ وغیرہ وغیرہ سے خصوصی استفادہ کیا گیا ہے۔

۹۔ مسائل کی توضیحات میں قرآن و سنت کو بنیاد بناتے ہوئے مسلک امام ابوحنیفہؒ کا خصوصی لحاظ رکھا گیا۔ سابقہ ترجمہ

میں یہ بات نہیں ہے۔

۱۰۔ تشریحی نوٹ میں معیار اور اختصار کے اصول کو اپنایا گیا ہے۔

۱۱۔ چونکہ یہ جامع ترندی کی کوئی مبسوط و مفصل اردو شرح نہیں ہے۔ اسی لئے تشریحات کے لئے مشکل اور اہم

موضوعات و مقامات کا انتخاب کیا گیا ہے۔

واجب الاحترام قارئین کرام و علماء عظام سے درخواست ہے کہ دوران مطالعہ اس کتاب میں جو خامیاں اور غلطیاں نظر آئیں ازراہ کرم بمعرفت ناشران سے ہمیں مطلع فرمائیں تاکہ نئے ایڈیشن میں ان کی اصلاح و تلافی کی جاسکے۔ میں اس کے لئے تمام اہل علم حضرات کا احسان مند و شکر گزار ہوں گا کیونکہ مجھے اپنے علمی بے بائگی کا اعتراف کرتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ویسے بھی انسان خطا کا پتلا ہے۔

”الانسان مرکب من الخطا والنسیان“

قارئین کرام سے مزید التماس ہے کہ اپنی خصوصی دعاؤں میں مجھے، میرے اہل خانہ، ناشر اور ان کے اہل خانہ کو خصوصیت کے ساتھ یاد فرمائیں۔ خالق دو جہاں سے دل سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ناچیز کی اس کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اسے میرے لئے ذخیرہ آخرت، نجات اخروی، وسیلہ کامرانی و شادمانی اور ذریعہ فلاح دارین بنائے۔ آمین۔

طالب رحمت خداوندی

فضل احمد

شعبہ علوم اسلامی، کلیہ معارف اسلامیہ، جامعہ کراچی، کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

جناب مولانا محمود اشرف صاحب مدظلہم

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ازلی ہے اور احادیث طیبہ رسول اللہ ﷺ کے وہ کلمات مبارکہ ہیں جن میں آپ ﷺ کے قول و فعل کے ذریعہ قرآن مجید کے متن کے تشریح کی گئی ہے۔ جس طرح قرآن مجید ربّی دنیا تک راہ ہدایت ہے، اسی طرح رسول اللہ ﷺ کی تعلیمات بھی قیامت تک کے لئے مشعل راہ ہیں۔ جو شخص ختم نبوت کے عقیدہ پر ایمان رکھتا ہوگا اور رسول اللہ ﷺ کو خاتم النبیین تسلیم کرتا ہوگا وہ خود بخود اس بات کا قائل ہوگا کہ جب تک خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت باقی ہے اس وقت تک آپ کی تعلیمات بھی باقی رہیں گی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن مجید کا صحیح مطلب و مفہوم سمجھنا اور اس پر عمل کرنا احادیث طیبہ کے بغیر ناممکن و محال ہے۔ اس لئے امت محمدیہ نے جس طرح قرآن مجید کے ایک ایک نقطے کی پوری پوری حفاظت کی ہے اسی طرح احادیث کو محفوظ کرنے کے لئے بھی امت نے اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھانہیں رکھی۔ محدّثین نے احادیث کو جمع کرنے، صحیح کو ضعیف سے ممتاز کرنے اور ان کے راویوں کی چھان پھنک کے لئے جو حیرت انگیز اور مجیر العقول محنتیں برداشت کی ہیں ان کا اندازہ ہر اس شخص کو ہو سکتا ہے جس نے تاریخ حدیث اور محدّثین کی سیر و سوانح کا ذرا بھی خدا خونی کے ساتھ مطالعہ کیا ہو۔ محدّثین کی انہیں عظیم المرتبت خدمات مقبولہ کا ثمرہ ہے کہ آج احادیث کا مستند ذخیرہ نکھری ہوئی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔

وہ احادیث جن میں سے ایک ایک حدیث کے جمع کرنے کے لئے محدّثین نے اپنا خون پسینہ ایک کیا تھا۔ دور دراز کے سفر کئے تھے۔ بھوک، پیاس اور فقر و فاقہ کی اذیتیں بڑی خندہ پیشانی سے برداشت کی تھیں، وہ سب احادیث آج ہمارے سامنے مدون کتابوں کی شکل میں اس طرح موجود ہیں کہ ان کے حصول کے لئے صفحات پلٹنے کے سوا اور کوئی تکلیف اٹھانی نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ ان جلیل القدر محدّثین کو ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اس لئے احادیث کی صحیح قدر و منزلت کا اندازہ یا تو وہ محدّثین عظام کر سکتے تھے جنہوں نے اس کی حفاظت کے لئے اپنی جانیں وقف کیں یا پھر وہ فقہاء

گرام جنہوں نے ان احادیث سے مسائل کے استنباط کے لئے اپنی زندگیاں خرچ کیں۔ ہم جیسوں کے لئے تو یہی بڑی دولت ہے کہ دین کے وہ مسلمہ عقائد اور فقہی مسائل جو مستند علماء کرام رحمہم اللہ نے مرتب اور منقح شکل میں ہمارے سامنے پیش کر دیے ہیں، ان پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہو جائیں تاکہ آخرت کی نجات کا سامان ہو جائے جو مقصود اصلی ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت سے صاحب جذبہ، دیدار حضرات کی خواہش ہوتی ہے کہ احادیث طیبہ کے مطالعہ سے اپنی زندگی کو منور اور اپنے ایمان کو تازگی عطا کریں۔ چونکہ یہ حضرات عربی سے نابلد ہوتے ہیں اس لئے حدیث کی اہم اور معروف کتابوں کے ترجمے شائع کئے جاتے ہیں۔ تاکہ یہ لوگ بھی اس ذخیرہ سے مستفید ہو سکیں۔ اس سلسلہ کی ایک کڑی صحاح ستہ میں شامل مشہور کتاب "جامع ترمذی" کا یہ ترجمہ بھی ہے۔ جو اس وقت دارالاشاعت کی طرف سے شائع کیا جا رہا ہے۔ برادر عزیز غلیل اشرف عثمانی صاحب کی خواہش پر احقر نے اس ترجمہ کا چند جگہ سے مطالعہ و استفادہ کیا۔ نیز سابقہ ترجمہ سے موازنہ بھی کیا تو اندازہ ہوا کہ محترم و مکرم جناب مولانا فضل احمد صاحب کا کیا ہوا یہ ترجمہ پہلے ترجموں کے مقابلے میں زیادہ سلیس، عام فہم اور آسان ہے۔ اور انہوں نے اہم مقامات پر مفید حواشی کا اضافہ کر کے ایک اچھی خدمت انجام دی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مصنف، مترجم، ناشر اور ان تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائیں جنہوں نے اس مجموعہ کی ترتیب و اشاعت میں کسی بھی طور پر حصہ لیا ہے۔

اس سے قبل کہ آپ حدیث شریف کی اس اہم کتاب کے مطالعہ کا شرف حاصل کریں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک اصولی بات ذہن نشین کر لی جائے تاکہ احادیث طیبہ کے مطالعہ سے کسی غلط نتیجہ پر نہ پہنچیں۔ وہ اصولی بات یہ کہ عام قاری کے لئے حدیث کی کسی بھی کتاب میں کوئی حدیث پڑھ کر اس سے کسی فقہی مسئلہ کے بارے میں حتمی رائے قائم کرنا ہرگز صحیح نہیں۔ جس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اصول حدیث اور اصول فقہ سے قطع نظر وہ عام وجوہات جن کے لئے کسی زیادہ ظلم و تدبر کی ضرورت نہیں درج ذیل ہیں:

۱۔ ایک حدیث شریف جو کتاب کے کسی ایک باب میں کسی مناسبت سے ذکر کی گئی ہے اور جس میں ایک واقعہ یا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے اکثر متعدد راویوں سے مروی ہوتی ہے۔ ایک ہی کتاب کی مصنف اس حدیث کی ایک روایت جس میں اختصار ہوتا ہے باب کی مناسبت سے ایک جگہ پر ذکر کرتے ہیں۔ مگر وہی حدیث دوسرے راویوں کی روایت سے نسبتاً مفصل طریقہ سے دوسرے ابواب میں بذکور ہوتی ہے۔ جب تک حدیث کے وہ سب طرق روایت سامنے نہ ہوں، آخری فیصلہ ممکن نہیں ہے۔

۲۔ بسا اوقات ایک حدیث، حدیث کی کسی کتاب میں مروی ہوتی ہے۔ مگر اس میں اختصار ہوتا ہے۔ وہی حدیث دوسری مستند کتابوں میں نسبتاً زیادہ تفصیل سے موجود ہوتی ہے۔ جس سے مسئلہ اور واقعہ کی صحیح اور پوری تفصیل سامنے آتی ہے۔ اس کے بغیر حتمی نتیجہ پر پہنچنا درست نہیں۔

۳۔ ہو سکتا ہے کہ جو حدیث آپ پڑھ رہے ہیں وہ سند کے اعتبار سے اتنی قوی نہ ہو اور اس کے مقابلہ میں دوسری احادیث نسبتاً زیادہ قوی سند کے ساتھ مروی ہوں۔

۴۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو حدیث آپ کے سامنے ہے وہ سند کے اعتبار سے اگرچہ عمدہ درجہ کی ہو مگر کسی آیت یا دوسری حدیث سے منسوخ یا مخصوص ہو چکی ہو۔ جب تک قرآن مجید اور تمام احادیث کا مکمل علم حاصل نہ ہو، نسخ، منسوخ اور ترجیح کا

اندازہ نہیں ہو سکتا اور اس کے بغیر فیصلہ کرنا جہالت کے سوا کچھ نہیں۔

۵۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حدیث شریف کا جو مطلب آپ سمجھ رہے ہیں یا اسے پڑھ کر آپ فوراً ایک نتیجہ پر پہنچ گئے ہیں، وہ اس حدیث کا سرے سے مطلب و مفہوم ہی نہ ہو۔ اس کی مثالیں نہ صرف قرآن مجید اور احادیث طیبہ میں اکثر سامنے آتی رہتی ہیں بلکہ یہ معاملہ ہر ذمہ معنی اہم تصنیف کی تشریح اور قانون کی تعبیر کے سلسلہ میں آئے دن سامنے آتا رہتا ہے۔

۶۔ کئی مرتبہ حدیث کا ایک خاص شان و رود ہوتا ہے اور اس حدیث پر عمل کرنے میں بھی عامل، ماحول، عوامل اور وقت کی خصوصیت کو دخل ہوتا ہے۔ جس کا فیصلہ فقہاء، مجتہدین اور صوفیائے محققین ہی کر سکتے ہیں۔ نحض مطالعہ کے زور پر ہر فیصلہ کرنا اپنے آپ کو رسوائی میں مبتلا کرنا ہے۔

۷۔ آخری بات یہ کہ احادیث طیبہ کے اس عظیم ذخیرہ کی عام فہم مثال ایسی ہے جیسے جان بچانے والی نادر اور قیمتی دواؤں کا عظیم ذخیرہ ہو جو انسانی زندگی کی بقاء اور صحت کا ضامن ہوتا ہے۔ مگر ہر دوا ہر شخص کے لئے ہر موقع پر مفید نہیں ہوتی۔ نہ ان دواؤں سے ہر شخص کو خود اپنا علاج کرنے کی اجازت دی جاسکتی ہے۔ ورنہ ایسی اجازت خود اس کے حق میں مہلک ثابت ہوئی۔ بلکہ اس کے لئے ایسے طبیب حاذق کی ضرورت ہے جس کا علم و تجربہ اور فہم واضح دلائل سے ثابت ہو چکا ہے۔ اسی طرح دین و دنیا کی صلاح و فلاح کے احادیث طیبہ کے اس عظیم اور انمول ذخیرہ سے استنباط کے لئے وسیع علم، عمیق تفقہ، مثالی تقویٰ و طہارت اور خدا و نور بصیرت درکار ہے۔ اس کے بغیر استنباط کی اس وادی میں قدم رکھنا گمراہی کو دعوت دینا ہے۔ اس اصولی بات کو کہ احادیث کے مطالعہ کے دوران اپنی رائے اور فہم کو حرف آخر نہ سمجھا جائے، اگر احادیث کے مطالعہ میں پیش نظر رکھا جائے تو انشاء اللہ غلط فہمیوں اور الجھنوں سے نجات رہے گی اور اس کے نتیجہ میں احادیث طیبہ میں سے ہر حدیث ایمان کی قوت و حلاوت، روح کی پاکیزگی اور عمل میں خیر و برکت کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر ٹھیک ٹھیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

محمود اشرف عثمانی

عفا اللہ عنہ

مدرس دارالعلوم کورنگی کراچی نمبر ۱۳

ربیع الاول ۱۴۱۲ھ

## امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ

امام ترمذیؒ کا پورا نام محمد بن عیسیٰ بن سورۃ بن موسیٰ ہے۔ کنیت ابو عیسیٰ اور وطن کی نسبت ”بوغی“ اور ”ترمذی“ ہے۔ علامہ بقاعیؒ فرماتے ہیں کہ آپ کے آباء واجداد شہر ”مرد“ کے باشندے تھے۔ پھر خراسان کے شہر ”ترمذ“ میں منتقل ہو گئے، جو دریائے جیحون کے کنارے ایک مشہور شہر تھا۔ اس شہر سے بڑے بڑے علماء و محدثین پیدا ہوئے۔ اس لئے اس کو ”مدینۃ الرجال“ کہا جاتا ہے۔ اس شہر سے چند فرسخ کے فاصلہ پر ”بوغ“ نامی قصبہ آباد تھا۔ امام ترمذیؒ اسی قصبہ میں پیدا ہوئے۔ اس لئے ان کو ”بوغی“ بھی کہتے ہیں اور ”ترمذی“ بھی۔ لیکن چونکہ بوغ، ترمذ کے مضافات میں واقع تھا اس لئے ترمذی کی نسبت زیادہ مشہور ہوئی۔

لفظ ”ترمذ“ کے ضبط میں کئی اقوال ہیں۔

۱۔ ضم الاول والثالث یعنی تَرْمِذٌ۔

۲۔ فتح الاول وکسر الثالث یعنی تَرْمِذٌ۔

۳۔ فتحہما یعنی تَرْمِذٌ۔

۴۔ کسر ہما یعنی تَرْمِذٌ اور یہ آخری قول زیادہ معروف و مقبول ہے۔

امام ترمذیؒ کا سن پیدائش ۲۰۹ ہجری اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ۲۰۰ھ ہے۔ لیکن پہلا قول زیادہ راسخ ہے۔ آپ کی وفات بالتفاق ۲۷۹ ہجری میں ہوئی۔ حضرت شاہ صاحبؒ نے ایک مصرعہ میں ان کی تاریخ وفات جمع کی ہے:

عطر مداہ و عمرہ فی عین (ع)

۷۰

۲۷۹

اس میں عطر کے اعداد دو سو اناسی ہوتے ہیں، جو ان کی تاریخ وفات ہے اور ع کا عدد ۷۰ ہے، جو ان کی کل مدت

عمر ہے۔

امام ترمذیؒ نے پہلے اپنے وطن میں رہ کر علم حاصل کیا۔ اس کے بعد طلب علم کے لئے حجاز، مصر، شام، کوفہ - خراسان اور بغداد وغیرہ کے سفر بھی کئے اور اپنے وقت کے بڑے بڑے شیوخ حدیث سے علم حاصل کیا۔ جن میں امام بخاری،

امام مسلم، امام ابوداؤد سجستانی، احمد بن منیع، محمد بن الحنفی، محمد بن بشر، ہناد بن السری، قتیبہ بن سعید، محمود بن غیلان، اسحاق بن مویٰ الانصاری جیسے جلیل القدر محدثین شامل ہیں اور ان کے علاوہ بھی سینکڑوں محدثین سے امام ترمذی نے علم حاصل کیا۔

تمام اساتذہ امام ترمذی کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ امام بخاری کو تو آپ سے بہت ہی تعلق تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ ایک موقع پر امام بخاری نے امام ترمذی سے فرمایا ”ما انتفعت بک اکثر مما انتفعت بی“..... حضرت شاہ صاحب نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر شاگرد زین اور ذی استعداد ہو تو استاذ اسے پڑھانے میں زیادہ محنت کرتا ہے۔ جس سے خود استاد کو فائدہ پہنچتے ہیں۔

اس کے علاوہ امام ترمذی کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ وہ بعض احادیث میں اپنے استاذ امام بخاری کے بھی استاذ ہیں۔ یعنی چند حدیثیں خود امام بخاری نے ان سے سنی ہیں۔ چنانچہ امام ترمذی نے اپنی جامع میں ایسی دو حدیثوں کے بارے میں تصریح کی ہے کہ یہ امام بخاری نے مجھ سے سنی تھیں۔ ایک حدیث یہ کہ حضور ﷺ نے حضرت علیؑ سے فرمایا ”لا یحل (۱) لاحد ان یجنب فی هذا المسجد غیری وغیرک“ امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا ”وقد سمع محمد بن اسمعیل منی هذا الحدیث واستغربه“۔ اس طرح کتاب التفسیر میں سورہ حشر کی تفسیر کے تحت ایک حدیث آئی ہے۔ وہاں بھی امام ترمذی نے اسی قسم کی تشریح فرمائی ہے۔

امام ترمذی غیر معمولی حافظہ کے مالک تھے، اور اس سلسلہ میں آپ کے کئی واقعات مشہور ہیں۔ چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے ”بستان المحدثین“ میں ان کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ان کو کسی شیخ سے احادیث کے دو صحیفے اجازت پہنچے تھے۔ ایک مرتبہ وہ سفر میں تھے کہ راستہ میں کسی منزل پر ان شیخ سے ملاقات ہوئی۔ امام ترمذی نے چاہا کہ جو صحیفے ان کے پاس اجازت پہنچے ہیں، ان کو قرأت شیخ سے حاصل کر لیں۔ چنانچہ شیخ سے ان اجزاء کی قرأت کی درخواست کی۔ شیخ نے درخواست منظور فرمائی اور کہا وہ اجزاء لے آؤ۔ امام ترمذی نے اپنے مہمل جا کر ان اجزاء کو اپنے سامان میں تلاش کیا تو وہ نہ مل سکے اور پتہ چلا کہ وہ جزو گھر پر رہ گئے ہیں اور ان کی جگہ سادے کاغذ رکھے ہوئے ہیں۔ بڑے پریشان ہوئے، پھر یہ ترکیب کی کہ وہی سادہ کاغذ لے کر شیخ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ شیخ نے احادیث پڑھنا شروع کر دیں اور امام ترمذی سادہ کاغذ پر نظر جمائے یہ ظاہر کرتے رہے کہ لکھے ہوئے اجزاء کا شیخ کی قرأت سے موازنہ کر رہے ہیں۔ اچانک شیخ کی نظر سادہ کاغذ پر پڑی تو شیخ نے ناراض ہو کر فرمایا ”اما تستحی منی؟“ اس موقع پر امام ترمذی نے پورا واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ آپ نے جتنی احادیث سنائی ہیں وہ سب کی سب مجھے یاد ہو گئی ہیں۔ شیخ نے سنانے کا مطالبہ کیا تو امام ترمذی نے من، عن تمام احادیث سنادیں۔ شیخ نے فرمایا ”لعلک استظہر تھا من قبل“ امام ترمذی نے فرمایا کہ آپ مجھے ان کے علاوہ کچھ احادیث سنائیں۔ چنانچہ شیخ نے مزید چالیس احادیث سنائیں اور امام ترمذی نے فوراً وہ من و عن دہرا دیں۔ شیخ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور فرمایا ”ما رأیت مثلك“۔

امام ترمذی کا ایک اور واقعہ مشہور ہے جو اب تک کسی کتاب میں نظر سے نہیں گذرا، لیکن اپنے متعدد مشائخ سے سنا ہے، اور وہ یہ کہ امام ترمذی نایبنا ہونے کے بعد ایک مرتبہ اونٹ پر سوار ہو کر حج کو تشریف لے جا رہے تھے۔ راستہ میں ایک مقام پر

(۱) اخراجہ الترمذی ۱۲ ابواب المناقب، مناقب علی بن ابی طالب۔

انہوں نے چلتے چلتے اپنا سر جھکا لیا اور دیگر رفقاء کو بھی ایسا کرنے کی ہدایت دی۔ رفقاء نے حیران ہو کر اس کی وجہ پوچھی تو امام ترمذی نے فرمایا کہ یہاں کوئی درخت نہیں ہے؟ ساتھیوں نے انکار کیا۔ تو امام ترمذی نے گھبرا کر قافلہ کو روکنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس کی تحقیق کرو، مجھے یاد ہے کہ عرصہ دراز پہلے جب میں یہاں سے گزرا تھا اس جگہ ایک درخت تھا۔ جس کی شاخیں بہت جھکی ہوئی تھیں اور جو مسافروں کے لئے بڑی پریشانی کا باعث تھا اور سر جھکانے بغیر اس کے نیچے سے گزرنا ممکن نہ تھا۔ شاید اب وہ درخت کسی نے کاٹ دیا ہے۔ اگر واقعہ ایسا نہیں ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہاں درخت نہیں تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا حافظہ کمزور ہو چکا ہے۔ لہذا میں روایت حدیث کو ترک کر دوں گا۔ لوگوں نے اتر کر آس پاس کے لوگوں سے تحقیق کی تو لوگوں نے بتایا کہ واقعاً یہاں ایک درخت تھا، چونکہ وہ مسافروں کی پریشانی کا باعث تھا اس لئے اب اسے کٹا دیا گیا ہے۔

حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ امام ترمذی ”اکمہ“ یعنی مادرزاد نابینا تھے۔ لیکن حضرت شاہ صاحب وغیرہ نے فرمایا کہ یہ قول درست نہیں، بلکہ وہ شروع میں نابینا نہ تھے، جیسا کہ ان کے بعض واقعات سے معلوم ہوتا ہے۔ ہاں آخری عمر میں خشیت الہی کے غلبہ کی وجہ سے بہت روتے تھے، جس کی وجہ سے بینائی جاتی رہتی۔

امام ترمذی کی کنیت ”ابو عیسیٰ“ ہے اور وہ اسی کنیت سے ”جامع ترمذی“ میں اپنے اقوال ذکر کرتے ہیں، لیکن اس میں کلام ہوا ہے کہ یہ کنیت رکھنا کہاں تک جائز ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے، جس میں آنحضرت ﷺ سے منقول ہے کہ آپ نے ابو عیسیٰ کنیت رکھنے سے منع فرمایا، جس کی وجہ آپ ﷺ نے یہ بیان فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں تھا اور اس کنیت سے فساد عقیدہ کا شبہ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام ترمذی نے یہ کنیت کیوں اختیار کی؟ اس کے مختلف جوابات دیئے گئے ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ امام ترمذی کو ممانعت والی حدیث پہنچی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ بات بہت مستبعد ہے کہ امام ترمذی جیسے حافظ حدیث سے ایسی معروف حدیث پوشیدہ رہ گئی ہو۔ اس لئے بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ ممانعت خلاف اولیٰ پر محمول ہے نہ کہ تحریم پر۔ لیکن اس پر بھی شبہ ہوتا ہے کہ اہل تقویٰ کے نزدیک ناجائز اور خلاف اولیٰ دونوں قسم کے افعال متروک ہونے میں برابر ہوتے ہیں اور امام ترمذی ورع و تقویٰ کے جس مقام پر تھے، اس سے یہ بعید ہے کہ انہوں نے بلا وجہ اس خلاف اولیٰ کا ارتکاب کیا ہو، بعض لوگوں نے یہ بھی جواب دیا ہے کہ نبی تنزیہی ہے، اس لئے امام ترمذی نے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ لیکن یہ بات بھی امام ترمذی کے ورع و تقویٰ سے بعید ہے۔ اس لئے سب سے بہتر جواب یہ ہے کہ اس مسئلہ پر امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں ایک مستقل باب قائم کیا ہے اور اس میں حضرت مغیرہ بن شعبہ کی روایت ذکر کی ہے کہ انہوں نے اپنی کنیت ابو عیسیٰ رکھی تھی۔ حضرت عمرؓ نے اس پر اعتراض کیا تو حضرت مغیرہ نے فرمایا کہ میں نے یہ کنیت حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں اختیار کی تھی۔ آپ ﷺ کو اس کا علم تھا، لیکن آپ ﷺ نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی۔

اس حدیث کی بناء پر امام ترمذی کا مسلک یہ ہوگا کہ یہ کنیت رکھنا ابتدائے اسلام میں فساد عقیدہ سے بچنے کے لئے ممنوع تھا، گویا کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی ممانعت والی حدیث اسلام کے ابتدائی دور پر محمول ہے۔ پھر اسلامی عقائد کے راسخ ہو جانے کے بعد یہ ممانعت بھی ختم ہو گئی۔ چنانچہ جواز کا حکم حضرت شعبہ کی حدیث سے معلوم ہوا۔

امام ترمذی کے بارے میں ان کے معاصرین اور بعد کے علماء نے زبردست توصیفی کلمات ارشاد فرمائے ہیں، جو

صاحب ”تختہ الاحوذی“ نے اپنی کتاب کے مقدمہ میں ذکر کئے ہیں۔

امام ترمذیؒ کی تین کتب آج تک ان کی یادگار چلی آرہی ہیں۔ ایک ”جامع ترمذی“ دوسری کتاب کتاب ”الشمائل“ اور تیسری کتاب ”العلل“۔ اس کے علاوہ ابن ندیمؒ نے ”فہرست“ میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک کتاب ”تاریخ“ بھی لکھی تھی اور حافظ ابن کثیرؒ نے ”البدایہ والنہایہ“ میں امام ترمذیؒ کے ترجمہ کے تحت ان کی ایک تفسیر کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن ان کی یہ تفسیر اور تاریخ اب نایاب ہیں۔

یہاں یہ بھی واضح رہنا چاہئے کہ ”ترمذی“ کے نام سے تین بزرگ معروف ہیں۔ ایک ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی صاحب الجامع مزہب کا تذکرہ اوپر کیا گیا۔ دوسرے ابو الحسین محمد بن الحسین الترمذی، یہ بھی جلیل القدر محدثین میں سے ہیں اور بخاری میں ان کی ایک روایت موجود ہے۔ تیسرے امام حکیم ترمذیؒ جو صوفی اور مؤذن تھے۔ اور جن کی کتاب ”نوادرا الاصول“ کا تذکرہ پیچھے گذرا کہ وہ زیادہ تر احادیث ضعیفہ پر مشتمل ہے۔ واللہ اعلم۔

## جامع ترمذی اور اس کی خصوصیات

امام ترمذیؒ کی جامع ترمذی معروف اور غیر مختلف فیہ کتاب ہے۔ اسے پوری امت نے با اتفاق صحاح ستہ میں شامل سمجھا ہے۔ حافظ نئس الدین ذہبیؒ نے لکھا ہے کہ امام ترمذیؒ نے ”جامع ترمذی“ تالیف کرنے کے بعد اسے خراسان، جاز، مصر اور شام کے علماء کے پاس پیش کیا، جب ان تمام علماء نے اسے پسند کیا اور اس کی تحسین کی، تب ان کی عمومی اشاعت فرمائی اور خود امام ترمذیؒ کا قول ہے:

”من كان عنده هذا الكتاب الجامع فكان عنده نبيا يتكلم“

اس کتاب میں بعض ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو کسی اور کتاب کو حاصل نہیں۔

۱۔ یہ کتاب بیک وقت جامع بھی ہے اور سنن بھی، اس لئے کہ اسے فقہی ترتیب پر مرتب کیا گیا ہے۔

۲۔ اس کتاب میں احادیث کا تکرار نہیں۔

۳۔ اس میں امام ترمذیؒ نے تمام فقہاء کے بنیادی مستدلات کو جمع کیا ہے اور ہر ایک کے لئے جدا باب قائم کیا ہے۔

۴۔ ہر باب میں امام ترمذیؒ نے فقہاء کے مذاہب بالالتزام بیان کئے ہیں، جن کی وجہ سے یہ کتاب حدیث کے ساتھ

فقہ کا بھی قابل قدر ذخیرہ بن گئی ہے۔

۵۔ امام ترمذیؒ ہر حدیث کے بارے میں اس کا درجہ استناد بھی بناتے ہیں اور سند کی کمزوریوں کی تفصیل کے ساتھ

نشاندہی کرتے ہیں۔

۶۔ ہر باب میں امام ترمذیؒ ایک یا دو تین احادیث بیان کرتے ہیں اور ان احادیث کا انتخاب کرتے ہیں جو عموماً

دوسرے ائمہ نے نہیں نکالیں، لیکن ساتھ ہی ”وفی الباب عن فلان وفلان“ کہہ کر ان احادیث کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں

جو اس باب میں آسکتی ہیں۔ چنانچہ بہت سے علماء نے صرف امام ترمذیؒ کی ”وفی الباب“ کی تخریج پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔

۷۔ اگر حدیث طویل ہو تو امام ترمذی عموماً اس میں سے صرف وہ حصہ ذکر کرتے ہیں جو باب سے متعلق ہو، اسی لئے ترمذی کی احادیث مختصر اور چھوٹی ہیں اور انہیں یاد رکھنا آسان ہے۔

۸۔ اگر کسی حدیث کی سند میں کوئی علت یا اضطراب ہو تو امام ترمذی اس کی مفصل تشریح فرماتے ہیں۔

۹۔ امام ترمذی کا معمول ہے کہ وہ مشتبہ راویوں کا تعارف بھی کراتے ہیں، بالخصوص جو راوی نام سے مشہور ہیں، ان کی کنیت اور جو کنیت سے مشہور ہیں ان کا نام بیان فرماتے ہیں تاکہ اشتباہ باقی نہ رہے اور بعض اوقات اس پر بھی بحث کرتے ہیں کہ راوی کا مروی عنہ سے سماع ثابت ہے یا نہیں۔

۱۰۔ جامع ترمذی کی ترتیب بہت آسان ہے اور اس کے تراجم ابواب نہایت سہل ہیں اور اس سے حدیث کا تلاش کرنا بہت آسان ہے۔

۱۱۔ اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی تمام احادیث کسی نہ کسی فقیہ کے ہاں معمول بہ ہیں۔ صرف دو حدیثوں کے بارے میں امام ترمذی نے فرمایا ہے کہ وہ کسی کے نزدیک بھی معمول بہ نہیں۔ ایک بغیر عذر کے جمع بین الصلوٰتین (۱) کے سلسلہ میں اور دوسری شارب خمر (۲) کے قتل کے سلسلہ میں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ حنفیہ کے ہاں یہ دونوں حدیثیں بھی معمول بہ ہیں۔ کیونکہ احناف پہلی حدیث کو جمع صوری پر اور دوسری حدیث کو سیاست پر محمول کرتے ہیں۔

۱۲۔ اگرچہ عام طور سے جامع ترمذی کو صحت کے اعتبار سے نسائی اور ابوداؤد کے بعد سمجھا جاتا ہے، لیکن حاجی خلیفہ نے ”کشف الظنون“ میں اس کو صحاح ستہ میں صحیحین کے بعد سب سے اعلیٰ مقام دیا ہے۔ نیز حافظ ابن حجر نے ”تقریب التہذیب“ میں صحاح ستہ کے جو رموز مقرر کئے ہیں ان میں ابوداؤد اور نسائی کے درمیان رکھا ہے۔ حافظ ذہبی نے لکھا ہے کہ جامع ترمذی کو صحیحین کے بعد سب سے اعلیٰ مقام ملنا چاہئے تھا۔ لیکن اس کا رتبہ اس لئے گھٹ گیا کہ اس میں مصلوب اور کلبی جیسے راویوں کی روایات آگئیں، لیکن اگر امام ترمذی کے طرز عمل کو دیکھا جائے تو صاحب ”کشف الظنون“ ہی کی رائے زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جامع ترمذی میں ضعیف راویوں کی روایات بھی اگرچہ آئی ہیں، لیکن ایسے مقامات پر امام ترمذی نے ان روایات کے ضعف پر تشبیہ بھی فرمادی ہے۔ اس لئے ترمذی میں آنے والی روایات ضعیفہ بے خطر طریقہ پر آئی ہیں، اس لئے یہ ایک بے خطر کتاب ہے، چنانچہ ابوبکر حازمی نے ”شروط الائمة الخمسة“ میں لکھا ہے کہ ترمذی کی شرط امام ابوداؤد کے مقابلہ میں ابلغ ہے، کیونکہ وہ حدیث کے ضعف پر تشبیہ کر دیتے ہیں۔ ”فیصیر الحدیث عنده من باب الشواهد والمتابعات“ اور ابوداؤد وغیرہ میں اس درجہ کا التزام نہیں۔ (۳)

(۱) ترمذی ص ۴۷ ج ۱ باب ماجاء فی الجمع بین الصلوٰتین، ۱۲۔ (۲) ترمذی ص ۲۰۹ ج ۱، ابواب الحدود باب ماجاء من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فی الرابعة فاقتلوه ۱۲۔ (۳) وقال العلامة الكوثري في تعليقه على شروط الحازمي ”قد اعترض على الترمذی بانہ فی غالب الابواب يبدأ بالاحادیث الغریبة الاسناد غالباً وليس ذلك بعیب فانه رحمه الله بین ما فیها من العلیل ولهذا تجد النسانی اذا استوعب طرق الحدیث بدأ بما هو غلط ثم يذكر بعد ذلك الصواب المخالف له واما ابوداؤد فكانت عناية بالمتون اكثر ولهذا يذكر الطرق واختلاف الفاظها والزیادات المذكورة فی بعضها دون بعض فكانت عناية بفقہ الحدیث اكثر فللهذا يبدأ بالصحيح من الاسانید وربما يذكر الاسناد المعلل بالكلية (تعليق شروط الائمة الخمسة فی ۴۴) ۱۲۔

۱۳۔ صحاح ستہ کی تدریس میں اس کتاب کو اس لحاظ سے سب سے زیادہ نمایاں مقام حاصل ہے کہ اکابر علماء خاص طور سے علماء دیوبند فقہ اور حدیث کے جملہ تفصیلی مباحث سب سے زیادہ اس کتاب میں بیان کرتے ہیں، یہ کتاب صحیح بخاری کے ہمسر اور بعض شیوخ حدیث کے طریقہ تدریس میں اس سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل رہی ہے۔ بلاشبہ ان خصوصیات میں مروجہ کتب حدیث میں کوئی کتاب جامع ترمذی کے برابر نہیں۔

## امام ترمذی کی تصحیح و تحسین:

بعض حضرات نے امام ترمذی کو تصحیح و تحسین کے معاملہ میں حاکم کی طرح متساہل قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس درجہ سے ان کی تصحیح اور تحسین کا کوئی اعتبار نہیں، اس کی وجہ حافظ ذہبی نے یہ بیان کی ہے کہ امام ترمذی نے ایسی بعض احادیث کو تصحیح قرار دیا ہے جن کے راوی ضعیف ہیں اور بعض ایسی روایتوں کو حسن قرار دیا ہے جن کے راوی مجہول ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے مقامات بہت کم ہیں۔ احقر نے جستجو کی تو پوری جامع میں بمشکل دس یا بارہ مقامات ایسے ہیں جہاں امام ترمذی نے حدیث کو تصحیح قرار دیا ہے۔ جبکہ دوسرے حضرات کے نزدیک وہ ضعیف ہیں، جہاں تک مجاہیل کی روایات کو حسن قرار دینے کا تعلق ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ امام ترمذی کے نزدیک مجہول نہ ہوں، اور انہیں ان راویوں کے بارے میں تحقیق ہوگئی ہو۔ نیز امام ترمذی کی یہ عادت ہے کہ وہ ایسی حدیث کو جس میں کوئی راوی ضعیف ہو یا اس حدیث میں انقطاع پایا جا رہا ہو اسے تعدد طرق کی بناء پر حسن قرار دیتے ہیں اور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ تعدد طرق کی بناء پر حدیث ضعیف حسن لغیرہ بن جاتی ہے۔ لہذا امام ترمذی کی تحسین کے قابل اعتراض مقامات معدودے چند ہیں۔ ان کی بناء پر امام ترمذی کو علی الاطلاق متساہل قرار دینا اور حاکم کی صف میں لاکھڑا کرنا انصاف سے بعید ہے۔ بالخصوص جبکہ ان مقامات پر بھی تاویل ممکن ہے اور جبکہ یہ بات طے ہو چکی ہے کہ تصحیح یا تضعیف ایک امر اجتہادی ہے، جس میں محدثین کی آراء مختلف ہو سکتی ہیں۔ ہاں یہ درست ہے کہ اگر کسی حدیث کی تصحیح کے بارے میں امام ترمذی منفرد ہوں اور دوسرے تمام ائمہ سے ان کی تضعیف منقول ہو تو اس صورت میں جمہور کے قول کا اعتبار کرنا چاہئے۔

## جامع ترمذی اور موضوع احادیث:

اس میں کلام ہوا ہے کہ جامع ترمذی میں کوئی حدیث موضوع بھی ہے یا نہیں؟ علامہ ابن الجوزی نے ”موضوعات کبریٰ“ میں ترمذی کی تیئیس (۲۳) احادیث کو موضوع بتلایا ہے۔ لیکن پیچھے معلوم ہو چکا ہے کہ ابن الجوزی اس معاملہ میں ضرورت سے زیادہ متشدد ہیں اور انہوں نے صحیح مسلم اور صحیح بخاری بروایت حماد شا کرکی ایک ایک حدیث کو بھی موضوع کہہ دیا ہے۔ لہذا تحقیقی بات یہ ہے کہ جامع ترمذی کی کوئی حدیث موضوع نہیں ہے۔

علامہ جلال الدین سیوطی نے القول الحسن فی الذب عن السنن، میں ان تمام روایات کی تحقیق کی ہے جو صحاح ستہ میں موجود ہیں اور ابن الجوزی نے انہیں موضوع قرار دیا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے ترمذی کی ان تیئیس (۲۳) احادیث پر بھی کلام کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی موضوع قرار دینا درست نہیں۔ (مخلص من مقدمہ تفتخ الاحوذی ص ۱۸۰ و ۱۸۱)

## جامع ترمذی کی شروح:

جامع ترمذی کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی مقبولیت بخشی، چنانچہ اس کی متعدد تجریدات، مستخرجات، اور حواشی لکھے گئے، جن میں سے چند کا مختصر تعارف درج ذیل ہے:

۱- ”عارضۃ الاحوذی بشرح جامع الترمذی“ یہ قاضی ابوبکر ابن العربی کی تصنیف ہے، جو مالکیہ کے حلیل القدر فقہاء محدثین میں سے ہیں اور جو ”احکام القرآن“ اور ”العواصم من القواصم“ وغیرہ کے مصنف ہیں۔ یہ شرح متقدمین کے طریقہ پر مختصر ہے، لیکن بہت سے علمی فوائد پر مشتمل ہے، بعد کی شروح ترمذی کے لئے مآخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ حافظ ابن حجر وغیرہ بھی اس کا بکثرت حوالہ دیتے ہیں۔

۲- ”شرح ابن سید الناس“ علامہ ابن سید الناس آٹھویں نویں صدی ہجری کے مصنف ہیں، جن کی کتاب ”عیون الاثر“ سیرت بطیبہ کے موضوع پر مآخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کے بارے میں قاضی شوکانی نے ”البدرا الطالع فی اعیان القرن التاسع“ میں اور حافظ ابن حجر نے ”الدرر الکامند فی رجال المئذیۃ الثامنۃ“ میں نیز حاجی خلیفہ نے ”کشف الظنون“ میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے ترمذی کی ایک مفصل شرح لکھنی شروع کی تھی۔ لیکن ابھی تقریباً دس جلدیں لکھ پائے تھے اور ایک ثلث کتاب باقی تھی کہ وفات ہو گئی۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اگر یہ اپنی شرح کو علوم حدیث تک محدود رکھتے تو یہ مکمل ہو جاتی، لیکن اس میں انہوں نے بہت سے علوم و فنون کو جمع کرنا شروع کیا۔ اس لئے عمر ساتھ نہ دے سکی، پھر بعد میں حافظ زین الدین عراقی نے جو حافظ ابن حجر کے استاذ ہیں، اس شرح کو مکمل کرنا شروع کیا، لیکن علامہ سیوطی کے قول کے مطابق وہ بھی تکمیل نہ کر سکے۔ لہذا یہ مفصل شرح کبھی طبع اور شائع نہ ہو سکی۔

۳- ”شرح ابن الملقن“ یہ علامہ سراج الدین ابن الملقن کی تصنیف ہے، جو علماء شافعیہ میں سے ہیں اور ساتویں صدی کے بزرگ ہیں۔ اس شرح کا تذکرہ بھی قاضی شوکانی نے ”البدرا الطالع فی اعیان القرن السابع“ میں کیا ہے۔ اس شرح کا اصل نام ”فتح الشذی علی جامع الترمذی“ ہے اور اس میں صرف ان احادیث کی شرح کی گئی ہے جو ترمذی میں صحیحین اور ابوداؤد سے زائد ہیں۔

۴- ”شرح الحافظ ابن حجر“ حافظ ابن حجر نے بھی ترمذی کی ایک شرح لکھی تھی۔ چنانچہ ”فتح الباری“ میں حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کی معروف حدیث ”اتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم“ الخ کی شرح کرتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ میں نے جامع ترمذی پر ایک شرح لکھی ہے۔ جس میں ثابت کیا ہے کہ بول قائم کے بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں، لیکن حافظ ابن حجر کی یہ شرح نایاب ہے۔

۵- ”شرح البلقینی“ جس کا نام ”العرف الشذی علی جامع الترمذی“ ہے۔ یہ علامہ عمر بن رسلان البلقینیؒ کی تصنیف ہے جو مشہور فقہاء شافعیہ میں سے ہیں اور حافظ ابن حجر کے استاذ ہیں۔

۶- ”شرح الحافظ ابن رجب البغدادی الجسلی“ یہ مشہور جنابلی محدث اور فقیہ ہیں اور ”طبقات الحنابلة“ کے مصنف ہیں۔

۷۔ ”قوت المخذی“ یہ علامہ جلال الدین سیوطی کی نہایت مختصر شرح ہے اور ہندوستان کے متعدد نسخ ترمذی کے حاشیہ پر چڑھی ہوئی ہے۔

۸۔ ”شرح العلامة طاہر پٹی لکھنوی“ انہوں نے ”مجمع بحار الانوار“ (۱) میں حدیث ”اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث“ کی شرح کے تحت تذکرہ کیا ہے کہ میں نے ترمذی کا ایک حاشیہ لکھا ہے۔

۹۔ ”شرح السدھی“ یہ علامہ ابوطیب سدھی کی تصنیف ہے اور مصر سے شائع ہو چکی ہے۔

۱۰۔ ”شرح العلامة سراج الدین السمر ہندی“ ان کی شرح بھی مصر ہی سے شائع ہو چکی ہے۔

۱۱۔ ”تحفۃ الاحوذی“ یہ قاری عبدالرحمن مبارک پوری کی تصنیف ہے جو اہل حدیث کے بلند پایہ عالم ہیں۔ انہوں نے ایک ضخیم جلد میں اس شرح کا مقدمہ بھی لکھا ہے، جو علم حدیث سے متعلقہ عمدہ مباحث پر مشتمل ہے۔ اس شرح میں انہوں نے حنفیہ کی خوب تردید کی ہے اور بسا اوقات حدود انصاف سے تجاوز کیا ہے۔ ان کا ماخذ زیادہ تر شوکانی کی ”نیل الاوطار“ ہے۔ اگر اس شرح میں سے حنفیہ کے خلاف تعصب کو نکال دیا جائے تو حل کتاب کے نقطہ نظر سے یہ بہت اچھی شرح ہے۔

۱۲۔ ”الکوکب الدرئی علی جامع الترمذی“ یہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کی تقریر ترمذی ہے، جسے ان کے شاگرد رشید حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھلوی نے ضبط کیا ہے اور ان کے صاحبزادے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مدظلہم نے اس پر مفید حواشی لکھے ہیں۔ بلاشبہ حل ترمذی کے نقطہ نظر سے یہ کتاب دریا بکوزہ کا مصداق ہے، اس میں مختصر جامع اور تشفی بخش تشریحات بھی ہیں اور علم و معرفت، تحقیق و تدقیق کے خزانے بھی، یہ ترمذی کی انتہائی بہترین اور مختصر شرح ہے، اس کا صحیح اندازہ جب ہوتا ہے جب انسان مطولات کے مطالعہ کے بعد اس کا مطالعہ کرے۔ خاص طور سے حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مدظلہم کے حواشی نے اس کے منافع کو دو چند کر دیا ہے۔

۱۳۔ ”الورد الشذی“ یہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب کی تقریر ترمذی ہے۔ لیکن بغایت مختصر ہے۔

۱۴۔ ”اللباب فی شرح قول الترمذی ونی الباب“ یہ حافظ ابن حجر کی تالیف ہے اور اس میں انہوں نے ان احادیث کی تخریج کی ہے جن کی طرف امام ترمذی ”ونی الباب“ کہہ کر اشارہ فرماتے ہیں۔

۱۵۔ ”العرف الشذی تقریر جامع الترمذی“ یہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کی تقریر ترمذی ہے۔ جسے مولانا چراغ محمد صاحب نے درس میں ضبط کیا ہے۔ اگرچہ یہ خاصی جامع تقریر ہے، لیکن اس میں ضبط کی غلطیاں رہ گئی ہیں۔ کیونکہ حضرت شاہ صاحب اس پر نظر نہ فرما سکے۔ اسی لئے اس میں حضرت شاہ صاحب کے علوم کا احاطہ نہیں ہو سکا۔

۱۶۔ ”معارف السنن“ یہ حضرت کشمیری کے شاگرد خاص مولانا محمد یوسف بنوری صاحب کی تالیف ہے۔ اصل میں انہوں نے ”العرف الشذی“ کو درست کرنے اور اس کا تذکرہ کرنے کے لئے یہ کتاب لکھنی شروع کی تھی۔ لیکن رفتہ رفتہ اس نے ایک مستقل تصنیف اور شرح کی حیثیت اختیار کر لی۔ اس میں انہوں نے حضرت شاہ صاحب کی تقریر کو بنیاد بنایا ہے، لیکن اس کے ساتھ اپنی تحقیق اور مطالعہ سے بے شمار مباحث کا اضافہ کیا ہے۔ ان کی عبارت انتہائی شگفتہ اور کلام بڑی حد تک منضبط ہے، جو

دوسری شروح حدیث میں بہت کمیاب ہے۔ آج کل ترمذی کی جتنی شروح دستیاب ہیں ان میں سب سے زیادہ مفصل اور جامع شرح ہے۔ لیکن یہ چھ جلدوں میں صرف کتاب الحج تک پہنچ سکی ہے، ان شروح کے علاوہ ترمذی پر تجریدیں اور مستخرجات بھی لکھی گئی ہیں۔ جن کی تفصیل مولانا مبارک پوریؒ نے ”مقدمہ تحفۃ الاحوذی“ میں بیان کی ہے۔ (۱) واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب۔

### عہد حاضر میں اسناد حدیث:

جب سے صحاح ستہ اور احادیث کے دوسرے مجموعے مدون ہو کر دنیا میں پھیلے ہیں اور ان کے مصنفین کی طرف نسبت تو اتر کی حد تک پہنچ گئی ہے۔ اس وقت سے روایت حدیث کا یہ طریقہ کہ حدیث بیان کرنے والا اپنے آپ سے رسول کریم ﷺ تک تمام واسطوں کو بیان کرے متروک ہو چکا ہے اور اب اس کی زیادہ ضرورت بھی نہیں رہی۔ صرف حدیث کی کتاب کا حوالہ دے دینا کافی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کتابیں تو اتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں، لیکن سلسلہ اسناد کو باقی رکھنے اور تبرک کی خاطر اکابر میں یہ معمول چلا آتا ہے کہ وہ ان کتب حدیث کی اسناد بھی محفوظ رکھتے ہیں، یہ طریقہ زیادہ قابل اعتماد بھی ہے اور باعث برکت بھی۔ چنانچہ ہر دور کے مشائخ حدیث ان کتابوں کے مصنفین تک اپنے سلسلہ سند کو محفوظ بھی رکھتے ہیں اور ساتھ ہی اس بات کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان مصنفین تک واسطوں کی تعداد کم سے کم ہوتا کہ اپنی سند زیادہ سے زیادہ عالی ہو سکے، پھر بڑے مشائخ کے یہاں یہ بھی معلوم رہا ہے کہ وہ مصنفین کتب حدیث تک اپنی اسناد کے متعدد طرق کو ایک رسالہ کی صورت میں مرتب کر دیتے ہیں، جسے اصطلاح میں ”ثبت“ کہا جاتا ہے۔ پھر اختصار کی خاطر شیخ تلمیذ کو صرف مثبت کی اجازت دے دے، تو تمام کتب حدیث کی اجازت حاصل ہو جاتی ہے۔ ہمارے زمانہ میں صحاح ستہ کے مؤلفین تک ہماری سندوں کا مدار حضرت شاہ عبدالغنی صاحب مجددیؒ پر ہے، اور انہوں نے مصنفین کتب حدیث تک اپنی اسناد کے تمام طرق ایک رسالہ میں جمع کر دیئے ہیں جو ”الیانح الجنی“ کے نام سے چھپا ہوا ہے۔ پھر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ میں تمام اکابر دیوبند کی اسناد حضرت شاہ عبدالغنیؒ تک پہنچا کر جمع کر دی ہیں۔ جن کا نام ”الازدیاد السننی علی الیانح الجنی“ ہے، جو مکتبہ دارالعلوم کراچی سے چھپ چکا ہے۔

### ہماری اسانید:

احقر کو جامع ترمذی اور دوسری کتب حدیث کی اجازت کئی شیوخ سے حاصل ہے۔ ان طرق کا بالآخر مدار حضرت شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے آگے کی سند خود کتاب میں موجود ہے، اس لئے صرف حضرت شاہ اسحاق صاحب تک اپنی سند کے چند طریقے درج ذیل ہیں:-

۱۔ احقر کا سب سے عالی طریق یہ ہے: اجازت فی الشیخ محمد حسن محمد المشاط بالاجازة العامة

(۱) ذکر صاحب کشف الظنون ثلاث مختصرات الجامع الترمذی منها مختصر الجامع نجم الدین محمد بن عقیل الباسی الشافعی المتوفی ۷۲۹ھ و منها مختصر نجم الدین سلیمان بن عبدالقوی الطوفی الحنبلی المستوفی ۱۰۷۰ھ و منها حدیث منتقاة منہ عوالی للحافظ صلاح الدین خلیل بن کیکلائی العلائی، و ذکر السیوطی فی التدریب انه لایختص المستخرج بالصحیحین فقد استخرج محمد بن عبدالملک بن ایمن علی سنن ابی داؤد ابو علی الطوسی علی الترمذی ۲ (مقدمہ تحفۃ الاحوذی، ص ۱۹۰)

عن السيد محمد بن جعفر القطنی عن الاستاذ ابی العباس احمد بن احمد البنانی الفاسی والشیخ ابو جیدة ابن الکبیر بن المجذوب الفاسی الفهروی والشیخ حبیب الرحمن الکاظمی الہندی نزیل المدینة المنورة والشیخ عبدالحق بن الشاہ محمد الہندی نزیل مکة والشیخ ابی الحسن علی بن ظاہر الوتری کلہم یروون عن الشیخ عبدالغنی المجددی الدہلوی صاحب البیان الجنی۔ سند سے ظاہر ہے کہ شیخ محمد حسن المشاط الماکی مدظلہ حضرت شاہ عبدالغنی کے صرف دو واسطوں سے شاگرد ہیں۔ احقر نے باقی کتب حدیث کی اجازت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے حرم مکہ میں سنن نسائی کا کچھ حصہ درساً پڑھا، شیخ مشاط کی اسناد ان کے مطبوعہ ”ثبت“ الارشاد الی معرفۃ الثبت میں موجود ہیں۔

۲۔ احقر نے جامع ترمذی درساً حضرت مولانا سلیم اللہ صاحب مدظلہم سے پڑھی، اور انہوں نے حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی سے اور انہوں نے حضرت شیخ الہند سے اور ان کو عام کتب حدیث کی اجازت حضرت شاہ عبدالغنی مجددی سے براہ راست بھی حاصل ہے اور حضرت مولانا گنگوہی اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کے واسطے سے بھی، نیز حضرت شیخ الہند کو حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری، حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی اور حضرت مولانا قاری عبدالرحمن رحمہم اللہ سے بھی اجازت ہے۔ اور یہ تینوں حضرت شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں۔

۳۔ میں نے شاکل ترمذی، موطا امام مالک کا کچھ حصہ قرآن اور باقی کتب حدیث اجازت اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہم اللہ سے حاصل کیں اور انہوں نے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری سے جامع ترمذی اور شاکل ترمذی کا درس لیا اور وہ حضرت شیخ الہند کے شاگرد ہیں، نیز حضرت شاہ صاحب کو علامہ حسین الجسر الطرابلسی مصنف ”حصون حمیدیہ“ سے بھی اجازت حاصل ہے اور امام ابو جعفر الطحاوی تک ان کی سند ان کے ”ثبت“ میں موجود ہے۔

۴۔ احقر کو تمام کتب کی اجازت عامہ حضرت مولانا محمد ظفر احمد صاحب عثمانی سے براہ راست بھی حاصل ہے، جن کی اسناد ان کے ”ثبت“ میں موجود ہیں۔

۵۔ احقر کو تمام کتب حدیث کی اجازت عامہ حلب کے علامہ شیخ عبدالفتاح ابو نعہ علی سے بھی حاصل ہے۔ وہ شام کے مشہور محدث شیخ الاسلام علامہ محمد زاہد الکوثری کے شاگرد ہیں۔ علامہ کوثری کی اسناد ان کے ”ثبت“ میں موجود ہیں۔

۶۔ احقر کو تمام کتب حدیث کی اجازت عامہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مدظلہم سے بھی حاصل ہے، جو مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری کے شاگرد ہیں۔

## حدیث مسلسل بالاولیۃ:

مقدمین کے یہاں یہ معمول تھا اور بلا دعوے یہی میں اب تک ہے کہ اساتذہ حدیث شاگرد کو حدیث کا درس شروع کراتے وقت سب سے پہلے ایک خاص حدیث پڑھاتے ہیں، جس کو ”حدیث مسلسل بالاولیۃ“ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ ہم سے لے کر امام زہری تک ہر شیخ نے یہ حدیث اپنے شاگرد کو سب سے پہلے پڑھائی ہے۔ اگرچہ یہ حدیث متعدد کتب میں موجود ہے اور ان کتب

کی اسناد کے ساتھ اس حدیث کی اسناد بھی وابستہ ہے۔ لیکن تبرکاً اس کو الگ سند متصل سے پڑھا جاتا ہے۔ یہ حدیث میں نے شیخ حسن المشاط مالکی مدظلہم سے حرم مکہ مکرمہ میں اولیت کے التزام کے ساتھ حاصل کی۔ چنانچہ تبرکاً میں بھی اپنے درس کا آغاز اسی حدیث سے کرتا ہوں۔

اس حدیث سے متعلق میری سندیہ ہے:

اخبرنی به الشيخ محمد حسن المشاط مالکی عن الشيخ حمدان وعن الشيخ محمد هاشم وغير واحد قال هو اول حديث سمعته منهم عن الشيخ محمد فالح المهنوي وهو اول قال المهنوي، انبأنا به السيد محمد علي انبأنا به ابو حفص العطار وهو اول، انا ابو الحسن علي بن عبد البر الوثاني الشافعي وهو اول، انا البرهان ابراهيم بن محمد التمروسي وهو اول، عن الامام عبيد بن علي النمروسي وهو اول عن الامام عبد الله بن سالم البصري وهو اول عن الشمس البابلي وهو اول عن الشهاب احمد بن محمد الشلوي وهو اول، انا الجمال يوسف بن زكريا وهو اول، انا البرهان ابراهيم القلقشندي وهو اول، انا العباس احمد بن محمد المقدسي الشهير بالواسطي وهو اول انا الخطيب صدر الدين محمد بن محمد الميدومي وهو اول، انا النجيب عبداللطيف بن عبدالمنعم الحراني وهو اول قال اخبرنا الحافظ ابو الفرج عبدالرحمن بن علي الجوزي وهو اول انا ابو سعيد اسماعيل بن ابي صالح وهو اول، انا والدي ابو صالح احمد بن عبد الملك المؤذن وهو اول، ثنا محمد بن زيان بن محمش وهو اول، انا ابو حامد احمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز وهو اول عن عبدالرحمن بن بشر وهو اول، انا سفيان بن عيينه وهو اول واليه انتهى التسلسل عن عمرو بن دينار بن ابي قاموس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء

اسی حدیث پاک پر ہم اس مقدمہ کو ختم کرتے ہیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين،

ضبطها ورتبها احقر تلامذه الشيخ ادام الله اقباله رشيد اشرف عفي عنه، ٧ من شعبان المعظم

٥١٣٩٨ يوم الجمعة المبارك۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## فہرست عنوانات ترمذی شریف جلد اول

صفحہ	ابواب و مضامین	صفحہ	ابواب و مضامین
۶۵	نیند سے بیداری کے وقت ہاتھ دھونے کا حکم		ابواب الطہارۃ
۶۵	مسئلہ: تفصیل مذہب حنفیہ	۵۷	کوئی نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں
۶۵	وضو کے وقت بسم اللہ پڑھنا	۵۷	وضو کی فضیلت
۶۶	مسئلہ: مذہب احناف	۵۸	طہارت نماز کی کجی ہے
۶۶	کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا حکم	۵۸	قضائے حاجت کے لئے جاتے ہوئے کی دعا
۶۷	مسئلہ: امام شافعی کا مسلک	۵۹	بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا
۶۷	داڑھی کے خلال کا حکم	۵۹	قضائے حاجت کے وقت قبلہ رخ ہونے کی ممانعت
۶۷	سر کے مسح کو آگے سے کرنے کا حکم	۵۹	قبلہ رو ہونے اور پشت کرنے کا جواز
۶۸	پچھے سے سر کا مسح کرنا	۶۰	مسئلہ: حنفیہ کا مذہب
۶۸	مسئلہ: مذہب احناف	۶۰	کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا جواز
۶۸	سر کا مسح ایک مرتبہ کرنا	۶۱	مسئلہ: بیان تعارض
۶۸	سر کے مسح کے لئے نیا پانی لینا	۶۱	قضائے حاجت کے وقت پردہ
۶۹	کانوں کا اندرونی و بیرونی مسح	۶۱	داہنے ہاتھ سے استنجاء مکروہ ہے
۶۹	دونوں کان سر کے حکم میں داخل ہیں	۶۲	پتھروں سے استنجاء کا بیان
۶۹	مسئلہ: مذہب احناف	۶۲	دو پتھروں سے استنجاء کرنا
۶۹	انگلیوں کے خلال کا حکم	۶۳	جن چیزوں سے استنجاء کرنا مکروہ ہے
۷۰	مسئلہ: مذہب احناف	۶۳	پانی سے استنجاء کرنا
۷۰	ہلاکت ہے ان ایزبوں کے لئے جو سوکھی رہ جائیں	۶۳	نبی کریم ﷺ کا قضائے حاجت کے لئے دور جانا
۷۰	وضو میں ایک ایک مرتبہ اعضاء کا دھونا	۶۴	عسل خانے میں پیشاب کرنا مکروہ ہے
۷۱	وضو میں دو دو مرتبہ اعضاء کا دھونا	۶۴	مسواک کا حکم

صفحہ	ابواب ومضامین	صفحہ	ابواب ومضامین
۸۳	پیشاب سے شدت سے احتیاط کا حکم	۷۱	وضو میں تین تین مرتبہ اعضاء کا دھونا
۸۳	بول غلام کا نضح کرنا	۷۲	اعضاء وضو ایک ایک، دو دو، تین تین مرتبہ دھونا
۸۳	مسئلہ: مسلک احناف	۷۲	بعض اعضاء دو مرتبہ، بعض تین مرتبہ دھونا
۷۴	”نضح“ اور ”رش“ کے معنی	۷۲	توضیح
۸۴	بول مایوکل کا بیان	۷۲	نبی کریم ﷺ کے وضو کے متعلق
۸۵	مسائل متعلقہ بالجہد یث	۷۳	وضو کے بعد پانی چھڑکنا
۸۵	مسئلہ: حرام چیز کا بطور رد و استعمال	۷۳	توضیح
۸۶	خروج ریح سے وضو کا ٹوٹنا اور اس سے متعلقہ مسائل	۷۴	تکمیل وضو کے بیان میں
۸۷	نیند سے وضو ٹوٹنے کا حکم	۷۴	وضو کے بعد رومال استعمال کرنا
۸۷	مذہب و مسائل متعلقہ بالجہد یث	۷۵	وہ دعائیں جو وضو کے بعد پڑھی جاتی ہیں
۸۸	آگ سے پکی ہوئی چیز کھا کر وضو کا حکم	۷۵	ایک مد سے وضو کرنا
۸۸	آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا	۷۵	وضو میں پانی زیادہ بہانا مکروہ ہے
۸۸	تفصیل و توضیح حدیث باب	۷۶	ہر نماز کے لئے وضو کرنا
۸۹	اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کا حکم	۷۶	مسئلہ: حضور ﷺ ایک وضو سے کتنی نمازیں پڑھتے تھے
۸۹	مسئلہ کی تفصیل	۷۷	مرد و عورت کا ایک برتن سے وضو کرنا
۸۹	مسین ڈ کر سے وضو ٹوٹنے کا بیان	۷۷	عورت کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کی کراہت
۸۹	مسین ڈ کر سے وضو نہ ٹوٹنے کا بیان	۷۸	عورت کے بچے ہوئے سے وضو کا جواز
۹۰	مسئلہ اور مسلک احناف کی توضیح	۷۸	پانی کسی چیز سے ناپاک نہیں ہوتا
۹۰	بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا	۷۹	پانی سے متعلق احکام
۹۰	حدیث عروہ اور مسلک احناف	۷۹	مسئلہ: مذہب احناف
۹۱	تے اور نکسیر سے وضو کا حکم	۸۰	دلائل حنفیہ
۹۲	نبیز سے وضو کا حکم اور اس کی توضیح	۸۰	توجیہ حدیث قلین
۹۳	دودھ کے بعد کلی کرنا	۸۲	رکے ہوئے پانی سے پیشاب کی کراہت
۹۳	بے وضو کو سلام کا جواب دینا مکروہ ہے	۸۲	سمندر کا پانی پاک ہے
۹۳	کتے کے جوٹھے کا حکم	۸۲	مسائل متعلقہ بالجہد یث
۹۳	مسئلہ: مذہب احناف	۸۳	مذہب احناف اور ان کے دلائل
۹۴	بلی کے جوٹھے کا حکم	۸۳	مسئلہ طانی کا مسئلہ

صفحہ	ابواب و مضامین	صفحہ	ابواب و مضامین
۱۰۵	مستحاضہ کے متعلق	۹۲	مسح علی الخفین کا حکم
۱۰۵	مستحاضہ ہر نماز کے لئے وضو کرے	۹۵	مسافر اور مقیم کے لئے مسح علی الخفین کا بیان
۱۰۶	مستحاضہ دو نمازیں ایک غسل سے پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟	۹۶	موزوں کے اوپر اور نیچے مسح کا بیان
۱۰۶	تحقیق مسئلہ ابواب اور حدیث حمنہ بنت جحش	۹۶	ظاہر خفین پر مسح کرنا
۱۰۷	مستحاضہ ہر نماز کے لئے غسل کرے	۹۷	جورین اور نعلین پر مسح کا بیان
۱۰۷	حائضہ کی نمازوں کی قضاء کا مسئلہ	۹۷	توضیح اور تشریح حدیث
۱۰۸	جنسی اور حائضہ تلاوت قرآن کر سکتے ہیں یا نہیں؟	۹۷	جورین اور عمامہ پر مسح کرنا
۱۰۸	حائضہ سے مباشرت کے متعلق	۹۸	حدیث بلال اور مذہب احناف
۱۰۹	جنسی اور حائضہ کے ساتھ کھانا اور ان کا جوٹھا	۹۸	غسل جنابت کا بیان
۱۰۹	حائضہ مسجد سے کچھ اٹھا سکتی ہے یا نہیں؟	۹۸	حدیث عائشہ اور غسل جنابت کا طریقہ
۱۰۹	حدیث باب میں امام ابوحنیفہ کا مسلک اور دین	۹۹	غسل کے وقت عورت کا چوٹی کھولنا
۱۰۹	حائضہ سے صحبت کی حرمت	۹۹	ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے
۱۱۰	حائضہ سے صحبت کا کفارہ	۹۹	غسل کے بعد وضو کا حکم
۱۱۰	کپڑے سے حیض کا خون دھونے کا بیان	۱۰۰	وجوب غسل بالقاء ختائین
۱۱۱	عورتوں کے نفاس کی مدت کا بیان	۱۰۰	وجوب غسل بخروج منی
۱۱۱	کئی بیویوں سے صحبت کے بعد ایک ہی غسل کرنا	۱۰۱	کسی نے اپنے کپڑوں پر تری دیکھی اور احتلام یا دنہ ہو
۱۱۲	دوبارہ صحبت سے قبل وضو کرنا		اس کا کیا حکم ہے؟
۱۱۲	اقامت صلوٰۃ کے وقت تقاضائے حاجت کی صورت میں	۱۰۱	منی اور ندی کے بیان میں
	کیا کرے؟	۱۰۱	ندی کا کپڑوں پر لگنے کا بیان
۱۱۲	مسئلہ الباب کی تحقیق	۱۰۱	ائمہ ثلاثہ اور جمہور کا مذہب
۱۱۲	گردراہ دھونے سے متعلق	۱۰۲	کپڑوں پر منی لگ جائے تو کیا حکم ہے؟
۱۱۳	تیمم کا بیان	۱۰۳	جنسی کا بغیر غسل کے سونا
۱۱۳	تیمم کا طریقہ اور توضیح و تشریح حدیث	۱۰۳	جنسی سوتے وقت وضو کر لے
۱۱۳	غیر جنسی کے لئے ہر حالت میں تلاوت قرآن جائز ہے	۱۰۳	جنسی سے مصافحہ کا بیان
۱۱۳	جس زمین پر پیشاب کیا گیا ہو اس کا حکم	۱۰۳	عورت اگر خواب میں مرد کو دیکھے تو کیا حکم ہے؟
		۱۰۳	غسل کے بعد عورت سے گرمی حاصل کرنا
		۱۰۳	پانی کی عدم موجودگی میں جنسی تیمم کرے

صفحہ	ابواب و مضامین	صفحہ	ابواب و مضامین
۱۲۶	جس شخص کی کئی نمازیں تضاہوں وہ کس نماز سے شروع کرے؟	۱۱۵	ابواب الصلوٰۃ
۱۲۷	نماز عصر کا وسطی ہونے کا بیان	۱۱۵	عن رسول اللہ ﷺ
۱۲۸	عصر اور فجر کے بعد نماز پڑھنا مکروہ ہے	۱۱۵	اوقات صلوٰۃ کا بیان
۱۲۸	عصر کے بعد نماز پڑھنے کا حکم	۱۱۶	اوقات صلوٰۃ سے متعلق تفصیل
۱۲۸	توضیح مذہب احناف	۱۱۸	فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھنے کا بیان
۱۲۹	قبل مغرب نماز کا حکم	۱۱۸	نماز فجر میں اسفار کرنے کا حکم
۱۲۹	مسئلہ: تفصیل مذاہب	۱۱۸	توضیح مسئلہ الباب
۱۲۹	جو شخص غروب آفتاب سے قبل عصر کی ایک رکعت پڑھ سکتا ہو اس کا حکم	۱۱۸	تجلیل ظہر کا مسئلہ
۱۳۰	جمع بیان الصلوٰۃ تین کا حکم	۱۱۹	مسئلہ مذہب احناف اور ان کی دلیل
۱۳۱	مسئلہ احناف در مسئلہ الباب	۱۱۹	گرمی کی شدت میں تاخیر ظہر کا بیان
۱۳۱	بدء الاذان کا بیان	۱۲۰	تجلیل عصر کا بیان
۱۳۲	ترجیح الاذان کا مسئلہ	۱۲۱	تاخیر عصر کا بیان
۱۳۳	اقامت ایک ایک مرتبہ کہنے کا بیان	۱۲۱	مذہب ائمہ در مسئلہ الباب
۱۳۳	اقامت دو مرتبہ کہنے کا بیان	۱۲۱	وقت مغرب کا بیان
۱۳۳	ترسیل اذان کا حکم	۱۲۲	عشاء کا وقت
۱۳۴	اذان کے دوران انگلی کان میں ڈالنے کا بیان	۱۲۲	عشاء کی نماز میں تاخیر کا حکم
۱۳۴	تھویب الاذان فی الفجر کا بیان	۱۲۲	قبل عشاء کراہت نوم اور بعد عشاء گفتگو کا بیان
۱۳۵	جو اذان کہے وہ تکبیر بھی کہے	۱۲۲	عشاء کے بعد قصہ گوئی کا جواز
۱۳۵	بلا وضو اذان دینا مکروہ ہے	۱۲۳	اول وقت کی فضیلت کا بیان
۱۳۶	اقامت کہلوانے کا حق امام کو ہے	۱۲۳	حدیث ابن عمرؓ
۱۳۶	اذان باللیل کا مسئلہ	۱۲۴	حدیث علی بن ابی طالب
۱۳۷	اذان کے بعد خروج عن المسجد کی کراہت	۱۲۴	حدیث ابن مسعودؓ
۱۳۷	سفر میں اذان کا بیان	۱۲۴	حضرت عائشہؓ ام المؤمنین اور توضیح حدیث
۱۳۷	فضیلت اذان کا بیان	۱۲۵	عصر کی نماز بھول جانے کا بیان
۱۳۸	امام مقتدیوں کا ضامن اور مؤذن امانتدار	۱۲۵	اگر حاکم نماز میں تاخیر کرے تو نماز میں جلدی کرنے کا حکم
۱۳۸	جب اذان ہو تو سامع کیا کہے؟	۱۲۵	بسبب نیند نماز نکل جانے کا حکم
		۱۲۶	نماز بھول جانے کا حکم

صفحہ	ابواب ومضامین	صفحہ	ابواب ومضامین
۱۵۱	بسم اللہ کو زور سے نہ پڑھنا	۱۳۸	اجرت اذان کی کراہت
۱۵۳	تسمیہ کو جہر اپڑھنا	۱۳۹	سامع اذان کے لئے مسنون دعا
۱۵۳	افتتاح قرأت فاتحہ سے کرنا	۱۳۹	دعا سے متعلق دوسرا باب
۱۵۳	بدون فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی	۱۴۰	اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی
۱۵۳	آمین کا بیان	۱۴۰	فرض نمازوں کی تعداد کا مسئلہ
۱۵۳	تحقیق مسئلہ ”آمین باجہر“ اور مذاہب ائمہ	۱۴۰	نماز پنجگانہ کی فضیلت کا بیان
۱۵۴	آمین کہنے کی فضیلت	۱۴۱	جماعت کی فضیلت کا بیان
۱۵۵	نماز میں دو مرتبہ کہہ سکتے کا بیان	۱۴۱	جو شخص اذان سے اور نماز میں نہ پہنچے
۱۵۵	نماز میں دایاں ہاتھ بائیں پر رکھنے کا بیان	۱۴۲	جو شخص تنہا نماز پڑھے اور پھر جماعت پائے تو کیا حکم ہے؟
۱۵۶	تکبیر عند الرکوع والسجود	۱۴۲	جماعت ثانیہ کا مسئلہ
۱۵۶	رفع یدین رکوع سے اٹھتے وقت	۱۴۳	عشاء اور فجر کی جماعت کی فضیلت
۱۵۷	تحقیق مسئلہ رفع الیدین	۱۴۳	صف اول کی فضیلت
۱۵۷	مذاہب ائمہ اور ان کے دلائل	۱۴۴	صفیں سیدھی کرنے سے متعلق
۱۵۷	مذاہب احناف اور ان کے دلائل	۱۴۴	حضور ﷺ کا ارشاد گرامی، توضیح
۱۵۷	مذاہب احناف اور ان کے دلائل کے جوابات	۱۴۵	ستونوں کے درمیان صف بنانا
۱۵۷	وجوہات ترجیح عدم رفع یدین	۱۴۵	صف کے پیچھے اکیلے کھڑا ہونا
۱۵۸	رکوع میں ہاتھوں کا گھٹنوں پر رکھنا	۱۴۵	مسئلہ الباب کی تحقیق اور مذاہب احناف
۱۵۸	حالات رکوع میں ہاتھوں کا پسلیوں سے دور رکھنا	۱۴۵	دو افراد کی جماعت کا مسئلہ
۱۵۹	تسبیح رکوع و سجود کا بیان	۱۴۶	اس شخص کی نماز کا بیان جس کے ساتھ صرف دو افراد ہوں
۱۵۹	رکوع و سجود میں امتناع قرأت	۱۴۷	مردوں اور عورتوں کی جماعت
۱۶۰	رکوع اور سجود میں کمر سیدھی نہ کرنے کا بیان	۱۴۸	مستحق امامت کا بیان
۱۶۰	رکوع سے اٹھتے وقت کی دعا	۱۴۸	امام کے لئے تخفیف قرأت کا حکم
۱۶۱	متعلق مسئلہ بالا	۱۴۹	توضیح و تشریح حدیث
۱۶۱	سجدے میں گھٹنے ہاتھوں سے پہلے رکھے جائیں	۱۴۹	نماز کی تحریک و تحلیل کا حکم
۱۶۲	متعلق مسئلہ بالا	۱۵۰	تکبیر کے وقت انگلیاں کھلی رکھنا
۱۶۲	سجدہ پیشانی اور ناک پر ہوتا ہے	۱۵۰	تکبیر اولیٰ کی فضیلت
۱۶۲	دوران سجدہ چہرہ کہاں رکھا جائے؟	۱۵۱	افتتاح صلوٰۃ کے متعلق دعا

صفحہ	ابواب ومضامین	صفحہ	ابواب ومضامین
۱۷۶	عشاء میں قرأت کا بیان	۱۶۳	تہجد میں اعضا پر ہوتا ہے
۱۷۷	قرأت خلف الامام کا مسئلہ	۱۶۳	تہجد میں اعضا کو الگ الگ رکھنا
۱۷۷	جبری نمازوں میں ترک قرأت خلف الامام	۱۶۳	استدلال فی التہجد کا بیان
۱۷۹	تحقیق مسئلہ اور مذاہب ائمہ	۱۶۴	ہند میں دونوں ہاتھ زمین پر رکھنا اور پاؤں کھڑے رکھنا
۱۷۹	مذہب امام ابوحنیفہ اور ان کے دلائل	۱۶۵	روزہ ہفت روزہ سے اٹھتے وقت کمر سیدھی کرنا
۱۷۹	استدلال شواہح کا جواب	۱۶۵	تقدیم علی الامام فی الركوع والسجود مکروہ ہے
۱۸۰	مسجد میں داخل ہونے کی دعا	۱۶۵	تہجد میں کس کے درمیان اقامہ مکروہ ہے
۱۸۱	تحمیۃ المسجد کا بیان	۱۶۶	اقامہ کی اجازت کا بیان
۱۸۱	مقابر اور حجام کے علاوہ کل زمین کا مسجد ہونا	۱۶۶	تہجد تہجد کے درمیان کی دعا
۱۸۲	مسجد بنانے کی فضیلت	۱۶۷	تہجد میں سہارا لینا
۱۸۲	قبر کے قریب مسجد بنانے کی کراہت	۱۶۷	تہجد سے کیسے اٹھا جائے؟
۱۸۲	مسجد میں سونا	۱۶۷	تہجد میں مسئلہ بالا
۱۸۳	مسجد میں خرید و فروخت، شعر گوئی وغیرہ کا حکم	۱۶۷	تہجد کا بیان
۱۸۳	وہ مسجد تقویٰ جس کی بنیاد ہے	۱۶۸	استحباب مسئلہ بالا
۱۸۳	مسجد قبائلی نماز کی فضیلت	۱۶۸	تہجد خفیہ پڑھنا
۱۸۴	مساجد کے درمیان فضیلت	۱۶۹	تہجد میں بیٹھنے کا طریقہ
۱۸۴	منشی الی المسجد کا بیان	۱۶۹	تہجد میں مسئلہ بالا
۱۸۵	انتظار صلوة میں مسجد میں بیٹھنے کی فضیلت	۱۶۹	تہجد میں اشارہ کرنا
۱۸۵	چٹائی پر نماز پڑھنا	۱۷۰	نماز میں سلام پھیرنا
۱۸۶	الصلوة علی الحصیر	۱۷۰	تہجد میں مسئلہ بالا
۱۸۶	بساط پر نماز پڑھنا	۱۷۱	تہجد میں سلام کا مسئلہ
۱۸۶	بانگوں میں نماز کا بیان	۱۷۱	سلام کے بعد کی دعا
۱۸۷	نمازی کے سترہ کا بیان	۱۷۲	نماز کے بعد امام کا دونوں جانب گھومنا
۱۸۷	نمازی کے آگے سے گزرنے کا بیان	۱۷۲	صلوات صلوة کا ان
۱۸۷	نماز کسی چیز کے گزرنے سے نہیں ٹوٹی	۱۷۵	تہجد کی نماز میں قرأت کا بیان
۱۸۸	نماز مرد و کلب، حمار اور عورت کے علاوہ کسی سے نہیں ٹوٹی	۱۷۵	تہجد اور تہجد میں قرأت کا بیان
۱۸۸	ایک کپڑے میں نماز پڑھنا	۱۷۶	تہجد میں قرأت کرنا

صفحہ نمبر	ابواب و مضامین	صفحہ	ابواب و مضامین
۲۰۰	نماز میں کوکھ پر ہاتھ رکھنا	۱۸۹	قبلہ کی ابتداء کا بیان
۲۰۱	بالوں کو باندھ کر نماز پڑھنا	۱۸۹	مشرق و مغرب کے درمیان قبلہ
۲۰۲	نماز میں خشوع کا بیان	۱۹۰	اندھیرے میں بغیر استقبال قبلہ کے نماز پڑھنا
۲۰۳	پنجہ میں پنجوڑا نماز میں	۱۹۱	جس چیز میں یا جس کی طرف نماز پڑھنا مکروہ ہے اس کا بیان
۲۰۴	نماز میں دیر تک قیام کرنا	۱۹۱	بکریوں اور اونٹوں کے باڑے میں نماز کا حکم
۲۰۵	کثرت رکوع و سجود کا بیان	۱۹۱	سواری پر نماز پڑھنے کا بیان
۲۰۶	سانپ اور بچھو کا نماز میں قتل کرنا	۱۹۲	سواری کی طرف نماز پڑھنا
۲۰۷	قبلہ السلام سجدہ سہواہ کرنا	۱۹۲	اقامت صلوٰۃ کے وقت کھانا حاضر ہو تو کھانا پہلے کھایا جائے
۲۰۸	تفصیل مسئلہ اور اختلاف ائمہ	۱۹۳	اونگھتے ہوئے نماز پڑھنا
۲۰۹	سلام و کلام کے بعد سجدہ سہواہ کرنا	۱۹۳	جو کسی کی ملاقات کے لئے جائے تو ان کی امامت نہ کرے
۲۱۰	سجدہ سہواہ میں تشدید پڑھنا	۱۹۳	امام کا دعا کے لئے اپنے کو مخصوص کرنا
۲۱۱	نماز میں کمی یا زیادتی کا شائبہ ہونا	۱۹۴	خواہش مقتدیوں کے برخلاف امامت کرنا
۲۱۲	ظلم و عصر میں دو رکعتوں کے بعد سلام پھیرنے کا حکم	۱۹۵	اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھے
۲۱۳	مسئلہ بالا میں اختلاف ائمہ	۱۹۵	مسئلہ متعلق بالا
۲۱۴	جو تے یمن کر نماز پڑھنا	۱۹۶	دور کعتوں کے بعد امام کا بھول کر کھڑے ہونا
۲۱۵	فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا	۱۹۶	تفصیل مسئلہ بالا
۲۱۶	ترک قنوت کا بیان	۱۹۷	قعدہ اولیٰ کی مقدار کا بیان
۲۱۷	نماز میں چھینکنا	۱۹۷	نماز میں اشارہ کرنا
۲۱۸	نماز میں کلام (بات کرنا) منسوخ ہونا	۱۹۸	مردوں کے لئے تسبیح اور عورتوں کے لئے تصفیق
۲۱۹	صلوٰۃ التوبہ	۱۹۸	نماز میں جہائی لینے کی کراہت
۲۲۰	بچے کو نماز کا حکم کب دیا جائے؟	۱۹۸	بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ثواب کھڑے ہو کر پڑھنے سے آدھا ہے
۲۲۱	تشہد کے بعد اگر حدیث لاحق ہو جائے	۱۹۹	نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا
۲۲۲	بارش کے وقت گھروں میں نماز پڑھنا	۲۰۰	بچوں کا روانہ کر نماز میں تخفیف کرنا
۲۲۳	نماز کے بعد تسبیح کا بیان	۲۰۰	جوان لڑکی کی نماز بغیر چادر کے نہیں ہوتی
۲۲۴	بارش اور کچھڑ میں سواری پر نماز پڑھنا	۲۰۱	نماز میں سدل مکروہ ہے
۲۲۵	اجتہاد فی الصلوٰۃ کا بیان	۲۰۱	نماز میں کتکریاں ہٹانا
۲۲۶	قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا	۲۰۲	نماز میں پھونکنیں مارنا

صفحہ	ابواب و مضامین	صفحہ	ابواب و مضامین
۲۲۶	حدیث ابن عمرؓ	۲۱۶	دن رات میں بارہ رکعت سنت پڑھنے کی فضیلت
۲۲۶	ابواب الوتر	۲۱۶	فجر کی دو سنتوں کی فضیلت
۲۲۶	عن رسول اللہ ﷺ	۲۱۶	فجر کی سنتوں میں تخفیف اور قرأت کا بیان
۲۲۶	فضیلت وتر کا بیان	۲۱۶	فجر کی سنتوں کے بعد باتیں کرنا
۲۲۶	وتر کی عدم فرضیت کا بیان	۲۱۷	طلوع فجر کے بعد فجر کی سنتوں کے علاوہ کوئی نماز نہیں
۲۲۷	وتر پڑھے بغیر سونے کی کراہیت	۲۱۷	فجر کی سنتوں کے بعد لیٹنا
۲۲۸	وتر کارات کے شروع و آخر دونوں میں جواز	۲۱۷	جب جماعت کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں
۲۲۸	رکعات وتر کی تعداد، وتر کی سات رکعات	۲۱۸	مسئلہ کی توضیح و تشریح
۲۲۸	وتر کی پانچ رکعات کا بیان	۲۱۸	فجر کی سنتوں کی قضاء کا مسئلہ
۲۲۸	وتر میں تین رکعات کا بیان	۲۱۸	فجر کی سنتوں کی قضاء، طلوع آفتاب کے بعد
۲۲۹	تفصیل و تحقیق مسئلہ الباب	۲۱۹	ظہر سے پہلے کی چار سنتوں کا بیان
۲۲۹	مذہب ائمہ و مذہب احناف	۲۱۹	بعد ظہر دو رکعات پڑھنا
۲۲۹	وتر میں ایک رکعت کا بیان	۲۱۹	اسی سے متعلق دوسرا باب
۲۳۰	وتر میں قرأت قرآن کا بیان	۲۲۰	عصر سے قبل چار رکعات پڑھنا
۲۳۰	قنوت وتر کا بیان	۲۲۱	مغرب کے بعد کی سنتیں اور ان کی قرأت
۲۳۱	مسئلہ مذہب احناف	۲۲۱	مغرب کی سنتیں گھر پر پڑھنا
۲۳۱	جو شخص وتر پڑھے بغیر سو جائے یا بھول جائے	۲۲۲	مغرب کے بعد کی چھ رکعات (اواہین)
۲۳۲	مسئلہ مذہب ائمہ و وتر کی حیثیت کے بارے میں	۲۲۲	عشاء کے بعد دو رکعت سنت پڑھنا
۲۳۲	دلائل احناف رحمہم اللہ	۲۲۲	رات کی نماز (تہجد) دو دو رکعات ہیں
۲۳۲	صبح سے پہلے وتر پڑھنا	۲۲۳	تہجد کی فضیلت
۲۳۳	ایک رات میں دو وتر نہیں	۲۲۳	آنحضرت ﷺ کی صلوٰۃ اللیل کی صفت
۲۳۳	سواری پر وتر پڑھنا	۲۲۴	اسی سے متعلق دوسرا باب
۲۳۴	چاشت کی نماز کا بیان	۲۲۴	اسی سے متعلق تیسرا باب
۲۳۵	صلوٰۃ عند الزوال کا بیان	۲۲۴	ہرات آسمان دنیا پر باری تعالیٰ کا نزول
۲۳۶	صلوٰۃ الحاجت کا بیان	۲۲۵	رات کو تلاوت قرآن کریم کا بیان
۲۳۶	صلوٰۃ الاستخارہ و دعائے استخارہ	۲۲۶	نفل نماز گھر میں پڑھنے کی فضیلت

صفحہ	ابواب ومضامین	صفحہ	ابواب ومضامین
۲۵۰	منبر پر دعا کے لئے ہاتھ اٹھانا مکروہ ہے	۲۳۷	صلوٰۃ التیسح کا بیان
۲۵۰	جمعہ کی اذان	۲۳۸	تفصیل صلوٰۃ التیسح
۲۵۰	امام کے منبر سے اترنے کے بعد کلام کرنا	۲۳۸	نبی کریم ﷺ پر درود بھیجنے کا طریقہ
۲۵۱	جمعہ کی نماز میں قرأت	۲۳۹	فضیلت درود شریف
۲۵۱	جمعہ کے روز فجر کی نماز کی قرأت کا بیان	۲۳۹	اسی سلسلہ کی دوسری احادیث
۲۵۲	جمعہ سے پہلے اور بعد کی نماز	۲۴۰	ابواب الجمعة
۲۵۳	جو شخص جمعہ کی ایک رکعت پاسکے	۲۴۰	یوم الجمعہ کی فضیلت
۲۵۳	مسئلہ مذہب حنفیہ	۲۴۰	جمعہ کے دن قبولیت کی ساعت
۲۵۳	جمعہ کے دن قیلولہ	۲۴۱	ساعت قبولیت کے بارے میں دوسری روایات
۲۵۳	جمعہ کے دن اونگھنے والا شخص کیا کرے	۲۴۲	جمعہ کے دن غسل کا بیان
۲۵۳	جمعہ کے دن سفر کرنا	۲۴۲	جمعہ کے دن غسل کی فضیلت
۲۵۳	جمعہ کو سواک کرنا اور خوشبو لگانا	۲۴۲	جمعہ کے روز وضو کرنے کا بیان
۲۵۵	ابواب العیدین	۲۴۳	جمعہ کے لئے جلدی کرنا
۲۵۵	عیدین کے لئے پیدل جانا	۲۴۳	بغیر عذر کے ترک جمعہ کا بیان
۲۵۵	عیدین میں خطبے سے قبل نماز پڑھنا	۲۴۳	کتنی دور سے جمعہ میں شریک ہونا واجب ہے؟
۲۵۵	عیدین کی نماز میں اذان واقامت کا نہ ہونا	۲۴۵	تفصیل مسئلہ
۲۵۵	عیدین کی نماز میں قرأت	۲۴۵	وقت جمعہ کا بیان
۲۵۶	عیدین کی تکبیرات کا بیان	۲۴۵	منبر پر خطبہ پڑھنا
۲۵۷	تفصیل مسئلہ اور احناف کا مذہب	۲۴۶	دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنا
۲۵۷	عیدین سے قبل اور بعد کوئی نماز نہیں	۲۴۶	خطبہ مختصر پڑھنا
۲۵۷	عیدین کے لئے عورتوں کا نکلنا	۲۴۶	منبر پر قرآن پڑھنا
۲۵۸	عیدین کے لئے ایک راستہ سے جانا اور دوسرے سے واپسی	۲۴۷	خطبہ دیتے وقت امام کی طرف چہرہ رکھنا
۲۵۸	نماز عید الفطر سے قبل کچھ کھانا	۲۴۸	امام کے خطبہ کے دوران آنے والا شخص دو رکعت پڑھے
۲۵۹	ابواب السفر	۲۴۸	دوران خطبہ بات چیت کی کراہیت
۲۵۹	سفر میں قصر نماز پڑھنا	۲۴۹	تفصیل اور مسئلۃ الباب و مذہب ائمہ
۲۶۰	اس بارے میں دوسری احادیث	۲۴۹	جمعہ کے دن لوگوں کو پھلانگ کر آگے جانا
		۲۴۹	دوران خطبہ احتیاء مکروہ ہے

صفحہ	ابواب ومضامین	صفحہ	ابواب ومضامین
۲۷۵	دن رات کی نماز دو دو رکعت ہے	۲۶۰	مدت قصر کا بیان
۲۷۵	آنحضرت ﷺ دن میں کس طرح نوافل پڑھتے تھے؟	۲۶۱	سفر میں نوافل پڑھنا
۲۷۶	عورتوں کی چادروں میں نماز پڑھنا	۲۶۲	جمع بین الصلاتین فی السفر
۲۷۶	نفل نمازوں میں چلنا اور عمل کا بیان	۲۶۳	نماز استسقاء کا بیان
۲۷۷	ایک رکعت میں دو سورتیں پڑھنا	۲۶۴	صلوٰۃ الکسوف کا بیان
۲۷۷	مسجد کی طرف چلنا اور قدم اٹھانے کی فضیلت	۲۶۵	نماز کسوف میں قرأت کی کیفیت کا بیان
۲۷۷	مغرب کے بعد گھر میں نماز پڑھنا	۲۶۵	صلوٰۃ الخوف کا بیان
۲۷۸	اسلام قبول کرتے وقت غسل کرنا	۲۶۶	تفصیل صلوٰۃ الخوف
۲۷۸	بیت الخلاء جاتے وقت بسم اللہ کہنا	۲۶۷	تجوید القرآن کا بیان
۲۷۹	قیامت کے دن وضو اور سجدوں کی وجہ سے اس امت کی نشانی	۲۶۷	عورتوں کا مسجد جانا
۲۷۹	وضو میں ابتداء بالیمن کرنا	۲۶۸	مسجد میں تھوکنے کی کراہت
۲۷۹	وضو کے لئے کتنا پانی کافی ہے؟	۲۶۸	سورۃ الشقاق و سورۃ علق کا سجدہ
۲۷۹	دودھ پیتے بچہ کے پیشاب پر پانی بہانا	۲۶۹	سورۃ نجم کا سجدہ
۲۸۰	جنسی کے لئے بعد وضو کھانے اور سونے کی اجازت	۲۶۹	سورۃ نجم میں سجدہ نہ کرنا
۲۸۰	نماز کی فضیلت	۲۷۰	سورۃ "ص" کا سجدہ
۲۸۱	نماز کی فضیلت کے بارے میں دوسرا باب	۲۷۰	سورۃ "حج" میں سجدہ
۲۸۱	ابواب الزکاة	۲۷۰	سجدہ تلاوت میں کیا پڑھے؟
۲۸۱	عن رسول اللہ ﷺ	۲۷۱	جس کا وظیفہ رات کو چھوٹ جائے اسی دن میں مکمل کرے
۲۸۱	زکوٰۃ نہ دینے پر آنحضرت ﷺ سے منقول وعید	۲۷۱	فرض نماز ادا کرنے کے بعد لوگوں کی امامت کرنا
۲۸۲	زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد واجب ادا ہو گیا	۲۷۲	گرمی یا سردی کی وجہ سے کپڑے پر سجدہ کرنا
۲۸۳	سونے اور چاندی کی زکوٰۃ	۲۷۲	رکوع وجود میں امام سے پہلے اٹھنے کی ممانعت
۲۸۳	اونٹ اور بکریوں کی زکوٰۃ	۲۷۲	فجر کی نماز سے طلوع شمس تک مسجد میں بیٹھنا
۲۸۳	گائے، بیل کی زکوٰۃ کا بیان	۲۷۳	نماز میں کن آنکھوں سے دیکھنا
۲۸۵	زکوٰۃ میں بہترین مال لینے کی کراہت	۲۷۳	اگر امام کو سجدہ میں پائے تو کیا کرے
۲۸۵	بھکتی، پھلوں اور غلے کی زکوٰۃ	۲۷۴	نماز کے وقت لوگوں کا کھڑے ہو کر امام کا انتظار کرنا
۲۸۶	گھوڑوں اور غلاموں پر زکوٰۃ نہیں	۲۷۴	دعا سے قبل اللہ کی حمد و ثناء اور درود علی النبی ﷺ
۲۸۶		۲۷۵	مسجدوں میں خوشبو کرنے کا بیان

صفحہ	ابواب ومضامین	صفحہ	ابواب ومضامین
۳۰۰	بیوی کا شوہر کے مال میں سے خرچ کرنا	۲۸۷	شہد کی زکوٰۃ
۳۰۱	صدقۃ الفطر کا بیان		مال مستفاد پر جب تک سال نہ گزر جائے اس وقت تک
۳۰۲	صدقۃ الفطر نماز سے قبل ادا کرنا	۲۸۷	زکوٰۃ نہیں
۳۰۲	وقت سے قبل زکوٰۃ ادا کرنا	۲۸۸	مسلمانوں پر جزیہ نہیں
۳۰۳	حدیث علی بن ابی طالب	۲۸۸	زیورات کی زکوٰۃ کا بیان
۳۰۳	تفصیل مسئلۃ الباب	۲۸۹	سبزیوں کی زکوٰۃ کا بیان
۳۰۳	روایت ابو ہریرہ	۲۸۹	نہری زمین کی کھیتی کی زکوٰۃ
۳۰۳	روایت سمرہ بن جندب	۲۹۰	یتیم کے مال کی زکوٰۃ
۳۰۴	ابواب الصوم	۲۹۰	حیوان کے زخمی کرنے کی دیت کا بیان، دفن شدہ خزانہ کا حکم
۳۰۴	ماہ رمضان المبارک کی فضیلت	۲۹۱	غلے وغیرہ میں اندازہ کرنا
۳۰۴	استقیال رمضان کے لئے روزہ نہ رکھنا	۲۹۱	عالمین زکوٰۃ کی فضیلت
۳۰۵	یوم الشک میں روزہ رکھنا	۲۹۲	زکوٰۃ وصول کرنے میں زیادتی کرنے والے پر وعید
۳۰۵	رمضان کے لئے شعبان کے چاند کا خیال رکھنا	۲۹۲	عالمین زکوٰۃ کو خوش کرنا
۳۰۶	روزہ رکھنا اور چھوڑنا چاند دیکھنے پر موقوف ہے	۲۹۲	مصارف زکوٰۃ، مالداروں سے لے کر فقراء میں تقسیم کرنا
۳۰۶	مہینہ اتیس (۲۹) کا بھی ہونا	۲۹۳	جس کے لئے زکوٰۃ لینا جائز ہے
۳۰۶	شہادت روایت ہلال پر روزہ رکھنا	۲۹۴	غیر مستحقین زکوٰۃ، جن کے لئے زکوٰۃ جائز نہیں
۳۰۷	عید کے دنوں میں ایک ساتھ نہیں گھنٹے	۲۹۴	مقروض وغیرہ کا زکوٰۃ لینا
۳۰۷	ہر شہر کے لئے انہی کی روایت معتبر ہے	۲۹۵	اہل بیت رسول (ﷺ) اور ان کے غلاموں کا زکوٰۃ لینا
۳۰۸	کس چیز سے روزہ افطار کرنا مستحب ہے	۲۹۵	عزیز واقرباء کو زکوٰۃ دینا
۳۰۹	عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن	۲۹۶	مال میں زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے حقوق
۳۰۹	افطار دن کے اختتام اور شب کے شروع میں کیا جائے	۲۹۷	ادائیگی زکوٰۃ کی فضیلت
۳۰۹	تعلیل افطار کا بیان	۲۹۷	قول "یاخذھا بیمنہ" میں علماء کے اقوال
۳۱۰	سحری میں تاخیر کرنا	۲۹۸	سائل کے حق کا بیان
۳۱۱	صح صادق کی تحقیق	۲۹۸	مؤلفہ قلوب کو دینا
۳۱۲	سفر کے دوران روزہ رکھنے کی کراہیت	۲۹۹	زکوٰۃ میں دیا ہوا مال اگر وراثت میں ملے تو اس کا حکم
۳۱۲	سفر کے دوران روزہ رکھنے کی اجازت	۲۹۹	صدقہ کرنے کے بعد واپس لینا
		۳۰۰	میت کی طرف سے صدقہ کرنا

صفحہ	ابواب ومضامین	صفحہ	ابواب ومضامین
۳۲۵	توضیح مسئلہ الباب	۳۱۳	حمارین کے لئے روزہ نہ رکھنے کی اجازت
۳۲۵	یوم عرفہ میں روزہ کی فضیلت	۳۱۳	حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو افطار کی اجازت
۳۲۵	توضیح مسئلہ الباب	۳۱۴	میت کی طرف سے روزہ رکھنا
۳۲۵	عرفات میں یوم العرفہ کا روزہ رکھنا مکروہ ہے	۳۱۵	روزے نہ رکھنے کا کفارہ
۳۲۶	عاشورہ محرم کے روزہ کے لئے ترغیب	۳۱۵	روزہ میں قے ہو جانا
۳۲۷	توضیح مسئلہ الباب	۳۱۵	روزہ میں عمد اُتے کرنا
۳۲۷	عاشورہ کا روزہ ترک کرنے کی اجازت	۳۱۶	حالت صوم میں بھول کر کھانا پینا
۳۲۷	یوم عاشورہ کی تعیین کا بیان	۳۱۶	قصد آروزہ توڑنا
۳۲۷	عشرہ ذی الحجہ میں روزے رکھنا	۳۱۶	رمضان میں روزہ توڑنے کا کفارہ
۳۲۸	عشرہ ذی الحجہ میں اعمال صالحہ کی فضیلت	۳۱۷	روزہ کی حالت میں مسواک کرنا
۳۲۹	شوال کے چھ روزوں کا بیان	۳۱۷	روزہ میں سرمہ لگانا
۳۲۹	ہر ماہ تین روزے رکھنا	۳۱۸	روزہ میں بوسہ لینا
۳۲۹	فضیلت صوم کا بیان	۳۱۸	حالت صوم میں بوس و کنار کرنا
۳۳۱	صوم الدہر (ہمیشہ روزہ رکھنا) کا بیان	۳۱۸	روزہ کی رات سے نیت کرنا
۳۳۱	پے در پے روزے رکھنا	۳۱۹	نفل روزہ توڑنا
۳۳۲	عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روزہ کی ممانعت	۳۲۰	نفل روزہ توڑ کر اس کی قضاء واجب ہے
۳۳۳	ایام تشریق میں روزہ رکھنا	۳۲۱	شعبان اور رمضان کے روزے ملانا
۳۳۳	صائم کے لئے حجامت (چھینے) لگوانا	۳۲۱	تعظیم رمضان کے لئے شعبان کے آخری پندرہ دنوں
۳۳۳	تفصیل مسئلہ الباب اور مذاہب ائمہ		میں روزہ رکھنے کی کراہیت
۳۳۴	حالت صوم میں چھینے لگانے کی اجازت کا بیان	۳۲۲	توضیح وتفصیل مسئلہ
۳۳۴	صوم وصال کی کراہیت	۳۲۲	شب برأت کا بیان
۳۳۵	صبح تک حالت جنابت میں رہتے ہوئے روزہ کی نیت کرنا	۳۲۲	عاشورہ محرم کا روزہ
۳۳۵	بغیر اجازت شوہر کے بیوی کا نفل روزے رکھنا	۳۲۳	جمعہ کے دن روزہ رکھنا
۳۳۵	روزہ دار کا دعوت قبول کرنا	۳۲۳	صرف یوم الجمعہ کا روزہ رکھنا
۳۳۶	قضاء رمضان کی تاخیر کا بیان	۳۲۴	ہفتہ کے دن روزہ رکھنا
۳۳۶	روزہ دار کے سامنے کھانے پر صائم کی فضیلت	۳۲۴	پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا
		۳۲۵	بدھ اور جمعرات کو روزہ رکھنا

صفحہ	ابواب ومضامین	صفحہ	ابواب ومضامین
۳۳۷	نبی کریم ﷺ نے کتنے حج کئے؟	۳۳۷	حائضہ روزوں کی قضاء کرے، نماز کی نہیں
۳۳۷	آنحضرت ﷺ کے عمروں کی تفصیل	۳۳۷	صائم کے لئے ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا
۳۳۸	آنحضرت ﷺ کے احرام باندھنے کی جگہ	۳۳۷	مہمان کے لئے بدون اجازت میزبان کے روزہ رکھنا
۳۳۸	آپ ﷺ نے احرام کب باندھا؟	۳۳۸	اعتکاف کا بیان
۳۳۹	حج افراد کا بیان	۳۳۸	شب قدر کا بیان
۳۳۹	توضیح زواہت اور حج کی تین قسمیں	۳۳۸	شب قدر سے متعلق دوسری روایات
۳۳۹	جمع بین الحج والعمرة کا بیان (قرآن)	۳۳۹	سردیوں کے روزوں کا بیان
۳۳۹	توضیح مسئلہ الباب اور افضل قسم کی تعیین	۳۳۹	اہل طاقت کے لئے روزہ رکھنا
۳۵۰	تمتع کا بیان	۳۳۹	رمضان میں کھانا کھا کر سفر کرنا
۳۵۱	حدیث الباب کی احناف کی طرف سے توضیح	۳۴۱	روزہ دار کو تھک دینا
۳۵۱	تلبیہ پڑھنے کا بیان	۳۴۱	عید الفطر اور عید الاضحیٰ کب ہوتی ہے؟
۳۵۱	تلبیہ اور قربانی کی فضیلت	۳۴۱	اعتکاف میں بیٹھنے کی نیت ہو اور دن گذر جائیں
۳۵۲	تلبیہ پآواز بلند پڑھنا	۳۴۲	تفصیل مسئلہ الباب اور اقوال ائمہ
۳۵۳	احرام باندھتے وقت غسل کرنا	۳۴۲	مختلف کا اپنی ضرورت کے لئے مسجد سے نکلنا
۳۵۳	آفاقی کے لئے میقات کا بیان	۳۴۲	تشریح حدیث باب
۳۵۳	محرم کے لئے جو چیزیں پہننا ناجائز ہیں	۳۴۳	رمضان کی راتوں میں قیام کرنا
۳۵۴	لنگی اور جوتوں کی عدم موجودگی میں شلوار اور موزوں کا استعمال کرنا	۳۴۳	روزہ دار کو افطار کرانے کی فضیلت
۳۵۴	قیص یا جبہ پہن کر احرام باندھنا	۳۴۴	رمضان میں قیام شب کی ترغیب اور فضیلت
۳۵۴	ان جانوروں کا بیان جن کا مارنا محرم کے لئے جائز ہے	۳۴۴	روایت حضرت ابو ہریرہؓ
۳۵۵	حالت احرام میں چھپنے لگوانا	۳۴۴	ابواب الحج
۳۵۵	حالت احرام میں نکاح کی کراہیت	۳۴۴	حرمت مکہ مکرمہ کا بیان
۳۵۶	محرم کے لئے نکاح کی اجازت کا بیان	۳۴۴	حدیث باب اور اس کی ضروری توضیح
۳۵۷	محرم کا شکار کا گوشت کھانا	۳۴۵	حج اور عمرہ کا ثواب
۳۵۷	حالت احرام میں شکار کا گوشت کھانے کی کراہت	۳۴۶	ترک حج پر وعید
۳۵۸	محرم کے لئے سمندری جانوروں کا شکار کرنا	۳۴۶	”زاد“ اور ”راحلہ“ کی ملکیت سے حج کا فرض ہونا
۳۵۸	محرم کے لئے بچو کھانا	۳۴۶	کتنے حج فرض ہیں؟

صفحہ	ابواب ومضامین	صفحہ	ابواب ومضامین
۳۶۹	مسئلہ و تشریح حدیث الباب	۳۵۹	دخول مکہ مکرمہ کے لئے غسل کرنا
۳۷۰	عرفات سے واپسی کا بیان	۳۵۹	آنحضرت ﷺ مکہ مکرمہ میں بلندی کی طرف سے داخل اور پستی کی طرف سے نکلے
۳۷۰	جو شخص مزدلفہ میں امام کے ساتھ شریک ہو جائے اس کا حج ہو گیا	۳۵۹	نبی کریم ﷺ مکہ میں دن کے وقت داخل ہوئے
۳۷۲	ضعیف لوگوں کو مزدلفہ سے جلدی روانہ کرنا	۳۵۹	بیت اللہ پر نظر پڑتے ہاتھ اٹھانے کی کراہت
۳۷۲	باب بلا عنوان	۳۶۰	کیفیت طواف کا بیان
۳۷۲	مزدلفہ سے طلوع آفتاب سے قبل نکلنا	۳۶۰	حجر اسود سے رمل شروع اور اس پر ختم کرنا
۳۷۳	چھوٹی کنکریاں مارنا	۳۶۰	حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ کسی چیز کو بوسہ دینا
۳۷۳	زوال آفتاب کے بعد کنکریاں مارنا	۳۶۱	آنحضرت ﷺ نے اضطباع کی حالت میں طواف کیا
۳۷۳	سوار ہو کر کنکریاں مارنا	۳۶۱	حجر اسود کو بوسہ دینا
۳۷۴	ری کیسے کی جائے؟	۳۶۱	سعی صفا سے شروع کرنا
۳۷۵	ری کے وقت لوگوں کو دھکیلنے کی کراہت	۳۶۲	صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا
۳۷۵	اونٹ اور گائے میں شراکت کا بیان	۳۶۲	سواری پر طواف کرنا
۳۷۶	قربانی کے اونٹ کا اشعار کرنا	۳۶۳	فضیلت طواف کا بیان
۳۷۶	مسئلہ اور مذہب احناف اور حدیث باب	۳۶۳	عصر اور فجر کے بعد دو گانہ طواف ادا کرنا
۳۷۶	باب بلا عنوان	۳۶۴	دو گانہ طواف میں قرأت کا بیان
۳۷۷	مقیم کا ہدی کی تقلید کرنا	۳۶۴	بنگلے ہو کر طواف کرنا حرام ہے
۳۷۷	بکریوں کی تقلید (قلاوہ ڈالنا)	۳۶۴	کعبہ کے اندر جانے کا بیان
۳۷۷	قریب المرگ ہدی کا حکم	۳۶۴	بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا
۳۷۸	قربانی کے اونٹ پر سواری کا حکم	۳۶۵	خانہ کعبہ کو توڑنا
۳۷۸	حلق کے وقت سر کے کس جانب سے ابتداء کریں	۳۶۵	حطیم میں نماز پڑھنا
۳۷۸	”حلق“ اور ”قصر“ کا بیان	۳۶۵	مقام ابراہیم، حجر اسود اور رکن یمانی کی فضیلت
۳۷۹	عورت کے لئے حلق کا حرام ہونا	۳۶۶	منیٰ کی طرف جانا اور وہاں قیام کرنا
۳۷۹	قبل زح حلق کر لے یا قبل ری قربانی تو کیا حکم ہے؟	۳۶۶	منیٰ میں پہلے پہنچنے والا قیام کا زیادہ حقدار ہے
۳۷۹	احرام کھولنے کے بعد طواف زیارت سے قبل خوشبو کا استعمال	۳۶۷	منیٰ میں قصر نماز پڑھنا
۳۸۰	دوران حج ”تلبیہ“ کب ترک کیا جائے؟	۳۶۷	عرفات میں کھڑے ہونا اور دعا کرنا
۳۸۰	عمرہ میں تلبیہ کے ترک کا وقت	۳۶۸	عرفات پورا ٹھہرنے کی جگہ ہے

صفحہ	ابواب و مضامین	صفحہ	ابواب و مضامین
۳۹۱	چرواہوں کے لئے ایک دن کی رمی چھوڑنے کا بیان	۳۸۰	طواف زیارت رات کو کرنا
۳۹۲	باب بلا عنوان	۳۸۰	”ابطح“ کے مقام پر ٹھہرنا
۳۹۳	باب بلا عنوان	۳۸۱	جو شخص ”ابطح“ میں نزول کرے
۳۹۳	باب بلا عنوان	۳۸۱	”صسی“ (بیچے) کا حج
۳۹۳	باب بلا عنوان	۳۸۲	میت اور بوڑھی کی طرف سے حج بدل
۳۹۴	ابواب الجنائز	۳۸۳	مندرجہ بالا مسئلہ سے متعلق دوسرا باب
۳۹۴	بیماری پر اجر و ثواب کے متعلق	۳۸۳	وجوب عمرہ کا بیان
۳۹۴	عیادت مریض کا بیان	۳۸۳	متعلق مسئلہ بالا
۳۹۵	موت کی تمنا کرنے کی ممانعت	۳۸۴	عمرے کی فضیلت
۳۹۶	مریض کے لئے دعا و دم کرنا	۳۸۴	”تعمیم“ سے عمرہ کے لئے جانا
۳۹۶	وصیت کی ترغیب کے بیان میں	۳۸۴	”بھرانہ“ سے عمرہ کرنا
۳۹۶	”ملکٹ“ یا ”ربیع“ مال کی وصیت کرنا	۳۸۵	رجب میں عمرہ کرنا
۳۹۶	حالت نزع میں مریض کو تلقین اور اس کے لئے دعا کرنا	۳۸۵	ذی القعدہ میں عمرہ کی ادائیگی
۳۹۸	موت کی سختی کا بیان	۳۸۵	رمضان المبارک میں عمرہ کرنا
۳۹۸	باب بلا عنوان	۳۸۶	تلبیہ حج کے بعد معذور ہو جانے والے کا حکم
۳۹۹	باب بلا عنوان	۳۸۶	اشتراط فی الحج کا بیان
۳۹۹	کسی کی موت کی خبر سن کر اعلان کرنا	۳۸۶	متعلق مسئلہ بالا
۴۰۰	پہلے صدمہ کے وقت صبر کرنا	۳۸۷	طواف افاضہ کے بعد عورت کو حیض آنا
۴۰۰	میت کو بوسہ دینا	۳۸۷	حائضہ کے لئے دوران حج کے جائز افعال
۴۰۰	میت کو غسل دینا	۳۸۸	جو شخص حج اور عمرہ کے لئے جائے اس کو چاہئے کہ آخر
۴۰۱	میت کو مشک لگانا	۳۸۸	میں بیت اللہ سے ہو کر لوٹے
۴۰۱	میت کو نہلانے کے بعد خود غسل کرنا	۳۸۸	قارن ایک ہی طواف کرے
۴۰۲	کفن کس طرح دینا مستحب ہے؟	۳۸۹	مہاجر مناسب حج کی ادائیگی کے بعد مکہ مکرمہ میں کتنے
۴۰۲	باب بلا عنوان		دن رہے؟
۴۰۲	آنحضرت ﷺ کے کفن کا بیان	۳۸۹	حالت احرام میں وفات پانے والے کا بیان
۴۰۳	اہل میت کا کھانا پکانا	۳۹۰	محرم آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا ہو تو کیا کرے؟
		۳۹۰	حالت احرام میں سرمندانے کا حکم

صفحہ	ابواب ومضامین	صفحہ	ابواب ومضامین
۴۱۶	شہید کی نماز جنازہ نہ پڑھنا	۴۰۳	مصیبت کے وقت چہرہ پینٹا اور گریبان پھاڑنا
۴۱۶	قبر پر نماز جنازہ پڑھنا	۴۰۴	نوحہ کی حرمت کا بیان
۴۱۷	آنحضرت ﷺ کا نجاشی کی نماز جنازہ پڑھنا	۴۰۴	میت پر بلند آواز سے رونا
۴۱۷	مسئلہ: مذہب احناف اور ان کی دلیل	۴۰۵	میت پر بغیر آواز سے رونا جائز ہے
۴۱۸	نماز جنازہ کی فضیلت کا بیان	۴۰۶	جنازے کے آگے چلنا
۴۱۸	دوسرا باب	۴۰۷	جنازہ کے پیچھے چلنا
۴۱۸	جنازہ دیکھ کر کھڑا ہونا	۴۰۷	جنازہ کے پیچھے سوار ہو کر چلنا مکروہ ہے
۴۱۹	جنازہ دیکھ کر کھڑا نہ ہونے کا بیان	۴۰۸	سواری پر سوار ہونے کا جواز
۴۱۹	”خدا“ اور ”شق“ کے بارے میں حضور ﷺ کی حدیث	۴۰۸	جنازہ کو جلدی لے کر جانا
۴۲۰	توضیح حدیث الباب	۴۰۸	شہدائے اُحد اور سیدنا حمزہ کا ذکر
۴۲۰	تدفین میت کے وقت کی دعا	۴۰۹	باب آخر
۴۲۰	قبر میں میت کے نیچے کپڑا بچھانا	۴۰۹	بلا عنوان
۴۲۱	قبروں کو زمین کے برابر کرنا	۴۱۰	دوسرا باب
۴۲۱	قبروں پر چلنے اور بیٹھنے کی ممانعت	۴۱۰	جنازہ رکھنے سے پہلے بیٹھنا
۴۲۲	قبروں کو پختہ کرنا اور ان پر لکھنا حرام ہے	۴۱۰	مصیبت پر صبر کی فضیلت
۴۲۲	قبرستان جانے کی دعا	۴۱۱	نماز جنازہ میں تکبیر کہنا
۴۲۲	زیارت قبور کی اجازت	۴۱۱	نماز جنازہ کی دعا
۴۲۳	عورتوں کے لئے زیارت قبور کی کراہت	۴۱۲	نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا
۴۲۳	عورتوں کا قبروں کی زیارت کرنا	۴۱۳	تشریح و توضیح حدیث الباب
۴۲۳	رات کو دفن کرنا	۴۱۳	نماز جنازہ کی کیفیت اور میت کے لئے شفاعت
۴۲۴	میت کو اچھے الفاظ میں یاد کرنا	۴۱۳	طلوع و غروب آفتاب کے وقت نماز جنازہ کی کراہت
۴۲۴	بیٹے کی وفات پر باپ کے لئے اجر و ثواب	۴۱۴	بچوں کی نماز جنازہ
۴۲۶	شہداء کون ہیں؟	۴۱۴	پیدائش کے بعد بغیر روئے مرنے والے بچے کی نماز جنازہ
۴۲۶	طاعون سے فرار ہونے کی کراہت	۴۱۵	مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا
۴۲۶	اللہ سے ملاقات کی محبت کرنے والے کا بیان	۴۱۵	مسئلہ اور مذہب ائمہ
۴۲۷	خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ	۴۱۵	مرد و عورت کی نماز جنازہ میں امام کہاں کھڑا ہو؟
۴۲۷	مقروض کی نماز جنازہ	۴۱۶	مسئلہ اور مذہب احناف اور حدیث باب

صفحہ	ابواب و مضامین	صفحہ	ابواب و مضامین
۴۳۹	مسک احتاف اور ان کے دلائل	۴۲۸	عذاب قبر کا بیان
۴۴۰	بغیر گواہوں کے نکاح کا بیان	۴۲۹	مصیبت زدہ کو تسلی دینے کا اجر و ثواب
۴۴۰	اقوال علماء اور اس کی تفصیل	۴۲۹	جمعہ کے دن فوت ہونے والے کا بیان
۴۴۰	خطبہ نکاح کا بیان	۴۳۰	جنازہ میں جلدی کرنا
۴۴۱	کنواری اور بیوہ سے اجازت لینا	۴۳۰	تعزیت کی فضیلت
۴۴۲	یتیم لڑکی پر نکاح کے لئے زبردستی کرنا	۴۳۰	نماز جنازہ میں رفع الیدین کرنا
۴۴۳	اگر دو ولی دو مختلف جگہوں پر نکاح کر دیں تو	۴۳۱	مومن کا دل قرض سے متعلق ہونے کا بیان
۴۴۳	غلام کا آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا	۴۳۱	ابواب النکاح
۴۴۳	عورتوں کے مہر سے متعلق روایات	۴۳۱	نکاح کا انبیاء کی سنت ہونا
۴۴۵	لوٹڈی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرنا	۴۳۱	نکاح کا شرمگاہ کا محافظ ہونے کا بیان
۴۴۵	مندرجہ بالا عنوان کی فضیلت	۴۳۱	ترک نکاح کی ممانعت
۴۴۶	جو کسی عورت سے نکاح کرے اور صحبت کئے بغیر طلاق دے دے تو وہ اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟	۴۳۲	دینی اعتبار سے بہترین آدمی کے ساتھ نکاح کرنا
۴۴۶	خلالہ سے متعلق روایت	۴۳۲	تین خصالتیں دیکھ کر نکاح کرنے والے کا بیان
۴۴۷	خلالہ کرنے اور کرانے والے کا بیان	۴۳۳	منسوبہ (منگیتیر) کو دیکھنا
۴۴۷	مسئلہ اور مذہب احناف	۴۳۳	نکاح کا اعلان کرنا
۴۴۷	نکاح متعہ کا بیان	۴۳۴	دولہا کو کیا دعا دی جائے
۴۴۸	نکاح شغار کی ممانعت	۴۳۵	صحبت کا ارادہ کرنے تو کیا پڑھے؟
۴۴۸	شغار کے معنی اور تشریح	۴۳۵	جن اوقات میں نکاح مستحب ہے
۴۴۹	خالہ، بھانجی اور پھوپھی، بھتیجی کو ایک نکاح میں نہیں رکھا جاسکتا	۴۳۵	ولیمہ کا بیان
۴۴۹	انعتاد نکاح کے وقت شرط لگانا	۴۳۶	توضیح و تشریح حدیث الباب
۴۵۰	جو شخص دس نکاح کئے ہوئے ہو اور مسلمان ہو جائے	۴۳۶	داعی کی دعوت قبول کرنے کا بیان
۴۵۰	جس کے نکاح میں دو بہنیں ہوں اور وہ مسلمان ہو جائے	۴۳۶	بغیر دعوت کے ولیمہ میں جانا
۴۵۰	اس شخص کا بیان جو حاملہ باندی خریدے	۴۳۷	کنواری لڑکی سے شادی کرنا
۴۵۱	اگر کسی باندی کا شوہر ہو تو اس سے صحبت کا حکم	۴۳۷	بغیر اذن ولی کے نکاح کرنا
۴۵۱	زنا کی اجرت کا حرام ہونا	۴۳۸	روایت باب کی سند سے متعلق بحث
۴۵۱	کسی کے پیغام پر پیغام نکاح بھیجنا	۴۳۹	مسئلہ اور مذہب ائمہ

صفحہ	ابواب ومضامین	صفحہ	ابواب ومضامین
۴۶۵	باب بلا عنوان	۴۵۳	عزل کا بیان
۴۶۶	ابواب الطلاق	۴۵۳	کراہیت عزل کا بیان
۴۶۶	طلاق سنت کا بیان	۴۵۳	بیوہ اور کنواری کے لئے راتوں کی تقسیم کا معاملہ
۴۶۶	توضیح حدیث، اقسام طلاق کا بیان	۴۵۴	سوکوں کے درمیان انصاف کرنا
۴۶۶	تشبیہ، طلاق دینے کی تین قسمیں	۴۵۵	نکاح کے بعد مہر مقرر کرنے سے قبل مرنے والا شخص
۴۶۷	طلاق احسن	۴۵۵	مسئلہ اور مذاہب ائمہ
۴۶۷	طلاق حسن	۴۵۶	ابواب الرضاع
۴۶۷	طلاق بدی	۴۵۶	جورثتے نسب سے حرام ہیں وہی رضاعت سے بھی حرام ہیں
۴۶۷	ملاحظہ	۴۵۷	دودھ مرد کی طرف منسوب ہونے کا بیان
۴۶۷	غیر مدخولہ کے لئے صریح اور کنایہ الفاظ	۴۵۷	ایک دو گھونٹ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی
۴۶۸	جو شخص اپنی بیوی کو لفظ "البتہ" سے طلاق دے	۴۵۷	تشریح حدیث الباب
۴۶۹	عورت سے کہنا کہ تمہارا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے	۴۵۸	رضاعت میں ایک عورت کی گواہی
۴۷۰	بیوی کو اختیار طلاق دینا	۴۵۸	حرمت رضاعت صرف دو سال تک عمر تک ثابت ہے
۴۷۰	مطلقہ، ثلاث تطلقات کے لئے سکنی اور نفقہ	۴۵۹	دودھ پلانے والی کے حق کی ادائیگی
۴۷۰	مذاہب ائمہ	۴۵۹	شادی شدہ باندی کو آزاد کرنا
۴۷۰	نکاح سے قبل طلاق دینا	۴۶۰	اولاد ہم بستر ہی کی ہوتی ہے
۴۷۲	باندی کے لئے دو ہی طلاقیں ہیں	۴۶۰	جو شخص کسی عورت کو دیکھے اور اچھی لگے تو کیا کرے؟
۴۷۲	دل میں اپنی بیوی کو طلاق دینا	۴۶۰	بیوی پر خاوند کا حق
۴۷۲	ہنسی مذاق میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے	۴۶۱	خاوند پر بیوی کا حق
۴۷۲	خلع کے متعلق	۴۶۲	عورتوں کے ساتھ بد فعلی حرام ہے
۴۷۳	خلع لینے والی عورتوں کا بیان	۴۶۳	عورتوں کا بناؤ سنگھار کر کے باہر نکلنا
۴۷۴	عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا	۴۶۳	غیرت کا بیان
۴۷۴	جس شخص کے والد بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیں	۴۶۴	عورت کا اکیلے سفر کرنا
۴۷۴	عورت اپنی سوکن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے	۴۶۴	غیر محرم عورتوں سے خلوت کی ممانعت
۴۷۴	مجنون اور پاگل کی طلاق کا بیان	۴۶۵	باب بلا عنوان
۴۷۵	باب بلا عنوان	۴۶۵	باب بلا عنوان

صفحہ	ابواب ومضامین	صفحہ	ابواب ومضامین
۴۸۸	شہری آدمی، دیہاتی کی اشیاء فروخت نہ کرے	۴۷۵	وہ عورت جو خاوند کی وفات کے بعد وضع حمل کرے
۴۸۸	توضیح حدیث ووجہ ممانعت	۴۷۵	بیوہ کی عدت کا مسئلہ
۴۸۹	محاقلہ اور مزابلہ کی ممانعت	۴۷۸	ظہار کرنے والے نے قبل ادا ہوگی کفارہ کے جماع کر لیا
۴۸۹	پھلوں کی پکائی سے قبل فروخت جائز نہیں	۴۷۸	توضیح، ظہار کے معنی اور تشریح
۴۹۰	اونٹنی کے حمل کے بچہ کی فروخت کی ممانعت	۴۷۸	کفارہ ظہار کا بیان
۴۹۰	دھوکے کی بیع کی کراہیت	۴۷۹	ایلاء کا بیان
۴۹۱	ایک بیع میں دو بیع کرنے کی کراہت	۴۷۹	توضیح، ایلاء کے لغوی اور اصطلاحی معنی
۴۹۱	جوشے پاس نہ ہو اس کی فروخت ممنوع ہے	۴۷۹	ایلاء کی اقسام کا بیان
۴۹۲	ولاء کے فروخت کرنے یا ہبہ کی ممانعت	۴۸۰	لعان کا بیان
۴۹۳	جانور کی عوض جانور کا بطور قرض بیچنا	۴۸۱	توضیح، لعان کے معنی، تشریح اور شرائط
۴۹۳	ایک غلام کو دو غلاموں کے بدلہ خریدنا	۴۸۱	بیوہ عدت کہاں گزارے؟
۴۹۳	گیہوں کے بدلہ گیہوں برابر بیچنا اور کمی بیشی کا عدم جواز	۴۸۲	مسئلہ مذہب امام ابوحنیفہؒ
۴۹۴	توضیح حدیث، تعریف ربوا، اس کی اقسام	۴۸۲	ابواب البیوع
۴۹۴	ربا، فضل اور ربانسیہ	۴۸۲	شبہات کو ترک کرنے کا بیان
۴۹۴	قدر اور جنس کا بیان	۴۸۲	اکل ربوا کا بیان
۴۹۴	قیمت کی ادائیگی میں سکہ کی تبدیلی	۴۸۳	جھوٹ اور جھوٹی گواہی پر وعید
۴۹۵	مالدار غلاموں اور کچھوڑ کی بیوند کاری کے بعد فروخت	۴۸۳	تاجروں اور ان کے اسم کے بارے میں روایت
۴۹۵	بیع میں افتراق فریقین کے اختیار کا بیان	۴۸۴	جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے پر وعید
۴۹۶	باب بلا عنوان	۴۸۵	تجارت کے لئے صحیح جلدی نکلنا
۴۹۷	مسئلہ اختیار مجلس اور مذہب ائمہ	۴۸۵	معینہ مدت تک ادھار کرنے کے جواز کا بیان
۴۹۷	جو شخص بیع میں دھوکہ کھا جائے	۴۸۶	شروط بیع کی کتابت کا بیان
۴۹۷	مسئلہ اور مذہب احناف	۴۸۷	ناپ اور تول کا بیان
۴۹۸	بیع المصراۃ کا بیان	۴۸۷	نیلام کے ذریعہ خرید و فروخت کا بیان
۵۰۰	بیع کے وقت جانور پر سواری کی شرط لگانا	۴۸۷	مدبر کی بیع کا بیان
۵۰۰	گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ حاصل کرنا	۴۸۸	تاجروں کے استقبال کی ممانعت
۵۰۱	جس ہار میں ہیرے اور سونا ہو اس کا خریدنا	۴۸۸	توضیح حدیث ووجہ ممانعت
۵۰۱	مسئلہ مذہب احناف		

صفحہ	ابواب ومضامین	صفحہ	ابواب ومضامین
۵۱۵	بیع عرایا اور اس کی اجازت	۵۰۱	غلام یا باندی آزاد کرتے وقت ولاء کی شرط کا بیان
۵۱۷	بخش کی کراہیت اور اس کی تشریح	۵۰۱	باب بلا عنوان
۵۱۷	ناپ تول کے وقت جھکاؤ رکھنا	۵۰۲	سکات اور بدل کتابت ادا کرے تو اس کا بیان
۵۱۷	تنگ دست کے لئے قرضہ کی ادائیگی میں مہلت اور نرم روی	۵۰۲	دیوالیہ، مقروض کا مفلس ہو جانا اور اس کی ادائیگی
۵۱۸	تشریح حدیث اور مذہب احناف	۵۰۲	مسلمان کے لئے ذمی کے ذریعہ شراب بیچنے کی ممانعت
۵۱۸	بیع ”منابذہ“ اور ”ملاستہ“ کا بیان	۵۰۳	عاریت پر لی ہوئی چیز کی واپسی ضروری ہے
۵۱۹	غلہ وغیرہ کی قیمت کی پیشگی ادائیگی	۵۰۵	غلہ کی ذخیرہ اندوزی کرنا
۵۱۹	مشترک زمین میں سے حصہ دار حصہ کا بیچنا	۵۰۵	تخللات کی بیع کا بیان
۵۲۰	بیع ”خابره“ اور ”معاومہ“ کا بیان	۵۰۶	جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا مال غصب کرنا
۵۲۰	بیوع میں ملاوٹ کرنا حرام ہے	۵۰۷	باع اور شتری میں اختلاف کا بیان
۵۲۱	اونٹ یا کسی دوسرے جانور کو قرض لینا	۵۰۷	ضرورت سے زائد پانی کی فروخت
۵۲۲	مسجد میں خرید و فروخت کی ممانعت	۵۰۸	زکوٰۃ پر چھوڑنے کی اجرت کی ممانعت
۵۲۲	اقوال اہل علم	۵۰۸	کتے کی قیمت لینے کا بیان
۵۲۳	ابواب الاحکام	۵۰۸	تجاسم کی اجرت کے جواز کا بیان
۵۲۳	قاضی کے متعلق آنحضرت ﷺ کی احادیث	۵۰۹	کتے اور بلی کی قیمت حرام ہے
۵۲۳	اجتہاد قاضی کا بیان جو خطا اور صواب دونوں ہوتا ہے	۵۰۹	مغنیات (گانے والیوں) کی بیع حرام ہے
۵۲۳	قاضی کس طرح فیصلہ کرنے	۵۱۰	مال اور اولاد یا بھائیوں کو الگ لگ بیچنا ممنوع ہے
۵۲۵	عادل امام کے متعلق	۵۱۱	غلام خریدنے کے بعد عیب نظر آئے اور اس سے فائدہ
۵۲۵	رعایا کے حاکم کے بارے میں	۵۱۱	حاصل کر چکا ہو تو کیا حکم ہے؟
۵۲۶	غصہ کی حالت میں قاضی فیصلہ نہ کرے	۵۱۱	رادہ گیر کیلئے راستہ کے گزے ہوئے پھل کھانے کی اجازت
۵۲۶	امراء کو تحفے تحائف دینا	۵۱۲	بیع میں استثناء کرنے کی ممانعت
۵۲۷	مقدمات میں رشوت لینے اور دینے کا بیان	۵۱۲	غلہ کو ملکیت میں لینے سے قبل فروخت کی ممانعت
۵۲۷	دعوت اور ہدیہ قبول کرنا	۵۱۳	کسی مسلمان کی بیع پر بیع کرنے کی ممانعت
۵۲۷	حاکم کا فیصلہ کسی غیر مستحق کے لئے ہو تو غیر مستحق کا لینا	۵۱۳	شراب کی خرید و فروخت کی ممانعت
۵۲۷	مدعی کے لئے گواہ اور مدعا علیہ کے لئے قسم	۵۱۳	مالکوں کی اجازت کے بغیر جانوروں کا دودھ نکالنا
۵۲۸	اگر گواہ ہو تو مدعی قسم کھائے گا	۵۱۳	مردار جانوروں کی کھال اور بتوں کی فروخت
۵۲۸		۵۱۵	بہد کے بعد اس کو واپس لینا

صفحہ	ابواب ومضامین	صفحہ	ابواب ومضامین
۵۴۱	اس سلسلہ کی دوسری احادیث اور لفظ کا حکم	۵۲۸	نبی کریم ﷺ نے ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ فرمایا
۵۴۲	وقف سے متعلق احادیث	۵۲۹	توضیح حدیث اور مذاہب ائمہ
۵۴۲	حیوان اگر کسی کو زخمی کر دے تو اس کا قصاص نہیں		ایک غلام دو آدمیوں کے درمیان مشترک ہو اور ایک
۵۴۳	خمر زین کو آباد کرنے کا بیان	۵۲۹	شریک اپنا حصہ آزاد کر دے
۵۴۳	موات کی توضیح و تشریح	۵۳۱	عمری کا بیان
۵۴۳	جاگیر دینے کا بیان	۵۳۱	عمری کی تشریح اور اس کی صورتیں
۵۴۴	درخت لگانے کی فضیلت کا بیان	۵۳۱	رقعی کا بیان اور اس کی تشریح
۵۴۴	مزارعت کا بیان	۵۳۲	لوگوں کے درمیان صلح سے متعلق احادیث
۵۴۵	مزارعت کی تشریح اور اقوال علماء	۵۳۲	ہمسائے کی دیوار پر لکڑی رکھنا
۵۴۶	ابواب الادیات	۵۳۳	قسم دلانے والے کی تصدیق پر ہی قسم صحیح ہوتی ہے
۵۴۶	دیت میں اونٹوں کی مقدار کا بیان	۵۳۳	طریق میں اختلاف کی صورت میں کتنی چوڑائی رکھی جائے؟
۵۴۶	توضیح مسئلہ، دیت کی اقسام، اونٹ کی اقسام	۵۳۳	والدین کی جدائی کی صورت میں بچہ کو اختیار ہے
۵۴۷	دیت میں دراہم کی مقدار کا بیان	۵۳۴	باپ بیٹے کے مال میں سے لے سکتا ہے
۵۴۷	ایسے زخم جن میں ہڈی ظاہر ہو جائے ان کی دیت	۵۳۴	کسی سے کوئی چیز ٹوٹ جائے تو واپسی کا بیان
۵۴۸	انگلیوں کی دیت	۵۳۵	مرد و عورت کی بلوغت کا بیان
۵۴۸	معاف کر دینے کا بیان	۵۳۵	والد کی بیوی سے نکاح کرنا
۵۴۹	جس کا سر پتھر سے پھل دیا گیا ہو	۵۳۵	کھیتوں کو پانی دینے کا بیان
۵۴۹	تفصیل مسئلہ مسلک احناف	۵۳۶	توضیح حدیث
۵۴۹	اقسام قتل کا بیان	۵۳۶	جس شخص کے پاس غلام اور لونڈیوں کے علاوہ مال نہ ہو
۵۵۰	مومن کے قتل پر عذاب کی شدت کا بیان		اور وہ موت کے وقت نہیں آزاد کر دے
۵۵۰	قیامت کے دن خون کے فیصلہ کا بیان	۵۳۷	رشتہ دار کا مالک ہو جانے سے وہ آزاد ہو جاتا ہے
۵۵۱	باپ اگر بیٹے کو قتل کر دے تو قصاص لیا جائے گا یا نہیں؟	۵۳۷	کسی کی زمین میں بغیر اجازت زراعت کرنا
۵۵۲	مسلمانوں کا خون صرف تین چیزوں سے حلال ہوتا ہے	۵۳۷	ہبہ اور اولاد کے درمیان مساوات رکھنا
۵۵۲	معاهد قتل کرنے کی ممانعت	۵۳۸	شفعہ کا بیان
۵۵۲	ولی مقتول کو قصاص اور معاف کرنے میں اختیار ہے	۵۳۸	شفعہ کا حکم
۵۵۲	مشکہ کی ممانعت	۵۳۹	جب حدود اور راستے متعین ہو جائیں تو شفہہ نہیں
		۵۳۹	لفظ اور گمشدہ اونٹ اور بکری کا بیان

صفحہ	ابواب ومضامین	صفحہ	ابواب ومضامین
۵۶۸	نشہ کرنے پر حد جاری کرنا	۵۵۴	مسل ضائع کرنے کی دیت
۵۶۸	شرابی کو کوڑے مارنے اور چار مرتبہ پینے پر قتل کا بیان	۵۵۵	مسلمان کو کافر کے بدلہ میں قتل نہ کیا جائے
۵۶۹	کتنی قیمت کی چیز چوری کرنے پر ہاتھ کاٹا جائے گا	۵۵۶	مسئلہ اور توضیح حدیث الباب
۵۶۹	چور کا ہاتھ کاٹ کر گلے میں ڈالنے کا بیان	۵۵۶	کوئی شخص اپنے غلام کو قتل کر دے
۵۷۰	خائن، اچکے اور ڈاکہ کا بیان	۵۵۶	بیوی کو شوہر کی دیت میں سے ترکہ ملے گا
۵۷۰	پھلوں اور کھجور کے خوشوں کی وجہ سے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا	۵۵۷	قصاص کا بیان
۵۷۰	جہاد کے دوران چور کا ہاتھ نہ کاٹا جائے	۵۵۷	مذوم کو قید کرنے کا بیان
۵۷۰	بیوی کی باندی سے زنا کا حکم	۵۵۷	مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جانے والا شخص شہید ہے
۵۷۱	اگر کسی عورت سے زنا بالجبر کیا جائے	۵۵۸	قسامت کا بیان
۴۷۲	جانور سے بدکاری کرنے والے کا بیان	۵۵۸	تفصیل قسامت
۵۷۲	لواطت کرنے والے کی سزا	۵۵۹	ابواب الحدود
۵۷۳	مرتد کی سزا کا بیان	۵۵۹	جن لوگوں پر حدود واجب نہیں ہوتی ان کا بیان
۵۷۳	جو شخص مسلمانوں پر ہتھیار نکالے اس کی سزا	۵۶۰	حدود کو رفع کرنے کا بیان
۵۷۴	جادوگر کی سزا	۵۶۰	مسلمان کے عیوب کی پردہ پوشی
۵۷۴	غنیمت کا مال چرانے والے کی سزا کا بیان	۵۶۱	تلفیق فی الحدود کا بیان
۵۷۴	مخنت کہہ کر پکارنے والے کی سزا	۵۶۱	معترف کے اقرار سے رجوع کرنے سے حد ساقط
۵۷۵	تعزیر کا بیان		ہو جاتی ہے
۵۷۵	تعزیر کی تشریح و توضیح	۵۶۲	توضیح و تشریح حدیث الباب
۵۷۵	ابواب الصید	۵۶۳	حدود میں سفارش کی ممانعت
۵۷۵	کتے کے شکار میں سے کیا کھانا جائز ہے اور کیا ناجائز	۵۶۳	رجم کی تحقیق
۵۷۶	مجوی کے کتے سے شکار کرنا	۵۶۴	رجم صرف شادی شدہ کے لئے ہے
۵۷۷	باز کے شکار کا بیان	۵۶۵	متدرجہ بالاسئلہ سے متعلق
۵۷۷	شکار پر تیر چلانے کے بعد شکار غائب ہو جائے اور بعد میں ملے	۵۶۶	اہل کتاب کے رجم کا بیان
۵۷۷	تیر لگنے کے بعد شکار کو پانی میں پانے کا بیان	۵۶۶	زانی کی جلا وطنی کا بیان
۵۷۸	معراض سے شکار کا حکم	۵۶۷	حدود گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں
			باندیوں پر حدود قائم کرنا

صفحہ	ابواب ومضامین	صفحہ	ابواب ومضامین
۵۹۱	فرع اور عتیرہ کا بیان	۵۷۸	پتھر سے ذبح کرنے کا حکم
۵۹۱	عقیقہ کا بیان	۵۷۹	بندھے ہوئے جانور پر تیر چلا کر شکار کر کے کھانے کا حکم
۵۹۲	بچے کے کان میں اذان دینا	۵۸۰	جنین کو ذبح کرنے کا بیان
۵۹۲	عقیقہ کے بارے میں مختلف احادیث	۵۸۰	ذی ناب اور ذی غلب کی حرمت
۵۹۲	عشرہ ذی الحجہ میں ناخن وغیرہ کٹوانے کا بیان	۵۸۱	زندہ جانور کا عضو کاٹنے کا بیان
۵۹۵	ابواب النذور والایمان	۵۸۱	حلق اور لبہ سے ذبح کا بیان
۵۹۵	اللہ کی نافرمانی میں نذر ماننا صحیح نہیں	۵۸۱	چھپکلی کو مارنے کا حکم
۵۹۶	جو چیز ملکیت میں نہیں اس کی نذر ماننا صحیح نہیں	۵۸۲	سانپ کو مارنے کا حکم
۵۹۶	غیر معین نذر کا کفارہ	۵۸۲	کتوں کو مارنے کا بیان
۵۹۶	اگر کوئی شخص کسی کام کے کرنے پر قسم کھائے اور اس کام کے کرنے میں خیر دیکھے تو قسم توڑ دے	۵۸۳	کتا پالنے والے کی نیکیاں کم ہوتی ہیں
۵۹۶	کفارہ قسم توڑنے سے پہلے ادا کرے	۵۸۳	بانس وغیرہ سے ذبح کرنے کا حکم
۵۹۷	قسم میں انشاء اللہ کہنا	۵۸۳	ناخن اور دانت وغیرہ سے مذبح جانور کا حکم
۵۹۷	غیر اللہ کی قسم کھانا حرام ہے	۵۸۳	علماء احناف کا مذہب
۵۹۸	چلنے کی استطاعت نہ ہونے کی باوجود نہ چلنے کی قسم کھانا	۵۸۳	باب بلا عنوان
۵۹۹	نذر کی ممانعت	۵۸۵	ابواب الاضاحی
۵۹۹	نذر کو پورا کرنا	۵۸۵	قربانی کی فضیلت کے بیان میں
۶۰۰	آنحضرت ﷺ کی قسم کا بیان	۵۸۶	دو مینڈھوں کی قربانی
۶۰۰	غلام آزاد کرنے کا ثواب	۵۸۶	جس جانور کی قربانی مستحب ہے
۶۰۰	اپنے خادم کو طمانچہ مارنے کا حکم	۵۸۶	جس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے
۶۰۱	میت کی طرف سے نذر پورا کرنے کا بیان	۵۸۶	جن جانوروں کی قربانی مکروہ ہے
۶۰۲	آزاد کرنے کی فضیلت	۵۸۷	چھ ماہ کی بھیڑ کی قربانی
۶۰۲	ابواب السیر	۵۸۸	قربانی میں شراکت کا بیان
۶۰۲	جنگ سے قبل اسلام کی دعوت دینا	۵۸۹	ایک بکری ایک گھر کے لئے کافی ہے
۶۰۳	شب خون مارنے اور حملہ کرنے کا بیان	۵۹۰	نماز کے بعد قربانی کرنا
۶۰۳	کفار کے گھروں کو آگ لگانا اور برباد کرنا	۵۹۰	تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانا مکروہ ہے
		۵۹۰	تین دن سے زیادہ کھانے کی اجازت

صفحہ	ابواب و مضامین	صفحہ	ابواب و مضامین
۶۱۷	ہجرت کا بیان	۶۰۴	مال غنیمت کا بیان
۶۱۷	رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کرنا	۶۰۵	گھوڑے کے لئے مال غنیمت میں حصہ
۶۱۸	بیعت توڑنے کا بیان	۶۰۵	لشکروں کا بیان
۶۱۹	غلام کی بیعت	۶۰۵	مال فی کسے دیا جائے
۶۱۹	عورتوں کی بیعت	۶۰۶	کیا غلام کو بھی حصہ دیا جائے گا؟
۶۱۹	بدر میں لڑنے والوں کی تعداد کا بیان	۶۰۶	ذی، مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہو تو کیا حکم ہے؟
۶۲۰	نخس کا بیان	۶۰۷	مشرکین کے برتن استعمال کرنا
۶۲۰	تقسیم سے قبل مال غنیمت میں سے کچھ لینا	۶۰۸	نفل کا بیان
۶۲۰	اہل کتاب کو سلام کرنا	۶۰۸	توضیح و تشریح حدیث
۶۲۱	مشرکین میں رہائش پذیر ہونے کی کراہت	۶۰۹	کافر کو قتل کرنے والے کیلئے مقتول کا سلب اور سامان ہونا
۶۲۱	یہود و نصاریٰ کو جزیرہ عرب سے نکال دینے کا بیان	۶۰۹	تقسیم سے قبل مال غنیمت کی فروخت کرنا
۶۲۲	آنحضرت ﷺ کے ترکہ کا بیان	۶۰۹	قیدی، حاملہ عورتوں سے پیدائش سے قبل صحبت کی ممانعت
۶۲۳	فتح مکہ کے وقت نبی کریم ﷺ کا فرمان	۶۱۰	مشرکین کے کھانے کا حکم
۶۲۳	قتال کا مستحب وقت	۶۱۰	قیدیوں کے درمیان تفریق کرنا
۶۲۴	طیرہ کا بیان	۶۱۰	قیدیوں کو قتل کرنا اور فدیہ لینا
۶۲۵	جنگ کے متعلق آنحضرت ﷺ کی وصیت	۶۱۱	عورتوں اور بچوں کے قتل کی ممانعت
۶۲۵	اس سلسلہ کی طویل حدیث	۶۱۲	غلوں کا بیان
۶۲۶	ابواب فضائل الجہاد۔ فضائل جہاد	۶۱۳	عورتوں کا جنگ میں شریک ہونا
۶۲۶	جہاد کی فضیلت	۶۱۳	مشرکین کے ہدایا قبول کرنا
۶۲۷	جہاد میں چوکیداری کرتے ہوئے موت آنے کی فضیلت	۶۱۳	سجدہ شکر کا بیان
۶۲۷	دوران جہاد روزہ کی فضیلت	۶۱۳	عورت اور غلام کا امان دینا
۶۲۸	جہاد میں مالی معاونت کی فضیلت	۶۱۳	ہو کہ دہی کا بیان
۶۲۸	مجاہدین کی خدمت کی فضیلت	۶۱۵	قیامت کے دن ہر عہد شکن کے لئے ایک جھنڈا ہوگا
۶۲۹	غازی کی تیاری اور تجنیز کی فضیلت	۶۱۵	کسی حکم کو پورا کرنا
۶۲۹	جہاد میں قدموں کے گرد آلود ہونے کی فضیلت	۶۱۶	حلف کا بیان
۶۲۹	جہاد کے غبار کی فضیلت	۶۱۶	مجوسیوں سے جزیہ لینا
۶۲۹		۶۱۷	ذمیوں کے مال میں سے کیا حلال ہے؟

صفحہ	ابواب و مضامین	صفحہ	ابواب و مضامین
۶۳۰	جھنڈوں کا بیان (رایت)	۶۳۰	جہاد کرتے ہوئے بوڑھے ہو جانے کی فضیلت
۶۳۵	شعار کا بیان	۶۳۰	جہاد کی نیت سے گھوڑا رکھنے کی فضیلت
۶۳۵	آنحضرت ﷺ کی تلوار کا بیان	۶۳۱	جہاد میں تیر اندازی کی فضیلت
۶۳۶	جنگ کے وقت افطار کرنا (روزہ رکھنا)	۶۳۱	جہاد میں پیہرہ دینے کی فضیلت
۶۳۶	گھبراہٹ کے وقت نکلنا	۶۳۲	شہید کے ثواب کا بیان
۶۳۶	جنگ کے وقت ثابت قدم رہنا	۶۳۳	شہداء کی فضیلت اللہ کے نزدیک
۶۳۷	توضیح حدیث الباب	۶۳۳	سمندر میں جہاد کی فضیلت
۶۳۷	تلواریں اور ان کی زینت	۶۳۴	ریا کاری یا دنیا کے لئے جہاد کرنا
۶۳۷	زرہ کا بیان	۶۳۵	جہاد میں صبح و شام چلنے کی ہدایت
۶۳۸	خود کا بیان	۶۳۶	بہترین لوگ کون ہیں؟
۶۳۸	گھوڑوں کی فضیلت	۶۳۷	شہادت کی دعا کرنا
۶۳۸	خاص رنگ کے گھوڑوں کا بیان	۶۳۷	مجاہد، مکاتب اور نکاح کرنے والوں پر اللہ کی مدد
۶۳۹	نا پسندیدہ گھوڑوں کا بیان	۶۳۸	جہاد میں زخمی ہو جانے کی فضیلت
۶۳۹	گھڑ دوڑ کا بیان	۶۳۸	کونسا عمل افضل ہے؟
۶۴۰	گھوڑی پر گدھا چھوڑنے کی کراہت	۶۳۹	کونسا آدمی افضل ہے؟
۶۴۰	فقراء مسلمین سے دعائے خیر کرانا	۶۳۹	فضائل جہاد میں دوسری احادیث
۶۴۰	گھوڑوں کے گلوں میں گھنٹیاں لٹکانا	۶۴۱	<b>ابواب الجہاد</b>
۶۴۱	جنگ کا امیر مقرر کرنا	۶۴۱	اہل عذر کو جہاد میں عدم شرکت کی اجازت
۶۴۱	امام کا بیان	۶۴۲	والدین کو چھوڑ کر جہاد میں جانا
۶۴۲	امام کی اطاعت کا بیان	۶۴۲	ایک شخص کو بطور لشکر بھیجنا
۶۴۲	اللہ کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں	۶۴۲	اکیلے سفر کی کراہت
۶۴۲	جانوروں کو لڑانا اور چہرہ داغنا	۶۴۳	جنگ میں جھوٹ اور فریب کی اجازت
۶۴۳	بلوغ کی حد اور مال غنیمت میں حصہ دینا	۶۴۳	آنحضرت ﷺ کے غزوات کی تعداد
۶۴۳	شہید کے قرضہ کا بیان	۶۴۳	جنگ میں صف بندی اور ترتیب کا بیان
۶۴۳	شہداء کی تدفین کا بیان	۶۴۴	جنگ کے وقت دعا کرنا
۶۴۴	مشورہ کا بیان	۶۴۴	جھنڈوں کا بیان (لواء)
۶۴۴	کافر قیدی کی لاش فدیہ لے کر نہ دی جائے		

صفحہ	ابواب و مضامین	صفحہ	ابواب و مضامین
۶۶۶	سرمہ لگانے کا بیان	۶۵۵	جہاد سے فرار ہونا
۶۶۶	صماء اور ایک کپڑے میں احتباء کی ممانعت	۶۵۵	سفر سے واپس آنے والے کا استقبال کرنا
۶۶۶	مصنوعی بال جوڑنا	۶۵۶	مال فی کابیان
۶۶۷	ریشمی زین پوشی کی ممانعت	۶۵۶	ابواب اللباس
۶۶۷	آنحضرت ﷺ کے بستر مبارک کی تفصیل	۶۵۶	عن رسول اللہ ﷺ
۶۶۸	نئے کپڑے پہننے کی دعا	۶۵۶	ریشم اور سونے کا بیان
۶۶۸	جب پہننے کا بیان	۶۵۷	جنگ میں ریشمی کپڑا پہننا
۶۶۹	دانت پر سونا چڑھانے کا حکم	۶۵۷	باب بلا عنوان
۶۶۹	درندوں کی کھال کے استعمال کی ممانعت	۶۵۷	سرخ کپڑے پہننے کی اجازت
۶۶۹	آنحضرت ﷺ کی چپل کا بیان	۶۵۸	کسم کے رنگے ہوئے کپڑے کی مرد کے لئے کراہت
۶۶۹	ایک چپل پہن کر چلنے کی کراہت	۶۵۸	پوستین پہننے کا بیان
۶۷۰	مسئلہ بالا کی اجازت	۶۵۸	دباغت کے بعد مردار جانور کی کھال کا حکم
۶۷۰	چپل کو نئے پاؤں میں پہنی جائے	۶۵۹	کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھنے کی ممانعت
۶۷۱	کپڑوں میں پیوند لگانا	۶۶۰	عورتوں کے دامن کی لمبائی
۶۷۲	لوہے کی انگوٹھی کا بیان	۶۶۰	اون کے کپڑے پہننا
۶۷۳	باب بلا عنوان	۶۶۱	سیاہ عمامہ کا بیان
۶۷۳	ابواب الأطعمة	۶۶۱	سونے کی انگوٹھی کی ممانعت
۶۷۳	آنحضرت ﷺ کس چیز پر کھانا کھاتے تھے	۶۶۲	چاندی کی انگوٹھی کا بیان
۶۷۳	خرگوش کھانے کا بیان	۶۶۲	چاندی کا گیند پہننا
۶۷۳	گاوہ کے کھانے کا بیان	۶۶۲	دامیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا
۶۷۳	بجوکھانے کا بیان	۶۶۳	انگوٹھی پر کچھ نقش کرانا
۶۷۵	گھوڑوں کا گوشت کھانا	۶۶۳	تصویر کا بیان
۶۷۵	پالتو گدھوں کے گوشت کا حکم	۶۶۳	مصوروں کے متعلق نبی اکرم ﷺ کا فرمان
۶۷۶	کفار کے برتنوں میں کھانے کا بیان	۶۶۳	خضاب لگانے کا بیان
۶۷۶	چوہا گھی میں گر کر مر جائے تو اس کا حکم	۶۶۵	لبے بال رکھنا
۶۷۷	بائیں ہاتھ سے کھانا پینا	۶۶۵	روزانہ کنگھی کرنے کی ممانعت

صفحہ	ابواب و مضامین	صفحہ	ابواب و مضامین
۶۸۸	اونٹوں کا پیشاب پینے کا بیان	۶۷۷	انگلیاں چاٹنا
۶۸۸	کھانا کھانے سے قبل اور بعد وضو کرنا	۶۷۷	گر جانے والے لقمہ کا بیان
۶۸۹	کھانے سے قبل وضو نہ کرنا	۶۷۸	کھانے کے درمیان سے کھانے کی کراہت
۶۸۹	کدو کھانے کا بیان	۶۷۹	لبہن اور پیاز کھانے کی اجازت
۶۸۹	تیل کا استعمال کرنا کھانے میں	۶۸۰	سوتے وقت برتنوں کو ڈھلکانا اور چراغ وغیرہ بجھانا
۶۹۰	باندی یا غلام کے ساتھ کھانا کھانا	۶۸۰	دودھ کھجوریں ایک ساتھ کھانے کی کراہت
۶۹۰	کھانا کھلانے کی فضیلت	۶۸۰	کھجور کی فضیلت
۶۹۱	رات کے کھانے کی فضیلت	۶۸۱	کھانے کے بعد اللہ کی تعریف بیان کرنا
۶۹۱	کھانے کے وقت بسم اللہ کہنا	۶۸۱	کوڑھی کے ساتھ کھانا کھانا
۶۹۲	ہاتھوں میں چکنائی کی بو ہونے کی حالت میں سونا	۶۸۱	مؤمن ایک آنت میں کھانا کھاتا ہے
۶۹۲	ایک دوسری حدیث	۶۸۲	ایک شخص کا کھانا دو کے لئے کافی ہونے کا بیان
۶۹۳	ابواب الاشربة	۶۸۲	ٹڈی کھانے کا بیان
۶۹۳	شراب پینے والے کا بیان	۶۸۳	جلالہ کے گوشت اور دودھ کا حکم
۶۹۳	ہر نشہ آور چیز حرام ہے	۶۸۳	مرغی کھانے کا بیان
۶۹۳	جس شے کی بہت سی مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل بھی حرام ہے	۶۸۴	سرخاب کا گوشت کھانے کا حکم
۶۹۵	منکوں میں نبیذ بنانے کا بیان	۶۸۴	بھنا ہوا گوشت کھانا
۶۹۵	کدو کے توبنے، سبز گھڑے اور لکڑی کے برتن میں نبیذ بنانا	۶۸۴	تکیہ لگا کر کھانے کی کراہت
۶۹۶	توضیح حدیث الباب	۶۸۵	آنحضرت ﷺ کا میٹھی چیز اور شہد کو پسند کرنا
۶۹۶	مذکورہ برتنوں میں نبیذ بنانے کی اجازت	۶۸۵	شور باز یادہ کرنا
۶۹۶	توضیح حدیث الباب	۶۸۵	ثرید کی فضیلت کا بیان
۶۹۶	مشک میں نبیذ بنانا	۶۸۶	گوشت نوج کر کھانا
۶۹۷	جن اشیاء سے نبیذ بنتی تھی ان کا بیان	۶۸۶	چھری سے گوشت کاٹ کر کھانے کی اجازت
۶۹۷	گدراور تر کھجور کولما کر نبیذ بنانا	۶۸۶	توضیح مسئلہ
۶۹۸	سونے، چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے کی ممانعت	۶۸۶	آنحضرت ﷺ کا پسندیدہ گوشت
۶۹۸	کھڑے ہو کر پانی پینے کی ممانعت	۶۸۷	سرکہ کا بیان
۶۹۹	کھڑے ہو کر پینے کی اجازت	۶۸۸	تربوز کے ساتھ تر کھجور کھانا
		۶۸۸	لکڑی تر کھجور کے ساتھ کھانا

صفحہ	ابواب ومضامین	صفحہ	ابواب ومضامین
۷۱۲	مسلمانوں کی پردہ پوشی کرنا	۶۹۹	توضیح مسئلۃ الباب
۷۱۲	مسلمانوں سے عیب دور کرنا	۶۹۹	برتن میں پانی پیتے وقت سانس لینا
۷۱۳	ترک ملاقات کی ممانعت	۷۰۰	دوسانس میں پانی پینا
۷۱۳	بھائی کے ساتھ مروت کے ساتھ پیش آنا	۷۰۰	پینے کی چیز میں پھونک مارنا
۷۱۳	غیبت کے متعلق	۷۰۱	برتن میں سانس لینے کی کراہت
۷۱۳	حسد کے متعلق	۷۰۱	مشک کے منہ سے پانی پینا
۶۱۳	آپس میں بغض رکھنے کی برائی	۷۰۱	اس کی اجازت
۷۱۳	آپس میں صلح کا بیان	۷۰۱	داہنے ہاتھ والے پہلے پینے کے مستحق ہیں
۷۱۵	خیانت اور دھوکہ دہی کا بیان	۷۰۲	سائی خود آخر میں پئے
۷۱۶	پڑوسی کے حقوق کا بیان	۷۰۲	آنحضرت ﷺ کا پسندیدہ مشروب
۷۱۶	خادم پر احسان کرنے کا بیان	۷۰۳	ابواب البر والصلۃ
۷۱۷	خادموں کو مارنے اور گالی دینے کی ممانعت	۷۰۳	والدین کے ساتھ حسن سلوک
۷۱۷	خادم کو ادب سکھانا	۷۰۳	والدین کے راضی کرنے کی فضیلت
۷۱۷	خادم کو معاف کرنے کا بیان	۷۰۴	والدین کی نافرمانی اور ناراضگی کا بیان
۷۱۸	اولاد کو ادب سکھانا	۷۰۴	والد کے دوست کا اکرام کرنا
۷۱۸	ہدیہ قبول کر کے بدلہ میں کچھ دینا	۷۰۵	خالہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا
۷۱۹	احسان کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا	۷۰۵	حق الوالدین
۷۱۹	نیک کاموں کے کرنے کا بیان	۷۰۶	قطع رحمی کا بیان
۷۲۰	میفہ کا بیان	۷۰۶	صلہ رحمی کرنے کا بیان
۷۲۰	راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا	۷۰۷	بیٹے کی محبت کا بیان
۷۲۰	مجالس میں امانت کی اہمیت	۷۰۷	بچوں پر شفقت کرنے کا بیان
۷۲۰	سختاوت کے متعلق روایت	۷۰۷	لڑکیوں کی پرورش کی فضیلت
۷۲۱	بجیل کا بیان	۷۰۹	یتیم پر رحم کرنا
۷۲۲	گھروالوں پر خرچ کرنا	۷۰۹	بچوں پر رحم کرنا
۷۲۲	مہمان کا اکرام کرنا	۷۱۱	نصیحت کے متعلق
۷۲۳	بیواؤں اور یتیموں کے لئے کوشش کرنا	۷۱۱	مسلمان کا مسلمان پر شفقت کرنا
۷۲۳	کشادہ پیشانی اور بشاس چہرہ کے ساتھ ملاقات کرنا		

صفحہ	ابواب ومضامین	صفحہ	ابواب ومضامین
۷۳۷	بڑوں کی تعظیم کرنا	۷۲۳	سچ اور جھوٹ کا بیان
۷۳۷	آپس کی ملاقات ترک کرنے والوں کا بیان	۷۲۳	فحش گوئی کے بیان میں حدیث رسول ﷺ
۷۳۷	صبر کرنے کا بیان	۷۲۵	لعنت بھیجنے کا بیان
۷۳۸	ذی الوجہین (منہ پر پرداری کرنے) کا بیان	۷۲۵	نسب کی تعلیم و تعلم کا بیان
۷۳۸	چغل خوری کرنے کا گناہ	۷۲۶	کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لئے دعا کرنا
۷۳۸	تامل اور کم گوئی کا بیان	۷۲۶	گالی گلوچ کا بیان
۷۳۹	ان من البیان لسحراً۔ فرمان رسول اللہ ﷺ	۷۲۶	قول معروف کا بیان
۷۳۹	تواضع کا بیان	۷۲۷	نیک مملوک (غلام) کی فضیلت
۷۳۹	ظلم کا بیان	۷۲۷	معاشرت کا بیان
۷۳۹	نعمت میں عیب جوئی ترک کرنا	۷۲۸	بدگمانی کا بیان
۷۴۰	مؤمن کی تعظیم کرنا	۷۲۸	خوش مذاقی اور خوش طبعی کا بیان
۷۴۰	تجربہ کا بیان	۷۲۹	جھگڑے اور تکرار کا بیان
۷۴۰	جو شے اپنے پاس نہ ہو اس پر فخر کرنا	۷۳۰	حسن سلوک کا بیان
۷۴۱	احسان کے بدلہ تعریف کرنا	۷۳۰	محبت اور بغض میں میانہ روی اختیار کرنا
۷۴۱	ابواب الطب	۷۳۰	تکبر اور کبر کا بیان
۷۴۱	پرہیز کا بیان	۷۳۱	حسن اخلاق سے متعلق احادیث
۷۴۲	دوا اور اس کی فضیلت	۷۳۲	احسان اور غفودرگزر کا بیان
۷۴۲	مریض کو کیا کھلایا جائے؟	۷۳۳	مسلمان بھائیوں سے میل ملاقات کرنا
۷۴۳	مریض کو کھانے پینے پر مجبور نہ کیا جائے	۷۳۳	حیاء کا بیان
۷۴۳	کلونجی کا بیان۔ حۃ السوداء	۷۳۴	آہستگی اور عجلت کا بیان
۷۴۳	اونٹوں کا پیشاب پینے کا بیان	۷۳۴	نرم دلی کا بیان
۷۴۳	زہر خورانی وغیرہ سے خودکشی کرنے کا بیان	۷۳۴	مظلوم کی دعا کا بیان
۷۴۴	نشہ آور چیز سے علاج کرنا	۷۳۵	آنحضرت ﷺ کے اخلاق کا بیان
۷۴۵	تاک میں دوا ڈالنا	۷۳۵	حسن عہد کا بیان
۷۴۵	داغنے کی کراہیت کا بیان	۷۳۶	اخلاق عالیہ کے بارے میں احادیث
۷۴۶	داغنے کے جواز کا بیان	۷۳۶	لعن و طعن کا بیان
		۷۳۶	غصہ کی زیادتی سے متعلق حدیث

صفحہ	ابواب و مضامین	صفحہ	ابواب و مضامین
۷۶۰	ذوی الأرحام	۷۴۶	توضیح حدیث الباب
۷۶۰	یعنی بھائی بہن	۷۴۶	حجامت (چھپنے) لگانے کا بیان
۷۶۰	علاقائی بھائی بہن	۷۴۷	مہندی سے دوا علاج کرنا
۷۶۰	اخینائی بھائی بہن	۷۴۸	جھاڑ پھونک اور دم کرنے کی کراہیت
۷۶۰	جد صحیح	۷۴۸	جھاڑ پھونک وغیرہ کرنے کی اجازت کا بیان
۷۶۰	جد فاسد	۷۴۹	توضیح مسئلہ الباب
۷۶۰	جدہ صحیحہ	۷۴۹	معوذتین پڑھ کر پھونکنا
۷۶۰	جدہ فاسدہ	۷۴۹	نظر لگ جانے پر دم کرنے کا حکم
۷۶۰	ترکہ	۷۵۰	نظر لگنا حق ہے
۷۶۰	عول	۷۵۰	مسئلہ الباب کی وضاحت
۷۶۰	رد	۷۵۰	تعویذ، دم وغیرہ کر کے اجرت لینا
۷۶۰	مناسخہ	۷۵۱	دم اور ادویات کا بیان
۷۶۰	اولاد	۷۵۲	عجوه اور کماۃ کا بیان
۷۶۰	جدول سمجھنے کا طریقہ	۷۵۳	کاہن کی اجرت کا بیان
۷۶۱	ذوی الأرحام کی اقسام اور ان کا حکم	۷۵۳	گلے میں تعویذ وغیرہ ڈالنے کا بیان
۷۶۱	باب: مال وراثت کے حقدار وارث ہیں	۷۵۴	مسئلہ الباب کی مزید تحقیق
۷۶۱	فرائض کی تعلیم کا بیان	۷۵۴	پانی سے بخار کم اور ہلکا کرنا
۷۶۱	لڑکیوں کی میراث کا بیان	۷۵۵	بچے کو دودھ پلانے کی حالت میں بیوی سے جماع کرنا
۷۶۲	بیٹیوں کے ساتھ پوتیوں کی میراث	۷۵۵	ذات الحجب کے علاج کا بیان
۷۶۲	سگے بھائیوں کی میراث	۷۵۶	سنا کے بیان میں
۷۶۳	بیٹیوں اور بیٹوں کی میراث	۷۵۶	شہد کا بیان
۷۶۳	بہنوں کی میراث	۷۵۷	رماہ سے علاج کا بیان
۷۶۳	عصبات کی میراث	۷۵۸	ابواب الفرائض
۷۶۳	دادا کی میراث	۷۵۸	میراث کی اصطلاحات
۷۶۵	دادی، نانی کی میراث	۷۵۹	ذوی الفروض
۷۶۵	باپ کی موجودگی میں دادی کی میراث	۷۶۰	عصبات
۷۶۶	ماموں کی میراث		

صفحہ	ابواب ومضامین	صفحہ	ابواب ومضامین
۷۷۷	ابواب القدر	۷۶۶	جس کی اس حالت میں موت آئے کہ وارث کوئی نہ ہو
۷۷۷	توضیح مسئلہ تقدیر	۷۶۷	مسلمان اور کافر کے درمیان کوئی میراث نہیں
۷۷۸	تقدیر کے مسئلہ میں بحث سے ممانعت	۷۶۸	قاتل کو میراث سے محروم کرنا
۷۷۸	توضیح اشکال	۷۶۸	شوہر کی دیت میں سے بیوی کا حصہ دینا
۷۷۸	بدبختی اور نیک بختی کے متعلق	۷۶۸	میراث و رثاء کی اور دیت عصبہ پر واجب الادا ہے
۷۷۹	اعمال کی مقبولیت کا مدار خاتمہ پر ہے	۷۶۹	جو شخص کسی مسلمان کے ہاتھ پر مسلمان ہو
۷۸۰	ہر مولود فطرت پر پیدا ہوتا ہے	۷۶۹	جو شخص ولاء کا وارث نہیں ہوتا
۷۸۰	توضیح حدیث الباب	۷۶۹	حدیث ثانی متعلقہ مسئلہ بالا
۷۸۱	تقدیر کو صرف دعا ہی لوٹا سکتی ہے	۷۷۰	ابواب الوصایا
۷۸۱	توضیح مسئلہ الباب	۷۷۰	ثلث ۳/۱ مال کی وصیت
۷۸۱	لوگوں کے قلوب اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں	۷۷۱	وصیت کی ترغیب کا بیان
۷۸۱	اللہ نے جنتیوں اور دوزخیوں کے متعلق کتاب لکھی ہوئی ہے	۷۷۱	آنحضرت ﷺ نے وصیت نہیں کی
۷۸۳	عدوی، صفر اور ہامہ کی نفی	۷۷۲	وارث کے لئے کوئی وصیت نہیں
۷۸۳	تقدیر خیر و شر پر ایمان لانا	۷۷۳	قرض وصیت پر مقدم ہوگا
۷۸۴	ہر شخص کی موت اس کی مقررہ جگہ پر آتی ہے	۷۷۳	موت کے وقت صدقہ کرنا یا غلام آزاد کرنا
۷۸۴	رقیہ اور دو تقدیر کو رد نہیں کر سکتے	۷۷۳	باب بلا عنوان
۷۸۴	فرقہ قدریہ کا بیان	۷۷۴	ابواب الولاء والہبۃ
۷۸۵	رضاء بالقضاء کا بیان	۷۷۴	ولاء آزاد کرنے والے کا حق ہے
۷۸۵	باب بلا عنوان	۷۷۴	ولاء بیچنے یا ہبہ کرنے کی ممانعت
۷۸۷	ابواب الفتن	۷۷۵	باب اور آزاد کرنے والے کے علاوہ کسی کو باپ یا معتق کہنا
۷۸۷	تین جرموں کے علاوہ خون مسلم حرام ہے	۷۷۵	جو شخص اپنے بیٹے کی نسبت کا انکار کر دے
۷۸۸	جان و مال کی حرمت	۷۷۶	قیافہ شناس کا بیان
۷۸۸	کسی مسلمان کو گھبراہٹ میں بتلا کرنے کی ممانعت	۷۷۶	آنحضرت ﷺ کا ہدیہ کی ترغیب دلانا
۷۸۹	مسلمان کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرنے کی ممانعت	۷۷۶	ہدیہ دینے یا ہبہ کے بعد واپس لینا
۷۸۹	نگلی تلوار لینے دینے کی ممانعت	۷۷۷	حدیث ثانی متعلقہ مسئلہ بالا
۷۸۹	جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے		

صفحہ	ابواب و مضامین	صفحہ	ابواب و مضامین
۸۰۳	اہل شام کی فضیلت	۷۹۰	جماعت کی پابندی کرنا
۸۰۳	حضور ﷺ کی حدیث باہمی قتل سے متعلق	۷۹۱	منکرات کو نہ روکنے پر اللہ کا عذاب نازل ہونا
۸۰۴	ایک فتنہ جو اندھیری راتوں کی طرح ہوگا	۷۹۱	توضیح حدیث الباب
۸۰۵	قتل کا بیان	۷۹۲	امر بالمعروف نہی عن المنکر
۸۰۶	لکڑی کی تلوار بنانے کا حکم	۷۹۲	برائی ختم کرنے کے درجے
۸۰۷	قیامت کی علامات	۷۹۳	باب متعلقہ مسئلہ بالا
۸۰۹	آنحضرت ﷺ کی بعثت قرب قیامت کی نشانی ہے	۷۹۳	ظالم سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے افضل جہاد ہے
۸۱۰	ترکوں سے جنگ کا بیان	۷۹۴	نبی کریم ﷺ کا امت کے لئے تین دعائیں مانگنا
۸۱۰	کسریٰ کی ہلاکت کے بعد کوئی کسریٰ نہ ہوگا	۷۹۵	جو شخص زمانہ فتنہ میں موجود ہو اس کے لئے کیا حکم ہے
۸۱۱	حجاز سے آگ نکلنے سے قبل قیامت قائم نہیں ہوگی	۷۹۵	امانت داری کا اٹھ جانا
۸۱۱	تیس کذاب ظاہر ہونے سے قبل قیامت کا نہ آنا	۷۹۶	امم سابقہ کی عادت کا اس امت میں ہونا
۸۱۱	بنو ثقیف کے کذاب اور میر کا بیان	۷۹۶	درندوں کے کلام کا بیان
۸۱۲	تیسری صدی کے متعلق حدیث	۷۹۷	چاند کے پھٹنے کا بیان
۸۱۲	خلفاء کا بیان	۷۹۷	زمین میں دھسنے کا بیان
۸۱۳	خلافت کا بیان	۷۹۸	توضیح۔ علامات قیامت کا بیان
۸۱۴	خلفاء قیامت تک قریش ہی میں سے ہوں گے	۷۹۸	دابۃ الارض کا خروج
۸۱۴	گمراہ حکمرانوں کا بیان	۷۹۸	یا جوج و ماجوج کا خروج
۸۱۵	مہدی کا بیان	۷۹۸	آگ کا خروج
۸۱۶	عیسیٰ بن مریم کے نزول کا بیان	۷۹۸	دھوکے کا چھانا
۸۱۶	دجال کے بیان سے متعلق احادیث	۷۹۸	تیز ہوا کا چلنا
۸۱۷	دجال کا خروج کہاں سے ہوگا	۷۹۸	دھسنے کا عذاب
۸۱۸	دجال کے نکلنے کی نشانیاں	۷۹۹	سورج کا مغرب سے طلوع ہونا
۸۱۸	فتنہ دجال کا بیان	۷۹۹	خروج یا جوج و ماجوج
۸۲۱	صفات دجال کا بیان	۸۰۰	خوارج کا بیان
۸۲۲	دجال مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوگا	۸۰۰	اثرہ کا بیان
۸۲۲	حضرت عیسیٰ بن مریم دجال کو قتل کریں گے	۸۰۲	آپ ﷺ کا صحابہؓ کو قیامت تک کی خبریں دینا اور اس
۸۲۳	ابن صیاد کا بیان	۸۰۲	سلسلہ کی طویل حدیث

صفحہ	ابواب ومضامین	صفحہ	ابواب ومضامین
۸۳۸	توضیح مسئلہ الباب	۸۲۳	توضیح احادیث باب
۸۳۸	خواب بیان کرنے میں جھوٹ بولنے والا شخص	۸۲۶	باب بلا عنوان
۸۳۸	باب بلا عنوان	۸۲۷	ہوا کو برا بھلا کہنے کی ممانعت
۸۳۸	باب بلا عنوان	۸۲۸	فتن سے متعلق دوسری احادیث
۸۳۹	تراز و اور ڈول کا بیان	۸۳۰	توضیح حدیث حدیفہ
۸۴۰	توضیح حدیث الباب	۸۳۱	فتنوں کے بارے میں مختلف احادیث
۸۴۰	حدیث عبداللہ بن عمر	۸۳۳	ابواب الرؤیا
۸۴۰	توضیح حدیث بالا	۸۳۳	مؤمن کا خواب نبوت کا ۳۶ واں حصہ ہے
۸۴۱	تعبیر الرؤیا سے متعلق مختلف احادیث اور ان کی توضیح	۸۳۴	نبوت کے ختم اور بشرات کے باقی رہنے کا بیان
۸۴۳	ابواب الشهادات	۸۳۵	توضیح حدیث الباب
۸۴۳	توضیح برائے ضابطہ شہادت	۸۳۶	آنحضرت ﷺ کا فرمان اپنی رویت سے متعلق
۸۴۳	گواہی اور شہادت کے بارے میں قرآن حکیم کی ہدایت	۸۳۶	خواب میں ناپسندیدہ چیز دیکھنے والے کے لئے حکم
۸۴۴	جھوٹی شہادت کا بیان	۸۳۶	توضیح حدیث الباب
۸۴۴	شہادت اور گواہی کے متعلق آنحضرت ﷺ کے مختلف ارشادات	۸۳۸	خواب کی تعبیر کا بیان

# جامع ترمذی شریف

جلد اول

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۱۔ مَا جَاءَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوَرٍ

۱۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَمَارِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ وَنَاهِنَادُ نَا وَكَيْعُ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سَمَاكٍ عَنْ مِصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوَرٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ وَقَالَ هَذَا فِي حَدِيثِهِ إِلَّا بِطَهْوَرٍ

ابو یحییٰ ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث اس باب میں اصح اور احسن ہے۔ اس باب میں ابوالخلیج بن اسامہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ ابوالخلیج اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ ابو ہریرہ اور انس سے بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ ابوالخلیج اسامہ کا نام عامر ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا نام زید بن اسامہ بن عمیر الہندی ہے۔

باب ۲۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الطَّهْوَرِ

۲۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْإِنصَارِيُّ نَا مَعْنَى بِنِ عَيْسَى نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا قَتِيبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَهِيلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُؤْمِنُ فَعَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ إِخْرِ قَطْرِ الْمَاءِ أَوْ نَحْوِ هَذَا وَإِذَا عَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ إِخْرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَفْسًا مِنَ الذُّنُوبِ۔

### ابواب طہارت سے متعلق آنحضرت ﷺ

سے مروی احادیث

باب ۱۔ کوئی نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہوتی۔

۱۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کوئی نماز بغیر طہارت کے اور کوئی صدقہ خیانت کے مال سے قبول نہیں ہوتا۔ نیز ہناد اپنی روایت میں بغیر طہور کی جگہ الا بطہور نقل کرتے ہیں۔

ابو یحییٰ ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث اس باب میں اصح اور احسن ہے۔ اس باب میں ابوالخلیج بن اسامہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ ابوالخلیج اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ ابو ہریرہ اور انس سے بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ ابوالخلیج اسامہ کا نام عامر ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا نام زید بن اسامہ بن عمیر الہندی ہے۔

باب ۲۔ وضو کی فضیلت

۲۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جب مسلمان یا فرمایا مومن بندہ وضو کرتے ہوئے اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے وہ تمام گناہ پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ (یا اس طرح فرمایا) دھل جاتے ہیں جو اس کی آنکھوں سے سرزد ہوئے ہوتے ہیں اور جب دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو ان سے سرزد ہونے والی تمام خطائیں پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتی ہیں یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر نکلتا ہے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسے مالک بھی سمیل سے، وہ اپنے والد سے اور وہ ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں۔ سمیل کے والد ابوصالح کا نام ذکوان اور کنیت ابوصالح السہان (گھی بیچنے والا) ہے۔ ابو ہریرہ کے نام میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ عبد شمس اور بعض جن میں بخاری بھی شامل ہیں، کہتے ہیں کہ ان کا نام عبداللہ بن عمرو ہے اور یہی صحیح ہے۔ اس باب میں عثمان، ثوبان، صناع، عمرو بن عبسہ، سلیمان اور عبد اللہ بن عمرو سے بھی احادیث منقول ہیں۔ صنابجی جو کہ حضرت صدیق سے روایت کرتے ہیں انہیں حضور ﷺ

سے سماع نہیں۔ کیوں کہ یہ شرف ملاقات کی غرض سے سفر ہی میں تھے کہ حضور ﷺ کی وفات ہو گئی۔ ان کا نام عبدالرحمن بن عسیلہ اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ دوسرے صنائحی صنایح بن اعمر احمسی ہیں یہ صحابی ہیں ان سے صرف ایک حدیث مروی ہے۔ کہ آپ فرماتے تھے کہ میں قیامت کے دن اور امتوں پر تمہاری کثرت کی وجہ سے فخر کرنے والا ہوں لہذا میرے بعد آپس میں نہ لڑنا۔

باب ۳۔ مَا جَاءَ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ

باب ۳۔ طہارت نماز کی کنجی ہے۔

۳۔ حدثنا هنا دو قتیبة ومحمود بن غيلان قالوا نا وكيع عن سفيان وثنا محمد بن بشارنا عبدالرحمن نا سفيان عن عبدالله بن محمد بن عقيل بن محمد ابن الحنفية عن علي بن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ۔

۳۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: طہارت نماز کی کنجی ہے اس کی تحریم تکبیر اور تحلیل سلام ہے۔

امام ترندی کہتے ہیں یہ اس باب کی اصح اور احسن حدیث ہے عبداللہ بن محمد بن عقیل صدوق (سچے) ہیں بعض محدثین نے ان کے حافظے پر اعتراض کیا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ امام احمد، اسحاق اور حمیدی، عبداللہ بن محمد بن عقیل کو حجت تسلیم کرتے ہیں۔ بخاری کہتے ہیں ان کی حدیث صحت کے قریب ہے۔ اس باب میں جابرؓ اور ابو سعیدؓ سے بھی حدیثیں منقول ہیں۔

باب ۴۔ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ

باب ۴۔ قضائے حاجت کے لئے جاتے ہوئے پڑھنے کی دعا۔

۵۔ حدثنا قتيبة وهناد قالنا نا وكيع عن شعبة عن عبدالعزیز بن صهیب عن أنس بن مالك قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ قَالَ شُعْبَةُ وَقَدْ قَالَ مَرَّةً أُخْرَى أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبِيثِ أَوِ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ۔

۵۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے فرماتے: ”اللهم انی اعوذ بک“ (اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں) شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اور مرتبہ فرمایا: اعوذ باللہ من الخبث والخبیث او الخبث والخبائث (میں شر سے اور اہل شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں یا فرمایا ناپاک مذکر جنوں اور ناپاک مؤنث جنوں سے۔)

اس باب میں علیؓ، زید بن ارقمؓ، جابرؓ اور ابن مسعودؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ امام ترندی کہتے ہیں حدیث انسؓ اس باب میں اصح اور احسن ہے جب کہ زید بن ارقمؓ کی روایت میں اضطراب ہے۔ ہشام دستوائی اور سعید بن ابی عمرو، قتادہ سے روایت کرتے ہیں۔ پھر سعید، قاسم بن عوف شیبانی سے اور وہ زید بن ارقمؓ سے روایت کرتے ہیں۔ ہشام، قتادہ سے اور وہ بھی زید بن ارقمؓ سے روایت کرتے ہیں۔ شعبہ اور معمر نے اسے قتادہ سے اور انہوں نے نصر بن انسؓ سے نقل کیا ہے۔ شعبہ کہتے ہیں میں نے امام بخاری سے اس کے متعلق سوال کیا تو کہنے لگے کہ احتمال ہے کہ قتادہ نے دونوں سے نقل کیا ہو۔

۵۔ حدثنا أحمد بن عبدة الضبی نا حماد بن زید عن عبدالعزیز بن صهیب عن أنس بن مالك أنَّ

۵۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ بیت الخلاء جاتے تو فرماتے: اللهم انی اعوذ بک من الخبث

وَالْحَبَائِثُ۔ (اے اللہ میں ناپاکی اور بُرے کاموں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

امام ترمذی اس حدیث کو حسن صحیح کہتے ہیں۔

باب ۵۔ بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد کی دُعا

۶۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب بیت الخلاء سے نکلتے تو فرماتے ”غفرانک“ (اے اللہ میں تیری بخشش کا طلبگار ہوں۔

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ۔

باب ۵۔ مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ۔

۶۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَالِكِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يَوْسُفَ بْنِ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ غُفْرَانَكَ۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے اس لیے کہ ہم اسے اسرائیل کی روایت کے علاوہ کسی روایت سے نہیں جانتے اور اسرائیل، یوسف بن ابوربدہ سے روایت کرتے ہیں۔ ابوربدہ بن ابوموسیٰ کا نام عامر بن عبداللہ بن قیس الاشعری ہے۔ اس باب میں حضرت عائشہ کی حدیث کے سوا کسی اور حدیث کا مجھے علم نہیں۔

باب ۶۔ قضاے حاجت کے وقت قبلہ رخ ہونے کی ممانعت

۷۔ حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم قضاے حاجت کے لئے جاؤ تو قبلہ کی طرف رخ نہ کرو اور نہ پشت بلکہ مغرب یا مشرق کی طرف رخ کیا کرو۔ ابویوب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ جب ہم شام گئے تو دیکھا کہ بیت الخلاء قبلہ رخ بنے ہوئے تھے لہذا ہم رخ پھیر لیتے اور استغفار کرتے۔

باب ۶۔ فِي النَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ

۷۔ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ نَاسِغِيَانِ ابْنِ عَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا قَالَ أَبُو أَيُّوبَ فَقَدِمْنَا السَّامَ فَوَجَدْنَا مَرًا جِيضٌ قَدْ بُنِيَتْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَتَحَرَّفْنَا عَنْهَا وَنَسْتَعْفِرُ اللَّهَ۔

اس باب میں عبداللہ بن حارث اور معقل بن ابی یسوم (جنہیں معقل بن ابی معقل بھی کہتے ہیں) ابویوب، ابوامامہ اور سہل بن حنفی سے بھی احادیث نقل کی گئی ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ابویوب اس باب میں احسن واضح ہے۔ ابویوب کا نام خالد بن زید اور زہری کا نام محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن شہاب الزہری ہے ان کی کثیت ابوبکر ہے۔ ابولید کی کا کہنا ہے کہ شافعی نے حضور ﷺ کے اسی قول کے متعلق فرمایا کہ یہ حکم جنگل کا ہے جب کہ اسی مقصد کیلئے بنے ہوئے بیت الخلاء میں قبلہ رخ ہونے کی اجازت ہے، اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ احمد بن حنبل کے نزدیک قبلہ کی طرف پشت کرنا جائز اور رخ کرنا منع ہے خواہ بیت الخلاء ہو صحرا۔

توضیح:۔ یہ حکم مدینہ منورہ کا ہے اس لئے کہ وہاں سے قبلہ جنوب کی طرف ہے۔ (مترجم)

باب ۷۔ قبلہ رو ہونے اور پشت کرنے کا جواز

۸۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے قضاے حاجت کے وقت قبلہ رخ ہونے سے منع فرمایا۔ پھر میں نے

باب ۷۔ مَا جَاءَ مِنَ الرَّخِصَةِ فِي ذَلِكَ

۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا نَا وَهَبُ بْنُ جَرِيرٍ نَا أَبِي عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ ابَانَ

بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد اللہ قال نہی  
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ يَبُولُ  
فَرَأَيْتَهُ قَبْلَ أَنْ يُبْقِضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا۔  
آپ ﷺ کی وفات سے ایک سال پہلے آپ ﷺ کو قبلہ کی طرف رخ  
کرتے ہوئے دیکھا۔

اس باب میں عائشہ، ابو قتادہ اور عمار سے بھی احادیث منقول ہیں امام ترمذی کہتے ہیں۔ حدیث جابر اس باب میں حسن غریب  
ہے۔ یہ حدیث ابن ابیہہ ابو زبیر سے وہ جابر سے اور وہ ابو قتادہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی ﷺ کو قبلہ زوہر کر پیشاب کرتے  
ہوئے دیکھا۔ ہمیں اس کی خیر تشبیہ نے دی وہ اسے ابن ابیہہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں جابر کی حدیث ابن ابیہہ کی حدیث سے اصح  
ہے ابن ابیہہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں انہیں یحییٰ بن سعید قطان ضعیف کہتے ہیں۔ ہناد، عمدہ سے وہ عبید اللہ بن عمر سے وہ محمد بن یحییٰ  
بن حبان سے وہ اپنے پچا و اسح بن حبان اور وہ ابن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ ابن عمر نے فرمایا: ایک مرتبہ میں حضرت حصہ کے گھر پر چڑھا  
تو رسول اللہ ﷺ کو قصائے حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ان کا رخ شام اور پشت قبلہ کی طرف تھی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

مسئلہ: حنیفہ کے نزدیک حضرت ابویوب کی روایت راجح اور اسی پر فتویٰ ہے لہذا نہ قبلہ کی طرف رخ کرنا جائز ہے اور نہ پشت۔ اس  
لئے کہ یہ باتفاق محدثین اصح مافی الباب اور قوی ہے جب کہ مخالف روایات فعلی ہیں اور قاعدہ یہ ہے کہ ایسی روایت میں تعارض کے وقت قوی  
احادیث کو ترجیح دی جائے گی۔ پھر ابویوب کی روایت واضح اور مخالف روایات غیر واضح ہیں کیونکہ ان میں بہت سے احتمالات ہیں۔

۱۔ احتمال ہے کہ آپ ﷺ کی پشت مبارک درحقیقت قبلہ کی طرف نہ ہو لیکن آپ ﷺ نے ابن عمر کو دیکھ کر تعاضد حیاتی اپنی اہلیت بدلی ہو۔  
۲۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ آپ ﷺ کی پشت مبارک پوری طرح قبلہ کی طرف نہ ہو بلکہ ٹھوڑے سے مخرک ہوں اور حضرت ابن عمر  
دور سے اس معمولی انحراف کا ادراک نہ کر سکے ہوں۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۸۔ النَّهْيُ عَنِ الْبَوْلِ قَائِمًا

باب ۸۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی ممانعت

۹۔ حدثنا علي بن حجر انا شريك عن المقدم بن  
شريح عن ابيه عن عائشة قالت من حدثكم ان  
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلَا  
تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا۔  
۹۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ حضور ﷺ  
کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو اس کی تصدیق نہ کرو کیوں کہ آپ  
ﷺ ہمیشہ بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے۔

اس باب میں عمر اور بریدہ سے بھی روایت ہے ابو عیسیٰ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی حدیث اس باب میں احسن اور اصح ہے۔ عمر کی  
حدیث عبدالکریم بن ابی الخارق سے منقول ہے۔ وہ نافع سے وہ ابن عمر سے اور ابن عمر، حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں کہ عمر نے  
فرمایا: مجھے رسول اللہ ﷺ نے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھ کر فرمایا: اے عمر کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو۔ پھر میں نے کبھی  
کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ اس حدیث کو عبدالکریم بن ابی الخارق نے مرفوع نقل کیا ہے لیکن ابویوب سختیابی انہیں ضعیف کہتے ہیں۔  
نیز وہ محدثین کے نزدیک بھی ضعیف ہیں۔ عبید اللہ، نافع سے اور وہ ابن عمر سے نقل کرتے ہیں۔ کہ حضرت عمر نے فرمایا: میں جب سے  
مسلمان ہوا کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ یہ حدیث عبدالکریم کی حدیث سے اصح ہے جب کہ حدیث بریدہ غیر محفوظ ہے۔ اس  
باب میں نبی سے مراد نبی تزییہ ہے نہ کہ تجزیہ۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا تہذیب سے نا آشنا  
ہونے کی دلیل ہے۔

باب ۹۔ مَا جَاءَ مِنَ الرُّخَصَةِ فِي ذَلِكَ

۱۰۔ حَدَّثَنَا هِنَادٌ نَا وَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُدَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَتَى سِبَاطَةَ قَوْمٍ قَبَالَ عَلَيْهَا فَأَتَمَّا فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوءٍ فَذَهَبْتُ لِأَتَأَخَّرَ عَنْهُ فَذَعَانِي حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ عَقِيْبِهِ فَنَوَضُّأً وَمَسَحَ عَلَيَّ حُفْيِهِ۔

باب ۹۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا جواز

۱۰۔ ابوداؤد سے منقول ہے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: حضور ﷺ ایک قوم کی کوڑی پر آئے اور اس پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ پھر میں آپ ﷺ کے لئے وضو کا پانی لایا اور پیچھے ہٹنے لگا۔ لیکن حضور ﷺ نے مجھے بلایا۔ یہاں تک کہ میں بالکل ان کے نزدیک پہنچ گیا (پیچھے) پھر آپ ﷺ نے وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا۔

ابویسلی کہتے ہیں کہ منصور اور عبیدہ رضی نے ابی داؤد سے اور انہوں نے حذیفہ سے اعمش ہی کی طرح کی حدیث نقل کی ہے۔ اس کے علاوہ حماد بن ابی سلیمان، عاصم بن بہدلہ ابوداؤد سے وہ مغیرہ بن شعبہ سے اور وہ نبی ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ ابوداؤد کی حدیث حذیفہ سے صحیح ہے اور اہل علم کی ایک جماعت نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو جائز کہا ہے۔

مسئلہ: اس حدیث اور حضرت عائشہ کی حدیث میں تعارض نہیں ہے کیوں کہ حضرت عائشہ نے آپ ﷺ کی عادت بیان کی ہے اور ایک مرتبہ سے خلاف عادت پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتا۔ پھر ممکن ہے کہ حضرت عائشہ اس واقعے سے بے خبر ہوں کیوں کہ یہ گھر سے باہر کا واقعہ ہے یہ بھی ممکن ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی وجہ کپڑوں کو گندگی سے پاک رکھنا ہو۔ یا گھٹنے میں زخم کی وجہ سے آپ کے لیے بیٹھنا مشکل ہو۔ (مترجم)

باب ۱۰۔ فِي الْاِسْتِثَارِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

۱۱۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَنَسِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرَفَعْ يَدَيْهِ حَتَّى يَدُ نَوْمٍ مِنَ الْأَرْضِ۔

باب ۱۰۔ قضائے حاجت کے وقت پردہ کرنا

۱۱۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ جب قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے تو اس وقت تک کپڑے نہ اٹھاتے جب تک زمین کے بالکل قریب نہ ہو جاتے۔

ابویسلی کہتے ہیں: محمد بن ربیعہ بھی اعمش سے اور وہ حضرت انس سے اس حدیث کو ایسے ہی نقل کرتے ہیں۔ پھر کعب اور حماد نے اعمش سے روایت کیا ہے کہ اعمش نے کہا کہ ابن عمر کہا کرتے تھے کہ جب حضور ﷺ قضائے حاجت کا ارادہ کرتے تو اس وقت تک کپڑا نہ اٹھاتے جب تک زمین کے نزدیک نہ ہو جاتے۔ یہ دونوں حدیثیں مرسل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اعمش نے انس بن مالک یا کسی بھی صحابی سے کوئی حدیث نہیں سنی اور اعمش کا نام سلیمان بن مهران ہے اور کنیت ابو محمد تھی۔

باب ۱۱۔ كَرَاهِيَةِ الْاِسْتِثَارِ بِالْيَمِينِ۔

۱۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ نَاسِفِيَانِ بْنِ عَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَمْسُ الرَّجُلُ ذِكْرَهُ بِيَمِينِهِ۔

باب ۱۱۔ داہنے ہاتھ سے استنجاء کرنا مکروہ ہے۔

۱۲۔ عبداللہ بن ابی قتادہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے آنکھ تامل کو داہنے ہاتھ سے چھونے سے منع فرمایا۔

اس باب میں حضرت عائشہ سلیمان، ابو ہریرہ اور اہل بن حنیف سے بھی احادیث منقول ہیں۔ ابویسلی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابوقتادہ کا نام حارث بن ربیع ہے۔ اہل علم اسی حکم پر عمل کرتے ہوئے سیدھے ہاتھ سے استنجاء کو مکروہ کہتے ہیں۔

باب ۱۲۔ الْأَسْتِنْحَاءُ بِالْحِجَارَةِ۔

باب ۱۲۔ پتھروں سے استنجاء کرنا چھونے سے منع فرمایا۔

۱۳۔ حَدَّثَنَا هِنَادٌ أَبُو معاوية عن الاعمش من

۱۳۔ عبد الرحمن بن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سلمان رضی اللہ عنہ فارسی

إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قِيلَ لِسَلْمَانَ

سے کہا گیا تمہارے نبی ﷺ نے تو تمہیں ہر چیز سکھائی یہاں تک کہ

قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيَّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْحِرَاءَةَ قَالَ

قضائے حاجت کا طریقہ بھی بتایا۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں آپ

سَلْمَانَ أَجَلَ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ

ﷺ نے ہمیں قضائے حاجت کے وقت قبلہ رو ہونے سے منع کیا،

أَوْ نَسْتَنْجِي بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِي أَحَدُنَا بِأَقْلٍ مِنْ

دائیں ہاتھ سے استنجاء کرنے، تین ڈھیلوں سے کم کے ساتھ استنجاء

ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِي بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ۔

کرنے اور گوبر یا لید اور ہڈی سے استنجاء کرنے سے بھی منع فرمایا۔

اس باب میں عائشہ، خزیمہ بن ثابت، جابر اور خلد بن سائب سے بھی احادیث منقول ہیں۔ خلد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ابو یسعی کہتے ہیں: سلمان کی حدیث حسن صحیح ہے۔ یہی قول صحابہ اور اکثر اہل علم کا ہے ان کی رائے میں اگر پیشاب یا پاخانہ کا اثر پانی کے بغیر ختم ہو جائے تو پتھروں سے ہی استنجاء کافی ہے۔ ثوری، ابن مبارک شافعی، احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔

باب ۱۳۔ الْأَسْتِنْحَاءُ بِالْحَجَرَيْنِ

باب ۱۳۔ دو پتھروں سے استنجاء کرنا۔

۱۴۔ حَدَّثَنَا هِنَادٌ وَقَتِيْبَةُ قَالَا نَا وَكَيْعٌ عَنْ اسرئيل

۱۴۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ

عَنْ ابى اسحاق عن ابى عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ

قضائے حاجت کے لئے نکلے تو فرمایا: میرے لئے تین پتھر تلاش کرو۔

خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ فَقَالَ

عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں دو پتھروں اور ایک گوبر کا ٹکڑا لے کر

الْتِمَسُ لِي ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ قَالَ فَاتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْيَةٍ

حاضر ہوا۔ آپ ﷺ نے پتھر لے لئے اور گوبر کا ٹکڑا پھینک دیا اور کہا کہ

فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَالْقَى الرُّوْيَةَ وَقَالَ إِنَّهَا الرَّجْسُ۔

یہ ناپاک ہے۔

امام ترمذی کہتے ہیں: قیس بن ربیع ابواسحاق سے اور وہ ابو عبیدہ سے اور وہ عبداللہ سے اسرائیل کی حدیث کی طرح ہی نقل کرتے ہیں۔ معمر اور عمار بن زریق بھی ابواسحاق سے وہ علقمہ سے اور وہ عبداللہ سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں۔ زہیر، ابواسحاق سے وہ عبدالرحمن بن اسود سے وہ اپنے والد اسود بن یزید سے اور وہ عبداللہ سے روایت کرتے ہیں۔ زکریا بن ابی زائدہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عبدالرحمن سے پوچھا کہ ان میں سے کونسی روایت صحیح ہے تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے امام بخاری سے پوچھا انہوں نے بھی کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ شاید ان کے نزدیک زہیر کی حدیث صحیح ہے وہ ابواسحاق سے وہ عبدالرحمن بن اسود سے وہ اپنے والد سے اور وہ عبداللہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ اس حدیث کو بخاری نے اپنی کتاب میں بھی تحریر کیا ہے۔ اس باب میں میرے نزدیک صحیح حدیث اسرائیل اور قیس کی ہے۔ وہ ابواسحاق، وہ ابو عبیدہ اور وہ عبداللہ سے نقل کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اسرائیل، ابواسحاق کی روایت میں اور لوگوں کی نسبت اثبت اور احفظ ہیں۔ ان کی روایت کی متابعت قیس بن ربیع نے کی ہے میں نے ابوموسیٰ محمد بن شنی کو کہتے ہوئے سنا کہ عبدالرحمن بن مہدی کہتے تھے کہ مجھ سے سفیان ثوری کی ابواسحاق سے منقول جو احادیث فوت ہو گئیں اس کا سبب یہ ہے کہ میں نے اسرائیل پر تکیہ کیا اس لیے کہ وہ ان کو پورا پورا بیان کرتے تھے۔ ابواسحاق کہتے ہیں: زہیر کی روایات ابی اسحاق سے زیادہ قوی نہیں کیوں کہ زہیر کا ان سے سماع آخر وقت میں ہوا۔ میں نے احمد بن حسن کو کہتے ہوئے سنا کہ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جب تم زائدہ اور زہیر کی حدیث سنو تو کسی اور سے سننے کی پرواہ نہ کرو۔ الا یہ کہ وہ ابواسحاق سے مروی ہو۔ ابواسحاق کا نام عمرو بن عبداللہ السمعی الہمدانی ہے۔ ابو عبیدہ بن

عبداللہ بن مسعود نے اپنے والد سے کوئی حدیث نہیں سنی۔ ان کا نام ہمیں معلوم نہیں۔ محمد بن بشار بھی محمد بن جعفر سے وہ شعبہ سے اور وہ عمرو بن مرہ سے نقل کرتے ہیں کہ عمرو نے ابو عبید اللہ بن عبداللہ سے پوچھا کیا تمہیں عبداللہ سے سنی ہوئی کچھ باتیں یاد ہیں تو انہوں نے جواب دیا، نہیں۔

باب ۱۴۔ كَرَاهِيَةَ مَا يُسْتَنْجَى بِهِ

باب ۱۴۔ جن چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔

۱۵۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ گوبر اور ہڈی سے استنجانہ کرو۔ اس لئے کہ یہ تمہارے بھائی جنوں کی غذا ہے۔

۱۵۔ حدثنا هناد نا حفص بن غياث عن داؤد بن ابي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالبروث ولا بالعظام فإنه زاد اخوانكم من الجن۔

اس باب میں ابو ہریرہ، سلمان، جابر اور ابن عمرؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں: کہ یہ حدیث اسماعیل بن ابراہیم وغیرہ سے بھی منقول ہے وہ داؤد بن ابی ہند سے وہ شعی سے وہ علقمہ سے اور وہ عبداللہ سے نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعودؓ لیلۃ الجن میں حضور ﷺ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے پوری حدیث کو بیان کیا۔ شعی کہتے ہیں، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ گوبر اور ہڈیوں سے استنجانہ کر دیوں کہ وہ تمہارے جن بھائیوں کی غذا ہے۔ اسماعیل کی روایت حفص بن غیاث سے صحیح ہے اور اہل علم اسی پر عمل کرتے ہیں پھر اس باب میں جابر اور ابن عمرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔

باب ۱۵۔ الْأَسْتِنْحَاءُ بِالْمَاءِ

باب ۱۵۔ پانی سے استنجا کرنا

۱۶۔ حضرت معاذہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے (عورتوں سے) فرمایا: کہ اپنے شوہروں سے کہو کہ وہ پانی سے استنجا کیا کریں۔ کیوں کہ مجھے ان سے شرم آتی ہے اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

۱۶۔ حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال ثنا ابو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة قالت مررت مرثا أزوا جكن أن يستطيئوا بالماء فإني استحيهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعلہ۔

اس باب میں جریر بن عبداللہ الجلی، انسؓ اور ابو ہریرہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر اہل علم کا عمل ہے کہ وہ پانی سے استنجا کرنے کو اختیار کرتے ہیں گو کہ پتھروں سے استنجا کرنا بھی کافی ہے لیکن پانی کے استعمال کو مستحب اور افضل سمجھتے ہیں۔ سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

باب ۱۶۔ نَاجَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ أَبْعَدَ فِي الْمَذْهَبِ

باب ۱۶۔ رسول اللہ ﷺ کا قضائے حاجت کے لئے دُور جانا۔

۱۷۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضور ﷺ کے ساتھ تھا۔ آپ ﷺ نے قضائے حاجت کا ارادہ کیا تو بہت دور گئے۔

۱۷۔ حدثنا محمد بن بشار نا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في

سَفَرٍ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتَهُ فَأَبْعَدَ فِي الْمَذْهَبِ۔

اس باب میں عبدالرحمن بن ابی قراؤ، ابوقاؤہ، جابر، یحییٰ بن عبید سے بھی روایت ہے۔ یحییٰ اپنے والد، ابوموسیٰ، ابن عباس اور بلال : حارث سے روایت کرتے ہیں۔ ابوعیسیٰ کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضور ﷺ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ پیشاب کرنے کے لیے جہ تلاش کرنے کا اہتمام اس طرح فرماتے جس طرح کہ آرام کے لیے جگہ ڈھونڈنے کا اہتمام فرماتے۔ ابوسلمہ کا نام عبداللہ بن عبدالرحمن بن عوف الزہری ہے۔

باب ۱۷۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْبَوْلِ فِي الْمَغْتَسَلِ

باب ۱۷۔ غسل خانے میں پیشاب کرنا مکروہ ہے۔

۱۸۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ وَاحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ

۱۸۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ

مُوسَى قَالَ اَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ

اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص غسل خانے میں پیشاب کر

اشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ

اس لئے کہ عموماً و سوسہ اسی سے ہوتا ہے۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي

مُسْتَحَمِّهِ وَقَالَ إِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ۔

اس باب میں ایک اور صحابی بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے اور اشعث بن عبداللہ کے علاوہ کسی اور طریق سے اس کے مرفوع ہونے کا ہمیں علم نہیں۔ انہیں اشعث اعمی کہتے ہیں۔ بعض علماء، غسل خانہ میں پیشاب کرنے کو مکروہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اکثر وسوساں اسی سے ہوتے ہیں جب کہ بعض اہل علم جن میں ابن سیرین بھی ہیں اس کی اجازت دیتے ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ عموماً و سوسہ اسی سے ہوتا ہے تو فرمایا: ہمارا رب اللہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ ابن مبارک بھی غسل خانے میں پیشاب کرنے جائز قرار دیتے ہیں بشرطیکہ پانی بہا دیا جائے۔ ابوعیسیٰ کہتے ہیں ہم سے یہ حدیث احمد بن عبدہ اعمی نے حبان سے اور انہوں نے ابن مبارک کے حوالے سے بیان کی ہے۔

باب ۱۸۔ مَا جَاءَ فِي السَّوَاكِ

باب ۱۸۔ مسواک کا حکم

۱۹۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ ثَنَاعِبِدَةُ بْنُ سَلِيمَانَ عَنْ

۱۹۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ضرور انہیں ہر نما

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ أَشَقُّ

کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔

عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث محمد بن اسحاق نے محمد بن ابراہیم سے انہوں نے ابوسلمہ سے انہوں نے زید بن خالد سے اور انہوں نے حضور ﷺ سے نقل کی ہے ابوسلمہ کی ابو ہریرہ سے اور زید بن خالد کی نبی ﷺ سے منقول احادیث دونوں ہی میرے نزدیک صحیح ہیں۔

۲۰۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ عَبْدِ عَنِ اسْحَقِ بْنِ

۲۰۔ حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ زید بن خالد رضی اللہ

مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ

عنه رسول کریم ﷺ کا یہ قول نقل کیا کرتے تھے کہ اگر اپنی امت پر مشقت

کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے اور عشاء کی نماز، رات کے تہائی حصے تک مؤخر کرنے کا ضرور حکم دیتا۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب زید رضی اللہ عنہ نماز کے لئے مسجد میں آتے تو مسواک ان کے کان پر ایسی ہوتی جیسے کاتب کا قلم ہوتا ہے اور اس وقت تک نماز نہ پڑھتے، جب تک مسواک نہ کر لیتے پھر اسے اسی جگہ رکھ لیتے۔

الْجُهَنِي قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَيَّ أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَالِكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَلَا خَرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ قَالَ فَكَانَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ يَشْهَدُ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ وَسِوَاكُهُ عَلَى أُذُنِهِ مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ لَا يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ إِلَّا اسْتَنَّ ثُمَّ رَدَّهُ إِلَى مَوْضِعِهِ۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۹۔ جب کوئی نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ دھونے سے پہلے پانی کے برتن میں نہ ڈالے۔

باب ۱۹۔ مَا جَاءَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْمَسَنَّ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا

۲۱۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اگر تم میں کوئی رات کی نیند سے جاگے تو اپنے ہاتھ کو دو یا تین مرتبہ دھونے سے پہلے برتن میں نہ ڈالے۔ اس لئے کہ اسے نہیں معلوم کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گذاری۔

۲۱۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ أَحْمَدُ بْنُ بَكَّارٍ الدَّمَشْقِيُّ مِنْ وَلَدِ يَسْرِبْنَ ارطاةَ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَا الْوَلِيدُ بْنُ مَسْلَمٍ عَنِ الْوَزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمَسِيبِ عَنِ أَبِي سَلْمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يَدْخُلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ۔

اس باب میں ابن عمر، جابر اور حضرت عائشہ سے احادیث منقول ہیں۔ ابو یعلیٰ کہتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شافعی کہتے ہیں: میں ہر نیند سے بیدار ہونے والے کے لیے ہاتھ دھونا بہتر سمجھتا ہوں۔ اگر وہ دھونے سے پہلے برتن میں ڈال لے تو مکروہ ہے لیکن اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا الا یہ کہ اس کے ہاتھ پر نجاست لگی ہو۔ احمد بن حنبل کے نزدیک رات کی نیند سے بیدار ہونے والا اگر برتن میں ہاتھ ڈال دے تو پانی بہا دینا بہتر ہے جب کہ اسحاق کہتے ہیں کہ کسی بھی وقت نیند سے بیدار ہو کر ہاتھ دھونے سے پہلے پانی میں نہ ڈالا جائے۔

مسئلہ: حنفیہ کے نزدیک اس مسئلے میں تفصیل ہے۔ اگر ہاتھوں پر نجاست لگنے کا خیال ہو تو اس کے باوجود اس نے ہاتھ پانی میں ڈال دیا تو پانی ناپاک ہو گیا اس سے وضو یا غسل نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر نجاست نہ لگی ہو تو ہاتھ پانی میں ڈالنے سے ناپاک نہ ہوگا۔

باب ۲۰۔ فِي التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْوُضُوءِ

باب ۲۰۔ وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا

۲۲۔ رباح بن عبد الرحمن بن ابی سفیان بن حویطب اپنی دادی سے اور وہ اپنے والد سے نقل کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: جو شخص وضو کی ابتداء میں اللہ کا نام نہ لے اس کا وضو ہی نہیں

۲۲۔ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَبِشْرُ بْنُ مَعَاذٍ الْعَقَدِيُّ قَالَا نَابِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنِ أَبِي ثِقَالِ الْمُرِّيِّ عَنِ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي

سُفْيَانُ ابْنُ حُرَيْطٍ عَنْ جَدِّتِهِ عَنْ أَبِيهَا قَالَ هَوَاتَا  
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وُضُوءَ  
لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ۔

اس باب میں عائشہؓ، ابو ہریرہؓ، ابوسعید الخدریؓ، سہل بن سعدؓ اور انسؓ سے بھی حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔ امام احمدؒ کہتے ہیں: میں نے اس باب میں عمدہ سند کی کوئی حدیث نہیں پائی۔ اسحاقؒ کا کہنا یہ ہے کہ اگر قصد التسمیہ چھوڑ دے تو وضو دوبارہ کرنا ہوگا اور اگر بھول کر یا حدیث کی تاویل کر کے چھوڑے تو وضو ہو جائے گا۔ بخاریؒ کہتے ہیں اس باب میں احسن حدیث رباح بن عبد الرحمنؓ کی ہے۔ ابو یعلیٰؒ کہتے ہیں: رباح بن عبد الرحمنؓ اپنی دادی سے اور وہ اپنے والد سے نقل کرتی ہیں ان کے والد سعید بن زید بن عمرو بن نفیلؓ ہیں۔ ابو ثقال المریؒ کا نام ثمامہ بن حصین اور رباح بن عبد الرحمنؓ ابو بکر بن حویطبؓ ہیں۔ ان میں سے بعض راویوں نے اس حدیث کو ابو بکر بن حویطبؓ سے نقل کر کے اسے ان کے دادا کی طرف منسوب کیا ہے۔

مسئلہ: امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک وضو شروع کرتے وقت تسمیہ فرض نہیں ان کا کہنا ہے کہ جو تسمیہ نہ پڑھے، اس کا وضو کمال کو نہیں

پہنچتا۔ (مترجم)

باب ۲۱۔ گلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا

باب ۲۱۔ مَا جَاءَ فِي الْمَضْمُضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ

۲۳۔ سلمہ بن قیسؒ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب وضو کرو تو ناک صاف کرو اور جب استنجاء کے لئے پتھر استعمال کرو تو طاق عدد میں لو۔

۲۳۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ وَحَرِيْرٍ عَن مَنصُورٍ عَن هَلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَن سَلْمَةَ بِنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتِثِرْ وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْزِرْ۔

اس باب میں عثمانؓ، لقیط بن صبرہؓ، ابن عباسؓ، مقداد بن معدیکربؓ، وائل بن حجرؓ اور ابو ہریرہؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ ابو یعلیٰؒ کہتے ہیں سلمہ بن قیسؒ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اور علماء کا کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کے حکم میں اختلاف ہے۔ ابن ابی لیلیٰؒ، عبد اللہ بن مبارکؒ، احمد اور اسحاقؒ کا قول یہ ہے کہ اگر مضمضہ اور استنشاق (کلی، ناک میں پانی ڈالنا) چھوڑ دیا اور نماز پڑھ لی تو نماز کو دہرائے۔ یعنی وضو اور غسل جنابت میں رہ جائے تو دوبارہ کرے اور اگر وضو میں چھوٹے تو نہ کرے۔ یہ قول سفیان ثوریؒ اور بعض (۱) اہل کوفہ کا ہے۔ ایک جماعت کا خیال ہے کہ دونوں میں ہی اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ دونوں ہی سنت ہیں۔ لہذا اعادہ واجب نہیں۔ یہ قول مالکؒ اور شافعیؒ کا ہے۔

باب ۲۲۔ گلی اور ناک میں ایک چٹو سے پانی ڈالنا درست ہے۔

باب ۲۲۔ الْمَضْمُضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ مِنْ كَفِّ وَاحِدٍ

۲۴۔ عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کو ایک ہی چٹو سے کلی کرتے اور ناک میں پانی ڈالتے ہوئے دیکھا۔ آپ ﷺ نے ایسا تین مرتبہ کیا۔

۲۴۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَوْسَى نَا اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَوْسَى نَا خَالِدٍ عَن عَمْرٍو بْنِ يَحْيَى عَن أَبِيهِ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَضْمُضًا وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفِّ وَاحِدٍ فَعَلَّ ذَلِكَ ثَلَاثًا۔

(۱) بعض اہل کوفہ سے مراد حنفیہ ہیں۔ (مترجم)

اس باب میں عبداللہ بن عباسؓ بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ ابو عیسیٰ کہتے ہیں عبداللہ بن زیدؓ کی حدیث حسن غریب ہے مالک اور ابن عیینہ وغیرہ نے بھی یہ حدیث عمرو بن یحییٰ سے نقل کی ہے لیکن اس میں یہ ذکر نہیں ہے۔ ”کہ آپ ﷺ نے ایک ہی چلو سے ناک میں بھی پانی ڈالا اور کھلی بھی کی۔ اسے صرف خالد بن عبداللہ نے ذکر کیا ہے۔ خالد محدثین کے نزدیک ثقہ اور حافظ ہیں چنانچہ بعض علماء کے نزدیک مضمضہ اور استنشاق کے لئے ایک چلو کافی ہے جبکہ بعض کے نزدیک دونوں کے لئے الگ پانی لینا مستحب ہے۔ امام شافعیؒ کہتے ہیں: اگر دونوں ایک چلو سے کرے تو جائز اور اگر الگ الگ چلو سے کرے تو میرے نزدیک بہتر ہے۔

مسئلہ: امام شافعی کا مسلک بھی بیحد امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے۔

نوٹ: امام ترمذی سے امام شافعی کا مسلک نقل کرنے میں خطا ہوئی ہے ان کا مسلک یہ ہے کہ ایک چلو سے مضمضہ اور استنشاق افضل ہے اور جو مذہب اوپر بیان کیا گیا وہ دراصل حنفیہ کا ہے۔ (مترجم)

باب ۲۳۔ فِی تَخْلِيلِ اللَّحِيَةِ

باب ۲۳۔ داڑھی کے خلال کا حکم

۲۵۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ نَاسِفِيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمَخَارِقِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ حَسَّانِ بْنِ بِلَالٍ قَالَ رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ فَقِيلَ لَهُ أَوْ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَتَخْلِلُ لِحْيَتَكَ قَالَ وَ مَا يَمْنَعُنِي وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْلِلُ لِحْيَتَهُ۔

۲۵۔ حسان بن بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا انہوں نے داڑھی کا خلال کیا تو ان سے کہا گیا یا حسان نے کہا: کیا آپ داڑھی کا خلال کرتے ہیں؟ عمار کہنے لگے، کیوں نہ کروں جب کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اپنی داڑھی کا خلال کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

ابن ابی عمر بھی سفیان سے وہ سعید بن ابی عروبہ سے وہ قتادہ سے وہ حسان بن بلال سے وہ عمار سے اور عمار حضور ﷺ سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس باب میں عائشہ، ام سلمہ، انس، ابن ابی اوفیٰ اور ابویوب سے بھی احادیث منقول ہیں۔ ابو عیسیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے اسحاق بن منصور، احمد بن حنبل کے حوالے سے اور وہ ابن عیینہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ عبدالکریم نے حسان بن بلال سے تخیل کی حدیث نہیں سنی۔ یحییٰ بن موسیٰ نے بھی عبدالرزاق سے انہوں نے اسرائیل سے انہوں نے عامر بن شقیق سے انہوں نے ابوداؤد سے اور انہوں نے عثمان بن عفان سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ نبی ﷺ اپنی داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔ ابو عیسیٰ کہتے ہیں شعی فی ہذا الباب کہتے ہیں۔ صحابہ کرام، اکثر اہل علم اور امام شافعیؒ کا اسی پر عمل ہے۔ احمد کہتے ہیں اگر خلال کرنا بھول جائے تو وضو ہو جاتا ہے جب کہ اسحاق کے نزدیک اگر بھول یا تاویل سے چھوڑے تو جائز ہے وگرنہ دوبارہ وضو کرے۔

باب ۲۴۔ مَا جَاءَ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ أَنَّهُ يُبَدَأُ بِمُقَدَّمِ

باب ۲۴۔ سر کا مسح آگے سے پیچھے کی طرف کرے۔

الرَّأْسِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ۔

۲۶۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ نَا مَعْنِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى

۲۶۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے اپنے سر کا مسح کیا تو دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے لے گئے اور پھر پیچھے سے آگے کی طرف لائے یعنی سر کے شروع سے ابتداء کی پھر اپنی گدی تک لے گئے پھر لوٹا کروہیں تک لائے جہاں سے شروع کیا تھا۔ پھر دونوں ہیردھوئے۔

الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ۔

اس باب میں معاویہؓ، مقداد بن معدیکربؓ اور عائشہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ ابو عیسیٰ کہتے ہیں۔ عبداللہ بن زید کی حدیث اس باب کی اصح و احسن حدیث ہے۔ یہی شافعیؒ، احمدؒ اور اسحاقؒ کا بھی قول ہے۔

باب ۲۵۔ مَا جَاءَ أَنَّهُ يُبْدَأُ بِمُؤَخَّرِ الرَّأْسِ۔ پیچھے سے سر کا مسح کرنا۔

۲۷۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا بَشْرَ بْنَ الْمَفْضَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُعْوِذِ بْنِ عَفْرَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ بَدَأَ بِمُؤَخَّرِ رَأْسِهِ ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ وَبِأُذُنَيْهِ كَلْتَيْهِمَا ظَهْرَهُمَا وَبَطُونَهُمَا۔

۲۷۔ ربیع بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے سر کا دو مرتبہ مسح کیا ایک مرتبہ پیچھے سے شروع کیا اور دوسری مرتبہ سامنے پھر دونوں کانوں کا اندر اور باہر سے مسح کیا۔

ابو عیسیٰ کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے اور عبداللہ بن زید کی حدیث اس سے اصح و اچھ ہے۔ بعض اہل کوفہ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں و کعب بن جراح بھی انہی میں سے ہیں۔

مسئلہ: حنفیہ کا عمل بھی عبداللہ بن زید ہی کی حدیث پر ہے اور اس پر فتویٰ ہے جہاں تک ربیع کی حدیث کا تعلق ہے درحقیقت آنحضرت ﷺ نے حضرت ربیع کے سامنے بیان جواز کے لیے مختلف کیفیات سے مسح کیا ہوگا۔ لہذا جمہور بھی تمام صورتوں کے جواز کے قائل ہیں۔ جب کہ عبداللہ بن زید کی حدیث پر عمل افضل ہے۔ (مترجم)

باب ۲۶۔ مَا جَاءَ أَنَّ مَسْحَ الرَّأْسِ مَرَّةً۔

۲۸۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا بَكْرُ بْنُ مِزْرَعَانَ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُعْوِذِ بْنِ عَفْرَاءَ أَنَّهَا رَأَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ قَالَتْ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ مَسَحَ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَدْبَرَ وَصَدُّعِيهِ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً۔

۲۸۔ ربیع بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے حضور ﷺ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا چنانچہ آپ ﷺ نے سر کا آگے اور پیچھے سے، دونوں کنپٹیوں کا اور کانوں کا ایک بار مسح کیا۔

اس باب میں علیؓ اور طلحہ بنت مصرف بن عمرو کے دادا سے بھی حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔ ابو عیسیٰ کہتے ہیں، ربیع کی حدیث حسن صحیح ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سی سندوں سے منقول ہے کہ آپ ﷺ نے مسح ایک ہی مرتبہ کیا۔ اسی پر اکثر اہل علم کا عمل ہے۔ جن میں صحابہؓ اور دوسرے بعد کے علماء بھی شامل ہیں۔ یہ قول جعفر بن محمدؒ، سفیان ثوریؒ، ابن المبارکؒ، شافعیؒ، احمدؒ اور اسحاقؒ کا ہے ان سب کی رائے یہ ہے کہ مسح راس ایک ہی مرتبہ ہے۔

محمد بن منصور کہتے ہیں کہ سفیان بن عیینہ نے مجھ سے کہا کہ میں نے جعفر بن محمد سے پوچھا: سر کا مسح ایک مرتبہ کافی ہوتا ہے تو کہنے لگے۔ ہاں، اللہ کی قسم کافی ہوتا ہے۔

باب ۲۷۔ مَا جَاءَ أَنَّهُ يَأْخُذُ لِرَأْسِهِ مَاءً جَدِيدًا۔

۲۹۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ نَا

۲۹۔ عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور ﷺ کو وضو کرتے

عمرو بن الحارث عن حبان ابن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ وَأَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلٍ يَدِيهِ۔

ہوئے دیکھا۔ آپ ﷺ نے سر کا مسح دونوں ہاتھوں کے بچے ہوئے پانی کے علاوہ سے کیا۔ (اس کے لئے دوسرا پانی لیا)

ف: ابویسلی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابن لہیعہ نے اس حدیث کو حبان بن واسع سے انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے عبداللہ بن زید سے نقل کیا ہے کہ نبی ﷺ نے وضو کرتے ہوئے ہاتھوں کے بچے ہوئے پانی سے مسح فرمایا۔ اور عمرو بن حارث کی حبان سے روایت صحیح ہے اس لیے کہ یہ حدیث اس کے علاوہ اور کئی طرق سے عبداللہ بن زید اور دوسرے راویوں سے منقول ہے کہ نبی ﷺ نے مسح راس کے لیے نیا پانی لیا۔ اکثر اہل علم کا تعامل اسی پر ہے ان سب کی رائے یہ ہے کہ مسح راس کے لیے نیا پانی لیا جائے۔

باب ۲۸۔ کانوں کا اندرونی و بیرونی مسح

باب ۲۸۔ مَسْحُ الْأُذُنَيْنِ ظَاهِرِهِمَا وَبِاطْنِهِمَا

۳۰۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے سر اور کانوں کا باہر اور اندر سے مسح کیا۔

۳۰۔ حَدَّثَنَا هِنَادٌ نَا اِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ عَجَلَانَ عَنِ زَيْدِ بْنِ اسْلَمَ عَنِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبِاطْنِهِمَا۔

اس باب میں ربیع سے بھی حدیث منقول ہے۔ ابویسلی کہتے ہیں ابن عباس کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اہل علم کا عمل اسی پر ہے کہ کانوں کے اندر اور باہر کا مسح کیا جائے۔

باب ۲۹۔ دونوں کان ہر کے حکم میں داخل ہیں۔

باب ۲۹۔ مَا جَاءَ أَنَّ الْأُذُنَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ۔

۳۱۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے وضو کیا تو اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ تین تین بار دھوئے، پھر سر کا مسح کیا اور فرمایا: کان سر میں داخل ہیں۔

۳۱۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ سَنَانَ بْنِ رَيْبَعَةَ عَنِ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنِ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَقَالَ الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ۔

امام ترمذی کہتے ہیں کہ قتیبہ، حماد کے حوالے سے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم یہ قول نبی (ﷺ) کا ہے یا ابو امامہ کا۔ اس باب میں انس بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ ابویسلی کہتے ہیں اس حدیث کی سند درست نہیں ہے۔ صحابہ و تابعین میں سے اکثر اہل علم کا یہی قول ہے کہ کان سر میں داخل ہیں۔ یہی قول سفیان ثوری، ابن مبارک، احمد اور اسحاق کا بھی ہے جب کہ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ کانوں کا سامنے کا حصہ چہرے میں اور پیچھے کا سر کے ساتھ کرنا پسندیدہ فعل ہے۔

مسئلہ: احناف بھی ابو امامہ کی ہی حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک کانوں کے مسح کے لیے سر کے بچے ہوئے پانی کو

استعمال کرنا مستنون ہے۔ (مترجم)

باب ۳۰۔ انگلیوں کے خلال کا حکم

باب ۳۰۔ فِي تَحْلِيلِ الْأَصْبَاعِ

۳۲۔ عاصم بن لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے نقل

۳۲۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ وَهْنَادٌ قَالَا نَا وَكَيْعٌ عَنِ سَفِيَانَ عَنِ

ابی ہاشم عن عاصم بن لقیط بن صبرۃ عن ابيه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلَّلِ الْأَصَابِعَ

کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا جب وضو کرو تو انگلیوں کا خلال کرو۔

اس باب میں ابن عباس، مستورد اور ابویوب سے بھی احادیث منقول ہیں۔ ابویسی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اہل علم کا عمل اسی پر ہے کہ وضو میں پیروں کی انگلیوں کا خلال کیا جائے۔ احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ اسحاق مزید کہتے ہیں کہ ہاتھوں کی انگلیوں کا بھی خلال کرے اور ابویوب کا نام اسماعیل بن کثیر ہے۔

مسئلہ: امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک بھی تظلیل اصابع (ہاتھوں اور پیروں کی) مسنون ہے۔ (مترجم)

۳۳۔ حدثنا ابراهيم بن سعيد قال ثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال ثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوامة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تَوَضَّأْتَ فَخَلَّلِ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ

۳۳۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب وضو کرو تو ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کر لیا کرو۔

ابویسی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۳۴۔ حدثنا قتيبة قال ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد الفهري قال رآيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذا تَوَضَّأَ إِذَا تَوَضَّأَ ذَلِكَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخُنْصَرِهِ

۳۴۔ مستورد بن شداد فہری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ کو دیکھا: آپ ﷺ جب وضو کرتے تو اپنے پیروں کی انگلیوں کا ہاتھ کی چھنگلیا سے خلال کرتے۔

ابویسی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے ابن لہیعہ کے علاوہ کسی اور سند سے نہیں جانتے۔

باب ۳۱۔ مَا جَاءَ وَيُلُّ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

۳۵۔ حدثنا قتيبة قال ثنا عبد العزيز ابن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وَيُلُّ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

باب ۳۱۔ ہلاکت ہے ان ایڑیوں کے لئے جو سوکھی رہ جائیں۔

۳۵۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے وضو میں سوکھی رہ جانے والی ایڑیوں کے لئے دوزخ سے ہلاکت کی بددعا کی ہے۔

اس باب میں عبد اللہ بن عمرو، عائشہ، جابر بن عبد اللہ، عبد اللہ بن حارث، معقب، خالد بن ولید، شریل بن حسنہ، عمرو بن العاص اور یزید بن ابی سفیان سے بھی احادیث منقول ہیں۔ ابویسی کہتے ہیں: ابو ہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ آپ ﷺ سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ہلاکت ہے ایڑیوں اور ٹکوں کی دوزخ سے۔ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ پیروں پر اگر جرابیں نہ ہوں تو مسح کرنا جائز نہیں۔

باب ۳۲۔ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

باب ۳۲۔ وضو میں ایک ایک مرتبہ اعضاء کا دھونا

۳۶۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک ایک بار وضو کیا (یعنی اعضاء ایک ایک مرتبہ دھوئے)

۳۶۔ حدثنا ابو کریب و ہناد و قتیبة قالوا ثنا و کعب عن سفیان ح و ثنا محمد بن بشار قال یحییٰ ابن سعید قال ثنا سفیان عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس انّ النبی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً

اس باب میں عمر، جابر، بریدہ ابی رافع اور ابن الفاکہ سے بھی احادیث نقل کی جاتی ہیں۔ ابو عیسیٰ کہتے ہیں: ابن عباس کی حدیث اس باب کی اصح اور احسن حدیث ہے۔ رشد بن بن سعد وغیرہ اس حدیث کو ضحاک بن شریحیل سے وہ زید بن اسلم سے وہ اپنے والد سے اور وہ عمر بن خطاب سے نقل کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے ایک ایک مرتبہ وضو کیا۔ یہ روایت ضعیف ہے اور صحیح روایت ابن عکلمان، ہشام بن سعد، سفیان ثوری اور عبدالعزیز بن محمد نے زید بن اسلم سے انہوں نے عطاء بن یسار سے انہوں نے ابن عباس سے اور انہوں نے نبی ﷺ سے نقل کی ہے۔

باب ۳۳۔ وضو میں دو مرتبہ اعضاء دھوئے جائیں۔

باب ۳۳۔ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

۳۷۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ وضو میں دو دو مرتبہ اعضاء کو دھوتے تھے۔

۳۷۔ حدثنا ابو کریب و محمد بن رافع قالوا نازید بن حباب عن عبدالرحمن ابن ثابت بن ثوبان قال حدثني عبداللہ بن الفضل عن عبدالرحمن بن ہرمز الاعرج عن ابی ہریرۃ انّ النبی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

امام ترمذی کہتے ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے ابن ثوبان کے علاوہ کسی اور سند سے نہیں جانتے اور ابن ثوبان اسے عبداللہ بن فضل سے نقل کرتے ہیں یہ سند حسن صحیح ہے۔ اس باب میں جابر سے بھی روایت ہے۔ ابو ہریرہ سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ ﷺ نے تین تین مرتبہ اعضاء کو دھویا۔

باب ۳۴۔ وضو میں اعضاء کو تین تین مرتبہ دھونا

باب ۳۴۔ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

۳۸۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے اعضاء وضو کو تین تین مرتبہ دھویا۔

۳۸۔ حدثنا محمد بن بشار نا عبدالرحمن بن مہدی عن سفیان عن ابی اسحاق عن ابی حنیۃ عن علی انّ النبی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم تَوَضَّأَ ثَلَاثًا

اس باب میں عثمان، ربیع، ابن عمر، عائشہ، ابو امامہ، ابورافع، عبداللہ بن عمرو، معاویہ، ابو ہریرہ، جابر، عبداللہ بن زید اور ابو ذر سے بھی احادیث منقول ہیں۔ ابو عیسیٰ کہتے ہیں علی کی حدیث اس باب کی احسن و اصح حدیث ہے۔ اور عموماً اہل علم کا عملی رجحان اس طرح ہے کہ اعضاء وضو کا ایک ایک مرتبہ دھونا کافی ہے جب کہ دو دو بار افضل اور تین تین مرتبہ اس سے بھی افضل ہے۔ اس سے زیادہ نہیں یہاں تک کہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ ڈر ہے کہ تین مرتبہ کی حد سے تجاوز کرنے میں گناہگار ہو جائے، احمد اور اسحاق کا کہنا ہے کہ تین مرتبہ سے زیادہ وہی دھوئے گا جو وہم میں مبتلا ہوگا۔

باب ۳۵۔ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا

باب ۳۵۔ اعضاء وضو کو ایک مرتبہ، دو دو مرتبہ اور تین تین مرتبہ دھونا۔

۳۹۔ حَدَّثَنَا اسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ نَاشِرُكَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي صَفِيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ حَدَّثَكَ جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَمَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا وَثَلَاثًا قَالَ نَعَمْ

۳۹۔ حضرت ثابت بن ابی صفیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر سے پوچھا کیا جابر رضی اللہ عنہ نے آپ سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک مرتبہ، دو دو مرتبہ اور تین تین مرتبہ اعضاء وضو کو دھویا تو کہا: ہاں۔

ابو عیسیٰ کہتے ہیں: یہ حدیث وکیع نے بھی ثابت بن ابی صفیہ سے نقل کی ہے کہ انہوں نے ابو جعفر سے پوچھا کیا آپ سے جابر نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک ایک مرتبہ اعضاء وضو کو دھویا؟ تو فرمایا: ہاں، ہم سے یہ حدیث قتیبہ اور ہناد نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ حدیث ہم سے وکیع نے ثابت کے حوالے سے بیان کی ہے اور یہ شریک کی حدیث سے اصح ہے اس لیے کہ یہ کئی طرق سے مروی ہے۔ پھر یہ ثابت کی حدیث بھی امام وکیع کی روایت کے مثل ہے شریک کثیر الغلط ہیں اور ثابت بن ابی صفیہ کی کنیت ابو جزہ ثمانی ہے۔

باب ۳۶۔ فِيمَنْ تَوَضَّأَ بَعْضُ وُضُوءِهِ مَرَّتَيْنِ وَبَعْضُهُ ثَلَاثًا

باب ۳۶۔ وضو میں بعض اعضاء دو مرتبہ اور بعض تین مرتبہ دھونا

۴۰۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے وضو کرتے ہوئے اپنے چہرے کو تین مرتبہ اور ہاتھوں کو دو مرتبہ دھویا۔ پھر سر کا مسح کیا اور دونوں پاؤں دھوئے۔

۴۰۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ نَاسِيفِيَانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ

ابو عیسیٰ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے اور نبی اکرم ﷺ کا بعض اعضاء کو ایک مرتبہ اور بعض کو تین مرتبہ دھونا کئی احادیث میں مذکور ہے۔ بعض اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کرتے ہوئے بعض اعضاء کو تین مرتبہ، بعض کو دو مرتبہ دھوئے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

توضیح: امام ترمذی نے یہاں پانچ ابواب مسلسل قائم کیے ہیں جن کا مقصد اعضاء مغسولہ کو دھونے کی تعداد کو بیان کرنا ہے۔ پہلے باب میں ایک مرتبہ دھونے کا، دوسرے میں دو دو مرتبہ، تیسرے میں تین تین مرتبہ، چوتھے میں مجموعی طور پر ان سب کا اور پانچویں میں ایک ہی وضو میں بعض اعضاء کو دو بار اور بعض کو تین بار دھونے کا ذکر ہے۔ یہ تمام صورتیں با اتفاق جائز ہیں بشرطیکہ اعضاء اچھی طرح دھل جائیں۔ البتہ چونکہ آپ ﷺ کا معمول تین مرتبہ دھونے کا تھا۔ لہذا تین مرتبہ دھونا مسنون ہے۔ (مترجم)

باب ۳۷۔ فِي وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ كَانَ

باب ۳۷۔ نبی ﷺ کے وضو کے متعلق کہ کیا تھا؟

۴۱۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ وَهْنَادُ قَالَا نَا ابُو الْاِحْوَصِ عَنْ

۴۱۔ حضرت ابو حبیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ

عنه کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ انہوں نے دونوں ہاتھ خوب اچھی طرح دھوئے پھر تین مرتبہ کلی کی پھر تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالا اور تین مرتبہ چہرہ دھویا پھر دونوں ہاتھ کہنیوں تک تین بار دھوئے پھر ایک مرتبہ سر کا مسح کیا اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے۔ اس کے بعد کھڑے ہو گئے اور وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا اور فرمایا: کہ میں تم لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ نبی اکرم ﷺ کیسے وضو کیا کرتے تھے۔

أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي حَيَّةَ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَعَسَلَ كَفَيْهِ حَتَّى اتَّفَقَهُمَا ثُمَّ مَضَمَّ ثَلَاثًا وَأَسْتَسَقَّ ثَلَاثًا وَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذَرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً ثُمَّ قَامَ فَأَخَذَ فَضْلَ طَهْوَرِهِ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ أَحَبَّبْتُ أَنْ أَرِيكُمْ كَيْفَ كَانَ طَهْوَرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

اس باب میں حضرت عثمانؓ، عبداللہ بن زیدؓ، ابن عباسؓ، عبداللہ بن عمروؓ، عائشہؓ، ربیع اور عبداللہ بن انیسؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ قتیبہ اور ہناد نے ہم سے روایت کی انہوں نے ابوالاحوص سے انہوں نے ابواسحاق سے اور انہوں نے عبدخیر سے حضرت علیؓ کے حوالے سے ابو حییہ کی حدیث کے مثل ذکر کیا ہے لیکن عبدخیر نے اس میں کچھ الفاظ زیادہ نقل کیے ہیں۔ کہتے ہیں: ”کان اذا فرغ من طهوره اخذ من فضل طهوره بکفه فشربه“ یعنی جب وہ وضو سے فارغ ہوتے تو بچے ہوئے پانی میں سے تھوڑا سا چلو میں لیتے اور پی لیتے ابو عیسیٰ کہتے ہیں: حضرت علیؓ کی حدیث ابواسحاق ہمدانی نے ابو حییہ، عبدخیر اور حارث سے انہوں نے حضرت علیؓ سے نقل کی ہے۔ پھر زائدہ بن قدامد اور دوسرے کئی حضرات نے بھی خالد بن علقمہ سے انہوں نے عبدخیر سے اور انہوں نے حضرت علیؓ سے وضو کی طویل حدیث نقل کی ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شعبہ یہی حدیث خالد بن علقمہ سے نقل کرتے ہوئے ان کے اور ان کے والد کے نام میں غلطی کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ مالک بن عرفطہ کہتے ہیں ابو عوانہ سے بھی منقول ہے وہ خالد بن علقمہ سے وہ عبدخیر سے اور وہ حضرت علیؓ سے نقل کرتے ہیں اور ابو عوانہ سے ایک اور طریق سے بھی مالک بن عرفطہ سے، شعبہ کی روایت کے مثل بیان کرتے ہیں جب کہ صحیح خالد بن علقمہ ہے۔

باب ۳۸۔ وضو کے بعد پانی چھڑکانا

باب ۳۸۔ فی النُّضْحِ بَعْدَ الْوُضُوءِ

۴۲۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: میرے پاس جبریل آئے اور کہا: اے محمد (ﷺ) جب وضو کرو تو پانی چھڑک لیا کرو۔

۴۲۔ حدثنا نصر بن علی واحمد بن ابی عبید اللہ السلمی البصری قالنا نا ابوقتیبة عن الحسن بن علی الهاشمی عن عبد الرحمن عن ابی ہریرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال جاء نبي جبریل فقال يا محمد اذا توضأت فانتضح

ابو عیسیٰ کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے۔ میں نے محمد کو کہتے ہوئے سنا کہ: حسن بن علی ہاشمی منکر الحدیث ہیں۔ اس باب میں ابوالحکم بن سفیان، ابن عباسؓ، زید بن حارثہ اور ابوسعید بھی احادیث نقل کرتے ہیں بعض سفیان بن الحکم یا حکم بن سفیان کہتے ہیں اور اس حدیث میں اختلاف کرتے ہیں۔

توضیح: کچھ لوگوں کو پیشاب کے بعد وہم ہوتا ہے کہ استنجاء کے بعد بھی قطرے گر رہے ہیں اس وہم کے ازالہ کے لیے آنحضرت ﷺ نے پاجامے کی رومالی پر پانی کے چھینٹے مارنے کا حکم دیا تاکہ یہ وہم دور ہو جائے اور یہ سمجھے کہ یہ تو پانی کی وجہ سے گیلا ہے نہ کہ قطروں کی وجہ سے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۳۹۔ فی اِسْبَاغِ الوُضُوءِ

باب ۳۹۔ وضو مکمل کرنا

۴۳۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا سَمْعِيلَ بْنَ جَعْفَرَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوا بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: اِسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَى السَّكَاةِ وَكَثْرَةُ الخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَالتَّيَاطُرُ الصَّلَاةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكَ الرِّبَاطُ

۴۳۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ عرض کیا: کیوں نہیں یا رسول اللہ! فرمایا وضو کو مشقت آمیز حالت میں پورا کرنا، مسجدوں کی طرف بکثرت جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یہی رباط ہے یعنی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے مترادف ہے۔

امام ترمذی فرماتے ہیں: ہم سے قتیبہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عبدالعزیز بن محمد بھی علماء سے اسی کی طرح کی حدیث کرتے ہیں۔ قتیبہ اپنی حدیث میں ”فذلکم الرِّبَاطُ“ کے الفاظ تین مرتبہ کہتے ہیں اس باب میں علیؓ، ابن عباسؓ، عبداللہ بن عمروؓ، عبیدہؓ جنہیں عبیدہ بن عمروؓ کہا جاتا ہے، عائشہؓ، عبدالرحمن بن عائشہؓ اور انس رضوان اللہ علیہم سے بھی احادیث منقول ہیں۔ ابو عیسیٰ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے علاء بن عبدالرحمن، ابن یعقوب الجعفی ہیں اور محدثین کے نزدیک ثقہ ہیں۔

باب ۴۰۔ الْمُنْدِيلُ بَعْدَ الوُضُوءِ

باب ۴۰۔ وضو کے بعد رومال کا استعمال کرنا

۴۴۔ حَدَّثَنَا سَفِيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ نَاعِدَ اللَّهِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ حَبَابٍ عَنْ أَبِي مُعَاذٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ يُرْسِلُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حِرْفَةً يُنَشِّفُ بِهَا بَعْدَ الوُضُوءِ

۴۴۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ کا ایک کپڑا (تولید) تھا۔ جس سے وضو کے بعد اعضاء خشک کیا کرتے تھے۔

امام ترمذی کہتے ہیں اس باب میں حضرت معاذ بن جبلؓ بھی حدیث بیان کرتے ہیں۔

۴۵۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ قَالَ ثَنَا رَشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدَانَ بْنِ أَنْعَمٍ عَنْ عَتْبَةَ بْنِ حَمِيْدٍ عَنْ عِبَادَةَ بْنِ نَسِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ وَجْهَهُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ

۴۵۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اپنا مشاہدہ نقل کرتے ہیں۔ کہ نبی کریم ﷺ جب وضو کرتے تو اپنا چہرہ چادر کے کنارے سے پونچھتے۔

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث غریب ہے اس کی سند ضعیف ہے کیوں کہ رشدین بن سعد اور عبدالرحمن بن زیاد انعم افریقی ضعیف ہیں۔ ابو عیسیٰ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ کی حدیث بھی قوی نہیں اس باب میں حضور ﷺ سے منقول کوئی حدیث بھی صحیح نہیں۔ اور ابو معاذ

(۱) مکاہ مکہ کی جمع ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اس حالت میں وضو کرنا جب کہ وہ مکروہ معلوم ہو جیسے سخت سردی وغیرہ (مترجم)

کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ سلیمان بن ارقم ہیں یہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔ صحابہ میں سے بعض اہل علم وضو کے بعد رومال سے اعضاء کو خشک کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ جو اسے مکروہ سمجھتے ہیں وہ اس لیے کہ کہا جاتا ہے وضو کا پانی تو لا جاتا ہے۔ سعید بن مسیب اور زہری سے بھی یہی منقول ہے۔ محمد بن حمید، ہم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم سے جریر نے روایت کرتے ہوئے کہا کہ مجھ سے علی بن مجاہد نے مجھ ہی سے سن کر بیان کیا۔ انہوں نے ثعلبہ سے اور انہوں نے زہری سے کہ زہری نے کہا: میں وضو کے بعد رومال سے اعضاء کو پونچھنا اس لیے مکروہ سمجھتا ہوں کہ وضو وزن کیا جاتا ہے۔ (۱)

باب ۴۱۔ مَا يَقَالُ بَعْدَ الْوُضُوءِ

باب ۴۱۔ وہ دعائیں جو وضو کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔

۴۶۔ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عِمْرَانَ الثَّعْلَبِيُّ الْكُوفِيُّ نَازِدُ بْنُ حَبَابٍ عَنْ مَعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ زَيْدِ الدَّمَشَقِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ وَأَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ فَتَحَّتْ لَهُ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ مِنَ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ

۴۶۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر کہے۔ "اشھدان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشھدان محمداً عبده ورسوله اللهم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین" (ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تمہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ) اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ! مجھے توبہ کرنے والوں اور طہارت حاصل کرنے والوں میں کر دے) تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو جائے۔

اس باب میں انس اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما سے بھی احادیث نقل کی گئی ہیں۔ ابویسی کہتے ہیں: عمرؓ کی حدیث میں زید بن حباب کی اس حدیث سے اختلاف کیا گیا ہے۔ عبد اللہ بن صالح وغیرہ یہ حدیث معاویہ بن صالح سے وہ ربیعہ بن یزید سے وہ ابودریس سے وہ عقبہ بن عامر سے وہ عمر سے وہ ابوعثمان سے وہ جبیر بن نفیر سے اور وہ عمرؓ سے نقل کرتے ہیں۔ اس حدیث کی اسناد میں اضطراب ہے۔ اس باب میں حضور ﷺ سے کوئی زیادہ روایتیں سند صحیح سے منقول نہیں، بخاری کہتے ہیں ابودریس نے عمرؓ سے کوئی حدیث نہیں سنی۔

باب ۴۲۔ الْوُضُوءُ بِالْمُدِّ

باب ۴۲۔ ایک مد سے وضو کرنا

۴۷۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَعَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ قَالَا نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ عَنْ سَفِينَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ

۴۷۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کا معمول یہ تھا کہ وضو ایک مد (۲) پانی سے اور غسل ایک صاع (۳) پانی سے کرتے تھے۔

(۱) اس سے مراد وہ پانی ہے جو وضو کے بعد جسم پر باقی رہ جاتا ہے اور جذب ہو جاتا ہے۔ (مترجم)  
 (۲) مد ایک پیمانے کی مقدار ہے جس کا وزن دو رطل کے برابر ہے جب کہ ایک رطل پانچ سو گرام کے برابر ہے واللہ اعلم (مترجم)  
 (۳) صاع بھی پیمانے کی مقدار ہے ایک صاع چار مد کے برابر ہوتا ہے۔ یعنی چار کلو گرام واللہ اعلم (مترجم)

باب ۴۳ - كَرَاهِيَةِ الْاِسْتِرَافِ فِي الْوُضُوءِ

باب ۴۳۔ وضو میں پانی زیادہ بہانا مکروہ ہے۔

۴۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا أَبُو دَاوُدَ نَا خَارِجَةُ بِنُ

۴۸۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

وضو کے لئے ایک شیطان ہے اسے ولہان کہا جاتا ہے۔ لہذا پانی میں  
وسوسے سے بچو یعنی پانی زیادہ خرچ کرنے سے بچو۔

مُصِيبَ عَنِ يُونُسَ بْنِ عَبِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ عَنِي بْنِ  
شَمْرَةَ السَّعْدِيِّ عَنِ أَبِي بِنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ بَلَّوْضُوهُ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ  
الْوَلْهَانُ فَاتَّقُوا وَسْوَاسَ الْمَاءِ

اس باب میں عبد اللہ بن عمرو اور عبد اللہ بن مغفل سے بھی روایت ہے۔ ابویسنی کہتے ہیں: ابی بن کعب کی حدیث غریب ہے اس کی  
اسناد محمد شین کے نزدیک قوی نہیں۔ اس لیے کہ ہم خارجہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں جانتے کہ اس نے اسے سند کے ساتھ نقل کیا ہو۔ یہ حدیث  
حسن بصری سے بھی کئی سندوں سے ان ہی کا قول منقول ہے۔ اس باب میں حضور ﷺ سے مروی کوئی حدیث صحیح نہیں۔ اور خارجہ ہمارے  
اصحاب کے نزدیک قوی نہیں۔ انیس ابن مبارک ضعیف کہتے ہیں۔

باب ۴۴ - الْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

باب ۴۴۔ ہر نماز کے لئے وضو کرنا۔

۴۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيدٍ الرَّازِيُّ نَا مُسْلِمَةَ بِنُ

۴۹۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہر نماز کے

لئے وضو کیا کرتے تھے با وضو ہوں یا بے وضو۔ حمید کہتے ہیں میں نے انس  
رضی اللہ عنہ سے کہا: آپ لوگ کس طرح کرتے تھے؟ فرمایا: ہم ایک ہی  
وضو کیا کرتے تھے (یعنی ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھتے تھے بشرطیکہ  
کوئی حدیث نہ ہو۔)

الْفَضْلِيُّ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحَقَ عَنِ حُمَيْدِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ  
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ  
طَاهِرًا أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسٍ فَكَيْفَ كُنْتُمْ  
تَتَضَعُونَ أَنْتُمْ قَالَ كُنَّا نَتَوَضَّأُ وَوُضُوءٌ وَاحِدًا

ابویسنی کہتے ہیں حضرت انس کی حدیث حسن غریب ہے اور محمد شین کے ہاں عمرو بن عامر کی حدیث جو کہ انس سے منقول ہے کہ  
بعض اہل علم کے نزدیک ہر نماز کے لیے وضو کرنا مستحب ہے واجب نہیں۔

مسئلہ: امام نووی وغیرہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ بغیر حدیث کے وضو واجب نہیں ہوتا۔

۵۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

۵۰۔ حضرت عمر بن عامر انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے انس

بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ: نبی ﷺ ہر نماز کے لئے وضو کیا کرتے  
تھے۔ میں نے کہا آپ کا کیا عمل تھا؟ فرمایا: ہم ایک ہی وضو سے کئی  
نمازیں پڑھتے تھے بشرطیکہ ناقض پیش نہ آئے۔

وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ قَالَا نَا سَفِيَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ  
عَمْرِو بْنِ الْعَامِرِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ  
يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ  
كُلِّ صَلَاةٍ قُلْتُ فَأَنْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَتَضَعُونَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي  
النَّصَاةَ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ نُحْدِثْ

ابویسنی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابن عمر کی ایک حدیث میں منقول ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جس نے با وضو ہوتے  
ہوئے وضو کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دس نیکیاں لکھ دیتے ہیں اس حدیث کو افریقی نے ابو غطفیف سے انہوں نے ابن عمر اور انہوں نے  
حضور ﷺ سے نقل کیا ہے ہم سے اسے حسین بن حریش مروزی نے انہوں نے محمد بن یزید واسطی سے اور انہوں نے افریقی سے روایت

کیا ہے۔ اور یہ اسناد ضعیف ہے علی کہتے ہیں: یحییٰ بن سعید قطان نے کہا کہ ہشام بن عروہ سے اس حدیث کا تذکرہ کیا گیا تو فرمایا: یہ مشرقی اسناد ہے۔

توضیح: یہ حدیث ضعیف ضرور ہے لیکن مشرقی اسناد کی وجہ سے نہیں بلکہ افریقی راوی کے ضعیف ہونے کی وجہ سے ہے اسناد مشرقی سے مراد وہ سند ہے جو اہل کوفہ اور اہل بصرہ پر مشتمل ہو۔ اور اسناد مغربی اس سند کو کہتے ہیں جو اہل حجاز پر مشتمل ہو۔ امام نووی کہتے ہیں حدیث کی قوت و ضعف کا مدار سند کی مشرقیت یا مغربیت پر نہیں۔ (مترجم)

باب ۴۵۔ مَا جَاءَ أَنَّهُ يُصَلِّي الصَّلَاةَ لَوْ ضُوءٌ وَاحِدٌ

باب ۴۵۔ حضور ﷺ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھتے تھے۔  
۵۱۔ حدیثنا محمد بن بشار نا عبدالرحمن بن مہدی عن سفیان عن علقمة بن مرثد عن سلیمان بن بريدة عن ابيه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ لكل صلوة فلما كان غام الفتح صلى الصلوة كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال عمر انك فعلت شيئا لم تكن فعلته قال عمدا فعلته

۵۱۔ سلیمان بن بريدة رضی اللہ عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی ﷺ ہر نماز کے لئے وضو کیا کرتے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ ﷺ نے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھیں اور موزوں پر مسح کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: آپ نے وہ کام کیا ہے جو پہلے نہیں کرتے تھے حضور ﷺ نے فرمایا: میں نے قصد ایسا کیا۔

ابویسٰی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسے علی بن قادم نے بھی سفیان ثوری سے نقل کیا ہے اور اس میں یہ زیادتی کی ہے کہ آپ ﷺ نے ایک ایک مرتبہ وضو کیا۔ سفیان ثوری نے بھی یہ حدیث محارب بن دثار سے اور انہوں نے سلیمان بن بريدة سے نقل کی ہے کہ حضور ﷺ ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے اور اسے کعب سفیان سے وہ محارب سے وہ سلیمان بن بريدة سے اور وہ اپنے والد سے بھی نقل کرتے ہیں۔ عبدالرحمن مہدی وغیرہ سفیان سے وہ محارب بن دثار سے وہ سلیمان بن بريدة سے اور وہ حضور اکرم ﷺ سے ”مرسلا“ روایت کرتے ہیں۔ یہ کعب کی حدیث سے اصح ہے۔ اہل علم کا عمل اسی پر ہے کہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جاسکتی ہیں جب تک حدیث نہ ہو بعض ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے اس لیے کہ یہ مستحب ہے ان کی نیت افضلیت کی ہوتی تھی۔ افریقی سے روایت کیا جاتا ہے وہ ابو غطف سے وہ ابن عمر سے اور وہ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے با وضو ہوتے ہوئے وضو کیا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دس نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ یہ اسناد ضعیف ہے۔ اس باب میں جابر بن عبد اللہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ظہر اور عصر ایک ہی وضو سے پڑھی۔

باب ۴۶۔ مرد عورت کا ایک برتن سے وضو کرنا

۵۲۔ حدیثنا ابن ابی عمر نا سفیان بن عیینة عن عمرو بن دينار عن ابي الشعثاء عن ابن عباس قال حَدَّثَنِي مَيْمُونَةُ قَالَتْ كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ

۵۲۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ميمونة رضی اللہ عنہا نے مجھ سے بیان کیا کہ میں اور رسول اللہ ﷺ غسل جنابت میں ایک ہی برتن سے نہاتے تھے۔

ابو عیسیٰ کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور یہی عام فقہاء کا قول ہے کہ مرد و عورت کے ایک ہی برتن سے غسل کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اس باب میں علیؑ، عائشہؓ، ام ہانیؓ، انسؓ، ام حبیبہؓ، ام سلمہؓ اور ابن عمرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں اور ابوالشعثاء کا نام جابر بن زید ہے۔

باب ۴۷۔ كَرَاهِيَةَ فَضْلِ طُهُورِ الْمَرْأَةِ

باب ۴۷۔ عورت کے وضو سے بچے ہوئے پانی کے استعمال کی کراہت  
۵۳۔ بنی غفار کے ایک شخص سے منقول ہے کہ: نبی کریم ﷺ نے عورت کی طہارت سے بچے ہوئے پانی کے استعمال سے منع فرمایا۔

۵۳۔ حدثنا محمود بن غيلان نا وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي عن ابي حجاب عن رجل من بني غفار قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن فضل طهور المرأة

اس باب میں عبد اللہ بن سر جسؓ سے بھی حدیث نقل کی گئی ہے۔ ابو عیسیٰ کہتے ہیں: بعض فقہاء نے عورت کے بچے ہوئے پانی کے استعمال کو مکروہ کہا ہے۔ ان میں احمد اور اسحاق بھی شامل ہیں ان دونوں کے نزدیک اس کا استعمال مکروہ ہے جب کہ اس کے جوٹھے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

۵۴۔ حضرت حکم بن عمرو غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے مرد و عورت کے طہارت سے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے سے منع فرمایا: یا آپ نے فرمایا: اس کے جوٹھے سے۔

۵۴۔ حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قالانا ابو داود عن شعبة عن عاصم قال سمعت ابا حجاب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة او قال بسورها

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ ابو حجاب کا نام سوادۃ بن عاصم ہے۔ محمد بن بشار اپنی حدیث میں کہتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا کہ کوئی شخص عورت کی طہارت سے بچے ہوئے پانی سے وضو نہ کرے اس میں محمد بن بشار شک نہیں کرتے۔

باب ۴۸۔ الرُّحْصَةُ فِي ذَلِكَ

باب ۴۸۔ اس کے جواز سے متعلق۔

۵۵۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں سے کسی نے ایک بڑے برتن سے غسل کیا۔ پھر حضور ﷺ نے اس سے وضو کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں حالت جنابت میں تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: پانی پر تو جنابت کا اثر نہیں ہوتا۔

۵۵۔ حدثنا قتيبة نا ابو الاحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جفنة فأراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان يتوضأ منه فقالت يا رسول الله إني كنت جنباً فقال إن الماء لا يجنب

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سفیان ثوریؒ، مالکؒ اور شافعیؒ کا بھی یہی قول ہے۔

باب ۴۹۔ مَا جَاءَ أَنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

باب ۴۹۔ پانی کسی چیز سے ناپاک نہیں ہوتا۔

۵۶۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ! کیا ہم بضاعہ کنویں سے وضو کریں؟ وہ ایسا کنواں تھا کہ اس میں کرسف، کتے کا گوشت اور بدبودار چیزیں ڈالی جاتی تھیں۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پانی پاک ہوتا ہے اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔

۵۶۔ حدثنا هناد والحسن بن علي الجلال وغير واحد قالوا انا ابواسامة عن الوليه بن كثير عن محمد بن كعب بن عبيد الله ابن عبد الله بن رافع ابن خديج عن ابي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله اتوضأ من بئر بضاعه وهي بئر يلقى فيها الحيف ولحوم الكلاب والتتن فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء

امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ ابواسامہ نے اس حدیث کو بہت اچھا کہا ہے۔ ابوسعید کی بئر بضاعہ کی حدیث کسی نے بھی ابواسامہ سے بہتر روایت نہیں کی۔ یہ حدیث حضرت ابوسعیدؓ سے کئی طرق سے منقول ہے اور اس باب میں ابن عباسؓ اور عائشہؓ سے بھی احادیث نقل کی گئی ہیں۔

باب ۵۰۔ اسی سے متعلق۔

باب ۵۰۔ مِنْهُ آخِرُ

۵۷۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ سے جنگلوں کے پانی کا حکم پوچھا گیا۔ جس پر درندے اور چوپائے بار بار آتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا: اگر پانی دو منکے کی مقدار میں ہو تو ناپاک نہیں ہوتا۔

۵۷۔ حدثنا هنادنا عبدة عن محمد بن اسحق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يسئل عن الماء يكوون في الفلاة من الارض وما ينوبه من السباع والدواب قال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث

محمد بن اسحاق کہتے ہیں قلمہ منکے کو کہتے ہیں جو پینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے امام ترمذی کہتے ہیں یہ شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے کہ اگر پانی دو منکوں کے برابر ہو تو وہ اس وقت تک ناپاک نہیں ہوتا جب تک اس کی بویا ذائقہ تبدیل نہ ہو یہ حضرات کہتے ہیں کہ قلمینس پانچ منکوں کے برابر ہوتے ہیں۔

مسئلہ: حنفیہ کے نزدیک ماء قلیل وقوع نجاست سے ناپاک ہو جاتا ہے جب کہ ماء کثیر (جس کی مقدار وہ درودہ ہو یا اگر پانی کے ایک کنارے کو حرکت دی جائے تو دوسرے کنارے میں حرکت پیدا نہ ہو) (۱) ناپاک نہیں ہوتا۔ ان کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) عشرینی عشر (وہ درودہ) کی تحدید ائمہ مذہب سے منقول نہیں لیکن متاخرین نے عامۃ الناس کی سہولت کے لیے اس کو اختیار کیا ہے جب کہ دوسرا قول امام قدوری نے ذکر کیا ہے لیکن ماء کثیر میں علماء کا مسلک یہ ہے کہ اس کا مدار مصلیٰ بہ کی رائے پر ہے۔

(۱)..... حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ”لا یبولن احدکم فی الماء الدائم ثم یتوضأ منه (تم میں سے کوئی رکے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے اور پھر اس سے وضو کرے)۔

(۲)..... حضرت جابرؓ کی روایت ”نہی رسول اللہ ان ینال فی الماء الراکد“ یعنی آپ ﷺ نے جمع شدہ پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔

(۳)..... عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استیقظ احدکم من منام فلا یغمسن یدہ فی الاناء حتی یفرغ علیہا مرتین او ثلاثاً۔

(تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہونے کے بعد اپنا ہاتھ دو یا تین مرتبہ دھونے سے پہلے پانی کے برتن میں نہ ڈالے)۔ ان تینوں حدیثوں میں حضور اکرم ﷺ نے بغیر تحدید قلتین اور بغیر تغیر وصف کے پانی پر نجاست کا حکم لگایا ہے۔ یہ تمام احادیث صحیح ہیں اور پہلی حدیث اصح مانی الباب ہے لہذا نجاست بہر صورت موجب نجس ہے اس میں نہ تغیر اوصاف کی قید ہے اور نہ قلتین سے کم ہونے کی۔ مقدار کثیر اس سے مستثنیٰ ہے۔ جس کی دلیل سمندر کے پانی سے وضو وغیرہ کی احادیث ہیں۔ جن سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پانی کثیر ہو تو وقوع نجاست سے نجس نہیں ہوتا۔ چونکہ قلیل و کثیر کی کوئی تحدید قابل اطمینان طریقے سے ثابت نہیں لہذا امام ابوحنیفہؒ نے اس تعیین کو رائے مہتملی بہ پر چھوڑا ہے۔

جہاں تک حدیث قلتین کا تعلق ہے حنفیہ کی طرف سے اس کی متعدد توجیہات کی گئی ہیں جن میں سے دو حسب ذیل ہیں۔  
۱: حدیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں پانی سے مراد ایک مخصوص پانی ہے جو مکہ اور مدینہ کے راستے میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ جو پہاڑی چشموں کا پانی ہوتا ہے اور اپنے معدن سے نکل کر نالیوں سے بہہ کر چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں جمع ہو جاتا ہے اس کی مقدار عموماً قلتین سے زائد نہیں ہوتی لیکن یہ پانی جاری ہوتا ہے اسی کے بارے میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ نجس نہیں ہوتا۔ اس کی تائید حدیث کے ابتدائی جملے سے ہوتی ہے کہ آپ ﷺ سے جنگلوں کے پانی کا حکم پوچھا گیا: ”اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہاں گھروں میں پائے جانے والے پانی کے بارے میں سوال نہیں ہو رہا بلکہ صحراؤں کے پانی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ پانی جاری تھا تو قلتین کی تحدید کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تحدید نہیں بلکہ بیان واقعہ ہے اور شاید اس کا منشا یہ بھی ہو کہ قلتین سے کم پانی میں جاری ہونے کے باوجود تغیر پیدا ہونے کا امکان ہے۔

دوسری توجیہ یہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک مدار خلوص اثر نجاست پر ہے۔ اگر کسی مقام پر مہتملی بہ کو یہ یقین حاصل ہو کہ قلتین کی مقدار میں خلوص نجاست نہیں ہوتا تو اس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔

پھر چند وجوہ کی بنا پر حدیث قلتین کو مقادیر شرعیہ کے باب میں تحدید و تشریح کا مقام نہیں دیا جاسکتا جو مندرجہ ذیل ہیں۔  
۱: یہ امر مسلم ہے کہ حجاز میں پانی بہت کم یاب تھا اور وہاں پانی کی نجاست و طہارت کے مسائل بکثرت پیش آتے رہتے تھے۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ اگر آنحضرت ﷺ نے قلت و کثرت کی کوئی حد مقرر فرمائی ہوتی تو صحابہ کرامؓ میں یہ مقدار نہایت معروف مشہور ہونی چاہیے تھی۔ لیکن ایسا نہیں ہے صحابہ کرامؓ کی اتنی بڑی تعداد میں سے اس حدیث کو روایت کرنے والے

سوائے ایک کس صحابی یعنی عبداللہ بن عمرؓ کے اور کوئی نہیں ہے یہ مسئلہ مقادیر شرعی سے متعلق ہے جن کے ثبوت کے لیے انتہائی مضبوط اور غیر محتمل دلائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ حدیث قلتین کو ضعیف نہ بھی کہا جائے تب بھی اس کا درجہ حسن سے اوپر نہیں جاتا جب کہ حنفیہ نے اس سلسلے میں جن احادیث سے استدلال کیا ہے وہ صحت کے اعلیٰ مقام پر ہیں اور حدیث قلتین ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

۲: دوسرے صحابہ کرامؓ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے قلتین کو قلت و کثرت کا معیار بنایا ہو بلکہ اس ترک تقدیر پر صحابہ کا اجماع معلوم ہوتا ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ زمزم کے کنویں میں ایک مرتبہ ایک حبشی گر گیا تو کنویں کا پورا پانی نکالا گیا۔ حالانکہ پانی میں اثر بھی ظاہر نہیں ہوا تھا اور بلاشبہ یہ پانی قلتین سے بہت زیادہ تھا۔ یہ عمل صحابہ کے مجمع میں پیش آیا اور کسی صحابی نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا لہذا یہ اجماع کے مثل ہے لہذا اس مسئلے میں راجح مسلک حنفیہ ہی کا ہے۔ (مترجم)

باب ۵۱۔ رُکے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا مکروہ ہے۔

باب ۵۱۔ كَرَاهِيَةُ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّائِدِ

۵۸۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی رُکے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے جس سے اسے وضو کرنا ہو۔

۵۸۔ حدثنا محمود بن غيلان نا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں جابرؓ سے بھی روایت ہے۔

باب ۵۲۔ سمندر کا پانی پاک ہے

باب ۵۲۔ مَا جَاءَ فِي الْمَاءِ الْبَحْرِيَّ أَنْهُ طَهُورٌ

۵۹۔ صفوان بن سلیم، سعید بن سلمہ (جو ابن ازرق کی اولاد میں سے ہیں) کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ مغیرہ بن ابی بردہ (جو بنی عبدالدار میں سے ہیں) انہوں نے بتایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو رسول اللہ ﷺ سے سوال کرتے ہوئے سنا کہا یا رسول اللہ ﷺ! ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑا سا پانی رکھتے ہیں۔ اگر اس سے وضو کر لیں تو پیا سے رہ جائیں۔ کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس کا پانی پاک اور اس کا مُردار حلال ہے۔

۵۹۔ حدثنا قتيبة عن مالك ح وحدثنا الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن ابن ابي الأزرقي أنّ المغيرة بن أبي بردة وهو بنو عبد الدار أخبره أنّه سمع أبا هريرة يقول سأل رجل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَرَكُبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَتَتَوَضَّأُ مِنَ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ هُوَ الطَّهُورُ مَاءٌ هُوَ وَالْحِلُّ مَيْتَةٌ

اس باب میں جابرؓ اور فراسیؓ سے بھی روایت ہے۔ ابو عیسیٰ کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور یہی اکثر فقہاء صحابہ کا قول ہے کہ سمندر کے پانی سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ان میں ابو بکرؓ، عمرؓ اور ابن عباسؓ شامل ہیں جب کہ بعض صحابہ کے نزدیک مکروہ ہے ان میں ابن عمرؓ اور عبداللہ بن عمروؓ بھی شامل ہیں۔ عبداللہ بن عمروؓ کہتے ہیں وہ آگ ہے۔

مسئلہ: اس حدیث سے کئی مسائل متعلق ہیں جن میں سے ایک سمندری جانوروں کی حلت اور دوسرے مسک طانی (مردہ مچھلی) کا ہے۔ اول الذکر میں احناف کا مسلک یہ ہے کہ مچھلی کے علاوہ تمام جانور حرام ہیں۔ اس کے لیے احناف مندرجہ ذیل دلائل پیش کرتے ہیں۔ ان کی پہلی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے۔

۱: ”وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ“ یعنی خبائث ان پر حرام کیے گئے۔ خبائث سے مراد وہ جانور ہیں جن سے طبیعت انسانی گھن کرتی ہے اور مچھلی کے علاوہ تمام پانی کے جانور ایسے ہیں جن سے گھن آتی ہے۔

۲: ارشاد باری تعالیٰ ہے ”حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ“ یعنی تم پر مردار حرام کیا گیا اس سے وہ مردار مستثنیٰ ہے جس کی تخصیص دلیل شرعی سے ہوتی ہو۔

۳۔ ابو داؤد ابن ماجہ، دارقطنی اور بیہقی وغیرہ میں مشہور حدیث ہے جو مرفوع بھی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ”احلت لنا ميتتان و دمان فاما الميتان فالجراد والحوث“..... الخ یعنی ہمارے لیے دو مردار اور دو خون حلال ہیں۔ مردار مچھلی اور ٹڈی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ وہ جانور جن میں دم سائل نہیں ہوتا ان کی صرف دو قسمیں حلال ہیں اور چونکہ سمندر کے دوسرے جانور ان دو قسموں میں داخل نہیں لہذا وہ حرام ہیں۔

۴۔ حنفیہ کی چوتھی اور اہم ترین دلیل یہ ہے کہ حضور ﷺ کی پوری حیات طیبہ میں آپ ﷺ سے اور آپ ﷺ کے صحابہ کرامؓ سے ایک مرتبہ بھی مچھلی کے علاوہ کسی اور پانی کے جانور کا کھایا جانا ثابت نہیں اگر یہ حلال ہوتے تو کبھی نہ کبھی آپ ﷺ بیان جواز ہی کے لیے سہی ضرورتاً فرماتے یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ حلال نہیں ہیں۔

احناف حدیث باب کے متعلق کہتے ہیں کہ میتہ میں اضافت استغراق کے لیے نہیں بلکہ عہد خارجی کے لیے ہے۔ لہذا اس حدیث کا مقصد یہ ہوا کہ سمندر کے وہ مخصوص مردار حلال ہیں جن کے جواز میں نص موجود ہے اور وہ مچھلی ہے۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ اضافت استغراق کے لیے ہی ہے۔ تو لکل سے مراد یہاں حلال ہونا نہیں بلکہ ظاہر ہونا ہے جو کہ کلام عرب میں بکثرت اسی معنی میں استعمال ہوتا جس کی دلیل یہ بھی ہے کہ سلسلہ کلام طہارت ہی سے چلا آ رہا ہے صحابہ کرامؓ کو شبہ تھا کہ سمندر میں مرنے والا جانور ناپاک ہو جاتا ہے اس شبہ کو ختم کرنے کے لیے آپ ﷺ نے فرمایا: سمندر کا میتہ ظاہر ہوتا ہے۔

دوسرا مسئلہ مسک طانی کا ہے اس سے مراد وہ مچھلی ہے جو پانی میں طبعی موت مر کر الٹی ہو گئی ہو۔ حنفیہ اس کی حرمت کے قائل ہیں۔ ان کا استدلال ابو داؤد اور ابن ماجہ میں مذکور حضرت جابرؓ کی روایت سے ہے ”قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مالقى جزء منه فكلوه وملهات فيه وطفافلا تاكلوه“۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جسے سمندر پھینک دے یا چھوڑ کر چلا جائے اسے کھا لو اور جو پانی ہی میں مر کر الٹی ہو جائے اسے مت کھاؤ۔ امام ابو داؤد نے یہ روایت مرفوعاً و موقوفاً

دونوں طرح روایت کی ہے راجح یہی ہے کہ یہ مرفوع ہے۔ امام بیہقی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے اور اس کی وجہ ابن سلیم کا ضعف بیان کیا ہے یہ صحیح نہیں کیونکہ ابن سلیم صحیحین کے راوی ہیں۔

اس کے علاوہ حنفیہ کے مسلک کی تائید آیت قرآنی ”حرمت علیکم المیتہ“ سے بھی ہوتی ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۵۳۔ پیشاب سے شدت احتیاط کا حکم۔

باب ۵۳۔ التَّشْدِيدُ فِي الْبَوْلِ

۶۰۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور عذاب کی وجہ کوئی بڑا گناہ نہیں۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے تو یہ پیشاب کرتے وقت چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا جب کہ دوسرا چغلوخوری کرتا پھرتا تھا۔

۶۰۔ حَدَّثَنَا هِنَادٌ وَقَتِيْبَةُ وَأَبُو كَرِيْبٍ قَالُوا نَا وَكِعْبُ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ مَجَاهِدَ يُحَدِّثُ عَنِ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيْرٍ أَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيْمَةِ

اس باب میں زید بن ثابتؓ، ابوبکرؓ، ابوہریرہؓ، ابو موسیٰؓ اور عبدالرحمن بن حسنؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ منصور نے یہ حدیث مجاہد سے اور انہوں نے ابن عباسؓ سے نقل کی ہے۔ لیکن اس میں طاووسؓ کا ذکر نہیں کیا جب کہ اعمش کی روایت اصح ہے۔ ابوبکر محمد بن ابان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ابراہیم کی اسناد میں اعمش، منصور سے احفظ ہیں۔ (یعنی زیادہ یاد رکھنے والے ہیں)۔

باب ۵۴۔ دودھ پیتا بچہ جب تک کھانا نہ کھائے اس کے پیشاب پر پانی چھڑکنا کافی ہے

باب ۵۴۔ مَا جَاءَ فِي نَضْحِ بَوْلِ الْغُلَامِ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ

۶۱۔ ام قیس بنت محسن رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں اپنے بیٹے کو لے کر حضور ﷺ کے پاس گئی اس نے ابھی تک کھانا کھانا شروع نہیں کیا تھا تو اس نے آپ ﷺ کے جسم مبارک پر پیشاب کر دیا چنا نچہ آپ ﷺ نے پانی منگوا یا اور اس چھڑک دیا۔

۶۱۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ وَاحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَا نَا سَفِيَانُ بْنُ عِيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ دَخَلْتُ بَابِي لِيُ عَلِيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ عَلَيْهِ

اس باب میں علیؓ، عائشہؓ، زینبؓ، لبابہ بنت حارثؓ، یہ فضل بن عباسؓ بن عبدالطلب کی والدہ ہیں۔ ابوالسج، عبداللہ بن عمرو، ابولیلیؓ اور ابن عباسؓ سے بھی حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں: کہ لڑکے کے پیشاب پر پانی بہایا جائے اور لڑکی کے پیشاب کو دھویا جائے۔ اور یہ اس صورت میں ہے کہ دونوں ابھی کھانا نہ کھاتے ہوں۔ اگر کھانا کھانے لگیں تو دونوں کا پیشاب دھویا جائے گا۔

مسئلہ: امام ابوحنیفہؒ کا مسلک یہ ہے کہ دونوں کا پیشاب دھویا جائے۔ البتہ دودھ پیتے لڑکے میں زیادہ مبالغہ ضروری نہیں تھوڑا دھونا ہی کافی ہے۔

حنفیہ ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں جن میں پیشاب سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے یہ احادیث عام ہیں کسی خاص پیشاب کی تخصیص نہیں کرتیں۔ پھر لڑکے ہی کے پیشاب سے متعلق حدیث میں ”صب علیہ الماء“ یعنی اس پر پانی بہایا اور ”اتبعہ الماء“ کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ ”صب“ کے معنی غسل خفیف کے بھی آتے ہیں۔ اور ”اتبعہ الماء“ (یعنی اس پر پانی بہایا) یہ دونوں لفظ غسل پر صراحت دلالت کرتے ہیں۔ حضرات حنفیہ حضرت عائشہؓ سے منقول حدیث ”فقال صبوا علیہ الماء صبا“ یعنی آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس پر خوب پانی بہاؤ“ سے بھی استدلال کرتے ہیں جو لڑکے کے پیشاب کو دھونے پر صراحت کے ساتھ دلالت کرتی ہے۔

ان وجوہات کی بناء پر امام صاحب فرماتے ہیں کہ احادیث میں مذکور ”نضح“ اور ”رش“ کے الفاظ سے وہ معنی مراد لیے جائیں جو دوسری روایات کے مطابق ہوں اور وہ معنی ہیں غسل خفیف یعنی ہلکا دھونا۔ پھر یہی الفاظ جہاں چھینٹے مارنے کے معنی میں آتے ہیں اسی طرح غسل خفیف کے معنی میں بھی آتے ہیں۔ لہذا حنفیہ ان الفاظ کے معنی غسل خفیف کے اس لیے لیتے ہیں کہ مختلف روایات میں تطبیق ہو جائے۔ البتہ یہ مسلم ہے کہ لڑکی کے پیشاب کو اچھی طرح دھویا جائے گا اور لڑکے کے پیشاب میں غسل خفیف ہی کافی ہوگا۔ (مترجم)

باب ۵۵۔ مَا جَاءَ فِي بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لِحُمَةٍ

باب ۵۵۔ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے پیشاب کا حکم۔

۶۲۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عربینہ کے کچھ لوگ مدینہ منورہ آئے۔ انہیں مدینہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی تو حضور ﷺ نے انہیں زکوٰۃ کے اونٹوں کے باڑے میں بھیج دیا اور فرمایا: ان کا دودھ اور پیشاب پو لیکن انہوں نے حضور ﷺ کے چرواہے کو قتل کر دیا، اونٹوں کو ساتھ لے گئے اور خود اسلام سے مرتد ہو گئے۔ جب انہیں حضور ﷺ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ ﷺ نے ان کے ہاتھ اور پاؤں خلاف سے (یعنی دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں پاؤں اور دائیں پاؤں کے ساتھ بائیں ہاتھ) کاٹنے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیں پھیرنے کا حکم دیا۔ اور ان کو ”حرۃ“ (۱)

۶۲۔ حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانی ناعفان بن مسلم نا حماد بن سلمة انا حميد وقتادة و ثابت عن انس ان ناسا من عربينة قدموا المدينة فاجتووها فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ابل الصدقة وقال اشربوا من البانها و ابوالها فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستاقوا الابل وارثدوا عن الاسلام فاتي بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففقطع ايديهم وارجلهم من خلاف وسمر اعينهم والقاهم بالحرۃ

(۱) حرۃ: ایسی پتھر زمین کو کہتے ہیں جس میں بڑے بڑے سیاہ پتھر زمین پر ابھرے ہوئے ہوں۔ مدینہ میں مشرق اور مغرب میں دو ایسے قطعے تھے۔ جنہیں الحرۃ الشریقیہ اور الحرۃ الغربیہ کہا جاتا ہے۔ (مترجم)

قَالَ أَنَسٌ فَكُنْتُ أَرَى أَحَدَهُمْ يَكِدُّ الْأَرْضَ بِفِيهِ حَتَّى مَاتُوا وَرُبَّمَا قَالَ حَمَادٌ يَكْدُمُ الْأَرْضَ بِفِيهِ حَتَّى مَاتُوا

میں ڈال دیا گیا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان میں سے ہر ایک خاک چاٹ رہا تھا، یہاں تک کہ سب مر گئے۔ بعض اوقات حماد ”یکدم الارض بفيہ حتی ماتوا“ کے الفاظ بیان کرتے تھے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت انسؓ سے یہ کئی سندوں سے منقول ہے۔ اکثر اہل علم کا بھی یہی قول ہے کہ حلال جانوروں کے پیشاب میں کوئی مضائقہ نہیں۔

مسئلہ: حدیث میں دو فقہی مسئلے ہیں: حلال جانوروں کے پیشاب کا حکم اور دوسرا حرام چیز کو بطور دوا استعمال کرنا۔ اول الذکر میں امام ابوحنیفہؒ کا مسلک یہ ہے کہ وہ ناپاک ہے لیکن امام صاحب اسے نجاست خفیفہ قرار دیتے ہیں۔ اس لیے کہ علماء و فقہاء کا اختلاف احکام میں تخفیف کا باعث ہوتا ہے حنفیہ اپنے مسلک پر حدیث ”استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه“ (یعنی پیشاب سے بچو کیونکہ عموماً قبر کا عذاب اسی وجہ سے ہوتا ہے) سے استدلال کرتے ہیں۔

ان کا دوسرا استدلال ترمذی کی حدیث نمبر ۶۱ سے ہے کہ حضور ﷺ دو قبروں کے پاس سے گزرے..... الخ یہ دونوں احادیث عام اور شامل ہیں ان میں کسی پیشاب کی تخصیص نہیں مطلقاً پیشاب سے احتیاط کا حکم ہے۔ جب دو روایتیں متعارض ہو جائیں تو قیاس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے تاکہ تعارض دور کیا جاسکے۔ چنانچہ قیاس حنفیہ کے مسلک کو ترجیح دیتا ہے۔ اس لئے کہ حلال جانور کے پیشاب اور حرام جانور کے پیشاب کوئی فرق نہیں۔ اگر ایک ناپاک ہے تو دوسرا بھی۔

پھر حدیث ”استنزهوا من البول.....“ قولی اور محرم ہے اور اصول قاعدے کے مطابق محرم کو احتیاط کے طور پر ترجیح دی جائے گی۔ جب کہ حنفیہ حدیث باب کے متعدد جوابات دیتے ہیں۔

۱۔ حضور ﷺ کو وحی کے ذریعے خبر دی گئی ہو کہ ان کی شفاء اسی میں ہے۔

۲۔ آنحضرت ﷺ نے انہیں پیشاب پینے کا حکم نہ دیا ہو بلکہ اس کے خارجی استعمال کا حکم دیا ہو۔

۳۔ یا آپ ﷺ کو اس کا علم ہو کہ وہ درحقیقت کفار ہیں جیسے کہ بعد میں وہ مرتد ہو گئے۔

دوسرا مسئلہ: حرام چیزوں کا بطور دوا استعمال: اگر اضطراری حالت ہو تو اس کا استعمال جائز ہے اور اگر جان کا خطرہ نہ ہو تو

اختلاف ہے۔ (مترجم)

۶۳۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے

ان کی آنکھیں اس لئے پھوڑیں کہ انہوں نے بھی حضور ﷺ کے

چرواہوں کی آنکھیں پھوڑی تھیں۔

۶۳۔ حدثنا الفضل بن سهل الا عرج نا

يحيى بن غيلان نا يزيد بن زريع نا سليمان

التيمي عن انس بن مالك قال انما سمل

النبي صلى الله عليه واله وسلم اعينهم لانهم

## سَمَلُوا أَعْيُنَ الرُّعَاةِ

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث غریب ہے اس لیے کہ ہمارے علم میں نہیں کہ یحییٰ بن غیلان کے علاوہ کسی اور نے یزید بن زریج سے روایت کی ہو۔ اور یہ آنکھوں میں سلاخیں پھروانا قرآنی حکم ”والجروح“ ہتھام کے مطابق تھا۔ محمد بن سیرین سے منقول ہے کہ حضور ﷺ کا فعل حدود کے نازل ہونے سے پہلے تھا۔

باب ۵۶۔ ہوا کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔

باب ۵۶۔ مَا جَاءَ فِي الوُضوءِ مِنَ الرِّيحِ

۶۴۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وضو کرنے کی اس وقت تک ضرورت نہیں جب تک بونہ آئے یا آواز نہ ہو۔

۶۴۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ وَهْنَادُو نَا وَكَيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَهِيْلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا وُضوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتِ أَوْ رِيحٍ

ابو یسعی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

مسئلہ: خروج ہوا کے تین کی صورت میں باجماع وضو ٹوٹ جاتا ہے (مترجم)

۶۵۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی مسجد میں ہو اور خروج ہوا کا اشتباہ ہو جائے تو اس وقت تک نہ نکلے جب تک آواز نہ سنے یا بونہ نہ آئے۔

۶۵۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ رِيحًا بَيْنَ الْبَيْتِيْهِ فَلَا يَخْرُجُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

۶۶۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم میں سے کسی کو حدث (نقض وضو) ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں فرماتے، جب تک وضو نہ کر لے۔

۶۶۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ نَا عَبْدِ الرَّزَاقِ نَا مَعْمَرٍ عَنْ هَمَامِ بْنِ مُنْبِهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَلَوةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اس باب میں عبد اللہ بن زید، علی بن طلق، عائشہ، ابن عباس اور ابو سعید رضی اللہ عنہم سے بھی حدیثیں منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور یہی علماء کا قول ہے کہ وضو اس وقت تک واجب نہیں ہوتا جب تک حدث نہ ہو اور وہ آواز نہ سنے یا بونہ نہ آئے۔ ابن مبارک کہتے ہیں: اگر شک ہو تو وضو واجب نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس حد تک یقین ہو جائے کہ اس پر قسم کھا سکے، اور کہتے ہیں: کہ اگر عورت کی قبل سے ریح نکلے، تو بھی اس پر وضو واجب ہے۔ شافعی اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

مسئلہ: حنفیہ کے نزدیک ریح قبل سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ شیخ ابن الہمام کہتے ہیں یہ درحقیقت ریح ہی نہیں ہوتی بلکہ یہ محض عضلات کا اختلاف ہوتا ہے جو ناقض وضو نہیں۔ (مترجم)

باب ۵۷۔ اَلْوُضُوءُ مِنَ النَّوْمِ

باب ۵۷۔ نیند سے وضو ٹوٹنے کا حکم۔

۶۷۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو دیکھا کہ سجدے میں سوئے ہوئے تھے یہاں تک کہ خراٹے لینے لگے یا فرمایا: لبے لبے سانس لینے لگے۔ پھر کھڑے ہوئے اور نماز پڑھنے لگے میں نے کہا: یا رسول اللہ! آپ تو سو گئے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وضو لیٹ کر سونے پر واجب ہوتا ہے۔ اس لئے کہ لیٹ جانے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔

۶۷۔ حَدَّثَنَا اسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى وَهْنَادُو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَحَارِبِيِّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالُوا نَا عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الدَّلَانِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ حَتَّى غَطَّ أَوْ نَفَخَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَإِنَّهُ إِذَا ضَطَّجَعَ اسْتَرَخَتْ مَفَاصِلُهُ

امام ترمذی کہتے ہیں کہ ابو خالد کا نام یزید بن عبد الرحمن ہے۔ اس باب میں عائشہ، ابن مسعود اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے بھی

احادیث منقول ہیں۔

۶۸۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کے صحابہ کو نیند آ جایا کرتی تھی۔ پھر اٹھ کر نماز پڑھ لیتے اور وضو نہ کرتے۔

۶۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَنَامُونَ ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّأُونَ

امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے میں نے صالح بن عبد اللہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے ابن مبارک سے اس شخص کے متعلق پوچھا جو بیٹھے بیٹھے سہارا لے کر سو جائے؟ کہنے لگے: اس پر وضو واجب نہیں۔ کہتے ہیں: ابن عباسؓ کی حدیث، سعید بن ابی عروبہ نے قوادہ سے اور انہوں نے ابن عباسؓ سے انہی کا قول نقل کیا ہے اور اس میں ابو العالیہ کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی اسے مرفوع کیا ہے۔ نیند سے وضو کے واجب ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔ اکثر علماء جن میں ابن مبارکؓ، سفیان ثورؓ اور امام احمدؓ شامل ہیں، کا قول یہ ہے کہ اگر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر سوئے تو وضو واجب نہیں یہاں تک کہ لیٹ کر سوئے جب کہ بعض کہتے ہیں اگر اس کی عقل پر نیند غالب ہو جائے تو وضو واجب ہے یہ اسحاق کا قول ہے۔ شافعیؒ کہتے ہیں: اگر کوئی بیٹھ کر سوتے ہوئے خواب دیکھے یا نیند کے غلبے کی وجہ سے مقعد اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو وضو واجب ہے۔

توضیح: ائمہ اربعہ اور جمہور کا مسلک یہ ہے کہ اگر نیند غالب ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے ورنہ نہیں۔ اور نیند سے مراد جوڑوں کا ڈھیلا پڑ جانا ہے۔ پھر جمہور حضرت انسؓ سے مروی حدیث نمبر ۶۸ کے جواب میں کہتے ہیں کہ اگلے مراد وہ نیند ہے جو غالب نہ ہو جس کی دلیل اس روایت کے بعض طرق میں بہ تصریح ملتی ہے کہ یہ نیند عشاء کی نماز کے انتظار میں تھی۔ نیز مسند بزار میں اسی روایت میں یہ الفاظ

مروی ہیں ”فمنہم من يتوضأ ومنہم من لا يتوضأ“ یعنی ان میں کچھ وضو کرتے اور کچھ نہ کرتے تھے۔ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن کی نیند گہری اور غالب ہوتی تھی وہ وضو کرتے تھے۔ بصورت دیگر نہیں۔ (مترجم)

باب ۵۸۔ الوُضُوءُ مِمَّا عَيَّرَتِ النَّارُ

باب ۵۸۔ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو کا حکم

۶۹ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: آگ پر پکی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو واجب ہو جاتا ہے چاہے وہ قروت (۱) کا ایک کٹڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا: کیا ہم تیل کھانے اور گرم پانی کے استعمال کے بعد بھی وضو کیا کریں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بھتیجے جب حضور ﷺ سے منقول حدیث سنو تو اس کے لئے مثالیں نہ دو۔

۶۹۔ حدثنا ابن ابی عمر نا سفیان بن عیینة عن محمد بن عمرو عن ابی سلمة عن ابی ہریرة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ وَلَوْ مِنْ تَوْرٍ أَقِطَ قَالَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْتَوَضُّ مِنَ الدَّهْنِ أَنْتَوَضُّ مِنَ الْحَمِيمِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَا بَنَ أَخِي إِذَا سَمِعْتَ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَضْرِبْ لَهُ مَثَلًا

اس باب میں ام حبیبہ، ام سلمہ، زید بن ثابت، ابو طلحہ، ابو ایوب اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہم بھی احادیث بیان کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ بعض علماء کے نزدیک آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جب کہ اکثر علماء صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا مسلک یہ ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔

باب ۵۹۔ فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا عَيَّرَتِ النَّارُ

باب ۵۹۔ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔

۷۰۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نکلے اور میں آپ ﷺ کے ساتھ تھا۔ پھر ایک انصاری عورت کے ہاں تشریف لے گئے اس نے آپ ﷺ کے لئے ایک بکری ذبح کی۔ آپ ﷺ نے کھانا کھایا۔ پھر وہ ایک پلیٹ میں کھجیاں لائی۔ آپ ﷺ نے اس سے بھی کھجوریں کھائیں۔ پھر ظہر کے لئے وضو کیا اور نماز پڑھی پھر واپس آئے تو وہ اس میں سے بچا ہوا گوشت لے کر دوبارہ حاضر ہوئی۔ آپ ﷺ نے کھایا پھر عصر کی نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔

۷۰۔ حدثنا ابن ابی عمر نا سفیان بن عیینة نا عبد الله بن محمد بن عقيل سمع جابرا قال سفیان وحدثنا محمد بن المنکدر عن جابر قال خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَذَبَحَتْ لَهُ شَاةً فَأَكَلَ وَأَتَتْهُ بِفِنَاعٍ مِنْ رُطْبٍ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ لِلظُّهْرِ وَصَلَّى ثُمَّ أَنْصَرَفَ فَاتَتْهُ بِعُلَّالَةٍ مِنْ عُلَّالَةِ الشَّاةِ فَأَكَلَ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

اس باب میں حضرت ابو بکرؓ سے بھی حدیث منقول ہے۔ لیکن ان کی حدیث اسناد کے اعتبار سے صحیح نہیں۔ اس لیے کہ اسے حسام بن مصک نے ابن سیرین سے انہوں نے ابن عباسؓ سے انہوں نے ابو بکرؓ سے اور انہوں نے نبی ﷺ سے نقل کیا ہے جب کہ صحیح یہ ہے کہ ابن عباسؓ حضور ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ حفاظ حدیث اسی طرح نقل کرتے ہیں اور یہ ابن سیرین سے کئی طرق سے منقول ہے وہ ابن عباسؓ سے اور وہ نبی ﷺ سے نقل کرتے ہیں عطاء بن یسار، عکرمہ، محمد بن عمرو، بن عطاء، علی بن عبد اللہ بن عباس اور کئی حضرات ابن عباسؓ

(۱) قروت پتھر کو کہتے ہیں۔ دراصل ”قروت“ ترکی اور فارسی کا لفظ ہے۔ (مترجم)

سے اور وہ حضور ﷺ سے یہ حدیث نقل کرتے ہوئے اس میں ابو بکرؓ کا ذکر نہیں کرتے اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ اس باب میں ابو ہریرہؓ، ابن مسعودؓ، ابورافعؓ، ام الحکمؓ، عمرو بن امیہؓ، ام عامرؓ، سوید بن نعمانؓ اور ام سلمہؓ رضی اللہ عنہم سے بھی حدیثیں نقل کی جاتی ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں: صحابہ، تابعین اور تبع تابعین میں سے اکثر اہل علم اسی پر عمل کرتے ہیں۔ جیسے کہ سفیانؒ، ابن مبارکؒ، شافعیؒ اور اسحاقؒ۔ ان سب کے نزدیک آگ پر کپکے ہوئے کھانے سے وضو واجب نہیں ہوتا۔ یہی حضور ﷺ کا آخری عمل ہے۔ چنانچہ یہ حدیث پچھلی حدیث کو منسوخ کرتی ہے جس میں آگ پر کپکے ہوئے کے تناول سے وضو کا حکم دیا گیا تھا۔

توضیح: ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث میں مذکور واقعہ میں آپ ﷺ کا ظہر کے لیے وضو فرمانا کسی حدیث کی وجہ سے تھا نہ کہ کھانے کی وجہ سے (مترجم)

باب ۶۰۔ الْوُضُوءُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ

۷۱۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ أَبِي مَعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ فَقَالَ تَوَضَّأُوا مِنْهَا وَ سَأَلَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ فَقَالَ لَا تَتَوَضَّأُوا مِنْهَا

باب ۶۰۔ اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کا حکم

۷۱۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کے متعلق دریافت کیا گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس سے وضو کیا کرو۔ پھر بکری کے گوشت کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا: اس سے وضو کی ضرورت نہیں۔

اس باب میں جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ اور اسید بن حنیرؓ سے بھی حدیثیں منقول ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حجاج بن ارطاة نے عبد اللہ سے انہوں نے عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ سے اور انہوں نے اسید بن حنیرؓ سے نقل کی ہے اور عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ کی براء بن عازب سے منقول حدیث صحیح ہے۔ یہی احمد اور اسحاق کا قول ہے۔ عبیدۃ الضحیٰ بھی عبد اللہ بن عبد اللہ رازی سے وہ عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ سے اور وہ ذوالقرنہ سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں۔ حماد بن سلمہ اس حدیث کو حجاج بن ارطاة کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے غلطی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں: عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ سے روایت ہے وہ اپنے والد سے اور وہ اسید بن حنیرؓ سے نقل کرتے ہیں جب کہ صحیح یہ ہے کہ عبد اللہ بن عبد اللہ، عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ سے اور وہ براء بن عازب سے روایت کرتے ہیں۔ اسحاق کہتے ہیں: اس باب میں آپ ﷺ سے منقول دو حدیثیں زیادہ صحیح ہیں۔ براء بن عازبؓ کی اور جابر بن سمرہؓ کی۔

مسئلہ: جمہور کا مسلک یہاں بھی یہی ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو واجب نہیں۔ اور حدیث میں وضو سے مراد ہاتھ منہ دھونا ہے اور یہ بھی استحباب کے لیے ہے۔ علامہ عثمانی فتح الملہم میں کہتے ہیں کہ اس معاملے میں بھی احکام بتدریج آئے ہیں پہلے مطلقاً آگ پر کپکے ہوئے کے کھانے پر وضو کا حکم دیا پھر اونٹ کے گوشت پر، اس کے بعد یہ تمام احکام منسوخ ہو گئے۔ (مترجم)

باب ۶۱۔ الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ الذَّنَكْرِ

۶۱۔ عضو خاص کو چھونے سے وضو واجب ہو جاتا ہے۔

۷۲۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا يَحْيَىٰ بِنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

۷۲۔ حضرت ہشام بن عروہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد بسرہ بنت صفوان سے نقل کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے اپنے عضو خاص کو چھوا وہ وضو کے بغیر نماز نہ پڑھے۔

وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ

اس باب میں ام حبیبہ، ابو ایوب، ابو ہریرہ، اُردی بنت انیس، عائشہ، زید بن خالد اور عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث منقول ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے، ہشام بن عروہ سے اسی کے مثل کئی حضرات نے روایت کیا ہے۔ وہ اپنے والد سے اور وہ بسرہ سے روایت کرتے ہیں۔ ابواسامہ اور کئی لوگوں نے بھی یہ حدیث ہشام بن عروہ سے انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے مروان سے انہوں نے بسرہ سے اور انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے نقل کی ہے۔ ہم سے اسے اسحاق بن منصور نے اور انہوں نے مروان سے انہوں نے بسرہ سے اور انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے نقل کی ہے۔ ہم سے اسے اسحاق بن منصور نے اور انہوں نے ابواسامہ کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ ابوالزناد نے بھی یہ حدیث عروہ سے انہوں نے بسرہ سے اور انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے روایت کی ہے۔ ہم سے یہ حدیث علی بن حجر نے بھی بیان کی ہے۔ عبدالرحمن بن ابی الزناد بھی اپنے والد سے وہ عروہ سے وہ بسرہ سے اور وہ نبی اکرم ﷺ سے اسی کی طرح نقل کرتے ہیں۔ یہی صحابہ اور تابعین میں سے کافی حضرات کا قول ہے۔ جن میں اوزاعی، شافعی، احمد اور اسحاق شامل ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں اس باب میں ”صحیح“ حدیث بسرہ کی ہے جب کہ ابوزرعہ کا کہنا یہ ہے کہ اس باب کی ”صحیح“ حدیث ام حبیبہ کی حدیث ہے اور یہ علاؤ بن حارث کی نقل کردہ حدیث ہے مکحول سے عنبتہ بن ابی سفیان کے حوالے سے ام حبیبہ سے روایت کرتے ہیں لیکن امام بخاری کہتے ہیں کہ مکحول نے عنبتہ بن ابی سفیان سے کوئی حدیث نہیں سنی۔ مکحول نے کسی شخص کے واسطے سے عنبتہ سے اس حدیث کے علاوہ دوسری احادیث نقل کی ہیں گویا کہ اس حدیث کو صحیح نہیں سمجھتے۔

باب ۶۲۔ تَرَكَ الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

باب ۶۲۔ عضو خاص کو چھونے سے وضو نہ کرنے کے بارے میں  
۷۳۔ حضرت قیس بن طلق بن علی حنفی اپنے والد سے اور وہ حضور  
ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ بھی تو بدن کا ہی ایک ٹکڑا  
ہے۔ راوی کا شک ہے کہ ”مضعف“ فرمایا یا ”بضعف“ جب کہ معنی میں کوئی  
فرق نہیں۔

۷۳۔ حَدَّثَنَا هِنَادٌ نَا مِلَازِمَ بَنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ  
بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَنْفِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ  
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهَلْ هُوَ إِلَّا  
مُضْعَفَةٌ مِنْهُ أَوْ بُضْعَةٌ مِنْهُ

اس باب میں ابوامامہ سے بھی حدیث منقول ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: کئی صحابہ اور بعض تابعین سے منقول ہے کہ وہ عضو خاص کو چھونے سے وضو کو واجب قرار نہیں دیتے تھے۔ یہ قول اہل کوفہ (احناف) اور ابن مبارک کا ہے اور یہ حدیث اس باب کی احادیث میں سب سے بہتر ہے۔ اسے ایوب بن عتبہ اور محمد بن جابر بھی قیس بن طلق سے اور وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں۔ جب کہ بعض محدثین محمد بن جابر اور ایوب بن عتبہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ اور ملازم بن عمرو کی عبد اللہ بن بدر سے منقول حدیث صحیح اور احسن ہے۔  
توضیح: مذکورہ بالا احادیث میں تعارض ہے اور تعارض کے وقت قیاس کی طرف بھی رجوع کیا جاتا ہے اور قیاس حنفیہ کے مسلک ہی کی تائید کرتا ہے اس لیے کہ بول و براز وغیرہ جو بذات خود نجس ہیں ان کا چھونا کسی کے نزدیک بھی ناقض وضو نہیں۔ لہذا اعضاء مخصوصہ جن کا ظاہر ہونا متفق علیہ ہے ان کو چھونا بطریق اولیٰ ناقض نہیں ہونا چاہیے (مترجم)

باب ۶۳۔ تَرَكَ الْوُضُوءَ مِنَ الْقِبْلَةِ

باب ۶۳۔ بوسہ لینے سے وضو نہ کرنے کے بارے میں۔

۷۴۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اپنی کسی بیوی کا بوسہ لیا اور پھر بغیر وضو

۷۴۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ وَهْنَادٌ أَبُو كَرِيبٍ وَاحْمَدُ بْنُ  
مَنِيعٍ وَمَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ وَأَبُو عِمَارٍ قَالُوا نَا وَكَيْع

عن الاعمش عن حبيب بن ابي ثابت عن عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قبل بعض نساياه ثم خرج الى الصلوة ولم يتوضأ قال قلت من هي الا انت فصحكت

کے نماز کے لئے چلے گئے۔ عروہ کہتے ہیں میں نے کہا: وہ آپ کے سوا کون ہو سکتی ہے تو ہنسنے لگیں۔

امام ترمذی کہتے ہیں اس طرح کی روایات کئی صحابہ اور تابعین سے منقول ہیں۔ سفیان ثوری اور اہل کوفہ (حنفیہ) کا بھی یہی قول ہے کہ بوسے سے وضو واجب نہیں ہوتا۔ جب کہ مالک بن انس، اوزاعی، شافعی، احمد، اسحاق اور کئی اہل علم صحابہ و تابعین کا قول یہ ہے کہ بوسے سے وضو واجب ہو جاتا ہے۔ ہمارے اصحاب نے اس سے متعلق حضور ﷺ سے منقول حضرت عائشہ کی حدیث پر اس لیے عمل نہیں کیا کہ وہ سند میں ضعف کی وجہ سے ان کے نزدیک صحیح نہیں ہے کہتے ہیں: (یعنی امام ترمذی) میں نے ابو بکر عطار بصری کو علی بن مدینی کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا کہ وہ کہتے تھے: یحییٰ بن سعید قطان نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور کہا کہ میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو بھی اس حدیث کو ضعیف کہتے ہوئے سنا۔ ان کا کہنا ہے کہ حبیب بن ابی ثابت نے عروہ سے کوئی حدیث نہیں سنی۔ ابراہیم تیمی حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ان کا بوسہ لیا اور وضو نہیں کیا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہمیں ابراہیم تیمی کے حضرت عائشہ سے سماع کا بھی علم نہیں۔ اس باب میں حضور ﷺ سے منقول احادیث میں سے کوئی بھی صحیح نہیں۔

مسئلہ: حنفیہ کا مسلک عدم وجوب کا ہے جیسا کہ گزر چکا یہ اپنے مسلک پر اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں، امام ترمذی نے اسے ضعیف کہا ہے لیکن درحقیقت یہ صحیح علی شرط مسلم ہے (یعنی امام مسلم کی شرط پر) دراصل یہ حدیث دو طریق سے مروی ہے ایک ”عن حبیب بن ابی ثابت عن عروہ عن عائشہ“ اور دوسرا ”ابوروق عن ابراہیم تیمی عن عائشہ“۔

عروہ کی روایت پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ عروہ سے مراد عروہ ابن الزبیر نہیں بلکہ عروہ المزنی ہیں جو مجہول ہیں۔

لیکن فی الواقع ان سے مراد عروہ ابن الزبیر ہی ہیں، جس کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ ابن ماجہ میں ابواب الطہارۃ، باب الوضوء من القبلة میں یہ حدیث مروی ہے اس میں عروہ کے ساتھ ابن الزبیر کی صراحت موجود ہے۔

۲۔ سنن دارقطنی، مسند احمد اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی بعض میں ابن الزبیر اور بعض میں ابن اسماء کی تصریح ہے۔

۳۔ اس حدیث کے آخر میں ایک بے تکلفی کا جملہ ہے ”وہ آپ کے سوا کون ہو سکتی ہیں“ جس پر حضرت عائشہ ہنس دیتی ہیں۔ یہ

جملہ عروہ ابن الزبیر ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے بھانجے ہیں۔

دوسرے طریق پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ابراہیم تیمی کا حضرت عائشہ سے سماع نہیں۔ امام دارقطنی اپنی سنن میں اس حدیث کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ”اس حدیث کو معاویہ بن ہشام، ثوری سے وہ ابوروق سے وہ ابراہیم تیمی سے وہ اپنے والد سے اور وہ حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں“ اس طریق میں ان کے والد کی وجہ سے حدیث متصل ہوگئی۔

لہذا ثابت ہو گیا کہ حدیث باب مسلم کی شرط پر صحیح اور قابل استدلال ہے اس لیے مبارکپوری سمیت بہت سے علماء اہل حدیث نے

اس مسئلہ میں حنفیہ کی تائید کی ہے۔ (مترجم)

تے اور کسیر سے وضو کا حکم

باب ۶۴۔ الوضوء من القیء و الرعاف

۷۵۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے تے کی اور وضو کیا پھر میری جب دمشق کی مسجد میں ثوبان رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے اس کا تذکرہ کیا تو فرمایا: ابودرداء نے کہا ہے اس لئے کہ آپ کے وضو کے لئے میں نے پانی ڈالا تھا۔

۷۵۔ حدثنا ابو عبیدة بن ابی السفر و اسحق ابن منصور قال ابو عبیدة ثنا وقال اسحق انا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنی ابی عن حسین المعلم عن یحییٰ بن ابی کثیر قال حدثنی عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعی عن یعیش بن الولید المخزومی عن ابیہ عن معدان ابن ابی طلحة عن ابی الدرداء ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق انا صببت له وضوءه

امام ترمذی کہتے ہیں: اکثر صحابہ و تابعین سے تے اور نکیس پر وضو کرنا منقول ہے اور یہی قول سفیان، ابن مبارک، احمد اور اسحاق کا بھی ہے۔ جب کہ بعض جن میں مالک اور شافعی بھی ہیں، کے نزدیک اس سے وضو نہیں فاسد ہوتا۔ حسین بن معلم اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں۔ اور ان کی حدیث اس باب میں ”صح“ ہے۔ معمر نے یہ حدیث یحییٰ بن ابی کثیر سے نقل کرتے ہوئے غلطی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں: یعیش بن ولید سے روایت ہے وہ خالد بن معدان سے اور وہ ابودرداء سے روایت کرتے ہیں۔ اس سند میں انہوں نے اوزاعی کو ذکر نہیں کیا اور کہا: خالد بن معدان سے روایت ہے جب کہ صحیح معدان بن ابوطلمہ ہے۔

باب ۶۵۔ نبیذ سے وضو کرنا (۱)

۷۶۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے پوچھا، تمہاری مشک میں کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: نبیذ ہے۔ فرمایا: کھجور پاک اور پانی پاک کرنے والا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ ﷺ نے اسی سے وضو کیا۔

باب ۶۵۔ الوضوء بالنبيذ  
۷۶۔ حدثنا هناد بن شريك عن ابی فزارة عن ابی زيد عن عبد الله بن مسعود قال سألني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما في اداوتك فقلت نبيذ فقال تمر طيبة وماء طهور قال فتوضأ منه

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث ابوزید، عبداللہ سے اور وہ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں، ابوزید محدثین کے نزدیک مجہول ہیں۔ اس حدیث کے علاوہ ان کی کسی روایت کا ہمیں علم نہیں۔ بعض اہل علم (سفیان وغیرہ) نبیذ سے وضو کو جائز سمجھتے ہیں جب کہ بعض اسے ناجائز قرار دیتے ہیں۔ جیسے امام شافعی، احمد اور اسحاق۔ اسحاق کہتے ہیں اگر کسی شخص کے پاس اس کے علاوہ پانی نہ ہو تو اس سے وضو کر کے تیمم کرنا میرے نزدیک بہتر ہے۔ جن کے نزدیک نبیذ سے وضو کرنا جائز نہیں ان کا قول قرآن کریم سے اقرب اور اشد ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”فلم تجدوا ماء افتيمموا صعيدا طيبا“، یعنی پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو۔

توضیح: اس مسئلے میں اختلاف اسی نبیذ میں ہے جو طلو (میٹھی) رقیق، غیر مطح اور نشہ نہ دینے والی ہو۔ جمہور حنفیہ متأخرین بھی عدم جواز کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں۔ امام طحاوی اور علامہ زبیلی جیسے محدثین نے بھی اس حدیث کے ضعف کو تسلیم کیا ہے۔ (مترجم)

(۱) نبیذ: انگور یا کھجور کی چوڑی ہوئی شراب کو کہتے ہیں۔ (مترجم)

باب ۶۶۔ الْمَمْضَمَةُ مِنَ اللَّبَنِ

۷۷۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيْلٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَذَعَا بِمَاءٍ فَمَضَمَضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسْمًا

باب ۶۶۔ باب دودھ پی کر گھٹی کرنا

۷۷۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے دودھ پیا۔..... پھر پانی منگوا کر گھٹی کی اور فرمایا: اس میں چکنائی ہوتی ہے۔

اس باب میں سہل بن سعد اور ام سلمہ سے بھی حدیثیں منقول ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض اہل علم کی رائے یہی ہے کہ دودھ پی کر گھٹی کی جائے یعنی یہ ان کے نزدیک مستحب ہے جب کہ بعض حضرات کے نزدیک ایسا نہیں ہے یعنی دودھ کے بعد گھٹی کرنا ضروری نہیں۔

باب ۶۷۔ فِي كَرَاهِيَةِ رَدِّ السَّلَامِ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ

۷۸۔ حَدَّثَنَا نَصْرُ ابْنِ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا أَبُو أَحْمَدَ عَنْ سَفِيَّانَ بْنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَثْمَانَ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ

باب ۶۷۔ بے وضو کے لئے سلام کا جواب دینا مکروہ ہے۔

۷۸۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ پیشاب کر رہے تھے کہ ایک شخص نے سلام کیا۔ تو آپ ﷺ نے اسے جواب نہیں دیا۔

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ہمارے نزدیک سلام کرنا اس وقت مکروہ ہے جب وہ قضاے حاجت کے لیے بیٹھا ہو اور۔ بعض علماء نے اس کی یہی تفسیر کی ہے۔ یہ اس باب کی ”احسن“ حدیث ہے۔ اس باب میں مہاجر بن قنفذ، عبد اللہ بن حنظلہ، علقمہ بن شقواء، جابر اور براء سے بھی احادیث نقل کی گئی ہیں۔

مسئلہ: حنفیہ کے نزدیک قضاے حاجت کے وقت سلام کرنا اور جواب دینا دونوں مکروہ ہیں۔ جب کہ حالتِ حدث میں سلام مکروہ نہیں۔ (مترجم)

باب ۶۸۔ مَا جَاءَ فِي سُورِ الْكَلْبِ

۷۹۔ حَدَّثَنَا سُوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ نَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَيُّوبَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ سَبْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُغَسَّلُ الْإِنَاءُ إِذَا وُلِّغَ فِيهِ الْكَلْبُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَا هُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ بِالْتُّرَابِ وَإِذَا وُلِّغَتْ فِيهِ الْهَرَّةُ غُسِّلَ مَرَّةً

باب ۶۸۔ کتے کے جوٹھے کا حکم

۷۹۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اسے سات مرتبہ دھویا جائے۔ پہلی یا آخری مرتبہ مٹی سے مل کر اور اگر بلی کسی برتن میں منہ ڈالے تو اسے ایک مرتبہ دھویا جائے۔

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے اور یہی شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے کئی سندوں سے اسی طرح حضور ﷺ سے منقول ہے لیکن اس میں بلی کے جوٹھے سے ایک مرتبہ دھونے کا ذکر نہیں۔ اس باب میں عبد اللہ بن مغفل سے بھی حدیث منقول ہے۔

مسئلہ: امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک کتے کے جوٹھے برتن کو تین مرتبہ دھونا کافی ہے ان کی دلیل حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی حدیث ہے کہ حضور ﷺ نے اسے تین مرتبہ دھونے کا حکم دیا۔ اسی روایت کی صحت کے متعدد قرائن ہیں۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ ابو ہریرہؓ کا ایک فتویٰ سات مرتبہ دھونے کا بھی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تثلیث کے فتویٰ کو وجوب اور تسمیع کو استحباب پر محمول کیا جائے گا تا کہ تعارض نہ ہو۔ قیاس سے بھی تثلیث کے وجوب کی ہی تائید ہوتی ہے اس لیے کہ وہ نجاسات جو غلیظ اور قطعی دلائل سے ثابت ہیں۔ (مثلاً بول و براز) جن میں کتے اور خنزیر کا (بول و براز) بھی شامل ہیں تین مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتے ہیں اور اس پر علماء متفق ہیں۔ تو کتے کے جوٹھے میں جو غلیظ ہے نہ قطعی اور نہ ہی بول و براز سے زیادہ مستقدر اس میں تسمیع کا حکم معقول کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر مزید یہ کہ سات مرتبہ دھونے والی احادیث میں کافی اختلاف ہے کسی میں پہلی مرتبہ مٹی سے دھونے کسی میں ساتویں مرتبہ اور کسی میں آٹھویں مرتبہ دھونے کے الفاظ ہیں۔ لہذا ظاہر یہ ہے کہ سات مرتبہ کا حکم استحباب ہی کے لیے ہے کیونکہ کتے کے لعاب میں زہر زیادہ ہوتا ہے اس سے یقینی طور پر بچنے کے لیے یہ ہدایت دی گئی اور اسی لیے اسے مٹی سے مانجھنا بھی مستحب ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۶۹۔ مَا جَاءَ فِي سُورِ الْهَجَرَةِ

باب ۶۹۔ بلی کے جوٹھے کا حکم

۸۰۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی منکوحہ کبشہ بنت کعب بن مالک رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ابو قتادہ میرے پاس آئے۔ میں نے ان کے لئے وضو کا پانی بھرا۔ تو ایک بلی آئی اور پانی پینے لگی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے برتن کو جھکا دیا۔ یہاں تک کہ اس نے پانی پیا۔ کبشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں۔ انہوں نے مجھے جب اپنی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے۔ اے بھتیجی تمہیں اس پر تعجب ہے؟ میں نے کہا: ہاں پھر کہنے لگے کہ حضور ﷺ نے فرمایا یہ ناپاک نہیں ہے یہ تو تمہارے گرد گھومتی پھرتی ہے۔ راوی کو شک ہے کہ ”طوافین“ فرمایا یا ”طوافات“ طوافات مؤنث کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

۸۰۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْاَنْصَارِيُّ نَا مَعْنَ نَا مَالِكُ بْنُ اَنْسَ عَنْ اسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي طَلْحَةَ عَنْ حَمِيْدَةَ ابْنَةِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ كَبِشَةَ ابْنَةَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ عِنْدَ ابْنِ اَبِي قَتَادَةَ اَنَّ اَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا قَالَتْ فَسَكَبْتُ لَهٗ وَضُوًا قَالَتْ فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ فَاصْغَى لَهَا الْاِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبِشَةُ فَرَانِي اَنْظُرْ اِلَيْهِ فَقَالَ اَتَعْجِبِيْنَ يَا ابْنَةَ اَجْحَى فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهٖ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ اِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَا فَيَنْ عَلَيْكُمْ اَوْ الطَّوَا فَاَتِ

اس باب میں حضرت عائشہؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یہی صحابہ تابعین اور تبع تابعین جیسے کہ شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے کہ بلی کے جوٹھے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ اس باب کی احسن حدیث ہے۔ امام مالک نے اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ سے منقول اسی حدیث کو بہت اچھا نقل کیا ہے۔ اور ان کے علاوہ کسی نے بھی اسے مکمل روایت نہیں کیا۔

مسئلہ: حنفیہ کے نزدیک بلی کو جوٹھا مکروہ ہے۔ (مترجم)

باب ۷۰۔ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ

باب ۷۰۔ موزوں پر مسح کرنا

۸۱۔ حضرت ہمام بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے پیشاب کرنے کے بعد وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا۔ ان سے کہا گیا کہ آپ ایسا کرتے ہیں؟ فرمایا: کیوں نہ کروں جب میں

۸۱۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ نَا وَكَيْعُ عَنْ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ قَالَ بَالُ حَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ فَقِيْلَ لَهٗ اَتَفْعَلُ هٰذَا قَالَ وَمَا

مُنْعِنِي وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ  
سَلَّمَ يَفْعَلُهُ قَالَ وَكَانَ يُعْجِبُهُمْ حَدِيثُ جَرِيرٍ لِأَنَّ  
سَلَامَةَ كَانَ بَعْدَ نَزُولِ الْمَائِدَةِ

نے حضور ﷺ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم  
لوگ حضرت جریر رضی اللہ عنہ کی حدیث کو اس لئے اہمیت دیتے تھے کہ  
وہ سورہ مائدہ نازل ہونے کے بعد اسلام لائے۔

اس باب میں عمر، علی، حذیفہ، مغیرہ، سعد، بلال، ابویوب، سلمان، بریدہ، عمرو بن امیہ، انس، اہل بن سعد، یعلیٰ بن مرہ، عبادہ بن  
صامت، اسامہ بن شریک، ابوامامہ، جابر اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم بھی احادیث بیان کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں۔ حدیث جریر  
حسن صحیح ہے۔ شہر بن حوشب کہتے ہیں: میں نے جریر بن عبداللہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ انہوں نے موزوں پر مسح کیا جس پر میں نے  
ان سے کہا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے حضور ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ نے وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا۔ میں نے ان سے کہا: کیا  
مائدہ کے نازل ہونے سے پہلے یا بعد؟ جواب دیا: میں نے مائدہ کے نزول کے بعد ہی اسلام قبول کیا ہم سے اسے قتیبہ نے انہوں نے  
خالد بن زید ترمذی سے، انہوں نے مقاتل بن حیان سے انہوں نے شہر بن حوشب سے اور انہوں نے جریر کے حوالے سے نقل کیا ہے۔  
جب کہ باقی حضرات نے اسے ابراہیم بن ادہم سے انہوں نے مقاتل بن حیان سے انہوں نے جریر کے حوالے سے بیان کیا ہے۔

اس حدیث میں تفسیر ہے۔ اس لیے کہ جن لوگوں نے موزوں پر مسح کے جواز سے انکار کیا ہے اس حدیث کی یہ تاویل کی ہے کہ یہ  
سورہ مائدہ سے پہلے کی ہے لیکن جریر نے اپنی حدیث میں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے حضور ﷺ کو سورہ مائدہ کے نزول کے بعد موزوں پر مسح  
کرتے ہوئے دیکھا۔

توضیح: ان کے حضرت جریری حدیث کو اہمیت دینے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت جریر سورہ مائدہ کی وضو کی آیت نازل ہونے کے بعد  
اسلام لائے تھے۔ لہذا اس سے روافض وغیرہ کی تردید ہوتی ہے جو کہ موزوں پر مسح کو وضو کی آیت سے منسوخ قرار دیتے ہیں۔ جب کہ  
موزوں پر مسح کے جواز پر امت کا اجماع ہے۔ (مترجم)

باب ۷۱۔ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمَسَافِرِ وَالْمُقِيمِ  
۷۲۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ  
عَنْ اِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ اِبِي  
عَبْدِ اللَّهِ الْحَدَّادِيِّ عَنْ حُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى  
الْخُفَّيْنِ فَقَالَ لِلْمَسَافِرِ ثَلَاثٌ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ

باب ۷۱۔ مسافر اور مقیم کے لئے موزوں پر مسح کرنا  
۷۲۔ حضرت خزیمہ بن ثابت، نبی اکرم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ  
ﷺ سے موزوں پر مسح سے متعلق سوال کیا گیا آپ ﷺ نے فرمایا مسافر  
کے لئے تین دن تک اور مقیم کے لئے ایک دن کی مدت ہے۔

ابو عبداللہ جدلی کا نام عبد بن عبد ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں علیؑ، ابو بکرؓ، ابو ہریرہؓ، صفوان بن  
عسالؓ، عوف بن مالکؓ، ابن عمرؓ اور جریر رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث منقول ہیں۔

۸۳۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ ابْنُ الْاَحْوَصِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ اِبِي  
النَّجُودِ عَنْ زُرَيْبِ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ  
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا  
كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَا لِيَهُنَّ إِلَّا

۸۳۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم  
ﷺ ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ اگر ہم سفر میں ہوں تو تین دن، تین رات  
تک موزے نہ اتاریں۔ ہاں اگر (غسل) جنبت ہو تو اتاریں۔ لیکن  
قضاے حاجت یا نیند کے سبب نہیں۔

مِنْ حَنَابِيَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ

امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے اسے حکم بن عتیہ اور حماد، ابراہیم نخعی سے وہ ابو عبد اللہ جدلی سے اور وہ خزیمہ بن ثابت سے نقل کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں۔ علی بن مدینی یحییٰ کے ذریعے شعبہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ ابراہیم نخعی نے مسح کی حدیث ابو عبد اللہ جدلی سے نہیں سنی۔ زائدہ منصور سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم ابراہیم نخعی کے حجرے میں تھے۔ ہمارے ساتھ ابراہیم نخعی بھی تھے۔ ابراہیم نخعی نے ہم سے موزوں پر مسح سے متعلق حدیث بیان کی۔ وہ عمرو بن میمون سے وہ ابو عبد اللہ جدلی سے وہ خزیمہ بن ثابت سے اور وہ حضور ﷺ سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ بخاری کہتے ہیں اس باب میں احسن حدیث صفوان بن عسال کی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ صحابہ، تابعین اور ان کے بعد کے اہل علم جن میں سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق شامل ہیں کا قول ہے۔ یعنی مقیم ایک دن ایک رات اور مسافر تین دن تین رات تک مسح کر سکتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک مسح کے لئے کوئی مدت مقرر نہیں۔ یہ قول مالک بن انس کا ہے۔ لیکن مدت کا تعین ہی صحیح ہے۔

باب ۷۲۔ فی الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ اَعْلَاهُ وَاسْفَلَهُ

باب ۷۳۔ فی الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ اَعْلَاهُ وَاسْفَلَهُ

۸۴۔ حدثنا ابو الوليد الدمشقي نا الوليد ابن مسلم اخبرني ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب الْمُعَيَّرَةِ عَنِ الْمُعَيَّرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَاسْفَلَهُ

امام ترمذی کہتے ہیں۔ یہ کئی صحابہ اور تابعین کا قول ہے۔ مالک، شافعی اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں یہ حدیث ”معلول“ ہے۔ اسے ثور بن یزید سے ولید بن مسلم کے علاوہ کسی نے نقل نہیں کیا۔ میں نے ابو زرہ اور امام بخاری سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو ان دونوں نے جواب دیا۔ یہ صحیح نہیں اس لیے کہ ابن مبارک، ثور سے اور وہ رجاء سے نقل کرتے ہیں کہ رجاء نے کہا مجھے یہ حدیث حضرت مغیرہ کے کاتب سے پہنچی ہے اور یہ مرسل ہے کیوں کہ انہوں نے مغیرہ کا تذکرہ نہیں کیا۔

مسئلہ: حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک صرف موزوں کے اوپر مسح کرنا ضروری ہے ان کی دلیل حدیث نمبر ۸۵ ہے۔ جو ذیل میں مذکور ہے۔ (مترجم)

باب ۷۴۔ فی الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ظَاهِرِهِمَا

۸۵۔ حدثنا علي بن جحرنا عبدالرحمن بن ابى الزناد عن ابیه عن عروة بن الزبير عَنِ الْمُعَيَّرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ظَاهِرِهِمَا

امام ترمذی کہتے ہیں حدیث مغیرہ حسن ہے۔ اسے عبدالرحمن بن ابی الزناد بھی اپنے والد سے وہ عروہ سے اور وہ مغیرہ سے نقل کرتے ہیں۔ ہمیں علم نہیں کہ کسی اور نے حضور ﷺ کا موزوں کے اوپر مسح کرنا عروہ سے اور انہوں نے مغیرہ سے نقل کیا ہو۔ یہ کئی علماء کا قول ہے سفیان ثوری اور احمد بھی اسی کے قائل ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ مالک عبدالرحمن بن ابوزناد کو ضعیف سمجھتے تھے۔

توضیح: حنفیہ کا استدلال حدیث باب سے ہے اگرچہ بعض حضرات نے عبدالرحمن بن ابوزناد کی تضعیف کی ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ ان

کی احادیث مقبول ہیں۔ نیز ابوداؤد میں اسناد حسن کے ساتھ حضرت علی کا ارشاد منقول ہے کہ: اگر دین کا تعلق رائے سے ہوتا تو موزوں کا نیچے سے مسح کرنا اوپر کرنے سے اولیٰ ہوتا جب کہ میں نے حضور ﷺ کو موزوں کے اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ (مترجم)

باب ۷۵۔ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ

باب ۷۵۔ جورین اور نعلین پر مسح کرنا

۸۶۔ حدثنا هناد و محمود بن غيلان قالا نا و كعب

۸۶۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے

عن سفیان عن ابی قیس عن هزبل بن شَرَحْبِيلِ عَنِ

وضو کیا اور جورین اور نعلین پر مسح کیا۔

الْمُعِيرَةَ شُعْبَةَ قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ

امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور یہی علماء کا قول ہے۔ سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق اس کے قائل ہیں ان کا کہنا ہے کہ جورین پر مسح کرنا جائز ہے اگرچہ ان پر چمڑہ نہ چڑھا ہوا ہو۔ بشرطیکہ وہ نخیلین ہوں۔ اسی باب میں ابوموسیٰ بھی حدیث بیان کرتے ہیں۔

توضیح: جورب، سوت یا اون کے موزوں کو کہتے ہیں اگر ایسے موزوں پر دونوں طرف چمڑا چڑھا ہو تو اسے مجلد کہتے ہیں اگر ان کے نیچے چمڑا چڑھا ہوا ہو تو اسے منعل کہتے ہیں۔ اور اگر وہ صرف چمڑے کے ہوں تو انہیں نخیلین کہتے ہیں۔ اور نخیلین سے مراد یہ ہے کہ وہ شفاف نہ ہوں۔ اگر ان پر پانی ڈالا جائے تو پاؤں تک نہ پہنچے۔ بغیر کسی چیز کے چپکے رہیں اور ان کو پہن کر اتنا چلا جا سکے جتنا کہ خف کو پہن کر چلا جا سکتا ہے۔ نخیلین، جورین مجلدا دین، جورین منعلین اور جورین نخیلین پر مسح با اتفاق جائز ہے جب کہ نعلین (جوتوں) پر ائمہ اربعہ میں سے کسی نے بھی مسح کی اجازت نہیں دی۔ لہذا یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام ترمذی سے اس کی تصحیح میں تسامح ہوا ہے کیوں کہ محدثین کا اس حدیث کے ضعف پر اتفاق ہے۔ واللہ اعلم۔ (مترجم)

باب ۷۶۔ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَيْنِ وَالْعَمَامَةِ

باب ۷۶۔ جورین اور عمامہ پر مسح کرنا۔

۸۷۔ حدثنا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد

۸۷۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں

القطان عن سليمان التيمي عن بكر بن عبدالله

کہ نبی اکرم ﷺ نے وضو کیا اور موزوں اور عمامہ پر مسح کیا۔

المزني عن الحسن بن ابن الْمُعِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ

آبِيهِ قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ وَالْعَمَامَةِ

بکر کہتے ہیں: میں نے اسے مغیرہ کے بیٹے سے سنا۔ محمد بن بشار ایک اور جگہ اسی حدیث کو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے پیشانی اور عمامہ پر مسح کیا۔ یہ حدیث مغیرہ بن شعبہ سے کئی سندوں سے منقول ہے بعض اس میں پیشانی اور عمامہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب کہ بعض پیشانی کا ذکر کرتے ہیں جبکہ بعض پیشانی کا ذکر نہیں کرتے، احمد بن حسن کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل سے سنا کہ میں نے یحییٰ بن سعید قطان جیسا شخص نہیں دیکھا۔ اس باب میں عمرو بن امیہ، سلمان، ثوبان اور ابوامامہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ کی حدیث حسن صحیح ہے اور یہ کئی اہل علم کا قول ہے جن میں صحابہ (ابوبکر، عمر اور انس) بھی شامل ہیں۔ یہی اوزاعی، احمد اور اسحاق کا بھی قول ہے ان حضرات کے نزدیک عمامہ پر مسح کرنا جائز ہے ہم سے قتیبہ بن سعید روایت کرتے ہیں ان سے

بشر بن مفضل ان سے عبدالرحمن بن اسحاق ان سے ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر نقل کرتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے خفین پر مسح کے متعلق پوچھا تو جواب دیا: اے بھتیجے یہ سنت ہے پھر میں نے عمائم پر مسح کا پوچھا تو فرمایا: بالوں کا چھونا ضروری ہے۔ کئی علماء جن میں صحابہ و تابعین شامل ہیں کا مسلک یہ ہے کہ عمائم پر مسح کے ساتھ سر کا بھی مسح کرے۔ یہ سفیان ثوری، مالک بن انس، ابن مبارک اور شافعی کا قول ہے۔

۸۸۔ حدثنا هناد نا علي بن مسهر عن الاعمش عن الحكم عن ابى عبدالرحمن بن ابى ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْحِمَارِ

۸۸۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے موزوں اور عمائم پر مسح کیا۔

مسئلہ: خفین کے نزدیک عمائم پر مسح کرنے سے فرض ادا نہیں ہوتا اس لیے کہ مسح رأس (سر کے مسح) کا حکم آیت قرآنی سے ثابت ہے اور عمائم پر مسح کرنے سے متعلق کوئی بھی روایت صریح نہیں ہے بلکہ ان میں تاویلات کے احتمالات ہیں لہذا یقین کو احتمال کی وجہ سے چھوڑا نہیں جاسکتا۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۷۷۔ غسل جنابت کے متعلق۔

۸۹۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کے غسل کے لئے پانی رکھا آپ ﷺ نے غسل جنابت کیا اور برتن کو بائیں ہاتھ میں پکڑ کر دائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور دونوں ہاتھ دھوئے۔ پھر ہاتھ پانی میں ڈالا اور ستر پر پانی بہایا، پھر اپنے ہاتھ کو دیوار یا زمین پر ملا۔ پھر کھلی کی، ناک میں پانی ڈالا اور منہ اور دونوں ہاتھ دھوئے۔ پھر سر پر تین مرتبہ پانی بہایا پھر سارے جسم پر پانی بہایا۔ اس کے بعد اس جگہ سے ذرا ہٹ کر پاؤں دھوئے۔

باب ۷۷۔ مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

۸۹۔ حدثنا هناد ثنا وكيع عن الاعمش عن سالم بن ابى الجعد عن كريب عن ابن عباس عن خالته ميمونة قالَ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ غُسْلًا فَأَغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَأَكْفَأُ الْإِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ فَعَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ ادْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَأَفَاضَ عَلَى فَرْجِهِ ثُمَّ دَلَكَ بِيَدِهِ الْحَائِطَ وَالْأَرْضَ ثُمَّ مَضَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ فَأَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَعَسَلَ رِجْلَيْهِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ام سلمہ، جابر، ابوسعید، جبیر بن مطعم اور ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے۔

۹۰۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب غسل جنابت کا ارادہ فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو برتن میں ڈالنے سے پہلے شروع میں دھویا کرتے تھے، پھر استنجا اور جس طرح نماز کے لئے وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کرتے پھر سر کے بالوں میں اچھی طرح پانی ڈالتے اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں سے سر پر تین مرتبہ پانی ڈالتے۔

۹۰۔ حدثنا ابن ابى عمر نا سفیان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الْإِنَاءَ ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأُ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَشْرِبُ شَعْرَةَ الْمَاءِ ثُمَّ يُحْتِئُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَتِيَّاتٍ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس کو اہل علم نے غسل جنابت کے لیے اختیار کیا ہے کہ پہلے وضو کرے اور پھر تین مرتبہ سر پر پانی بہانے کے بعد اپنے پورے بدن پر پانی بہائے اور آخر میں پاؤں دھوئے۔ اسی پر علماء کا عمل ہے۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ اگر کسی نے وضو نہیں کیا اور پورے بدن پر پانی بہایا تو بھی غسل ہو گیا۔ یہ شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے۔

باب ۷۸۔ هَلْ تَنْقُضُ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ

۹۱۔ حدثنا ابن ابی عمر نا سفیان عن ابوب بن موسی المقرببی عن عبد اللہ بن رافع عن أم سلمة قالت قلت یا رسول اللہ انی امرأۃ أشد ضفر رأسی أفانقضہ لغسل الجنابة قال لا انما یغفیک ان تحینی علی رأسیک ثلث حیثیات من ماء ثم تفیضی علی سائر جسدک الماء فتطهرین أو قال فإذا أنت قد تطهرت

۹۱۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں ایسی عورت ہوں کہ اپنی چوٹی کو مضبوط باندھتی ہوں، کیا میں غسل جنابت کے لئے اسے کھولا کروں آپ ﷺ نے فرمایا نہیں، سر پر تین مرتبہ پانی ڈال لینا تمہارے لئے کافی ہے پھر سارے بدن پر پانی بہاؤ۔ پس تم پاک ہو گئیں یا فرمایا اب تم پاک ہو گئیں۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور اس پر علماء کا عمل ہے کہ اگر عورت غسل جنابت کرے تو سر پر پانی بہا دینا کافی ہے چوٹی کو کھولنا ضروری نہیں۔

باب ۷۹۔ مَا جَاءَ أَنْ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ

۹۲۔ حدثنا نصر بن علی نا الحارث بن وجیه نا مالک بن دینار عن محمد بن سیرین عن أبی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال تحت کل شعرة جنابة فاعسلوا الشعر وانقوا البشرة

۹۲۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے۔

اس باب میں حضرت علیؓ اور حضرت انسؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں حارث بن وجیہ کی حدیث غریب ہے ہم اسے ان کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے اور حارث قوی نہیں۔ ان سے کئی ائمہ روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث صرف انہوں نے مالک بن دینار سے نقل کی ہے۔ یہ حارث بن وجیہ ہیں جب کہ کبھی انہیں ابن وجیہ بھی کہتے ہیں۔

باب ۸۰۔ فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

۹۳۔ حدثنا اسمعيل بن موسى ثنا شريك عن اسحاق عن الأسود عن عائشة أن النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل

۹۳۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ نبی اکرم ﷺ غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ صحابہ اور تابعین میں سے کئی علماء کا قول ہے کہ غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں۔

باب ۸۱۔ مَا جَاءَ إِذَا التَّمَى الْجُحْتَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ

باب ۸۱۔ اگرختانین (۱) مل جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔

(۱) ختانین سے مراد مرد اور عورت کی شرمگاہ ہے۔ عورت کے لیے ختان کا لفظ یہاں تغلیبا استعمال ہوا ہے۔ تجاوز ختان، حشف کے دخول سے کنایہ ہے۔ (مترجم)

۹۴۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر ختنے کا مقام ختنے کے مقام سے تجاوز کر جائے تو غسل واجب ہو جائے گا۔ میں نے اور رسول اللہ ﷺ نے یہ فعل کیا اور اس کے بعد دونوں نے غسل کیا۔

۹۴۔ حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى ثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة قالت اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل فعلنه انا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاغتسلنا

اس باب میں ابو ہریرہؓ، عبد اللہ بن عمرؓ اور رافع بن خدیجؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔

۹۵۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جب ختنے کی جگہ ختنے کی جگہ سے تجاوز کر جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔

۹۵۔ حدثنا هناد نا وكيع عن سفيان بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل

امام ترمذی کہتے ہیں: حدیث عائشہؓ حسن صحیح ہے اور حضرت عائشہؓ کے واسطے سے آنحضرت ﷺ سے کئی طرق سے منقول ہے کہ اگر ختنے کی جگہ ختنے کی جگہ سے تجاوز کر جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے اور یہی قول صحابہ کرام (جن میں ابو بکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ اور عائشہؓ شامل ہیں) اور نقاد تابعین اور ان کے بعد کے علماء (سفیان ثوریؓ، شافعیؓ، احمدؓ اور اسحاقؓ) کا ہے کہ ختان سے ختان کے ملنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔

باب ۸۲۔ منی کے خروج سے غسل فرض ہوتا ہے۔

باب ۸۲۔ مَا جَاءَ أَوَّ الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ

۹۶۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ابتداءً اسلام میں غسل اسی وقت فرض ہوتا تھا جب منی نکلے یہ رخصت کے طور تھا پھر اس سے منع کر دیا گیا۔ (یعنی یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ غسل کے فرض ہونے کے لئے انزال (منی) ضروری نہیں)۔ (مترجم)

۹۶۔ حدثنا احمد بن منيع نا عبد الله بن المبارك ثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد عن ابي بن كعب قال إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهى عنها

احمد بن منیع، ابن مبارک سے وہ معمر سے اور وہ زہری سے اسی اسناد سے اسی حدیث کے مثل نقل کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور وجوب غسل کے لیے انزال کا ضروری ہونا ابتداءً اسلام میں تھا پھر منسوخ ہو گیا۔ اسی طرح کئی صحابہ سے منقول ہے جن میں ابی بن کعبؓ اور رافع بن خدیجؓ بھی شامل ہیں۔ اسی پر اہل علم کا عمل ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جماع کرے تو غسل واجب ہو جائے گا اگرچہ انزال نہ ہوا ہو۔ علی بن حجر ابو جحان سے وہ عکرمہ سے اور وہ ابن عباسؓ سے نقل کرتے ہیں کہ ابن عباسؓ نے فرمایا: وجوب غسل کے لیے انزال کا ضروری ہونا احتلام میں ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ جارود، کعب کا یہ قول نقل کرتے تھے کہ ہم نے یہ حدیث شریک کے علاوہ کسی کے پاس نہیں پائی۔ اس باب میں عثمان بن عفانؓ، علی بن ابی طالبؓ، زبیرؓ، طلحہؓ، ابو ایوبؓ اور ابو سعیدؓ بھی آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا وجوب غسل خروج منی سے ہوتا ہے۔ ابو الجحاف کا نام داؤد بن ابو عوف ہے۔ سفیان ثوری سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا: ہمیں ابو الجحاف نے خبر دی اور وہ پسندیدہ آدمی تھے۔

باب ۸۳۔ فِيمَنْ يَسْتَيْقِظُ وَيَرَى بَلَاءً وَلَا يَذْكُرُ  
اِحْتِلَامًا

۹۷۔ حدثنا احمد بن منيع نا حماد بن خالد  
الخياط عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر  
عن القاسم ابن محمد عن عائشة قالت سئل النبي  
صلى الله عليه واله وسلم عن الرجل يجد البلل و  
لا يذكُرُ احْتِلَامًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ  
قَدْ احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَاءً قَالَ لَا غَسْلَ عَلَيْهِ قَالَتْ أُمُّ  
سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ تَرَى ذَلِكَ  
غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

باب ۸۳۔ جو شخص نیند سے بیداری پر کپڑوں میں تڑی دیکھے اور احتلام  
کا خیال نہ ہو۔

۹۷۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم ﷺ سے اس  
شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو نیند سے بیدار ہونے پر کپڑے گیلے  
پائے لیکن اسے احتلام یاد نہ ہو تو فرمایا: غسل کرے اور اس شخص کے  
متعلق بھی پوچھا گیا جسے یہ تو یاد ہو کہ اسے احتلام ہوا ہے لیکن کپڑے تر  
نہ ہوں تو آپ ﷺ نے جواب دیا: اس پر غسل ضروری نہیں۔ حضرت ام  
سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا: یا رسول اللہ! اگر عورت ایسا دیکھے تو کیا وہ  
بھی غسل کرے۔ فرمایا: ہاں۔ عورتیں مردوں ہی کی طرح ہیں۔ (یعنی  
ان پر بھی غسل واجب ہے۔) (مترجم)

امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث عبد اللہ بن عمر نے عبد اللہ بن عمر سے نقل کی ہے۔ (یعنی حدیث عائشہ! کہ جب کپڑوں میں تری

پائے اور خواب یاد نہ ہو) اور عبد اللہ کو یحییٰ بن سعید حفظ حدیث میں ضعیف کہتے ہیں اور یہ صحابہ اور تابعین میں سے کئی علماء کا قول ہے کہ اگر  
جاگنے پر تڑی دیکھے تو غسل کرے۔ احمد اور سفیان کا بھی یہی قول ہے بعض علماء تابعین کہتے ہیں کہ غسل جب واجب ہوتا ہے جب کہ تڑی  
منی کی ہو۔ یہ شافعی اور اسحاق کا قول ہے۔ اور اگر احتلام تو یاد ہے لیکن کپڑے گیلے نہیں تو تمام اہل علم عدم وجوب غسل کے قائل ہیں۔

باب ۸۴۔ مَا جَاءَ فِي الْمَنِيِّ وَالْمَدْيِ

۹۸۔ حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخ نا  
هشيم عن يزيد بن ابي زيادح ونا محمود بن  
غيلان نا حسين الجعفي عن زائدة عن يزيد ابي  
زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي قال  
سألت النبي صلى الله عليه واله وسلم عن المدي  
فقال من المدي الوضوء ومن المنى الغسل

اس باب میں مقداد بن اسود اور ابی بن کعب سے بھی احادیث منقول ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے مذی سے وضو  
اور منی سے غسل کا واجب ہونا حضرت علیؓ کے واسطے سے نبی کریم ﷺ سے کئی سندوں سے منقول ہے اور یہی اکثر علماء صحابہ اور تابعین کا  
قول ہے جن میں شافعی اور اسحاق بھی شامل ہیں۔

باب ۸۵۔ فِي الْمَدْيِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

۹۹۔ حدثنا هناد نا عبدة عن محمد ابن اسحق عن  
سعيد بن عبيد هو ابن السباق عن ابيه عن سهل بن  
حنيف قال كنت ألقى من المدي شدة ومناة فكنت

اس باب میں مقداد بن اسود اور ابی بن کعب سے بھی احادیث منقول ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے مذی سے وضو  
اور منی سے غسل کا واجب ہونا حضرت علیؓ کے واسطے سے نبی کریم ﷺ سے کئی سندوں سے منقول ہے اور یہی اکثر علماء صحابہ اور تابعین کا  
قول ہے جن میں شافعی اور اسحاق بھی شامل ہیں۔

باب ۸۵۔ مذی اگر کپڑے کو لگ جائے۔

۹۹۔ سعید بن عبید سابق کے بیٹے۔ اپنے والد سے اور وہ سہل بن حنیف  
سے نقل کرتے ہیں کہ سہل نے کہا: مجھے مذی سے کافی پریشانی ہوتی تھی  
اس لئے کہ میں بار بار نہاتا تھا تو میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس کا

۹۸۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے مذی کے متعلق دریافت  
کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: مذی سے وضو اور منی سے غسل واجب ہوتا  
ہے۔

باب ۸۴۔ منی اور مذی کے متعلق

۹۸۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے مذی کے متعلق دریافت  
کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: مذی سے وضو اور منی سے غسل واجب ہوتا  
ہے۔

۹۸۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے مذی کے متعلق دریافت  
کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: مذی سے وضو اور منی سے غسل واجب ہوتا  
ہے۔

اس باب میں مقداد بن اسود اور ابی بن کعب سے بھی احادیث منقول ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے مذی سے وضو  
اور منی سے غسل کا واجب ہونا حضرت علیؓ کے واسطے سے نبی کریم ﷺ سے کئی سندوں سے منقول ہے اور یہی اکثر علماء صحابہ اور تابعین کا  
قول ہے جن میں شافعی اور اسحاق بھی شامل ہیں۔

باب ۸۵۔ مذی اگر کپڑے کو لگ جائے۔

۹۹۔ سعید بن عبید سابق کے بیٹے۔ اپنے والد سے اور وہ سہل بن حنیف  
سے نقل کرتے ہیں کہ سہل نے کہا: مجھے مذی سے کافی پریشانی ہوتی تھی  
اس لئے کہ میں بار بار نہاتا تھا تو میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس کا

اس لئے کہ میں بار بار نہاتا تھا تو میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس کا

اس لئے کہ میں بار بار نہاتا تھا تو میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس کا

اس لئے کہ میں بار بار نہاتا تھا تو میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس کا

أَكْثَرُ مِنْهُ الْغُسْلُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّمَا يُجْزئُكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضوءُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ نَوْبِي مِنْهُ قَالَ يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهِ نَوْبَكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَضَابَ مِنْهُ

تذکرہ کیا اور اس کا حکم دریافت کیا آپ ﷺ نے فرمایا: اس سے وضو کرنا ہی کافی ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ! اگر وہ کپڑوں میں لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ فرمایا: پانی کا ایک چٹلے لے کر اس جگہ چھڑک دو جہاں وہ لگی ہو۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ہمیں علم نہیں کہ کسی اور نے اس طرح کی کوئی حدیث محمد بن اسحاق کے علاوہ بھی نقل کی ہو۔ اہل علم کا اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ اگر مذی کپڑوں میں لگ جائے تو بعض کے نزدیک اسے دھونا ضروری ہے جیسے کہ شافعی اور اسحاق، جب کہ بعض کہتے ہیں اس پر پانی کے پھینٹے مار دینا ہی کافی ہے۔ احمد کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ پانی چھڑکنا کافی ہوگا۔

مسئلہ: اس مسئلے میں ائمہ ثلاثہ اور جمہور کا مسلک یہ ہے کہ مذی لگے ہوئے کپڑے کو دھونا پڑے گا اگرچہ غسل خفیف ہی ہو۔ (مترجم)

باب ۸۶۔ اگر منی کپڑے کو لگ جائے تو اس کا حکم

باب ۸۶۔ فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

۱۰۰۔ حضرت ہمام بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں! حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک مہمان آیا۔ اسے زرد چادر دینے کا حکم دیا۔ وہ سویا اور اسے احتلام ہو گیا۔ اسے شرم محسوس ہوئی کہ چادر کو اس طرح بھیجے کہ اس میں احتلام کا اثر ہو (منی لگی ہو) اس نے اسے پانی میں ڈوب دیا اور پھر بھیج دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ہماری چادر کیوں خراب کر دی اس کے لئے کافی تھا کہ اپنی انگلیوں سے اسے کھرچ دیتا۔ میں اکثر رسول اللہ ﷺ کے کپڑوں سے اپنی انگلیوں کے ذریعے متی کھرچ کر پاک کرتی تھی۔

۱۰۰۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ أَبِي مَعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ ضَافَتْ عَائِشَةُ ضَيْفًا فَأَمَرَتْ لَهُ بِمِلْحَفَةٍ صَفْرَاءَ فَنَامَ فِيهَا فَاحْتَلَمَ فَاسْتَحْيَى أَنْ يُرْسَلَ إِلَيْهَا وَبِهَا آثَرُ الْإِحْتِلَامِ فغَمَسَهَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا نَوْبَنَا إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَفْرُبَكَ بِأَصَابِعِهِ وَزَيْمًا فَرَكْتُهُ مِنْ تَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِأَصَابِعِي

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور یہ کئی فقہاء جیسے کہ سفیان، احمد اور اسحاق کا قول ہے کہ منی جب کپڑے کو لگ جائے تو کھرچ دینا کافی ہے دھونا ضروری نہیں اور اسی طرح منصور سے بھی روایت ہے وہ ابراہیم سے وہ ہمام بن حارث سے اور وہ حضرت عائشہ سے اعمش کی روایت کے مثل جو ابھی گزری، روایت کرتے ہیں۔ ابو معشر یہ حدیث ابراہیم سے وہ اسود سے اور وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں۔ اعمش کی حدیث اصح ہے۔

۱۰۱۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے کپڑوں سے منی دھوئی۔

۱۰۱۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا أَبُو مَعَاوِيَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مَهْرَانَ عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ يَسَّارٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا غَسَلَتْ مَنِيًّا مِنْ نَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور حضرت عائشہ کی یہ حدیث کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے کپڑوں سے منی دھوئی، کھرچنے والی حدیث کی مخالف نہیں۔ اگرچہ کھرچنا بھی کافی ہے، پسند کیا جاتا ہے کہ منی کا اثر کپڑے پر نہ ہو۔ ابن عباس کہتے ہیں منی تھوک کی طرح ہے اسے اپنے سے دُور کرے اگرچہ کٹڑی سے ہو۔

باب ۸۷۔ فی الْجُنُبِ یَنَامُ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ

باب ۸۷۔ جنبی کے بغیر غسل کئے، سونے سے متعلق۔

۱۰۲۔ حدثنا هناد نا ابوبکر بن عیاش عن الاعمش عن ابی اسحاق عن الآسود عن عائشة قالت كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَا يَمَسُّ مَاءً

۱۰۲۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم ﷺ جنابت میں سو جایا کرتے اور پانی کو ہاتھ بھی نہ لگاتے۔

ہناد، کعب سے وہ سفیان سے اور وہ ابواسحاق سے اس کے مثل روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں۔ ابن سیب وغیرہ کا یہی قول ہے اور کئی حضرات نے اسود سے روایت کیا ہے وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ سونے سے پہلے وضو کیا کرتے تھے۔ یہ ابواسحاق کی حدیث سے اصح ہے جو وہ اسود سے روایت کرتے ہیں۔ اور یہ حدیث ابواسحاق سے شعبہ، ثوری اور کئی حضرات نے روایت کی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اس میں ابواسحاق سے غلطی ہوئی ہے۔

باب ۸۸۔ فی الْوُضُوءِ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ

باب ۸۸۔ جنبی جب سونے کا ارادہ کرے تو وضو کر لے

۱۰۳۔ حدثنا محمد بن المثنی نا یحییٰ بن سعید عن عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنِّي نَامُ أَحَدًا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ

۱۰۳۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم ﷺ سے پوچھا کہ کیا ہم میں سے کوئی جنبی ہوتے ہوئے سو جائے؟ فرمایا: ہاں اگر وضو کر لے۔

اس باب میں عمار، عائشہ، جابر، ابوسعید اور ام سلمہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت عمر کی حدیث اس باب میں اصح اور احسن ہے۔ اور یہ صحابہ و تابعین میں سے کئی حضرات جیسے کہ سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے۔ ان حضرات کا کہنا ہے کہ اگر حالت جنابت میں کوئی سونے کا ارادہ کرے تو سونے سے پہلے وضو کرے۔

باب ۸۹۔ مَا جَاءَ فِي مُصَافِحَةِ الْجُنُبِ

باب ۸۹۔ جنبی سے مصافحے سے متعلق

۱۰۴۔ حدثنا اسحاق بن منصور نا یحییٰ بن سعید القطان نا حمید الطویل عن بکر بن عبد اللہ المزنی عن أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهِ وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ فَأَنْخَسْتُ فَأَغْتَسَلْتُ ثُمَّ جُنْتُ فَقَالَ أَيْنَ كُنْتُ أَوْ أَيْنَ ذَهَبْتَ قُلْتُ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجَسُ

۱۰۴۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا رسول اللہ ﷺ سے اس حالت میں سامنا ہوا کہ میں جنبی تھا چنانچہ میں آنکھ پچا کر نکل گیا۔ پھر غسل کیا اور آیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہاں تھے؟ تم، یا فرمایا کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے کہا میں حالت جنابت میں تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: مؤمن کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔

اس باب میں حذیفہؓ بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ابو ہریرہ حسن صحیح ہے۔ اور کئی علماء جنبی سے مصافحے کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنبی اور خائف کے سپنے میں بھی کوئی مضاقتہ نہیں۔

باب ۹۰۔ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي الْمَنَامِ مِثْلَ مَا

باب ۹۰۔ اس عورت کے متعلق جو خواب میں مرد کی طرح دیکھے۔

## بِرَى الرَّجُلِ

۱۰۵۔ حدثنا ابن ابی عمر نا سفیان بن عیینة عن هشام بن عروة عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم ابنة ملحان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة تغي غسلاً إذا هي رأت في المنام مثل ما يرى الرجل قال نعم إذا هي رأت الماء فلتغسل قالت أم سلمة قلت لها فضحت النساء يا أم سليم

۱۰۵۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ام سلیم بنت ملحان حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرماتا کیا عورت پر بھی غسل واجب ہے اگر وہ خواب میں اسی طرح دیکھے جس طرح مرد دیکھتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں اگر وہ منی کو دیکھے تو غسل کرے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے کہا اے ام سلیم! تم نے عورتوں کو زور سوا کر دیا۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور یہی اکثر فقہاء کا قول ہے کہ اگر عورت خواب میں اسی طرح دیکھے جیسے مرد دیکھتے ہیں اور منی خارج ہو جائے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہی سفیان ثوری اور شافعی بھی کہتے ہیں۔

توضیح: علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ شہوت کے ساتھ منی کے خارج ہونے سے عورت پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ (مترجم)

باب ۹۱۔ فی الرجل یستد فی بالمرأة بعد الغسل  
۱۰۶۔ حدثنا هناد نا وكيع عن حريث عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت زينا اغتسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الجنابة ثم جاء فاستد فأبى فضممته إلى ولم اغتسل

باب ۹۱۔ غسل کے بعد عورت کے جسم سے گرمی حاصل کرنا۔

۱۰۶۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: آنحضرت ﷺ اکثر غسل جنابت کے بعد آتے اور میرے جسم سے گرمی حاصل کرتے تو میں انہیں اپنے ساتھ چمٹا لیتی جب کہ میں نے غسل نہیں کیا ہوتا۔

امام ترمذی کہتے ہیں اس حدیث کی اسناد میں کوئی مضائقہ نہیں اور یہی کئی علماء صحابہ و تابعین کا قول ہے کہ اگر غسل کر لے تو بیوی کے بدن سے گرمی حاصل کرنے اور اس کے ساتھ سونے میں کوئی مضائقہ نہیں اگرچہ بیوی نے غسل نہ کیا ہو۔ شافعی، احمد، سفیان ثوری اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

باب ۹۲۔ التيمم للجنب إذا لم يجد الماء

باب ۹۲۔ پانی کی عدم موجودگی میں جنبی تیمم کرے۔

۱۰۷۔ حدثنا محمد بن بشار و محمود بن غيلان قالنا ابو احمد الزبيرى ناسفیان عن خالد الحذاء عن ابى قلابه عن عمرو بن بحدان عن ابى ذر ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ان الصبيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك خير و قال محمود في حديثه ان الصبيد

۱۰۷۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: کہ پاک مٹی مسلمان کا طہور ہے (پاک کرنے والی ہے) اگرچہ دس سال تک پانی نہ ملے۔ پھر اگر پانی مل جائے تو اسے اپنے جسم سے لگائے (یعنی اس سے طہارت حاصل کرے) اور یہ اس کے لئے بہتر ہے۔ محمود نے اپنی روایت میں "ان الصبيد الطيب وضوء المسلم" کے الفاظ بیان کیے ہیں (دونوں کے معنی ایک ہی ہیں)۔

## الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ

اس باب میں ابو ہریرہؓ، عبداللہ بن عمرؓ اور عمران بن حصینؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں۔ کئی راویوں نے اسے خالد الخذاء سے انہوں نے عمرو بن بجدان سے اور انہوں نے ابو ذرؓ سے اسی طرح بیان کیا ہے یہ حدیث ایوب نے بھی ابو قلابہ سے انہوں نے بنی عامر کے ایک شخص سے اور انہوں نے ابو ذرؓ سے نقل کی ہے۔ اور اس شخص کا نام نہیں لیا۔ یہ حدیث حسن ہے۔ یہی قول تمام فقہاء کا ہے کہ اگر جنبی اور حائضہ کو پانی میسر نہ ہو تو تیمم کریں اور نماز پڑھیں۔

## باب ۹۳۔ فِي الْمُسْتَحَاظَةِ

## اب ۹۳۔ مستحاضہ کے متعلق۔

۱۰۸۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ كَعْبٍ وَعَبْدَةُ وَابُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاعْسَلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِي قَالَ مُعَاوِيَةُ فِي حَدِيثِهِ وَقَالَ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ لِكَ الْوَقْتُ

۱۰۸۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں ایسی عورت ہوں کہ جب استحاضہ آتا ہے تو پاک نہیں ہوتی کیا میں نماز چھوڑ دوں۔ فرمایا: نہیں یہ رگ ہوتی ہے (یعنی رگ کے پھٹ جانے کی وجہ سے یہ خون آتا ہے جو رحم سے علیحدہ ہوتی ہے مختصر یہ کہ اس کے اسباب مختلف ہوتے ہیں) حیض نہیں ہوتا۔ جب حیض کے دن آئیں تو نماز چھوڑ دیا کرو اور جب پورے ہو جائیں تو خون کو دھو ڈالو (یعنی غسل کر لو) اور نماز پڑھو۔ ابو معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی حدیث میں فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ہر نماز کے لئے وضو کرو یہاں تک کہ پھر وہی وقت آجائے۔ (یعنی حیض کا وقت۔ مترجم)

اس باب میں ام سلمہؓ بھی حدیث نقل کرتی ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث عائشہؓ حسن صحیح ہے۔ اور یہ کئی علماء صحابہؓ تابعین، سفیان ثوریؒ، ابن مبارکؒ اور شافعی کا قول ہے کہ جب مستحاضہ کے ایام حیض گزر جائیں تو غسل کرے اور ہر نماز کے لیے وضو کرے۔

## باب ۹۴۔ مَا جَاءَ أَنَّ الْمُسْتَحَاظَةَ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

## باب ۹۴۔ مستحاضہ ہر نماز کے لئے وضو کرے۔

۱۰۹۔ حَدَّثَنَا قَنِيْبَةُ نَا شَرِيْكَ عَنْ أَبِي الْيَقْظَانَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُسْتَحَاظَةِ تَدْعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا ثُمَّ تَغْسِلُ وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي

۱۰۹۔ حضرت عدی بن ثابت رضی اللہ عنہ اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے مستحاضہ کے متعلق فرمایا کہ اپنے حیض کے دنوں میں نماز کو چھوڑ دے (جن دنوں میں اسے حیض آتا تھا) پھر غسل کرے اور ہر نماز کے وقت وضو کرے اور روزے رکھے اور نماز پڑھے۔

علی بن حجر، شریک سے اس کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں۔ شریک اس حدیث کو ابو الیقظان سے بیان کرنے میں منفرد ہیں۔ میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے متعلق دریافت کیا اور کہا کہ عدی بن ثابت اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں۔ عدی کے دادا کا کیا نام ہے؟ امام بخاری ان کا نام نہیں جانتے تھے۔ پھر میں نے بخاری سے یحییٰ بن معین کا قول ذکر

کیا کہ ان کا نام دینار ہے تو انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ احمد اور اسحاق مستحاضہ کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر ہر نماز کے لیے غسل کر لے تو یہ اعتیاداً افضل ہے اور اگر وضو پر اکتفاء کرے تو بھی کافی ہے اور اگر ایک غسل سے دو نمازیں پڑھ لے تب بھی کافی ہے۔

باب ۹۵۔ فی الْمُسْتَحَاضَةِ اِنَّهَا تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَوَتَيْنِ بِغُسْلٍ وَّاجِدٍ

باب ۹۵۔ مستحاضہ کے متعلق کہ وہ دو نمازیں ایک غسل سے پڑھ لے کرے۔

۱۱۰۔ ابراہیم بن محمد بن طلحہ اپنے چچا عمران بن طلحہ سے اور وہ اپنی والدہ حمزہ بنت جحش سے یہ قول نقل کرتے ہیں کہ مجھے استحاضہ بہت شدت اور زور سے آتا تھا۔ میں نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں استفتاء کیا اور انہیں بتانے کے لئے حاضر ہوئی۔ میں نے آپ ﷺ کو اپنی بہن زینب بنت جحش کے ہاں پایا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے استحاضہ آتا ہے اور بہت شدت کے ساتھ آتا ہے۔ میرے لئے آپ کا کیا حکم ہے؟ اس نے مجھے نماز اور روزے سے روک دیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں تیرے لئے کرسف (روئی) تجویز کرتا ہوں اس سے خون بند ہو جاتا ہے۔ کہنے لگیں وہ اس سے زیادہ ہے آپ ﷺ نے فرمایا: لنگوٹ باندھ لو عرض کیا وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: لنگوٹ میں کپڑا رکھ لو عرض کیا وہ اس سے بھی زیادہ ہے میں تو بہت زیادہ یہاں بہاتی ہوں آپ نے فرمایا میں تمہیں دو چیزوں کا حکم دیتا ہوں۔ ان میں سے کسی ایک پر چلنا کافی ہے اور اگر تم دونوں پر قابو پا لو تو تم جانتی ہی ہو۔ پھر فرمایا: یہ شیطان کا ایک لات مارنا ہے (یعنی اس سے استحاضہ جاری ہوتا ہے) یعنی جو دن استحاضہ سے پہلے حیض کے لئے مخصوص تھے) اور پھر غسل کر لو پھر جب دیکھو کہ پاک و صاف ہو چکی ہو تو چومیں یا تیس دن رات تک روزے رکھو اور نماز پڑھو۔ یہ تمہارے لئے کافی ہے پھر اسی طرح کرتی رہو جیسے حیض والی عورتیں کرتی ہیں اور مدت حیض گزار کر طہر پر پاک ہوتی ہیں اور اگر طہر کی نماز میں تاخیر اور عصر میں تعجیل کر سکو تو جب تم پاک ہو تو نماز کر طہر اور عصر اکٹھی پڑھ لیا کرو پھر مغرب میں تاخیر اور عشاء میں تعجیل کرو اور پاک ہونے پر غسل کرو اور دونوں نمازیں اکٹھی پڑھ لو۔ پس اسی طرح کرو فجر کے لئے بھی غسل کرو اور نماز پڑھو۔ اسی طرح کرتی رہو اور روزے بھی رکھتی ہو بشرطیکہ تم اس پر قادر ہو۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ان دونوں باتوں میں یہ

۱۱۰۔ حدثنا محمد بن بشار نا ابو عامر العقدي نا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقييل عن ابراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران ابن طلحة عن امه حمزة ابنة جحش قالت كنت استحاض حيصه كبيره شديده فاتي النبي صلى الله عليه واله وسلم استفتيه واخبرته فوجدته في بيت احنى زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله اني استحاض حيصه كبيره شديده فما تأمرني فيها فقد منعتني الصيام والصلوة قال انعت لك الكرسف فانيه يذهب الدم قالت هو اكثر من ذلك قال فتجسسي قالت هو اكثر من ذلك انما ائج نجا فقال النبي سامرك بامرني ايهما صنعت اجزا عنك فان قويت عليها فانت اعلم فقال انما هي ركضة من الشيطان فتحيضي سته ايام او سبعة ايام في علم الله ثم اغتسلي فاذا رايت انك قد طهرت واستنقأت فصلي اربعة وعشرين ليلة او ثلثة وعشرين ليلة و ايامها و صومي وصلي فان ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن و طهرهن فان قويت على ان تؤجري الطهر وتعجلي العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الطهر والعصر جميعا ثم تؤجرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلي وتجمعين بين الصلوتين فافعلي وتغتسلي مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي وصومي ان قويت على ذلك فقال رسول الله صلى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْإِسْلَامُ وَهُوَ أَحَبُّ الْأُمَمِينَ إِلَيَّ (دوسری) مجھے زیادہ پسند ہے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسے عبید اللہ بن عمر والرقی، ابن جریج اور شریک نے عبد اللہ بن محمد عقیل سے انہوں نے ابراہیم بن محمد بن طلحہ سے انہوں نے اپنے چچا عمران سے اور انہوں نے اپنی والدہ حمنہ سے نقل کیا ہے۔ لیکن ابن جریج انہیں عمر بن طلحہ کہتے ہیں جب کہ صحیح عمران بن طلحہ ہی ہے۔ میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو کہا یہ حدیث حسن ہے احمد بن حنبل بھی اسے حسن صحیح کہتے ہیں۔ احمد اور اسحاق مستحاضہ کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے حیض کی ابتداء اور انتہاء جان سکتی ہو۔ (اس کی ابتداء خون کے سیاہ ہونے سے اور انتہاء زرد ہونے سے ہوتی ہے) تو اس کا حکم فاطمہ بنت جحش کی حدیث کے مطابق ہوگا۔ اور اگر ایسی مستحاضہ ہے جس کے حیض کے دن معروف ہیں۔ تو وہ اپنے مخصوص دنوں میں نماز چھوڑ دے اور پھر غسل کرے اور ہر نماز کے لیے وضو کرے اور نماز پڑھے۔ اور اگر خون مستقل آنے لگے اور اس کے ایام پہلے سے معروف نہ ہوں اور نہ ہی وہ خون کی رنگت سے فرق کر سکتی ہو تو اس کا حکم بھی حمنہ بنت جحش کی حدیث کے موافق ہوگا۔ امام شافعی کہتے ہیں مستحاضہ کو جب ہمیشہ خون آنے لگے تو خون کے شروع ہی میں پندرہ دن تک نماز چھوڑ دے اگر پندرہ دن یا اس سے پہلے پاک ہوگئی تو وہی اس کے حیض کے دن ہیں۔ اور اگر خون پندرہ دن سے تجاوز کر گیا تو چودہ دن کی نماز قضا کرے اور ایک دن و رات کی نماز چھوڑ دے کیونکہ حیض کی کم سے کم مدت یہی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حیض کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ مدت میں اختلاف ہے بعض علماء کے نزدیک کم سے کم مدت تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہے۔ یہ قول سفیان ثوری اور اہل کوفہ (احناف) کا بھی ہے۔ ابن مبارک بھی اسی پر عمل کرتے ہیں جب کہ ان سے اس کے خلاف بھی منقول ہے۔ بعض اہل علم جن میں عطاء بن ابی رباح بھی ہیں، کہتے ہیں کم سے کم حیض کی مدت ایک دن رات اور زیادہ سے زیادہ پندرہ دن ہے۔ مالک، شافعی، احمد، اسحاق، اوزاعی اور ابو عبیدہ کا بھی یہی قول ہے۔

باب ۹۶۔ مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ أَنَّهَا تَغْتَسِلُ عِنْدَ

كُلِّ صَلَاةٍ

۱۱۱۔ حَدَّثَنَا قَبِيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ اسْتَفْتَيْتُ أُمَّ حَبِيْبَةَ ابْنَةَ جَحْشِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي اسْتَحَاضْتُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَاعْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّيْ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

تعمیر کہتے ہیں لیث نے کہا کہ ابن شہاب نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ آنحضرت ﷺ نے ام حبیبہ کو ہر نماز کے وقت غسل کرنے کا حکم دیا بلکہ یہ ان کی اپنی طرف سے تھا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث زہری سے بھی منقول ہے۔ وہ عمرہ اور وہ حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ام حبیبہ نے پوچھا..... الخ بعض علماء کہتے ہیں کہ مستحاضہ ہر نماز کے لیے غسل کر لیا کرے۔ نیز اوزاعی نے بھی یہ حدیث زہری سے انہوں نے عمرہ اور عمرہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ سے نقل کی ہے۔

باب ۹۷۔ مَا جَاءَ فِي الْحَائِضِ أَنَّهَا لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ

باب ۹۷۔ حائضہ عورت نمازوں کی قضا نہ کرے۔

۱۱۲۔ حدثنا قتيبة نا حماد بن زيد عن ايوب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تحيضن الا في ايام منحيضها فقالت احروورية انت قد كانت احلانا تحيض فلا تؤمرن بقضاء

۱۱۲۔ حضرت معاذہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے حضور عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کیا ہم میں سے کوئی حیض کے دنوں نماز کی قضا کرے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے لگیں کیا تم حروریہ (۱) ہم میں سے کسی کو حیض آتا تھا تو اسے قضا کا حکم نہ ہوتا تھا۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور حضرت عائشہ سے کئی سندوں سے منقول ہے کہ حائضہ نماز کی قضا نہ کرے۔ تمام فقہاء اس پر متفق ہیں کہ حائضہ روزے کی تو قضا کرے گی لیکن نماز کی نہیں۔

باب ۹۸۔ ماجاء في الحنب والحيض انهما لا يقران القرآن

باب ۹۸۔ جنبی اور حائضہ کے قرآن نہ پڑھنے کے متعلق۔

۱۱۳۔ حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قالوا نا اسمعيل بن عياش عن موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الحنب شيئاً من القرآن

۱۱۳۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، نبی اکرم ﷺ سے نقل کرتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا: حائضہ اور جنبی قرآن میں سے کچھ نہ پڑھیں۔

اس باب میں حضرت علیؑ سے بھی حدیث منقول ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ ابن عمر کی حدیث کو ہم اسماعیل بن عیاش کی حدیث کے نہیں جانتے وہ موسیٰ بن عقبہ سے وہ نافع سے وہ ابن عمر سے اور وہ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جنبی اور حائضہ قرآن نہ پڑھیں یہی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین میں سے اکثر اہل علم کا قول ہے جیسے کہ سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی، اسحاق اور احمد، یہ حضرات کہتے ہیں: حائضہ اور جنبی کے لیے کسی آیت کے ایک ٹکڑے یا حرف وغیرہ سے زیادہ پڑھنے کی ممانعت ہے جب کہ تسبیح و تہلیل کی اجازت دینے میں۔ ترمذی کہتے ہیں میں نے امام محمد بن اسماعیل بخاری سے سنا کہ اسماعیل بن عیاش اہل عراق اور اہل حجاز سے منکر احادیث روایت کرتے ہیں۔ گویا ان کی متفرد روایات کو امام بخاری ضعیف سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسماعیل بن عیاش کی وہی روایات معتبر ہیں جو وہ اہل شام سے نقل کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اسماعیل بن عیاش بقیہ (راوی کا نام) سے بہتر ہیں۔ بقیہ، ثقہ لوگوں سے، بہت سی منکر حدیثیں نقل کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں مجھے احمد بن حسن نے یہ باتیں بتائیں اور کہا کہ میں نے احمد بن حنبل سے یہ باتیں سنی تھیں۔

باب ۹۹۔ ماجاء في مباشرة الحائض

باب ۹۹۔ حائضہ سے مباشرت سے متعلق۔

۱۱۴۔ حدثنا بندار ثنا عبدالرحمن بن مهدي عن سفیان عن منصور عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا حضت يأمرني أن أتزر ثم يباشرني

۱۱۴۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: جب میں حائضہ ہوتی تھی نبی کریم ﷺ مجھے تھبند باندھنے کا حکم دیتے اور پھر میرے ساتھ بوزر و کنار کرتے۔

اس باب میں ام سلمہ اور میمونہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث عائشہ حسن صحیح ہے اور یہ صحابہ اور تابعین میں سے کئی اہل علم کا قول ہے۔ شافعی، احمد اور اسحاق بھی یہی کہتے ہیں۔

(۱) حروییہ: یہ خوارج کا ایک فرقہ ہے۔ (مزہم)

اب ۱۰۰۔ مَا جَاءَ فِي مُوََاكَلَةِ الْجُنْبِ وَالْحَائِضِ سُورِهِمَا

باب ۱۰۰۔ جنبی اور حائضہ کے ساتھ کھانے اور ان کے جوٹھے سے متعلق

۱۱۷۔ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَلِيِّ قَالَا نَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ نَا مَهْدِيٍّ نَا مَعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَرَامِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُوََاكَلَةِ الْحَائِضِ فَقَالَ وَاتَّكَلَهَا

۱۱۵۔ حرام بن معاویہ اپنے چچا عبداللہ بن سعد سے نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سعد نے کہا: میں نے نبی اکرم ﷺ سے حائضہ کے ساتھ کھانا کھانے کے متعلق پوچھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس کے ساتھ کھالیا کرو۔

اس باب میں عائشہ اور انس بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں عبداللہ بن سعد کی حدیث حسن غریب ہے اور یہ تمام علماء کا قول ہے کہ حائضہ کے ساتھ کھانے پینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ جب کہ اس کے وضو سے بچے ہوئے پانی میں اختلاف ہے۔ بعض اس کی اجازت دیتے ہیں اور بعض اسے مکروہ کہتے ہیں۔

باب ۱۰۱۔ مَا جَاءَ فِي الْحَائِضِ تَتَنَاوَلُ الشَّيْءَ مِنَ الْمَسْجِدِ

باب ۱۰۱۔ حائضہ کوئی چیز مسجد سے لے سکتی ہے۔

۱۱۶۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا عُبَيْدَةَ بْنِ حَمِيدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَا وَلِيْنِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَتْ قُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ قَالَ إِنْ حَيْضَتَكَ لَيْسَتْ فِي يَدِكَ

۱۱۶۔ قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: مجھے رسول اللہ ﷺ نے مسجد سے بوریا لانے کا حکم دیا۔ کہتی ہیں میں نے کہا میں حائضہ ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں۔

اس باب میں ابن عمرؓ اور ابو ہریرہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث عائشہ حسن صحیح ہے اور یہی تمام اہل علم کا قول ہے۔ ہمیں ان میں اختلاف کا علم نہیں کہ حائضہ کے مسجد میں سے کوئی چیز لینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

مسئلہ: امام ابوحنیفہؒ، امام مالکؒ، سفیان ثوریؒ اور جمہور ائمہ کا مسلک یہ ہے کہ جنبی اور حائضہ کے لیے مسجد میں داخل ہونا اس میں ٹھہرنا یا اس سے گزرنا جائز نہیں۔ ان کی دلیل حضرت عائشہؓ کی حدیث ہے جو ابوداؤد میں مذکور ہے ”فانني لا احل المسجد لحائض ولا جنب“ میں حائضہ اور جنبی کے لیے مسجد کو حلال نہیں کرتا۔ اس باب کی حدیث کے متعلق قاضی عیاض کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت عائشہؓ کو بوریا لانے کا حکم اس وقت دیا جب وہ خود مسجد میں تھے اور اعکاف میں تھے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۱۰۲۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِيْتَانِ الْحَائِضِ

باب ۱۰۲۔ حائضہ سے صحبت کی حرمت سے متعلق

۱۱۷۔ حَدَّثَنَا بِنْدَارُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَبَهْزُ بْنُ اسْدٍ قَالُوا نَا حَمَادُ بْنُ سَلْمَةَ

۱۱۷۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جس نے حائضہ سے صحبت کی یا عورت کے پیچھے سے آیا، یا کسی کا ہن (۱)

(۱) کا ہن اس شخص کو کہتے ہیں جو غیب کی باتیں بیان کرے اور معرفت اسرار کون کا مدعی ہو۔ (مترجم)

عن حکیم الاثرم عن ابی تَمِيمَةَ الْهَجِيمِيِّ عَنْ  
 اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
 مَنْ آتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ  
 كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

کے پاس گیا۔ بے شک اس نے جو کچھ محمد مصطفیٰ (ﷺ) پر نازل ہوا اس کا انکار کیا (کفر کیا)۔

امام ترمذی کہتے ہیں ہم اس حدیث کو حکیم الاثرم کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے وہ ابو تمیمہ الجعفی سے اور وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، اس حدیث کا اہل علم کے نزدیک معنی سختی اور وعید کا ہے اور حضور اکرم (ﷺ) سے منقول ہے کہ آپ (ﷺ) نے فرمایا جو حائض کے ساتھ جماع کرے وہ ایک دینار صدقہ کرے اگر یہ کفر ہوتا تو آپ (ﷺ) کفارے کا حکم فرماتے۔ بخاری اس حدیث کو سند کی رو سے ضعیف قرار دیتے ہیں ابو تمیمہ الجعفی کا نام طریف بن مجالد ہے۔

باب ۱۰۳۔ اس کے کفارے سے متعلق۔

باب ۱۰۳۔ مَا جَاءَ فِي الْكُفَّارَةِ فِي ذَلِكَ

۱۱۸۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ (ﷺ) نے اس شخص کے متعلق جو اپنی بیوی سے حیض کے دنوں میں جماع کر لے فرمایا کہ آدھا دینار صدقہ کرے۔

۱۱۸۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا شَرِيكَ عَنْ حَصِيفٍ  
 عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ  
 قَالَ يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ

۱۱۹۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضور اکرم (ﷺ) سے نقل کرتے ہیں کہ آپ (ﷺ) نے فرمایا: کہ اگر خون سرخ رنگ کا ہو تو ایک دینار اور اگر زرد رنگ کا ہو تو نصف دینار صدقہ کرے۔

۱۱۹۔ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَرِيثِ نَا الْفَضْلُ بْنُ  
 مُوسَى عَنْ ابِي حَمْزَةَ السَّكْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ  
 مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ  
 وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينَارٌ وَإِنْ كَانَ دَمًا  
 أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ

امام ترمذی کہتے ہیں کفارے کی حدیث حضرت ابن عباس سے مرفوع اور مقوف دونوں طرح منقول ہے اور یہ بعض علماء کا قول ہے۔ احمد اور اسحاق بھی یہی کہتے ہیں ابن مبارک کہتے ہیں کہ استغفار کرے اس پر کفارہ نہیں۔ بعض تابعین جیسے کہ سعید بن جبیر اور ابراہیم سے بھی ابن مبارک کے قول کے مثل منقول ہے (جمہور کے نزدیک کفارے کا حکم منسوخ ہے۔ استغفار کرنا چاہیے)

باب ۱۰۴۔ کپڑے سے حیض کا خون دھونے سے متعلق۔

باب ۱۰۴۔ مَا جَاءَ فِي غَسْلِ دَمِ الْحَيْضِ مِنَ  
 الثُّوبِ

۱۲۰۔ حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے حضور اکرم (ﷺ) سے اس کپڑے کا حکم دریافت کیا جس میں حیض کا خون لگ گیا ہو! آپ (ﷺ) نے فرمایا: اس کو کھرچ ڈالو (ہاتھ سے) پھر پانی ڈال کر ملو۔ پھر اس پر پانی بہاؤ اور اسی کپڑے میں نماز پڑھو۔

۱۲۰۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ نَا سَفِيَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ  
 عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذَرِ عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةَ أَبِي  
 بَكْرٍ الصَّدِيقِ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثُّوبِ يُصِيبُهُ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَقَالَ  
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حُتِّبِهِ ثُمَّ

أَقْرَبُ صِيْهِ بِالْمَاءِ ثُمَّ رُشِّيْهِ وَصَلِّيْ فِيْهِ

اس باب میں ابو ہریرہؓ اور ام قیس بنت محسنؓ سے بھی احادیث نقل کی جاتی ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں خون کو دھونے کی حضرت اسماءؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اہل علم کا اس میں اختلاف ہے کہ اگر کپڑے میں خون لگا ہو اور اس کو دھونے سے پہلے اگر کوئی شخص اس کپڑے میں نماز پڑھے۔ تو بعض علماء تابعین کہتے ہیں کہ اگر خون ایک درہم کی مقدار میں تھا اور اسے دھوئے بغیر نماز پڑھی تو نماز لوٹانی پڑے گی۔ یہ سفیان ثوری اور ابن مبارک کا قول ہے جب کہ بعض اہل علم تابعین وغیرہ کا کہنا ہے کہ اس کے لیے نماز لوٹانا ضروری نہیں۔ یہ احمد اور اسحاق کا قول ہے۔ شافعی کہتے ہیں کہ اس کا دھونا واجب ہے اگرچہ وہ ایک درہم سے کم مقدار میں ہی ہو۔

باب ۱۰۵۔ مَا جَاءَ فِي كَمِّ تَمَكُّثِ النِّفْسَاءِ

باب ۱۰۵۔ عورتوں کے نفاس کی کتنی مدت ہے؟

۱۲۱۔ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ نَا شِجَاعَ بْنَ الْوَلِيدِ ابُو  
بَدْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي سَهْلٍ عَنْ مُسَمَّةِ  
الْأَزْدِيَّةِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَتْ الْفِسَاءُ تَجْلِسُ عَلَيَّ  
عَهْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ  
يَوْمًا وَكُنَّا نَطْلُبُ وَجُوهَنَا بِاللُّورِ مِنْ الْكَلْفِ

۱۲۱۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نفساء (وہ عورتیں جن کو نفاس کا خون آتا ہو) رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں چالیس روز تک بیٹھی رہتی تھیں اور ہم اپنے چہروں پر جھانپوں کی وجہ سے بیٹنا (۱) ملتے تھے۔

امام ترمذی کہتے ہیں ہم اس حدیث کو ابو اہل کی روایت کے علاوہ کسی اور کی روایت سے نہیں جانتے وہ مسہ الازدیہ سے اور وہ ام سلمہؓ سے نقل کرتی ہیں۔ ابو اہل کا نام کثیر بن زیاد ہے بخاری کہتے ہیں علی بن عبدالاعلیٰ اور ابو اہل ثقہ ہیں۔ وہ بھی اس حدیث کو ابو اہل کے علاوہ کسی کی روایت سے نہیں جانتے۔ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین میں سے تمام اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ نفساء چالیس دن تک نماز ترک کر دے۔ الا یہ کہ اس سے پہلے پاک ہو جائے (خون بند ہو جائے) تو غسل کرے اور نماز پڑھے۔ اور اگر چالیس دن کے بعد بھی خون بند نہ ہو تو اکثر علماء کہتے ہیں کہ نماز ترک نہ کرے۔

یہ اکثر فقہاء کا قول ہے جیسے کہ سفیان ثوریؓ، ابن مبارکؓ، شافعیؓ، احمدؓ اور اسحاقؓ، حسن بصریؓ سے منقول ہے کہ: اگر پاک نہ ہو تو پچاس روز تک نماز نہ پڑھے جب کہ عطاء بن ابی رباح اور شعبی سے ساٹھ دن تک نماز کا ترک کرنا منقول ہے۔

باب ۱۰۶۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ عَلَيَّ نِسَائِهِ  
بِغُسْلٍ وَاجِدٍ

باب ۱۰۶۔ کئی بیویوں سے صحبت کرنے کے بعد آخر میں ایک ہی غسل کرنے سے متعلق

۱۲۲۔ حَدَّثَنَا بِنْدَارُ بْنُ أَبِي أَحْمَدَ نَا سَفْيَانَ عَنْ مَعْمَرٍ  
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ  
وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَيَّ نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاجِدٍ

۱۲۲۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنی سب بیویوں سے صحبت کرتے اور آخر میں ایک غسل کر لیتے۔

اس باب میں ابورافع سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث انس صحیح ہے اور یہ کئی علماء کا قول ہے جن میں حسن بصری بھی شامل ہیں کہ اگر وضو کیے بغیر دوبارہ صحبت کر لے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ محمد بن یوسف بھی اسے سفیان سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں: ابوعروہ سے روایت ہے وہ ابوخضاب سے اور وہ انس سے روایت کرتے ہیں۔ ابوعروہ کا نام معمر بن راشد اور ابوخضاب کا قتادہ بن دعامہ ہے۔

(۱) یہ ایک خوشبودار مسالہ ہوتا ہے جو جسم کو صاف اور ملائم کرنے کے لیے ملا جاتا ہے۔ (مترجم)

باب ۱۰۷۔ مَا جَاءَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ تَوَضَّأَ

باب ۱۰۷۔ اگر دوبارہ صحبت کا ارادہ کرے تو وضو کرے۔

۱۲۳۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا آتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وَضُوءًا

۱۲۳۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے صحبت کرے اور پھر دوبارہ صحبت کا ارادہ کرے تو دونوں مرتبہ کے درمیان وضو کرے۔

اس باب میں حضرت عمرؓ سے بھی حدیث نقل کی گئی ہے۔ امام ترمذیؒ کہتے ہیں ابوسعیدؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور عمر بن خطابؓ کا بھی یہی قول ہے اور یہی قول کئی علماء نے اختیار کیا ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے صحبت کرے اور پھر دوبارہ کرنے کا ارادہ کرے تو اس سے پہلے وضو کرے۔ ابوالتوکلؓ کا نام علی بن داؤد اور ابوسعید خدریؓ کا نام سعد بن مالک بن سنان ہے۔

باب ۱۰۸۔ اِذَا أُمِّمَتْ الصَّلَاةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمْ الْخَلَاءَ فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاءِ

باب ۱۰۸۔ اگر نماز کی اقامت ہو جائے اور تم میں سے کسی کو تقاضہ حاجت ہو تو پہلے بیت الخلاء جائے۔

۱۲۴۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ قَالَ أُيِّمَتِ الصَّلَاةُ فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ وَكَانَ إِمَامَ الْقَوْمِ وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أُيِّمَتِ الصَّلَاةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمْ الْخَلَاءَ فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاءِ

اس باب میں عائشہؓ، ابو ہریرہؓ، ثوبانؓ اور ابوامامہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ امام ترمذیؒ کہتے ہیں عبداللہ بن ارقمؓ کی حدیث حسن صحیح ہے، اسی طرح مالک بن انسؓ، یحییٰ بن سعید قطانؓ اور کئی حفاظ حدیث، ہشام بن عروہ سے وہ اپنے والد سے وہ ایک شخص سے اور وہ عبداللہ بن ارقمؓ سے نقل کرتے ہیں اور یہ کئی علماء صحابہ اور تابعین کا قول ہے۔ احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر پیشاب یا پاخانہ کی حاجت ہو تو نماز کے لیے نہ کھڑا ہو۔ مزید کہتے ہیں کہ اگر نماز شروع کرنے کے بعد تقاضہ حاجت ہو تو نماز نہ توڑے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر تقاضہ حاجت شدید نہ ہو تو نماز پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں۔

مسئلہ: حنفیہ کے ہاں اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر حاجت کا تقاضا شدید تو نہ ہو لیکن نماز سے توجہ ہٹا دے اور خشوع جاتا رہے تو اس حالت میں نماز ادا کرنا مکروہ تزیہی ہے اور اگر تقاضا معمولی ہو تو یہ ترک جماعت کا عذر نہیں۔ (مترجم)

باب ۱۰۹۔ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْمَوْطِئِ

باب ۱۰۹۔ اگر درواہ دھونے سے متعلق۔

۱۲۵۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أُمِّ وَكَيْدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَتْ قُلْتُ لِأُمِّ سَلَمَةَ إِنِّي امْرَأَةٌ أُطْبِلُ ذَيْلِي وَأَمْسِي فِي الْمَكَانِ الْقَدِيرِ فَقَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

۱۲۵۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی ام ولد سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ میں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہا: میں ایسی عورت ہوں کہ اپنا دامن لہبا رکھتی اور ناپاک جگہوں سے گذرتی ہوں ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس کو اس کے بعد کا راستہ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْإِلَهُ وَسَلَّمَ يُطَهِّرُهُ مَا نَعَدَهُ

پاک کر دیتا ہے۔

عبداللہ بن مبارک اس حدیث کو مالک بن انس سے وہ محمد بن عمارہ سے وہ محمد بن ابراہیم سے وہ ابراہیم بن عبدالرحمن بن عوف کی ام ولد سے اور وہ ام سلمہؓ سے نقل کرتی ہیں۔ یہ وہم ہے کیوں کہ وہ ابراہیم بن عبدالرحمن بن عوف کی ام ولد سے اور وہ ام سلمہؓ سے روایت کرتی ہیں اور یہی صحیح ہے۔ اس باب میں عبداللہ بن مسعود سے بھی یہ حدیث منقول ہے کہ ہم حضور اکرم ﷺ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور گورواہ کی وجہ سے وضو نہیں کرتے تھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ کئی اہل علم کا قول ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر شخص ناپاک جگہ سے گزرے تو اسے پاؤں دھونا ضروری نہیں۔ لیکن اگر نجاست گیلی ہو تو اسے دھوئے۔

باب ۱۱۰۔ مَا جَاءَ فِي التَّيْمِمْ

باب ۱۱۰۔ تیمم کا بیان۔

۱۲۶۔ حدثنا ابو حفص عمرو بن علي الفلاس نا يزيد بن زريع نا سعيد عن قتادة عن عذرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزي عن ابيه عن عمار بن ياسر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امره بالتيمم للوجه والكفين

۱۲۶۔ حضرت عمار بن ياسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ان کو چہرے اور ہتھیلیوں پر تیمم کا حکم دیا۔

اس باب میں حضرت عائشہؓ اور ابن عباسؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ ابو یوسفؒ ترمذی کہتے ہیں حدیث عمار حسن صحیح ہے اور ان سے کئی سندوں سے منقول ہے۔ یہ قول کئی اہل علم صحابہ جیسے کہ علیؓ، عمارؓ، ابن عباسؓ اور کئی تابعین جیسے کہ شعی، عطاء اور کحول کا ہے ان حضرات کا کہنا ہے کہ تیمم ایک ہی مرتبہ منہ اور ہتھیلیوں کے لیے ہاتھ مارنا ہے۔ یہی احمد اور اسحاق کا بھی قول ہے۔ جب کہ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ تیمم میں دو مرتبہ ہاتھ مارے جاتے ہیں ایک بار منہ کے لیے اور دوسری بار کہنیوں تک دونوں ہاتھوں کے لیے۔ ان علماء میں ابن عمر، جابر، ابراہیم اور حسن شامل ہیں۔ یہی قول سفیان ثوری، مالک، ابن مبارک اور شافعی کا بھی ہے۔ (۱) تیمم کے متعلق یہی بات عمار سے بھی منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا: تیمم منہ اور ہتھیلیوں پر ہے۔ یہ عمار سے کئی سندوں سے منقول ہے ان سے یہ بھی منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا: کہ ہم نے بغلوں اور شانوں تک نبی اکرم ﷺ کے ساتھ تیمم کیا۔ بعض اہل علم نے حضرت عمارؓ کی حضور اکرم ﷺ سے منقول حدیث جس میں منہ اور ہتھیلیوں کا ذکر ہے کو ضعیف کہا ہے اس لیے کہ شانوں اور بغلوں تک والی حدیث بھی انہی سے منقول ہے۔ اسحاق بن ابراہیم کہتے ہیں عمار کی منہ اور ہتھیلیوں پر تیمم والی حدیث صحیح ہے۔ اور ان کی دوسری حدیث کہ ہم نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ شانوں اور بغلوں تک تیمم کیا ان سے مروی منہ اور ہتھیلیوں والی حدیث کی مخالف نہیں اس لیے کہ عمار نے یہ ذکر نہیں کیا۔ حضور اکرم ﷺ نے انہیں اس کا حکم دیا تھا بلکہ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اس طرح کیا پھر جب انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا تو آپ ﷺ نے منہ اور ہتھیلیوں کا حکم دیا۔ اس کی دلیل حضرت عمارؓ کا حضور اکرم ﷺ کے بعد تیمم کے متعلق نبوی ہے کہ تیمم منہ اور ہتھیلیوں کا ہے۔ اس میں اس بات پر دلالت ہے کہ انہوں نے اس وقت تک ایسا کیا جب تک آنحضرت ﷺ نے انہیں سکھانہیں دیا۔ ہم سے یحییٰ بن موسیٰ نے انہوں نے سعید بن سلیمان سے انہوں نے محمد بن خالد قرشی سے انہوں نے داؤد بن حصین سے انہوں نے عکرمہ سے اور انہوں نے ابن عباس سے روایت کی کہ ابن عباسؓ سے تیمم کے متعلق پوچھا گیا تو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں وضو کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے

(۱) احناف کا بھی یہی مسلک ہے کہ تیمم میں دو مرتبہ ہاتھ مارے جائیں گے۔ (مترجم)

”فَاعْسَلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ“ یعنی اپنے چہرے اور ہاتھ کہنیوں تک دھوؤ اور ”الْمَرَافِقُ“ کے متعلق فرمایا ”فَامَسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ“ یعنی اس سے منہ اور ہاتھوں پر مسح کرو اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا“ یعنی چور مرد اور عورت کا ہاتھ کاٹ دو۔ سنت سے ثابت ہے کہ ہاتھ گٹوں تک کاٹا جاتا ہے لہذا تیمم بھی چہرے اور ہاتھوں کا ہے (یعنی گٹوں تک) امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

توضیح: حضرت ابن عباسؓ کے آیت سرقہ پر قیاس کا مطلب بعض حضرات نے یہ لیا کہ وہ تیمم کو چوری میں ہاتھ کاٹنے جانے کی سزا پر قیاس کر رہے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں۔ درحقیقت حضرت ابن عباسؓ آیت تیمم میں لفظ ”ایدی“ کے اطلاق سے استدلال کر رہے ہیں اور اس کی نظیر میں آیت سرقہ کو پیش کرتے ہیں۔ لہذا یہ لفظ کا لفظ پر قیاس ہے۔ جمہور نے حضرت ابن عباسؓ کے اس قیاس کے معارضہ میں تیمم کو وضو پر قیاس کیا ہے اور یہ معنی کا معنی پر قیاس ہے۔ اس کو اس لیے بھی ترجیح حاصل ہے کہ تیمم وضو کا خلیفہ ہے۔ لہذا یہ زیادہ ممکن ہے کہ وضو میں مرفقین کا ذکر کر کے تیمم کو بھی اسی پر محمول کیا گیا ہو۔ لہذا تیمم میں دونوں ہاتھوں کا کہنیوں تک مسح کرنے میں ہی احتیاط ہے۔ واللہ اعلم۔ (مترجم) (۱)

باب ۱۱۱۔ اگر کوئی شخص جنبی نہ ہو تو اس کے لئے ہر حال میں قرآن پڑھنا جائز ہے۔ (۲)

۱۲۷۔ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجِيُّ نَا حَفْصَ بْنَ غِيَاثٍ وَعُقْبَةَ بْنَ خَالِدٍ قَالَا نَا الْأَعْمَشُ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَمْرٍو بْنِ مَرَّةٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ خَالٍ مَالَمْ يَكُنْ جُنُبًا

امام ترمذی کہتے ہیں حدیث علیؓ صحیح ہے اور یہی کنی اہل علم صحابہ اور تابعین کا قول ہے ان حضرات کا کہنا ہے کہ بے وضو شخص کے لیے قرآن پڑھنا جائز ہے لیکن مصحف میں اس وقت تک نہ پڑھے جب تک کہ با وضو نہ ہو۔ شافعی، سفیان ثوری، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

باب ۱۱۲۔ اس زمین کے متعلق جس پر پیشاب کیا گیا ہو۔

۱۲۸۔ حَدَّثَنَا ابْنُ عَمْرٍو سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُخَزَّمِيُّ قَالَا نَا سَفِيَانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَصَلَّى فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمَحَمَّدًا وَلَا

(۱) مرفقین کہنیوں کو کہتے ہیں (مترجم)

(۲) جامع ترمذی کے بعض نسخوں میں اس کا یہ عنوان مذکور ہے۔ (مترجم)

ابھی تھوڑی ہی دیر نہ گزری تھی کہ اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا اور لوگ اس کی طرف دوڑے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اس پر پانی کا ایک ڈول بہا دو۔ آپ ﷺ نے ”سجلا“ فرمایا ”دلو“ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں پھر فرمایا تم لوگ آسانی کے لئے بیچھے گئے ہونہ کھتی کے لئے۔

تَرَحَّمْ مَعَنَا أَحَدًا فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ تَحَحَّرْتُ وَاسْعَا فَلَمْ يَلْبُثْ أَنْ بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَاسْرَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَهْرَيْفُوا عَلَيْهِ سَجَلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُبَشِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ

سعید کہتے ہیں کہ سفیان اور یحییٰ بن سعید بھی حضرت انس بن مالک سے اس کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس باب میں عبداللہ بن مسعود بن عباس اور وائلہ بن اسقع سے بھی احادیث منقول ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور اس پر بعض اہل علم کا عمل ہے یہی قول احمد اور اسحاق کا بھی ہے۔ یہ حدیث یونس نے زہری سے انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے اور انہوں نے ابو ہریرہ سے بھی روایت کی ہے۔

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے رحم والا ابواب نماز سے متعلق آنحضرت ﷺ سے

منقول احادیث

باب ۱۱۲۔ اوقات نماز جو نبی اکرم ﷺ سے نقل کیے گئے۔

۱۲۹۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جبرئیل نے بیت اللہ کے نزدیک میری دو مرتبہ امامت کی۔ پہلی مرتبہ ظہر کی نماز اس وقت پڑھی جب سایہ بونتی کے تسے کی طرح تھا۔ پھر عصر اس وقت پڑھی جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر تھا پھر مغرب سورج غروب ہونے کے بعد جب روزہ دار افطار کرتا ہے، پڑھی۔ پھر عشاء شفق کے غائب ہونے پر پڑھی۔ اور فجر کی نماز اس وقت پڑھی جب صبح صادق ظاہر ہوئی اور جس وقت روزہ دار کے لئے کھانا حرام ہوتا ہے اور دوسری مرتبہ ظہر اس وقت پڑھی جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو گیا جس وقت کل عصر پڑھی تھی۔ پھر عصر ہر چیز کا سایہ ڈگن ہونے پر، مغرب پہلے دن کے وقت اور پھر عشاء تہائی رات کے گزر جانے پر پڑھیں جب کہ فجر زمین کے روشن ہو جانے پر پڑھی۔ پھر جبرئیل میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا اے محمد (ﷺ) یہ آپ سے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

باب ۱۱۲۔ مَا جَاءَ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

۱۲۹۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ السَّرِيِّ نَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عِيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ حَكِيمٍ وَهُوَ ابْنُ عَبَادٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَّنِي جِبْرَائِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّيْتُ الظُّهْرَ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ ثُمَّ صَلَّيْتُ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ ظِلِّهِ ثُمَّ صَلَّيْتُ الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ وَأَفْطَرَ الصَّائِمُ ثُمَّ صَلَّيْتُ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّيْتُ الْفَجْرَ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ وَحَرَّمَ الطَّعَامَ عَلَى الصَّائِمِ وَصَلَّيْتُ الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ

پہلے انبیاء کا وقت ہے اور ان دونوں کے درمیان وقت ہے۔ (یعنی نماز کا)۔

كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ لَوْ قَتَبَ الْعَصْرَ بِالْأَمْسِ ثُمَّ صَلَّى  
الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ثُمَّ صَلَّى  
الْمَغْرِبَ لَوْ قَتَبَهُ الْأَوَّلُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْأَخْرَجَةَ  
حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ  
اسْفُرَّتِ الْأَرْضُ ثُمَّ اتَّفَقَتْ إِلَيَّ جَبْرِئِيلُ فَقَالَ يَا  
مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ فِيمَا  
بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقَّتَيْنِ

اس باب میں ابو ہریرہؓ، ابو موسیٰؓ، ابو سعودؓ، ابو سعیدؓ، جابرؓ، عمرو بن حزم، براءؓ اور انسؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔

۱۳۰۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ، نبی اکرم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جبرئیلؑ نے میری امامت کی پھر حضرت ابن عباسؓ کی حدیث کے مثل (معنی) ذکر کی اور اس میں ’لو وقت العصر بالامس‘، یعنی: کل عصر کے وقت پر ہی (ظہر کی نماز)۔

۱۳۰۔ حدثنا احمد بن محمد بن موسى نا  
عبدالله بن المبارك اخبرني حسين بن علي بن  
الحسين اخبرني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله  
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال  
أمنني جبرئيل فذكر نحو حديث ابن عباس بمعناه  
ولم يذكر فيه لوقت العصر بالأمس

جابرؓ کی حدیث موافقت عطاء بن ابی رباح، عمرو بن دینار اور ابو زبیر نے حضرت جابرؓ سے اور انہوں نے آنحضرت ﷺ سے اس حدیث کے مانند نقل کی ہے جو وہب بن کیسان، جابرؓ سے اور وہ حضور اکرم ﷺ سے نقل کرتے ہیں روایت کی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حسن صحیح غریب ہے اور حدیث ابن عباس حسن صحیح ہے۔ بخاری کہتے ہیں اوقات نماز کی تعیین سے متعلق احادیث میں سے صحیح حدیث جابرؓ کی حدیث ہے۔

باب ۱۱۳۔ اسی سے متعلق۔

باب ۱۱۳۔ بَابٌ مِنْهُ

۱۳۱۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: ہر نماز کے لئے اول اور آخر وقت ہے۔ ظہر کی نماز کا اول وقت زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور آخر وقت جب عصر کا وقت شروع ہو۔ اور عصر کا اول وقت اس کا وقت ہونے اور آخر وقت جب سورج زرد ہو جائے۔ مغرب کا سورج غروب ہونے سے شروع اور اس کا آخر وقت شفق کے غائب ہونے تک ہے۔ عشاء کا اول وقت شفق کے غائب ہونے پر اور آخر وقت آدھی رات تک ہے۔ اور فجر کا اول وقت صبح صادق کے طلوع ہونے پر اور آخر وقت سورج کے طلوع ہونے تک ہے۔

۱۳۱۔ حدثنا هناد نا محمد بن فضيل عن  
الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال  
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن للصلاة  
أولاً وإخراً وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول  
الشمس وإخراً وقتها حين يدخل وقتها وإن إخراج  
وقتها حين تصفر الشمس وإن أول وقت المغرب  
حين تغرب الشمس وإن إخراج وقتها حين يغيب  
الشفق وإن أول وقت العشاء الأخرجة حين يغيب  
الأفق وإن إخراج وقتها حين ينتصف الليل وإن أول

وَقَبْتُ الْفَجْرَ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَإِنْ اجْرُ وَقْتُهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ

اس باب میں عبد اللہ بن عمرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں میں نے بخاری کو کہتے ہوئے سنا کہ: اعمش کی مجاہد سے منقول مواقیت کی حدیث محمد بن فضیل کی حدیث سے صحیح ہے۔ محمد بن فضیل کی حدیث میں محمد بن فضیل سے خطا ہوئی ہے۔ ہنادیم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان سے ابو اسامہ نے، ان سے ابواسحاق فزاری نے ان سے اعمش نے اور ان سے مجاہد نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ نماز کے لیے اول اور آخر ہے اور پھر محمد بن فضیل کی اعمش سے منقول حدیث کے مثل بیان کرتے ہیں یعنی اسی معنی ہیں۔

۱۳۲۔ سلیمان بن بريدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور نمازوں کے اوقات کے متعلق دریافت کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ہمارے ساتھ رہو انشاء اللہ اور بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا انہوں نے صبح صادق کے طلوع ہونے پر اقامت کہی۔ پھر آپ ﷺ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے زوال آفتاب کے وقت اقامت کہی اور ظہر کی نماز پڑھی، آپ ﷺ نے پھر انہیں حکم دیا انہوں نے اقامت کہی اور عصر کی نماز پڑھی، اس وقت سورج بلندی پر چمک رہا تھا۔ پھر آپ ﷺ نے جب سورج غروب ہو گیا تو مغرب کا حکم دیا پھر عشاء کا حکم دیا تو انہوں نے شفق کے غائب ہونے پر اقامت کہی پھر دوسرے دن آپ ﷺ نے حکم دیا اور فجر خوب روشنی میں پڑھی پھر ظہر کا حکم دیا تو اسے خوب ٹھنڈا وقت کر کے پڑھا (یعنی تاخیر سے پڑھی) پھر عصر کا حکم دیا تو انہوں نے اقامت کہی جب کہ سورج کا وقت پہلے دن سے زیادہ مؤخر تھا۔ پھر مغرب کا حکم دیا تو اسے شفق کے غائب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے پڑھا۔ پھر عشاء کا حکم دیا تو اس کی اقامت رات کے تیسرے حصے کے گزر جانے پر کہی۔ پھر نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: نمازوں کے اوقات پوچھنے والا کہاں ہے۔ اس شخص نے کہا میں حاضر ہوں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: نمازوں کے اوقات ان دونوں وقتوں کے درمیان ہیں۔

باب ۱۱۳۔ فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھنے سے متعلق۔

۱۳۳۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب فجر کی نماز پڑھتے لیتے تو عورتیں واپس آتیں۔ (انصاری کہتے ہیں) اور اپنی

۱۳۲۔ حدثنا احمد بن منيع و الحسن بن صباح البزار و احمد بن محمد بن موسى المعنى واحد قالوا ثنا اسحق بن يوسف الازرق عن سفیان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فسأله عن مواقيت الصلوة فقال أقم معنا إن شاء الله فأمر بلالاً فأقام حين طلع الفجر ثم أمره فأقام فصلي الظهر ثم أمره فأقام فصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة ثم أمره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس ثم أمره بالعشاء فأقام حين غاب الشفق ثم أمره من الغد فنور بالفجر ثم أمره بالظهر فأبرد أنعم أن يبرد ثم أمره بالعصر فأقام والشمس اجرو وقتها فوق ما كانت ثم أمره فأجر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق ثم أمره بالعشاء فأقام حين ذهب ثلث الليل ثم قال أين السائل عن مواقيت الصلوة فقال الرجل أنا فقال مواقيت الصلوة كما بين هذين

باب ۱۱۴۔ ماجاء في التغليس بالفجر

۱۳۳۔ حدثنا قتيبة عن مالك بن انس قال ونا الانصاري نامعن نا مالك عن يحيى بن سعيد عن

عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرِفُنَّ مِنَ الْعَلَسِ وَقَالَ قُتَيْبَةُ مُتَلَفِّعَاتٍ

چادروں میں لپیٹی ہوئی گزرتی تھیں اور اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہ جاتی تھیں۔ قتیبہ "متلفعات" کی جگہ "متلفعات" کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کا معنی بھی لپٹنے ہی کا ہے۔

اس باب میں ابن عمر، انس اور قبیلہ بنت مخرمہ سے بھی حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث عائشہ حسن صحیح ہے۔ اور اس کو کئی صحابہ نے اختیار کیا ہے جن میں ابو بکر، عمر اور علماء تابعین شامل ہیں، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ ان کے نزدیک فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھنا مستحب ہے۔

باب ۱۱۵۔ فجر کی نماز روشنی میں پڑھنے سے متعلق

باب ۱۱۵۔ مَا جَاءَ فِي الْأَسْفَارِ بِالْفَجْرِ

۱۳۴۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ فجر کی نماز روشنی میں پڑھو اس میں زیادہ ثواب ہے:

۱۳۴۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ عَبْدِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ اسْحَقَ عَن عَاصِمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ قَتَادَةَ عَن مَحْمُودِ بْنِ لَيْبِدٍ عَن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ

اس باب میں ابو بزرہ، جابر، اور بلال سے بھی احادیث منقول ہیں۔ اس حدیث کو شعبہ اور ثوری نے بھی محمد بن اسحاق سے نقل کیا ہے اور محمد بن عجلان بھی اسے عاصم بن عمر بن قتادہ سے نقل کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں رافع بن خدیج کی حدیث حسن صحیح ہے۔ کئی صحابہ تابعین علماء کا مسلک یہی ہے کہ فجر روشنی میں پڑھی جائے اور یہ سفیان ثوری کا قول ہے، شافعی اور احمد کہتے ہیں کہ اسفار کا معنی یہ ہے کہ فجر واضح ہو جائے تا کہ اس میں شک نہ رہے یہ نہیں کہ دیر سے نماز پڑھی جائے۔

توضیح: شافعیہ کی مذکورہ تاویل کہ اسفار کے معنی وضوح فجر کے ہیں خلاف ظاہر ہے۔ پھر اس حدیث کے بعض طرق اس تاویل کی نفی کرتے ہیں چنانچہ نسائی میں اس کے یہ الفاظ مروی ہیں۔ "مَا اسْفَرَتْ بِهَا الصُّبْحُ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ بِالْأَجْرِ" یعنی فجر جتنی روشنی میں پڑھو گے اتنا ہی زیادہ اجر کا باعث ہے۔ حافظ ابن حجر نے المطالب العالیہ میں اسے اس طرح نقل کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: "اصْبَحُوا الصَّلَاةَ الْفَجْرَ فَإِنَّكُمْ كَلَّا اصْبَحْتُمْ بِهَا كَانِ اعْظَمَ لِلْأَجْرِ" کہ فجر کی نماز دیر سے پڑھو جتنی تاخیر کرو گے اتنا ہی زیادہ ثواب ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو بزرہ سلمیٰ کی ایک طویل روایت ہے جس میں آنحضرت ﷺ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فجر کا اصل حکم تو یہی ہے کہ اسفار افضل ہے لہذا قوی روایات میں اسی کا حکم دیا گیا ہے لیکن عملاً آپ ﷺ اندھیرے میں بھی بکثرت نماز پڑھتے تھے کیوں کہ اکثر صحابہ تہجد کی نماز پڑھنے کے عادی تھے لہذا ان کی سہولت کی خاطر فجر کا جلدی پڑھنا ہی بہتر تھا۔ جیسا کہ خود حنفیہ کے نزدیک رمضان میں تغلیس (اندھیرے میں پڑھنا) بہتر ہے۔ واللہ اعلم۔ (مترجم)

باب ۱۱۶۔ مَا جَاءَ فِي التَّعْجِيلِ بِالظُّهْرِ

باب ۱۱۶۔ ظہر میں تعجیل سے متعلق۔

۱۳۵۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ أَبِي كَعْبٍ عَن سَفْيَانَ عَن حَكِيمِ بْنِ حَبِيبٍ عَن اِبْرَاهِيمَ عَن الْأَسْوَدِ عَن عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ

۱۳۵۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ظہر کی نماز میں رسول اللہ ﷺ سے زیادہ جلدی کرنے والا نہیں دیکھا۔ اور نہ ہی ابو بکر

أَخَذًا كَانَ أَشَدَّ تَعْجِيلًا لِلظُّهْرِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلَا مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَلَا مِنْ عُمَرَ

رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ سے۔

اس باب میں جابر بن عبد اللہ، خیاب، ابو بزرہ، ابن مسعود، زید بن ثابت، انس اور جابر بن مسعود سے بھی احادیث منقول ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث عائشہ حسن ہے۔ صحابہ اور تابعین میں سے اہل علم نے اس کو اختیار کیا ہے۔ علی یحییٰ بن سعید کے حوالے سے کہتے ہیں کہ: شعبہ نے حکیم بن جبیر کے بارے میں ان کی (ابن مسعود کی) حضور اکرم ﷺ سے منقول حدیث (جس کے الفاظ یہ ہیں "من سال الناس وله ما يغنيه"، یعنی جس نے لوگوں سے سوال کیا اور اس کے پاس اتنا تھا کہ اس کے لیے کافی تھا کی وجہ سے کلام کیا ہے۔ یحییٰ کا کہنا ہے کہ ان سے سفیان اور زائدہ روایت کرتے ہیں اور یحییٰ کے نزدیک ان کی حدیث میں کوئی مضافہ نہیں۔ بخاری کہتے ہیں۔ ظہر کی تعجیل میں حکیم بن جبیر سے بھی حدیث منقول ہے۔ وہ سعید بن جبیر سے وہ حضرت عائشہ سے اور وہ نبی اکرم ﷺ سے نقل کرتی ہیں۔ ہم سے حسن بن علی حلوانی نے روایت کی کہ انہیں عبدالرزاق نے خیر دہی انہیں معمر نے اور انہیں زمری نے کہ مجھے انس بن مالک نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ظہر کی نماز اس وقت پڑھی جب سورج کے زوال کا وقت ہوا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

مسئلہ: حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک ظہر میں سردی میں تعجیل اور گرمی میں تاخیر افضل ہے۔ ان کی ایک دلیل آئندہ آنے والی حدیث ہے۔ "كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد البرد بكر بالصلاة و اذا اشتد الحر ابرد بالصلاة" یعنی نبی ﷺ کا معمول تھا کہ اگر سردی زیادہ ہوتی تو نماز میں جلدی کرتے اور اگر گرمی زیادہ ہوتی تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھتے (یعنی تاخیر کر کے) یہ روایت صحیح اور صریح ہے جو حنفیہ کے مسلک پر دلالت کرتی ہے۔ (مترجم)۔

باب ۱۱۷۔ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ الظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

۱۳۶۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا لَيْثٍ عَنْ بِنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسِيْبِ وَ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

باب ۱۱۷۔ سخت گرمی میں ظہر دیر سے پڑھنے کے متعلق

۱۳۶۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جب گرمی شدت اختیار کر جائے تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو اس لئے کہ گرمی کی شدت جہنم کی تیش کا اثر ہے۔

اس باب میں ابوسعید، ابو بزرہ، ابن عمر، مغیرہ اور قاسم بن صفوان بھی احادیث نقل کرتے ہیں قاسم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ان کے علاوہ ابوموسیٰ، ابن عباس اور انس سے بھی روایت ہے۔ عمر سے بھی اس باب میں حدیث منقول ہے لیکن وہ صحیح نہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ابو ہریرہ حسن صحیح ہے۔ علماء کی ایک جماعت نے ظہر کی نماز میں شدید گرمی میں تاخیر کا مسلک اختیار کیا ہے۔ یہی قول ابن مبارک، احمد اور اسحاق کا بھی ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں ظہر میں تاخیر اس وقت کی جائے گی جب لوگ نماز کے لیے دور سے آتے ہوں۔ لہذا اکیلا نماز پڑھنے والا یا وہ شخص جو اپنی قوم میں نماز پڑھتا ہو اس کے لیے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ شدید گرمی میں بھی نماز میں تاخیر نہ کرے امام ترمذی کہتے ہیں جن حضرات نے شدید گرمی میں ظہر میں تاخیر کا مذہب اختیار کیا ہے وہ اتباع کے لیے بہتر ہے۔ جہاں تک امام شافعی کے اس قول کا تعلق ہے کہ اس کی اجازت اس شخص کے لیے ہے۔

ابو بزرہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سفر میں تھے۔ بلال نے ظہر کی نماز کے لیے اذان دی۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے بلال ٹھنڈا ہونے دو پھر انہوں نے ٹھنڈا ہونے دیا۔ اگر مطلب وہی ہوتا جو امام شافعی کہتے ہیں تو ایسے وقت میں ٹھنڈا کرنے کا کوئی مطلب نہیں تھا کیونکہ سفر میں سب ساتھ تھے دُور سے نہیں آتے تھے۔

۱۳۷۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک سفر میں تھے بلال رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ نے ظہر کی نماز کی اقامت کا ارادہ کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ٹھنڈا ہونے دو پھر انہوں نے چاہا کہ اقامت کہیں لیکن حضور ﷺ نے فرمایا: یہاں تک کہ ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھا پھر اقامت کہی اور نماز پڑھی۔ پھر آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: گرمی کی شدت جہنم کی تپش سے ہے۔ (۱) لہذا ظہر کی نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھو۔

۱۳۷۔ حدثنا محمود بن غيلان نا ابو داؤد قال ابانا شعبة عن مها جر ابى الحسن عن زيد بن زهب عن ابى ذر ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان فى سفر ومعه بلال فاراد ان يقيم فقال ابرد ثم اراد ان يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابرد فى الظهر قال حتى رأينا فى التلول ثم اقام فصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا عن الصلوة

باب ۱۱۸۔ عصر میں تقبیل سے متعلق۔

باب ۱۱۸۔ ماجاء فى تعجيل العصر

۳۰۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے عصر کی نماز پڑھی جب کہ سورج (۲) ان کے آگن میں تھا اور سایہ ان کے آگن کے اوپر نہیں چڑھا تھا۔

۱۳۸۔ حدثنا قتيبة بن الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العصر والشمس فى ححرتها لم يظهر الفء من ححرتها

اس باب میں انس، ابوروی، جابر اور رافع بن خدیج سے بھی احادیث منقول ہیں اور رافع سے عصر کی نماز میں تاخیر کی حدیث بھی منقول ہے لیکن وہ صحیح نہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث عائشہ حسن صحیح ہے۔ بعض صحابہ جیسے کہ حضرت عمر، عبداللہ بن مسعود، عائشہ، انس اور کئی تابعین عصر کی نماز تقبیل کا مسلک اختیار کرتے ہیں اور تاخیر کو کراہت پر محمول کرتے ہیں۔ یہ قول عبداللہ بن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی ہے۔

۱۳۹۔ حضرت علاء بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس بصرہ میں ان کے گھر گئے۔ جب کہ انہوں نے (علاء نے) ظہر کی نماز پڑھ لی تھی ان کا گھر مسجد کے ساتھ تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کھڑے ہو اور عصر کی نماز پڑھو۔ راوی کہتے ہیں ہم کھڑے ہوئے اور عصر پڑھی جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے ہوئے سنا کہ یہ تو منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا سورج کو دیکھتا رہے یہاں تک کہ جب وہ

۱۳۹۔ حدثنا على بن حجر نا اسمعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن انه دخل على انس بن مالك فى داره بالبصرة حين انصرف من الظهر وداره بجانب المسجد فقال قوموا فصلوا العصر قال فقمنا فصلينا فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول تلك صلوة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت بين

(۱) بعض حضرات نے اس حدیث میں لفظ ”من“ کا تشبیہ قرار دیا ہے۔ یعنی گرمی کی شدت، جہنم کی تپش کے مشابہ ہے۔ یہ حدیث کے لحاظ سے زیادہ قرین تیاں ہے۔ (مترجم)

(۲) سورج سے مراد وہ چوہ ہے۔ (مترجم)

قَرْنِي الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَارُ بَعَا لَا يَذْكُرُ اللَّهُ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا

شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان ہو جائے تو اٹھے اور چار چوٹیں مار لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کم یاد کرے۔

امام ترمذی اس حدیث کو حسن صحیح کہتے ہیں۔

باب ۱۱۹۔ عصر کی نماز میں تاخیر سے متعلق۔

باب ۱۱۹۔ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

۱۴۰۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ظہر میں تم لوگوں سے زیادہ جلدی کرتے اور تم لوگ عصر میں آپ ﷺ سے زیادہ جلدی کرتے ہو۔

۱۴۰۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا سَمْعِيلَ بْنَ عَلِيٍّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي مَلِيكَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَشَدُّ تَعْجِيلًا لِلظُّهْرِ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ أَشَدُّ تَعْجِيلًا لِلْعَصْرِ مِنْهُ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث ابن جریج سے بھی منقول ہے وہ ابن ملیکہ سے اور وہ ام سلمہ سے اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں۔

مسئلہ: احناف کے نزدیک عصر کو سورج کے زرد ہونے سے پہلے تک مؤخر کرنا افضل ہے۔ ان کی ایک دلیل حدیث باب ہے اور دوسری حدیث مسند احمد میں حضرت رافع بن خدیج کی حدیث ہے کہ ”ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یا مرتباً بخیر صلوة العصر“ یعنی آنحضرت ﷺ عصر کی نماز میں تاخیر کا حکم دیا کرتے تھے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے کیوں کہ امام صاحب کی تضعیف کی وجہ راوی عبد الواحد ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان کے معدلین کی تعداد جارحین سے زیادہ ہے اس لیے ان کی حدیث درجہ حسن سے کم نہیں۔ احناف کی تیسری دلیل عبد اللہ بن مسعود سے منقول اثر ہے کہ وہ عصر تاخیر سے پڑھا کرتے تھے۔

جہاں تک حدیث ۱۴۰ سے تعجیل عصر پر استدلال کا تعلق ہے تو یہ صحیح نہیں کیوں کہ یہ واقعہ حجاج بن یوسف کے زمانے کا ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ نمازیں بہت تاخیر سے پڑھتا تھا اور بعض اوقات وقت بھی نکال دیتا تھا۔ لہذا علاء بن عبد الرحمن کا ظہر پڑھ کر آنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ عصر کا بالکل ابتدائی وقت تھا۔ اگر ایسا بھی ہوتا بھی حضرت انسؓ کا نماز پڑھنا تعجیل عصر کی افضلیت کی دلیل نہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت انسؓ استحباب تعجیل کے قائل ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علاء بن عبد الرحمن نے ظہر کی نماز حجاج کے ساتھ ظہر کا وقت ختم ہونے کے بعد پڑھی ہو۔ اور جب حضرت انسؓ کے پاس آئے ہوں تو تاخیر عصر کا مستحب وقت شروع ہو چکا ہو۔

آپ ﷺ کے قول ”یہ منافق کی نماز ہے“ سے بھی تاخیر عصر کی کراہت پر استدلال درست نہیں اس لیے کہ اس سے مراد سورج کے زرد ہونے تک تاخیر کرنا ہے جب کہ حنفیہ سورج کے زرد سے پہلے تک تاخیر کو مستحب کہتے ہیں واللہ اعلم (مترجم)

باب ۱۲۰۔ مغرب کے وقت کے متعلق

باب ۱۲۰۔ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ

۱۴۰۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ ابن الاکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ مغرب کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب سورج ڈوب کر پردے میں چھپ جاتا۔

۱۴۱۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا حَاتِمَ بْنَ سَمْعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بِنِ الْأَكْوَعِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ

اس باب میں جابر، زید بن خالد، انسؓ، رافع بن خدیجؓ، ابو ایوبؓ، ام حبیبہ اور عباسؓ بن عبدالمطلب سے بھی حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔ حضرت عباسؓ کی حدیث موقوفہ بھی منقول ہے اور وہ اصح ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں۔ سلمہ ابن الاکوع کی حدیث حسن صحیح ہے اور یہی اکثر اہل علم

کا قول ہے جن میں صحابہ اور تابعین شامل ہیں کہ مغرب کی نماز میں تعمیل کرنی چاہیے۔ اور اس میں تاخیر کو مکروہ کہتے ہیں یہاں تک کہ بعض علماء کہتے ہیں: مغرب کے لیے ایک ہی وقت ہے۔ ان کا استدلال حضور اکرم ﷺ سے منقول حدیث جبریل سے ہے (کہ جبریل نے ایک ہی وقت میں اس نماز کی امامت کی تھی) یہی قول ابن مبارک اور شافعی کا بھی ہے۔

باب ۱۲۱۔ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

باب ۱۲۱۔ عشاء کے وقت سے متعلق

۱۴۲۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس نماز کے وقت کے متعلق سب سے بہتر جانتا ہوں۔ حضور اکرم ﷺ سے تیسری تاریخ کے چاند کے غروب (۱) ہونے کے وقت پڑھتے تھے۔ (یعنی عشاء کی نماز)

۱۴۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَّارِبِ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَلَاثَةِ

ابو بکر محمد بن ابان بھی عبد الرحمن بن مہدی سے اور وہ ابو عوانہ سے اسی اسناد سے اسی کے مثل نقل کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث ہشیم نے ابو بشیر سے انہوں نے حبیب بن سالم سے اور انہوں نے نعمان بن بشیر سے نقل کی ہے۔ اس میں ہشیم نے ”بشیر بن ثابت“ کا ذکر نہیں کیا۔ ہمارے نزدیک ابو عوانہ کی حدیث صحیح ہے اس لیے کہ یزید بن ہارون بھی شعبہ سے اور وہ ابو بشیر سے ابو عوانہ کی حدیث کی مانند نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۲۲۔ مَا جَاءَ فِي تَاخِيرِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

باب ۱۲۲۔ عشاء کی نماز میں تاخیر سے متعلق

۱۴۳۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر مجھے اپنی امت پر گراں گزرنے کا خیال نہ ہوتا تو میں انہیں عشاء کی نماز کو تہائی رات یا آدھی رات تک مؤخر کرنے کا حکم دیتا۔

۱۴۳۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَوْ لَا أَنِ اشْتَقَّ عَلَيَّ أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخَّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَيُصَفِّه

اس باب میں جابر بن سمرة، جابر بن عبد اللہ، ابو ہریرہ، ابن عباس، ابو سعید خدری، زید بن خالد اور ابن عمر سے بھی احادیث منقول ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے اور یہی اکثر اہل علم کا قول ہے جن میں صحابہ اور تابعین شامل ہیں ان کا کہنا ہے کہ عشاء کی نماز میں تاخیر کرنی چاہیے۔ احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

باب ۱۲۳۔ عشاء سے پہلے سونا مکروہ ہونے اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کے متعلق

باب ۱۲۳۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالسَّمْرِ بَعْدَهَا

۱۴۴۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ عشاء پڑھنے سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے۔

۱۴۴۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا هَشِيمُ بْنُ عَافٍ قَالَ أَحْمَدُ وَنَا عَبَادُ بْنُ عَبَادٍ هُوَ الْمَهْلَبِيُّ وَاسْمَعِيلُ بْنُ عَلِيَّةٍ جَمِيعًا عَنْ عَوْنِ بْنِ سِيَارِ بْنِ سَلَامَةَ عَنْ

(۱) تیسری تاریخ کا چاند سورج کے غروب ہونے کے تقریباً ڈھائی یا پونے تین گھنٹے بعد غروب ہوتا ہے۔ (مترجم)

أَبِي بَرزَةَ قَالَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  
يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا

اس باب میں عائشہ، عبداللہ بن مسعود اور انسؓ سے بھی احادیث منقول ہیں امام ترمذیؒ کہتے ہیں ابو بزرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اکثر اہل علم عشاء سے پہلے سونے کو مکروہ کہتے ہیں جب کہ بعض اس کی اجازت دیتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ اکثر احادیث کراہت سے متعلق ہیں۔ جب کہ بعض علماء رمضان میں عشاء سے پہلے سونے کی اجازت دیتے ہیں۔

باب ۱۲۴۔ مَا جَاءَ فِي السَّمْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ  
۱۴۵۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا أَبُو مَعَاوِيَةَ عَنِ  
الْإِعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ  
قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَسْمُرُ  
مَعَ أَبِي بَكْرٍ فِي الْأَمْرِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا مَعَهُمَا

۱۲۴۔ عشاء سے پہلے سونا مکروہ ہونے اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کے متعلق  
۱۴۵۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ، ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسلمانوں کے امور کے متعلق باتیں کیا کرتے تھے۔ میں ان کے ساتھ ہوتا تھا۔

اس باب میں عبداللہ بن عمرو، اوس بن حذیفہ اور عمران بن حصینؓ سے بھی احادیث نقل کی گئی ہیں۔ امام ترمذیؒ کہتے ہیں حدیث عمرؓ حسن ہے۔ یہ حدیث حسن بن عبید اللہ نے بھی ابراہیم سے انہوں نے علقمہ سے انہوں نے ابو جعفر کے ایک شخص سے جسے قیس یا ابن قیس کہا جاتا ہے انہوں نے عمرؓ سے اور انہوں نے حضور اکرم ﷺ سے نقل کی ہے۔ یہ حدیث ایک طویل قصے میں ہے۔ صحابہ، تابعین، اہل علم کا اس میں اختلاف ہے کہ عشاء کے بعد باتیں کرنے کا کیا حکم ہے؟ علماء کی ایک جماعت نے اسے مکروہ کہا ہے جب کہ بعض اس شرط کے ساتھ اجازت دیتے ہیں کہ باتیں علم یا ضروری حاجتوں سے متعلق ہوں۔ اور اکثر احادیث میں اس کی رخصت ہے۔ نیز نبی کریم ﷺ سے منقول ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: نماز کے منتظر (۱) یا مسافر کے علاوہ کسی کو عشاء کے بعد باتیں نہیں کرنی چاہئیں۔

باب ۱۲۵۔ مَا جَاءَ فِي الْوَقْتِ الْأَوَّلِ مِنَ الْفَضْلِ

۱۲۵۔ قاسم بن غنم اپنی چچی ام فروہ رضی اللہ عنہا جنہوں نے رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی تھی۔ سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ سے سوال کیا گیا۔ کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا: نماز اول وقت میں پڑھنا۔

۱۴۶۔ حَدَّثَنَا أَبُو عَمَارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَرِيثِ نَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْغَنَمِ عَنْ عَمَّتِهِ أُمِّ فَرُوهَ وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا

۱۴۷۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نماز اول وقت میں پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور آخر وقت میں اللہ کی طرف سے بخشش ہے۔

۱۴۷۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا يَعْقُوبُ بْنُ الْوَلِيدِ الْمَدَنِيُّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

(۱) یعنی جس نے ابھی عشاء کی نماز نہ پڑھی ہو۔ (مترجم)

الْوَقْتُ الْأَوَّلُ مِنَ الصَّلَاةِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَالْوَقْتُ  
الْأَجْرُ عَقْبُ اللَّهِ

اس باب میں علی، ابن عمر، عائشہ اور ابن مسعود سے بھی حدیثیں منقول ہیں۔

۱۴۸۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا: اے علی! تین چیزوں میں تاخیر نہ کرو، نماز کا جب وقت ہو جائے۔ جنازہ جب حاضر ہو جائے اور غیر ستادی عورت جب اس کا ہم پلہ رشتہ مل جائے۔

۱۴۸۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَهَبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَهَنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَأَن تُؤَخِّرَهَا الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ وَقْتَهَا وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ وَالْأَيْمُ إِذَا آتَتْ وَقْتَهَا وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدْتِ لَهَا كُفُوًا

امام ترمذی کہتے ہیں کہ ام فروہ کی حدیث عبداللہ بن عمر العری کے سوا کسی نے نقل نہیں کی اور وہ محدثین کے نزدیک قوی نہیں۔ محدثین اس حدیث میں اضطراب کرتے ہیں۔ (اسے ضعیف سمجھتے ہیں)

۱۴۹۔ ابو عمرو شیبانی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا: کون سا عمل افضل ہے۔ فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہی سوال کیا تھا آپ ﷺ نے فرمایا: نماز کو مستحب اوقات میں پڑھنا۔ میں نے کہا: اس کے علاوہ یا رسول اللہ؟ آپ ﷺ نے فرمایا: والدین کی خدمت کرنا۔ میں نے کہا: اس کے علاوہ؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔

۱۴۹۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ مَعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعِزَّارِ عَنِ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِإِبْنِ مَسْعُودٍ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ سَأَلْتُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الصَّلَاةُ عَلَى مَوَاقِفِهَا قُلْتُ وَمَاذَا يَأْرَسُولُ اللَّهِ قَالَ وَبِرِّالْوَالِدَيْنِ قُلْتُ وَمَاذَا قَالَ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ مسعودی، شعبہ، شیبان اور کئی حضرات نے اس حدیث کو ولید بن عیزار سے نقل کیا ہے۔

۱۵۰۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے دو مرتبہ کے علاوہ کبھی نماز آخری وقت میں نہیں پڑھی یہاں تک کہ آپ ﷺ کی وفات ہوئی۔

۱۵۰۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ اللَّيْثِ عَنِ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ اسْحَاقِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً لَوْ قَتَبَهَا الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے اس کی سند متصل نہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں نماز کے لیے اول وقت افضل ہے۔ جو چیزیں اس پر دلالت کرتی ہیں ان میں سے رسول اللہ ﷺ، ابو بکرؓ اور عمرؓ کا اس عمل کو اختیار کرنا ہے کیونکہ وہ لوگ افضل چیز ہی کو اختیار کرتے اور کبھی نہ ترک کرتے تھے۔ یہ حضرات اول وقت میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ حدیث ہم سے ابو ولید کی نے بحوالہ امام شافعی بیان کی ہے۔ توضیح: یہاں امام ترمذی نے پانچ احادیث ذکر کی ہیں حنفیہ کی طرف سے اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہاں اول وقت سے مراد اول

وقت مستحب ہے اور اس تاویل کی دلیل تاخیر پر دلالت کرنے والی احادیث ہیں جن کا بیان گزر چکا ہے جیسا کہ خود امام شافعیؒ نے بھی عشاء میں یہی تاویل کی ہے۔ جہاں تک امام ترمذیؒ کے اس قول کا تعلق ہے کہ نبی اکرم ﷺ اور ابو بکرؓ و عمرؓ نے یہی اختیار کیا ہے یہ تاخیر والی احادیث کے خلاف ہے جن میں خلفائے راشدین کا تاخیر سے نماز پڑھنا ثابت ہے۔ (مترجم)

باب ۱۲۶۔ مَا جَاءَ فِي السَّهْوِ عَنْ وَقْتِ صَلَاةٍ - عصر کی نماز بھول جانے سے متعلق۔  
العصر

۱۵۱۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ

۱۲۶۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اگر کسی کی عصر کی نماز فوت ہوگئی گویا اس کا گھر اور مال لٹ گیا۔

اس باب میں بریدہ اور نوفل بن معاویہ سے بھی حدیثیں نقل کی جاتی ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ابن عمر حسن صحیح ہے۔ اسے زہری نے بھی سالم سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے نقل کیا ہے۔

باب ۱۲۷۔ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الصَّلَاةِ إِذَا آخَرَهَا الْإِمَامُ

۱۲۷۔ اگر حاکم نماز میں تاخیر کرے تو نماز میں جلدی کرنے کا حکم۔

۱۵۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بِالْبَصْرَةِ نَا جَعْفَرُ بْنُ سَلِيْمَانَ الضَّبْعِيُّ عَنِ ابْنِ عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ أَمْرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ لِيُؤْتِنَهَا فَإِنْ صَلَّيْتَ لِيُؤْتِنَهَا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةٌ وَإِلَّا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ

۱۵۲۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: اے ابو ذر میرے بعد ایسے امراء آئیں گے جو نمازوں کو فوت کریں گے تم نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ اگر تم نے وقت پر نماز پڑھ لی تو امام کے ساتھ تمہاری نماز نفل ہو جائے گی ورنہ تم نے اپنی نماز کی تو حفاظت کر لی۔

اس باب میں عبد اللہ بن مسعودؓ اور عبادہ بن صامتؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ابو ذر حسن صحیح ہے اور یہی اکثر اہل علم کا قول ہے کہ اگر امام نماز میں تاخیر کرتا ہو تو وہ اپنی نماز وقت پر پڑھ لے اور پھر امام کے ساتھ نماز پڑھے یہ ان کے نزدیک مستحب ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک پہلی نماز ہی فریضہ ہوگی۔ ابو عمران الجونی کا نام عبد الملک بن حبیب ہے۔

مسئلہ: اس مسئلہ میں حنفیہ کا کہنا ہے کہ فرض کی ادائیگی کے بعد اگر جماعت کھڑی ہو تو صرف ظہر اور عصر میں بہ نیت نفل شریک ہو سکتے ہیں باقی اوقات میں نہیں۔ (مترجم)

باب ۱۲۸۔ مَا جَاءَ فِي النَّوْمِ عَنِ الصَّلَاةِ

۱۲۸۔ سو جانے کے سبب نماز چھوٹ جانے سے متعلق

۱۵۳۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا حَمَادُ بْنُ حَمَادٍ بِن زَيْدٍ عَنِ النَّبَانِيِّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِيَّاحِ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ ذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَوْمَهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ

۱۵۳۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے رسول اللہ ﷺ سے نماز کے وقت سوتے رہ جانے کا تذکرہ کیا تو فرمایا: نیند میں قصور وار نہیں۔ قصور تو جاگتے ہوئے (نہ پڑھنے پر ہے) ہے لہذا اگر کوئی شخص نماز کو بھول جائے یا سویا رہ جائے تو یاد آتے ہی نماز پڑھے۔

تَفْرِيطُ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقْظَةِ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ  
صَلْوَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

اس باب میں ابن مسعود، ابو مریم، عمران بن حصین، جبیر بن مطعم، ابو جیفہ، عمرو بن امیہ الضمری اور ذومجر جو جاشی کے بھتیجے ہیں، سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں قنادہ کی حدیث حسن صحیح ہے علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ جو شخص نماز کے وقت سویا رہ جائے یا بھول جائے اور جب اسے یاد آئے یا جاگے تو وہ وقت مکروہ ہو جیسے کہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب بعض علماء کہتے ہیں وہ جس وقت اٹھے یا یاد آئے اسی وقت نماز ادا کرے اگرچہ مکروہ اوقات ہی ہوں یہ احمد، اسحاق، شافعی اور مالک کا قول ہے جب کہ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اس وقت تک نہ پڑھے جب تک سورج طلوع یا غروب نہ ہو جائے۔ (یعنی مکروہ وقت ختم نہ ہو جائے۔)

مسئلہ:- آخر الذکر قول حنفیہ کا ہے۔ وہ ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں جو ان اوقات میں نماز پڑھنے کی ممانعت کرتی ہیں۔ (مترجم)

باب ۱۲۹۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الصَّلَاةَ  
۱۵۴۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ وَبِشْرُ بْنُ مَعَاذَةَ قَالَا نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ  
قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ  
وَسَلَّمَ مَنْ نَسِيَ صَلْوَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

باب ۱۲۹۔ اس شخص کے متعلق جو نماز بھول جائے۔  
۱۵۴۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:  
اگر کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو یاد آنے پر پڑھ لے۔

اس باب میں سمرہ اور قنادہ بھی حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث انس حسن صحیح ہے۔ حضرت علیؑ سے بھی ایسے شخص کے متعلق جو نماز کو بھول گیا ہو منقول ہے کہ وہ اس وقت پڑھ لے جب اسے یاد آئے خواہ وقت ہو یا نہ ہو۔ یہ احمد اور اسحاق کا بھی قول ہے لیکن ابوبکرؓ سے منقول ہے کہ وہ عصر کی نماز میں سوتے رہ گئے اور سورج غروب ہونے کے وقت آنکھ کھلی تو اس وقت تک نماز نہ پڑھی جب تک سورج غروب نہ ہو گیا۔ اہل کوفہ کی ایک جماعت کا یہی مسلک ہے جب کہ ہمارے اصحاب نے علیؑ بن ابی طالب کا قول اختیار کیا ہے۔

باب ۱۳۰۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ تَفُوتُهُ الصَّلَاةُ  
بِأَيِّتِهِنَّ يَبْدَأُ

باب ۱۳۰۔ اس شخص کے متعلق جس کی بہت سی نمازیں فوت ہو گئی ہوں، کس نماز سے شروع کرے۔

۱۵۵۔ حَدَّثَنَا هِنَادُنَا هَشِيمٌ عَنْ أَبِي الزَّبِيرِ عَنْ نَافِعِ بْنِ  
جَبْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ  
قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ شَعَلُوا رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ  
الْحَنْدَقِ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَمَرَ بِأَلَا  
فَادَنْ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى العَصْرَ ثُمَّ  
أَقَامَ فَصَلَّى المَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى العِشَاءَ

۱۵۵۔ عبید اللہ بن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عبد اللہ نے فرمایا: مشرکین نے غزوہ خندق کے روز نبی اکرم ﷺ کو چار نمازوں سے روک دیا یہاں تک کہ رات بھی اللہ نے جتنی چاہی گزر گئی۔ پھر آپ ﷺ نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا۔ انہوں نے اذان دی پھر اقامت کہی اور ظہر پڑھی پھر اقامت ہوئی اور عصر پڑھی پھر اقامت کے بعد مغرب اور پھر اقامت کے بعد عشاء کی نماز پڑھی۔

اس باب میں ابو سعید اور جابر سے بھی احادیث منقول ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث عبد اللہ کی سند میں کوئی حرج نہیں۔ الایہ کہ ابو سعید نے عبد اللہ سے نہیں سنا۔ اور یہی اہل علم میں سے بعض حضرات کا مسلک ہے کہ اگر نمازیں قضا ہو گئی ہوں تو ادا کرتے ہوئے ہر نماز کے لیے اقامت کہتا جائے اور اگر ایسا نہ کرے تو بھی جائز ہے یہی قول شافعی کا بھی ہے۔

۱۵۶۔ حدثنا محمد بن بشارنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يحيى بن ابي كثيرنا ابو سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله ان عمرا بن الخطاب قال يوم الخندق وجعل يسب كفارا قرئين قال يا رسول الله ما كذبت اصابي العصر حتى تغرب الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله ان صليتها قال فترانا بطحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتوضأنا فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۵۷۔ حدثنا هناد بن عبد الله عن سعيد عن قتادة عن الحسن بن سمره بن جندب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال في صلوة الوسطى صلوة العصر

۱۵۸۔ حدثنا محمود بن غيلان نا ابو داود الطيالسي وابو النصر عن محمد بن طلحة ابن مصرف عن زبيد عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوة الوسطى صلوة العصر

۱۵۲۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے غزوہ خندق کے دن کفارہ قریش کو بہت برا بھلا کہتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ! میں عصر کی نماز نہ پڑھ سکا یہاں تک کہ سورج ڈوبنے والا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی قسم میں نے بھی نہیں پڑھی۔ راوی کہتے ہیں پھر ہم بطحان میں اترے۔ حضور اکرم ﷺ نے وضو کیا پھر ہم نے بھی وضو کیا اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے عصر کی نماز پڑھی۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا۔ پھر اس کے بعد مغرب پڑھی۔

باب ۱۳۱۔ عصر کی نماز وسطیٰ ہونے سے متعلق

۱۵۷۔ حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے صلوة وسطیٰ کے متعلق فرمایا کہ وہ عصر کی نماز ہے۔

۱۵۷۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نماز وسطیٰ عصر کی نماز ہے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اس باب میں علیؓ، عائشہؓ، حضرت ابو ہریرہؓ اور ابو ہاشم بن مثنیہؓ سے بھی حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ بخاری، ابی بن عبد اللہ کے متعلق کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا۔ حسن کی سمرہ سے نقل کردہ حدیث حسن ہے۔ انہوں نے ان سے سنا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں نماز وسطیٰ کے متعلق حدیث سرہ حدیث حسن ہے اور یہ صحابہ وغیرہ میں سے اکثر علما کا قول ہے حضرت زید بن ثابتؓ اور حضرت عائشہؓ کہتے ہیں: نماز وسطیٰ ظہر کی نماز ہے جب کہ ابن عباسؓ اور ابن عمرؓ نماز وسطیٰ فجر کی نماز کو کہتے ہیں ابو موسیٰ محمد بن شیبہ سے وہ قریش بن انس سے اور وہ صیب بن شہید کے حوالے سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن سیرین نے

(یعنی حبیب سے) کہا کہ حسن سے پوچھو کہ عقیقہ کی حدیث انہوں نے کس سے سنی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا تو جواب دیا سرہ بن جندب سے امام ترمذی کہتے ہیں امام بخاری نے مجھے یہ حدیث سنائی وہ علی بن عبد اللہ سے اور وہ قریش بن انس سے اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ بخاری کہتے ہیں حسن کا سرہ سے صحیح صحیح ہے اور اس حدیث کو اس پر بطور حجت پیش کرتے ہیں۔

باب ۱۳۲۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ  
باب ۱۳۱۔ عصر اور فجر کے بعد نماز پڑھنا مکروہ ہے۔  
بَعْدَ الْفَجْرِ

۱۵۷۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے کئی صحابہ رضی اللہ عنہم سے سنا جن میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی ہیں جو میرے لئے ان سب میں محبوب ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فجر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا یہاں تک سورج طلوع ہو جائے۔ اور عصر کے بعد یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔

۱۵۹۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا هِشِيمَ أَخِيرَ نَا مَنْصُورٍ وَهُوَ ابْنُ زَادَانَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَكَانَ مِنْ أَحَبِّهِمْ إِلَيَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ

اس باب میں علی، ابن مسعود، ابوسعید، حقیقہ بن عامر، ابو ہریرہ، ابن عمر، سرہ بن جندب، سلمہ بن الاکوع، عبد اللہ بن عمرو، معاذ صابغی (انہیں حضور اکرم ﷺ سے سنا نہیں) عاتکہ، کعب بن مرہ، ابوامامہ، عمرو بن عثمان، یعلیٰ بن امیہ اور معاویہ احادیث بیان کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت ابن عباس کی حضرت عمرؓ سے منقول حدیث حسن صحیح ہے۔ اور یہ اکثر فقہاء و صحابہ اور ان کے بعد کے علماء کا قول ہے کہ یہ حضرات فجر کے بعد طلوع آفتاب تک اور عصر کے بعد غروب آفتاب تک نماز پڑھنے کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ جہاں تک قضاء نمازوں کا تعلق ہے ان کی فجر اور عصر کے بعد ادا ہو سکتی ہیں کوئی مضائقہ نہیں۔ علی بن مدینی، یحییٰ بن سعید کے متعلق کہتے ہیں کہ انہوں نے شعبہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ قتادہ نے ابو العالیہ سے صرف تین چیزیں سنی ہیں۔ حدیث عمر کہ حضور اکرم ﷺ نے عصر اور فجر کی نماز کے بعد غروب آفتاب اور طلوع آفتاب تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا، حدیث ابن عباس کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ میرے متعلق کہے کہ میں یونس بن یثیٰب سے بہتر ہوں“ اور حدیث علیؓ: ”قاضی تین قسم کے ہیں“۔

باب ۱۳۳۔ عصر کے بعد نماز پڑھنے کے متعلق۔

باب ۱۳۳۔ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

۱۶۰۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے عصر کے بعد دو رکعتیں پڑھیں اس لئے کہ ان کے پاس کچھ مال آگیا تھا جس میں مشغولیت کی وجہ سے آپ ﷺ ظہر کے بعد کی دو رکعتیں نہ پڑھ سکے تھے اس کے بعد آپ ﷺ نے دوبارہ کبھی ایسا نہیں کیا۔ (عصر کے بعد نماز نہیں پڑھی)۔

۱۶۰۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا جَرِيْرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ لِأَنَّهُ آتَاهُ مَالٌ فَشَغَلَهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ثُمَّ لَمْ يَبْعُدْ لَهُمَا

اس باب میں عاتکہ، ام سلمہ، میمونہ اور ابو موسیٰ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ابن عباس حسن ہے۔ کئی حضرات نے نبی اکرم ﷺ سے عصر کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا نقل کیا ہے۔ یہ اس روایت کے خلاف ہے کہ آپ ﷺ نے

عصر کے بعد غروب آفتاب تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا: حدیث ابن عباس صبح ہے اس لیے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ ﷺ نے پھر دوبارہ نہ پڑھیں۔ زید بن ثابتؓ سے بھی ابن عباسؓ کی حدیث کے مثل منقول ہے۔ حضرت عائشہؓ سے اس باب میں کئی احادیث منقول ہیں ان سے مروی ہے کہ ”حضور ﷺ ان کے پاس عصر کے بعد اس طرح کبھی داخل نہ ہوئے کہ آپ ﷺ نے دور کعتیں نہ پڑھی ہوں۔ اور ان سے بواسطہ سلمہ منقول ہے کہ آپ ﷺ نے عصر کے بعد غروب آفتاب تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا اور فجر کے بعد طلوع آفتاب تک، اس پر اکثر علماء کا اجماع ہے کہ عصر کے بعد غروب آفتاب تک اور فجر کے بعد طلوع آفتاب تک نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ لیکن ان دونوں اوقات میں نماز نہ پڑھنے کے حکم سے طواف کے بعد مکہ میں نماز پڑھنا مستحبی ہے۔ حضور اکرم ﷺ سے اس بارے میں (طواف کے تو اہل کی) اجازت نقل کی گئی ہے۔ اہل علم میں سے ایک جماعت کا یہی قول ہے جن میں صحابہ اور ان کے بعد کے علماء شامل ہیں (یعنی اجازت کا یہ قول شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی ہے۔ جب کہ اہل علم صحابہ اور ان کے بعد کے حضرات کا قول یہ ہے کہ طواف کے تو اہل بھی ان اوقات میں مکروہ ہیں یہ قول سفیان ثوری، مالک بن انس اور بعض اہل کوفہ (احناف) کا ہے۔

توضیح: امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک عصر کے بعد دور کعتیں پڑھنا امت کے حق میں ممنوع ہے۔ حضرت عائشہؓ کی جس حدیث میں آنحضرت ﷺ کے ہمیشہ ان رکعات کو پڑھنے کا بیان ہے امام صاحب اسے حضور اکرم ﷺ کی خصوصیت قرار دیتے ہیں ان کا استدلال ان تمام احادیث سے ہے۔ جن میں عصر کے بعد نماز پڑھنے کی ممانعت ہے۔ (مترجم)

باب ۱۲۴۔ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ  
 ۱۶۱۔ حَدَّثَنَا هنادنا و كعب عن كهس بن الحسين عن  
 عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله  
 عليه وآله وسلم قال بين كل اذانين صلوة لمن شاء  
 باب ۱۳۳۔ مغرب سے پہلے نماز پڑھنے سے متعلق  
 ۱۶۱۔ حضرت عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: دونوں اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ لہذا جو چاہے اسے پڑھ سکتا ہے۔

اس باب میں عبد اللہ بن زبیرؓ بھی حدیث بیان کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث عبد اللہ بن مغفل حسن صحیح ہے۔ صحابہ کرامؓ میں مغرب سے پہلے نماز پڑھنے میں اختلاف ہے۔ بعض مغرب سے پہلے نماز کو جائز قرار نہیں دیتے۔ اور کئی صحابہ سے منقول ہے کہ وہ مغرب سے پہلے اذان اور اقامت کے درمیان دور کعتیں پڑھا کرتے تھے۔ احمد اور اسحاق کہتے ہیں کہ اگر پڑھ لے تو بہتر ہے اور یہ ان دونوں کے نزدیک مستحب ہے۔

مسئلہ: حنیفہ اور مالکیہ کے نزدیک مغرب سے پہلے دو رکعت نقل پڑھنا مکروہ ہے۔ احناف کی دلیل سنن دارقطنی، بیہقی اور مسند بزار میں مذکور یہی روایت ہے جس میں مغرب کو مستحبی کیا گیا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں۔ ”قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عند كل اذانين ركعتين ما خلا صلوة المغرب“ یعنی حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے سوائے مغرب کے۔ یہ روایت حیان بصری سے مروی ہے اور وہ صدوق ہیں۔ مختصر یہ کہ مغرب سے پہلے دور کعتیں پڑھنا روایات کی رو سے جائز ہے لیکن ان کا ترک افضل معلوم ہوتا ہے جس کی پہلی وجہ یہ ہے، کہ احادیث میں بغیر مغرب کی تاکید بڑی اہمیت کے ساتھ وارد ہوئی ہے اور یہ کعتیں اس کے معانی ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرامؓ کی اکثریت یہ کعتیں نہیں پڑھتی تھی اور احادیث کا صحیح مفہوم تعامل صحابہ عی سے معلوم ہوتا ہے۔ چونکہ عام طور سے صحابہ نے اسے ترک کیا ہے اسی لیے ان کا ترک عی بہتر معلوم ہوتا ہے ہاں اگر کوئی پڑھے تو بھی قابل ملامت نہیں۔ واللہ اعلم۔ (مترجم)

باب ۱۲۵۔ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَنْزَلَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ  
 باب ۱۳۵۔ جو شخص غروب آفتاب سے پہلے عصر کی ایک رکعت پڑھ سکتا

أَنَّ تَغْرُبَ الشَّمْسِ

ہوا اس کے متعلق۔

۱۶۲۔ حَدَّثَنَا الْإِنصَارِيُّ نَا مَعْنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ زَيْدُ بْنُ إِسْلَمَ عَنِ عَطَاءِ بْنِ إِسَارُو عَنْ بَسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَنْ الْأَعْرَجِ يُحَدِّثُ نُوْنَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ

۱۶۲۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی ایک رکعت پالی اس نے فجر کی نماز پالی اور جس نے غروب شمس سے پہلے عصر کی ایک رکعت پالی (یعنی پڑھ لی) اس کی نماز عصر ادا ہوگی۔

اس باب میں حضرت عائشہ سے بھی حدیث منقول ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ابو ہریرہ حسن صحیح ہے۔ یہی ہمارے اصحاب شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے اس حدیث کے ان حضرات کے نزدیک یہ معنی ہیں کہ یہ حکم صاحب عذر کے لیے ہے مثلاً کوئی شخص سوتا رہ گیا یا بھول گیا۔ اور اس وقت اٹھایا یا آیا جب سورج طلوع یا غروب ہو رہا تھا۔

باب ۱۳۶۔ مَا جَاءَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَوَتَيْنِ

باب ۱۳۶۔ دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنے سے متعلق

۱۶۳۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ نَا أَبُو معاوية عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ حَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ قَالَ فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا أَرَادَ بِذَلِكَ قَالَ أَرَادَ أَنْ لَا تُخْرَجَ أُمَّتُهُ

۱۶۳۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کی نمازوں کو ملا کر بغیر کسی خوف اور بارش کے مدینہ منورہ میں پڑھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ ﷺ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا: آنحضرت ﷺ نے چاہا کہ امت پر تکلیف نہ ہو۔

اس باب میں حضرت ابو ہریرہ سے بھی حدیث نقل کی گئی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عباس کی حدیث ان سے کئی سندوں سے منقول ہے۔ اسے جابر بن زید، سعید بن جبیر اور عبد اللہ بن شقیق اعظمی نے روایت کیا ہے حضرت ابن عباس سے نبی اکرم ﷺ سے اس کے خلاف بھی منقول ہے۔

۱۶۴۔ حَدَّثَنَا أَبُو سَلْمَةَ يَحْيَى بْنُ عُلْفِ الْبَصْرِيُّ نَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سَلِيمَانَ عَنِ ابْنِ عَمْرِو عَنِ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَوَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُدْرٍ فَقَدْ آتَى تَابًا مِنَ آيَاتِ الْكِبَائِرِ

۱۶۴۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جس نے ایک وقت میں دو نمازیں بغیر عذر جمع کیں وہ ایوان کبائر میں سے ایک باب میں داخل ہوا۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حش ابوعلیٰ رحسی بن قیس ہیں اور محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں امام احمد انہیں ضعیف سمجھتے ہیں۔ اہل علم کا مسلک یہی ہے کہ دو نمازوں کے درمیان جمع صرف سفر یا عرفات میں جائز ہے۔ بعض اہل علم تابعین مریض کے لیے اس کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ قول احمد اور اسحاق کا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ بارش میں دو نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے۔ یہ شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے۔ امام شافعی مریض کے لیے دو نمازوں کو ملا کر پڑھنا جائز قرار نہیں دیتے۔

مسئلہ: اس مسئلے میں احناف کا قول یہ ہے کہ جمع حقیقی کسی بھی صورت میں جائز نہیں خواہ عذر ہو یا نہ ہو ہاں البتہ عرفات اور مزدلفہ میں جمع جائز ہے جب کہ جمع صوری جائز ہے یعنی ظہر کو مؤخر کرے یہاں تک کہ آخری وقت میں پڑھے اور عصر کو تہم کر کے بالکل شروع میں پڑھے۔ اس طرح دونوں نمازیں بھی وقت پر ہوں گیں۔ اسی صورت کے جواز پر متعدد احادیث منقول ہیں۔ جس میں سے ایک حضرت عمرؓ سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے اپنے مؤذن کو حکم دیا کہ مغرب میں آخری وقت تک تاخیر کرے اور عشاء کے لیے شروع وقت میں اذان دے اور پھر فرمایا: حضور اکرم ﷺ اسی طرح کیا کرتے تھے (یعنی سفر میں) جہاں تک حضرت ابن عباسؓ کی حدیث کا تعلق ہے تو وہ باجماع متروک ہے یا جمع صوری پر محمول ہے۔ واللہ اعلم۔ (مترجم)

### باب ۱۳۷۔ اذان کی ابتداء سے متعلق

### باب ۱۳۷۔ مَا جَاءَ فِي بَدَءِ الْأَذَانِ

۱۶۵۔ محمد بن عبد اللہ بن زید اپنے والد کا یہ قول نقل کرتے ہیں جب صبح ہوئی تو ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہیں اس خواب کے متعلق بتایا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ خواب سچا ہے۔ تم بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور وہ تم سے بلند آواز والے ہیں اور انہیں وہ کچھ سکھاؤ جو تمہیں بتایا گیا ہے اور وہ اس کو بلند آواز سے کہیں چنانچہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سنی تو اپنی چادر کھینچتے ہوئے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں یہ کہتے ہوئے حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ! اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ ﷺ کو سچا دین دے کر بھیجا میں نے بھی اسی طرح خواب دیکھا ہے جیسے کہ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا (یعنی اذان وی) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں یہی بات پکی ہے۔

۲۶۵۔ حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الاموي نا ابى نا محمد بن اسحق عن محمد بن ابراهيم التميمي عن مبيد بن عبد الله بن زيد عن ابيه قال لما اصبحنا اتينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاخبرته بالرؤيا فقال ان هذه لرؤيا حق فقم مع بلال فانته اتلوا وامتد صوتا منك فالتى عليه ما قيل لك وليناد بليلك قال فلما سمع عمر بن الخطاب نداء بلال بالصلوة خرج الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو يحتر ازاره وهو يقول يا رسول الله والذى بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذى قال قال فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فليله الحمد فليلك آتيت

اس باب میں ابن عمرؓ سے بھی حدیث منقول ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں عبد اللہ بن زید کی حدیث حسن صحیح ہے۔ یہ حدیث ابراہیم بن سعد سے بھی منقول ہے وہ محمد بن اسحاق سے اس سے طویل اور مہمل حدیث نقل کرتے ہیں اس میں اذان کے کلمات دو دو مرتبہ بیان کرتے ہیں اور اقامت کے ایک ایک بار عبد اللہ بن زید ابن عبد ربہ ہیں، ابن عبد ربہ بھی کہا جاتا ہے جس میں ان کی رسول اللہ ﷺ کی احادیث میں سے اذان کی اس حدیث کے علاوہ کسی روایت کے صحیح ہونے کا علم نہیں اور عبد اللہ بن زید بن عاصم مازنی کی بھی نبی کریم ﷺ سے روایات ہیں یہ عباد بن حمیم کے سچا ہیں۔

۱۶۶۔ حدثنا أبو بكر بن أبي النضرنا الحجاج بن محمد قال قال ابن جريج أنا نافع عن أبي عمر قال كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَحْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اتَّجِدُوا نَا قُوسًا مِثْلَ نَا قُوسِ النَّصَارَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ اتَّجِلُوا قَرْنَا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ أَوْ لَا تَبْعُنُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَا بِلَالُ قُمْ فَادِّ بِالصَّلَاةِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث ابن عمرؓ کی روایت سے حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۳۸۔ اذان میں ترجیح سے متعلق۔ (۱)

باب ۱۳۸۔ مَا جَاءَ فِي التَّرْجِيحِ فِي الْأَذَانِ

۱۶۷۔ حدثنا بشر بن معاذ ثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محنورة قال اخبرني ابي و جدي جميعا عن ابي محنورة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقعده وألقى عليه الأذان حرفا حرفا قال لبراهيمم مثل اذا بنا قال بشر فقلت له اعد علي فوصف الأذان بالترجيع

۱۶۷۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ انہیں بٹھایا اور اذان کا ایک ایک حرف سکھایا۔ ابراہیم کہتے ہیں ہمارا اذان کی طرح بشر کہتے ہیں میں نے ان سے کہا: دوبارہ کیسے (اذان تو انہوں نے ترجیح کے ساتھ اذان بیان کی۔

ابو یسعی ترمذی کہتے ہیں ابو محذورہؓ کی اذان سے متعلق حدیث صحیح ہے اور ان سے کئی سندوں سے منقول ہے اسی پر کہ میں بھی عمل ہے اور یہ شافعی کا قول ہے۔

۱۶۸۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں اذان میں (۱۹) انیس کلمات سکھائے تھے اور اقامت (تکبیر) میں سترہ (۱۷) کلمات۔

۱۶۸۔ حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى نا عفان نا همام عن عامر الاحول عن مكحول عن عبد الله بن مخيريز عن ابي محنورة ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو محذورہؓ کا نام سرہ بن مغیرہ ہے۔ بعض اہل علم کا اذان کے متعلق یہی مذہب ہے اور ابو محذورہؓ سے تکبیر کا ایک ایک مرتبہ کہنا بھی منقول ہے۔

باب ۱۳۹۔ مَا جَاءَ فِي إِفْرَادِ الْإِقَامَةِ

باب ۱۳۹۔ تکبیر کے ایک ایک مرتبہ کہنے سے متعلق

۱۶۹۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ وَبِزِيدِ بْنِ رِيعٍ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ ابْنِ قَلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ نَالِيَةَ قَالَ قَالَ أَمِيرُ بَلَاءٍ لَأَنَّ يُشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُؤَيَّرُ الْإِقَامَةَ

۱۶۹۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ کو اذان، دو دو مرتبہ اور اقامت ایک ایک مرتبہ کہنے کا حکم دیا گیا۔

اس باب میں ابن عمرؓ سے بھی حدیث نقل کی گئی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت انسؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور یہ صحابہ اور تابعین میں سے بعض اہل علم کا قول ہے۔ شافعی، مالک، احمد اور اسحاق بھی یہی کہتے ہیں۔

اب ۱۴۰۔ مَا جَاءَ أَنَّ الْإِقَامَةَ مَثْنِي

باب ۱۴۰۔ تکبیر میں دو دو مرتبہ کہنے سے متعلق

۱۷۔ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجَعِيُّ نَا عَقِبَةَ بْنَ خَالِدِ بْنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرَّةٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كَانَ أَذَانَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شَفْعًا شَفْعًا فِي الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ

۱۷۰۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی اذان دو دو مرتبہ کہی جاتی تھی اذان بھی اور اقامت بھی۔

امام ترمذی کہتے ہیں عبداللہ بن زیدؓ کی حدیث کو کوچ نے اعمش سے انہوں نے عمرو بن مرہ سے اور انہوں نے عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ سے روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن زید نے اذان کے متعلق خواب دیکھا تھا۔ شعبہ عمرو بن مرہ سے اور وہ عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ صحابہؓ نے ہم سے بیان کیا کہ عبداللہ بن زید نے اذان کو خواب میں دیکھا۔ یہ ابن ابی لیلیٰ کی حدیث سے اصح ہے۔ عبداللہ بن ابی لیلیٰ کو عبداللہ بن زید سے سنا نہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں اذان اور اقامت دونوں دو دو مرتبہ کہی جائیں گی۔ یہ قول سفیان ثوری، ابن مبارک اور ابی کوفہ کا ہے۔ (۱)

اب ۱۴۱۔ مَا جَاءَ فِي التَّرْتِيلِ فِي الْأَذَانَ

باب ۱۴۱۔ اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنے سے متعلق

۱۷۱۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ نَا الْمُعَلَّى بْنِ إِسْدَانَ عَبْدِ الْمَنَعِمِ وَهُوَ صَاحِبُ السَّقَاءِ نَا يَحْيَى بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبَلَاءٍ يَا بَلَاءُ إِذَا أَذَنْتَ فَتَرَسَّلْ فِي أَذَانِكَ وَإِذَا أَقَمْتَ فَأَحْدَرْ وَأَجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرًا يَفْرُغُ الْأَكْلُ مِنْ أَكْلِهِ وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ وَالْمُعْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ وَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوُنِي

۱۷۱۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے بلال جب تم اذان دو تو ٹھہر ٹھہر کر اذان کہو اور جب اقامت کہو تو تیز تیز کہو۔ اور اذان اور تکبیر میں اتنا وقت رکھو کہ کھانے والا کھانے سے، پینے والا پینے سے اور قضاہ حاجت والا قضاہ حاجت سے فارغ ہو جائے۔ اور تم لوگ اس وقت تک نہ کھڑے ہو جب تک مجھے دیکھ نہ لو۔

عبد بن حمید ہم سے روایت کرتے ہیں ان سے یونس بن محمد نے اور ان سے عبدالمعمر نے اسی کے مثل بیان کیا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ہم چاہر کی اس حدیث کو عبدالمعمر کی سند کے علاوہ نہیں جانتے اور یہ سند مجہول ہے۔

باب ۱۴۲۔ مَا جَاءَ فِي رِاحَتِ الْأَصْبَحِ الْأَذَانَ عِنْدَ الْأَذَانَ

۱۷۲۔ حدثنا محمود بن غيلان نا عبدالرزاق نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَوْنِ ابْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ بِلَالَ لَا يُؤَدُّنُ وَيَذُورُ وَيُتْبِعُ قَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا وَأَصْبَحَاهُ فِي أَذْنِيهِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبُلِهِ حُمْرَاءُ أَرَاهُ قَالَ مِنْ أَدَمَ فَخَرَجَ بِلَالٌ بَيْنَ يَدَيْهِ بِالْعَنْزَةِ فَرَكَّزَهَا بِالْبَطْحَاءِ فَصَلَّى إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهِ وَسَلَّمَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حُمْرَاءُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَرِيْقِ سَاقِيهِ قَالَ سُفْيَانُ نَرَاهُ جِبْرَةً

۱۷۱۔ عون بن ابو جحیفہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: میں نے بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دیتے ہوئے دیکھا وہ اپنے منہ کو ادھر ادھر پھیرتے، ان کی دونوں انگلیاں دونوں کانوں میں تھیں اور رسول اللہ ﷺ اپنے سرخ خیمے میں تھے۔ راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ چڑے کا تھا۔ بلال رضی اللہ عنہ آگے آگے عصا (۱) لے کر چلے اور اسے میدان (بطحاء) میں گاڑ دیا۔ پھر حضور اکرم ﷺ نے اس کی طرف نماز پڑھی۔ آپ ﷺ کے ارد گرد تھے اور گدھے چل رہے تھے (یعنی اس لاشی کے آگے) آپ ﷺ کے جسم مبارک پر سرخ غلہ تھا۔ (۲) گویا کہ میں آپ ﷺ کی پنڈلیوں کی چمک دیکھ رہا ہوں سفیان کہتے ہیں میرا خیال ہے وہ بستی چادر کا ہوگا۔

امام ترمذی ہیں ابو جحیفہ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اس پر اہل علم کا عمل ہے کہ یہ حضرات مؤذن کے لیے اذان کے دوران انگلیوں کو کانوں میں ڈالنے کو مستحب کہتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں تکبیر کہتے ہوئے بھی انگلیاں کانوں میں ڈالے یہ قول اوزاعی کا ہے۔ ابو جحیفہ کا نام وہب سوانی ہے۔

باب ۱۴۳۔ مَا جَاءَ فِي الثَّوْبِ فِي الْفَجْرِ

۱۷۳۔ حدثنا احمد بن منيع نا ابو احمد الزبير نا ابو اسراييل عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن بلال قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تقنوتن في شيء من الصلوة الا في صلوة الفجر

باب ۱۴۳ فجر کی اذان میں تحویب کے متعلق۔ (۳)

۱۷۳۔ حضرت عبد اللہ بن ابی لیلیٰ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا فجر کی نماز کے علاوہ کسی دوسری نماز میں تحویب نہ کرو۔

(۱) عجزہ: ایسے عصا کہتے ہیں جس کے نیچے لوہا لگا ہوا ہو۔ (مترجم)

(۲) غلہ: اگر چادر اور تہبند ایک ہی قسم کا ہو تو اسے غلہ کہتے ہیں۔ (مترجم)

(۳) تحویب سے مراد فجر کی اذان میں ہی القلاح کے بعد الصلوٰۃ خمیر من النوم کہنا۔ (مترجم)

اس باب میں ابو محمد ورثہ سے بھی حدیث نقل کی گئی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں بلال کی حدیث کو ہم اسرائیل ملائی کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے۔ ابو اسرائیل نے یہ حدیث حکم بن عتبہ سے نہیں سنی۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے حسن بن عمارہ سے اور انہوں نے حکم بن عتبہ سے روایت کیا ہے۔ ابو اسرائیل کا نام اسماعیل بن ابواسحاق ہے اور یہ محدثین کے نزدیک قوی نہیں۔ تھویب کی تفسیر میں علماء کا اختلاف ہے بعض کا کہنا ہے کہ تھویب یہ ہے کہ فجر کی اذان میں ”الصلوة خیر من النوم“ کہے یہ ابن مبارک اور احمد کا قول ہے۔ اسحاق نے اس کے معنی کچھ اور بیان کیے ہیں ان کا کہنا ہے کہ لوگوں نے نبی اکرم ﷺ کے بعد یہ چیز نئی نکالی ہے کہ اذان دینے کے بعد اگر لوگ تاخیر کریں تو مؤذن اذان اور اقامت کے درمیان ”قد قامت الصلوٰۃ حتی علی الفلاح“ کے الفاظ کہے۔ یہی اسحاق بھی کہتے ہیں کہ تھویب کو اہل علم مکروہ سمجھتے ہیں اسے لوگوں نے حضور اکرم ﷺ کے بعد نکالا ہے۔ ابن مبارک اور احمد کی تھویب کے متعلق تفسیر کہ یہ فجر کی اذان میں ”لصلوة خیر من النوم“ کے الفاظ کہنا ہے یہی قول صحیح ہے۔ اسے تھویت بھی کہا جاتا ہے۔ یہی اہل علم نے اختیار کیا ہے۔ عبد اللہ بن عمر سے منقول ہے کہ وہ فجر کی نماز میں ”الصلوة خیر من النوم“ کہتے تھے۔ مجاہد سے منقول ہے کہ میں عبد اللہ بن عمر کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا اس میں اذان ہو چکی تھی ہم چاہتے تھے کہ وہاں نماز پڑھیں۔ مؤذن نے تھویب کی تو عبد اللہ بن عمر مسجد سے نکل آئے اور کہا: اس بدعتی کے پاس سے نکل چلو اور وہاں نماز نہیں پڑھی۔ عبد اللہ بن عمر اس تھویب کو مکروہ سمجھتے تھے جو لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کے بعد پیدا کی ہے۔

باب ۱۴۴۔ مَا جَاءَ أَنَّ مِنْ أَدْنٍ فَهُوَ يُقِيمُ

۱۷۴۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ عَبْدِ نَاصِرٍ وَعَلِيُّ بْنُ

يُوَيْسَرَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ بْنِ زِيَادِ بْنِ نَعِيمِ  
الْحَضْرَمِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ قَالَ أَمَرَنِي  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوذِّنَ فِي  
صَلَاةِ الْفَجْرِ فَأَذَّنْتُ فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ فَقَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُنْحَا صُدَاءَ  
قَدْ أَدَّنَ وَمَنْ أَدَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ

باب ۱۴۳۔ جو اذان کہے اسی کے کچھیر کہنے سے متعلق  
۱۷۳۔ حضرت زیاد بن حارث رضی اللہ عنہ صدائی فرماتے ہیں کہ مجھے  
رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ فجر کی اذان کہوں۔ میں نے اذان کہی۔  
بلال رضی اللہ عنہ نے جب اقامت کا ارادہ کیا تو حضور ﷺ نے فرمایا  
اذان تو صدائی نے دی ہے اور جس نے اذان دی ہے۔ وہی اقامت  
کہے۔

اس باب میں ابن عمر سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں حدیث زیاد کو ہم افریقی کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے اور افریقی محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔ یحییٰ بن سعید قطان وغیرہ نے انہیں ضعیف کہا ہے احمد کہتے ہیں میں افریقی کی حدیث نہیں لکھتا۔ ترمذی کہتے ہیں کئی ایسے قوی کہا کرتے اور کہتے کہ ان کی حدیث صحت کے قریب ہے۔ اس پر اکثر علماء کا عمل ہے کہ جو اذان دے وہی اقامت کہے۔

باب ۱۴۵۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْأَذَانِ بِغَيْرِ وَضُوءٍ

۱۷۵۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَجَرَ نَا الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمَ عَنْ  
مَعَاوِيَةَ بْنِ بَحْبَحَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤَذَّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئًا

باب ۱۴۳۔ بے وضو اذان دینا مکروہ ہے۔  
۱۷۵۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا:  
کوئی بغیر وضو کے اذان نہ دے۔

یحییٰ بن موسیٰ، عبداللہ بن وہب سے وہ یونس سے اور وہ ابن شہاب سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا: جس شخص کا وضو نہ ہو وہ اذان نہ دے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث پہلی حدیث سے صبح ہے۔ ابو ہریرہؓ کی حدیث کو وہب بن معبہ نے مرفوع نہیں کیا اور یہ ولید بن مسلم کی روایت سے صبح ہے۔ زہری نے ابو ہریرہؓ سے کوئی حدیث نہیں سنی۔ نیز اہل علم کا اختلاف ہے کہ بغیر وضو کیے اذان دینے کا کیا حکم ہے بعض اسے مکروہ کہتے ہیں یہ شافعی اور اسحاق کا قول ہے جبکہ بعض اہل علم اس کی اجازت دیتے ہیں یہ سفیان ثوری، ابن مبارک اور امام احمد کا قول ہے۔

باب ۱۴۶۔ مَا جَاءَ أَنَّ الْإِمَامَ أَحَقَّ بِالْإِقَامَةِ

باب ۱۴۶۔ اقامت کا حق امام کا ہے۔ (۱)

۱۷۶۔ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ مَوْسَىٰ نَا عَبْدِ الرَّزَاقِ نَا إِسْرَائِيلَ أَخْبَرَنِي سَمَّاكُ بْنُ حَرْبٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمْرَةَ يَقُولُ كَانَ مُؤَذِّنٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُنْهَلُ فَلَا يَقِيْمُ حَتَّىٰ إِذَا رَأَىٰ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ

۱۷۶۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے مؤذن اقامت میں اس وقت تک تاخیر کرتے، جب تک آنحضرت ﷺ کو نکلتے ہوئے دیکھ نہ لیتے۔ جب انہیں دیکھتے تو اقامت کہتے۔

امام ترمذی کہتے ہیں جابر بن سمرہ کی حدیث حسن ہے اور سماک کی حدیث کو ہم اس روایت کے علاوہ نہیں جانتے۔ بعض اہل علم اسی طرح کہتے ہیں کہ مؤذن کو اذان کا اور امام کو اقامت کا اختیار ہے۔

باب ۱۴۷۔ مَا جَاءَ فِي الْأَذَانِ بِالْبَيْلِ

باب ۱۴۷۔ رات کو اذان دینے سے متعلق

۱۷۷۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكَلَّمُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ تَسْمَعُوا تَأْذِينَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

۱۷۷۔ حضرت سالم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: بلالؓ تو رات کو اذان دے دیتے ہیں۔ تم لوگ کھاتے پیتے رہا کرو۔ یہاں تک کہ ابن ام مکتوم کی اذان سنو۔

امام ترمذی کہتے ہیں اسباب میں عبداللہ بن مسعود، عائشہ، جیسہ، انسؓ، ابو ذر اور سمرہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں حدیث ابن عمر حسن صحیح ہے۔ اہل علم کا رات کو اذان دینے میں اختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر مؤذن نے رات ہی کو اذان دے دی تو کافی ہے۔ اور اس کا لوٹنا ضروری نہیں۔ یہ قول ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اگر رات کو اذان دے تو دوبارہ دینا ضروری ہے یہ سفیان ثوری کا قول ہے۔ حماد بن سلمہ ابوب سے، وہ نافع سے اور وہ ابن عمرؓ سے نقل کرتے ہیں کہ بلالؓ نے رات کو اذان دی تو نبی کریم ﷺ نے انہیں حکم دیا کہ نداء لگائیں کہ بندہ سو گیا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غیر محفوظ ہے صحیح وہی ہے جو عبداللہ بن عمر وغیرہ نے نافع سے اور انہوں نے ابن عمرؓ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ بلالؓ تو رات کو اذان دیتے ہیں تم لوگ ابن ام مکتوم کی اذان تک کھاتے پیتے رہو۔ اور عبدالعزیز بن ابی بردہ نافع سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کے مؤذن نے رات کو اذان دی تو حضرت عمرؓ نے اسے دوبارہ اذان دینے کا حکم دیا۔ یہ صحیح نہیں اس لیے کہ نافع کی حضرت عمرؓ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ شاید حماد بن سلمہ

(۱) اس کا مطلب یہ ہے کہ اقامت اسی وقت کہی جائے جب امام چاہے۔ (حرم)

نے اس حدیث کا ارادہ کیا ہو۔ صحیح روایت عبداللہ بن عمرو کی حضرات کی ہے مضاف سے اور وہ ابن عمر اور زہری سے وہ سالم سے اور وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: بلال رات کو اذان دے دیتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ اگر حدیث صحیح ہوتی تو اس روایت کے کوئی معنی نہ ہوتے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ بلال رات کو اذان دے دیتے ہیں۔ آپ ﷺ نے انہیں اس حدیث میں آئندہ کے لیے حکم دیا ہے کہ بلال تو رات کو اذان دیتے ہیں اگر آپ ﷺ نے انہیں طلوع فجر سے پہلے دوبارہ اذان دینے کا حکم دیا ہوتا تو یہ نہیں کہتے کہ بلال رات کو اذان دیتے ہیں۔ علی بن مدینی کہتے ہیں حدیث ابن مسعود کی ایوب سے مروی حدیث غیر محفوظ ہے اسے ایوب، مضاف سے وہ ابن عمر سے اور وہ حضور اکرم ﷺ سے نقل کرتے ہیں اس میں حدیث ابن مسعود کو خطا ہوئی ہے۔

باب ۱۴۸۔ مَا جَاءَ فِي تَكْرَاهِيَةِ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْآذَانِ

۱۷۷۔ حَدَّثَنَا هِنَادٌ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سَفْيَانَ بْنِ أَبِي مَهَاجِرٍ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا أُذِّنَ فِيهِ بِالْعَصْرِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا هَذَا فَقَدْ غَضِيَ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

۱۷۸۔ حضرت ابو الشعثاء فرماتے ہیں کہ ایک شخص عصر کی اذان کے بعد مسجد سے باہر نکلا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بے شک اس شخص نے ابوالقاسم کی نافرمانی کی۔

امام ترمذی کہتے ہیں اس باب میں عثمان سے بھی حدیث منقول ہے۔ حدیث ابو ہریرہ حسن صحیح ہے۔ صحابہ اور ان کے بعد کے اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ اذان کے بعد مسجد سے بغیر عذر کے کوئی شخص نہ نکلے یعنی وضو نہ ہو یا کوئی ضروری کام ہو۔ ابراہیم نخعی سے منقول ہے کہ مؤذن کے اقامت کہنے تک نکل سکتا ہے۔ ترمذی کہتے ہیں ہمارے نزدیک یہ اس کے لیے ہے جس کے پاس نکلنے کے لیے عذر ہو۔ ابو شعثاء کا نام سلیم بن اسود ہے یہ اشعث بن الوضوء کے والد ہیں۔ یہ حدیث اشعث بن الوضوء نے بھی اپنے والد سے نقل کی ہے۔

باب ۱۴۹۔ مَا جَاءَ فِي الْآذَانِ فِي السَّفَرِ

۱۷۹۔ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غِيلَانَ نَا وَكَيْعٌ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ خَالِدِ الْحِذَاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَابْنُ عَمِّ لِي فَقَالَ لَنَا إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيمْنَا وَلْيُؤْمِرْكُمَا أَكْبَرُكُمَا

۱۷۹۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا: جب تم سفر کرو۔ تو اذان کہو، اقامت کہو اور تم میں سے بڑا امامت کرے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس پر اکثر اہل علم کا عمل ہے کہ سفر میں اذان دی جائے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اقامت ہی کافی ہے اذان تو اس کے لیے ہے جو لوگوں کو جمع کرنا چاہے پہلا قول اصح ہے اور یہی احمد اور اسحاق کا قول ہے۔

۱۸۰۔ حدثنا محمد بن حميد الرازي ثنا ابو تميلة  
 نا ابو حمزة عن جابر عن مُجاهِدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ  
 النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدَّى سَبْعَ  
 سِنِينَ مُحْتَسِبًا كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ

۱۸۰۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص سات برس تک ثواب کی نیت سے اذان دیتا رہے اس کے لئے دوزخ سے برأت لکھی گئی۔

امام ترمذی کہتے ہیں اس باب میں ابن مسعود، ثوبان، معاویہ، انس، ابو ہریرہ اور ابوسعید سے بھی روایت ہے حدیث ابن عباس غریب ہے۔ ابو حمید کا نام یحییٰ بن واضح اور ابو حمزہ شکر کی کا محمد بن میمون ہے اور جابر بن یزید جعفر کو علماء نے ضعیف کہا ہے۔ یحییٰ بن سعید اور عبد الرحمن بن مہدی نے ابن سے روایت لیتا ترک کر دیا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں میں نے جابریہ کو کہتے ہوئے سنا کہ وہ کہتے ہیں: اگر جابر جعفر نہ ہوتے تو اہل کوفہ حدیث کے بغیر رہ جاتے اور اگر حماد نہ ہوتے تو فقہ کے بغیر۔

باب ۱۵۱۔ مَا جَاءَ أَنَّ الْأِمَامَ ضَامِنًا وَالْمُؤَدِّنَ مُؤْتَمِنًا

باب ۱۵۱۔ امام مقتدیوں کا ضامن اور مؤذن امانت دار ہے۔

۱۸۱۔ حدثنا هنادنا ابو الاحرص و ابو معاوية عن  
 الاعمش عن أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ  
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْأِمَامُ ضَامِنٌ  
 وَالْمُؤَدِّنُ مُؤْتَمِنٌ اللَّهُمَّ ارْشِدِ الْأَيْمَةَ وَأَعِزِّزْ  
 لِلْمُؤَدِّينَ

۱۸۱۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: امام ضامن اور مؤذن امانت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ! ائمہ کو ہدایت پر رکھ اور مؤذنین کی معفرت فرما۔

امام ترمذی کہتے ہیں اس باب میں عائشہ، بکیر بن سعد اور عقبہ بن عامر سے بھی احادیث منقول ہیں۔ ابو ہریرہ کی حدیث سفیان ثوری، حفص بن غیاث اور کئی حضرات نے اعمش سے انہوں نے ابوصالح سے انہوں نے ابو ہریرہ سے اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے نقل کی ہے۔ اسباط بن محمد اعمش سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ حدیث مجھے ابوصالح سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں۔ میں نے ابوزر سے سنا: ابوصالح کی ابو ہریرہ سے منقول حدیث، انہی کی حضرت عائشہ سے منقول حدیث صحیح ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں میں نے بخاری کو کہتے ہوئے سنا حدیث ابوصالح بحوالہ عائشہ سے منقول حدیث صحیح ہے۔ اور علی بن مدینی سے مذکور ہے کہ ابوصالح کی ابو ہریرہ سے مروی حدیث ثابت نہیں اور نہ ہی ابوصالح کی حضرت عائشہ سے منقول حدیث۔

باب ۱۵۲۔ مَا يَقُولُ إِذَا أَدَّى الْمُؤَدِّنُ

باب ۱۵۲۔ مؤذن جب اذان دے تو سننے والا کیا کہے؟

۱۸۲۔ حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري  
 نامعن نا مالك ح وثنا قتيبة عن مالك عن  
 الزهري عن عطاء بن يزيد اللثبي عن أبي سعيد  
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا

۱۸۲۔ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم اذان سنو تو اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے (یعنی وہی کلمات کہو)

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا

سَمِعْتُمْ الْبِدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَدِّنُ

اس باب میں ابورافع، ابو ہریرہ، ام حبیبہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن ربیعہ، عائشہ، معاذ بن انس اور معاویہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابوسعید کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اسی طرح معمر اور کئی راوی زہری سے مالک کی حدیث کی مانند بیان کرتے ہیں۔ عبدالرحمن بن اسحاق نے یہ حدیث زہری سے روایت کی ہے۔ وہ سعید بن مسیب سے وہ ابو ہریرہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں جب کہ مالک کی روایت اصح ہے۔

باب ۱۵۳۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَأْخُذَ الْمُؤَدِّنُ

عَلَى الْإِذَانِ أَجْرًا

۱۸۳۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ أَبِي زَبِيدٍ عَنْ اشْعَثِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ إِنَّ مِنْ أَجْرِمَا عَهْدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ آتَيْتُكَ مُؤَدِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَيَّ إِذَانِهِ أَجْرًا

۱۸۲۔ حضرت عثمان بن ابوالعاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی مجھے آخری وصیت یہ تھی کہ ایسا مؤذن مقرر کروں جو اپنی اذان پر اجرت نہ لے۔

امام ترمذی کہتے ہیں حدیث عثمان حسن ہے اور اسی پر اہل علم کا عمل ہے کہ مؤذن کے لیے اذان پر اجرت لینا مکروہ ہے اور مؤذن کے لیے مستحب ہے کہ ثواب اخروی کے لیے اذان دے۔

باب ۱۵۴۔ مَا يَقُولُ إِذَا أَدَّنَ الْمُؤَدِّنُ مِنَ الدُّعَاءِ

۱۸۴۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ الْحَكِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ جِئْتُ بِسَمْعِ الْمُؤَدِّنِ جِئْتُ بِوَدْدِ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا غَفَرَ اللَّهُ ذُنُوبَهُ

باب ۱۵۲۔ مؤذن جب اذان دے تو سننے والا کیا دعا پڑھے؟

۱۸۳۔ سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص مؤذن کی اذان سننے کے بعد یہ کہے "و انا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضىت بالله ربنا وبالاسلام ديننا و بمحمد رسولا" (یعنی میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد ﷺ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں اللہ کی ربوبیت، اسلام کے دین ہونے اور محمد ﷺ کے رسول ہونے پر راضی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمادیتے ہیں۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے ہم اسے لیث بن سعد کی حکیم بن عبداللہ بن قیس کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے۔

باب ۱۵۵۔ مِنْهُ أَيْضًا

۱۸۵۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرِ الْبَغْدَادِيِّ وَابْرَاهِيمُ يَعْقُوبُ قَالَا نَا عَلِيُّ بْنُ عِيَاشٍ نَا شَعِيبُ بْنُ أَبِي حَمْرَةَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

۱۸۵۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے اذان سننے کے بعد یہ کہا: "اللهم رب هذه الدعوة للثامة والصلوة القائمة ات محمد بالوسيلة والفضيلة وابعثه مقلدا لمحمد ان الذي وعدته" (ترجمہ: اے اللہ اس کامل دعا کے

مالک اور نماز قائمہ کے پروردگار محمد ﷺ کو وسیلہ اور بزرگی عطا فرما اور ان کو مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے) تو قیامت کے دن اس کے لئے میری شفاعت حلال ہوگی۔

وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةَ التَّامَّةَ وَالصَّلَاةَ الْقَائِمَةَ ابْنِ مُحَمَّدًا نِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا نِ الَّذِي وَعَدْتَهُ اِلَّا حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

امام ترمذی کہتے ہیں جابرؓ کی حدیث محمد بن منکدر کی روایت سے حسن غریبؒ سے تم نہیں جانتے کہ اسے شعیب بن ابی حمزہ کے علاوہ کسی اور نے روایت کیا ہو۔

باب ۱۵۶۔ اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دُعا رُو نہیں کی جاتی

۱۸۶۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا کبھی رُو نہیں کی جاتی۔ (یعنی ہمیشہ قبول ہوتی ہے)

باب ۱۵۶۔ مَا جَاءَ اَنَّ الدُّعَاءَ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ

۱۸۶۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ نَا وَكَيْعٌ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابُو اِحْمَدَ وَابُو نَعِيْمٍ قَالُوْنَا سَفِيَانُ عَنْ زَيْدِ الْعَمِي عَنْ اَبِي اِيَّاسٍ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهٖ وَسَلَّمَ الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ

امام ترمذی کہتے ہیں حدیث انسؓ حسن ہے اور اسے ابن اسحاق ہمدانی نے برید بن ابی مریم سے انہوں نے انسؓ سے اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے اسی کے مثل بیان کیا ہے۔

باب ۱۵۷۔ اللہ تعالیٰ بے بندوں پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟

۱۸۷۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ پر شب معراج میں پچاس نمازیں فرض کی گئیں۔ پھر ان میں کمی کی گئی یہاں تک کہ پانچ رہ گئیں۔ پھر آواز دی گئی: اے محمد ﷺ ہمارے قول میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ آپ ﷺ کے لئے ان پانچ کا پچاس کے برابر ثواب ہے۔

باب ۱۵۷۔ مَا جَاءَ كَمَا فَرَضَ اللّٰهُ عَلٰى عِبَادِهِ مِنْ الصَّلٰوَاتِ

۱۸۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرُ عَنْ الزُّهْرِيَّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فُرِضَتْ عَلٰى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهٖ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ اُسْرِيْ بِهٖ الصَّلٰوةُ خَمْسِيْنَ ثُمَّ نَقِصَتْ حَتّٰى جُعِلَتْ خَمْسًا ثُمَّ تُوَدِّيْ يَا مُحَمَّدُ اِنَّهٗ لَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَاِنَّ لَكَ بِهٰذَا الْخَمْسِ خَمْسِيْنَ

اس باب میں عبادہ بن صامتؓ، طلحہ بن عبد اللہ، ابو قتادہ، ابو ذر، مالک بن صعصعہ اور ابو سعید خدریؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں انسؓ کی حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۵۸۔ پنجگانہ نماز کی فضیلت۔

۱۸۸۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پانچ نمازیں اور ایک جمعہ، آئندہ جمعہ تک گناہوں کا کفارہ ہے

باب ۱۵۸۔ فِيْ فَضْلِ الصَّلٰوَاتِ الْخَمْسِ

۱۸۸۔ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَجْرٍ نَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَاةُ  
الْحَمْسُ وَالْحَمْمَةُ إِلَى الْجَمْعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ  
مَا لَمْ يُغْشِ الْكَبَائِرُ

(صغیرہ گناہوں کا) بشرطیکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔

اس باب میں جابرؓ، انسؓ اور حنظلہؓ اسیدی سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۵۹۔ جماعت کی فضیلت۔

باب ۱۵۹۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْجَمَاعَةِ

۱۸۹۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جماعت کے ساتھ نماز اکیلے نماز پڑھنے سے ستائیس درجے افضل ہے۔

۱۸۹۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

اس باب میں عبد اللہ بن مسعودؓ، ابی بن کعبؓ، معاذ بن جبلؓ، ابوسعیدؓ، ابو ہریرہؓ اور انس بن مالکؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی

کہتے ہیں حدیث ابن عمر حسن صحیح ہے۔ اسی طرح نافع نے بھی ابن عمرؓ سے اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے روایت کیا ہے کہ جماعت کی نماز منفرد کی نماز سے ستائیس درجے افضل ہے اکثر راویوں نے نبی اکرم ﷺ سے روایت کیا ہے کہ پچیس درجے، سوائے ابن عمرؓ کے کہ انہوں نے فرمایا ستائیس درجے۔

۱۹۰۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جماعت سے نماز ادا کرنے والے شخص کی نماز اس کے اکیلا پڑھنے سے پچیس درجے افضل ہوتی ہے۔

۱۹۰۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيِّ نَا مَعْنِ نَا مَالِكُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۶۰۔ جو شخص اذان سے اور نماز کے لئے نہ پہنچے۔

باب ۱۶۰۔ مَا جَاءَ فِيمَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَا يُجِيبُ

۱۹۱۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میں نے ارادہ کیا کہ اپنے جوانوں کو حکم دوں کہ لکڑیوں کا ڈھیر جمع کریں پھر میں نماز کا حکم دوں اور تکبیر کہی جائے پھر ان کے گھروں کو جلا دوں، جو نماز میں حاضر نہیں ہوئے۔

۱۹۱۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَرْقَانَ عَنْ يَزِيدِ بْنِ الْأَسَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ فِتْنَتِي أَنْ يَجْمَعُوا حُزْمَ الْحَطَبِ بِيْ أَمْرًا بِالصَّلَاةِ فَتَقَامَ ثُمَّ أَحْرِقَ عَلَى أَقْوَامٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ

اس باب میں ابن مسعودؓ، ابوالدرداءؓ، ابن عباسؓ، معاذ بن انسؓ اور جابرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ابو ہریرہؓ

حسن صحیح ہے اور کئی صحابہ سے مروی ہے کہ جو شخص اذان سے اور نماز کے لیے مسجد میں حاضر نہ ہو۔ اس کی نماز نہیں ہوتی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ تغلیظ اور تشدید کے معنی میں ہے اور کسی شخص کے لیے جماعت کو ترک کرنے کی اجازت نہیں الایہ کہ کوئی عذر ہو۔ مجاہد کہتے ہیں:

ابن عباسؓ سے ایسے شخص کے متعلق سوال کیا گیا جو دن میں روزے رکھتا ہو اور رات بھر نماز پڑھتا ہو لیکن نہ جمعہ میں حاضر ہوتا ہے اور نہ جماعت میں فرمایا: وہ جہنمی ہے۔ ہم سے اسے ہناؤ نے روایت کیا ہے وہ بخاری سے وہ لیث سے اور وہ مجاہد سے نقل کرتے ہیں۔ اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ وہ شخص جمعہ اور جماعت میں قصد نہ حاضر ہوتا ہو یا تکبر کی وجہ سے یا جماعت کو حقیر سمجھ کر۔

باب ۱۶۱۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ ثُمَّ يُذْرِكُ الْجَمَاعَةَ  
باب ۱۶۱۔ اس شخص کے متعلق جو اکیلا نماز پڑھ چکا ہو پھر جماعت پائے۔

۱۹۲۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَلَّى مَعَ رَجُلٍ يَزِيدُ بِنِ الْآسُودِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ انْحَرَفَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي أُخْرَى الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيْهِ مَعَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ بِهِمَا فَجِئْتُ بِهِمَا تَرَعُدُ فَرَأَيْتُهُمَا فَقَالَ مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِخَالِنَا قَالَ فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِخَالِكُمَا ثُمَّ آتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ

۱۹۲۔ جابر بن یزید الاسود اپنے والد کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حج میں شریک تھا۔ میں نے آپ ﷺ کے ساتھ فجر کی نماز مسجد خیف میں پڑھی جب نماز ختم ہوئی تو آنحضرت ﷺ ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ اور دو آدمیوں کو دیکھا کہ انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا انہیں میرے پاس لاؤ پس ان کو لایا گیا ان کی رگیں خوف سے پھڑکنے لگیں۔ آپ ﷺ نے پوچھا تمہیں ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیز نے روکا؟ انہوں نے عرض کیا ہم نے اپنی منزلوں میں نماز پڑھ لی تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ایسا نہ کیا کرو اگر تم نے اپنی منزلوں میں نماز پڑھ بھی لی ہو اور پھر تم جماعت والی مسجد میں آؤ تو ان کے ساتھ نماز پڑھو وہ تمہارے لئے نفل ہوگی۔

اس باب میں مجنوں اور یزید بن عامرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں۔ یزید بن اسود کی حدیث حسن صحیح ہے اور یہ کئی علماء کا قول ہے۔ شافعی، سفیان ثوری، احمد اور اسحاق بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھ چکا ہو پھر جماعت پالے تو تمام نمازیں جماعت میں لوٹا سکتا ہے۔ اور اگر مغرب اکیلے پڑھی ہو پھر جماعت مل گئی تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اور اس میں ایک رکعت ملا کر اسے جفت کر دے نیز جو نماز اس نے اکیلے میں پڑھی ہوگی وہی فرض ہوگی۔

باب ۱۶۲۔ مَا جَاءَ فِي الْجَمَاعَةِ فِي مَسْجِدٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ مَرَّةً  
باب ۱۶۲۔ اس مسجد میں دوسری جماعت سے متعلق جس میں ایک جماعت ہو چکی ہو۔

۱۹۳۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ عَبْدِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ سَلِيمَانَ النَّاجِي عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّكُمْ يَتَجَرُّ عَلَيَّ هَذَا فَقَامَ رَجُلٌ وَصَلَّى مَعَهُ

۱۹۳۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے نماز پڑھ لینے کے بعد آیا آپ ﷺ نے فرمایا: اس شخص کے ساتھ کون تجارت کرے گا۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ نماز پڑھ لی (یعنی اس کے ساتھ شریک ہو جائے تاکہ جماعت کا ثواب دونوں کو مل جائے ورنہ وہ شخص اس سے محروم رہتا)

اس باب میں ابوامامہؓ، ابوموسیٰؓ اور حکم بن عمیرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت ابوسعیدؓ کی حدیث حسن ہے اور یہی قول صحابہ و تابعین میں سے کئی اہل علم کا ہے کہ جس مسجد میں جماعت ہو چکی ہو۔ اس میں دوبارہ جماعت کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ احمد اور اسحاق بھی یہی کہتے ہیں بعض علماء کا کہنا ہے کہ وہ اپنی اپنی نماز پڑھیں گے (یعنی جماعت نہیں کریں گے) یہ قول سفیان ثوری، ابن مبارک، مالک اور شافعی کا ہے ان کا مسلک یہ ہے کہ وہ الگ الگ نماز پڑھیں۔

باب ۱۶۳۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ

۱۹۴۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اس کے لئے آدھی رات (کی عبادت) کا ثواب ہے اور جس نے عشاء اور فجر دونوں جماعت کے ساتھ پڑھیں گویا کہ ساری رات جاگا۔ (یعنی پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ہے)

۱۹۴۔ حدثنا محمود بن غيلان نا بشر بن السري نا سفیان عن عثمان بن حكيم عن عبدالرحمن بن ابي عمرَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ قِيَامٌ نِصْفِ لَيْلَةٍ وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ

اس باب میں ابن عمرؓ، ابو ہریرہؓ، انسؓ، عمارہؓ ابن ابورویہؓ، جندبؓ، ابی بن کعبؓ، ابوموسیٰؓ اور بریدہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔

۱۹۵۔ حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے۔ لہذا اللہ کی پناہ نہ توڑو۔

۱۹۵۔ حدثنا محمود بن بشار نا يزيد بن هارون نا داؤد بن ابي هند عن الحسن بن جندب بن سفیان عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا تُخْفَرُ وَاللَّهُ فِي ذِمَّتِهِ

امام ترمذی کہتے ہیں حدیث عثمان حسن صحیح ہے یہ حدیث عبدالرحمن بن ابی عمرہ سے بھی بحوالہ عثمان موقوفاً منقول ہے۔ اور کئی سندوں سے حضرت عثمانؓ ہی سے مرفوعاً بھی مروی ہے۔

۱۹۶۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ الاسلمی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چلنے والوں کو قیامت کے دن کامل نور کی بشارت دو۔

۱۹۶۔ حدثنا عباس العنبري نا يحيى بن كثير ابو غسان العنبري عن اسمعيل الكحال عن عبد الله بن اوس الخزاعي عن بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِشْرِ الْمَسَائِينَ فِي الظُّلْمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

یہ حدیث غریب ہے۔

باب ۱۶۴۔ پہلی صف کی فضیلت۔

باب ۱۶۴۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ

۱۹۷۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

۱۹۷۔ حدثنا قتيبة نا عبدالعزیز بن محمد عن

مردوں کی صفوں میں سب سے بہتر پہلی صف اور سب سے بدتر آخر صف ہے جب کہ عورتوں کی صفوں میں سب سے بہتر آخری صف اور سب سے بدتر پہلی صف ہے۔

سهیل بن ابی صالح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أُولَاهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أُولَاهَا

اس باب میں جابر، ابن عباس، ابوسعید، ابو عاتشہ، عمر باض بن ساریہ اور انسؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ابو ہریرہ حسن صحیح ہے۔ حضور اکرم ﷺ سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ ﷺ پہلی صف کے لیے تین مرتبہ اور دوسری صف کے لیے ایک مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: اگر لوگوں کو علم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے پر کیا اجر ہے اور پھر بغیر قرعہ اندازی کے اسے حاصل نہ کر سکیں تو بے شک قرعہ ڈالنے لگیں۔ اسحاق بن موسیٰ انصاری ہم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے معنی سے اور انہوں نے مالک سے اسے نقل کیا ہے۔ قتیبہ، مالک سے وہ بھی سے وہ ابوصالح سے وہ ابو ہریرہ سے اور وہ حضور اکرم ﷺ سے اس کے مثل نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۶۵۔ مَا جَاءَ فِي إِقَامَةِ الصُّفُوفِ

باب ۱۶۵۔ صفیں سیدھی کرنے سے متعلق۔

۱۹۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ بْنُ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ سَمَّاكَ بْنِ حَرْبٍ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا فَخَرَجَ يَوْمًا فَرَأَى رَجُلًا خَارِجًا صَدْرَهُ عَنِ الْقَوْمِ فَقَالَ لَتَسَوِّيَنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ

۱۹۸۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہماری صفوں کو درست فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ نکلے تو ایک شخص آ دیکھا اس کا سینہ صف سے بڑھا ہوا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم لوگ اپنی صفوں کو سیدھا کرو (برابر کرو) ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں پھوٹ ڈال دے گا۔

اس باب میں جابر بن سمرہ، براء، جابر بن عبد اللہ، انسؓ، ابو ہریرہ اور حضرت عائشہؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں نعمان بن بشیر کی حدیث حسن صحیح ہے نیز حضور اکرم ﷺ سے منقول ہے کہ صفوں کو سیدھا کرنا، نماز کو پورا کرنے میں شامل ہے۔ حضرت عمرؓ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صفیں سیدھی کرنے کے لیے ایک آدمی مقرر کرتے اور اس وقت تک تکبیر نہ کہتے جب تک انہیں بتا نہ دیا جاتا کہ صفیں سیدھی ہو گئیں۔

باب ۱۶۶۔ مَا جَاءَ لِيَلْبِنِي مِنْكُمْ أَوْلُوا الْأَحْلَامَ وَالنُّهْيَ

باب ۱۶۶۔ حضور اکرم ﷺ کا ارشاد کہ اہل بصیرت و عقل میرے قریب رہا کریں۔

۱۹۹۔ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ نا خَالِدَ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي مَعْشَرَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَلْبِنِي مِنْكُمْ أَوْلُوا الْأَحْلَامَ وَالنُّهْيَ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَلَا تَحْتَلَفُوا فَتَحْتَلَفَ قُلُوبُكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ

۱۹۸۔ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے اہل بصیرت و عقل لوگ میرے قریب کھڑے ہوں۔ پھر جو ان کے قریب ہوں (یعنی بصیرت و عقل میں) اور آپس میں اختلاف نہ کرو تا کہ تمہارے دلوں میں پھوٹ نہ پڑ جائے اور بازاروں کے شور و غل سے باز رہو۔

اس باب میں ابی بن کعب، ابن مسعود، ابوسعید، براء اور انس سے بھی احادیث نقل کی جاتی ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کی حدیث حسن غریب ہے۔ حضور اکرم ﷺ سے منقول ہے کہ آپ ﷺ کو مہاجرین اور انصار کا ان کے قریب رہنا پسند تھا تا کہ وہ آپ ﷺ سے مسائل سیکھیں اور یاد رکھیں۔ اور خالد الخداء خالد بن مہران ہیں ان کی کنیت ابوالمنازل ہے میں نے بخاری کو کہتے ہوئے سنا کہ خالد الخداء (۱) نے کبھی کوئی جوتا نہیں بنایا وہ ایک جوتے بنانے والے کے پاس بیٹھا کرتے تھے اسی کی طرف منسوب ہو گئے۔ ابو معشر کا نام زیاد بن کلیب ہے۔

توضیح: یہ حکم اس لیے تھا کہ اگر اختلاف (۲) کی ضرورت ہو تو امامت کے لائق کوئی شخص فوراً مل جائے، بھولنے کی صورت میں لقمہ دیا جاسکے اور یہ آنحضرت ﷺ کی نماز کو اچھی طرح دیکھ کر دوسروں تک پہنچا سکیں۔ (مترجم)

باب ۱۶۷۔ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّفِّ بَيْنَ ۱۶۷۔ ستونوں کے درمیان صف بنانا مکروہ ہے۔ السَّوَارِي

۲۰۰۔ عبد الحمید بن محمود کہتے ہیں ہم نے امراء میں سے ایک امیر کے پیچھے نماز پڑھی ہمیں لوگوں نے مجبور کیا تو ہم نے دو ستونوں کے درمیان نماز پڑھی اور جب فارغ ہوئے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہم رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں اس سے پرہیز کیا کرتے تھے۔

۲۰۰۔ حَدَّثَنَا هِنَادَانَا وَكَيْعُ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِيَةَ بْنِ عُرْوَةَ الْمُرَادِيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ قَالَ صَلَّيْنَا خَلْفَ أَمِيرٍ مِنَ الْأَمْرَاءِ فَاضْطَرَّنَا النَّاسُ فَصَلَّيْنَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَلَمَّا صَلَّيْنَا قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

اس باب میں قرہ بن ایاس مزنی بھی حدیث بیان کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت انس کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض علماء ستونوں کے درمیان صف بنانے کو مکروہ سمجھتے ہیں یہ احمد اور اسحاق کا قول ہے جب کہ بعض اہل علم اس کی اجازت دیتے ہیں۔

باب ۱۶۸۔ مَاجَاءَ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحَدَهُ

۲۰۱۔ ہلال بن یساف کہتے ہیں زیاد بن ابی الجعد نے رقدہ کے مقام پر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ ایک شیخ کے پاس لے گئے۔ انہیں داہستہ بن معبد کہا جاتا ہے وہ قبیلہ بنی اسد سے تھے۔ زیاد نے کہا مجھ سے اس شیخ نے روایت کی کہ ایک شخص نے صف کے پیچھے نماز پڑھی (اور شیخ سن رہے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے اسے دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا۔

۲۰۱۔ حَدَّثَنَا هِنَادَانَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ أَخَذَ زَيْدًا بِنِ أَبِي الْجَعْدِ بِيَدَيْهِ وَنَحْنُ بِالرَّقَةِ فَقَامَ بِي عَلَى شَيْخٍ يُقَالُ لَهُ وَابِصَةُ بْنُ مَعْبُدٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ فَقَالَ زَيْدٌ حَدَّثَنِي هَذَا الشَّيْخُ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحَدَهُ وَالشَّيْخُ يَسْمَعُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ

(۱) الخداء جوتے بنانے والے کو کہتے ہیں۔ (مترجم)

(۲) اختلاف کے معنی یہ ہیں کہ اگر بوقت ضرورت امام کو نماز ترک کر کے جانا پڑے تو امام کسی شخص کو اپنی جگہ امامت کے لیے آگے کر سکے (مترجم)

اس باب میں علی بن شیبان اور انس سے بھی احادیث منقول ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں واپسہ کی حدیث حسن ہے۔ علماء کی ایک جماعت نے کسی شخص کے صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنے کو مکروہ کہا ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ اگر اس نے اکیلے نماز پڑھی تو اسے لوٹانی ہوگی۔ یہ قول احمد اور اسحاق کا ہے بعض اہل علم کے نزدیک اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ سفیان ثوری، ابن مبارک اور امام شافعی کا قول ہے۔ اہل کوفہ میں سے بھی علماء کی ایک جماعت واپسہ کی حدیث پر عمل کرتی ہے ان حضرات کا کہنا بھی یہی ہے کہ جس نے صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھی ہو وہ نماز کو دہرائے ان میں حماد بن ابی سلیمان، ابن ابی لیلیٰ اور کعب شامل ہیں۔ حدیث حصین، ہلال بن یساف سے کئی راویوں نے ابوالاحوص کی زیاد بن ابوالجعد سے اور ان کی واپسہ سے روایت کے مثل بیان کی ہے۔ حصین کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہلال نے واپسہ کا زمانہ پایا ہے محدثین کا اس بارے میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں عمرو بن مرہ کی ہلال بن یساف سے مروی حدیث صحیح ہے ہلال عمرو بن راشد سے اور وہ واپسہ سے روایت کرتے ہیں۔ بعض محدثین کا کہنا ہے کہ حصین کی ہلال بن یساف سے مروی حدیث صحیح ہے وہ زیاد بن ابی جعد سے اور وہ واپسہ بن سعید سے روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ حدیث عمرو بن مرثدہ کی حدیث سے صحیح ہے۔ اس لئے کہ ہلال بن یساف سے کئی احادیث اسی سند کے ساتھ مروی ہیں کہ وہ زیاد بن ابی جعد سے اور وہ واپسہ بن معبد سے روایت کرتے ہیں۔ محمد بن بشار، محمد بن جعفر سے وہ شعبہ سے وہ عمرو بن مرثدہ سے وہ زیاد بن ابی جعد سے اور وہ واپسہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا اور محمد بن بشار، محمد بن جعفر سے وہ شعبہ سے وہ عمرو بن مرہ سے وہ ہلال بن یساف سے وہ عمرو بن راشد سے اور وہ واپسہ بن معبد سے روایت کرتے ہیں کہ ”ایک شخص نے صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھی تو آپ ﷺ نے اسے نماز لوٹانے کا حکم دیا“ امام ترمذی کہتے ہیں جارو کعب کے متعلق کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر کسی شخص نے صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھی تو اسے لوٹائے گا۔

مسئلہ: حنفیہ نے اس میں تفصیل بیان کی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں ایسے وقت پہنچے جب کہ صف مکمل ہو چکی ہو تو پیچھے اکیلے کھڑے ہونے والے شخص کو چاہیے کہ وہ کسی اور شخص کے آنے کا انتظار کرے۔ اگر رکوع تک کوئی نہ آئے تو اگلی صف سے کسی کو کھینچ کر اس کے ساتھ نماز پڑھے۔ البتہ اگر اس میں ایذا کا اندیشہ ہو یا لوگ جاہل ہوں اور اس عمل سے کسی فتنے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں تنہا کھڑے ہو کر نماز پڑھ لینا جائز ہے حنفیہ اپنے مسلک پر حضرت ابو بکرؓ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ انہوں نے تنہا کھڑے ہو کر نبی کریم ﷺ کے ساتھ رکوع کر لیا تھا تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”زادک اللہ حرصاً ولا تعد“ یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری حرص کو زیادہ کرے دوبارہ ایسا نہیں کرنا۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ صفوں کے پیچھے اکیلے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ حدیث باب کے متعلق یہ حضرات کہتے ہیں نماز کو لوٹانے کا یہ حکم استحباب پر محمول ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۱۶۹۔ اس شخص کے متعلق جس کے ساتھ نماز پڑھنے والا ایک ہی شخص ہو۔

۲۰۲۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم ﷺ کے ساتھ ایک رات نماز پڑھی۔ میں آپ ﷺ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ آپ ﷺ نے میرا سر پیچھے سے پکڑا اور دہنی طرف کھڑا کر دیا۔

باب ۱۶۹۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَمَعَهُ رَجُلٌ

۲۰۲۔ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ كَرِيبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي

فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ

اس باب میں انسؓ سے بھی حدیث منقول ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ابن عباس حسن صحیح ہے۔ اہل علم صحابہ اور بعد کے علماء کا یہی عمل ہے کہ اگر امام کے ساتھ ایک ہی شخص ہو تو امام کے دائیں کھڑا ہوگا۔

باب ۱۷۰۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي مَعَ الرَّجُلَيْنِ  
باب ۱۷۰۔ اس شخص کے متعلق جس کے ساتھ نماز پڑھنے کے لئے دو آدمی ہوں۔

۲۰۳۔ حَدَّثَنَا بِنْدَارٌ مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدَى قَالَ ابْنَانَا اسْمُعِيلُ بْنُ مَسْعُومٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنَّا ثَلَاثَةً أَنْ يَتَقَدَّمَ مِنَّا أَحَدُنَا

۲۰۳۔ حضرت سمیرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں حکم دیا کہ اگر ہم تین شخص ہوں تو ہم میں سے ایک آگے بڑھ کر امامت کرے۔

اس باب میں ابن مسعود اور جابرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ سمیرہؓ کی حدیث غریب ہے اور علماء کا اس پر عمل ہے کہ اگر تین آدمی ہوں تو دو امام کے پیچھے کھڑے ہوں۔ حضرت ابن مسعودؓ سے منقول ہے کہ انہوں نے عاتقہ اور اسود کی امامت کی تو ایک کو دائیں اور دوسرے کو بائیں کھڑا کیا۔ اور اسے رسول اللہ ﷺ سے نقل کیا۔ اور بعض حضرات اسماعیل بن مسلم کے حافظے پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان کا حافظہ اچھا نہیں تھا۔

باب ۱۷۱۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي مَعَ رَجَالٍ وَنِسَاءً

باب ۱۷۱۔ اس شخص کے متعلق جو مردوں اور عورتوں کی امامت کرے۔

۲۰۴۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ الْانصَارِيُّ نَا مَعْنُ نَا مَالِكُ عَنِ اسْحَقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَبَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعْتُهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قَوْمُوا فَلَنْصَلِّ بِكُمْ قَالَ أَنَسُ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لَيْسَ فَنَضَحْتُهُ (۱) بِالْمَاءِ فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْتُ عَلَيْهِ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَأَتْهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَّرَائِنَا فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ

۲۰۴۔ حضرت انسؓ بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی دادی ملکہ نے رسول اللہ ﷺ کی اپنے پکائے ہوئے کھانے سے دعوت کی۔ آپ ﷺ نے اس میں سے کھایا اور پھر فرمایا: کھڑے ہو جاؤ۔ ہم تمہارے ساتھ نماز پڑھیں۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں کھڑا ہوا اور اپنی چٹائی اٹھائی جو کانی پرانی ہونے کی وجہ سے کالی ہو گئی تھی میں نے اس پر پانی چھڑکا اور اس پر رسول اللہ ﷺ کھڑے ہوئے۔ میں نے اور یتیم (۲) نے آپ ﷺ کے پیچھے صف بنائی بڑی بی ہمارے پیچھے کھڑی ہو گئیں آپ ﷺ نے دو رکعت نماز پڑھائی اور پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے۔

(۱) نضح کے معنی چھینے مارنے کے ہیں جب کہ اس سے دھونا بھی مراد لیا جاتا ہے احتمال ہے کہ یہاں دھونے کے معنی ہی مراد ہوں کیوں کہ چھیننے مارنے سے تو نہ صرف میل زیادہ ہو جاتی ہے بلکہ کپڑوں کو بھی لگ جاتی ہے۔

(۲) یتیم: ایک صحابی ہیں ان کا نام ضمیرہ بن ضمیرہ ہے۔ (مترجم)

امام ترمذی کہتے ہیں حضرت انسؓ کی حدیث صحیح ہے اور اس پر اہل علم کا عمل ہے کہ اگر امام کے ساتھ ایک ہی آدمی اور عورت ہو تو آدمی امام کے دائیں اور عورت پیچھے کھڑی ہوگی۔ بعض علماء اس حدیث سے صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنے کے جواز پر استدلال کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سچے کی نماز ہی نہیں۔ لہذا انسؓ نے آپ ﷺ کے پیچھے تہا کھڑے ہو کر نماز پڑھی لیکن یہ صحیح نہیں کیوں کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں یتیم کے ساتھ کھڑا کیا تھا۔ اگر آپ ﷺ یتیم کی نماز کو معتبر نہ سمجھتے تو انہیں انسؓ کے ساتھ کھڑا نہ کرتے بلکہ انسؓ کو اپنی داہنی طرف کھڑا کرتے۔ حضرت موسیٰ بن انسؓ حضرت انسؓ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ ﷺ نے انہیں اپنے دائیں کھڑا کیا۔ اس حدیث میں اس بات پر بھی دلالت ہے کہ یہ نقل نماز تھی آپ ﷺ نے برکت کے ارادے سے ایسا کیا تھا۔

باب ۱۷۲۔ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

باب ۱۷۲۔ امامت کا کون زیادہ مستحق ہے؟

۲۰۵۔ حضرت اوس بن صحیح، ابو مسعود انصاری سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قوم کی امامت ان میں سے بہترین قرآن پڑھنے والا کرے۔ اگر قرأت میں برابر ہوں تو وہ جو سنت کے بارے میں زیادہ علم رکھتا ہو اگر اس میں بھی برابر ہوں تو جس نے پہلے ہجرت کی ہو پھر اگر ہجرت میں بھی برابر ہوں تو زیادہ عمر والا امامت کرے۔ نیز کوئی شخص اپنی ملکیت یا غلبے کی جگہ ماموم نہ بنایا جائے اور کوئی شخص گھر والے کی اجازت کے بغیر اس کی مسند پر نہ بیٹھے

۲۰۵۔ حدثنا هنادنا ابو معاوية الاعمش و ثنا محمود بن غيلان نا ابو معاوية وابن نمير عن الاعمش عن اسماعيل بن رحام الزبيدي عن اوس بن صمغج قال سمعت ابا مسعود انصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقدّمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فاكثرهم سنا ولا يوم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته الا باذنه

محمود نے اپنی حدیث میں "اکبر ہم سنا" کی جگہ "اقدّمهم سنا" کے الفاظ کہے ہیں۔ اس باب میں ابو سعیدؓ انس بن مالکؓ، مالک بن حویرثؓ اور عمرو بن سلمہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں۔ ابو مسعودؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اس پر اہل علم کا عمل ہے کہ امامت کا زیادہ مستحق وہ ہے جو قرأت میں افضل اور سنت سے زیادہ واقفیت رکھتا ہو۔ یہ حضرات کہتے ہیں گھر کا مالک امامت کا زیادہ مستحق ہے بعض حضرات کہتے ہیں اگر اس نے کسی اور کو امامت کی اجازت دے دی تو اس کے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں جب کہ بعض اسے مکروہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب خانہ کی امامت سنت ہے۔ احمد بن حنبلؓ کہتے ہیں آپ ﷺ کا فرمان کہ کوئی شخص اپنی ملکیت یا غلبے کی جگہ ماموم نہ بنایا جائے اور نہ کوئی شخص کسی کے گھر میں اس کی مسند پر بغیر اجازت بیٹھے۔ لیکن اگر کوئی اس کی اجازت دے تو مجھے امید ہے کہ دونوں باتوں کی اجازت ہوگی۔ ان کے نزدیک صاحب خانہ کی اجازت سے امامت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

باب ۱۷۳۔ اگر کوئی امامت کرے تو قرأت میں تخفیف کرے۔

باب ۱۷۳۔ مَا جَاءَ إِذَا مَّ أَحَدَكُمْ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ

۲۰۶۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم میں سے کوئی امامت کرے تو (قرأت) تخفیف کرے۔ اس لئے کہ مقتدیوں میں چھوٹے، ضعیف، مریض سب ہی ہیں۔ اور جب اکیلا

۲۰۶۔ حدثنا قتيبة نا المغيرة بن عبد الرحمن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أم

أَحَدُكُمْ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ  
وَالضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ  
كَيْفَ يَشَاءُ

اس باب میں عدی بن حاتمؓ، انسؓ، جابر بن سمرہؓ، مالک بن عبد اللہؓ، ابو اقدہؓ، عثمان بن ابی العاصؓ، ابو مسعودؓ، جابر بن عبد اللہؓ اور ابن عباسؓ سے بھی احادیث نقل کی جاتی ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ابو ہریرہؓ صحیح ہے اور یہی اکثر اہل علم کا قول ہے کہ امام کو چاہیے کہ نماز کو طویل نہ کرے تاکہ ضعیف، بوڑھے اور مریض لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ ابو زناد کا نام ذکوان اور اعرج عبد الرحمن بن ہر مزالم مدینی ہیں ان کی کنیت ابو داؤد ہے۔

۲۰۷۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا اَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ  
قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ  
اَحْفَ النَّاسِ صَلَوةً فِى تَمَامٍ  
۲۰۷۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ تمام لوگوں سے خفیف اور مکمل نماز پڑھانے والے تھے۔  
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

توضیح: تخفیف کا مطلب یہ ہے کہ ہر نماز میں قدر مسنون سے آگے نہ بڑھے۔ یعنی قرأت میں تخفیف کرے اس کا دوسرے ارکان کی ادائیگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں لہذا رکوع و سجود میں تین سے زائد تسبیحات پڑھنا بلا کراہت جائز ہے کیوں کہ آنحضرت ﷺ سے رکوع و سجود میں دس تسبیحات پڑھنا ثابت ہے۔ (مترجم)

باب ۱۷۴۔ مَا جَاءَ فِى تَحْرِيمِ الصَّلَوةِ وَتَحْلِيلِهَا  
۲۰۸۔ حَدَّثَنَا سَفِيَانُ بِن وَكَيْعُ نَا مُحَمَّدُ بِن فَضِيْلٍ  
عَنْ اَبِي سَفِيَانَ طَرِيْفِ السَّعْدِي عَنْ اَبِي نَضْرَةَ عَنْ  
اَبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ  
وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلَوةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيْرُ  
تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيْمُ وَلَا صَلَوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِالْحَمْدِ  
وَسُوْرَةٍ فِى فَرِيضَةٍ اَوْ غَيْرِهَا  
باب ۱۷۴۔ نماز کی تحریم و تحلیل سے متعلق۔  
۲۰۸۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: طہارت نماز کی کنجی ہے اس کی تحریم (۱) تکبیر اور تحلیل (۲) سلام ہے جو شخص کسی نماز میں خواہ وہ فرض ہو (یا نفل وغیرہ) سورۃ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی سورۃ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔

اس باب میں علیؓ اور عائشہؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب کی حدیث اسناد کے اعتبار سے حضرت ابو سعیدؓ کی حدیث سے بہتر اور اصح ہے۔ حدیث ابو سعیدؓ ہم نے کتاب الوضو میں بیان کی ہے۔ اس پر علماء صحابہ اور ان کے بعد کے علماء کا عمل ہے۔ یہی قول سفیان ثوری،

ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی ہے کہ نماز کی تحریم، تکبیر اور تحلیل سلام سے ہے۔ امام ترمذی، ابو بکر محمد بن ابان سے عبد الرحمن بن مہدی کا قول نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کے نئے ناموں کو ذکر کر کے نماز شروع کرے اور تکبیر نہ کہے تو اس کی نماز جائز نہیں اور

(۱) تحریم سے مراد یہ ہے کہ تکبیر کہتے ہی تمام مفصلات نماز حرام ہو جاتے ہیں۔ (مترجم)

(۱) تحلیل سے مراد یہ ہے کہ سلام کے بعد وہ تمام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں جن کو نماز میں کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔

اگر سلام پھیرنے سے پہلے کسی کا وضو ٹوٹ جائے میں اس کا حکم کروں گا کہ وضو کرے اور واپس آکر سلام پھیرے اس کی نماز اس طرح ہے۔ ابوہنترہ کا نام منذر بن مالک بن قطعہ ہے۔

باب ۱۷۵۔ فِی نَشْرِ الْأَصَابِعِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ

باب ۱۷۵۔ تکبیر کہتے وقت انگلیاں کھلی رکھی جائیں۔

۲۰۹۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ وَابُو سَعِيْدِ الْاَشْجِ قَالَ نَا يَحْيٰى  
بن يمان عن ابن ابى ذئب عن سعيد بن سمعان  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَالِهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ نَشَرَ أَصَابِعَهُ

امام ترمذی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث، کئی حضرات ابن ابی ذئب سے وہ سعید بن سمعان سے اور وہ ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز شروع کرتے تو ہاتھوں کی انگلیوں کو سیدھا کر کے اوپر لے جاتے۔ یہ روایت یحییٰ بن یمان کی روایت سے صحیح ہے۔ ابن یمان نے اس حدیث میں خطا کی ہے۔

۲۱۰۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَا عِبْدُ اللَّهِ  
بن عبد المجيد الحنفى نا ابن أبى ذئب عن سعيد  
بن سمعان قال سمعت أبا هريرة يقول كان رسول الله  
صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلوة  
رفع يديه ممدًا

امام ترمذی کہتے ہیں کہ عبد اللہ اس حدیث کو یحییٰ بن یمان کی حدیث سے صحیح سمجھتے تھے ان کا کہنا ہے کہ یحییٰ بن یمان کی حدیث میں خطا ہے۔

باب ۱۷۶۔ تَكْبِيرِ اَوَّلِي كِي فَضِيلَتِ

۲۱۱۔ حَدَّثَنَا عْتَبَةُ بْنُ مَكْرَمٍ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا  
ناسلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن  
أبي ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله  
صلى الله عليه وآله وسلم من صلى لله أربعين يوماً  
في جماعة يُدركُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ تَنْ  
بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ

۲۱۱۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے چالیس دن تک تکبیر (۲) اولیٰ کے ساتھ خالص اللہ کے لئے نماز پڑھی اس کی دو چیزوں سے براءت لکھ دی جاتی ہے۔ جہنم سے نجات اور نفاق سے براءت۔

(۱) تشریح: دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک انگلیوں کو سیدھا رکھنا اور دوسرے انگلیوں کو پھیلا کر رکھنا۔ یہاں پہلے معنی مراد ہیں (مترجم)

(۲) تکبیر اولیٰ کے متعلق بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ امام کے قرأت شروع کرنے سے پہلے تک کا وقت ہے۔ بعض سے تکبیر تحریر میں شریک ہونے پر اور بعض کو تکبیر کے وقت پر محمول کرتے ہیں۔ اکثر فقہاء آخری قول کی طرف مائل ہیں۔ (مترجم)

امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت انسؓ سے مرفوعاً بھی منقول ہے ہم نہیں جانتے کہ اسے مسلم بن قتیبہ کے علاوہ کسی اور نے مرفوع کیا ہو مسلم بن قتیبہ طعمہ بن عمرو سے روایت کرتے ہیں اسے حبیب بن ابی حبیب بجلي نے حضرت انس بن مالکؓ سے انہی کا قول نقل کیا ہے۔ ضاد بھی یہ حدیث کعب سے وہ خالد طہمان سے وہ حبیب بن حبیب بجلي سے اور وہ انسؓ سے انہی کا قول نقل کیا ہے اسے مرفوع نہیں کیا۔ اسماعیل بن عیاش، عمارہ بن غزیہ سے وہ انس بن مالکؓ سے وہ عمر بن خطابؓ سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے اس کے مثل روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث غیر محفوظ اور مرسل ہے۔ کیوں کہ عمارہ بن غزیہ کا حضرت انس بن مالکؓ کو پانا ثابت نہیں۔

باب ۱۷۷۔ نماز شروع کرتے وقت کیا پڑھے۔

باب ۱۷۷۔ مَا يَقُولُ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

۲۱۲۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ

۲۱۲۔ حدثنا محمد بن موسى البصرى

ﷺ جب رات کو نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے پھر فرماتے۔ سبحانک اللہم وبحمدک..... غیر تک پڑھتے (ترجمہ: اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم تیری پاک تعریف کے ساتھ بیان کرتے ہیں تیرا نام بابرکت ہے تیری شان بلند و برتر ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں) پھر فرماتے اللہ اکبر کبیرا۔ (اللہ بہت بڑا اور بزرگی والا ہے) پھر فرماتے ”اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم ونفخه ونفثه“ (یعنی میں شیطان مردود کے تکبر، وسوسے اور سحر سے، اللہ رب العزت کی پناہ مانگتا ہوں جو سننے اور جاننے والا ہے۔

نا جعفر بن سليمان الضبعي عن علي بن علي الرفاعي عن ابي المثنوي كل عن ابي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلوة بالليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول الله أكبر كبراً ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه

اس باب میں علی بن عبد اللہ بن مسعود، جابر، عائشہ، جبیر بن مطعم اور حضرت ابن عمرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ابوسعید اس باب کی مشہور ترین حدیث ہے علماء کی ایک جماعت اسی حدیث پر عمل پیرا ہے جب کہ اکثر علماء کہتے ہیں نبی کریم ﷺ سے یہ دعا بھی منقول ہے ”سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالیٰ جدک ولا الہ غیرک“ عمر بن خطاب اور ابن مسعود سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ اکثر تابعین اور ان کے علاوہ علماء کا یہی عمل ہے۔ حضرت ابوسعیدؓ کی حدیث کی سند پر کلام کیا گیا ہے۔ یحییٰ بن سعید علی بن علی پر کلام کرتے ہیں اور امام احمد کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں۔

۲۱۳۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز شروع

۲۱۳۔ حدثنا الحسن بن عرفة ويحيى بن موسى

کرتے تو یہ پڑھتے: ”سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالیٰ جدک ولا الہ غیرک“

قالنا ابو معاوية عن حارثة بن ابى الرجال عن عمرة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا افتتح الصلوة قال ”سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك“

امام ترمذی کہتے ہیں اس حدیث کو ہم اس کے علاوہ کسی سے نہیں جانتے۔ اور حارث کا حافظ قوی نہیں تھا۔ ابو الرجال کا نام محمد بن عبد الرحمن ہے۔

باب ۱۷۸۔ مَا جَاءَ فِي تَرِكِ الْجَهْرِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۲۱۴۔ حدثنا احمد بن منيع نا اسمعيل بن ابراهيم نا سعيد الجريري عن قيس بن عباية عن ابن عبد الله بن مغفل قال سمعت ابي وانا في الصلوة اقول بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ لِي اَيُّ بُنْي مُحَدَّثٌ اِيَّاكَ وَالْحَدَّثُ قَالَ وَلَمْ اَرَ احَدًا مِنْ اصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ ابْغَضَ اِلَيْهِ الْحَدَّثُ فِي الْإِسْلَامِ يَعْنِي مِنْهُ وَقَالَ قَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ احَدًا مِنْهُمْ يَقُولُهَا فَلَا تَقْلُهَا إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

۲۱۳۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کے بیٹے فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے نماز میں بسم اللہ... زور سے پڑھتے ہوئے سنا کہا: بیٹے یہ تو نئی چیز ہے (بدعت) نئی چیزوں سے بچ کر رہو۔ اور عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی کو اسلام میں بدعات پیدا کرنے کا اپنے والد سے زیادہ دشمن نہیں دیکھا ان کے والد نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ، ابوبکرؓ، عمرؓ اور عثمانؓ کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ کسی نے بھی بسم اللہ زور سے نہیں پڑھی۔ لہذا تم بھی جہد نماز پڑھو تو اسے زور سے نہ پڑھا کرو، اور قرأت الحمد لله رد العالمین سے شروع کیا کرو۔

امام ترمذی کہتے ہیں عبداللہ بن مغفلؓ کی حدیث حسن ہے اور اس پر اکثر علماء جیسے کہ ابوبکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ وغیرہ اور تابعین کا عمل ہے۔ یہی سفیان ثوری، ابن مبارک، احمد اور اسحاق کا قول ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بغیر آواز کے پڑھے زور سے نہ پڑھے۔ مسئلہ: امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک بھی تسمیہ (بسم اللہ پڑھنا) مسنون ہے اور اسے ہر حال میں یعنی نماز سری ہو یا جہری آہستہ پڑھ افضل ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۱۷۹۔ مَنْ رَأَى الْجَهْرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۲۱۵۔ حدثنا احمد بن عبدة نا المعتمر بن سليمان قال حدثني اسمعيل بن حماد عن ابي خالد عن ابن عباس قال كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ صَلَوَتَهُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۲۱۵۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے تھے۔

امام ترمذی کہتے ہیں اس حدیث کی سند قوی نہیں۔ بعض علماء صحابہ کا اسی حدیث پر عمل ہے۔ جن میں ابو ہریرہؓ، ابن عمرؓ، ابن عباسؓ، ابن زبیرؓ شامل ہیں۔ صحابہ کے بعد تابعین میں سے بھی کچھ حضرات یہی کہتے ہیں کہ تسمیہ زور سے پڑھے۔ یہی شافعی، اسمعیل بن حماد بن ابوسلیمان اور ابو خالد والبی کوئی (جن کا نام ہر مزہ) کا قول ہے۔

باب ۱۸۰۔ فِي افْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

۱۸۰۔ الحمد لله رب العالمین سے قرأت شروع کی جائے۔

۲۱۶۔ حدثنا قتيبة نا ابو عوانة عن قتادة عن انس قال كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَقْتَبِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

۲۱۷۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ، قرأت ”الحمد لله رب العالمين“ سے شروع کرتے تھے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اسی پر صحابہ، تابعین اور ان کے بعد اہل علم حضرات کا عمل تھا۔ سب قرأت کو سورہ فاتحہ سے شروع کرتے۔ اس حدیث کے معنی یہ نہیں کہ وہ حضرات سورہ فاتحہ سے پہلے کچھ نہیں پڑھتے تھے بلکہ یہ ہے کہ وہ سورہ سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ ”بسم اللہ“ سے شروع کیا جائے اور جہری نمازوں میں بسم اللہ بھی زور سے پڑھی جائے۔ جب کہ سری نمازوں میں آہستہ پڑھی جائے۔

باب ۱۸۱۔ مَا جَاءَ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

۲۱۷۔ حدثنا ابن ابی عمر وعلی بن حجر قالانا سفیان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصاميت عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

باب ۱۸۱۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی

۲۱۷۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس کی نماز نہیں ہوئی۔

اس باب میں ابو ہریرہؓ، عائشہؓ، انسؓ، قتادہؓ اور عبد اللہ بن عمروؓ سے روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، عبادہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اور اسی پر اکثر علماء صحابہ جیسے کہ عمر بن خطابؓ، جاہر بن عبد اللہ اور عمر ان بن حصینؓ وغیرہ عمل کرتے ہیں۔ یہ حضرات کہتے ہیں کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر صحیح نہیں ابن مبارک، شافعی احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

باب ۱۸۲۔ آمین کہنے سے متعلق۔

باب ۱۸۲۔ مَا جَاءَ فِي التَّامِينَ

۲۱۸۔ حدثنا ابن ابی عمرو علی بن حجر قالانا سفینا عن سلمة بن كهيل عن حُجْرِ بْنِ عَنَسِ بْنِ عَنَسِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ قِرَاءَةً غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ وَقَالَ آمِينَ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ

۲۱۸۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا (نماز میں) کہ آپ ﷺ نے ”غیر المغضوب علیہم ولا الضالین“ پڑھا اور فرمایا ”آمین“ اور یہ کہتے ہوئے آپ ﷺ نے آواز کو کھینچا۔

اس باب میں علیؓ اور ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں وائل بن حجر کی حدیث حسن ہے، صحابہ، تابعین اور بعد کے اہل علم میں سے کئی حضرات کا یہ مسلک ہے کہ ”آمین“ کہتے ہوئے آواز کے ساتھ کہا جائے نہ کہ بغیر آواز کے۔ یہ امام شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے۔ شعبہ، مسلم بن کھیل سے وہ حجر ابو العنسیس سے وہ علقمہ بن وائل سے، اور وہ اپنے والد سے اس حدیث کو بھی نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ”غیر المغضوب علیہم ولا الضالین“ پڑھا اور آہستہ سے ”آمین“ کہا۔ امام ترمذی کہتے ہیں میں نے بخاری سے سنا کہ سفیان کی حدیث اس باب میں شعبہ کی حدیث سے اصح ہے۔ شعبہ نے اس حدیث میں کئی جگہ خطا کی ہے۔ شعبہ نے کہا: حجر ابو العنسیس سے روایت ہے جب کہ یہ حجر بن عنسیس ہیں اور ان کی کنیت ابو سکن ہے۔ دوسرے یہ کہ شعبہ نے اس میں علقمہ بن وائل کا ذکر زیادہ کیا

ہے۔ جب کہ اس میں علقمہ نہیں ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ حجر بن عمنس، وائل بن حجر سے روایت کرتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ انہوں نے کہا: آپ ﷺ نے آمین کہتے ہوئے آواز آہستہ کی جب کہ وہاں یہ ہے کہ آپ ﷺ نے آمین زور سے کہا۔ امام ترمذی کہتے ہیں میں نے اس حدیث کے متعلق ابو زرعہ سے دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ سفیان کی حدیث اصح ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں علاء بن صالح اسدی نے مسلم بن کہیل سے سفیان کی حدیث کے مثل روایت کی ہے۔ ہم سے ابو بکر محمد بن ابان نے انہوں نے عبد اللہ بن نمیر سے انہوں نے علاء بن صالح اسدی سے انہوں نے مسلم بن کہیل سے انہوں نے حجر بن عمنس سے انہوں نے وائل بن حجر سے اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سفیان کی حدیث کی مانند حدیث نقل کی ہے جو سفیان بن کہیل سے بیان کرتے ہیں۔

مسئلہ: امام ابو حنیفہ اور ثوری ”آمین“ آہستہ کہنے کو افضل قرار دیتے ہیں۔ ان کا استدلال شعبہ کی مذکورہ حدیث سے ہے جس پر امام ترمذی نے اعتراضات کیے ہیں اور ضعیف قرار دیا ہے۔ ان کا پہلا اعتراض یہ ہے کہ شعبہ نے سلمہ بن کہیل کے استاذ کا نام حجر ابو العنابس ذکر کیا ہے جب کہ صحیح حجر بن العنابس ہے۔ دوسرا یہ کہ شعبہ نے حجر بن عمنس اور وائل بن حجر کے درمیان علقمہ کا واسطہ بڑھا دیا ہے۔ تیسرا یہ کہ انہوں نے حدیث کے متن میں ”مدبہا صوتہ“ کی جگہ ”خفص بھا صوتہ“ روایت کیا ہے۔

ان تمام اعتراضات کے جواب میں علامہ عینی نے ”عمدة القاری“ میں مفصل بحث کی ہے۔ پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ حجر کے والد اور بیٹے دونوں کا نام عمنس تھا لہذا انہیں حجر بن عمنس یا حجر ابو عمنس دونوں ہی طریقوں سے پکارا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر بھی تہذیب بیہذیب میں اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے، کئی مرتبہ ایک روایت کو بلا واسطہ اور بالواسطہ سن کر دونوں طرح روایت کیا جاسکتا ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ چنانچہ حجر بن عمنس نے یہ روایت ایک مرتبہ براہ راست وائل بن حجر اور دوسری مرتبہ علقمہ بن وائل کے واسطے سے سنی۔ اس کی دلیل یہ ہے ابو داؤد طیالسی نے بھی اس روایت کی تخریج کی ہے۔ امام ترمذی کے تیسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ شعبہ کو محمد ثین نے امیر المؤمنین فی الحدیث قرار دیا ہے لہذا ان کی امامت و ثقاہت مسلم ہے۔ ان پر یہ بدگمانی قطعاً بلا دلیل ہے۔ کہ انہوں نے ”مدبہا صوتہ“ کی جگہ ”خفص“ نقل کر دیا ہو۔ مذکورہ بحث سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ شعبہ کی حدیث صحیح اور قابل استدلال ہی نہیں بلکہ راجح ہے۔ اس کی چند وجوہ ہیں۔

(۱) سفیان ثوری اگرچہ زور سے آمین کہنے کی حدیث کے راوی ہیں لیکن ان کا مسلک شعبہ کی روایت کے مطابق ہے۔

(۲) شعبہ کی روایت پر عمل کرنے سے سفیان کی روایت کو بالکلایت ترک کرنا لازم نہیں آتا مثلاً یہ کہ ”مد“ سے مراد الف اور ”می“ کو

گنجانا ہے جب کہ سفیان کی روایت پر عمل کرنے سے شعبہ کی روایت کو مطلقاً ترک کرنا پڑتا ہے۔

(۳) اگر بالفرض آنحضرت ﷺ سے زور سے آمین کہنا ثابت ہو تو یہ بھی ممکن ہے کہ لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے ایسا کیا ہو۔ اس

وقت کے بعد یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اس مسئلہ میں اختلاف صرف افضلیت کا ہے۔ ورنہ دونوں طریقوں کے جواز پر فریقین کا اتفاق ہے لہذا اس کو وجہ نزاع بنانا کسی طرح درست نہیں۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۱۸۳۔ آمین کی فضیلت

ب ۱۸۳۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّامِينَ

۲۱۹۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

۲۱۹۔ حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء نازيد بن

جب امام (سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد) آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔

باب قال حدثني مالك بن انس نا الزهري عن

کیوں کہ فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں اور جس شخص کی آمین

سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن

فرشتوں کے آمین سے مل جاتی ہے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا آمَنَ الْإِمَامُ فَأَمِنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينِ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۸۴۔ نماز میں دو مرتبہ خاموشی اختیار کرنا

باب ۱۸۴۔ مَا جَاءَ فِي السُّكُوتَيْنِ

۲۲۰۔ حضرت سعید، قتادہ سے اور قتادہ سن سے نقل کرتے ہیں کہ سمرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے دو سکتے (۱) یاد کیے ہیں۔ اس پر عمران بن حصین رضی اللہ عنہ نے اعتراض کیا اور کہا کہ ہمیں تو ایک ہی سکتہ یاد ہے۔ چنانچہ ہم نے ابی بن کعب کو مدینہ لکھا تو انہوں نے جواب دیا کہ سمرہ کو صحیح یاد ہے۔ سعید کہتے ہیں ہم نے قتادہ سے کہا وہ سکتے کیا ہیں؟ فرمایا: جب نماز شروع کرتے (تکبیر اولیٰ کے بعد) اور جب قرأت سے فارغ ہوتے۔ پھر بعد میں فرمایا: جب ”ولا الضالین“ پڑھتے۔ راوی کہتے ہیں انہیں ہی قرأت سے فارغ ہونے سے فارغ ہونے کے بعد والا سکتہ بہت پسند آتا تھا یہاں تک کہ سانس ٹھہر جائے۔

۲۲۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَاعَبُدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمْرَةَ قَالَ سَكُوتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عُمَرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ حَفِظْنَا سَكُوتَةَ فَكَتَبْنَا إِلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ بِالْمَدِينَةِ فَكَتَبَ أَبِي أَنْ حَفِظَ سَمْرَةَ قَالَ سَعِيدٌ فَقُلْنَا لِقَتَادَةَ مَا هَاتَانِ السُّكُوتَانِ قَالَ إِذَا دَخَلَ فِي صَلَوَتِهِ وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِذَا قَرَأَ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ وَكَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ أَنْ يَسْكُتَ حَتَّى يَتَرَادَّ إِلَيْهِ نَفْسُهُ

اس باب میں ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث سمرہ حسن ہے۔ اور یہ کئی علماء کا قول ہے کہ نماز شروع کرنے کے بعد تھوڑی دیر خاموش رہنا اور قرأت سے فارغ ہونے کے بعد تھوڑی دیر سکوت کرنا مستحب ہے۔ یہ احمد، اسحاق اور ہمارے اصحاب کا قول ہے۔

باب ۱۸۵۔ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا جائے۔

باب ۱۸۵۔ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ

۲۲۱۔ قبيصة بن بلب اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ہماری امامت کرتے اور اپنا بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ سے پکڑتے تھے۔

۲۲۱۔ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بَلْبٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ فَأَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ

اس باب میں وائل بن حجر، عطف بن حارث، ابن عباس، ابن مسعود اور سہل بن سہل سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ بلب کی حدیث حسن ہے اسی پر صحابہ تابعین اور ان کے بعد کے اہل علم کا عمل ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا جائے۔ بعض کا کہنا ہے کہ ہاتھوں کو ناف کے اوپر باندھے اور بعض کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے باندھے یہ سب ان حضرات کے نزدیک جائز ہے۔ بلب کا نام یزید بن قنافة طائی ہے۔

(۱) سکتہ سے مراد خاموش رہنا ہے۔ (مترجم)

باب ۱۸۶۔ مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

۲۲۲۔ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ نَا ابُو الْاِحْوَصِ عَنْ ابِي اسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفَعٍ وَقُعُودٍ وَآبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ

باب ۱۸۶۔ رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے تکبیر کہنا

۲۲۲۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ (نماز کے دوران) جب بھی جھکتے یا اٹھتے، کھڑے ہوتے یا بیٹھتے تکبیر کہتے، ابو بکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔

اس باب میں ابو ہریرہؓ، انسؓ، ابن عمرؓ، ابو مالک اشعریؓ، ابو موسیٰؓ، عمران بن حصینؓ، وائل بن حجرؓ اور ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث عبد اللہ بن مسعود حسن صحیح ہے۔ اس پر صحابہ کا عمل ہے جیسے کہ ابو بکرؓ، عمرؓ، عثمان اور حضرت علیؓ وغیرہ۔ تابعین عام فقہاء اور علماء کا بھی یہی قول ہے۔

۲۲۳۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَنِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ قَالَ اَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ ابِي جَرِيحٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ وَهُوَ يَهُوِي

۲۲۳۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ وقت تکبیر کہتے تھے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، یہی صحابہ، تابعین اور بعد کے علماء کا قول ہے کہ رکوع اور سجدے میں جاتے ہوئے تکبیر کہتے۔

باب ۱۸۷۔ رَفَعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ

۲۲۴۔ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ وَابْنُ ابِي عَمْرٍو قَالَا ثنا سَفِيانُ بْنُ عَيْسَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَزَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِ وَكَانَ لَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

باب ۱۸۷۔ رکوع کرتے وقت دونوں ہاتھ اٹھانا

۲۲۴۔ حضرت سالم اپنے والد ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کندھوں پر ابر اٹھاتے پھر رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے اسی طرح کرتے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی حدیث میں "وَكَمَا لَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ" کے الفاظ زیادہ نقل کیے ہیں۔ (ترجمہ: آپ ﷺ دونوں سجدوں کے درمیان ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے)۔

امام ترمذی کہتے ہیں فضل بن صباح بغدادی، سفیان بن عیینہ سے اور وہ زہری سے اسی سند سے حضرت ابن عمرؓ کی حدیث کے روایت کرتے ہیں۔ اس باب میں عمرؓ، علیؓ، وائل بن حجرؓ، مالک بن حویرثؓ، انسؓ، ابو حمیدؓ، ابو اسیدؓ، سہل بن سعدؓ، محمد بن مسلمؓ، ابو قتادہؓ، ابو موسیٰؓ، جابرؓ اور عمرؓ لیشی سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ابن عمرؓ حسن صحیح ہے۔ علماء صحابہ جیسے کہ ابن عمرؓ، جابرؓ، عبد اللہؓ، ابو ہریرہؓ، انسؓ، ابن عباسؓ، عبد اللہ بن زبیر وغیرہ اور تابعین میں سے حسن بصریؓ، عطاء طاووسؓ، مجاہدؓ، نافعؓ، سالم بن عبد اللہؓ، سعید بن جبیر وغیرہ اور آئمہ میں سے عبد اللہ بن مبارکؓ، شافعیؓ، احمد اور اسحاق کا یہی قول ہے (یعنی رفع یدین کا) عبد اللہ بن مبارکؓ کا ہے جو شخص ہاتھ اٹھاتا ہے اس کی حدیث ثابت ہے۔ زہری کی سالم سے بحوالہ ان کے والد مروی حدیث ذکر کرتے ہیں۔ ابن مسعودؓ کی حدیث ثابت نہیں ہے کہ "آنحضرت ﷺ ہاتھ پہلی بار ہی اٹھاتے تھے" یعنی تکبیر اولیٰ کے وقت۔ احمد بن عبدہ آملی نے وہب بن زعمہ۔ انہوں نے سفیان بن عبد الملک سے اور انہوں نے عبد اللہ بن مبارک سے یہ بات روایت کی ہے۔

۲۲۔ حدثنا هنادنا و كيع عن سفيان عن عاصم بن نليب عن عبدالرحمن بن الأسود عن علقمة قال قال بُدِّلَ اللَّهُ بن مسعود ألا أصلي بكم صلوٰة رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَصَلِّي فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ

۲۲۵۔ حضرت علقمہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں تمہارے ساتھ آنحضرت ﷺ کی نماز ادا کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے نماز پڑھی اور تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین نہیں کیا۔ (۱)

اس باب میں براء بن عازب سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ابن مسعود حسن ہے صحابہ تابعین میں سے اہل علم کا یہی قول ہے سفيان اور اہل کوفہ بھی اسی کے قائل ہیں۔

مسئلہ: امام ابوحنیفہ رفع یدین نہ کرنے کے مسلک کو ترجیح دیتے ہیں اور اسی پر ان کا عمل ہے واضح رہے کہ ائمہ کے درمیان یہ اختلاف صرف افضلیت کا ہے نہ کہ جواز و عدم جواز کا۔ اور دونوں طریقے فریقین کے نزدیک بغیر کسی کراہت کے جائز ہیں۔ جہاں تک روایات کا تعلق ہے تو درحقیقت آنحضرت ﷺ سے دونوں قسم کی روایات ثابت ہیں۔ حنفیہ اس کا انکار نہیں کرتے ہاں جو حضرات رفع یدین کے احادیث سے ثابت ہونے کا انکار کرتے ہیں ان کی تردید ضرور کرتے ہیں۔ یہ بھی مسلم ہے کہ اسناد کے لحاظ سے رفع یدین کے اثبات میں مذکورہ روایات کی تعداد زیادہ ہے جب کہ اس کے ترک کی تصریح کرنے والی روایات تعداد میں کم ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ احناف کے مسلک پر وہ احادیث بھی دلالت کرتی ہیں جو رسول اللہ ﷺ کی نماز کو بیان کرتی ہیں اس لیے کہ اگر رفع یدین متواتر ہوا ہوتا تو ضرور اس کا ذکر ان روایات میں آتا۔ یہاں ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ رفع یدین نہ کرنا بھی احادیث سے ثابت اور یہی طریقہ راجح اور افضل ہے نہ کہ رفع یدین کے متعلق احادیث پر جرح کرنا۔ امام بخاری نے جزء رفع یدین میں یہ دعویٰ کیا ہے ترک رفع پر کوئی حدیث سنداً ثابت نہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں امام بخاری سے تسامح ہوا ہے چنانچہ بہت سے محدثین نے ان کی تردید کی ہے۔ اس لیے کہ ترک رفع یدین پر بہت سی صحیح روایات مذکور ہیں جن میں سے چند یہاں ذکر کی جاتی ہیں۔

(۱) حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنے دوستوں سے فرمایا کہ ”میں تمہارے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی نماز پڑھتا ہوں۔ پھر انہوں نے نماز پڑھی اور تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین نہیں کیا“ امام ترمذی نے ابن مبارک کا قول نقل کیا ہے کہ ابن مسعود کی عدم رفع والی حدیث ثابت نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود سے عدم رفع کے متعلق دو احادیث مروی ہیں ایک جو ابو گندری اور دوسری جس میں ابن مسعود نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے پہلی مرتبہ کے بعد ہاتھ نہیں اٹھائے (یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد) حضرت عبداللہ بن مبارک کا یہ قول دوسری روایت کے متعلق ہے۔ اس لیے کہ سنن نسائی میں یہی حدیث خود حضرت عبداللہ بن مبارک سے منقول ہے۔ لہذا ان کے قول کو پہلی روایت پر بھی محمول کرنا صحیح نہیں۔ پھر امام ترمذی نے خود بھی حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہی حدیث مستقل سند کے ساتھ نقل کی ہے (یعنی حدیث ۲۲۵) جس کو وہ حسن کہتے ہیں۔ یعنی یہ امام ترمذی کے نزدیک بھی قابل استدلال ہے۔ لہذا یہ ثابت ہو گیا کہ عبداللہ بن مبارک کا مذکورہ بالا قول اس روایت کے متعلق نہیں۔ اس حدیث کو بہت سے محدثین نے صحیح یا حسن قرار دیا ہے جن میں امام ترمذی، ابن عبدالبر، ابن حزم اور حافظ ابن حجر وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اس وجہ سے اس کے قابل استدلال ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ (ب) حنفیہ کی دوسری دلیل حضرت براء بن عازب کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز پڑھتے تو ہاتھوں کو کانوں کے قریب تک اٹھاتے اور اس کے بعد دوبارہ ایسا نہ کرتے یعنی دوبارہ ہاتھ نہ اٹھاتے۔ (ج) حضرت ابن عباسؓ سے منقول حدیث جسے طبرانی نے مرفوع اور ابن ابی شیبہ نے موقوف روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہاتھ سات جگہوں پر اٹھائے جاتے ہیں۔ اس حدیث میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ کسی اور موقع پر رفع یدین کا ذکر نہیں۔ (د) حضرت عباد بن زبیرؓ کی روایت حافظ ابن حجر نے الدرر البیہ فی تخریج احادیث الہدایہ میں مرفوع نقل کی ہے۔ کہ ”رسول اللہ ﷺ جب نماز شروع کرتے تو نماز کی ابتداء میں ہاتھ اٹھاتے اور پھر فارغ ہونے تک دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھاتے“۔

(۱) رفع یدین کے معنی ہاتھ اٹھانا ہے۔ (مترجم)

(ر) ان مرفوع احادیث کے علاوہ حنفیہ کے مسلک کی تائید میں بے شمار آثار صحابہ و تابعین ملتے ہیں جن میں سے ایک حضرت ابن عمرؓ کے بارے میں ہے کہ مجاہدؒ کہتے ہیں میں نے ابن عمرؓ کے پیچھے نماز پڑھی انہوں نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ اپنے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ رفع یدین کی فضیلت کے قائل حضرات کی سب سے اہم دلیل حضرت ابن عمرؓ ہی سے منقول ہے۔ چنانچہ اصول حدیث کا قاعدہ ہے کہ راوی کا عمل اگر اس کی اپنی روایت کردہ حدیث کے خلاف ہو تو روایت پر عمل نہیں کیا جاتا۔

اس مختصر بحث کے بعد رفع یدین کے نہ کرنے کی روایات کو ترجیح دینے کی چند وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔

(۱) حضرت ابن مسعودؓ کی روایت میں کوئی اضطراب نہیں اور نہ ہی ان کا عمل اس کے خلاف منقول ہے جب کہ حضرت ابن عمرؓ کی روایتوں میں اختلاف بھی ہے اور خود ان کا عمل بھی اس کے خلاف ہے۔

(۲) احادیث کے تقاضے کے وقت صحابہ کرام کے تعامل کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ جب ہم اس پہلو سے دیکھتے ہیں تو کئی کبار صحابہ کا تعامل عدم رفع کا پاتے ہیں جب کہ رفع کے اثبات میں منقول روایات زیادہ تر کس صحابہ سے مروی ہیں۔

(۳) اہل مدینہ اور اہل کوفہ کا تعامل ترک رفع کا رہا ہے جب کہ دوسرے شہروں میں دونوں ہی موجود رہے ہیں۔

(۴) حضرت ابن مسعودؓ کی روایت کے تمام راوی فقیہ ہیں اور خود ابن مسعودؓ رفع یدین کے تمام راویوں سے بھی افتخار ہیں اور حدیث جو مسلسل فقہاء سے مروی، دوسری احادیث کے مقابلے میں راجح ہوتی ہے۔

ان دلائل سے عدم رفع یدین کی فضیلت واضح ہو جاتی ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۱۸۸۔ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ يَدَيْهِ عَلَى الرَّكْبَتَيْنِ فِي الرَّكُوعِ

باب ۱۸۸۔ رکوع میں دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھنا۔

۲۲۶۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا أَبُو بَكْرٍ بِنَ عِيَاشِ نَا

۲۲۶۔ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سے عمر بن

أَبُو حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ قَالَ لَنَا

خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: گھٹنوں کو پکڑنا تمہارے لئے سنت ہے۔

عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ الرُّكْبَ سُنَّةٌ فَخُذُوا بِالرُّكْبِ

لہذا (رکوع میں) گھٹنوں کو پکڑو۔

اس باب میں سعدؓ، انسؓ، ابو حمیدؓ، ابواسیدؓ، ہبل بن سعدؓ، محمد بن مسلمہؓ اور ابن مسعودؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت عمرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اسی پر صحابہ، تابعین اور بعد کے اہل علم کا عمل ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں، صرف حضرت ابن مسعودؓ اور ان کے بعض دوستوں سے مروی ہے۔ کہ یہ حضرات تطبیق کرتے تھے (۱)۔ تطبیق اہل علم کے نزدیک منسوخ ہو چکی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ فرماتے ہیں ہم تطبیق کیا کرتے تھے پھر اس سے منع کر دیا گیا اور یہ حکم دیا گیا کہ ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھیں۔

باب ۱۸۹۔ مَا جَاءَ أَنَّهُ يُحَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ فِي الرَّكُوعِ

باب ۱۸۹۔ رکوع میں دونوں ہاتھ کو پسلیوں سے دور رکھنا

۲۲۷۔ حَدَّثَنَا بَنْدَارٌ نَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ نَا فُلَيْحُ بْنُ

۲۲۷۔ حضرت عباس بن ہبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو حمید رضی اللہ

سُلَيْمَانَ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ قَالَ اجْتَمَعَ أَبُو حَمِيدٍ

عنہ، ابواسید رضی اللہ عنہ، ہبل بن سعد رضی اللہ عنہ اور محمد بن مسلمہ رضی

وَأَبُو أُسَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ

اللہ عنہ نے جمع ہو کر رسول اللہ ﷺ کی نماز کا تذکرہ شروع کیا۔ ابو حمید

فَدَكَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

نے کہا میں آپ ﷺ کی نماز کے متعلق تم سب سے زیادہ جانتا ہوں

فَقَالَ أَبُو حَمِيدٍ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

بے شک رسول اللہ ﷺ نے رکوع میں اپنے ہاتھوں کو اس طرح گھٹنوں پر

اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

رکھا، جیسے کہ انہیں پکڑے ہوئے ہوں اور انہیں کمان کی تانت کی طرح

(۱) تطبیق: دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر التجاء کرنے والے کی کیفیت کو کہتے ہیں۔ واللہ اعلم (مترجم)

وَالِهٖ وَسَلَّم رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا وَوَتَّرَ يَدَيْهِ فَتَنَحَّاهُمَا عَنْ جَنْبَيْهِ

کس کر رکھتے اور پسلیوں سے علیحدہ رکھتے۔

اس باب میں حضرت انسؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں کہ حدیث انس حسن صحیح ہے اور اس پر اہل علم کا عمل ہے کہ رکوع و سجود میں ہاتھوں کو پسلیوں سے علیحدہ رکھا جائے۔

باب ۱۹۰۔ مَا جَاءَ فِي التَّنْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ  
 ۲۲۸۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ أَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ  
 عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ اسْحَقَ بْنِ يَزِيدِ الْهَدَلِيِّ عَنْ  
 عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ  
 فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ  
 فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ وَذَلِكَ أَذْنَاهُ وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِي  
 سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ  
 سُجُودُهُ وَذَلِكَ أَذْنَاهُ

باب ۱۹۰۔ رکوع اور سجود میں تنبیح سے متعلق۔

۲۲۸۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا: اگر تم میں سے کوئی رکوع کرے تو تین مرتبہ ”سبحان ربی العظیم“ پڑھے۔ (اگر پڑھ لیا) تو اس کا رکوع پورا ہو گیا اور یہ اس کی کم سے کم مقدار ہے۔ اور جب سجدہ کرے تو تین مرتبہ ”سبحان ربی الاعلیٰ“ کہے۔ اس پر اس کا سجدہ مکمل ہو گیا اور یہ اس کی کم سے کم تعداد ہے۔

اس باب میں حذیفہؓ اور عقبہ بن عامرؓ سے روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں ابن مسعود کی حدیث کی سند متصل نہیں اس لیے کہ عوف بن عبد اللہ بن عتبہ کی حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے ملاقات ثابت نہیں اس پر اہل علم کا عمل ہے کہ رکوع اور سجدہ میں کم از کم تین تسبیحات پڑھنا مستحب ہے۔ ابن مبارک سے مروی ہے کہ امام کے لیے کم از کم پانچ مرتبہ تسبیحات پڑھنا مستحب ہے۔ تاکہ نمازی تین تسبیحات پڑھ سکیں اسحق بن ابراہیم بھی اسی کے قائل ہیں۔

۲۲۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ ابُو دَاوُدَ قَالَ  
 ابْنَانَا شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ  
 يَحْدُثُ عَنِ الْمَسْتَوْدِقِ عَنْ صَلَّةِ بْنِ زُفَرٍ عَنْ حُدَيْفَةَ  
 أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ  
 يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَفِي سُجُودِهِ  
 سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَمَا آتَى عَلَى آيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ  
 وَسَأَلَ وَمَا آتَى عَلَى آيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ وَتَعَوَّذَ

۲۲۹۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی آپ ﷺ رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجود میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے۔ اور جب کسی رحمت کی آیت پر پہنچتے تو اللہ تعالیٰ سے (رحمت) طلب کرتے اور جب کسی عذاب کی آیت پر پہنچتے تو توقف کرتے اور اس عذاب سے پناہ مانگتے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے محمد بن بشار نے عبد الرحمن بن مہدی سے اور انہوں نے شعبہ سے اس کے مثل حدیث نقل کی ہے۔

باب ۱۹۱۔ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

باب ۱۹۱۔ رکوع اور سجود میں قرآن پڑھنا منع ہے۔

۲۳۰۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ریشمی کپڑا پہننے، عصف (۱) کے رنگے ہوئے کپڑے پہننے سونے کی انگوٹھی (مرد کے لئے) پہننے اور رکوع میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا۔

۲۳۰۔ حدثنا اسحق بن موسى الانصاري نا معن نا مالك ح وثنا قتيبة عن مالك نافع عن ابراهيم بن عبدالله بن حنين عن ابيه عن علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تحتم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع

اس باب میں ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی حضرت علیؓ کی حدیث کو حسن کہتے ہیں۔ علماء صحابہ اور تابعین وغیرہ رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے کو مکروہ سمجھتے تھے۔

باب ۱۹۲۔ جو شخص رکوع اور سجدے میں اپنی کمرسیدھی نہ کرے۔

باب ۱۹۲۔ مَا جَاءَ فِيمَنْ لَا يُقِيمُ صَلَاتَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

۲۳۱۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص رکوع اور سجدے میں کمر کو سیدھا نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی (یہ اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز کے ارکان ادا کرنے سے کنایہ ہے) (۲)۔ (مترجم)

۲۳۱۔ حدثنا احمد بن منيع نا ابو معاوية عن الاعمش عن عمارة بن عمير عن ابي معمر عن ابي مسعود بن الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجزي صلوة لا يقيم الرجل فيها يعني صلته في الركوع وفي السجود

اس باب میں علی بن شیمانؓ، انسؓ، ابو ہریرہؓ اور رفاعہ زرقی سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ابو مسعود حسن صحیح ہے اور اس پر صحابہ اور بعد کے اہل علم کا عمل ہے کہ انسان رکوع اور سجدے میں اپنی کمر کو سیدھا رکھے۔ شافعی، احمد اور اسحاق کہتے ہیں کہ جو شخص رکوع اور سجدے میں اپنی کمرسیدھی نہیں کرتا اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ جس کی دلیل آنحضرت ﷺ کا یہ قول ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جو شخص نماز میں رکوع اور سجدے کے دوران کمرسیدھی نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ابو عمر کا نام عبد اللہ بن سخرہ ہے۔ اور ابو مسعود انصاری بدری کا نام عقبہ بن عمرو ہے۔

باب ۱۹۳۔ جب رکوع سے سر اٹھائے تو کیا پڑھے؟

باب ۱۹۳۔ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ الرُّكُوعِ

۲۳۲۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ رکوع سے اٹھتے ہوئے فرماتے ”سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولك الحمد ملا السماوات والارض وملأما بينهما وملأماشت من شيء بعد“ (ترجمہ: اللہ نے اس کی سن کی جس نے اس کی تعریف بیان کی اے اللہ اس زمین وآسمان اور جو کچھ ان

۲۳۲۔ حدثنا محمود بن غيلان نا ابودائود الطيالسي نا عبدالعزيز بن عبدالله بن ابي سلمة الماجشون نا عمى عبدالرحمن الاعرج عن عبد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله

(۱) عصف: نباتات کی ایک قسم ہے جو عرب میں معروف ہے اور مصفر اس کپڑے کو کہتے ہیں جسے اس سے رنگ دیا گیا ہو۔ اس کا رنگ زرد ہوتا ہے۔ (مترجم)

(۲) اس کا مقصد یہ ہے کہ نماز کا ہر رکن اتنے اطمینان اور سکون سے ادا کیا جائے کہ تمام اعضاء اپنے اپنے مقام پر استقرار پکڑ جائیں۔ (مترجم)

وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ مِثْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِثْلَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِثْلَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

دوتوں کے درمیان ہے۔ اور اس کے بعد جس قدر تو چاہے، تعریفیں تیرے ہی لئے ہیں۔

اس باب میں ابن عمرؓ، ابن عباسؓ، ابن ابی اوفیؓ، حقیفہؓ اور ابوسعیدؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت علیؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض علماء کا اسی پر عمل ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ فرض اور نفل تمام نمازوں میں اس دعا کو پڑھے جب کہ اہل کوفہ صرف نوافل میں پڑھنے کے قائل ہیں۔

باب ۱۹۴۔ اسی سے متعلق۔

باب ۱۹۴۔ مِنْهُ آخِرُ

۲۳۳۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب امام "سمع اللہ لمن حمدہ" کہے تو کہو "ربنا ولك الحمد" جس کا قول ملائکہ کے قول کے موافق ہو گیا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیئے گئے۔

۲۳۳۔ حَدَّثَنَا الْإِنصَارِيُّ نَا مَعْنِ نَا مَالِكٍ عَنْ سَمِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ صحابہ اور تابعین وغیرہ میں سے بعض اہل علم کا اس پر عمل ہے کہ امام "سمع اللہ لمن حمدہ" کہے تو مقتدی "ربنا ولك الحمد" کہیں۔ احمد کا بھی یہی قول ہے۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ مقتدی بھی امام کی طرح ہی کہے۔ "سمع اللہ لمن حمدہ" ربنا ولك الحمد" یہ شافعی اور اسحاق کا بھی قول ہے۔

باب ۱۹۵۔ سجدے میں گھٹنے ہاتھوں سے پہلے رکھے جائیں۔

باب ۱۹۵۔ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ فِي السُّجُودِ

۲۳۳۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو (نماز پڑھتے ہوئے) دیکھا آپ ﷺ سجدے میں جاتے ہوئے گھٹنے ہاتھوں سے پہلے (زمین پر) رکھتے اور اٹھتے ہوئے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے اٹھتے۔

۲۳۴۔ حَدَّثَنَا سَلْمَةُ بْنُ شَيْبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَنْبَرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَوَانِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ نَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ

حسن بن علی نے اپنی حدیث میں کہا کہ یزید بن ہارون کہتے ہیں کہ شریک نے عاصم بن کلیب سے اس کے علاوہ کوئی حدیث روایت نہیں کی۔ یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے شریک کے علاوہ کسی سند سے نہیں جانتے۔ اکثر علماء کا عمل اسی پر ہے کہ گھٹنوں کو

ہاتھوں سے پہلے رکھا جائے اور جب (سجڑے سے) اٹھے تو ہاتھ گھٹنوں سے پہلے اٹھائے۔ ہمام نے اس حدیث کو عاصم سے مرسل روایت کیا ہے اور اس میں وائل بن حجر کا ذکر نہیں کیا۔

باب ۱۹۶۔ اِحْرَمْنَه

باب ۱۹۶۔ اسی سے متعلق۔

۲۳۵۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ نَافِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْمَدُ أَحَدُكُمْ فَيَبْرِكُ فِي صَلَوَاتِهِ بَرَكُ الْحَمَلِ

۲۳۵۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ نماز کے دوران اونٹ کی طرح بیٹھے۔ (ہاتھ پہلے رکھنے کو اونٹ کے بیٹھنے سے مشابہت دی ہے اس لئے کہ اونٹ بھی پہلے آگے سے جھلکتا ہے) (مترجم)

امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہ کی حدیث غریب ہے اسے ہم ابو زناد کی سند کے علاوہ نہیں جانتے۔ یہ حدیث عبداللہ بن سعید مقبری سے بھی روایت ہے وہ اپنے والد سے، وہ ابو ہریرہ اور وہ حضور اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن سعید مقبری کو یحییٰ بن سعید تقان وغیرہ ضعیف کہتے ہیں۔

باب ۱۹۷۔ مَا جَاءَ فِي السُّجُودِ عَلَى الْجِبَةِ وَالْأَنْفِ

باب ۱۹۷۔ سجده، پیشانی اور ناک پر کیا جاتا ہے۔

۲۳۶۔ حَدَّثَنَا بِنْدَارٌ نَا أَبُو عَامِرٍ نَا فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ نَا السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ أَمَكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ الْأَرْضَ وَنَحَا يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَيْهِ حُدُومَنْكَبَيْهِ

۲۳۶۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب سجده کرتے تو ناک اور پیشانی کو زمین پر جما کر رکھتے۔ بازوؤں کو پسلیوں سے علیحدہ اور ہاتھوں کو کندھوں کے برابر رکھتے تھے۔

اس باب میں ابن عباسؓ، وائل بن حجرؓ اور ابو سعیدؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ابو حمید حسن صحیح ہے اور اسی پر اہل علم کا عمل ہے کہ سجده، ناک اور پیشانی پر کیا جائے۔ اگر کوئی صرف پیشانی پر کرے یعنی ناک کو زمین پر نہ رکھے تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے اور بعض دوسرے حضرات کا کہنا ہے کہ ناک زمین پر رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور صرف پیشانی پر سجده کرنا کافی نہیں۔

باب ۱۹۸۔ مَا جَاءَ آيِنَ يَضَعُ الرَّجُلُ وَجْهَهُ إِذَا سَجَدَ

باب ۱۹۸۔ جب سجده کیا جائے تو چہرہ کہاں رکھا جائے؟

۲۳۷۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ آيِنَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ وَجْهَهُ إِذَا سَجَدَ فَقَالَ بَيْنَ كَفَيْهِ

۲۳۷۔ ابو اسحاق کہتے ہیں میں نے براء بن عازب سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ جب سجده کرتے تو چہرہ کہاں رکھتے تھے؟ فرمایا: دونوں ہتھیلیوں کے درمیان۔

اس باب میں وائل بن حجر اور ابو حمید سے بھی روایت ہے۔ براء کی حدیث حسن غریب ہے اور اس کو بعض علماء نے اختیار کیا ہے کہ ہاتھ کانوں کے قریب رہیں۔

باب ۱۹۹۔ مَا جَاءَ فِي السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ  
۲۳۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا بَكْرُ بْنُ مِصْرٍ عَنِ ابْنِ  
الْهَادِي عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ  
بْنِ اَبِي وَقَاصِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنَّهُ سَمِعَ  
رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا  
سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةٌ اَرَابٍ وَجْهَهُ وَكَفَّاهُ  
وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ

باب ۱۹۹۔ سجدہ سات اعضا پر ہوتا ہے۔

۲۳۸۔ حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو اس کے سات اعضا بھی سجدہ کرتے ہیں۔ چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں۔

اس باب میں ابن عباسؓ، ابو ہریرہؓ، جابرؓ اور ابو سعیدؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی حدیث عباس کو حسن صحیح کہتے ہیں۔ اہل کوفہ کا اسی پر عمل ہے۔

۲۳۹۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو سات اعضا پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور یہ کہ آپ ﷺ کو (سجدے میں) بال اور کپڑے سنبھالنے سے منع کیا گیا۔

۲۳۹۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ عَمْرِو  
بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَمْرَ النَّبِيِّ  
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ  
اَعْضَاءٍ وَلَا يَكْفُ شَعْرَهُ وَلَا يَبِيْئَهُ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۲۰۰۔ سجدے میں اعضا کو الگ الگ رکھنا۔

۲۴۰۔ عبید اللہ بن عبد اللہ بن اقرم خزاعی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: میں اپنے والد کے ساتھ نمرہ (۱) کے مقام پر قاع (۲) میں تھا کہ کچھ سوار گزرے۔ نبی اکرم ﷺ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ اور جب آپ ﷺ سجدہ کرتے تو میں ان کے بغلوں کی سفیدی کو دیکھتا۔

باب ۲۰۰۔ مَا جَاءَ فِي التَّحَافِي فِي السُّجُودِ  
۲۴۰۔ حَدَّثَنَا اَبُو كَرِيْبٍ نَا اَبُو خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنِ  
دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَقْرَمِ  
الْخَزَاعِيِّ عَنْ اَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ اَبِي بِالْقَاعِ مِنْ نَمْرَةَ  
فَمَرَّتْ رُكْبَةٌ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ  
وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلِّي قَالَ فَكُنْتُ اَنْظُرُ اِلَى عُفْرَتِيْ اِنْطِيَه  
اِذَا سَجَدَ وَارَى بِيَاضَهُ

(۱) نمرہ: عرفات میں ایک جگہ کا نام ہے۔ (مترجم)

(۲) قاع: چھیل میدان کو کہتے ہیں۔ (مترجم)

اس باب میں ابن عباسؓ، ابو کسینہؓ، جابرؓ، احمر بن جزاءؓ، میمونہؓ، ابو حمیدؓ، ابو اسیدؓ، ابو مسعودؓ، سہل بن سعدؓ، محمد بن مسلمہؓ، براء بن عازبؓ، عدی بن عمیرؓ اور عائشہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں عبداللہ بن اقرم کی حدیث حسن ہے ہم اسے داؤد بن قیس کے علاوہ کسی اور روایت سے نہیں جانتے اور نہ ہی عبداللہ بن اقرم سے رسول اللہ ﷺ کی اس کے علاوہ کوئی روایت جانتے ہیں۔ اسی پر اہل علم کا عمل ہے۔ احمر بن جزاء صحابی ہیں ان سے ایک حدیث منقول ہے۔ عبداللہ بن اقرم زہری، حضرت ابو بکر صدیقؓ کے کاتب ہیں اور عبداللہ بن اقرم خزاعی اس حدیث کو رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۲۰۱۔ مَا جَاءَ فِي الْإِعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ

باب ۲۰۱۔ سجدے میں اعتدال سے متعلق

۲۴۱۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ أَبِي مَعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُوَيْبَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ وَلَا يَفْتَرِسْ ذِرَاعِيهِ أَفْتِرَاشَ الْكَلْبِ

۲۴۱۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اعتدال کے ساتھ کرے۔ اور بازوؤں کو کتے کی طرح نہ بچھائے۔

اس باب میں عبدالرحمن بن شبلؓ، براءؓ، انسؓ، ابو حمیدؓ اور حضرت عائشہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی اس حدیث کو حسن صحیح کہتے ہیں اس پر علماء کا عمل ہے کہ سجدے میں اعتدال کرے۔ اور ان حضرات کے نزدیک (بازوؤں کو) بچھانا یا درندوں کی طرح بیٹھنا مکروہ ہے۔

۲۴۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ أَبُو دَاوُدَ نَا شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ اغْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا تَيْسُطُنْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعِيهِ فِي الصَّلَاةِ بَسَطَ الْكَلْبِ

۲۴۲۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سجدے میں اعتدال کرو۔ تم میں سے کوئی بھی نماز کے دوران اپنے بازوؤں کو کتے کی طرح نہ پھیلائے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۲۰۲۔ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ الْيَدَيْنِ وَنَضْبِ الْقَدَمَيْنِ فِي السُّجُودِ

باب ۲۰۲۔ سجدے میں دونوں ہاتھ زمین پر رکھنا اور پاؤں کھڑے رکھنا۔

۲۴۳۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمَعْلَى بْنِ اسْدَنَا وَهَيْبٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ عَنْ غَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِرِضْعِ الْيَدَيْنِ وَنَضْبِ الْقَدَمَيْنِ

۲۴۳۔ حضرت عامر بن سعد اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہاتھوں کو زمین پر رکھنے اور پیروں کو کھڑا رکھنے کا حکم دیا۔

عبداللہ کہتے ہیں کہ معلیٰ نے حماد بن معده سے، انہوں نے محمد بن عجلان سے انہوں نے محمد بن ابراہیم سے اور انہوں نے عامر بن سعد سے اسی حدیث کے مثل روایت کی ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ نے ہمیں دونوں ہاتھ زمین پر رکھنے کا حکم دیا“۔ اس حدیث میں انہوں نے عامر بن سعید کے والد کا ذکر نہیں کیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید قطان اور کئی حضرات محمد بن عجلان سے

وہ محمد بن ابراہیم سے اور وہ عامر بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ ”آنحضرت ﷺ نے ہاتھوں کو زمین پر رکھنے اور پاؤں کو کھڑا رکھنے کا حکم دیا۔“ یہ حدیث مرسل اور وہیب کی حدیث سے اسحٰب ہے۔ اسی پر اہل علم کا اجماع ہے۔

باب ۲۰۳۔ ماجاء فی إقامة الصلْبِ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ وَالرُّكُوعِ

باب ۲۰۳۔ جب رکوع یا سجدے سے اٹھے تو پیٹھ (کمر) سیدھی کرے۔

۲۴۴۔ حدثنا احمد بن محمد بن موسى نا ابن المبارك نا شعبة عن الحكم عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب قال كانت صلوة رسول صلى الله عليه وآله وسلم اذا ركع واذا رفع رأسه من الركوع واذا سجد واذا رفع رأسه من السجود قريبا من السواء

۲۴۴۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نماز کے دوران جب رکوع کرتے یا رکوع سے سر اٹھاتے اور جب سجدہ کرتے یا سجدے سے سر اٹھاتے تو (یہ تمام افعال) تقریباً ایک دوسرے کے برابر ہوتے۔

اس باب میں حضرت انسؓ سے بھی روایت ہے۔ محمد بن بشار، محمد بن جعفر سے اور شعبہ سے اسی حدیث کے مثل روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں براء کی حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۲۰۴۔ ماجاء فی كراهية أن يُبادر الإمام في الركوع والسجود

باب ۲۰۴۔ رکوع اور سجدے میں امام سے پہل کرنا مکروہ ہے۔

۲۴۵۔ حدثنا بندار ثنا عبدالرحمان بن مهدى نا سفیان عن ابي إسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثنا البراء وهو غير كذوب قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرفع رأسه من الركوع لم يحن رجل منا ظهره حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنسجد

۲۴۵۔ عبد اللہ بن یزید کہتے ہیں کہ براء نے ہم سے روایت کی (وہ جھوٹے نہیں ہیں) اور کہا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھتے، جب آپ ﷺ رکوع سے سر اٹھاتے تو ہم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کمر کو نہ جھکا تا جب تک رسول اللہ ﷺ سجدے میں نہ جا چکے پھر ہم سجدہ کرتے۔

اس باب میں انسؓ، معاویہؓ، ابن مسعودؓ صاحب الجیوش اور ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث براء حسن صحیح ہے۔ اہل علم اسی پر عمل پیرا ہیں کہ مقتدی حضرات امام کی ہر فعل میں تابعداری کریں اور اس وقت تک رکوع میں نہ جائیں جب تک امام نہ چلا جائے۔ اور اس وقت تک رکوع سے سر نہ اٹھائیں جب تک امام نہ کھڑا ہو جائے۔ ہمیں علماء کے درمیان اس مسلک میں اختلاف کا علم نہیں۔

باب ۲۰۵۔ ماجاء فی كراهية الإقعاء بين السجدين

باب ۲۰۵۔ دونوں سجدوں کے درمیان اقعاء کرنا مکروہ ہے۔

۲۴۶۔ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن نا عبيد الله

۲۴۵۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے

بن موسیٰ نا اسرائیل عن ابی اسحاق عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ أَحِبُّ لَكَ مَا أَحْبَبْتُ لِنَفْسِي وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي لَا تَقْعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

فرمایا: اے علی! میں تمہارے لئے وہ پسند کرتا ہوں جو اپنے لئے پسند کرتا ہوں اور تمہارے لئے اس چیز کو برا سمجھتا ہوں جس کو اپنے لئے برا سمجھتا ہوں۔ تم دونوں سجدوں کے درمیان افتاء نہ کیا کرو۔

امام ترمذی کہتے ہیں اس حدیث کو ہمیں ابو اسحاق کے علاوہ کسی اور کے حضرت علیؑ سے روایت کرنے کا علم نہیں۔ ابو اسحاق، حارث سے اور وہ علیؑ سے روایت کرتے ہیں۔ بعض علماء حارث اعمور کو ضعیف کہتے ہیں اور اکثر اہل علم افتاء کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ اس باب میں عائشہؓ انسؓ اور ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے۔

باب ۲۰۶۔ افتاء کی اجازت کے متعلق

باب ۲۰۶۔ فی الرُّحْصَةِ فِي الْإِفْعَاءِ

۲۴۷۔ ابن جریج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسًا يقول قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين قال هي السنة فقلنا إنا لكرهه جفاء بالرجل قال بل هي سنة نبيكم

۲۴۷۔ ابن جریج، ابو زبیر سے اور وہ طاووس سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دونوں پاؤں پر افتاء کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا: یہ سنت ہے ہم نے کہا، ہم اسے آدمی پر ظلم سمجھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: بلکہ یہ تمہارے نبی ﷺ کی سنت ہے۔

۲۴۸۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ دونوں سجدوں کے درمیان (نماز میں) یہ دعا پڑھتے تھے۔ "اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني" (ترجمہ: اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، میری مصیبت اور نقصان کی تلافی کر، مجھے ہدایت عطا فرما اور مجھے رزق دے۔)

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض صحابہ اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ افتاء میں کوئی مضائقہ نہیں۔ یہ اہل مکہ میں سے بعض علماء وفقہاء کا قول ہے جب کہ اکثر اہل علم سجدوں کے درمیان افتاء کو مکروہ سمجھتے ہیں۔

باب ۲۰۷۔ دونوں سجدوں کے درمیان کیا پڑھے؟

باب ۲۰۷۔ مَا يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

۲۴۸۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ دونوں سجدوں کے درمیان (نماز میں) یہ دعا پڑھتے تھے۔ "اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني" (ترجمہ: اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، میری مصیبت اور نقصان کی تلافی کر، مجھے ہدایت عطا فرما اور مجھے رزق دے۔)

۲۴۸۔ حدثنا سلمة بن شبيب نا زيد بن حباب عن كامل ابى العلاء عن حبيب بن ابى ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول بين السجدين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني

حسن بن علیٰ خلّال، یزید بن ہارون سے وہ زید بن حباب سے اور وہ کامل ابو العلاء سے اسی کی مثل روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی حضرت ابن عباسؓ کی حدیث کو غریب کہتے ہیں یہ اسی طرح حضرت علیؑ سے بھی منقول ہے۔ شافعی، احمد اور اسحاق کا یہی قول ہے کہ یہ دعا فرائض و نوافل تمام نمازوں میں پڑھنا جائز ہے۔ بعض راوی حضرات یہ حدیث ابو العلاء کامل سے مرسل روایت کرتے ہیں۔

(۱) افتاء کی دو تفسیریں کی گئی ہیں، (۱) آدمی کو لہوں پر بیٹھے اور پاؤں اس طرح کھڑے کرے کہ گھٹنے کندھوں کے مقابل آجائیں اور دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک لے۔ یہ صورت باتفاق مکروہ ہے۔ (۲) دونوں پاؤں بچوں کے بل کھڑے کر کے ان پر بیٹھ جائے۔ اس کے بارے میں اختلاف ہے حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک یہ صورت بھی باتفاق مکروہ ہے۔ (مترجم)

باب ۲۰۸۔ مَا جَاءَ فِي الْإِعْتِمَادِ فِي السُّجُودِ

باب ۲۰۸۔ سجدے میں سہارا لینا۔

۲۴۹۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَشْتَكِي عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَشْتَكِي أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَشَقَّةَ السُّجُودِ عَلَيْهِمْ إِذَا نَفَرَجُوا فَقَالَ اسْتَعِينُوا بِالرُّكْبِ

۲۴۹۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے رسول اللہ ﷺ سے شکایت کی کہ سجدے میں اعضاء کو علیحدہ علیحدہ رکھنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: گھٹنوں کا سہارا لے لیا کرو۔ (یعنی کہنیوں کو گھٹنوں کے ساتھ نکال لیا کرو۔ واللہ اعلم مترجم)

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے ہم اسے ابوصالح کی روایت سے اس سند کے علاوہ نہیں جانتے وہ ابو ہریرہ سے اور وہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ لیکن لیث اسے اسی سند سے ابو العجلان سے روایت کرتے ہیں۔ سفیان بن عیینہ اور کئی حضرات سنی سے وہ نعمان بن ابی عیاش سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے اسی حدیث کے مثل روایت کرتے ہیں اور ان کی روایت لیث کی روایت سے صحیح ہے۔

باب ۲۰۹۔ كَيْفَ النَّهْوُضُ مِنَ السُّجُودِ

باب ۲۰۹۔ سجدے سے کیسے اٹھا جائے؟

۲۵۰۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا هَشِيمَ بْنَ خَالِدٍ الْحِذَاءِ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيُ فَكَانَ إِذَا كَانَ فِي وَتُرْمِنُ صَلَوَتَهُ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا

۲۵۰۔ حضرت مالک بن حویرث لیسبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ ﷺ نماز کے دوران طاق رکعات میں اس وقت تک نہ کھڑے ہوتے جب تک اچھی طرح بیٹھ نہ جاتے۔

امام ترمذی کہتے ہیں مالک بن حویرث کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر بعض اہل علم کا عمل ہے۔ ہمارے رفقاء بھی اسی کے قائل ہیں۔

باب ۲۱۰۔ مِنْهُ أَيْضًا

باب ۲۱۰۔ اسی سے متعلق

۲۵۱۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى نَا أَبُو معاوية خالداً بن اياس ويقال خالداً بن اياس عن صالح مولى التؤمة عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه

۲۵۱۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز میں دونوں پیروں کی انگلیوں پر زور دے کر کھڑے ہو جاتے تھے۔

امام ترمذی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث پر ہی اہل علم کا عمل ہے کہ پیروں کی انگلیوں پر زور دے کر کھڑا ہو جائے (یعنی بیٹھے نہیں) خالد بن ایاں محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں انہیں خالد بن ایاں بھی کہا جاتا ہے صالح مولیٰ تومہ، صالح بن ابی صالح ہیں اور ابوصالح کا نام بہان مدنی ہے۔

باب ۲۱۱۔ مَا جَاءَ فِي التَّشَهُدِ

باب ۲۱۱۔ تشهد کے متعلق

۲۵۲۔ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّرَوَيْ

۲۵۲۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ

ﷺ نے ہمیں سکھایا کہ جب ہم دوسری رکعت میں بیٹھیں تو یہ پڑھیں  
التحيات لله والصلوة..... حدیث کے آخر تک (ترجمہ: تمام  
تعریفیں اور بدنی عبادات (نماز وغیرہ) اور مالی عبادات (زکوٰۃ  
وغیرہ) اللہ ہی کے لئے ہیں۔ اے نبی ﷺ آپ پر سلام اور اللہ کی  
رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ ہم پر اور اللہ کے سوا کوئی عبادات کے لائق  
نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔

ناعبیدالله الاشجعی عن سفبان الشوری عن ابی اسحق  
عن الاسود بن یزید عن عبد الله بن مسعود قال  
عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا  
قَعَدْنَا فِي الرُّكْعَتَيْنِ أَنْ نَقُولَ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ  
وَالتَّطَيَّاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ  
السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ  
إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

اس باب میں ابن عمر، جابر، ابو موسیٰ اور عائشہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت ابن مسعود کی حدیث ان سے کئی  
اسناد سے مروی ہے۔ یہ حدیث آپ ﷺ سے مروی تمام احادیث میں اصح ہے (یعنی تشہد کے باقی میں اور اسی پر اکثر علماء صحابہ تابعین اور  
بعد کے اہل علم کا عمل ہے۔ سفیان ثوری، ابن مبارک احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔

باب ۲۱۲۔ اسی سے متعلق

باب ۲۱۲۔ مِنْهُ أَيْضًا

۲۵۳۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ  
ﷺ ہمیں تشہد اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن سکھاتے۔ چنانچہ  
فرماتے: التحیات المبارکات۔ آخر حدیث تک۔ (ترجمہ: تمام  
بارکات تعریفات اور تمام مالی و بدنی عبادات اللہ ہی کے لئے ہیں۔  
اے نبی ﷺ آپ پر سلام اور اللہ کی رحمتیں ہوں۔ ہم پر اور  
اللہ کے نیک و صالح بندوں پر بھی سلام ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ  
کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔

۲۵۳۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنِ  
سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ وَطَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُدَ  
كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ فَكَانَ يَقُولُ التَّحِيَّاتُ  
الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا  
النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ  
اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ  
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ابن عباس حسن صحیح غریب ہے۔ عبد الرحمن بن حمید روای نے بھی یہ حدیث ابو زبیر سے لیث بن سعد کی  
روایت کی مانند بیان کی ہے۔ ایمن بن نائل کی نے بھی یہ حدیث ابو زبیر سے روایت کی ہے لیکن یہ غیر محفوظ ہے۔ امام شافعی تشہد میں اس  
حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ (یعنی یہ دعا پڑھتے ہیں)

باب ۲۱۳۔ تشہد بغیر آواز کے پڑھنا

باب ۲۱۳۔ مَا جَاءَ أَنَّهُ يُخْفَى التَّشَهُدَ

۲۵۴۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تشہد (یعنی  
التحيات..... الخ) آہستہ (بغیر آواز) پڑھنا سنت ہے۔

۲۵۴۔ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجَعِيُّ نَا يُونُسَ بْنِ بَكْرِ  
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ  
عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُخْفَى  
التَّشَهُدُ

امام ترمذی کہتے ہیں ابن مسعود کی حدیث حسن غریب ہے اور اسی پر علماء کا عمل ہے۔

باب ۲۱۴۔ كَيْفَ الْجُلُوسُ فِي التَّشَهُدِ

باب ۲۱۳۔ تشہد میں کیسے بیٹھا جائے۔

۲۵۵۔ حدثنا ابو كريب نا عبد الله بن ادريس عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وايل بن حجر قال قدمت المدينة فقلت لا نظرنى الى صلوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما جلس يعنى للتشهد افترس رجله اليسرى ووضع يده اليسرى يعنى على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى

۲۵۵۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مدینہ آیا تو سوچا کہ رسول اللہ ﷺ کی نماز کو ضرور دیکھوں گا۔ چنانچہ آپ ﷺ جب تشہد کے لئے بیٹھے تو اپنا بائیں پاؤں بچھایا اور بائیں ہاتھ بائیں ران پر رکھا اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھا۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر اکثر علماء کا قول ہے۔ سفیان ثوری، ابن مبارک اور اہل کوفہ اسی کے قائل ہیں۔

باب ۲۱۵۔ مِنْهُ أَيْضًا

باب ۲۱۵۔ اسی سے متعلق۔

۲۵۶۔ حدثنا بندار نا ابو عامر العقدي نا فليح بن سليمان المدني نا عباس بن سهل الساعدي قال اجتمع ابو حميد و ابو أسيد و سهل بن سعد و محمد بن مسلمة فذكروا صلوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ابو حميد انا أعلمكم بصلوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يعنى للتشهد افترس رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بأصبعه يعنى السبابة

۲۵۶۔ حضرت عباس بن سہل ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو حمید، ابو اسید رضی اللہ عنہ، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہم ایک جگہ جمع ہوئے، اور رسول اللہ ﷺ کی نماز کا تذکرہ شروع کر دیا۔ چنانچہ ابو حمید رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں آپ ﷺ کی نماز کے بارے میں تم سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ آپ ﷺ تشہد کے لئے بیٹھے تو بائیں پاؤں بچھایا، اور سیدھے پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ کی طرف کیا۔ پھر سیدھا ہاتھ دائیں گھٹنے پر اور بائیں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھا اور اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور یہ بعض علماء کا قول ہے۔ شافعی، احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں کہ آخری تشہد میں تورک (۱) کرے اس مسلک پر یہ حضرات ابو حمید کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ مزید کہتے ہیں کہ پہلے تشہد میں بائیں پاؤں پر بیٹھے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھا۔

باب ۲۱۶۔ مَا جَاءَ فِي الْإِشَارَةِ

باب ۲۱۶۔ تشہد میں اشارے سے متعلق

۲۵۷۔ حدثنا محمود بن غيلان ويحيى بن موسى قالنا نا عبد الرزاق عن معمر عن عبيد الله بن

۲۵۷۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نماز میں جب بیٹھے تو دایاں ہاتھ گھٹنے پر رکھتے اور انگوٹھے کے ساتھ والی

(۱) تورک: اس کے معنی یہ ہیں کہ کولھے پر بیٹھ کر بائیں پاؤں کو دائیں طرف نکال دے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر دے یا پھر دونوں پاؤں دائیں طرف کر دے۔ (مترجم)

انگی کو اٹھاتے اور دعا کرتے۔ آپ کا بائیاں ہاتھ بھی گھٹنے پر ہوتا اور اس کی انگلیاں پھیلی ہوئی ہوتیں۔

عمر عن نافع عن عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ وَرَفَعَ إِبْصَعَهُ الَّتِي تَلِي الْأُيْهُامَ يَدْعُو بِهَا وَيَدُّهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بِأَسْطَافِهَا عَلَيْهِ

اس باب میں عبد اللہ زبیر، نمیر خزاعی، ابو ہریرہ، ابو حمید اور وائل بن حجر سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی حدیث ابن عمر کو حسن غریب کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم اس حدیث کو عبید اللہ بن عمر سے اس سند کے علاوہ نہیں جانتے۔ بعض صحابہ اور تابعین اسی پر عمل کرتے ہیں یعنی یہ حضرات تشہد میں اشارے کا مسلک اختیار کرتے ہیں۔ یہی ہمارے اصحاب کا قول ہے۔

باب ۲۱۷۔ مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاةِ

باب ۲۱۷۔ نماز میں سلام پھیرنا  
۲۵۸۔ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ، حضور اکرم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ دائیں اور بائیں سلام پھیرتے اور فرماتے "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" یعنی تم پر سلام اور اللہ کی رحمت ہو۔

۲۵۸۔ حَدَّثَنَا بِنْدَارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ نَا سَفِينٌ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

اس باب میں سعد بن ابی وقاص، ابن عمر، جابر بن سمرہ، براء، عمار، وائل بن حجر، عدی بن عمیرہ اور جابر بن عبد اللہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں عبد اللہ بن مسعود کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر صحابہ اور بعد کے اہل علم کی اکثریت کا عمل ہے۔ یہ قول سفیان ثوری، ابن مبارک، احمد اور اسحاق کا بھی ہے۔

باب ۲۱۸۔ اسی سے متعلق

باب ۲۱۸۔ مِنْهُ أَيْضًا

۲۵۹۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز میں ایک سلام چہرے کے سامنے کی طرف پھیرتے پھر دہنی طرف تھوڑا سا جھکتے۔

۲۵۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النِّيسَابُورِيُّ نَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ زَهِيرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تَلْقَاءَ وَجْهِهِ ثُمَّ يَمِيلُ إِلَى الشِّقِّ الْيُمْنِيِّ شَيْئًا

اس باب میں سہل بن سعد سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ہم حضرت عائشہ کی حدیث کو اس سند کے علاوہ مرفوع نہیں جانتے۔ امام بخاری کہتے ہیں: اہل شام، زہیر بن محمد سے مگر احادیث روایت کرتے ہیں۔ اہل عراق کی روایت ان سے اشد بہتر ہے۔ بخاری اور احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ شاید جو زہیر بن محمد شام گئے وہ یہ نہیں ہیں جن سے اہل عراق روایت کرتے ہیں۔ شاید وہ کوئی اور ہیں جن کا نام تبدیل کر دیا گیا ہے۔ بعض علماء نماز میں ایک سلام پھیرنے کے قائل ہیں جب کہ دو سلام پھیرنے والی روایات صحیح ہیں اور اسی پر علماء کی اکثریت عمل پیرا ہے جن میں صحابہ، تابعین اور بعد کے علماء شامل ہیں۔ صحابہ اور تابعین وغیرہ کی ایک جماعت فرض نماز میں ایک سلام کی قائل ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں اگر چاہے تو ایک سلام پھیرے اور اگر چاہے کہ دو سلام پھیرے تو دو سلام پھیرے۔

باب ۲۱۹۔ مَا جَاءَ أَنْ حَذَفَ السَّلَامُ سُنَّةً

باب ۲۱۹۔ سلام کو حذف کرنا سنت ہے۔ (۱)

۲۶۰۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَالْهَقْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنِ قُرَّةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَذَفَ السَّلَامُ سُنَّةً قَالَ عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ لَا تَمُدَّهُ مَدًّا

۲۶۰۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سلام کو حذف کرنا سنت ہے۔ علی بن حجر فرماتے ہیں کہ ابن مبارک فرماتے تھے اس میں مد نہ کیا کرو۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء اس کو مستحب کہتے ہیں۔ ابراہیم نخعی سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: تکبیر اور سلام دونوں میں وقف کیا جائے۔ ہقل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام اوزاعی کے کاتب تھے۔

باب ۲۲۰۔ سَلَامٌ يَبْهَرُ نَفْسَ الْبَدِيءِ كَيْفَ؟

باب ۲۲۰۔ مَا يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ

۲۶۱۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا أَبُو معاوية عَنِ عاصمِ الْاَحْوَلِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ لَا يَقْعُدُ إِلَّا مَقْدَارَ مَا يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

۲۶۱۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب (نماز سے) سلام پھیرتے تو صرف اتنی دیر بیٹھتے جتنی دیر میں یہ دعا پڑھتے ”اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاکرام“ (ترجمہ: یا اللہ تو ہی سلام ہے اور سلامتی تجھ ہی سے ہے تو بڑی برکت والا، عزت والا اور بزرگی والا ہے)۔

ہناد، مروان بن معاویہ اور ابو معاویہ سے اور وہ عاصم احوال سے اسی سند سے اسی کے مثل روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں ”تبارک یا ذا الجلال والاکرام“ اور اس باب میں ثوبان، ابن عمر، ابن عباس، ابو سعید، ابو ہریرہ اور مغیرہ بن شعبہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت عائشہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ حضور اکرم ﷺ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ سلام پھیرنے کے بعد فرماتے ”لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير۔ اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجدمنك الجدم“ (ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تبارک ہے اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہت تعریف اسی کیلئے ہیں زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یا اللہ جو تو عطا کرے اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ اور جو تو نہ دینا چاہے وہ کوئی نہیں دے سکتا۔ کسی کوشش کرنے والے کی کوئی کوشش کام نہیں آتی) اور یہ بھی پڑھتے۔ ”سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين“ (ترجمہ: آپ کا رب بڑی عظمت والا اور ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ اور سلام ہو پیغمبروں پر اور تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔

۲۶۲۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُبَارَكِ نَا الْاَوْزَاعِيُّ نَا شَدَادُ أَبُو عَمَارٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو اسْمَاءَ الرَّحْبِيُّ قَالَ ثُوْبَانٌ مَوْلَى

۲۶۲۔ رسول اللہ ﷺ کے مولیٰ ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ نماز سے فارغ ہوتے تو تین مرتبہ استغفار کرتے اور پھر کہتے ”انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال

(۱) سلام کو حذف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ”ورحمۃ اللہ“ کی ”ہ“ پر وقف کر دیا جائے۔ یعنی اس کی حرکت ظاہر نہ کی جائے۔ یا پھر یہ کہ اس کے مد والے حروف کو زیادہ نہ کھینچا جائے۔ یہ دونوں تفسیریں صحیح ہیں اور دونوں پر ہی عمل کرنا چاہئے۔ (مترجم)

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَعْفَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابوعمار کا نام شہداد بن عبد اللہ ہے۔

باب ۲۲۱۔ مَا جَاءَ فِي الْإِنْصِرَافِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ

باب ۲۲۱۔ نماز کے بعد (امام کا) دونوں جانب گھومنا۔

۲۶۳۔ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ أَبِي أَحْوَصٍ عَنْ سَمَاعِ بْنِ

۲۶۳۔ قبيصہ بن ہلب اپنے والد سے نقل کرتے ہیں۔ کہ انہوں نے

فرمایا: آقائے نامدار رضی اللہ عنہم ہماری امامت کرتے اور (فراغت کے بعد)

دونوں جانب سے گھوم کر بیٹھے کبھی دائیں طرف سے اور کبھی بائیں

حَرْبٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هَلْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَيَنْصَرِفُ عَلَى

جَانِبَيْهِ جَمِيعًا عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ

اس باب میں عبد اللہ بن مسعود، انس، عبد اللہ بن عمرو اور ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ہلب کی حدیث حسن

ہے اور اسی پر اہل علم کا عمل ہے کہ جس طرف سے چاہے گھوم کر بیٹھے چاہے تو دائیں جانب سے اور چاہے تو بائیں جانب سے یہ دونوں ہی

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب سے مروی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دائیں طرف سے کوئی حاجت ہوتی تو دائیں طرف

سے گھومتے اور اگر بائیں طرف سے کوئی حاجت ہوتی تو بائیں طرف سے گھوم کر بیٹھے۔

باب ۲۲۲۔ مَا جَاءَ فِي وَصْفِ الصَّلَاةِ

طرف سے۔

۲۶۴۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا اسْمَعِيلَ بْنَ جَعْفَرَ

باب ۲۲۲۔ پوری نماز کی صفت

۲۶۴۔ حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ

ایک دیہاتی شخص آیا اور خفیف (۱) سی نماز پڑھ کر فارغ ہوا اور آپ

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جاؤ اور نماز پڑھو تم نے نماز

نہیں پڑھی۔ وہ شخص واپس ہوا اور دوبارہ نماز پڑھ کر پھر حاضر ہوا اور

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جاؤ اور نماز پڑھو تم نے نماز

نہیں پڑھی۔ دویا تین مرتبہ ایسا ہوا۔ ہر مرتبہ وہ آتا اور سلام کرتا اور آپ

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی کہتے کہ جاؤ اور نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس پر لوگ

گھبرا گئے اور ان پر یہ بات شاق گزری کہ جس نے خفیف نماز پڑھی

گویا کہ پڑھی ہی نہیں۔ چنانچہ اس شخص نے آخر میں عرض کیا مجھے

عَنْ يَحْيَى بْنِ عَلِيٍّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادِ بْنِ رَافِعِ

الزَّرْقِيِّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي

الْمَسْجِدِ يَوْمًا قَالَ رِفَاعَةُ وَنَحْنُ مَعَهُ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ

كَالْبَدَوِيِّ فَصَلَّى فَأَخَفَّ صَلَاتَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ فَسَلَّمَ

عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ فَارْجِعْ فَصَلِّ

فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَارْجِعْ فَصَلِّ ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ.....

فَقَالَ عَلَيْكَ فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ مَرَّتَيْنِ

أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

(۱) خفیف سے مراد ارکان و واجبات نماز کو اطمینان کے ساتھ ادا نہ کرنا ہے۔ (مترجم)

ﷺ نے فرمایا: ٹھیک ہے! جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح وضو کرو پھر اذان دو اور اقامت کہو پھر اگر تمہیں قرآن میں سے کچھ یاد ہو تو پڑھو۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی بزرگی بیان کرو۔ اور لا الہ الا اللہ پڑھو۔ پھر رکوع کرو۔ اور اطمینان کے ساتھ کرو پھر سیدھے کھڑے ہو جاؤ پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، پھر اطمینان سے بیٹھو پھر کھڑے ہو جاؤ۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری نماز مکمل ہوگی اور اگر اس میں کچھ کمی ہوئی تو تمہاری نماز میں کمی ہوگی۔ رفاع کہتے ہیں کہ یہ چیز ہم لوگوں کے لئے پہلی چیز سے آسان تھی کہ جو کمی رہ گئی وہ تمہاری نماز میں کمی ہوئی اور پوری کی پوری نماز بیکار نہیں گئی۔

وَسَلَّمَ فَيَسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  
فَيَقْبَلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ  
فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَعَافَ النَّاسُ وَكَبَّرَ  
عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونُ مَنْ أَخَفَّ صَلَوَتَهُ لَمْ يُصَلِّ فَقَالَ  
الرَّجُلُ فِي إِخْرَ ذَلِكَ قَارِنِي وَعَلِمَنِي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ  
أَصِيبُ وَأُحْطَى فَقَالَ أَجَلٌ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ  
فَتَوَضَّأَ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ ثُمَّ تَشَهَّدَ فَأَقِمِ أَيضًا فَإِنْ  
كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ وَإِلَّا فَاحْمَدِ اللَّهَ وَكَبِّرْهُ وَ  
هَلِّلْهُ ثُمَّ ارْكَعْ فَاطْمِئِن رَاكِعًا ثُمَّ اعْتَدِلْ قَائِمًا ثُمَّ  
اسْحُدْ فَاعْتَدِلْ سَاجِدًا ثُمَّ اجْلِسْ فَاطْمِئِن جَالِسًا  
ثُمَّ قُمْ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَوَتُكَ وَإِنْ  
انْتَقَصَتْ مِنْهُ شَيْئًا انْتَقَصَتْ مِنْ صَلَوَتِكَ قَالَ وَكَانَ  
هَذَا أَهْوَنَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْأَوْلَى إِنَّهُ مِنَ انْتَقَصَ مِنْ  
ذَلِكَ شَيْئًا انْتَقَصَ مِنْ صَلَوَتِهِ وَلَمْ تَذْهَبْ كُلُّهَا

اس باب میں ابو ہریرہ اور عمار بن یاسر سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں حضرت رفاع کی حدیث حسن ہے اور انہی سے کئی سندوں سے مروی ہے۔

۲۶۵۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سجدہ میں داخل ہوئے تو ایک شخص اور بھی داخل ہوا۔ اور نماز پڑھی۔ پھر آیا اور رسول اللہ ﷺ کو سلام کیا آپ ﷺ نے جواب دیا اور فرمایا: واپس جاؤ اور نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی وہ شخص واپس گیا اور اسی طرح نماز پڑھی جس طرح پہلے پڑھی تھی پھر آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ آپ ﷺ نے سلام کا جواب دیا اور اس سے فرمایا: جاؤ اور نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ تین مرتبہ ایسا ہی کیا اس شخص نے عرض کیا۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ ﷺ کو سچا دین دے کر بھیجا میں اس سے بہتر نہیں پڑھ سکتا مجھے سکھائیے چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا: جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو تکبیر کہو (تکبیر تحریر) اور پھر قرآن میں سے جو کچھ یاد ہو پڑھو پھر اطمینان کے ساتھ رکوع کرو پھر اٹھو اور

۲۶۵۔ حدثنا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد  
القطان نا عبيدالله بن عمر قال اخبرني سعيد بن  
ابى سعيد عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله  
صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد فدخل  
رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله  
عليه وآله وسلم فرد عليه السلام فقال ارجع فصل  
فإنك لم تصل فرجع الرجل فضنى كما كان صلى  
ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسلم  
عليه فرد عليه فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل  
حتى فعل ذلك ثلث مرات فقال له الرجل والذى  
بعثك بالحق ما أحسن غير فعلمني فقال إذا قمت

سیدھے کھڑے ہو جاؤ پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو پھر اٹھو اور اطمینان سے بیٹھو اور پوری نماز میں اسی طرح کرو۔

إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبَّرَ ثُمَّ أَمَّا بِمَا تَسْرَعُ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ  
ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ  
قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى  
تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یہ حدیث ابن نمیر نے عبد اللہ بن عمرؓ سے انہوں نے سعید مقبری سے اور انہوں نے ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے اور اس میں سعید مقبری کے والد کا ذکر نہیں کیا کہ وہ ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں۔ یحییٰ بن سعید کی روایت عبد اللہ بن عمرؓ سے اسح ہے۔ سعید مقبری نے ابو ہریرہؓ سے احادیث سنی ہیں۔ اور اپنے والد سے بحوالہ ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں۔ ابو سعید مقبری کا نام کیسان ہے اور سعید مقبری کی کنیت ابو سعید ہے۔

۲۶۶۔ محمد بن عمرو بن عطاء، ابو سعید ساعدی رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے ابو سعید کو کہتے ہوئے سنا اس وقت وہ دس صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے جن میں ابو قتادہ بن ربیع بھی شامل ہیں۔ کہ میں رسول اللہ ﷺ کی نماز کے متعلق تم سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ صحابہ نے فرمایا: تم نہ حضور اکرم ﷺ کی صحبت میں ہم سے پہلے آئے اور نہ ہی تمہاری حضور اکرم ﷺ کے ہاں زیادہ آمد و رفت تھی۔ ابو سعید نے فرمایا یہ تو صحیح ہے۔ صحابہ نے فرمایا: بیان کرو۔ ابو سعید نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو سیدھے کھڑے ہوتے اور دونوں ہاتھ کندھوں تک لے جاتے۔ جب رکوع کرنے لگتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک لے جاتے اور اللہ اکبر کہہ کر رکوع کرتے اور اعتدال کے ساتھ رکوع کرتے نہ سر کو جھکاتے اور نہ ہی اونچا کرتے اور دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے پھر ”سبح اللہ لمن حمدہ“ کہتے اور ہاتھوں کو اٹھاتے اور معتدل کھڑے ہوتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہنچ جاتی پھر سجدے کے لئے زمین کی طرف جھکتے اور اللہ اکبر کہتے اور بازوؤں کو بظلوں سے علیحدہ رکھتے اور پاؤں کی انگلیاں زمی کے ساتھ قبلہ رخ کر دیتے پھر بایاں پاؤں موڑ کر اس پر اعتدال کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہنچ جاتی۔ پھر سجدے کے لئے سر جھکاتے اور اللہ اکبر کہتے پھر کھڑے ہوتے اور ہر رکعت میں اسی طرح کرتے۔ یہاں تک کہ جب دونوں سجدوں سے اٹھتے تو تکبیر کہتے اور دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے جیسے کہ نماز کے شروع

۲۶۶۔ حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي  
الحوطاني وغير واحد قالوا نا ابو عاصم نا  
عبد الحميد بن جعفر نا محمد بن عمر وبن عطاء  
عن ابي حميد بن الساعدي قال سمعته وهو في  
عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم  
احدهم ابو قتادة بن ربعي يقول انا اعلمكم بصلوة  
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا اما كنت  
اقتناله ضحبة ولا اكثر ناله اتيانا قال بلى قالوا  
فاعرض فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله  
وسلم اذا قام الى الصلوة اعتدل قائما ورفع يديه  
حتى يخالذي بهما منكبيه فاذا اراد ان يركع رفع  
يديه حتى يخالذي بهما منكبيه ثم قال الله اكبر  
وركع ثم اعتدل فلم يصب رأسه ولم يفتنع ووضع  
يديه على ركبتيه ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع  
يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه  
معتدلا ثم هوى الى الارض ساجدا ثم قال الله  
اكبر ثم جافى عضديه عن انطيه وفتح اصابع  
رجليه ثم ننى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل  
حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ثم هوى  
ساجدا ثم قال الله اكبر ثم ننى رجله وقعد واعتدل

میں کیا تھا پھر اسی طرح کرتے یہاں تک کہ ان کی نماز کی آخری رکعت آجاتی۔ چنانچہ بائیں پاؤں کو ہٹاتے اور کولھے پر توروک کے ساتھ بیٹھ جاتے اور پھر سلام پھیر دیتے۔

حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظِيمٍ فِي مَوْضِعِهِ ثُمَّ نَهَضَ ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَتَكِبَتَيْهِ كَمَا صَنَعَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ثُمَّ صَنَعَ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَتْ الرَّكْعَةُ الَّتِي تَنْقُضِي فِيهَا صَلَاتَهُ آخِرَ رِحْلَةِ الْبُسْرَى وَقَعَدَ عَلَى شِقِّهِ مُتَوَرِّكًا ثُمَّ سَلَّمَ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ”اذا قام من السجدةین“ سے مراد یہ ہے کہ جب دو رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے تو رفع یدین کرتے۔ محمد بن بشر حسن بن علی حلوانی اور کئی حضرات ابو عاصم سے وہ عبد الحمید بن جعفر سے اور وہ محمد بن عمرو بن عطاء سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو حمید غزالی صحابہ کی موجودگی میں جن میں ابو قتادہ بھی شامل ہیں۔ کہتے ہوئے سنا کہ..... الحدیث پھر یحییٰ بن سعید کی حدیث کی مانند حدیث بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث میں عاصم نے عبد الحمید بن جعفر کے حوالے سے یہ حرف زیادہ بیان کیے ہیں کہ پھر صحابہ نے فرمایا: تم نے صحیح کہا رسول اللہ ﷺ نے اسی طرح نماز پڑھی۔

باب ۲۲۲۔ فجر کی نماز میں قرأت سے متعلق

۲۶۷۔ زیاد بن علاقہ اپنے چچا قطبہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ فجر کی پہلی رکعت میں ”والتخل باسقات“ (۱) پڑھتے ہوئے سنا۔

باب ۲۲۳۔ ماجاء فی القراءة فی الصبح

۲۶۷۔ حدثنا هنادنا وكيع عن مسعرو سفيان عن زياد بن علاقہ عن عبيد قطبة بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الفجر والتخل باسقات في الركعة الأولى

اس باب میں عمرو بن حریش، جابر بن سرہ، عبد اللہ بن سائب، ابو ہریرہ اور ام سلمہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں قطبہ بن مالک کی حدیث حسن صحیح ہے آپ ﷺ سے فجر کی نماز میں سورہ واقعہ کا پڑھنا بھی منقول ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ آپ ﷺ فجر میں ساتھ سے لے کر سواتیوں تک تلاوت کیا کرتے تھے یہ بھی مروی ہے کہ آپ ﷺ نے ”اذا الشمس كورت“ (سورہ تکویر) پڑھی۔ حضرت عمرؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے ابوسویؓ کو لکھا کہ فجر میں طوال مفصل (۲) پڑھا کرو۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ اہل علم کا اسی حدیث پر عمل ہے اور یحییٰ سفیان ثوری، ابن مبارک اور امام شافعی کا قول ہے۔

باب ۲۲۴۔ ظہر اور عصر میں قرأت کے متعلق۔

۲۶۸۔ حضرت جابر بن سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ظہر اور عصر کی نماز میں سورہ بروج اور السام والطارق اور اسی طرح کی

باب ۲۲۴۔ ماجاء فی القراءة فی الظہر والعصر

۲۶۸۔ حدثنا احمد بن منيع نايزيد ابن هارون نا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن جابر بن

(۱) یہ آیت سورہ ”ق“ کی ہے یعنی آپ ﷺ نے پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھی (مترجم)

(۲) سورہ حجرات سے سورہ بروج تک طوال مفصل، سورہ بروج سے سورہ الہود تک اوساط مفصل اور سورہ الہود سے آخر تک قصار مفصل

سَمْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَشَبَهَيْمَا

اس باب میں خبابؓ، ابوسعیدؓ، ابوقادہؓ، زید بن ثابتؓ اور براءؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ جابر بن سمرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ حضور اکرم ﷺ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے ظہر کی نماز میں سورہ ”الم سجدہ“ پڑھی۔

ایک اور جگہ مروی ہے کہ ظہر کی پہلی رکعت میں تیس آیتوں کے برابر پڑھتے اور دوسری میں پندرہ آیتوں کے برابر پڑھتے تھے۔ حضرت عمرؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے ابوموسیٰؓ کو خط لکھا کہ ”ظہر کی نماز میں اوساط مفصل پڑھا کرو“۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ عصر کی قرأت مغرب کی قرأت کی طرح ہے۔ اس میں قصار مفصل پڑھے۔ ابراہیم نخعی سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: عصر کی نماز قرأت میں مغرب کے برابر رکھی جائے اور ابراہیم کہتے ہیں کہ ظہر میں عصر سے چار گنا زیادہ قرأت کی جائے۔

باب ۲۲۵۔ ماجاء فی القراءۃ فی المغرب مغرب میں قرأت سے متعلق۔

۲۶۹۔ حدثنا هناد عن عبدة عن محمد بن اسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن أمه أم الفضل قالت خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عاصب رأسه في مرضه فصلى المغرب فقرا بالمرسلات فما صلها بعد حتى لقي الله عز وجل

۲۶۹۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنی والدہ ام فضل رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں انہوں نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ اپنی بیماری میں ہماری طرف تشریف لائے آپ ﷺ سر پر پٹی باندھے ہوئے تھے چنانچہ آپ ﷺ نے مغرب کی نماز میں سورہ مرسلات پڑھی، اور اس کے بعد وفات تک یہ سورت نہ پڑھی (یعنی مغرب میں)

اس باب میں جبیر بن مطعمؓ، ابن عمرؓ، ابویوبؓ اور زید بن ثابتؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں۔ حدیث ام فضل حسن صحیح ہے۔ آپ ﷺ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے مغرب کی دونوں رکعتوں میں سورہ اعراف پڑھی۔ یہ بھی مروی ہے کہ مغرب میں سورہ طور پڑھی۔ حضرت عمرؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے ابوموسیٰؓ کو لکھا کہ مغرب کی نماز میں قصار مفصل پڑھا کرو۔ حضرت ابوبکرؓ سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے مغرب میں قصار مفصل پڑھی۔ امام ترمذی کہتے ہیں اسی پر علماء کا عمل ہے اور یہ ابن مبارکؓ، احمد اور اسحاق کا قول ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں: مالک کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ مغرب میں لمبی سورتوں کو مکروہ سمجھتے تھے جیسے کہ سورہ طور اور مرسلات شافعی کہتے ہیں میں اسے مکروہ نہیں سمجھتا بلکہ مستحب سمجھتا ہوں کہ مغرب میں یہ سورتیں پڑھی جائیں۔

باب ۲۲۶۔ ماجاء فی القراءۃ فی صلوٰۃ العشاء عشاء میں قرأت سے متعلق۔

۲۷۰۔ حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي نا زيد بن الحباب نا ابن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في العشاء بالآخرة بالشمس وضلحها ونحوها من السور

۲۷۰۔ حضرت عبد اللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہما اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ عشاء کی نماز میں سورہ شمس اور اسی طرح کی سورتیں پڑھا کرتے تھے۔

اس باب میں براء بن عازب سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں بریدہ کی حدیث حسن ہے۔ نبی اکرم ﷺ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ ﷺ نے عشاء میں ”والتین والزيتون“ پڑھی۔ حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں مروی ہے کہ عشاء میں اوساط مفصل پڑھتے تھے۔ جیسے سورہ منافقون اور اس طرح کی سورتیں۔ صحابہ اور تابعین کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے اس سے کم اور زیادہ دونوں طرح پڑھا ان کے نزدیک اس باب میں وسعت ہے۔ اس میں آپ ﷺ سے مروی احادیث میں سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ ﷺ نے ”والشمس وضحها“ اور ”والتین والزيتون“ پڑھی۔

۲۷۱۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے عشاء کی نماز میں ”والتین والزيتون“ پڑھی۔

۲۷۱ - حدثنا هنادنا ابو معاوية عن يحيى ابن سعيد الانصاري عن عدی بن ثابت عن البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قرأ في العشاء الاخرة بالتين والزيتون  
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۲۲۷۔ امام کے پیچھے قرآن پڑھنا

باب ۲۲۷۔ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ وَخَلْفَ الْإِمَامِ

۲۷۰۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے فجر کی نماز پڑھی۔ اس میں آپ ﷺ کے لئے قرأت میں مشکل پیش آئی۔ جب فارغ ہوئے تو فرمایا: شاید تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو۔ براء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے کہا، ہاں یا رسول اللہ! اللہ کی قسم۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ایسا نہ کیا کرو۔ صرف سورہ فاتحہ پڑھا کرو کیوں کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔

۲۷۲ - حدثنا هنادنا عبدة بن سليمان عن محمد بن اسحق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال صلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الصبح فنقلت عليه القراءة فلما انصرفت قال اني اراكم تقرؤون وراة امامكم قال قلنا يا رسول الله اى والله قال لا تفعلوا الا بام القرآن فانه لا صلوة لمن لم يقرأ بها

اس باب میں ابو ہریرہ، عائشہ، انس، ابو قتادہ اور عبد اللہ بن عمرو سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں عبادہ کی حدیث حسن ہے۔ یہ حدیث زہری، محمود بن ربیع سے اور وہ عبادہ بن صامت سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی اور یہ اصح ہے۔ اکثر صحابہ اور تابعین کا مسئلہ قراءۃ حلف الامام (امام کے پیچھے قرأت کرنا) میں اسی حدیث پر عمل ہے۔ یہ مالک بن انس، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے۔ ان کے نزدیک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے قراءت کرنی چاہیے۔

باب ۲۲۸۔ اگر امام زور سے پڑھے تو مقتدی قرأت نہ کرے۔

باب ۲۲۸۔ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الْقِرَاءَةِ وَخَلْفَ الْإِمَامِ إِذَا جَهَرَ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ

۲۷۳۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک مرتبہ جہری نماز سے فارغ ہوئے اور فرمایا: تم میں سے کسی نے میرے ساتھ پڑھا؟ ایک شخص نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ! آپ ﷺ

۲۷۳ - حدثنا الانصاري نامعن نا مالك عن ابن شهاب ابن اكيمة الليثي عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انصرف من صلوة

جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ هَلْ قَرَأَ مَعِيَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ  
 إِنَّمَا فَقَالَ رَجُلٌ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّي أَقُولُ مَا لِي  
 أَنَا زُعُ الْقُرْآنِ قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ  
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ  
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّلَوَاتِ  
 بِالْقِرَاءَةِ وَحِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

نے فرمایا: میں بھی سوچنے لگا کہ قرآن پڑھنے میں مجھے کیوں کش مکش  
 ہو رہی ہے۔ راوی کہتے ہیں پھر لوگوں نے حضور اکرم ﷺ کے ساتھ  
 پڑھنا چھوڑ دیا۔ یعنی ان نمازوں میں جن میں رسول اللہ ﷺ کو پڑھتے  
 ہوئے سنتے تھے۔

اس باب میں ابن مسعودؓ، جابر بن عبد اللہ اور عمران بن حصینؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے  
 اور ابن اکیمہ لیسٹی کا نام عمارہ ہے۔ انہیں عمرو بن اکیمہ بھی کہا جاتا ہے زہری کے بعض اصحاب اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے یہ  
 الفاظ زیادہ بیان کرتے ہیں کہ زہری نے کہا: اس کے بعد جب لوگ آپ ﷺ کو قرأت کرتے ہوئے سنتے تو قرأت سے باز رہتے۔ اس  
 حدیث سے ان حضرات پر اعتراض نہیں کیا جاسکتا جو امام کی اقتداء میں قرآن پڑھنے کے مسلک پر عمل کرتے ہیں اس لیے کہ اس کے  
 راوی بھی ابو ہریرہؓ ہیں اور انہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص نماز پڑھے اور اس میں فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ناقص  
 اور نامکمل ہے۔ ان سے حدیث نقل کرنے والے راوی نے کہا۔ میں کبھی کبھی امام کی اقتداء میں نماز پڑھتا ہوں۔ ابو ہریرہؓ نے فرمایا: دل  
 میں پڑھ لیا کرو۔ ابو عثمان نہدی بھی حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: مجھے رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ میں  
 اعلان کروں کہ جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ محدثین حضرات نے یہ مسلک اختیار کیا ہے کہ اگر امام زور سے  
 قرأت کرے تو مقتدی نہ پڑھے۔ مزید کہتے ہیں کہ سکتوں کے درمیان پڑھ لے۔ علماء کا امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے قرآن پڑھنے  
 میں اختلاف ہے چنانچہ اکثر صحابہ، تابعین اور بعد کے علماء کہتے ہیں کہ مقتدی کو پڑھنا چاہیے۔ یہ قول مالک، ابن مبارک، شافعی اور اسحاق  
 کا ہے۔ عبد اللہ بن مبارک سے مروی ہے کہ فرمایا: میں اور کئی لوگ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ سوائے اہل کوفہ کے۔ جو شخص نہ پڑھے میں  
 اس کی نماز کو جائز سمجھتا ہوں۔ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کے مسئلے میں بعض علماء نے تشدید کی ہے۔ ان حضرات کا  
 کہنا ہے کہ جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے خواہ وہ تنہا ہو یا جماعت میں اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ حضرات، حضرت عبادہ بن صامت کی حدیث  
 سے استدلال کرتے ہیں۔ پھر عبادہ بن صامت آنحضرت ﷺ کے بعد بھی امام کے پیچھے پڑھتے اور آپ ﷺ کے اس قول سے استدلال  
 کرتے تھے کہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ امام شافعی اور اسحاق وغیرہ کا قول ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں: آپ ﷺ کا یہ قول  
 کہ ”سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی“ اکیلے نماز پڑھنے والے پر محمول ہے۔ ان کا استدلال جابرؓ کی حدیث سے ہے کہ انہوں نے فرمایا:  
 جس شخص نے کسی رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گویا کہ اس نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ آلا یہ کہ وہ امام کی اقتداء میں ہو۔ امام احمد کہتے ہیں،  
 یہ معنی حضور اکرم ﷺ کے صحابی (جابرؓ) نے بیان کیے ہیں کہ یہ حدیث منفرد کی نماز پر محمول ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام احمد یہ  
 مسلک اختیار کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے ہوتے ہوئے بھی کوئی شخص سورہ فاتحہ نہ چھوڑے۔ اسحاق بن موسیٰ انصاری، معن سے وہ ابو نعیم  
 وہب بن کیسان سے اور وہ جابر بن عبد اللہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: جس شخص نے ایک رکعت بھی ایسی پڑھی جس میں  
 سورہ فاتحہ نہ پڑھی گویا کہ اس نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ لیکن امام کی اقتداء میں نماز پڑھنے والا اس سے مستثنیٰ ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

مسئلہ: قرأت فاتحہ خلف الامام (امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا) کا مسئلہ ابتداء سے ہی معرکہ الآراء رہا ہے اسے نماز کے اختلافی مسائل میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس موضوع پر فریقین کی جانب سے اتنی کتابیں لکھی گئیں جن سے پورا ایک کتب خانہ تیار کیا جاسکتا ہے لیکن یہاں اس مسئلے میں حنفیہ کا مسلک اور ان کے دلائل مختصر طور پر پیش کیے جائیں گے۔

احناف کا قرأت خلف الامام کے متعلق مسلک یہ ہے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے قرأت کرنا مکروہ تحریمی ہے خواہ نماز جہری (بلند آواز سے قرأت والی) ہو یا سری (آہستہ پڑھنے والی نماز) اس مسلک پر استدلال کرتے ہوئے احناف سب سے پہلے قرآن کریم کی سورہ اعراف کی یہ آیت پیش کرتے ہیں ”واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون“ (ترجمہ: جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے)۔ یہ آیت قرأت کے وقت صرف سننے اور خاموش رہنے کے واجب ہونے پر دلالت کرتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سورہ فاتحہ قرآن ہی میں سے ہے لہذا اس سے قرأت فاتحہ خلف الامام کی بھی ممانعت ہوتی ہے۔ امام بیہقی حضرت مجاہد سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے زمانے میں بعض صحابہ امام کے پیچھے پڑھتے تھے۔ اس پر مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی۔ لہذا یہ آیت حنفیہ کے مسلک پر صراحت کے ساتھ دلالت کرتی ہے۔ حنفیہ کے اس استدلال پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ اس میں سننے کا حکم دیا گیا ہے جو جہری نمازوں میں تو ہو سکتا ہے لیکن سری نمازوں میں ممکن نہیں۔ لیکن یہ اعتراض صحیح نہیں اس لیے کہ اس آیت میں دو چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ایک سننا اور دوسرا خاموش رہنا۔ لہذا استماع (سننا) جہری نمازوں میں اور انصات (خاموش رہنا) سری نمازوں کے لیے ہے۔ حنفیہ کی دوسری دلیل حضرت ابو موسیٰ اشعری کی طویل روایت (جو امام مسلم نے صحیح مسلم میں ذکر کی ہے) ہے کہ..... فقال: اذا صليتم فاقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم احدكم فاذا كبر فكبروا واذا قرأوا فاصتوا..... یعنی جب تم نماز پڑھنے لگو تو صفیں درست کرو پھر تم میں سے کوئی امامت کرے۔ جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو۔ اور جب وہ قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔ نیز حضرت ابو ہریرہ کی سنن نسائی میں مذکور روایت میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ ”جب امام قرأت کرنے“ تو خاموش رہو۔ چنانچہ ان دونوں حدیثوں میں مطلقاً خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے جو فاتحہ اور سورت دونوں کے لیے عام ہے۔ لہذا دونوں کے درمیان تفریق کے لیے کسی تیسری دلیل کی ضرورت ہے جو کہ موجود نہیں۔ کیونکہ یہاں آپ ﷺ ہر عمل کے متعلق طریقہ بتا رہے ہیں۔ اگر فاتحہ اور سورت کی قرأت میں کوئی فرق ہوتا تو یہاں ضرور بیان کیا جاتا۔ چونکہ آپ ﷺ نے یہاں ”قرأ“ کا صریح لفظ استعمال کیا ہے لہذا اس کا تقاضا یہی ہے کہ جب امام قرأت کرے تو خاموش رہو۔ لہذا اس حکم کے متعلق یہ کہنا کہ صرف جہری نمازوں کے لیے ہے بعید ہے۔ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ جب بھی امام پڑھے تم لوگ خاموش رہو۔)

احناف اپنے مسلک کے لیے دلیل کے طور پر حضرت ابو ہریرہ کی وہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں جو امام ترمذی نے ذکر کی ہے (حدیث ۲۷۳)۔ یہ حدیث حنفیہ کے مسلک پر صریح دلیل ہی نہیں بلکہ یہ بھی واضح کرتی ہے کہ اس واقعے کے بعد صحابہ کرام نے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے قرأت ترک کر دی تھی۔ نیز اس حدیث میں یہ تاویل بھی ممکن نہیں کہ سورت پڑھنے سے منع کیا گیا ہے نہ کہ فاتحہ سے، کیونکہ اس میں امام کے پیچھے نہ پڑھنے کی علت بھی بیان کی گئی ہے کہ اس سے منازعہ ہوتا ہے یعنی امام کش مکش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جس طرح یہ علت سورہ پڑھنے میں پائی جاتی ہے بالکل اسی طرح فاتحہ پڑھنے میں بھی پائی جاتی ہے۔ لہذا دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ لیکن امام ترمذی اس حدیث پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ہی سے مروی ہے کہ انہوں نے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے متعلق فرمایا ”اقرا بھافی نفسک“ تم اسے دل میں پڑھو۔ جہاں تک اس قول کا تعلق ہے تو یہ حضرت ابو ہریرہ کا اپنا اجتہاد ہے کیونکہ یہ بات

انہوں نے کسی سائل کے جواب میں فرمائی ہے اور صحابہ کا اجتہاد، موضوع احادیث کے مقابلے میں حجت نہیں ہوتا، پھر بعض حضرات اس کی یہ توجیہ کرتے ہیں کہ ”نی نفسہ“ کا محاورہ انفرادیت پر بھی محمول ہوتا ہے۔ لہذا اس توجیہ کے مطابق اس کے معنی یہ ہوئے کہ جب تم اکیلے ہو تو فاتحہ پڑھا کرو۔

حنفیہ کی چوتھی دلیل حضرت جابر بن عبد اللہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہو اس کے لیے امام کی قرأت ہی کافی ہے“۔ یہ حدیث صحیح بھی ہے اور صریح بھی کیوں کہ اس میں یہ قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ امام کی قرأت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ مزید یہ کہ اس میں فاتحہ اور سورت کی قرأت میں کوئی تفریق نہیں کی گئی۔ لہذا جس طرح سورۃ کی قرأت کافی ہے اسی طرح سورۃ فاتحہ کی قرأت بھی کافی ہے۔ حاصل یہ کہ مقتدی کا قرأت کو ترک کرنا اس حدیث کے ضمن میں نہیں آتا کہ جو شخص فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ پھر صحابہ کرام کا مسلک اور معمول بھی حنفیہ ہی کے مسلک کی تائید کرتا ہے۔ چنانچہ علامہ عینی ”عمدہ القاری“ میں تقریباً اسی صحابہ کرام کا امام کی اقتداء میں قرأت نہ کرنے کا مسلک نقل کرتے ہیں جن میں خلفائے اربعہ حضرت عبد اللہ بن مسعود، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زید بن ثابت، حضرت جابر، حضرت عبد اللہ بن عمر اور حضرت عبد اللہ بن عباس بھی شامل ہیں۔ یہ تمام آثار مع اسانید مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ اور الطحاوی میں مذکور ہیں۔ (۱)

جہاں تک امام شافعی اور امام کے پیچھے قرأت کرنے والوں کے استدلال کا تعلق ہے ان کی سب سے قابل اعتماد دلیل حضرت عبادہ بن صامت کی حدیث نمبر ۲۷۲ ہے، یہ حدیث اگرچہ ان حضرات کے مسلک پر صراحت کے ساتھ دلالت کرتی ہے۔ لیکن یہ حدیث صحیح نہیں کیوں کہ امام احمد، حافظ ابن عبد البر اور بعض دوسرے محدثین اسے معلول کہتے ہیں۔ ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ حدیث تین طریقوں سے مروی ہے۔ کسی راوی نے وہم اور غلطی سے پہلی دور وراثتوں کو غلط ملط کر کے یہ تیسری روایت بنا دی ہے جو امام ترمذی نے ذکر کی ہے۔ علماء محدثین اس وہم کی ذمہ داری محمول پڑا لتے ہیں۔ اس وہم کی پوری تفصیل علامہ ابن تیمیہ نے فتاویٰ میں ذکر کی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب (مترجم)

باب ۲۲۹۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا  
۲۷۳۔ عبد اللہ بن حسن اپنی والدہ فاطمہ بنت حسین سے اور وہ اپنی دادی فاطمہ کبریٰ رضی اللہ عنہا سے نقل کرتے ہیں کہ فاطمہ کبریٰ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ جب مسجد میں داخل ہوتے تو درود شریف پڑھتے اور یہ دعا پڑھتے ”رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک“ (ترجمہ: اے اللہ میری مغفرت فرما اور میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے) اور جب مسجد سے نکلتے تو بھی درود شریف پڑھتے اور فرماتے ”رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلك“ (ترجمہ: اے اللہ میری مغفرت فرما اور میرے لئے اپنے

باب ۲۲۹۔ مَا جَاءَ مَا يَقُولُ عِنْدَ دُخُولِهِ الْمَسْجِدَ  
۲۷۴۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا سَمْعِيلَ بْنَ اِبْرَاهِيمَ عَنْ كَيْسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَدَّتِهَا فَاطِمَةَ الْكُبْرَى قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ صَلَّى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَقَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَقَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ

(۱) یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ احناف کے مسلک پر دلالت کرنے والی احادیث و آثار صحابہ کا احصاء یہاں ممکن نہیں۔ لہذا اختصار کو مدنظر رکھتے ہوئے چند دلائل پیش کیے گئے ہیں۔

فضل کے دروازے کھول دے)۔

علی بن حجر کہتے ہیں کہ اسماعیل بن ابراہیم نے مجھ سے کہا کہ پھر میں نے مکہ میں عبداللہ بن حسن سے ملاقات کی اور اس حدیث کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا: جب آپ داخل ہوتے تو فرماتے ”رب افتح لی ابواب رحمتک“ اور جب نکلے تو فرماتے ”رب افتح لی ابواب فضلك“ اس باب میں ابو حمید، ابواسید اور ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں فاطمہؓ کی حدیث حسن ہے اس کی سند متصل نہیں کیوں کہ فاطمہ بنت حسینؓ، فاطمہؓ گبری کونہ پاسکیں۔ حضرت فاطمہؓ، نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد صرف چند ماہ زندہ رہیں۔

باب ۲۳۰۔ مَا جَاءَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ  
باب ۲۳۰۔ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو دو رکعت نماز پڑھے۔

۲۷۵۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ  
۲۷۵۔ حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھے۔  
عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبِيرِ عَنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ  
الزُّرْقِيِّ عَنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

اس باب میں جابرؓ، ابوامامہؓ، ابو ہریرہؓ، ابو ذرؓ اور کعب بن مالکؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابوقادہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ محمد بن عجلان اور کئی راویوں نے اس حدیث کو عامر بن عبداللہ بن زبیرؓ سے مالک بن انسؓ کی حدیث کے مثل روایت کیا ہے۔ سہیل بن ابی صالحؓ اس حدیث کو عامر بن عبداللہ بن زبیرؓ سے وہ عمرو بن سلیمؓ سے وہ جابر بن عبداللہؓ سے اور وہ نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث غیر محفوظ ہے صحیح حدیث ابوقادہؓ کی ہے اور اسی پر ہمارے اصحاب کا عمل ہے کہ جو شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھنا اس کے لیے مستحب ہے بشرطیکہ اسے کوئی عذر نہ ہو۔ علی بن مدینی کہتے ہیں سہیل بن ابی صالحؓ کی حدیث غلط ہے۔ مجھے اس کی خبر اسحاق بن ابراہیم نے علی بن مدینی کے حوالے سے دی ہے۔

باب ۲۳۱۔ مَا جَاءَ أَنْ الْأَرْضَ كُلَّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبِرَةَ وَالْحَمَامَ  
باب ۲۳۱۔ مقبرے اور حمام کے علاوہ پوری زمین مسجد ہے۔

۲۷۶۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍو أَبُو عَمَّارِ الْحُسَيْنِ بْنِ  
۲۷۶۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مقبرے اور حمام کے علاوہ پوری زمین مسجد ہے۔  
حَرِيثُ قَالَ نَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ عَمْرِو بْنِ  
يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْأَرْضُ كُلُّهَا  
مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبِرَةَ وَالْحَمَامَ

اس باب میں علیؓ، عبداللہ بن عمروؓ، ابو ہریرہؓ، جابرؓ، ابن عباسؓ، ابوامامہؓ اور ابو ذرؓ سے بھی روایت ہے۔ یہ حضرات روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: میرے لیے پوری زمین مسجد اور پاک کرنے والی کردی گئی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: حضرت ابوسعیدؓ کی حدیث عبدالعزیز بن محمد سے دو طریق سے مروی ہے۔ بعض نے اس میں ابوسعیدؓ کا ذکر کیا ہے اور بعض نے نہیں۔ اس حدیث میں اضطراب ہے۔

سفیان ثوری، عمرو بن یحییٰ سے وہ اپنے والد سے وہ ابوسعید سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ محمد بن اسحاق سے عمرو بن یحییٰ سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ جب کہ ان کی اکثر روایات ابوسعید کے واسطے سے منقول ہیں۔ لیکن انہوں نے ابوسعید کا ذکر نہیں کیا گویا کہ ثوری کی عمرو بن یحییٰ سے، ان کی اپنے والد سے اور ان کی آنحضرت ﷺ سے مروی حدیث آثبت اور صحیح ہے۔

باب ۲۳۲۔ مسجد بنانے کی فضیلت۔

باب ۲۳۲۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ بُنْيَانِ الْمَسْجِدِ

۲۷۷۔ حَدَّثَنَا بَنْدَارٌ نَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ نَا عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَنَى لِي مَسْجِدًا بَنَيْتُ اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ

۲۷۷۔ حَدَّثَنَا بَنْدَارٌ نَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ نَا عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَنَى لِي مَسْجِدًا بَنَيْتُ اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ

۲۷۷۔ حَدَّثَنَا بَنْدَارٌ نَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ نَا عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَنَى لِي مَسْجِدًا بَنَيْتُ اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ

اس باب میں ابویکر، عمر، علی، عبداللہ بن عمرو، انس، ابن عباس، عائشہ، ام حبیبہ، ابو ذر، عمرو بن عبسہ، واثلہ بن اسحاق، ابو ہریرہ اور جابر بن عبداللہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث عثمان صحیح ہے۔ آپ ﷺ سے یہ بھی مروی ہے کہ فرمایا: جس نے اللہ کے لیے چھوٹی یا بڑی مسجد بنائی اللہ نے اس کے لیے جنت میں گھر بنایا۔ یہ حدیث حمید بن سعید، نوح بن قیس سے وہ عبدالرحمن مولیٰ قیس سے وہ زیاد نمیری سے وہ انس سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ محمود بن لبید نے رسول اللہ ﷺ کو پایا اور محمود بن ربیع نے آپ ﷺ کو دیکھا ہے۔ یہ مدینہ کے دو چھوٹے بچے ہیں۔

باب ۲۳۳۔ قبر کے پاس مسجد بنانے کی کراہت۔

باب ۲۳۳۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَتَّخِذَ عَلَى الْقَبْرِ مَسْجِدًا

۲۷۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَجَّادَةَ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ

۲۷۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَجَّادَةَ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ

اس باب میں حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی حدیث ابن عباس کو حسن صحیح کہتے ہیں۔

باب ۲۳۴۔ مسجد میں سونا

باب ۲۳۴۔ مَا جَاءَ فِي النُّومِ فِي الْمَسْجِدِ

۲۷۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِبْلَانَ نَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَنَامُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَنَحْنُ شَبَابٌ

۲۷۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِبْلَانَ نَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَنَامُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَنَحْنُ شَبَابٌ

۲۷۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِبْلَانَ نَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَنَامُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَنَحْنُ شَبَابٌ

امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ابن عمرؓ حسن صحیح ہے۔ بعض اہل علم نے مسجد میں سونے کی اجازت دی ہے۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں: مسجدوں کو سونے اور قیلولہ کرنے کی جگہ نہ بناؤ۔ اہل علم کی ایک جماعت ابن عباسؓ کے قول پر عمل پیرا ہے

باب ۲۳۵۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَأَنْشَادِ الصَّلَاةِ وَالتَّعْرِفِ فِي الْمَسْجِدِ  
باب ۲۳۵۔ مسجد میں خرید و فروخت کرنا، گم شدہ چیزوں کے متعلق پوچھ گچھ کرنا اور شعر کہنا مکروہ ہے۔

۲۸۰۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا اللَّيْتِ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَنَاشُدِ الْأَشْعَارِ فِي الْمَسْجِدِ وَعَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِيهِ وَ أَنَّ يَتَحَلَّقَ النَّاسُ فِيهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

۲۸۰۔ عمرو بن شعيب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مسجد میں شعر کہنے، خرید و فروخت کرنے اور جمعہ کے دن نماز سے پہلے حلقہ بنا کر بیٹھنے سے منع فرماتے تھے۔

اس باب میں بریدہ، جابرؓ اور انسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں عبد اللہ بن عمرو بن عاص کی حدیث حسن ہے اور عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اللہ بن عمرو بن عاصؓ ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں میں نے احمد اور اسحاق وغیرہ کو اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے سنا۔ اور شعيب بن محمد کو عبد اللہ بن عمرو سے سماع ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ جس نے عمرو بن شعيب میں کلام کیا ہے اس نے اس لیے انہیں ضعیف کہا ہے کہ وہ اپنے دادا کی کتاب سے نقل کرتے تھے گویا کہ انہوں نے یہ احادیث اپنے دادا سے نہیں سنیں۔ علی بن عبد اللہ، یحییٰ بن سعید کے حوالے سے کہتے ہیں کہ عمرو بن شعيب کی حدیث ہمارے نزدیک ضعیف ہے۔ علماء کی ایک جماعت مسجد میں خرید و فروخت کرنے کو مکروہ کہتی ہے۔ یہ احمد اور اسحاق کا قول ہے۔ بعض تابعین اس کی اجازت دیتے ہیں حضور اکرم ﷺ سے مروی کئی احادیث سے مسجد میں اشعار کہنے کی اجازت ثابت ہے۔

باب ۲۳۶۔ مَا جَاءَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى

باب ۲۳۶۔ وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی۔

التَّقْوَى

۲۸۱۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا حَاتِمِ بْنِ اسْمَعِيلَ عَنِ ابْنِ بِنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَ الْخُدْرِيِّ قَالَ امْتَرَى رَجُلٌ مِّنْ بَنِي خُدْرَةَ وَرَجُلٌ مِّنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى فَقَالَ الْخُدْرِيُّ هُوَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْآخَرُ هُوَ مَسْجِدُ قُبَا فَآتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ هُوَ هَذَا يَعْنِي مَسْجِدَهُ وَفِي ذَلِكَ خَيْرٌ كَثِيرٌ

۲۸۱۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو خدرہ، اور بنو عمرو کے دو آدمیوں میں اس بات پر تکرار ہوگئی کہ وہ کون سی مسجد ہے جو تقویٰ پر بنی ہے۔ خدری نے کہا وہ رسول اللہ ﷺ کی مسجد ہے اور دوسرے نے کہا: وہ مسجد قباء ہے۔ چنانچہ وہ دونوں حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ یہی ہے یعنی آپ ﷺ کی مسجد۔ اور اس میں بہت خیر ہے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابوبکر، علی ابن عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: میں نے یحییٰ بن سعید سے محمد بن ابی یحییٰ اسلمی کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا: ان میں کوئی حرج نہیں اور ان کے بھائی انیس بن ابی یحییٰ ان سے اثبت ہیں۔

باب ۲۳۷۔ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ

۲۸۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كَرِيبٍ وَسَفِيَانُ  
بْنُ وَكَيْعٍ قَالَا نَا أَبُو اسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ  
نَا أَبِي الْأَبْرَدِ مَوْلَى بَنِي حَظْمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أُسَيْدَ ابْنَ  
ظَهْرَبَرَ الْأَنْصَارِيَّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ كَعُمْرَةِ

باب ۲۳۷۔ مسجد قباء میں نماز پڑھنا

۲۸۲۔ ابو ابرد مولیٰ بنی حنظلہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسید بن ظہیر  
النصاری رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسجد قباء میں  
نماز پڑھنا اس طرح ہے کہ جیسے کسی نے عمرہ ادا کیا۔

اس باب میں سہیل بن حنیف سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث اسید حسن غریب ہے اور ہمیں علم نہیں کہ اسید بن  
ظہیر کی اس کے علاوہ کوئی حدیث صحیح ہو اور اسے بھی ابو اسامہ کی عبد الحمید بن جعفر سے روایت کے علاوہ نہیں جانتے۔ ابو ابرد کا نام زیاد  
مدنی ہے۔

باب ۲۳۸۔ مَا جَاءَ فِي آيِ الْمَسَاجِدِ أَفْضَلُ

۲۸۳۔ حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ نَامِعُنُ نَامَالِكُ ح وَثَنَا  
قَتِيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ رِبَاعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  
بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَبِيِّ  
أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنَ الْفِ  
صَلَاةٍ سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

باب ۲۳۸۔ مساجد کے درمیان فضیلت۔

۲۸۳۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: میری  
اس مسجد میں نماز پڑھنا کسی اور مسجد میں نماز پڑھنے سے ایک ہزار  
درجے بہتر ہے۔ سوائے مسجد حرام کے۔

امام ترمذی کہتے ہیں: ترمذی نے اپنی حدیث میں عبد اللہ کے بجائے زید بن رباح کا ذکر کیا ہے وہ ابو عبد اللہ اعمر سے روایت کرتے ہیں۔  
امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابو عبد اللہ اعمر کا نام سلمان۔ یہ حدیث نبی کریم ﷺ سے بواسطہ ابو ہریرہ کئی سندوں سے مروی  
ہے۔ اس باب میں علیؓ، میمونہؓ، ابوسعیدؓ، جبیر بن مطعمؓ، عبد اللہ بن زبیرؓ، ابن عمرؓ اور ابو زرؓ سے بھی روایت ہے۔

۲۸۴۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍَا سَفِيَانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنْ  
عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمِيرٍ عَنْ قَزْعَةَ مِنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ  
الْحَدَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ  
وَسَلَّمَ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ  
الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى  
امام ترمذی اسے حسن صحیح کہتے ہیں۔

۲۸۴۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ  
ﷺ نے فرمایا: تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کے لئے (زیارت)  
کی غرض سے) سفر نہ کیا جائے۔ مسجد حرام (بیت اللہ) میری مسجد  
(مسجد نبوی ﷺ) اور مسجد اقصیٰ۔

باب ۲۳۹۔ مسجد کی طرف جانے سے متعلق

۲۸۵۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے

باب ۲۳۹۔ مَا جَاءَ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْمَسْجِدِ

۲۸۵۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ

فرمایا: جب جماعت کھڑی ہو جائے تو (مسجد کی طرف) دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ سکون کے ساتھ آؤ پس (جماعت میں) جو ملے پڑھو۔ اور جو نکل جائے اسے پورا کرو۔

ابی الشوارب نایزید بن زریع نا معمر عن الزهری عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اقيمت الصلوة فلا تاتوها وانتم تسعون ولكن اتوها وانتم تمشون وعليكم السكينة فما ادرتكم فصلوا وما فاتكم فاتموا

اس باب میں ابو قتادہ، ابی بن کعب ابو سعید، زید بن ثابت، جابر اور انس سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں مسجد کی طرف جانے میں علماء کا اختلاف ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر تکبیر اولیٰ کے فوت ہو جانے کا خوف ہو تو جلدی چلے بلکہ بعض کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ دوڑتے ہوئے جاتے تھے جب کہ بعض حضرات جلدی کرنے کو مکروہ کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک آہستہ اور وقار کے ساتھ جانا بہتر ہے۔ یہ احمد اور اسحاق کا قول ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس مسئلے میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث پر عمل کیا جائے۔ اسحاق کا کہنا ہے کہ اگر تکبیر اولیٰ کے فوت ہو جانے کا خوف ہو تو تیز چلنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ حسن بن علی خلال، عبدالرزاق سے وہ معمر سے وہ زہری سے وہ سعید بن مسیب سے وہ ابو ہریرہ سے اور وہ نبی اکرم ﷺ سے ابو سلمہ کی حدیث کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں۔ اسی طرح عبدالرزاق، سعید بن مسیب سے اور وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں۔ ابن ابی عمر بھی سفیان سے وہ زہری سے وہ سعید بن مسیب سے وہ ابو ہریرہ سے اور وہ نبی اکرم ﷺ سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔

باب ۲۴۰۔ نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنے کی فضیلت۔

باب ۲۴۰۔ مَا جَاءَ فِي الْقُعُودِ فِي الْمَسْجِدِ وَابْتِطَارِ الصَّلَاةِ مِنَ الْفَضْلِ

۲۸۶۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص جب تک کسی نماز کا انتظار کرتا ہے گویا کہ وہ اس وقت تک نماز ہی میں (مشغول) ہے اور فرشتے اس کے لئے اس وقت تک یہ دعا کرتے رہتے ہیں جب تک اسے حدیث نہیں ہو جاتا "اللهم اغفر له اللهم ارحمه" (اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما) اس پر حضرت موت کے ایک شخص نے عرض کیا اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کیا ہے؟ پس انہوں نے فرمایا ہوا کا اخراج ہے خواہ آواز سے ہو یا بغیر آواز۔

۲۸۶۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نا عبد الرزاق نا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يزال احدكم في صلوة ما دام ينتظرها ولا تزال الملائكة تصلي على احدكم مادام في المسجد اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث فقال رجل من حضر موت وما الحدت يا ابا هريرة فقال فسأه اوضراط

اس باب میں حضرت علیؓ، ابو سعیدؓ، انسؓ، عبداللہ بن مسعودؓ اور سہل بن سعدؓ سے بھی روایت ہے۔

توضیح: یہ فضیلت ہر قسم کے نماز کے انتظار کے لیے ہے خواہ وہ انتظار مسجد کے اندر ہو یا باہر (مترجم)

باب ۲۴۱۔ چٹائی پر نماز پڑھنا۔ (۱)

باب ۲۴۱۔ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْحُمْرَةِ

(۱) یہاں امام ترمذی نے تین باب مسلسل قائم کئے ہیں چنانچہ ”خرمہ“ اس چٹائی کو کہتے ہیں جس کا تاج کھجور کا ہو۔ ”ھیزر“ اس چٹائی کو کہتے ہیں جس کا تاج کھجور کا ہو۔ ”بساط“ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو زمین پر دونوں کھجور کے ہوں۔ جب کہ کچھ حضرات یہ بھی کہتے ہیں ”خرمہ“ چھوٹی چٹائی اور ”ھیزر“ بڑی چٹائی کو کہتے ہیں۔ اور ”بساط“ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو زمین پر بچھائی جائے۔ (مترجم)

۲۸۷ - حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سَمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ

۲۸۷ - حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ چٹائی پر نماز پڑھا کرتے تھے۔

اس باب میں ام حبیبہ، ابن عمر، ام سلمہ، عائشہ، میمونہ اور ام کلثوم بنت ابوسلمہ بن عبد اللہ اسد سے بھی روایت ہے۔ ان کو نبی کریم ﷺ سے سماع نہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عباس کی حدیث حسن صحیح ہے۔ یہ بعض اہل علم کا قول ہے۔ احمد اور اسحاق کہتے ہیں: حضور اکرم ﷺ کا چٹائی پر نماز پڑھنا ثابت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ”خمرہ“ چھوٹی چٹائی کو کہتے ہیں۔

باب ۲۴۲ - مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

۲۸۸ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِي سَفِيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى حَصِيْرٍ

باب ۲۴۲ - بڑی چٹائی پر نماز پڑھنا

۲۸۸ - حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے بڑی چٹائی پر نماز پڑھی۔

اس باب میں انس اور مغیرہ بن شعبہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابوسعید کی حدیث حسن ہے اور اس پر اکثر اہل علم کا عمل ہے جب کہ علماء کی ایک جماعت زمین پر نماز پڑھنے کو مستحب کہتی ہے۔

باب ۲۴۳ - مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْبَسِطِ

۲۸۹ - حَدَّثَنَا هِنَادُنَا وَكَيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ اَبِي التِّيَّاحِ الضُّبُعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُخَالِطُنَا حَتَّى كَانَ يَقُوْلُ لَاخَ لِي صَغِيْرًا اَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النَّغِيْرُ قَالَ وَنُضِحَ بِسَاطٍ لَنَا فَصَلِّيَ عَلَيْهِ

باب ۲۴۳ - بساط پر نماز پڑھنا

۲۸۹ - حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہم سے خوش طبعی کرتے یہاں تک کہ میرے چھوٹے بھائی سے فرماتے: اے ابوعمیر تمہارے کیا کیا؟ (۲۰) پھر ہمارا بچھونا دھویا گیا اور آپ ﷺ نے اس پر نماز پڑھی۔

اس باب میں ابن عباس سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں انس کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر اکثر صحابہ اور بعد کے اہل علم کا عمل ہے کہ قالین یا چٹائی وغیرہ پر نماز پڑھنے میں کوئی مضائقہ نہیں یہ احمد اور اسحاق کا قول ہے۔ ابوتیاح کا نام یزید بن حمید ہے۔

باب ۲۴۴ - مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي الْحِطَّانِ

۲۹۰ - حَاثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ ثَنَا اَبُو دَاوُدَ نَا الْحَسَنُ بْنُ اَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَبِي الزَّبِيْرِ عَنِ اَبِي الطُّفَيْلِ عَنِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَجِبُ الصَّلَاةَ فِي الْحِطَّانِ قَالَ اَبُو دَاوُدَ يَعْنِي الْبَسَاتِيْنَ

باب ۲۴۴ - بانگوں میں نماز پڑھنا

۲۹۰ - حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ باغ میں نماز پڑھنا پسند فرماتے تھے۔ ابوداؤد کہتے ہیں: حیطان کے معنی باغ کے ہیں۔

(۱) ”غیر“ تغیر کی تفسیر ہے۔ یہ چڑیا کی طرح چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے اس کی چونچ سرخ ہوتی ہے۔ (مترجم)

امام ترمذی کہتے ہیں معاذ کی حدیث غریب ہے ہم اسے حسن بن ابو جعفر کی روایت کے علاوہ کسی اور روایت سے نہیں جانتے۔ حسن بن ابو جعفر کو یحییٰ بن سعید قطان وغیرہ نے ضعیف کہا ہے۔ ابوزبیر کا نام محمد بن مسلم بن تدرس ہے اور ابو طفیل کا نام عامر بن وائلہ ہے۔

باب ۲۴۵۔ مَا جَاءَ فِي سُتْرَةِ الْمُصَلِّي

باب ۲۳۵۔ نمازی کے سترے سے متعلق

۲۹۱۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم میں سے کوئی اپنے سامنے کجاوے کی پھیلی لکڑی کے برابر کوئی چیز رکھ لے تو نماز پڑھے اور کسی کے اس کے آگے سے گزرنے کی پرواہ نہ کرے۔

۲۹۱۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهْنَادٌ قَالَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مَوْخَرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِي مَنْ مَرَّ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ

اس باب میں ابو ہریرہؓ، اہل بن ابی حمزہؓ، ابن عمرؓ، سمرہ بن عبد اللہؓ، ابو جحیفہؓ اور عائشہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث طلحہ حسن صحیح ہے اور اہل علم اسی پر عمل پیرا ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امام کا سترہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کے لیے کافی ہے۔

باب ۲۴۶۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي

باب ۲۳۶۔ نمازی کے آگے سے گزرنے کی پرواہ ہے۔

۲۹۲۔ بسر بن سعید کہتے ہیں کہ زید بن خالد جہنی نے (کسی شخص کو) ابو جہیم کے پاس بھیجا تا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کا حکم معلوم کر سکیں۔ ابو جہیم نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا یہ جان لے کہ اس فعل پر کیا عذاب ہے تو وہ چالیس سال تک کھڑا رہنے کو نمازی کے سامنے سے گزرنے پر ترجیح دے۔ ابو انضر کہتے ہیں: مجھے معلوم نہیں چالیس دن کہا، مہینہ کہا یا چالیس سال۔

۲۹۲۔ حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ نَا مَعْنَى نَا مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَرْسَلَ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أَبُو النَّضْرِ لَا أَدْرِي قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِينَ سَنَةً

اس باب میں ابو سعید خدریؓ، ابو ہریرہؓ، ابن عمرؓ اور عبد اللہ بن عمروؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو جہیم کی حدیث حسن صحیح ہے۔ آنحضرت ﷺ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: کسی شخص کے لیے سو سال تک کھڑے ہو کر انتظار کرنا اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے بھائی کے نماز پڑھتے ہوئے سامنے سے گزرے۔ اہل علم کا اس پر عمل ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کی پرواہ ہے لیکن اس سے نماز نہیں ٹوٹی۔

باب ۲۴۷۔ مَا جَاءَ أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ

باب ۲۳۷۔ نماز کسی چیز کے گزرنے سے نہیں ٹوٹی۔

۲۹۳۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں فضل کے ساتھ گدھی پر سوار تھا، ہم لوگ منیٰ میں پہنچے تو آنحضرت ﷺ اپنے صحابہ رضی

۲۹۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَّارِبِ نَا يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ

اللہ عنہم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے ہم اترے اور صف میں مل گئے۔  
گدھی ان کے (نمازیوں کے) آگے پھرنے لگی اور اس سے نماز نہیں  
ٹوٹی۔

عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ قَالَ  
كُنْتُ رَدِيفَ الْفَضْلِ عَلَيَّ اتَانَا فَجِئْنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ يَمِينِي قَانَ  
فَمَلَأْنَا غَنَاقَهَا فَوَصَلْنَا الصَّفَّ فَمَرَّتْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَلَمْ  
تَقْطَعْ صَلَوَاتَهُمْ

اس باب میں عائشہؓ، فضل بن عباسؓ اور ابن عمرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عباسؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ صحابہ  
تابعین اور بعد کے اکثر علماء کا اسی پر عمل ہے یہ حضرات کہتے ہیں کہ نماز کسی چیز سے نہیں ٹوٹی۔ یہ سفیان ثوری اور امام شافعی کا بھی قول  
ہے۔

باب ۲۴۸۔ نماز کتے، گدھے اور عورت کے گزرنے کے علاوہ کسی چیز  
سے نہیں ٹوٹی۔

باب ۲۴۸۔ مَا جَاءَ أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الْكَلْبُ  
وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ

۲۹۴۔ حضرت عبد اللہ بن صامت کہتے ہیں میں نے ابو ذر سے سنا کہ  
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور اس کے سامنے  
کجاوے کی بچھلی لکڑی کے برابر یا فرمایا، درمیانی کے برابر کوئی چیز نہ ہو  
تو اس کی نماز کا لے کتے، گدھے یا عورت کے گزرنے سے ٹوٹ جائے  
گی میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا: کالے اور سفید یا سرخ کی کیا  
قید ہے تو فرمایا: بھائی تم نے مجھ پر ایسا ہی سوال کیا جیسا کہ میں نے  
رسول اللہ ﷺ سے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کالا کتا شیطان ہوتا ہے۔

۲۹۴۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنَبَلٍ عَنْ أَبِي هَشِيمٍ نَابِ يُونُسَ  
وَمَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ حَمِيدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ  
بِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ  
وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَأَجْرَةِ الرَّحْلِ أَوْ كَوَاسِطَةِ الرَّحْلِ  
قَطَعَ صَلَوَاتَهُ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ فَقُلْتُ  
لِأَبِي ذَرٍّ فَمَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ وَمِنَ الْأَبْيَضِ  
فَقَالَ يَا أَحِبُّي سَأَلْتَنِي كَمَا سَأَلْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ

اس باب میں ابو سعیدؓ، حکم غفاریؓ، ابو ہریرہؓ اور انسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو ذرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض  
علماء اسی پر عمل کرتے ہیں ان کا کہنا ہے: عورت، گدھے یا کالے کتے کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ امام احمد کہتے ہیں۔ مجھے اس  
میں کوئی شک نہیں کہ کالے کتے کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے جب کہ گدھے اور عورت کے بارے میں میرے ہاں کچھ تفصیل  
ہے۔ اسحاق کہتے ہیں کہ سوائے کالے کتے کے کسی چیز سے نماز نہیں ٹوٹی۔

توضیح: جمہور اس مسلک پر عمل پیرا ہیں کہ نماز کسی چیز کے گزرنے سے نہیں ٹوٹی ان کا استدلال حدیث نمبر ۲۹۳ سے ہے۔ ان کا کہنا  
ہے کہ حدیث نمبر ۲۹۳ میں قطع سے مراد نماز کا فاسد ہونا نہیں بلکہ خشوع و خضوع کا ختم ہونا ہے۔ کیوں کہ ان تینوں چیزوں میں شیطانی  
اثرات کا دخل ہے۔ (مترجم)

باب ۲۴۹۔ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا  
۲۹۵۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول ﷺ

باب ۲۴۹۔ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي الثُّوبِ الْوَاحِدِ  
۲۹۵۔ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ

عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ مُشْتَمِلًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

۱۸۹۔ امام سلمہ رضی اللہ عنہما کے گھر ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔

اس باب میں ابو ہریرہؓ، جابرؓ، سلمہ بن اکوعؓ، انسؓ، عمرو بن اسیدؓ، ابوسعیدؓ، کیسانؓ، ابن عباسؓ، عائشہؓ، ام ہانیؓ، عمار بن یاسرؓ، طلق بن علیؓ، اور عبادہ بن صامتؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں عمر بن سلمہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر صحابہ، تابعین اور ان کے بعد اکثر علماء کا عمل ہے کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ جب کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ دو کپڑوں میں نماز پڑھے۔

باب ۲۵۰۔ فِي ابْتِدَاءِ الْقِبْلَةِ

باب ۲۵۰۔ قبلے کی ابتداء کے متعلق

۲۹۶۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ أَبِي كَعْبٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبُرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ سِتَّةَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يُوجَّهَ إِلَى الْكُعْبَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَجَّهَ إِلَى الْكُعْبَةِ وَكَانَ يُحِبُّ ذَلِكَ فَصَلَّى رَجُلٌ مَعَهُ الْعَصْرُ ثُمَّ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ فَقَالَ هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ قَدْ وَجَّهَ إِلَى الْكُعْبَةِ قَالَ فَانْحَرِفُوا وَهُمْ رُكُوعٌ

۲۹۶۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ جب مدینہ تشریف لائے تو سولہ یا سترہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے، ان کی چاہت یہ تھی کہ کعبہ کی طرف پڑھیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ”قد نولمے تقلاب سے شطر المسجد الحرام“ تک۔ لہذا آپ ﷺ نے کعبہ کی طرف رخ کر لیا جسے وہ پسند کرتے تھے۔ ایک شخص نے آپ ﷺ کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی اور پھر انصار کی ایک جماعت کے پاس سے گزارا جو رکوع میں تھے، ان کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا تو اس نے کہا: کہ وہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ ﷺ نے کعبہ کی طرف منہ پھیر لیا۔ راوی کہتے ہیں اس پر ان لوگوں نے رکوع ہی میں اپنے رخ پھیر لئے۔

آیت کے معنی یہ ہیں (ہم آپ ﷺ کے منہ کا آسمان کی طرف بار بار اٹھتا دیکھ رہے ہیں اس لیے ہم آپ ﷺ کو اسی قبلے کی طرف متوجہ کر دیں گے جس میں آپ کی مرضی ہے۔ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔

اس باب میں ابن عمرؓ، ابن عباسؓ، عمارہ بن اوسؓ، عمرو بن عوفؓ، مزنیؓ اور انسؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں براءؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اسے سفیان ثوریؓ بھی ابواسحاقؓ سے روایت کرتے ہیں، ہناد، وکیع سے وہ سفیان سے اور وہ عبد اللہ بن دینار سے نقل کرتے ہیں کہ ابن عمرؓ نے فرمایا: وہ لوگ فجر کی نماز کے رکوع میں تھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔

باب ۲۵۱۔ مَا جَاءَ أَنْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةً

باب ۲۵۱۔ مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔

۲۹۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَعْشَرَ نَا ابْنِ أَبِي مُحَمَّدَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

۲۹۷۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مشرق اور مغرب کے درمیان کا پورا حصہ قبلہ ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ  
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ

یحییٰ بن موسیٰ بھی محمد بن ابو معشر سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث انہی سے کئی طرق سے مروی ہے۔ بعض علماء ابو معشر کے حافظے میں کلام کرتے ہیں۔ ان کا نام کحج مولیٰ بنی ہاشم ہے۔ امام بخاری ان سے روایت نہیں کرتے جب کہ کچھ حضرات روایت کرتے ہیں۔ بخاری کے نزدیک عبداللہ بن جعفر مخزومی کی عثمان بن محمد احنسی سے مروی حدیث ابو معشر کی حدیث سے اقدس اور اصح ہے۔ عثمان سعید مقبری سے اور وہ ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں۔ حسن بن بکر مروزی، معلیٰ بن منصور سے وہ عبداللہ بن جعفر مخزومی سے وہ عثمان بن محمد احنسی سے وہ سعید مقبری سے اور وہ ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ عبداللہ بن جعفر مخزومی اس لیے کہا گیا کہ یہ مسور بن مخرمہ کی اولاد میں سے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور کئی صحابہ سے مروی ہے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ ان میں عمر بن خطابؓ، علی بن ابی طالبؓ اور ابن عباسؓ شامل ہیں۔ ابن عمر فرماتے ہیں اگر مغرب تمہارے دائیں ہاتھ اور مشرق بائیں ہاتھ کی طرف ہو تو اگر تم قبلہ کی طرف منہ کرو تو درمیان میں قبلہ ہے۔ ابن مبارک کہتے ہیں۔ مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ کا حکم اہل مشرق کے لیے ہے۔ ان کے نزدیک اہل مرو کو بائیں طرف جھکنا چاہیے۔

توضیح: یہ حکم اہل مدینہ کے لیے ہے کیوں کہ وہاں سے قبلہ جنوب کی طرف ہے۔ (مترجم)

باب ۲۵۲۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ  
فِي الْعِيمِ

باب ۲۵۲۔ جو شخص اندھیرے میں قبلہ کی طرف منہ کیے بغیر نماز پڑھے۔  
۲۹۸۔ حدثنا محمود بن غيلان نا وكيع نا اشعث بن سعيد السَّمَان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال كنا مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ فَلَمْ نَدْرِ أَيْنَ الْقِبْلَةَ فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا عَلَى حَيْالِهِ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ فَأَيُّنَا تَوَلَّوْا فَنَمَّ وَجْهَ اللَّهِ ط

۲۹۸۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: ہم ایک مرتبہ حضور اکرم ﷺ کے ساتھ اندھیری رات میں سفر کر رہے تھے اور قبلہ کا رخ نہیں جانتے تھے چنانچہ ہر شخص نے اپنے سامنے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے اس واقعے کا تذکرہ رسول اللہ ﷺ سے کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی "فاینما تولوا فثم وجه الله" (ترجمہ: تم جس طرف بھی منہ کرو اسی طرف اللہ کا چہرہ ہے)۔

امام ترمذی کہتے ہیں اس حدیث کی اسناد قوی نہیں کیوں کہ اسے ہم اشعث سمان کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے۔ اور اشعث بن سعید البوریج سمان حدیث میں ضعیف ہیں۔ اکثر اہل علم کا یہی مسلک ہے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اندھیرے میں قبلہ رخ ہوئے بغیر نماز پڑھے، پھر نماز پڑھ لینے کے بعد اسے معلوم ہو کہ اس نے قبلہ رخ ہوئے بغیر نماز پڑھی ہے تو اس کی نماز جائز ہے یعنی ہوگئی یہ سفیان ثوری، ابن مبارک، احمد اور اسحاق کا قول ہے۔

باب ۲۵۳۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ مَا يُصَلِّي إِلَيْهِ وَفِيهِ  
 ۲۹۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ حَدَّثَنَا الْمُقْرِيُّ  
 قَالَ نَا يَحْيَىٰ بن ابوب عن زيد ابن جبيرة عن داود  
 بن الحُصَيْنِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ فِي سُبُعَةِ مَوَاطِنَ  
 فِي الْمَزْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَالْمَقْبَرَةِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَفِي  
 الْحَمَامِ وَمَعَاظِنِ الْإِبِلِ وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ

علی بن حجر، سوید بن عبدالعزیز سے وہ زید بن جبیرہ سے وہ داؤد بن حصین سے وہ نافع سے اور وہ ابن عمرؓ سے اسی حدیث کے مثل نقل کرتے ہیں اس باب میں ابو مرثد، جابر اور انسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عمرؓ کی حدیث کی اسناد قوی نہیں۔ زید بن جبیرہ کے حفظ میں کلام ہے۔ لیث بن سعد بھی اس حدیث کو عبداللہ بن عمر عمری سے روایت کرتے ہیں، وہ نافع سے وہ ابن عمر سے وہ عمر سے اور وہ نبی اکرم ﷺ سے (اسی کے مثل) روایت کرتے ہیں۔

ابن عمرؓ کی حدیث لیث بن سعد کی حدیث سے اشبہ اور اصح ہے۔ عبداللہ بن عمر عمری کو محمد ثین حافظے کی وجہ سے ضعیف کہتے ہیں جن میں یحییٰ بن سعید قطان بھی شامل ہیں۔

باب ۲۵۴۔ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَ  
 أَنْعَاطِ الْإِبِلِ

۳۰۰۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ نَا يَحْيَىٰ بن ادم عن ابی  
 بكر بن عیاش عن هشام عن ابن سیرین عن ابی هریرة  
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا  
 فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي أَنْعَاطِ الْإِبِلِ

ابو کریب، یحییٰ بن آدم سے وہ ابو بکر بن عیاش، وہ ابو حصین سے وہ ابوصالح سے، وہ ابو ہریرہؓ سے، اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ اس باب میں جابر بن سمرہ، برار، سبرہ بن معبد الجعفی، عبداللہ بن مغفل، ابن عمرؓ اور انسؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور ہمارے اصحاب اسی پر عمل کرتے ہیں۔ یہی قول احمد اور اسحاق کا بھی ہے۔ ابو حصین کی ابوصالح سے بواسطہ ابو ہریرہؓ، حضور اکرم ﷺ سے مروی حدیث غریب ہے اور اسے اسرائیل نے ابو حصین سے اور انہوں نے ابو ہریرہؓ سے موقوف روایت کیا ہے نہ کہ مرفوع۔ ابو حصین کا نام عثمان بن عاصم اسدی ہے۔ محمد بن بشر، یحییٰ بن سعید سے، وہ شعبہ سے وہ ابوتیاح صعبی سے اور وہ انسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھتے تھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابوتیاح کا نام یزید بن حمید ہے۔

باب ۲۵۵۔ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ حَيْثُ مَا  
 تَوَجَّهَتْ بِهِ

باب ۲۵۵۔ سواری پر نماز پڑھنا باوجودیکہ وہ (قبلہ کی طرف نہ ہو)  
 پھرتی رہے۔

باب ۲۵۳۔ جس چیز میں یا جس کی طرف نماز پڑھنا مکروہ ہے۔  
 ۲۹۹۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے  
 سات جگہوں پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا: بیت الخلاء میں، مذبح خانے  
 میں، قبر پر، راستے میں، حمام میں، اونٹ باندھنے کی جگہ میں اور بیت اللہ  
 کی چھت پر۔

باب ۲۵۴۔ بکریوں اور اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنا۔

۳۰۰۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:  
 بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھو، اور اونٹوں کے باندھنے کی جگہ نہ  
 پڑھو۔

۳۰۱۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے ایک کام کے لئے بھیجا جب میں واپس آیا تو آنحضرت ﷺ اپنی سواری پر مشرق کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، اور سجدے میں رکوع سے زیادہ جھکتے تھے۔

۳۰۱۔ حدثنا محمود بن غيلان نا وكيع ويحيى بن ادم قالنا نا سفيان عن ابي الزبير عن جابر قال بعتني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة فحفتة وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع

اس باب میں انس، ابن عمرؓ ابوسعیدؓ اور عامر بن ربیعہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں جابرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور راویوں نے انہی سے نقل کی ہے۔ ہمیں اس مسئلے میں اختلاف کا علم نہیں۔ یہی علماء کا قول ہے کہ نفل نماز سواری پر پڑھ لینے میں کوئی مضائقہ نہیں خواہ وہ قبلہ رخ ہو یا نہ ہو۔

باب ۲۵۶۔ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ

باب ۲۵۶۔ سواری کی طرف نماز پڑھنا

۳۰۲۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے اونٹ یا فرمایا سواری کی طرف نماز پڑھی اور آپ ﷺ اپنی سواری پر بھی نماز پڑھا کرتے تھے خواہ اس کا رخ کسی بھی طرف ہو۔

۳۰۲۔ حدثنا سفيان بن وكيع نا ابو خالد الأحمر عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى إلى بعيره أو راحلته و كان يصلي على راحلته حيث ما توجهت به

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور یہی بعض علماء کا قول ہے کہ اونٹ کو سترہ بنا کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔

باب ۲۵۷۔ نماز کے لئے جماعت کھڑی ہو جائے اور کھانا حاضر ہو تو کھانا پہلے کھایا جائے۔

باب ۲۵۷۔ إِذَا حَضَرَ الْعِشَاءُ وَأَقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَأَبْدَأُوا بِالْعِشَاءِ

۳۰۳۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اس حدیث کو جانتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کھانا حاضر ہو اور جماعت کھڑی ہو جائے تو کھانا پہلے کھاو۔

۳۰۳۔ حدثنا قتيبة ناسفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء

اس باب میں عائشہؓ، ابن عمرؓ، سلمہ بن اکوعؓ اور ام سلمہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت انسؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض صحابہ جیسے کہ ابوبکرؓ، عمرؓ اور ابن عمرؓ کا اسی پر عمل ہے احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ یہ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ کھانا پہلے کھائے اگرچہ جماعت نکل جائے۔ میں نے جارد کو کوچ کے حوالے سے اس حدیث کے متعلق کہتے ہوئے سنا کہ اگر کھانے کے خراب ہونے کا ڈر ہو تب کھانا پہلے کھائے۔ لیکن جس مسلک پر بعض صحابہ وغیرہ کا عمل ہے زیادہ پیروی کے لائق ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کا دل کسی چیز کی وجہ سے مشغول نہ ہو۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ہم نماز کے لیے اس وقت تک نہیں کھڑے ہوتے جب تک ہمارا دل کسی اور چیز میں لگا ہوا ہو۔ حضرت عمرؓ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اگر کھانا لگ جائے اور جماعت کھڑی ہو جائے تو پہلے کھانا کھاؤ۔ راوی کہتے ہیں ابن عمرؓ نے امام کی قرأت سنتے ہوئے بھی کھانا کھایا۔ ہمیں اس کی خبر ہناد نے دی وہ عبدہ سے وہ نافع سے اور وہ ابن عمرؓ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔

باب ۲۵۸۔ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ النَّعَاسِ

۳۰۴۔ حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ اسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ نَاعِبَةً  
بْنِ سَلِيمَانَ الْكَلَابِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ  
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَالِهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ  
حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنْ أَحَدَّكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ  
يُنَعَسُ فَلَعَلَّهُ يَذْهَبَ لِيَسْتَغْفِرَ فَيَسِبَ نَفْسَهُ

باب ۲۵۸۔ اونگھتے وقت نماز پڑھنا۔

۳۰۴۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:  
اگر تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور اونگھنے لگے تو جا کر سوئے یہاں  
تک کہ اس کی نیند جاتی رہے۔ کیوں کہ اگر تم میں سے کوئی اونگھتے  
ہوئے نماز پڑھے گا تو ممکن ہے کہ وہ استغفار کرنے کی نیت کرے اور  
اپنے آپ کو گالیاں دینے لگے۔

اس باب میں انس اور ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت عائشہ کی حدیث حسن صحیح ہے

باب ۲۵۹۔ جو کسی کی ملاقات کے لئے جائے وہ ان کی امامت نہ  
کرے۔

۳۰۵۔ بدیل بن میسرہ عقیلی، ابو عطیہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں  
نے کہا: مالک بن حویرث ہماری نماز پڑھنے کی جگہ پر ہمارے پاس  
آیا کرتے اور ہمیں احادیث سناتے چنانچہ ایک روز نماز کا وقت  
ہو گیا۔ ہم نے ان سے کہا: آپ نماز پڑھائیے۔ انہوں نے کہا: تم  
میں سے کوئی نماز پڑھائے تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ میں کیوں  
امامت نہیں کر رہا۔ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا۔ جو کسی قوم کی  
زیارت کے لئے جائے ان کی امامت نہ کرے بلکہ انہیں میں سے  
کوئی نماز پڑھائے۔

باب ۲۵۹۔ مَا جَاءَ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يُصَلِّي بِهِمْ

۳۰۵۔ حَدَّثَنَا هناد ومحمود بن غيلان قالا ناو كعب  
عن ابان بن يزيد العطار عن بديل بن ميسرة العقبلي  
عن أبي عطية رجل منهم قال كان مالك بن  
حويرث يا تينا في مصلتنا يتحدث فحضرت  
الصلوة يوما فقلنا له تقدم فقال ليتقدم بعضكم  
حتى أحدثكم ليم لا تقدم سمعت رسول الله صلى  
الله عليه وآله وسلم يقول من زار قوما فلا يؤمهم  
وليؤمهم رجل منهم

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ صحابہ وغیرہ میں سے اکثر اہل علم کا اسی حدیث پر عمل ہے۔ ان حضرات کا کہنا ہے کہ  
صاحب منزل امامت کا زیادہ مستحق ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں اگر صاحب منزل (صاحب خانہ) اجازت دے دیں تو کوئی مضائقہ نہیں کہ  
امامت کرائے۔ اسحاق بھی مالک بن حویرث کی حدیث پر عمل پیرا ہیں اور اس مسئلے میں شدت اختیار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر صاحب  
خانہ اجازت بھی دے دے تب بھی نماز نہ پڑھائے۔ اور اسی طرح اگر ان کی مسجد میں ان کی ملاقات کے لیے جائے تو بھی نماز نہ  
پڑھائے بلکہ انہی میں سے کوئی شخص نماز پڑھائے۔

باب ۲۶۰۔ امام کا دعا کے لئے خود کو مخصوص کرنا مکروہ ہے۔

باب ۲۶۰۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُخَصَّ الْإِمَامُ  
نَفْسَهُ بِالِدُعَاءِ

۳۰۶۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرَةَ اسْمَعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ  
قَالَ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيحٍ  
عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤَدِّبِ الْجَمَّصِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ

۳۰۶۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:  
کسی شخص کے لئے اجازت لینے سے پہلے اس کے گھر میں جھانکنا حلال  
نہیں۔ اگر اس نے دیکھ لیا تو گویا کہ وہ اس گھر میں داخل ہو گیا اور کوئی

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِلُّ لِأَمْرِئٍ أَنْ يَنْظُرَ فِي جَوْفِ بَيْتِ أَمْرِي حَتَّى يَسْتَأْذِنَ فَإِنْ نَظَرَ فَقَدْ دَخَلَ وَلَا يَوْمَ قَوْمًا فَيَخْصُ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ وَلَا يَقُومَ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ حَقٌّ

شخص، کسی کی امامت کرتے ہوئے ان لوگوں کو چھوڑ کر اپنے لئے دعاً مخصوص نہ کرے اگر کسی نے ایسا کیا تو اس نے ان سے خیانت کی اور نماز میں تقاضہ حاجت (پیشاب پاخانہ) کو روک کر کھڑا نہ ہو۔

اس باب میں ابو ہریرہؓ اور ابوامامہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ثوبانؓ کی حدیث حسن ہے۔ یہ حدیث معاویہ بن صرارہؓ سے بھی مروی ہے وہ سفر بن نسیر سے وہ یزید بن شریح سے وہ ابوامامہ سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ پھر یہ حدیث یزید بن شریح سے بھی مروی ہے۔ وہ ابو ہریرہؓ اور وہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں یزید بن شریح کی حدیث ابوجی موزن کی ثوبانؓ سے مروی حدیث سے اسناد کے اعتبار سے اجود اور مشہور ہے۔

باب ۲۶۱۔ ما جَاءَ مِنْ أُمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ  
 ۳۰۷۔ حدثنا عبد الأعلى بن واصل الكوفي نا محمد بن قاسم الاسدي عن الفضل بن داهم عن الحسن بن قاسم بن مالك قال لئن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلثة رجل أم قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ورجل سمع حتى الفلاح ثم لم يحب

باب ۲۶۱۔ جو شخص مقتدیوں کے نہ چاہتے ہوئے بھی امامت کرے۔  
 ۳۰۷۔ حضرت حسن، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے تین شخصوں پر لعنت بھیجی ہے۔ جو مقتدیوں کے نہ چاہتے ہوئے بھی امامت کرے، اور وہ عورت جو اپنے خاوند کا ناراضگی میں رات گزارے اور وہ شخص جو ”حی علی الفلاح“ سے او جماعت کے لئے نہ آئے۔

اس باب میں ابن عباسؓ، طلحہؓ، عبداللہ بن عمروؓ اور ابوامامہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں انسؓ کی حدیث صحیح نہیں اس لیے کہ یہ حسن نے رسول اللہ ﷺ سے مرسل روایت کی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں امام احمد بن حنبل نے محمد بن قاسم میں کلام کیا ہے اور انیسر ضعیف کہتے ہیں یہ حافظ نہیں ہیں۔ علماء کی ایک جماعت کے نزدیک مقتدیوں کے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی امامت کرنا مکروہ ہے لیکن اگر امام ظالم نہ ہو تو گناہ اسی پر ہوگا جو اس کی امامت کو پسند نہیں کرے گا۔ احمد اور اسحاق اس مسئلے میں کہتے ہیں کہ اگر ایک یا دو تین شخص نہ چاہتے ہوں تو امامت کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں یہاں تک کہ اکثریت اس سے بیزار ہو۔ ہناد، جریر سے وہ منصور سے وہ ہلال بن یساف سے وہ زیاد بن ابوجعد سے اور وہ عمرو بن حارث بن مصطلق سے روایت کرتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ ”سب سے زیادہ عذاب دو شخصوں کے لیے ہے: عورت جو شوہر کی نافرمانی کرے اور وہ امام جو مقتدیوں کے ناراض ہونے کے باوجود امامت کرے“ جریر، منصور کے متعلق کہتے ہیں کہ ہم ان سے امام کے متعلق پوچھا تو فرمایا: اس سے مراد ظالم امام ہے۔ اگر وہ سنت پر قائم ہو تو مقتدی گناہ گار ہوں گے یعنی جو اس کے بیزار ہوں گے۔

۳۰۸۔ حدثنا محمد بن اسمعيل نا علي بن الحسن نا الحسين بن واقد قال نا أبو غلاب قال سمعت أبا أمانة يقول قال رسول الله صلى الله

۳۰۸۔ حضرت ابو غالب، ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تین شخصوں کی نماز ان کے کانوں سے تجاوز نہیں کرتی (یعنی قبول نہیں ہوتی) ایک فرار ہونے والا غلام یہاں تک

۳۰۸۔ حدثنا محمد بن اسمعيل نا علي بن الحسن نا الحسين بن واقد قال نا أبو غلاب قال سمعت أبا أمانة يقول قال رسول الله صلى الله

۳۰۸۔ حدثنا محمد بن اسمعيل نا علي بن الحسن نا الحسين بن واقد قال نا أبو غلاب قال سمعت أبا أمانة يقول قال رسول الله صلى الله

عَلَيْهِ وَالِإِهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا تَجَاوِزُ صَلَوَاتُهُمْ إِذَا نَهَمُ الْعَبْدُ الْأَبْقَى حَتَّى يَرْجِعَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَإِمَامٌ قَوْمٌ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

کہ واپس چلا جائے۔ دوسری وہ عورت جو اس حالت میں رات گزارنے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو۔ تیسرے وہ امام جس کے مقتدی اس سے پیزار ہوں۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث اس طریق سے حسن غریب ہے۔ اور ابوغالب کا نام مزدرب ہے۔

باب ۲۶۲۔ مَا جَاءَ إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا

باب ۲۶۲۔ اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو۔

۳۰۹۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ مَرْثَدَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِإِهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسٍ فَحُجِحَتْ فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا مَعَهُ قُعُودًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ أَوْ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ

۳۰۹۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ گھوڑے پر سے گرے اور آپ ﷺ کو چوٹ آگئی۔ چنانچہ آپ ﷺ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: امام اس لئے یا فرمایا امام اس لئے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب رکوع سے اٹھے تو تم بھی اٹھو، جب وہ ”سمع اللہ لمن حمدہ“ کہے تو تم ”ربنا ولك الحمد“ کہو جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کر ہی نماز پڑھو۔

اس باب میں عائشہ، ابو ہریرہ، جابر، ابن عمر اور معاویہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت انس کی حدیث حسن صحیح ہے بعض صحابہ کا اسی حدیث پر عمل ہے جن میں جابر بن عبد اللہ، اسید بن خمیر اور ابو ہریرہ وغیرہ شامل ہیں۔ یہی امام احمد اور اسحاق کا قول ہے بعض علماء کہتے ہیں: اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو مقتدی کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ سفیان ثوری، مالک بن انس، ابن مبارک اور شافعی کا قول ہے۔

مسئلہ: جمہور علماء جیسے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام ابو یوسف، سفیان ثوری، ابو ثور اور امام بخاری کا مسلک یہ ہے کہ غیر معذور مقتدی، معذور امام (جو بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو) کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے اور بیٹھ کر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی ان حضرات کا استدلال قرآن کریم کی آیت ”وقوموا للہ قانتین“ سے ہے (ترجمہ: اور کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے۔ اس حکم سے معذور لوگ مستثنیٰ ہیں۔ جس کی دلیل یہ ہے ”لایکلف اللہ نفساً“ (ترجمہ: اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔ چنانچہ غیر معذور لوگوں کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی ممانعت ہے کیوں کہ قیام نماز فرض ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۲۶۳۔ مِنْهُ أَيْضًا

باب ۲۶۳۔ اسی سے متعلق

۳۱۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ شِبَابَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ نَعِيمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِإِهِ وَسَلَّمَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فِي مَرَضِهِ

۳۱۰۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے اپنے مرض و فوات میں بیٹھ کر نماز پڑھی۔

الَّذِي مَاتَ فِيهِ قَاعِدًا

امام ترمذی کہتے ہیں حضرت عائشہؓ کی حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ حضرت عائشہؓ سے یہ حدیث بھی مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو۔ ان سے یہ بھی مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ مرض میں نکلے اور ابو بکرؓ لوگوں کی امامت کر رہے تھے۔ آپ ﷺ نے ان کے پہلو میں نماز پڑھی۔ لوگ ابو بکرؓ کی اقتدا کر رہے تھے اور ابو بکر حضور ﷺ کی ان سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ ﷺ نے ابو بکرؓ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ ہم سے یہ حدیث عبداللہ بن ابوزیاد نے روایت کی ہے وہ شاذ بن سوار سے وہ محمد بن طلحہ سے وہ حمید سے وہ ثابت سے اور وہ انسؓ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے مرض میں ابو بکرؓ کے پیچھے کپڑے میں لپٹے ہوئے نماز پڑھی۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یحییٰ بن ایوب نے حمید سے اور انہوں نے حضرت انسؓ سے بھی یہ حدیث اسی طرح روایت کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی راوی اسے حمید سے اور وہ انسؓ سے روایت کرتے ہیں اور اس میں ثابت کا نام نہیں لاتے لیکن جس میں ثابت کا تذکرہ ہے وہ حدیث اصح ہے۔

باب ۲۶۴۔ مَا جَاءَ فِي الْإِمَامِ يَنْهَضُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ نَاسِيًا  
 ۳۱۱۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا هَشِيمَ بْنَ أَبِي  
 كَيْلَانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ  
 فَهَضَّ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحَ بِهِ الْقَوْمُ وَسَبَّحَ بِهِمْ فَلَمَّا  
 قَضَى صَلَوَتَهُ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتِي السُّهُوِ  
 وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ بِهِمْ مِثْلَ الَّذِي فَعَلَ

باب ۲۶۳۔ دور کعتوں کے بعد امام کا بھول کر کھڑے ہو جانا۔  
 ۳۱۱۔ شعبی کہتے ہیں مغیرہ بن شعبہ نے ایک مرتبہ ہماری امامت کی اور  
 دور کعتوں کے بعد کھڑے ہو گئے۔ چنانچہ لوگوں نے ان سے تسبیح کہی  
 اور انہوں نے لوگوں سے۔ جب نماز پوری ہوئی تو سلام پھیرا اور سجدہ  
 سہو کیا جب کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے بھی ان  
 کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا، جیسا انہوں نے کیا۔

اس باب میں عقبہ بن عامر، سعد اور عبداللہ بن حسینؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں مغیرہ بن شعبہؓ کی حدیث کئی طرق سے انہی سے مروی ہے۔ بعض لوگوں نے ابن ابی لیلیٰ کے حفظ میں کلام کیا ہے۔ امام احمد ان کی حدیث کو حجت تسلیم نہیں کرتے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ابن ابی لیلیٰ صدوق (سچے) ہیں لیکن میں ان سے اس لیے روایت نہیں کرتا کہ صحیح اور سقیم (ضعیف) میں پہچان نہیں رکھتے۔ ان کے علاوہ بھی جو اس طرح کا ہو میں اس سے روایت نہیں کرتا۔ یہ حدیث کئی طرق سے مغیرہ بن شعبہؓ سے مروی ہے۔ سفیان جابر سے وہ مغیرہ بن شمیم سے وہ قیس بن ابی حازم سے اور وہ مغیرہ بن شعبہ سے روایت کرتے ہیں۔ جابر جعفی کو بعض علماء ضعیف کہتے ہیں۔ یحییٰ بن سعید اور عبدالرحمن بن مہدی وغیرہ نے ان سے روایت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ اگر کوئی شخص دور کعتوں کے بعد کھڑا ہو جائے (تسبیح سے پہلے) تو نماز پوری کرے اور سجدہ سہو کرے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ سلام پھیرنے سے پہلے اور بعض کہتے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد کرے۔ جو حضرات سلام سے پہلے سجدہ سہو کرنے کے قائل ہیں ان کی حدیث اصح ہے اسے زہری نے یحییٰ بن سعید انصاری سے انہوں نے عبدالرحمن اعرج سے اور انہوں نے عبداللہ بن حسینؓ سے روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن عبدالرحمن، یزید بن ہارون سے وہ مسعودی سے اور وہ زیاد بن علاقہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: مغیرہ بن شعبہ نے ہمیں نماز پڑھائی۔ جب دور کعت پڑھ چکے تو بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے۔ چنانچہ مقتدیوں نے تسبیح کی یعنی سبحان اللہ کہا تو انہیں بھی کھڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو سلام پھیرا۔ سجدہ سہو کے دو سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا اور فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے بھی ایسا ہی کیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور مغیرہ بن شعبہ ہی سے کئی طرق سے مروی ہے۔

باب ۲۶۵۔ مَا جَاءَ فِي مَقْدَارِ الْقُعُودِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ

۳۱۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا أَبُو دَاوُدَ هُوَ الطَّيَالِسِيُّ نَا شُعْبَةُ نَا سَعْدُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ كَانَهُ عَلَى الرَّضْفِ قَالَ شُعْبَةُ لَمْ حَرَكَ سَعْدٌ شَفْتَيْهِ بِسُنِّيٍّ فَأَقُولُ حَتَّى يَقُومَ فَيَقُولُ حَتَّى يَقُومَ

۳۱۲۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب دو رکعتیں پڑھنے پر تشہد اول میں بیٹھے تو گویا کہ وہ گرم پتھروں پر بیٹھے ہوں (یعنی جلدی سے اٹھے) شعبہ کہتے ہیں پھر سعد نے ہونٹ ہلائے اور کچھ کہا چنانچہ میں نے کہا یہاں تک کہ کھڑے ہوتے تو سعد نے بھی کہا یہاں تک کہ کھڑے ہوتے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ الایہ کہ ابو عبیدہ کو اپنے والد سے سنا نہیں۔ اسی پر اہل علم کا عمل ہے کہ تشہد اول میں دیر نہ لگائی جائے اور تشہد اول کے علاوہ قعدہ اولیٰ میں کچھ نہ پڑھا جائے۔ مزید کہتے ہیں اگر تشہد کے علاوہ کچھ پڑھے تو سجدہ سہو کرے۔ شععی وغیرہ۔ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔

باب ۲۶۶۔ مَا جَاءَ فِي الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ

۳۱۳۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ نَابِلِ بْنِ صَاحِبِ الْعَبَاءِ عَنْ أَبِي عُمَرَ عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ إِلَيَّ إِشَارَةً وَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِشَارَةً بِأَصْبِعِهِ

۳۱۳۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز پڑھ رہے تھے میں ان کے پاس سے گزرا تو سلام کیا۔ آپ ﷺ نے مجھے اشارے سے جواب دیا۔ راوی کو شک ہے۔ کہ شاید صہیب نے یہ بھی کہا کہ انگلی سے اشارہ کر کے جواب دیا۔

اس باب میں حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت انسؓ، حضرت بلالؓ اور حضرت عائشہؓ سے بھی روایت ہے۔

۳۱۴۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا وَكَيْعُ نَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لِبِلَالٍ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ

۳۱۴۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضور اکرم ﷺ جب نماز میں ہوتے اور کوئی سلام کرتا تو کیسے جواب دیا کرتے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور صہیب کی حدیث حسن ہے ہم اسے لیث کی بکیر سے روایت کے علاوہ نہیں جانتے۔ زید بن اسلم سے مروی ہے کہ ابن عمرؓ نے فرمایا: ”میں نے بلالؓ سے کہا: جب لوگ رسول اللہ ﷺ کو مسجد بنو عمرو بن عوف میں نماز پڑھتے ہوئے سلام کرتے تو آپ ﷺ کس طرح جواب دیتے تھے۔ کہنے لگے: اشارہ کر دیتے تھے۔ میرے نزدیک یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ اس لئے کہ صہیبؓ کا قصہ بلالؓ کے قصے کے علاوہ ہے۔ اگرچہ ابن عمرؓ نے دونوں سے روایت کیا ہے۔ احتمال ہے کہ انہوں نے دونوں سے سنا ہو۔

باب ۲۶۷۔ مردوں کے لیے تسبیح (۱) اور عورتوں کے لیے تصفیق (۲) سے متعلق۔

باب ۲۶۷۔ مَا جَاءَ أَنَّ التَّسْبِيحَ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقَ لِلنِّسَاءِ

۳۱۵۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مردوں کے لیے تسبیح اور عورتوں کے لیے تصفیق ہے (یعنی اگر امام بھول جائے تو اسے متنبہ کرنے کے لیے)

۳۱۵۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ أَبِي مَعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

اس باب میں علیؓ، سہل بن سعدؓ، جابرؓ، ابوسعیدؓ اور ابن عمرؓ سے بھی روایت ہے۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں ”میں حضور اکرم ﷺ سے جب اجازت مانگتا تو اگر آپ ﷺ نماز پڑھ رہے ہوتے تو تسبیح کرتے“ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر انہی علم کا عمل ہے۔ احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

باب ۲۶۸۔ نماز میں جمائی لینا مکروہ ہے۔  
۳۱۶۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نماز میں جمائی لینا شیطان سے ہے اگر کسی کو جمائی آئے تو منہ بند کر کے جہاں تک ہو سکے روکنے کی کوشش کرے۔

باب ۲۶۸۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّنَاوُبِ فِي الصَّلَاةِ  
۳۱۶۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ أَنَا اسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّنَاوُبُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَنَاءَوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظُمْ مَا اسْتَطَاعَ

اس باب میں ابوسعید خدریؓ اور عدی بن ثابتؓ کے دادا سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے علماء کی ایک جماعت نماز میں جمائی لینے کو مکروہ کہتی ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں میں کھگار سے جمائی کو واپس کر دیتا ہوں۔

باب ۲۶۹۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے آدھا ثواب ہے۔

باب ۲۶۹۔ مَا جَاءَ أَنَّ الصَّلَاةَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ

۳۱۷۔ حضرت عمران بن حصینؓ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے شخص کے متعلق سوال کیا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جو کھڑے ہو کر نماز پڑھے وہ افضل ہے اور جو بیٹھ کر نماز پڑھے اس کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے سے آدھا ثواب ہے اور جو لیٹ کر پڑھے اس کے لیے بیٹھ کر پڑھنے والے سے آدھا ثواب ہے۔

۳۱۷۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ نَا الْحُسَيْنَ الْمَعْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ

(۱) تسبیح کے معنی سبحان اللہ کہنا ہے۔ (مترجم)

(۲) تصفیق سے مراد یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کو الٹے ہاتھ کی پشت پر مارا جائے۔ (مترجم)

اس باب میں عبد اللہ بن عمرو، انس اور سائب سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں عمران بن حصین کی حدیث حسن صحیح ہے۔ یہ حدیث ابراہیم بن طہمان سے بھی اسی اسناد کے ساتھ مروی ہے لیکن وہ اس میں کہتے ہیں کہ عمران بن حصین نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے مریض کی نماز کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا: کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ اگر نہ پڑھے تو بیٹھ کر اور اگر بیٹھ کر بھی نہ پڑھے تو لیٹ کر نماز پڑھے۔ اس حدیث کو ہناد، وکیع سے وہ ابراہیم بن طہمان سے اور وہ معلم سے اسی اسناد سے نقل کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں ہم کسی اور کو نہیں جانتے کہ اس نے حسین معلم سے ابراہیم بن طہمان کی روایت کے مثل بیان کی ہو۔ ابواسامہ اور کئی راوی حسین بن معلم سے عیسیٰ بن یونس کی حدیث کے مثل روایت کرتے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک یہ حدیث نفل نمازوں پر محمول ہے۔ محمد بن بشار بن ابی عدی سے وہ اشعث بن عبد الملک سے اور وہ حسن سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: نفل نماز چاہے تو کھڑے ہو کر پڑھے چاہے تو بیٹھ کر یا پھر لیٹ کر پڑھے۔ جب کہ مریض کی نماز کے متعلق علماء کا اختلاف ہے۔ کہ اگر وہ بیٹھ کر نماز نہ پڑھے تو بیٹھ کر یا پھر لیٹ کر پڑھے۔ اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ سیدھا لیٹ کر پاؤں قبل کی طرف پھیلا کر نماز پڑھے۔ سفیان ثوری اس حدیث کے متعلق کہتے ہیں: ”جو بیٹھ کر نماز پڑھے اس کے لیے کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے آدھا ثواب ہے“ کہ یہ حدیث صحیح شخص کے لیے ہے جو معذور نہ ہو۔ جہاں تک مریض یا معذور آدمی کا تعلق ہے اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو اسے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ بعض احادیث کا مضمون سفیان کے اس قول کے مطابق ہے۔

باب ۲۷۰۔ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا۔

باب ۲۷۰۔ فِيمَنْ يَتَطَوَّعُ جَالِسًا

۳۱۸۔ حضرت حفصہؓ (ام المؤمنین) فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کبھی نفل نماز بیٹھ کر پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر آپ وفات سے ایک سال قبل نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے لگے۔ اور اس میں جب کوئی سورت پڑھتے تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہے یہاں تک کہ وہ طویل سے طویل ہوتی جاتی۔

۳۱۸۔ حَدَّثَنَا الْانصَارِيُّ نَامِعْنُ نَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدٍ عَنِ الْمَطْلَبِ بْنِ اَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ عَنِ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَامَ فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا وَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ وَيُرْتَلُّهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا

اس باب میں ام سلمہ اور انس بن مالک سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں حدیث حفصہؓ حسن صحیح ہے۔ آنحضرت ﷺ سے مروی کہ آپ ﷺ رات کو بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب ان کی قرأت میں تیس یا چالیس آیتیں رہ جاتیں تو کھڑے ہو کر پڑھنے لگتے پھر رکوع کرتے اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کرتے۔ آپ ﷺ سے یہ بھی مروی ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھتے۔ اگر کھڑے ہو کر قرأت کرتے تو رکوع اور سجدہ بھی کھڑے ہو کر کرتے اور اگر بیٹھ کر قرأت کرتے تو رکوع و سجدہ بھی بیٹھ کر ہی کرتے امام احمد اور اسحاق کہتے ہیں کہ دونوں حدیثوں پر عمل ہے گویا کہ دونوں حدیثیں صحیح اور معمول بہ ہیں۔

۳۱۹۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ پس قرأت بھی بیٹھ کر کرتے اور جب تیس یا چالیس آیتیں رہ جاتیں تو کھڑے ہو کر قرأت شروع کر دیتے، پھر رکوع و سجدہ کرتے اور

۳۱۹۔ حَدَّثَنَا الْانصَارِيُّ نَامِعْنُ نَا مَالِكُ بْنُ اَبِي النَّصْرِ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ

دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کرتے۔

جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَةِ تَبَهُ قَدَرٌ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ  
أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ وَ سَجَدَ ثُمَّ  
صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۲۰۔ عبد اللہ بن شقیق حضرت عائشہؓ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے  
حضرت عائشہؓ سے رسول اللہ ﷺ کی نفل نماز کے متعلق پوچھا تو فرمایا  
آپ ﷺ کا کافی رات تک کھڑے ہو کر اور کافی رات تک بیٹھ کر نماز  
پڑھتے تھے اگر کھڑے ہوتے ہوئے قرأت کرتے تو رکوع اور سجود بھی  
کھڑے ہو کر کرتے اور اگر بیٹھ کر قرأت کرتے تو رکوع اور سجود بھی بیٹھ  
کر ہی کرتے

۳۲۰۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا هَشِيمَ نَا خَالِدٌ  
وَهُوَ الْحَدَّاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ  
سَأَلْتُهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ  
وَسَلَّمَ عَنْ نَطْوَعِهِ قَالَتْ كَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا  
قَائِمًا وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا فَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ  
وَ سَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ جَالِسٌ رَكَعَ  
وَ سَجَدَ وَهُوَ جَالِسٌ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۲۷۱۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میں جب بچے کے رونے کی آواز سنتے  
ہوں تو نماز میں تخفیف کر دیتا ہوں۔

بَاب ۲۷۱۔ مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فِي الصَّلَاةِ  
فَأُخَفِّفُ

۳۲۱۔ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ  
کی تم جب میں نماز کے دوران بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز  
میں تخفیف (ہلکی) کر دیتا ہوں تاکہ اس کی ماں پریشان نہ ہو جائے۔

۳۲۱۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا مِرْوَانَ بْنِ مَعَاوِيَةَ الْفَزَارِي عَنْ  
حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ  
وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأُخَفِّفُ مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ

اس باب میں ابوقادہؓ، ابوسعیدؓ اور ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں۔ حدیث انس حسن صحیح ہے۔

باب ۲۷۲۔ جوان لڑکی کی نماز بغیر چادر کے مقبول نہیں۔

بَاب ۲۷۲۔ مَا جَاءَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الْحَائِضِ إِلَّا بِحِمَارٍ

۳۲۲۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جوان لڑکی  
کی بغیر چادر کے نماز قبول نہیں (یعنی بغیر چادر اوڑھے)۔

۳۲۲۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ نَا قَبِيصَةَ عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلْمَةَ  
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ صَفِيَّةِ ابْنَةِ الْحَارِثِ عَنْ  
عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ  
وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الْحَائِضِ إِلَّا بِحِمَارٍ

اس باب میں عبد اللہ بن عمروؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت عائشہؓ کی حدیث حسن ہے اور اسی پر اہل علم کا عمل  
ہے کہ سر کوڈھانے بغیر بالغ عورت کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ امام شافعی کا قول ہے۔ ان کا یہ بھی کہتا ہے کہ عورت کے بدن کا کوئی بھی حصہ اگر  
کھلا ہو تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ شافعی کہتے ہیں: کہا گیا ہے کہ اگر اس کے پاؤں کھلے رہ جائیں تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی۔

باب ۲۷۳۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ السُّدْلِ فِي الصَّلَاةِ  
 ۳۲۳۔ حَدَّثَنَا هِنَادًا قَبِيصَةَ عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلْمَةَ  
 عَنْ عَسَلِ بْنِ سَفْيَانَ عَنْ عَطَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ  
 نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ  
 السُّدْلِ فِي الصَّلَاةِ

باب ۲۷۳۔ نماز میں سدل مکروہ ہے۔ (۱)  
 ۳۲۳۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز میں  
 سدل کرنے سے منع فرمایا۔

اس باب میں ابو جحیفہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کو ہم عطاء کی ابو ہریرہ سے مرفوع  
 روایت کے علاوہ نہیں جانتے۔ وہ عسل بن سفیان سے روایت کرتے ہیں۔ علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ سدل کا نماز میں کیا حکم  
 ہے؟ بعض علماء اسے مکروہ کہتے ہوئے یہ توجیہ کرتے ہیں کہ یہ یہودیوں کا فعل ہے جب کہ بعض سدل کو اس صورت میں مکروہ کہتے  
 ہیں کہ جسم پر ایک ہی کپڑا ہو لیکن اگر گرتے یا قیص پر سدل کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ امام احمد کا قول ہے۔ ابن مبارک بھی نماز  
 میں سدل کو مکروہ کہتے ہیں۔

باب ۲۷۴۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ مَسْحِ الْحَصْيِ فِي  
 الصَّلَاةِ

باب ۲۷۴۔ نماز میں کنکریاں ہٹانا مکروہ ہے

۳۲۴۔ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ نَا  
 سَفْيَانَ بْنِ عَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ  
 أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا  
 قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحُ الْحَصْيَ فَإِنَّ  
 الرَّحْمَةَ تَوَاجِهَهُ

۳۲۴۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں  
 سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو کنکریاں نہ ہٹائے اس لیے کہ رحمت اس  
 کے سامنے ہوتی ہے۔

۳۲۵۔ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَرْيِثَ نَا الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ  
 الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلْمَةَ بْنُ  
 عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَيْقِبٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَسْحِ الْحَصْيِ فِي الصَّلَاةِ  
 فَقَالَ إِنْ كُنْتَ لِأَبَدٍ فَأَعْلًا فَمَرَّةً وَاجِدَةً

۳۲۵۔ حضرت معقیب فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے نماز  
 میں کنکریاں ہٹانے کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا: اگر ضروری ہٹانی  
 ہوں تو ایک مرتبہ ہٹاؤ۔

امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں علی بن ابی طالبؓ، حذیفہؓ، جابر بن عبد اللہؓ اور معقیبؓ سے بھی  
 روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت ابو ذرؓ کی حدیث حسن ہے۔ آپ ﷺ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے کنکریاں ہٹانے کو مکروہ  
 کہا ہے اور فرمایا: اگر ضروری ہٹانی ہوں تو ایک مرتبہ ہٹاؤ۔ گویا کہ آپ ﷺ نے ایک مرتبہ ہٹانے کی اجازت دی ہے۔ علماء بھی اسی پر  
 عمل کرتے ہیں۔

(۱) سدل کا معنی یہ ہے کہ چادر یا رومال وغیرہ کو سر یا کندھوں پر رکھ کر اس کے دونوں سرے نیچے چھوڑ دیئے جائیں یا پھر ایک کپڑے میں اپنے آپ کو لپیٹ کر  
 رکوع اور سجود ادا کیے جائیں اور دونوں ہاتھ بھی چادر کے اندر داخل ہوں۔ (مترجم)

باب ۲۷۵۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ  
 ۳۲۶۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ عَنْ عَبْدِ بْنِ الْعَوَامِ نَا  
 مِيمُونَ ابُو حَمْرَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى طَلْحَةَ عَنْ أُمِّ  
 سَلَمَةَ قَالَتْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ  
 وَسَلَّمَ غُلَامًا لَنَا يَقَالُ لَهُ أَفْلَحُ إِذَا سَجَدَ نَفَخَ فَقَالَ يَا  
 أَفْلَحُ قَرِّبْ وَجْهَكَ

احمد بن منیع کہتے ہیں کہ عباد نماز میں پھونکنے کو مکروہ سمجھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ احمد بن منیع کہتے ہیں: ہم اسی قول پر عمل کرتے ہیں امام ترمذی کہتے ہیں بعض حضرات نے یہ حدیث ابو حمزہ سے روایت کی ہے اور کہا ہے کہ وہ لڑکا ہمارا مولیٰ تھا اس کا نام رباح تھا۔ احمد بن عبدہ الضحیٰ، حماد بن زید سے اور وہ میمون ابو حمزہ سے اسی استاد سے اسی کے مثل روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ یہ لڑکا ہمارا غلام تھا اسے رباح کہا جاتا تھا۔ امام ترمذی کہتے ہیں ام سلمہؓ کی حدیث کی اسناد قوی نہیں۔ بعض علماء میمون ابو حمزہ کو ضعیف کہتے ہیں۔ نماز میں پھونکیں مارنے میں علماء کا اختلاف ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر کوئی نماز میں پھونک دے تو دوبارہ نماز پڑھے یہ سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا قول ہے۔ جب کہ بعض کہتے ہیں کہ نماز میں پھونکیں مارنا مکروہ ہے لیکن اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی یہ احمد اور اسحاق کا قول ہے۔

باب ۲۷۶۔ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْإِخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ

۳۲۷۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ نَا أَبُو اسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ  
 حَسَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ  
 النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ  
 الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا

اس باب میں ابن عمرؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء کی ایک جماعت نماز میں اختصار کو مکروہ کہتی ہے۔ اختصار یہ ہے کہ کوئی شخص نماز میں اپنے پہلو (کوکھ) پر ہاتھ رکھے۔ بعض حضرات پہلو پر ہاتھ رکھ کر چلنے کو بھی مکروہ کہتے ہیں۔ ابلیس کے متعلق مروی ہے کہ جب چلتا ہے تو پہلو پر ہاتھ رکھ کر چلتا ہے۔

باب ۲۷۷۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ كَفِّ الشَّعْرِ فِي الصَّلَاةِ

۳۲۸۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى نَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنَا ابْنُ  
 جَرِيحٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ  
 الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّهُ مَرَّ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَهُوَ  
 يُصَلِّيُ وَقَدْ عَقَصَ ضَفْرَتَهُ فِي فَفَاهُ فَحَلَّهَا فَالْتَفَتَ

۳۲۸۔ سعید بن ابی سعید مقبری اپنے والد سے اور وہ ابو رافع سے نقل کرتے ہیں کہ وہ حسن بن علی کے پاس سے گزرے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور (بالوں کا) جوڑا گدی پر باندھا ہوا تھا۔ ابو رافع نے اسے کھول دیا۔ اس پر حضرت حسن نے ان کی طرف غصے سے دیکھا تو انہوں نے

إِلَيْهِ الْحَسَنُ مُغْضِبًا فَقَالَ أَقْبَلْ عَلَيَّ صَلَوَاتِكَ وَلَا تَغْضَبْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ

کہا اپنی نماز پڑھتے رہو اور غصہ نہ کرو، میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ یہ شیطان کی مماثلت ہے۔

اس باب میں ام سلمہ اور عبد اللہ بن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابورافعؓ کی حدیث حسن ہے اور اسی پر علماء کا عمل ہے کہ نماز میں بالوں کو باندھنا مکروہ ہے۔ عمران بن موسیٰ قریشی مکی اور ایوب بن موسیٰ کے بھائی ہیں۔

باب ۲۷۸۔ نماز میں خشوع سے متعلق

باب ۲۷۸۔ مَا جَاءَ فِي التَّخَشُّعِ فِي الصَّلَاةِ

۳۲۹۔ حضرت فضل بن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نماز دو دو رکعت ہے۔ ہر دو رکعت کے بعد تشهد (التحیات) ہے۔ بارگاہِ خداوندی میں عاجزی، خوف اور مسکین بننا اور دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے راوی کہتے ہیں یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو اپنے منہ کی طرف کر کے بلند کرنا اور کہنا اے رب اے رب۔ اور جو اس طرح نہ کرے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے۔

۳۲۹۔ حدثنا سويد بن نصرنا عبد الله بن المبارك ناليث بن سعد نا عبد ربه بن سعيد عن عمران بن ابي انس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلوة مننني مننني تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسك وتضع يديك يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلاً يبطونهما وجهك وتقول يارب يارب ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا

امام ترمذی کہتے ہیں کہ ابن مبارک کے علاوہ دوسرے راوی اس حدیث میں یہ کہتے ہیں ”من لم يفعل ذلك فهو خداج“ جو اس طرح نہ کرنے اس کی نماز ناقص ہے۔

امام ترمذی کہتے ہیں میں نے بخاری سے سنا کہ شعبہ نے یہ حدیث عبد ربہ سے روایت کرتے ہوئے کئی جگہ خطا کی ہے۔ انہوں نے کہا: ”عن انس بن ابي انيس“ جب کہ یہ ”عمران بن ابي انيس“ ہے اور کہا ”عن عبد الله بن حارث“ جب کہ یہ ”عبد الله بن نافع بن عمياء عن ربيعة بن حارث“ ہے۔ شعبہ کہتے ہیں ”عن عبد الله بن حارث عن المطلب عن النبي ﷺ“ اور درحقیقت یہ اس طرح ہے کہ ربيعة بن حارث بن عبد المطلب، فضل بن عباس سے اور وہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں لیث بن سعد کی حدیث شعبہ کی حدیث سے صحیح ہے۔

باب ۲۷۹۔ پنجے میں پتھر ڈالنا مکروہ ہے۔

باب ۲۷۹۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّشْبِيكِ بَيْنَ الْأَصَابِعِ فِي الصَّلَاةِ

۳۳۰۔ حضرت کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں کوئی اچھی طرح وضو کرے اور پھر مسجد کا ارادہ کر کے نکلے تو اپنی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہ ڈالے کیوں کہ وہ نماز میں ہے۔

۳۳۰۔ حدثنا قتيبة نا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن رجل عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا

إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبَّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ

امام ترمذی کہتے ہیں کعب بن عجرہ کی حدیث کو کئی راویوں نے ابن عجلان سے لیث کی حدیث کے مثل نقل کیا ہے شریک، محمد بن عجلان سے وہ اپنے والد سے وہ ابو ہریرہؓ سے اور وہ نبی اکرم ﷺ سے اسی حدیث کے مثل روایت کرتے ہیں اور شریک کی حدیث غیر محفوظ ہے۔

باب ۲۸۰۔ مَا جَاءَ فِي طُولِ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ

۳۳۱۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ نَا سَفِيَانَ بْنَ عَيِّنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ قَالَ طَوَّلُ الْقُنُوتِ

باب ۲۸۰۔ نماز میں دیر تک قیام کرنا۔

۳۳۱۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا کون سی نماز افضل ہے آپ ﷺ نے فرمایا: جس میں قیام طویل ہو۔

اس باب میں عبد اللہ بن حبشیؓ اور انس بن مالکؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں جابر کی حدیث حسن صحیح ہے اور کئی طرق سے جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے۔

باب ۲۸۱۔ مَا جَاءَ فِي كَثْرَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

۳۳۲۔ حَدَّثَنَا أَبُو عَمَارٍ نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامٍ الْمُعِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيُّ قَالَ لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ ذَلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ وَيُدْخِلُنِي اللَّهُ الْحَنَةَ فَسَكَتَ عَنِّي مَلِيًّا ثُمَّ التَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ قَالَ مَعْدَانُ فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ عَمَّا سَأَلْتُ عَنْهُ ثَوْبَانَ فَقَالَ عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ

باب ۲۸۱۔ رکوع اور سجدے کے زیادہ کرنا۔

۳۳۲۔ اوزاعی، ولید بن ہشام معیطی سے اور وہ معدان بن طلحہ یحمری سے روایت کرتے ہیں کہ معدان نے کہا میں نے ثوبانؓ (جو رسول اللہ ﷺ کے مولیٰ تھے) سے ملاقات کی اور کہا: مجھے ایسا عمل بتائیے کہ اس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے اور جنت میں داخل کر دے ثوبانؓ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: تم سجدے کے زیادہ کیا کرو۔ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا ایک درجہ بلند اور اس کا ایک گناہ کم کر دیتے ہیں۔ معدان کہتے ہیں پھر میں نے ابودرداءؓ سے ملاقات کی تو ان سے بھی یہی سوال کیا۔ ابودرداءؓ نے بھی یہی کہا کہ: سجدے کے زیادہ کیا کرو کیوں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے ہوئے سنا کہ کوئی بندہ جب اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند اور اس کا ایک گناہ کم کر دیتے ہیں۔

اس باب میں ابو ہریرہؓ اور فاطمہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ثوبانؓ کی رکوع اور سجود میں کثرت والی حدیث حسن صحیح ہے۔ چنانچہ علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نماز میں قیام کا لمبا کرنا رکوع اور سجود کی کثرت سے زیادہ افضل ہے جب کہ بعض کا کہنا ہے کہ رکوع و سجود کی کثرت قیام کی طوالت سے افضل ہے۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ سے اس باب میں دو حدیثیں مروی ہیں اور آپ ﷺ نے اس میں کسی کی افضلیت کا فیصلہ نہیں فرمایا: اسحاق کہتے ہیں دن میں رکوع اور سجود افضل ہیں۔

جب کہ رات کو قیام میں طوالت افضل ہے۔ البتہ اگر کسی شخص نے رات کی نماز کے لیے کچھ وقت مخصوص کیا ہو تو رات میں بھی رکوع اور سجود ہی افضل ہیں کیوں کہ جب وہ اپنے مخصوص وقت پر پہنچے گا تو رکوع و سجود کا نفع الگ ملے گا۔

امام ترمذی کہتے ہیں اسحاق نے اس لیے کہا کہ نبی کریم ﷺ کی رات کی نماز اسی طرح ہوتی تھی۔ لہذا انہوں نے بھی قیام کو افضل قرار دیا۔ جب کہ آپ کی دن کی نماز طول قیام سے متصف نہیں ہوا کرتی تھی۔

باب ۲۸۲۔ مَا جَاءَ فِي قِتْلِ الْأَسْوَدِيِّ فِي الصَّلَاةِ

باب ۲۸۲۔ سانپ اور بچھو کو نماز میں مارنا۔

۳۳۳۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ أَنَا اسْمَعِيلُ بْنُ عَلِيَّةِ

۳۳۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے دو کالی

عن علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن

چیزوں کو نماز میں بھی مارنے کا حکم دیا۔ بچھو اور سانپ۔

ضَمُضَمُ بْنُ جَوْسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدِيِّ فِي

الصَّلَاةِ الْحَيَّةِ وَالْعُقْرَبِ

اس باب میں ابن عباسؓ اور ابو رافعؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اور اسی پر بعض صحابہ وغیرہ کا عمل ہے یہی احمد اور اسحاق کا بھی قول ہے۔ جب کہ بعض علماء بچھو اور سانپ کو نماز میں قتل کرنے کو مکروہ کہتے ہیں۔ ابراہیم کہتے ہیں نماز میں عین مشغولیت ہوتی ہے لیکن پہلا قول اصح ہے۔

باب ۲۸۳۔ مَا جَاءَ فِي سُجْدَتِي السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ

باب ۲۸۳۔ سلام سے پہلے سجدہ سہو کرنا۔

۳۳۴۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا اللَّيْثِ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ

۳۳۴۔ حضرت عبداللہ بن نحسینہ اسدیؓ جو بنو عبدالمطلب کے حلیف

عبدالرحمن الأغرَجُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسَدِيِّ

(اہم قسم) ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ظہر کی نماز میں تشہد اول کے

حَلِيْفُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

بجائے کھڑے ہو گئے۔ جب آپ ﷺ نے نماز مکمل کی تو سلام سے

وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا

پہلے بیٹھے بیٹھے ہی دو سجدے کئے اور ہر سجدے میں تکبیر کہی۔ لوگوں نے

أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَ

بھی آپ ﷺ کے ساتھ سجدے کیے۔ اور یہ قعدہ اولی کے عوض میں تھے

هُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَ هُمَا النَّاسُ مَعَهُ

جسے آپ ﷺ بھول گئے تھے۔

مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ

اس باب میں عبدالرحمن بن عوفؓ سے بھی روایت ہے۔ محمد بن بشار، عبدالاعلیٰ اور ابو داؤد سے وہ دونوں ہشام سے وہ یحییٰ بن ابی کثیر سے اور وہ محمد بن ابراہیم سے روایت کرتے ہیں کہ ابو ہریرہؓ اور سائب قاریؓ سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کیا کرتے تھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ ابن نحسینہؓ کی حدیث حسن ہے اور بعض علماء کا اسی پر عمل ہے۔ یہ شافعی کا بھی قول ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کرے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ حکم دوسری احادیث کے لیے ناخ کا درجہ رکھتا ہے اور مذکور ہے کہ نبی کریم ﷺ کا آخری فعل یہی تھا۔ احمد اور اسحاق کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دو رکعتوں کے بعد کے تشہد پر بیٹھنے کی بجائے کھڑا ہو جائے تو سجدہ سہو سلام سے پہلے کرے گا۔ یعنی ابن نحسینہ کی حدیث کے مطابق۔ عبداللہ بن نحسینہ: عبداللہ بن مالک بن نحسینہ ہیں مالک ان کے والد اور نحسینہ ان کی والدہ ہیں۔ مجھے یہ اسحاق بن منصور نے علی بن مدینی کے حوالے سے بتایا۔ امام ترمذی کہتے ہیں: علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ سجدہ سہو سلام کے بعد کیا

جائے یا سلام سے پہلے؟ بعض کے نزدیک سلام کے بعد کیے جائیں گے۔ یہ سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا قول ہے۔ بعض کا مسلک ہے کہ سجدہ ہو سلام پھیرنے سے پہلے ہے اور یہ اکثر فقہائے مدینہ کا قول ہے جیسے کہ یحییٰ بن سعید اور ربیعہ وغیرہ شافعی بھی یہی کہتے ہیں اس مسئلے میں تیسرا قول یہ ہے کہ اگر نماز میں زیادتی ہو تو سلام کے بعد اور اگر کمی ہو تو سلام سے پہلے سجدہ ہو کیا جائے۔ یہ مالک بن انس کا قول ہے۔ امام احمد کہتے ہیں۔ جس صورت میں جس طرح حضور اکرم ﷺ سے سجدہ ہو مروی ہے اسی صورت سے کیا جائے۔ ان کے نزدیک اگر دو رکعتوں کے بعد تشهد میں بیٹھنے کے بجائے کھڑا ہو جائے تو ابن نجین کی حدیث کے مطابق سلام سے پہلے سجدہ ہو کرے اور اگر ظہر کی پانچ رکعتیں پڑھ لے تو سلام کے بعد کرے اور اگر ظہر یا عصر کی نماز میں دو رکعتیں پڑھنے کے بعد سلام پھیر لیا ہو تو سلام پھیرنے کے بعد سجدہ ہو کرے (یعنی نماز پوری کر کے) لہذا جو جس طرح حضور اکرم ﷺ سے مروی ہے اسی پر عمل کیا جائے۔ اور اگر کوئی ایسی صورت ہو جائے جس میں آپ ﷺ سے کچھ ثابت نہیں تو ہمیشہ سجدہ ہو سلام سے پہلے کیا جائے اسحاق بھی امام احمد کے قول ہی کے قائل ہیں صرف معمولی سافرق ہے کہ جس بھول کے متعلق نبی کریم ﷺ سے کوئی حدیث مروی نہ ہو وہ اگر نماز میں زیادتی ہو تو سلام کے بعد اور اگر کمی ہو تو نماز سے پہلے سجدہ ہو کرے۔

باب ۲۸۴۔ مَا جَاءَ فِي سَجْدَتِي السَّبْهُ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ

۳۳۵۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ نَا شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ عَنِ عَلْقَمَةَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ حَمْسًا فَقِيلَ لَهُ أَرِيدُ فِي الصَّلَاةِ أَمْ نَسِيتَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ

۳۳۵۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مرتبہ ظہر کی پانچ رکعتیں پڑھیں تو آپ ﷺ سے کہا گیا کیا نماز میں زیادتی کردی گئی یا آپ ﷺ بھول گئے چنانچہ آپ ﷺ نے سلام کے بعد دو سجدے کیے۔

امام ترمذی کہتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۳۶۔ حَدَّثَنَا هِنَادٌ وَمَحْمُودُ بْنُ غِيلَانَ قَالَا نَا ابُو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن عَلْقَمَةَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّبْهِ بَعْدَ الْكَلَامِ

۳۳۶۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بات کرنے کے بعد سجدہ ہو کر دو سجدے کیے۔

اس باب میں معاویہؓ، عبداللہ بن جعفرؓ اور ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے۔

۳۳۷۔ حَدَّثَنَا احمد بن منيع نا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ هُمَا بَعْدَ السَّلَامِ

۳۳۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا: کہ رسول اللہ ﷺ نے سلام کے بعد دونوں سجدے کیے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسے ایوب اور کئی راوی ابن سیرین سے روایت کرتے ہیں اور ابن مسعود کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اسی پر بعض اہل علم کا عمل ہے کہ اگر ظہر کی نماز پانچ رکعتیں پڑھ لے تو اس کی نماز جائز سے بشرطیکہ سجدہ سو کرے اگرچہ چوتھی رکعت میں نہ بھی بیٹھا ہو۔ یہ شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے جب کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر ظہر کی نماز میں پانچ رکعتیں پڑھ لیں اور چوتھی رکعت التحیات کے برابر نہیں بیٹھا تو نماز فاسد ہوگی۔ یہ سفیان ثوری اور بعض اہل کوفہ کا قول ہے۔

باب ۲۸۵۔ مَا جَاءَ فِي التَّشَهُدِ فِي سَجْدَتِي السَّهْوِ

باب ۲۸۵۔ سجدہ سو میں تشہد پڑھنا۔

۳۳۸۔ حضرت عمران بن حصین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز پڑھائی اور اس میں بھول گئے چنانچہ دو سجدے کیے اور پھر تشہد پڑھنے کے بعد سلام پھیرا۔

۳۳۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي اشْعَثُ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ خَالِدِ الْحِذَاءِ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَسَجَدَ فَسَجَدَ تَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ

سیرین عن خالد الحذاء عن ابی قلابہ عن ابی المہلب عن عمران بن حصین ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی بہم فسجد فسجد تین ثم تشہد ثم سلم

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے، ابن سیرین، ابو مہلب سے (جو ابو قلابہ کے بچا ہیں) دوسری حدیث روایت کرتے ہیں۔ محمد نے یہ حدیث خالد حذاء سے انہوں نے ابو قلابہ سے اور انہوں نے ابو مہلب سے روایت کی ہے ابو مہلب کا نام عبد الرحمن بن عمرو ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا نام معاویہ بن عمرو ہے۔ عبد الوہاب ثقفی، ہشیم اور کئی راوی، خالد حذاء سے اور وہ ابو قلابہ سے یہ حدیث طویل روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث عمران بن حصین کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عصر کی نماز میں تین رکعتوں کے بعد سلام پھیر لیا۔ ایک شخص جسے خرباق کہتے ہیں کھڑا ہوا..... الخ۔ علماء کا سجدہ سو کے تشہد میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں تشہد پڑھے اور سلام پھیرے اور بعض کا کہنا ہے کہ اس میں تشہد اور سلام نہیں ہے۔ اور اگر سلام پھیرنے سے پہلے سجدے کرے تو تشہد پڑھے۔ یہ امام احمد اور اسحاق کا قول ہے۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ اگر سجدہ سو سلام پھیرنے سے پہلے کرے تو تشہد نہ پڑھے۔

باب ۲۸۶۔ جسے کسی یا زیادتی میں شک ہو اس کے متعلق

باب ۲۸۶۔ فِيمَنْ يَشْكُ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ

۳۳۹۔ یحییٰ بن ابی کثیر، عیاض بن ہلال سے نقل کرتے ہیں کہ ہلال نے ابو سعیدؓ سے کہا: کہ ہم میں سے کوئی نماز پڑھے اور یہ بھول جائے کہ کتنی پڑھی تو کیا کرے؟ ابو سعیدؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم میں سے کوئی نماز پڑھے اور بھول جائے کہ کتنی (رکعتیں، پڑھی ہیں تو بیٹھے بیٹھے دو سجدے کر لے۔

۳۳۹۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا اسْمَعِيلُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ

نا هشام الدستوائی عن یحییٰ بن ابی کثیر عن عیاض بن ہلال قال قلت لابی سعید احدنا یصلی فلا یدری کیف صلی فقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا صلی احدکم فلم یدر کیف صلی فلیسجد سجدتین وهو جالس

اس باب میں عثمان، ابن مسعود، عائشہ اور ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں ابو سعیدؓ کی حدیث حسن ہے اور ابو سعید سے کئی سندوں سے مروی ہے۔ حضور اکرم ﷺ سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر تم میں سے کوئی دو اور ایک (رکعت) میں شکر میں پڑ جائے تو انہیں ایک سمجھے۔ اور اگر دو اور تین میں شبہ ہو تو دو سمجھے اور اس میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ ہو کرے۔ ہمارے اصحاب اسی پر عمل پیرا ہیں جب کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر شکر ہو جائے کہ کتنی رکعات پڑھی ہیں تو دوبارہ نماز پڑھے۔

۳۴۰۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدَكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

۳۳۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا اور شبہ پیدا کرتا ہے یہاں تک کہ وہ (نمازی) یہ نہیں جانتا کہ اس نے کتنی نماز (رکعتیں) پڑھی۔ اگر تم میں سے کوئی ایسی صورت پائے تو بیٹھے بیٹھے ہی دو سجدے کرے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۴۱۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ نَا اِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اسْحَقَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ كَرِيبِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَهَى أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثِنْتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَيَّ وَاحِدَةً فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلَاثًا فَلْيَبْنِ عَلَيَّ ثِنْتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَيَّ ثَلَاثًا وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ

۳۳۱۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص نماز میں یہ بھول جائے کہ اس نے دو رکعتیں پڑھی ہیں یا ایک تو وہ ایک ہی شمار کرے اور اگر دو اور تین میں شک ہو تو دو شمار کرے پھر اگر تین یا چار کے متعلق شبہ ہو تو تین شمار کرے اور سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کر لے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور عبدالرحمن بن عوفؓ ہی سے اس کے علاوہ بھی کئی سندوں سے مروی ہے۔ اسے زہری، عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ سے وہ ابن عباسؓ سے وہ عبدالرحمن بن عوفؓ سے اور وہ نبی اکرم ﷺ سے بھی روایت کرتے ہیں۔

باب ۲۸۷۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسَلِّمُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

باب ۲۸۷۔ جو شخص ظہر کی نماز میں دو رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دے۔ (بھول کر)

۳۴۲۔ حَدَّثَنَا اِذَا نَصْبَارِي نَا مَعْنُ نَا مَالِكُ عَنْ اَيُّوبِ بْنِ اَبِي تَمِيمَةَ وَهُوَ السَّخْتِيَانِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْصَرَفَ مِنْ اَثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَقْصَرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَصْدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ

۳۳۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے دو رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا۔ تو ذوالیدین نے آپ ﷺ سے عرض کیا: نماز کم ہوگئی یا آپ ﷺ بھول گئے یا رسول اللہ ﷺ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کیا ذوالیدین نے صحیح کہا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں۔ چنانچہ آپ ﷺ کھڑے ہوئے اور باقی کی دو رکعتیں پڑھیں پھر سلام پھیرا پھر تکبیر کہہ کر سجدے میں گئے جیسے کہ وہ سجدہ کیا کرتے تھے یا اس سے

طویل پھر تکبیر کہی اور اٹھے اور اس کے بعد دوسرا سجدہ بھی اسی طرح کیا جیسے پہلے کیا کرتے تھے یا اس سے طویل کیا۔

فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى  
أُنْتَتِنِينَ أُخْرَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ  
سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ  
سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ

اس باب میں عمران بن حصینؓ، ابن عمرؓ اور ذوالعیدین سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء کا اس حدیث کے بارے میں اختلاف ہے۔ اہل کوفہ کہتے ہیں کہ اگر کلام کر لیا تو دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی چاہے بھول کر ہو، جہالت کی وجہ سے ہو یا کسی بھی وجہ سے ہو۔ ان کا کہنا ہے کہ حدیث باب نماز میں کلام کی ممانعت سے پہلے کی ہے۔ شافعی اس حدیث کو صحیح جانتے اور اس پر عمل کرتے ہیں ان کا کہنا ہے یہ اس حدیث سے صحیح ہے جس میں آپ ﷺ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: روزے دار اگر بھول کر کچھ کھائی لے تو قضا نہ کرے کیوں کہ یہ تو اللہ کا اس کو عطا کردہ رزق ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ حضرات روزے دار کے عہد اُکھانے اور بھول کر کھانے میں تفریق کرتے ہیں۔ ان کی دلیل حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث ہے۔ امام احمد، حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث باب کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر امام نے اس گمان کے ساتھ بات کی کہ وہ نماز پوری پڑھ چکا ہے اور بعد میں معلوم ہوا کہ پوری نہیں ہوئی تو نماز کو مکمل کرے۔ اور جو مقتدی یہ جانتے ہوئے بات کرے کہ اس کی نماز نامکمل ہے تو وہ دوبارہ نماز پڑھے۔ ان کا استدلال اس سے ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی موجودگی میں فرائض میں کمی بیشی ہوتی رہتی تھی۔ لہذا ذوالعیدین کا بات کرنا اس لیے تھا کہ ان کے خیال میں نماز مکمل ہو چکی تھی لیکن اس موقع پر ایسا نہیں تھا۔ اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایسی صورت میں بات کرے کیوں کہ اب فرائض میں کمی بیشی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ احمد کا کلام بھی اسی کے مشابہ ہے۔ اسحاق کا قول بھی امام احمد ہی کے قول کی طرح ہے۔ (یعنی اس باب میں)۔

باب ۲۸۸۔ جوتیاں پہن کر نماز پڑھنا  
۳۴۳۔ حضرت سعید بن یزید ابو سلمہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے انس بن مالکؓ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ ﷺ جو توں میں نماز پڑھا کرتے تھے؟  
حضرت انسؓ نے فرمایا: ہاں

باب ۲۸۸۔ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي النَّعَالِ  
۳۴۳۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا سَمْعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ  
عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَنْسِ بْنِ  
مَالِكٍ أَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  
يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ قَالَ نَعَمْ

اس باب میں عبد اللہ بن مسعودؓ، عبد اللہ بن ابی حنیبہؓ، عبد اللہ بن عمروؓ، عمرو بن حریشؓ، شداد بن اوسؓ، ثقیفؓ، ابو ہریرہؓ اور عطاء (بنو شیبہ کے ایک شخص) سے بھی روایت ہے۔

امام ترمذی کہتے ہیں حدیث انسؓ صحیح ہے اور اسی پر اہل علم کا عمل ہے۔

باب ۲۸۹۔ فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا۔  
۳۴۴۔ حضرت براء بن عازبؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فجر اور مغرب کی نماز میں دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔

باب ۲۸۹۔ مَا جَاءَ فِي الْقُنُوتِ فِي الصَّلَاةِ الْفَجْرِ  
۳۴۴۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمَثْنِيِّ قَالَا نَا  
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مَرْثَةَ عَنِ  
الْبُرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ

اس باب میں علیؑ، انسؓ، ابو ہریرہؓ، ابن عباسؓ اور خفاف بن ایماء بن رضہ غفاریؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت براءؓ کی حدیث حسن صحیح ہے فجر کی نماز میں قنوت پڑھنے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض صحابہ وغیرہ فجر میں قنوت پڑھنے کے قائل ہیں شافعی بھی اس کے قائل ہیں۔ احمد اور اسحاق کہتے ہیں کہ قنوت اس صورت میں پڑھے جب کہ مسلمانوں پر کوئی مصیبت نازل ہوگئی اور اگر کوئی مصیبت آجائے تو امام کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کے لشکر کے لیے دعا کرے۔

باب ۲۹۰۔ فِي تَرْكِ الْقُنُوتِ

باب ۲۹۰۔ قنوت کو ترک کرنا

۳۴۵۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي يَأْأَبْتِ إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ هَهُنَا بِالْكُوفَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ أَكَانُوا يَقْنُتُونَ قَالَ أَيْ بَنِي مُحَدَّثٍ

۳۴۵۔ احمد بن منیع، یزید بن ہارونؓ سے اور وہ ابو مالک اشجعی سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے عرض کیا: ابا جان آپ نے رسول اللہ ﷺ کے پیچھے، ابو بکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ اور علی بن ابی طالبؓ سب کے پیچھے نماز پڑھی ہے حضرت علیؑ کے ساتھ تو یہیں کوفہ میں تقریباً پانچ سال تک (نماز پڑھتے رہے) کیا یہ حضرات قنوت پڑھا کرتے تھے۔ فرمایا: بیٹے یہ نئی چیز نکلی ہے (بدعت ہے)

صالح بن عبداللہ، ابو عوانہ سے اور وہ ابو مالک اشجعی سے اسی سند کے ساتھ اسی کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر اکثر علماء کا عمل ہے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں: اگر فجر میں قنوت پڑھے تو بہتر ہے اور اگر نہ پڑھے تو بھی بہتر ہے۔ یہ قنوت نہ پڑھنے کو اختیار کرتے ہیں جب کہ ابن مبارک فجر کی نماز میں قنوت نہ پڑھنے کے مسلک پر عمل پیرا ہیں امام ترمذی کہتے ہیں ابو مالک اشجعی کا نام سعد بن طارق بن اشیم ہے۔

باب ۲۹۱۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَعْطُسُ فِي الصَّلَاةِ

باب ۲۹۱۔ نماز میں چھینکنا۔

۳۴۶۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَارِفَاعَةَ بْنِ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزَّرْقِيِّ عَنْ عَمِّ أَبِيهِ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَعَطَسْتُ فَقُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ مِنَ الْمُتَكَلِّمِ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَتْهَا الثَّانِيَةُ مِنَ الْمُتَكَلِّمِ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَتْهَا الثَّلَاثَةُ مِنَ الْمُتَكَلِّمِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعِ بْنِ عَفْرَاءَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا

۳۴۶۔ حضرت رفاعہ بن رافعؓ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ کی اقتداء میں نماز پڑھی نماز کے دوران مجھے چھینک آگئی چنانچہ میں نے کہا: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه مبارکاً عليه كما يحب ربنا ويرضى (ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں بہت پاکیزہ تعریف کہ برکت ہے اس کے اندر اور اوپر جیسے ہمارا رب چاہتا اور پسند کرتا ہے) پھر جب آپ ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: بات کرنے والا کون ہے؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ ﷺ نے دوبارہ پوچھا کہ نماز میں کس نے بات کی تھی؟ پھر بھی کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر آپ ﷺ نے تیسری مرتبہ پوچھا: نماز میں کس نے بات کی تھی؟ اس مرتبہ رفاعہ بن رافع بن عفرہ نے عرض کیا، میں ہوں یا رسول اللہ ﷺ! آپ ﷺ نے فرمایا: کیا کہا تھا؟

مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ ابْتَدَرَهَا بَضْعَةٌ وَثَلَاثُونَ مَلَكًا أَتَهُمْ يَصْعَدُ بِهَا

میں نے کہا: الحمد للہ حمدا..... الخ چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ تیس سے زیادہ فرشتے اس پر ٹوٹ پڑے کہ کون اسے لے کر آسمان کی طرف جائے۔

اس باب میں انسؓ، وائل بن حجر اور عامر بن ربیعہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں رفاعہ کی حدیث حسن ہے بعض علماء کے نزدیک یہ واقعہ نفل نماز کا ہے کیونکہ کئی تابعین کہتے ہیں کہ اگر کسی کو فرض نماز کے دوران چھینک آجائے۔ تو اپنے دل میں الحمد للہ کہے۔ اور اس سے زیادہ کی اجازت نہیں دیتے۔

باب ۲۹۲۔ فِي نَسْخِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ

باب ۲۹۲۔ نماز میں کلام کا منسوخ ہونا

۳۴۷۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَاهِشِيمُ أَنَا سَمِعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْبَحَارِثِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ قَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ مَنَّا صَاحِبَةً إِلَى جَنْبِهِ حَتَّى نَزَلَتْ "وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَائِمِينَ" فَأَمَرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنَهَيْنَا عَنِ الْكَلَامِ

۳۴۷۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں ہم رسول اللہ ﷺ کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہوتے تو اپنے ساتھ کھڑے ہوئے شخص کے ساتھ بات کر لیتے تھے یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی "وقوموا للہ قانتین" چنانچہ ہمیں خاموش رہنے اور باتیں کرنے سے ممانعت کا حکم دیا گیا۔

اس باب میں ابن مسعود اور معاویہ بن حکم سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں زید بن ارقم کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اکثر علماء اس پر عمل کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص بھول کر یا قصداً کلام کرے اسے نماز دہرانا ہوگی۔ یہ تو اور ابن مبارک کا قول ہے۔ جب کہ بعض حضرات کہتے ہیں اگر قصد بات کرے تو نماز لوثا جائے اور اگر جہالت یا بھول کر بات کرے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ امام شافعی کا قول ہے۔

باب ۲۹۳۔ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ التَّوْبَةِ

باب ۲۹۳۔ توبہ کی نماز (صلوۃ توبہ)

۳۴۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عِثْمَانَ بْنِ الْمَغِيْرَةِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ إِنِّي كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا نَفَعَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ وَإِذَا حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ فَإِذَا حَلَفَ لِي صَلَفْتُهُ وَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يَصَلِّي ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ "وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ

۳۴۸۔ حضرت اسماء بن حکم فزاری کہتے ہیں میں نے علیؓ سے سنا کہ میں جب رسول اللہ ﷺ سے کوئی بات سنتا تھا تو وہ اللہ کے حکم سے مجھے اتنا نفع دیتی تھی جتنا وہ چاہتا تھا اور اگر میں کسی صحابی سے کوئی بات سنتا تو اس سے قسم لیتا اگر وہ قسم کھاتا تو میں اس کی بات کی تصدیق کرتا تھا۔ مجھ سے ابو بکرؓ نے بیان کیا اور انہوں نے سچ کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی شخص ایسا نہیں کہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد طہارت حاصل کرے پھر نماز پڑھے اور استغفار کرے اور اس پر اللہ تعالیٰ اسے معاف نہ کرے۔ (یعنی اس کے لیے معافی یقینی ہے) پھر آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی "والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا للہ..... الخ اور وہ لوگ جن سے کسی گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے یا وہ

ذَكُرُوا اللَّهَ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ

اپنے آپ پر ظلم کر لیتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔

اس باب میں ابو مسعود اور ابو درداء، انس، ابوامامہ معاذ، واثلہ اور ابوالیسر (جن کا نام کعب بن عمرو ہے) سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت علی کی حدیث کو ہم عثمان بن مغیرہ کے علاوہ کسی سند سے نہیں جانتے۔ ان سے شعبہ اور کئی راوی نقل کرتے ہوئے ابوعوانہ کی حدیث کی طرح مرفوع کرتے ہیں۔ سفیان ثوری اور مسعر نے بھی اسے موقوفاً نقل کیا ہے۔ جب کہ مسعر سے یہی حدیث مرفوعاً بھی منقول ہے۔

باب ۲۹۴۔ مَا جَاءَ مَتَىٰ يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ

باب ۲۹۴۔ بچے کو نماز کا حکم کب دیا جائے۔

۳۴۹۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ أَنَا حَرَمَلَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

۳۴۹۔ حضرت ابن سبرہ جہنی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب

بِالنَّبِيِّ بْنِ سِيرَةَ الْجَهْنِيِّ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ

بچے سات برس کی عمر کو پہنچیں تو انہیں نماز سکھاؤ اور جب دس برس کے

الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجَهْنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

ہو جائیں تو انہیں نماز پر مارو (یعنی مار کر پڑھاؤ)

اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْإِلَهَ وَسَلَّمَ عَلَّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنُ سَبْعِ

سِنِينَ وَأَضْرَبُوهُ عَلَيْهَا ابْنُ عَشْرَةَ

اس باب میں عبداللہ بن عمرو سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں سبرہ بن معبد جہنی کی حدیث حسن صحیح ہے اور بعض علماء کا اسی پر عمل ہے۔ احمد اور اسحاق بھی اسی پر عمل کا کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے۔ دس سال کی عمر کے بعد اس نے جو نمازیں چھوڑی ہوں انہیں قضاء کرے۔ امام ترمذی کہتے ہیں۔ سبرہ معبد جہنی بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ابن عوجبہ ہیں۔

باب ۲۹۵۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُحَدِّثُ بَعْدَ التَّشَهُدِ

باب ۲۹۵۔ تشہد کے بعد اگر حدیث ہو جائے۔

۳۵۰۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا ابْنَ الْمُبَارَكِ أَنَا

۳۵۰۔ حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ

کوئی شخص قعدہ اخیرہ میں ہو اور سلام پھیرنے سے پہلے اسے

وَبِكْرِ ابْنِ سَوَادَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ

حدیث (وضو ٹوٹ جائے) لاحق ہو جائے تو اس کی نماز ہوگی۔

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْإِلَهَ وَسَلَّمَ إِذَا أَحَدٌ يَعْنِي

الرَّجُلُ وَقَدْ جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ

جَازَتْ صَلَاتُهُ

امام ترمذی کہتے ہیں اس حدیث کی سند قوی نہیں علماء اس کی سند کے متعلق مضطرب ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر تشہد کی مقدار کے برابر بیٹھ چکا ہو اور سلام سے پہلے حدیث ہو جائے تو اس کی نماز مکمل ہوگی۔ جب کہ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ اگر تشہد سے پہلے یا سلام سے پہلے اگر حدیث ہو جائے تو نماز لوٹانا ہوگی یہ امام شافعی کا قول ہے امام احمد کہتے ہیں۔ اگر تشہد نہیں پڑھا اور سلام پھیر لیا تو نماز ہوگی۔ اس کی دلیل آپ ﷺ کا قول ہے کہ ”نماز کی تحلیل اس کا سلام ہے“ اور تشہد سلام سے زیادہ ضروری نہیں۔ کیوں کہ آپ ﷺ دو رکعتوں سے فراغت پر کھڑے ہو گئے تھے اور تشہد نہیں پڑھا تھا۔ اسحاق بن ابراہیم کہتے ہیں، اگر تشہد کر لے اور سلام نہ پھیرے تو اس کی نماز ہو جائے گی ان کی دلیل ابن مسعود کی حدیث ہے کہ جب نبی کریم ﷺ نے انہیں تشہد سکھایا تو فرمایا: جب تم اس سے۔ فارغ ہو جاؤ تو تم نے اپنا عمل پورا کر لیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں: عبدالرحمن بن زیاد، افریقی ہیں۔ بعض محدثین انہیں ضعیف کہتے ہیں جن میں یحییٰ بن سعید قطان اور احمد بن حنبل بھی شامل ہیں۔

باب ۲۹۶۔ مَا جَاءَ إِذَا كَانَ مَطَرٌ فَالصَّلَاةُ فِي الرَّحَالِ  
 ۳۵۱۔ حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ نَا أَبُو دَاوُدَ  
 الطَّيَالِسِيُّ نَا زُهَيْرُ بْنُ مَعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ  
 قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي  
 سَفَرٍ فَأَصَابَنَا مَطَرٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ  
 وَسَلَّمَ مَنْ شَاءَ فَلْيَصَلِّ فِي رَحْلِهِ

باب ۲۹۶۔ اگر بارش ہو رہی ہو تو گھروں میں نماز پڑھنا۔  
 ۳۵۱۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک سفر  
 میں تھے کہ بارش ہو گئی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اپنے قیام کی جگہ  
 نماز پڑھنا چاہے اسے اس کی اجازت ہے۔

اس باب میں ابن عمر، سمرہ، ابولح (اپنے والد سے) اور عبدالرحمن بن سمرہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں جابر کی  
 حدیث حسن صحیح ہے۔

علماء حضرات بارش اور کیچڑ میں جمعہ اور جماعت کے ترک کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ احمد اور اسحاق کا قول ہے۔ میں نے ابوزرعہ  
 سے سنا کہ: عفان بن مسلم نے عمرو بن علی سے صرف ایک حدیث روایت کی ہے۔ ابوزرعہ کہتے ہیں: میں نے بصرہ میں ان تین آدمیوں  
 سے زیادہ حافظ نہیں دیکھا۔ علی ابن مدینی، ابن شاد کوفی اور عمرو بن علی، ابوالح اسامہ کا نام عامر ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ زید بن اسامہ بن  
 عمیر ہذلی ہے۔

باب ۲۹۷۔ مَا جَاءَ فِي التَّسْبِيحِ فِي إِدْبَارِ الصَّلَاةِ

۳۵۲۔ حَدَّثَنَا اسْلَخُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ  
 الشَّهِيدِ وَعَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ قَالَا نَا كِتَابُ بَشِيرِ بْنِ  
 خَصِيفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ  
 جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ  
 وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ  
 إِنَّ الْأَعْيَانَ يُصَلُّونَ كَمَا بُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا  
 نَصُومُ وَلَهُمْ أَمْوَالٌ يُعْتَقُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ قَالَ فَإِذَا  
 صَلَّيْتُمْ فَقُولُوا سُبْحَانَ اللَّهِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً وَالْحَمْدُ  
 لِلَّهِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً  
 وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكُمْ تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ  
 سَبَقَكُمْ وَلَا يَسْبِقُكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ

باب ۲۹۷۔ نماز کے بعد تسبیح کے متعلق  
 ۳۵۲۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ کچھ فقراء رسول اللہ ﷺ کی  
 خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ ﷺ: بالدار لوگ اس  
 طرح نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے  
 ہیں جیسے کہ ہم، ان کے پاس مال بھی ہے جس سے غلام آزاد کرتے اور  
 صدقہ دیتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جب تم لوگ نماز پڑھ چکو تو  
 تینتیس (۳۳) مرتبہ سبحان اللہ، تینتیس (۳۳) مرتبہ الحمد للہ،  
 چونتیس (۳۴) مرتبہ اللہ اکبر اور دس (۱۰) مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔  
 اس کے پڑھنے سے تم ان لوگوں کے درجات کو پہنچ جاؤ گے جو تم سے  
 پہلے چلے گئے اور تمہارے بعد کوئی تم سے سبقت نہیں لے سکا گا۔

اس باب میں کعب بن عجرہ، انس، عبداللہ بن عمرو، زید بن ثابت، ابودرداء، ابن عمر اور ابوزر سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے  
 ہیں ابن عباس کی حدیث حسن غریب ہے۔ آپ ﷺ سے یہ بھی مروی ہے کہ فرمایا: دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جو شخص انہیں اختیار کر لیتا ہے  
 جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہر نماز کے بعد (۳۳) مرتبہ سبحان اللہ، (۳۳) مرتبہ الحمد للہ، اور ۳۴ مرتبہ اللہ اکبر کہے۔ اور پھر سوتے وقت  
 دس مرتبہ سبحان اللہ، دس مرتبہ الحمد للہ اور دس مرتبہ اللہ اکبر کہے۔

باب ۲۹۸۔ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ فِي الطَّيْنِ وَالْمَطَرِ

باب ۲۹۸۔ بارش اور کچھڑ میں سواری پر نماز پڑھنا۔

۳۵۳۔ عمرو بن عثمان بن یعلیٰ بن مرہ اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ یہ حضرات آنحضرت ﷺ کے ساتھ سفر میں تھے کہ ایک تنگ جگہ پر پہنچے تو نماز کا وقت ہو گیا۔ اسی اثناء میں اوپر سے بارش برسنے لگی اور نیچے کچھڑ ہو گیا۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے سواری ہی پر اذان دی اور اقامت کہی پھر اپنی سواری کو آگے کیا اور اشارے سے نماز پڑھتے ہوئے ان کی امامت کی، آپ ﷺ سجدے میں رکوع سے زیادہ جھکتے تھے۔

۳۵۳۔ حدثنا يحيى بن موسى نا شبابة بن سوار نا عمر بن الرماح عن كثير ابن زياد عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده إنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فانتهوا إلى مضيق فحضرت الصلوة فمطروا السماء من فوقهم واليلة من أسفل منهم فاذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على راحلته وأقام فتقدم على راحلته فصلى بهم يومئذ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے کیونکہ اسے صرف عمرو بن رباح بلخی روایت کرتے ہیں یہ اور کسی کی روایت معلوم نہیں ہوتی۔ ان کے سنی علماء روایت کرتے ہیں اور یہ انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بارش اور کچھڑ میں اپنی سواری پر ہی نماز پڑھی، علماء کا اسی پر عمل ہے اور یہ احمد اور اسحاق کا قول ہے۔

باب ۲۹۹۔ نماز میں اجتہاد کرنا۔

باب ۲۹۹۔ مَا جَاءَ فِي الإِجْتِهَادِ فِي الصَّلَاةِ

۳۵۴۔ حضرت مغیرہ بن شعبہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مرتبہ نماز پڑھنا شروع کی یہاں تک کہ آپ ﷺ کے پاؤں پھول گئے۔ چنانچہ آپ ﷺ سے کہا گیا: آپ ﷺ اس طرح تکلیف اٹھاتے ہیں؟ جب کہ آپ ﷺ کے گلے پچھلے گناہ معاف کر دیئے گئے آپ ﷺ نے فرمایا: کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں؟

۳۵۴۔ حدثنا قتيبة وبشر بن معاذ قالنا نا ابو عوانة عن زياد بن علقمة عن المغيرة بن شعبة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتفخت قدماه فقبل له انتكففت لهذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا

اس باب میں ابو ہریرہؓ اور عائشہؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں مغیرہ بن شعبہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۳۰۰۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔

باب ۳۰۰۔ مَا جَاءَ إِنْ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ

۳۵۵۔ حضرت حرث بن قبیصہؓ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ آیا تو دعا کی کہ یا اللہ مجھے نیک ہم نشین عطا فرما۔ کہتے ہیں میں ابو ہریرہؓ کے ساتھ بیٹھ گیا اور ان سے عرض کیا میں نے اللہ تعالیٰ سے نیک ہم نشین کے لیے دعا کی تھی لہذا مجھے رسول اللہ ﷺ کی احادیث سنائیے جو آپ نے سنی ہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ اس سے مجھے فائدہ پہنچائیں۔ ابو ہریرہؓ نے

۳۵۵۔ حدثنا علي بن نصر على الجهضمي نا سهل بن حماد بن همام قال حدثني قتادة عن الحسن عن حريث بن قبيصة قال قدمت المدينة فقلت اللهم يسر لي جليسا صالحا قال فجلست إلى أبي هريرة فقلت إني سألت الله أن يرزقني

فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ قیامت کے دن بندے سے جب اس کے اعمال کا حساب ہوگا تو نماز کا سب سے پہلے ہوگا۔ اگر یہ صحیح ہوئی تو کامیاب ہو گیا اور نجات پائی۔ اور اگر یہ صحیح نہ ہوئی تو یہ بھی نقصان اور گھانے میں رہا اگر قرائض میں کچھ نقص ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کے نواطل کو دیکھو اگر ہوں تو ان سے اس کی کوپورا کر دو پھر اس کا ہر عمل اسی طرح ہوگا۔ (یعنی اسی طرح حساب کیا جائے گا)۔

جَلِيْسًا صَالِحًا فَحَدَّثَنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَوَتُهُ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَةٍ شَيْئًا قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْظِرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطْلُوعٍ فَيُكْمَلُ بِهِمَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ

اس باب میں تمیم داری سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث اس سند سے حسن غریب ہے اور اس کے علاوہ بھی کئی سندوں سے بواسطہ ابو ہریرہؓ ہے۔ حضرت حسن کے بعض دوست حسن سے اور وہ قبیسہ بن حریث سے اس حدیث کے علاوہ احادیث بھی نقل کرتے ہیں اور مشہور قبیسہ بن حریث ہی ہے۔ انس بن حکیم بھی ابو ہریرہؓ سے اور وہ نبی کریم ﷺ سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔

باب ۳۰۱۔ جو شخص دن اور رات میں بارہ رکعتیں سنت پڑھے اس کی فضیلت۔

باب ۳۰۱۔ مَا جَاءَ فِيمَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتِي عَشْرَةَ رُكْعَةً مِنَ السَّنَةِ مَالَهُ مِنَ الْفَضْلِ

۳۵۶۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جو شخص ہمیشہ بارہ (۱۲) رکعت سنت نماز پڑھتا رہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنائیں گے۔ چار ظہر سے پہلے، دو ظہر کے بعد دو مغرب کے بعد، دو عشاء کے بعد اور دو فجر سے پہلے۔

۳۵۶۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ نَا اسْحَقُ بْنُ سَلِيْمَانَ الرِّزِّي نَا الْمَغِيْرَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتِي عَشْرَةَ رُكْعَةً مِنَ السَّنَةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعَ رُكْعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرُكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرُكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرُكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرُكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

اس باب میں ام حبیبہؓ، ابو ہریرہؓ، ابو موسیٰ اور ابن عمرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت عائشہؓ کی حدیث اس سند سے غریب ہے۔ مغیرہ بن زیاد کے حافظے کے متعلق بعض علماء کا کلام ہے۔

۳۵۷۔ حضرت ام حبیبہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص دن اور رات میں بارہ (۱۲) رکعتیں پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ چار ظہر سے پہلے دو ظہر کے بعد، دو رکعتیں مغرب کے بعد، دو رکعتیں عشاء کے بعد اور دو رکعتیں فجر کی نماز سے پہلے۔ (دن کے شروع کی)۔

۳۵۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ نَا مَوْمِلُ نَا سَفِيَّانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنِ الْمَسِيْبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْسَةَ بِنْتِ أَبِي سَفِيَّانَ عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتِي عَشْرَةَ رُكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ

وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ  
الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَوةُ الْغَدَاةِ

امام ترمذی کہتے ہیں عنبسہ کی ام حبیبہ سے اس باب میں مروی حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے عنبسہ ہی سے منقول ہے۔

باب ۳۰۲۔ مَا جَاءَ فِي رَكْعَتِي الْفَجْرِ مِنَ الْفَضْلِ

باب ۳۰۲۔ فجر کی دو سنتوں کی فضیلت۔

۳۵۸۔ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ

قَتَادَةَ عَنْ زُرَّاءَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ

عَائِشَةَ ۖ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

وَسَلَّمَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

اس باب میں علیؑ، ابن عمرؓ اور ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت عائشہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ امام احمد

بن حنبل، صالح بن عبد اللہ ترمذی سے حدیث نقل کرتے ہیں۔

باب ۳۰۳۔ مَا جَاءَ فِي تَخْفِيفِ رَكْعَتِي الْفَجْرِ

وَالْقِرَاءَةِ فِيهَا

۳۵۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ وَابُو عَمَارٍ قَالَا نَا

أَبُو أَحْمَدَ الزَّبِيرِيُّ نَا سَفِيانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ

مُجَاهِدِ بْنِ أَبِي عُمَرَ قَالَ رَمَقَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ

الْفَجْرِ بِقُلُوبِ الْكُفْرُونَ وَقُلُوبِ الْكُفْرُونَ وَهُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

اس باب میں ابن مسعودؓ، انسؓ، ابو ہریرہؓ، ابن عباسؓ، حفصہؓ اور حضرت عائشہؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں ہم ابن عمرؓ

کی حدیث کو ثوری کی ابو اسحاق سے روایت کے متعلق ابو احمد کی حدیث کے علاوہ نہیں جانتے اور یہ حدیث حسن ہے۔ لوگوں کے

نزدیک معروف یہ ہے کہ اسرائیل، ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں۔ ابو احمد سے بھی یہ حدیث بواہط اسرائیل مروی ہے۔ نیز ابو احمد

زبیری ثقہ اور حافظ ہیں کہتے ہیں میں نے بندار سے سنا کہ میں نے ابو احمد زبیری سے بہتر حافظ نہیں دیکھا ان کا نام محمد بن عبد اللہ بن

زبیری اسدی کوئی ہے۔

باب ۳۰۴۔ مَا جَاءَ فِي الْكَلَامِ بَعْدَ رَكْعَتِي الْفَجْرِ

۳۶۰۔ حَدَّثَنَا يَوْسُفُ بْنُ عَيْسَى نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

أَدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ

أَبِي سَلْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتِي الْفَجْرِ فَإِنْ كَانَتْ

لَهُ إِلَيَّ حَاجَةٌ كَلَّمَنِي وَإِلَّا خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ

اس باب میں حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ فجر کی دو

رکعتیں پڑھتے تو اگر مجھ سے کوئی کام ہوتا تو بات کر لیتے ورنہ نماز

کے لیے چلے جاتے۔

باب ۳۰۴۔ فجر کی سنتوں کے بعد باتیں کرنا۔

۳۶۰۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ فجر کی دو

رکعتیں پڑھتے تو اگر مجھ سے کوئی کام ہوتا تو بات کر لیتے ورنہ نماز

کے لیے چلے جاتے۔

اس باب میں حضرت عائشہؓ کہتے ہیں حضرت عائشہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ امام احمد

بن حنبل، صالح بن عبد اللہ ترمذی سے حدیث نقل کرتے ہیں۔

باب ۳۰۳۔ فجر کی سنتوں میں تخفیف کرنا اور قرأت کے متعلق۔

۳۵۹۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کو ایک ماہ تک

دیکھتا رہا۔ آپ ﷺ فجر کی دو سنتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص

پڑھا کرتے تھے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض علماء صحابہ وغیرہ طلوع فجر کے بعد فجر کی نماز پڑھنے تک باتیں کرنے کو مکروہ کہتے ہیں۔ اللہ یہ کہ، اللہ کا ذکر کرے یا کوئی ضروری بات ہو۔ یہ احمد اور اسحاق کا قول ہے۔

باب ۳۰۵۔ مَا جَاءَ لِاصْلُوَّةٍ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ  
بَاب ۳۰۵۔ طلوع فجر کے بعد دو سنتوں کے علاوہ کوئی نماز نہیں۔  
إِلَّا رُكْعَتَيْنِ

۳۶۱۔ حدثنا احمد بن عبدة الضبي نا عبد العزيز بن محمد عن قدامة بن موسى عن محمد بن الحصين عن ابى علقمة عن يسار مولى بن عمر عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا صلوة بعد الفجر الا سجدة  
۳۶۱۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: فجر کے طلوع ہونے کے بعد فجر کی دو سنتوں کے علاوہ کوئی نماز نہیں۔

اس باب میں عبد اللہ بن عمرؓ اور حفصہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عمرؓ کی حدیث غریب ہے۔ ہم اسے قد امہ بن موسیٰ کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے۔ ان سے کئی حضرات روایت کرتے ہیں اور اسی پر علماء کا اجماع ہے کہ طلوع فجر کے بعد سوائے دو رکعتوں کے کوئی اور نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ: فجر کے طلوع ہونے کے بعد فجر کی دو سنتوں کے علاوہ کوئی نماز نہ پڑھی جائے۔

باب ۳۰۶۔ مَا جَاءَ فِي الْاَضْطِحَاعِ بَعْدَ رُكْعَتَيْ الْفَجْرِ  
بَاب ۳۰۶۔ فجر کی دو سنتوں کے بعد لیٹنے سے متعلق۔

۳۶۲۔ حدثنا بشر بن معاذ العقدي نا عبد الواحد بن زياد نا الا عمش عن ابى صالح عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا صلى احدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه  
۳۶۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی فجر کی دو سنتیں پڑھ لے، تو دائیں کروٹ پر لیٹ لے۔

اس باب میں حضرت عائشہؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہؓ کی حدیث اس طریق سے حسن غریب ہے۔ حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ جب فجر کی دو رکعتیں پڑھ کر فارغ ہوتے تو دائیں کروٹ پر لیٹتے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ مستحب جانتے ہوئے ایسا کرنا چاہیے۔

باب ۳۰۷۔ مَا جَاءَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ  
بَاب ۳۰۷۔ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں۔

۳۶۳۔ حدثنا احمد بن منيع ناروح بن عبادة نا زكريا ابن اسحاق نا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء بن يسار عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا اقيمت الصلوة فلا  
۳۶۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے تو سوائے اس فرض کے کوئی نماز نہ پڑھی جائے۔

## صَلَوَةٌ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ

اس باب میں ابن محسین، عبداللہ بن عمرو، عبداللہ بن سر جس، ابن عباس اور حضرت انسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن ہے۔ اور ابوب، رقاء بن عمر، زیاد بن سعد، اسماعیل بن مسلم اور محمد بن جادہ بھی عمرو بن دینار سے وہ عطاء بن یسار سے وہ ابو ہریرہؓ سے اور وہ نبی کریم ﷺ سے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔ یہ حضرات اسے مرفوع نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک مرفوع حدیث اصح ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہؓ سے اس کے علاوہ بھی کئی سندوں سے مروی ہے۔ عیاش بن عباس قتبانی مصری، ابوسلمہ سے وہ ابو ہریرہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں صحابہ وغیرہ کا اسی پر عمل ہے کہ اگر نماز کی اقامت ہو جائے تو کوئی شخص فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہ پڑھے۔ یہ سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے۔

توضیح: بہت سے فقہاء صحابہ سے مروی ہے کہ یہ حضرات فجر کی جماعت کھڑی ہونے کے بعد بھی سنتیں ادا کرتے تھے کیوں کہ ان کے متعلق احادیث میں بہت تاکید آئی ہے۔ حنفیہ بھی یہی مسلک اختیار کرتے ہیں۔ بشرطیکہ جماعت کے بالکل نکل جانے کا اندیشہ نہ ہو۔ پھر فجر میں قرأت بھی چون کہ طویل ہوتی ہے اس لیے ان کا ادا کر لینا ہی بہتر ہے کیوں کہ طحاوی میں حضرت ابن عمرؓ، حضرت ابودرداءؓ اور ابو عثمان نہدیؓ وغیرہ سے مروی ہے کہ یہ حضرات جماعت کھڑی ہونے کے بعد بھی فجر کی سنتیں پڑھا کرتے تھے۔ (مترجم)

باب ۳۰۸۔ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَفَوُّتُهُ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ يُصَلِّيَهُمَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ  
باب ۳۰۸۔ جس کی فجر کی سنتیں چھوٹ جائیں وہ فجر کے بعد انہیں پڑھ لے۔

۳۶۴۔ حدثنا محمد بن عمرو السواق نا عبد العزيز بن محمد عن سعد بن سعيد عن مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ عَنْ حَدِّهِ قَيْسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الصُّبْحَ ثُمَّ انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَنِي أَصَلِّي فَقَالَ مَهَلًا يَا قَيْسُ أَصَلَّاتَانِ مَعًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَكُنْ رَكَعْتُ رَكَعَتِي الْفَجْرِ فَلَا إِذَا

۳۶۴۔ حضرت محمد بن عمرو السواق نا عبد العزيز بن محمد عن سعد بن سعيد عن مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ عَنْ حَدِّهِ قَيْسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الصُّبْحَ ثُمَّ انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَنِي أَصَلِّي فَقَالَ مَهَلًا يَا قَيْسُ أَصَلَّاتَانِ مَعًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَكُنْ رَكَعْتُ رَكَعَتِي الْفَجْرِ فَلَا إِذَا

امام ترمذی کہتے ہیں کہ ہم محمد بن ابراہیم کی اس طرح کی روایت سعد بن سعید کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے سفیان بن عیینہ کہتے ہیں: عطاء بن ابورباح نے سعد بن سعید سے یہ حدیث سنی۔ یہ حدیث مرسلہ مروی ہے۔ اہل مکہ کی ایک جماعت اس حدیث پر عمل پیرا ہے۔ ان کے نزدیک فجر کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تک دو سنتیں پڑھ لینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں: سعد بن سعید، یحییٰ بن سعید انصاری کے بھائی ہیں اور قیس یحییٰ بن سعید کے دادا ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ قیس بن عمرو ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قیس بن نہد ہیں۔ اس حدیث کی سند متصل نہیں۔ محمد بن ابراہیم تمیمی نے قیس سے کوئی حدیث نہیں سنی۔ بعض راوی یہ حدیث سعد بن سعید سے اور وہ محمد بن ابراہیم سے روایت کرتے ہیں کہ ”رسول اللہ ﷺ نکلے تو قیس کو دیکھا“..... الخ

باب ۳۰۹۔ مَا جَاءَ فِي إِعَادَتِهَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ  
باب ۳۰۹۔ فجر کی سنتیں اگر چھوٹ جائیں تو طلوع آفتاب کے بعد پڑھے۔

۳۶۵۔ حدثنا عقبه بن المكرم العمى البصرى نا عمرو بن عاصم نا همام عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس

۳۶۵۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے فجر کی دو سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ انہیں سورج نکلنے کے بعد پڑھے۔

امام ترمذی کہتے ہیں ہم اس حدیث کو اس سند کے علاوہ نہیں جانتے۔ حضرت ابن عمرؓ سے بھی مروی ہے کہ ان کا فعل یہی تھا۔ بعض اہل علم اسی پر عمل کرتے ہیں۔ یہی سفیان ثوری، شافعی، احمد، اسحاق اور ابن مبارک کا قول ہے امام ترمذی کہتے ہیں کہ سوائے عمرو بن عاصم کلابی کے کسی نے یہ حدیث ہمام سے اسی اسناد سے اسی کے مثل روایت کی ہو۔ قتادہ کی حدیث مشہور ہے وہ نضر بن انس سے، وہ بشیر بن نہیک سے وہ ابو ہریرہؓ سے اور وہ حضور اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی ایک رکعت پالی گویا کہ اس نے فجر کی پوری نماز پائی۔

باب ۳۱۰۔ ظہر سے پہلے چار سنتیں پڑھنا

۳۶۶۔ حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ظہر سے پہلے چار رکعتیں اور ظہر کے بعد دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

باب ۳۱۰۔ مَا جَاءَ فِي الْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ

۳۶۶۔ حدثنا بندار نا ابو عامر نا سفیان عن ابى اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي قبل الظهر أربعاً وبعدها ركعتين

اس باب میں حضرت عائشہؓ اور حضرت ام حبیبہؓ سے روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت علیؓ کی حدیث حسن ہے۔ ابو بکر عطار کہتے ہیں کہ علی بن عبد اللہ، یحییٰ بن سعید سے اور وہ سفیان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ”ہم عاصم بن ضمیرہ کی حدیث کی حدیث پر فضیلت جانتے تھے“ اکثر علماء کا اسی پر عمل ہے۔ جن میں صحابہ اور بعد کے علماء شامل ہیں کہ ظہر سے پہلے چار اور ظہر کے بعد دو رکعت سنت پڑھے۔ یہی سفیان ثوری، ابن مبارک اور اسحاق کا قول ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں رات اور دن کی نماز دو رکعت ہے یعنی ان کے نزدیک دو رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرنا چاہیے۔ یہ امام شافعی اور امام احمد کا قول ہے۔

باب ۳۱۱۔ ظہر کے بعد دو رکعتیں پڑھنا۔

۳۶۷۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ظہر سے پہلے اور بعد دو رکعتیں پڑھیں۔

باب ۳۱۱۔ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ

۳۶۷۔ حدثنا احمد بن منيع نا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها

اس باب میں حضرت علیؓ اور حضرت عائشہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عمرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۳۱۲۔ اسی سے متعلق دوسرا باب

۳۶۸۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اگر ظہر سے پہلے چار

باب ۳۱۲۔ بَابُ آخَرُ

۳۶۸۔ حدثنا عبدالوارث بن عبید اللہ العتکی

المروزی نا عبدالله بن المبارك من خالد الحذاء  
عن عبدالله بن شقيق عن عائشة ان النبي صلى الله  
عليه وآله وسلم كان اذا لم يصل اربعاً قبل الظهر  
صلاهن بعدها

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے ابن مبارک کی روایت سے اسی سند سے جانتے ہیں۔ قیس بن حذافہ اس حدیث کو شعبہ سے اور وہ خالد حذافہ سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اسے شعبہ سے قیس کے علاوہ کسی اور نے روایت کیا ہو۔ عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ بھی آنحضرت ﷺ سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔

۳۶۹۔ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا حَرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى النَّارِ

۳۶۹۔ حضرت ام حبیبہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص ظہر کی نماز سے پہلے اور اس کے بعد چار چار رکعتیں پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کو حرام کر دیتے ہیں۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے اور اس کے علاوہ اور سند سے بھی مروی ہے۔

۳۷۰۔ حَدَّثَنَا ابُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ اسْحَقَ البَغْدَادِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَوْسُفَ التَّنِيسِي الشَّامِي حَدَّثَنَا الهَيْثَمُ بْنُ حَمِيدٍ قَالَ اخْبَرَنِي العَلَاءُ بْنُ الحَارِثِ عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عُبَيْسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ أُخْتِي أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَافَظَ عَلَيَّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعِ بَعْدَهَا حَرَمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ

۳۶۹۔ حضرت عتبہ بن ابوسفیانؓ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن ام المؤمنین ام حبیبہؓ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد چار چار رکعتیں پڑھنے کی عادت ڈالی (انہیں نہیں چھوڑا) اللہ تعالیٰ دوزخ کو اس کے لیے حرام کر دیں گے۔

امام ترمذی کہتے ہیں۔ یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے اور قاسم، قاسم بن عبدالرحمن اور ان کی کنیت ابو عبدالرحمن ہے۔ یہ عبدالرحمن بن خالد بن یزید بن معاویہ کے مولیٰ ہیں، ثقہ ہیں، شام کے رہنے والے اور ابوامامہ کے دوست ہیں۔

باب ۳۱۳۔ مَا جَاءَ فِي الأَرْبَعِ قَبْلَ العَصْرِ

باب ۳۱۳۔ عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھنا

۳۷۱۔ حَدَّثَنَا بِنْدَارٌ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ نا ابو عامر نا سفیان عن ابی اسحاق عن عاصم بن ضمره عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من

۳۷۱۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھتے اور ان کے درمیان مقرب فرشتوں اور مسلمانوں و مؤمنوں میں سے ان کے تابعین پر سلام بھیج کر فصل کر دیتے تھے (یعنی دو دو رکعتیں پڑھتے تھے)۔

بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من

الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ

اس باب میں ابن عمرؓ اور عبداللہ بن عمروؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں علیؓ کی حدیث حسن ہے اسحاق بن ابراہیم نے یہ اختیار کیا ہے کہ عصر کی چار سنتوں کے درمیان سلام نہ پھیرے (یعنی دو دو کر کے نہ پڑھے) وہ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان تشہد سے فصل کرتے تھے۔ امام شافعی اور احمد دن اور رات کی نمازوں کو دو دو کر کے پڑھنے کے قائل ہیں۔ ان حضرات نے ”فصل“ اختیار کیا ہے۔

۳۷۲۔ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَجِمَ اللَّهُ أُمَّرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا  
۳۷۲۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھیں اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کرے۔  
امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۳۱۴۔ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَالْقِرَاءَةَ فِيهِمَا  
۳۱۴۔ مغرب کے بعد کی دو سنتیں اور ان میں قرأت سے متعلق۔

۳۷۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ نَا عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ مَا أَحْصَى مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَفْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بَقُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ  
۳۷۳۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ میں شمار نہیں کر سکتا کہ میں نے کتنی بار رسول اللہ ﷺ کو مغرب اور فجر کی دو سنتوں میں سورہ کافرون، اور سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا۔

اس باب میں حضرت ابن عمرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن مسعودؓ کی حدیث غریب ہے ہم اسے عبدالملک بن معدان کی عاصم سے روایت کے علاوہ نہیں جانتے۔

باب ۳۱۵۔ مغرب کی سنتیں گھر پر پڑھنا

باب ۳۱۵۔ مَا جَاءَ أَنَّهُ يُصَلِّيهِمَا فِي الْبَيْتِ

۳۷۴۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ  
۳۷۴۔ حضرت احمد بن منیع نا اسماعیل بن ابراہیم عن ایوب عن نافع عن ابن عمرؓ قال صلیت مع النبی ﷺ رکتین بعد المغرب فی بیته

اس باب میں رافع بن خدیجؓ اور کعب بن حجرہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عمرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۷۵۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ نَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَرُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ كَانَ يُصَلِّيهِمَا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ  
۳۷۵۔ حضرت الحسن بن علی الحلوانی نا عبدالرزاق نا معمر عن ایوب عن نافع عن ابن عمرؓ قال حفظت عن رسول اللہ ﷺ عشر رکعتیں یا دو کی ہیں کہ آپ دن اور رات میں انہیں پڑھا کرتے تھے۔ دو رکعتیں ظہر سے پہلے، دو اس کے بعد، دو مغرب کے بعد، دو عشاء کے بعد۔ اور مجھے حفصہؓ نے بتایا کہ فجر سے پہلے آپ ﷺ دو رکعتیں پڑھا

رُكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَ رُكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَ رُكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرَبِ وَ رُكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْأَخِيرَةِ وَ حَدَّثَنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْفَجْرِ رُكْعَتَيْنِ كَرْتے تھے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حسن بن علی، عبدالرزاق سے، وہ معمر سے وہ زہری سے وہ سالم سے وہ ابن عمر سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۳۱۶۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّطَوُّعِ سِتِّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

۳۷۶۔ حَدَّثَنَا ابُو كَرِيبٍ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيَّ الْكُوفِيَّ نَازِيْدَ بْنَ الْحَبَابِ نَا عَمْرَ بْنَ اِبِي حَنْعَمٍ عَنِ يَحْيَى بْنِ اِبِي كَثِيْرٍ عَنِ اِبِي سَلَمَةَ عَنْ اِبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتِّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوْءٍ عُذِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتِيْ عَشْرَةَ سَنَةً

۳۷۴۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص مغرب کے بعد چھ رکعتیں پڑھے اور ان کے درمیان بری بات نہ کرے تو اسے بارہ (۱۲) سال تک عبادت کا ثواب ملے گا۔

امام ترمذی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ سے حضور اکرم ﷺ کے متعلق مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جس نے مغرب کے بعد بیس رکعتیں پڑھیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں، امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہؓ کی حدیث غریب ہے۔ ہم اسے زید بن خباب کی عمر بن ابی شعم سے روایت کے علاوہ نہیں جانتے۔ میں نے امام بخاری سے سنا کہ عمر بن عبداللہ بن ابی شعم منکر حدیث ہیں اور انہیں بہت ضعیف کہتے ہیں۔

باب ۳۱۷۔ مَا جَاءَ فِي رُكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

۳۷۷۔ حَدَّثَنَا ابُو سَلَمَةَ يَحْيَى ابْنُ خَلْفِ نَا بَشْرَ بْنَ الْمَفْضَلِ عَنِ خَالِدِ الْحَدَّادِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رُكْعَتَيْنِ وَ بَعْدَهَا رُكْعَتَيْنِ وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ثِنْتَيْنِ وَ بَعْدَ الْعِشَاءِ رُكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْفَجْرِ ثِنْتَيْنِ

۳۷۷۔ حضرت عبداللہ بن شقیقؓ فرماتے ہیں کہ میں نے عائشہؓ سے آنحضرت ﷺ کی نماز کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا: آپ ﷺ ظہر سے پہلے اور بعد دو دو رکعتیں مغرب کے بعد دو رکعتیں، عشاء کے بعد دو رکعتیں اور فجر سے پہلے دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

اس باب میں علیؓ اور ابن عمرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: عبداللہ بن شقیقؓ کی حضرت عائشہؓ سے مروی حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۳۱۸۔ مَا جَاءَ أَنَّ صَلَوةَ اللَّيْلِ مَثْنِيْ مَثْنِيْ

۳۷۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

۳۱۸۔ رات کی نماز دو دو رکعت ہے۔

۳۷۸۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رات کی

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ صَلَوَةُ اللَّيْلِ مَنَّتِي مَنَّتِي فَإِذَا خَفَتِ الصُّبْحُ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ وَاجْعَلْ آخِرَ صَلَوَتِكَ وَتَرَا

نماز دو دو رکعتیں ہے اگر تمہیں صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو ایک رکعت پڑھ لو اور آخری نماز کو وتر سمجھو۔

اس باب میں عمرو بن عیسیٰ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں۔ ابن عمرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اور اسی پر اہل علم کا عمل ہے۔ کہ رات کی نماز دو دو رکعتیں کر کے پڑھی جائے۔ سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔

باب ۳۱۹۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ صَلَوَةِ اللَّيْلِ

۳۱۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رمضان کے روزوں کے بعد افضل ترین روزے محرم کے مہینے کے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔

۳۱۹۔ حدثنا قتيبة نا ابو عوانة عن ابى بشر عن حميد بن عبد الرحمن الميمري عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلوة بعد الفريضة صلوة الليل

اس باب میں جابر، بلال اور ابوامامہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن ہے۔ ابو بشر کا نام جعفر بن ایاس ہے اور وہ جعفر بن ابووشیہ ہیں۔

باب ۳۲۰۔ مَا جَاءَ فِي وَصْفِ صَلَوَةِ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ

۳۲۰۔ حضرت ابو سلمہؓ نے حضرت عائشہؓ سے آنحضرت ﷺ کی رمضان میں رات کی نماز کی کیفیت دریافت کی تو فرمایا: حضور اکرم ﷺ رمضان اور اس کے علاوہ (۱۱) گیارہ رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ چار رکعتیں اس طرح پڑھتے تھے کہ ان کے حسن بارے میں اور ان کی تطویل کے بارے میں مت پوچھو پھر چار پڑھتے ان کے حسن اور طوالت کے متعلق بھی نہ پوچھو اس کے بعد تین رکعتیں پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اے عائشہؓ میری آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا رہتا ہے۔

۳۲۰۔ حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري نا منان نا مالك عن سعيد بن ابى سعيد المقبري عن ابى سلمة انه اخبره انه سأل عائشة كيف كانت صلوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسئل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسئل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فقالت عائشة فقلت يا رسول الله اتنأم قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينأم قلبي

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۸۱۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ رات کو گیارہ رکعتیں پڑھتے تھے ان میں سے ایک کے ساتھ وتر کرتے۔ پھر جب اس سے فارغ ہوتے تو دائیں کروٹ لیٹ جاتے۔

۳۸۱۔ حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري نا معن بن عيسى نا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رُكْعَةً يُؤْتِرُ مِنْهَا  
بِوَاحِدَةٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ

قتیبہ، مالک سے اور وہ ابن شہاب سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۳۲۱۔ باب مِنْهُ

۳۸۰۔ حدثنا ابو كريب نا و كيع عن شعبة عن أبي  
جمرة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله  
عليه وآله وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة

امام ترمذی کہتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۳۲۲۔ باب مِنْهُ

۳۸۲۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ رات کو تیرہ  
(۱۳) رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

۳۸۱۔ حدثنا هنادنا ابو الاحوص عن الاعمش عن  
ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت كان النبي صلى  
الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل تسع ركعات

اس باب میں ابو ہریرہؓ، زید بن خالد اور فضل بن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت عائشہؓ کی یہ حدیث اس  
سند سے حسن غریب ہے۔ سفیان نے اسے اعمش سے اسی کے مثل روایت کیا ہے۔ ہم سے یہ بات محمود بن غیلان نے نقل کی۔ وہ یحییٰ بن  
آدم سے وہ سفیان سے اور وہ اعمش سے نقل کرتے ہیں امام ترمذی کہتے ہیں: اکثر روایات میں آنحضرت ﷺ کا تیرہ (۱۳) رکعات پڑھنا  
مروی ہے جب کہ کم سے کم نو (۹) رکعتیں منقول ہیں۔

۳۸۳۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اگر رسول اللہ ﷺ رات کو نیند کی وجہ  
سے یا آنکھ لگ جانے کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکتے تو دن میں بارہ (۱۲)  
رکعتیں پڑھتے۔

۳۸۳۔ حدثنا قتيبة نا ابو عوانة عن قتادة عن زرارة بن  
اوفي عن سعد ابن هشام عن عائشة قالت كان النبي  
صلى الله عليه وآله وسلم اذا لم يصلي من الليل منعة من  
ذلك النوم او غلبته عيناه صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عباس (ابن عبدالمعظم عمیری)، عتاب بن ثشی سے اور وہ بہز بن حکیم سے روایت کرتے ہیں کہ  
”زرارہ بن اوفیٰ بصرہ کے قاضی تھے اور قبیلہ بنو قیس کی امامت کرتے تھے ایک دن فجر کی نماز میں انہوں نے پڑھا ”فاذا نقر في النافور فذلک  
یومئذ یوم عسیر“ (ترجمہ: جب پھونکا جائے گا صورتو وہ دن بہت سخت ہوگا) اور بیہوش ہو کر گرے اور فوت ہو گئے۔ جن لوگوں نے انہیں ان  
کے گھر پہنچایا ان میں میں بھی شامل تھا۔ امام ترمذی کہتے ہیں: سعد بن ہشام، عامر انصاری کے بیٹے ہیں اور ہشام بن عامر صحابی ہیں۔

باب ۳۲۳۔ باب تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى

۳۸۵۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ  
تبارک و تعالیٰ ہر رات کے تہائی حصے کے گزرنے پر دنیا کے آسمان پر

۳۲۳۔ فِي نَزْوِلِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى  
السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلِّ لَيْلَةٍ

۳۸۵۔ حدثنا قتيبة نا يعقوب بن عبد الرحمن  
الاسكندراني عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن

اترتے اور فرماتے ہیں: ”میں بادشاہ ہوں، کون مجھ سے دعا مانگتا ہے۔ میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ کون مجھ سے سوال کرتا ہے۔ میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ کون مجھ سے مغفرت کا طلبگار ہے میں اس کی مغفرت کروں؟ پھر اسی طرح فرماتے رہتے ہیں یہاں تک کہ فجر روشن ہو جاتی ہے۔

أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَاَسْتَجِيبَ لَهُ مِنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُمْضِيَ الْفَجْرُ

اس باب میں علی بن ابی طالبؓ، ابوسعیدؓ، رفاعہؓ، جبیر بن مطعمؓ، ابن مسعودؓ، ابورداءؓ اور عثمان بن ابی العاصؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابوریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور بہت سی سندوں سے حضرت ابوریرہؓ سے مروی ہے۔ وہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ جب رات کا آخری تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اترتے ہیں یہ روایت صحیح ہے۔

باب ۳۲۳۔ رات کو قرأت کرنا۔

باب ۳۲۴۔ ماجاء فی القراءۃ باللیل

۳۸۶۔ حضرت ابو قتادہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ابوبکرؓ فرمایا: میں (رات کو تمہارے پاس سے گزرا تو تم قرآن پڑھ رہے تھے اور آواز بہت دھیمی تھی حضرت ابوبکرؓ نے عرض کیا: میں جس سے مناجات کر رہا تھا اس کو سنا دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: آواز تھوڑی سی اونچی رکھا کرو پھر حضرت عمرؓ سے فرمایا: میں تمہارے پاس سے گزرا تو تم بھی پڑھ رہے تھے اور آواز بلند تھی۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: میں سونے والوں کو جگاتا اور شیطانوں کو بھگاتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ذرا آہستہ پڑھا کرو۔

۳۸۶۔ حدثنا محمود بن غیلان نا یحیی بن اسحق نا حماد بن سلمة عن ثابت البناتی عن عبد الله بن رباح الأنصاری عن أبي قتادة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تَقْرَأُ وَأَنْتَ تَحْفِضُ مِنْ صَوْتِكَ فَقَالَ إِنِّي أَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ قَالَ أَرَفِعُ قَلِيلًا وَقَالَ لِعُمَرَ مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تَقْرَأُ وَأَنْتَ تَرْفَعُ صَوْتَكَ فَقَالَ إِنِّي أُرْقِطُ الْوَسْطَانَ وَأَطْرُدُ الشَّيْطَانَ قَالَ أَحْفِضْ قَلِيلًا

اس باب میں عائشہؓ، ام ہانیؓ، انسؓ، سلمہؓ اور ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔

۳۸۷۔ حضرت عبد اللہ بن ابوقیسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا: آنحضرت ﷺ کی رات کو قرأت کیسی تھی فرمایا: آپ ﷺ ہر طرح قرأت کرتے کبھی دھیمی آواز سے اور کبھی بلند آواز سے۔ میں نے کہا: الحمد للہ..... الخ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے دین میں وسعت رکھی۔

۳۸۷۔ حدثنا قتيبة نا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة كيف كان قراءة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بالليل فقالت كل ذلك قد كان يفعل ربما أسر بالقرآءة و ربما جهرا فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث بھی صحیح غریب ہے۔ ابو قتادہؓ کی حدیث بھی غریب ہے۔ اسے یحییٰ بن اسحاق حماد بن سلمہؓ سے روایت کرتے ہیں جب کہ اکثر حضرات اس حدیث کو ثابتؓ سے اور وہ عبد اللہ بن رباح سے مسلماً روایت کرتے ہیں۔

۳۸۸۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے قرآن کی ایک ہی آیت پڑھ کر پوری رات گزار دی۔

۳۸۸۔ حدثنا ابوبكر محمد بن نافع البصرى نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن اسمعيل بن مسلم

العبدی عن ابی المتوکل النّاجی عن عائشة قالت قام النّبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بآیة من القرآن لیلة

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔

باب ۳۲۵۔ نفل گھر میں پڑھنے کی فضیلت

۳۸۹۔ حضرت زید بن ثابتؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: فرض نماز کے علاوہ تمہاری افضل ترین نماز وہ ہے جو گھر میں پڑھی جائے۔

باب ۳۲۵۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ

۳۸۹۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر نا عبد اللہ بن سعید بن ابی ہند عن سالم ابی النضر عن يسر بن سعید عن زید بن ثابت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال افضل صلواتکم فی بیوتکم الا المكتوبة

اس باب میں عمر بن خطابؓ، جابر بن عبد اللہؓ، ابوسعیدؓ، ابو ہریرہؓ، ابن عمرؓ، عائشہؓ، عبد اللہ بن سعدؓ اور زید بن خالد جہنیؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ زید بن ثابتؓ کی حدیث حسن ہے۔ علماء نے اس حدیث کی روایت میں اختلاف کیا ہے۔ چنانچہ موسیٰ بن عقبہ اور ابراہیم بن یونس اور بعض حضرات اسے مرفوعاً اور بعض حضرات اسے موقوفاً روایت کرتے ہیں جب کہ مالکؓ ابو النضر سے روایت کرتے ہوئے مرفوع نہیں کرتے۔ اور مرفوع حدیث صحیح ہے۔

۳۹۰۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو اور انہیں قبریں نہ بناؤ (یعنی قبرستان کی طرح نمازوں سے خالی نہ رکھو)۔

۳۹۰۔ حدثنا اسحق بن منصور نا عبد اللہ بن نمیر عن عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النّبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال صلّوا فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

## وتر کے ابواب

باب ۳۲۶۔ وتر کی فضیلت

۳۱۹۔ خارجہ بن حذافہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہماری طرف نکلے اور فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ایک نماز سے تمہاری مدد کی ہے جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے (یعنی) ”وتر“ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عشاء اور طلوع فجر کے درمیانی وقت میں مقرر فرمایا ہے۔

## أَبْوَابُ الْوَتْرِ

باب ۳۲۶۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْوَتْرِ

۳۹۱۔ حدثنا قتيبة ثنا الليث بن سعد في عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة بن حذافة بن حذافة أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن الله أمدكم بصلوة هي خير لكم من حمر النعم الوتر جعله الله لكم فيما بين صلوة العشاء إلى أن يطلع الفجر

اس باب میں ابو ہریرہؓ، عبد اللہ بن عمروؓ، بریدہؓ اور ابوبصرہؓ (صحابی) سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: خارجہ بن حذافہؓ کی حدیث غریب ہے۔ ہم اسے زید بن ابوحیبؓ کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے۔ بعض محدثین کو اس حدیث میں وہم ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے: عبد اللہ بن راشد الزرقی اور یہ وہم ہے۔

باب ۳۲۷۔ مَا جَاءَ إِنْ الْوَيْتْرِ لَيْسَ بِحَتْمٍ

باب ۳۲۷۔ وتر فرض نہیں۔

۳۹۲۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ نَا أَبُو بَكْرٍ بِنَ عِيَاشٍ نَا ابُو اسْحَقَ عَن عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَن عَلِيٍّ قَالَ الْوَيْتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلَوَاتِكُمْ الْمَكْتُوبَةِ وَلَكِنَّ سَنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ اللَّهُ وَتُرِيحِبُّ الْوَيْتْرَ فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ

۳۹۲۔ حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ وتر فرض نماز کی طرح فرض نہیں۔ لیکن رسول اللہﷺ کی سنت ہے آپ ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ طاق (تھا) ہے۔ اور طاق کو پسند کرتا ہے۔ اے اہل قرآن وتر پڑھا کرو۔

اس باب میں ابن عمرؓ، ابن مسعودؓ اور ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت علیؑ کی حدیث حسن ہے۔ سفیان ثوری وغیرہ ابواسحاق سے وہ عاصم بن ضمیرہ سے اور وہ حضرت علیؑ سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا: (وتر فرض نماز کی طرح فرض نہیں لیکن سنت ہے آپ ﷺ نے اسے سنت بنایا) ہمیں اس کی خبر بندار نے انہیں عبدالرحمن بن مہدی نے اور انہیں سفیان نے دی۔ اور یہ ابو بکر بن عیاش کی حدیث سے صحیح ہے۔ منصور بن معتمر بھی ابواسحاق سے ابو بکر بن عیاش کی حدیث کے مثل روایت کرتے ہیں۔

باب ۳۲۸۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّوْمِ قَبْلَ الْوَيْتْرِ

باب ۳۲۸۔ وتر سے پہلے سونا مکروہ ہے۔

۳۹۳۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ نَا زَكَرِيَا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَن اسْرَائِيلَ عَن عِيْسَى بْنِ أَبِي عِزَةَ عَن الشَّعْبِيِّ عَن ابِي ثَوْرٍ الْاَزْدِيِّ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ

۳۹۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہﷺ نے حکم دیا کہ سونے سے پہلے وتر پڑھا کروں۔

عیسیٰ بن ابوعزہ کہتے ہیں کہ شععی شروع رات میں پڑھتے اور پھر سوتے تھے۔ اس باب میں ابو ذرؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہؓ کی حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ ابو ثور کا نام حبیب بن ابوملیکہ ہے۔ علماء صحابہ اور بعد کے علماء کی ایک جماعت نے یہ مسلک اختیار کیا ہے کہ وتر پڑھنے سے پہلے نہ سوائے آنحضرت رسول اللہﷺ سے یہ بھی مروی ہے۔ کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جسے یہ ڈر ہو کہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا تو شروع میں ہی وتر پڑھے۔ اس لیے کہ رات کے آخری حصے میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اور یہی افضل ہے کہ ہم سے یہ حدیث ہناد نے روایت کی وہ ابو معاویہ سے وہ اعمش سے وہ ابو سفیان سے وہ جابر سے اور وہ حضور اکرم رسول اللہﷺ سے روایت کرتے ہیں۔

باب ۳۲۹۔ مَا جَاءَ فِي الْوَيْتْرِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَآخِرِهِ

باب ۳۲۹۔ وتر رات کے شروع اور آخر دونوں وقتوں میں جائز ہے۔

۳۹۴۔ حَدَّثَنَا اِحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا أَبُو بَكْرٍ بِنَ عِيَاشٍ نَا ابُو حَصِيْنٍ عَن يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ عَن مَسْرُوقٍ اَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَن وَيْتْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتِرَ وَاوَسَطُهُ وَآخِرِهِ فَانْتَهَى وَتُرُهُ جِئِنَ مَاتَ فِي وَجْهِ السَّحْرِ

۳۹۴۔ مسروق نے عائشہؓ سے حضور اکرم رسول اللہﷺ کے وتر کے متعلق پوچھا فرمایا: پوری رات میں جب چاہتے وتر پڑھ لیتے۔ کبھی رات کے شروع میں کبھی درمیانی حصے میں اور کبھی رات کے آخری حصے میں۔ یہاں تک کہ جب آپ ﷺ کی وفات ہوئی تو آپ ﷺ رات کے آخری حصے (سحر کے وقت) میں وتر پڑھا کرتے تھے۔ (یعنی آخری ایام میں)۔

امام ترمذی کہتے ہیں، ابو حصین کا نام عثمان بن عاصم اسدی ہے۔ اس باب میں علی، جابر ابو مسعود انصاری اور ابو قتادہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت عائشہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض اہل علم نے وتر کورات کے آخری حصے میں پڑھنے کو اختیار کیا ہے۔

باب ۳۳۰۔ وتر کی سات رکعتیں۔

باب ۳۳۰۔ مَا جَاءَ فِي الْوُتْرِ بِسَبْعٍ

۳۹۵۔ حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ۱۳ رکعتیں وتر پڑھا کرتے تھے۔ پھر جب بوڑھے اور ضعیف ہو گئے تو سات رکعتیں پڑھنے لگے۔

۳۹۵۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ أَبِي مَعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرَّةٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَزَّارِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُؤْتِرُ بِثَلَاثِ عَشْرَةَ فَلَمَّا كَبُرَ وَضَعُفَ أَوْ تَرَبَّسَعَ

اس باب میں حضرت عائشہؓ سے روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت ام سلمہؓ کی حدیث حسن ہے۔ آپ ﷺ سے یہ بھی مروی ہے کہ وتر میں ۱۳، ۹، ۷، ۳ اور ایک رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اسحاق بن ابراہیم کہتے ہیں: ”آنحضرت رسول اللہ ﷺ وتر میں تیرہ (۱۳) رکعتیں پڑھتے تھے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وتر سمیت تیرہ (۱۳) پڑھتے تھے۔ چنانچہ رات کی نماز بھی وتر کی طرف منسوب ہوگی۔ اس میں حضرت عائشہؓ سے بھی حدیث منقول ہے ان کا استدلال حضور اکرم رسول اللہ ﷺ سے مروی اس حدیث سے ہے کہ ”اے اہل قرآن وتر پڑھا کرو“ اس کا مقصد تہجد کی نماز ہے یعنی تہجد کو بھی (مجازاً) وتر کہتے ہیں اس لیے آپ ﷺ نے اہل قرآن کو تہجد کا حکم فرمایا۔

باب ۳۳۱۔ وتر کی پانچ رکعات پڑھنا

باب ۳۳۱۔ مَا جَاءَ فِي الْوُتْرِ بِخَمْسٍ

۳۹۶۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی رات کی نماز تیرہ (۱۳) رکعتوں پر مشتمل تھی اس میں سے پانچ رکعتیں وتر پڑھتے اور ان کے دوران نہیں بیٹھتے تھے پھر آخری رکعت میں بیٹھتے۔ پھر جب مؤذن اذان دیتا تو کھڑے ہوتے اور دو رکعتیں پڑھتے جو بہت ہلکی ہوتیں۔

۳۹۶۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ اَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَمِيرٍ نَاهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ صَلَوةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ يُؤْتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ فَإِذَا أَدَّى الْمُؤَدِّنَ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

اس باب میں ابو ایوبؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت عائشہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور بعض علماء صحابہ وغیرہ نے یہی مسلک اختیار کیا ہے کہ وتر کی پانچ رکعتیں ہیں۔ مزید یہ کہ ان کے دوران بیٹھنے نہیں صرف آخری رکعت میں بیٹھے۔

باب ۳۳۲۔ وتر میں تین رکعتیں ہیں۔

باب ۳۳۲۔ مَا جَاءَ فِي الْوُتْرِ بِثَلَاثٍ

۳۹۷۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ تین رکعت وتر پڑھ کرتے تھے اور ان میں نو مفصل کی سورتیں پڑھتے تھے اور ہر رکعت میں تین سورتیں جن میں سے آخری سورہ اخلاص ہوتی تھی۔

۳۹۷۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بِنِ عِيَّاشٍ عَنِ ابْنِ اسْحَقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُؤْتِرُ بِثَلَاثِ يَفْرَأُ فِيهِنَّ بِتِسْعِ سُورٍ مِنَ الْمُفْصَلِ يَفْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِثَلَاثِ سُورٍ آخِرُهُنَّ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

اس باب میں عمران بن حصینؓ، عائشہؓ، ابن عباسؓ، ابو ایوبؓ، عبدالرحمن بن ابی بکرؓ سے بھی روایت ہے عبدالرحمن بن ابی بکرؓ، ابی بن کعبؓ سے روایت کرتے ہیں۔ عبدالرحمن بن ابی بکرؓ حضور اکرم رسول اللہ ﷺ سے بھی روایت کرتے ہیں۔ بعض حضرات اسے اس طرح نقل کرتے ہوئے ابی بن کعبؓ کا ذکر نہیں کرتے جب کہ بعض حضرات عبدالرحمن بن ابی بکرؓ سے اور وہ ابی بن کعبؓ سے نقل کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں علماء صحابہ وغیرہ کی ایک جماعت اسی پر عمل کرتی ہے کہ وتر میں تین رکعات پڑھی جائیں۔ سفیان کہتے ہیں: اگر چاہو تو پانچ رکعتیں پڑھو اور چاہو تو تین اور اگر چاہو کہ ایک رکعت پڑھو تو بھی صحیح ہے۔ اور میرے نزدیک تین رکعت وتر پڑھنا مستحب ہے یہ ابن مبارک اور اہل کوفہ (احناف) کا قول ہے۔

مسئلہ: حنفیہ کے نزدیک وتر کی تین رکعات ہیں جو کہ متعین ہیں اور وہ بھی ایک سلام کے ساتھ دو مسلمانوں کے ساتھ تین رکعتیں پڑھنا احناف کے نزدیک جائز نہیں۔ یہ حضرات دلیل کے طور پر کئی احادیث پیش کرتے ہیں۔

(۱) ترمذی ہی میں مذکور حدیث ابوسلمہ (۳۸۰) اس حدیث میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ آپ ﷺ تین رکعتیں پڑھتے تھے۔

(۲) حدیث نمبر ۳۹۹: اس میں بھی تین ہی رکعات کا ذکر ہے۔

(۳) حدیث نمبر ۳۹۷: اس میں بھی تین رکعات کی تصریح ہے جو ابھی گزری ہے یعنی حدیث باب

(۴) حدیث نمبر ۴۰۰: حضرت عائشہؓ کی حدیث اس میں بھی صراحت کے ساتھ تین رکعتوں کا ذکر ہے۔

یہ تمام احادیث وتر کی تین رکعات پر صراحت کے ساتھ دلالت کرتی ہیں۔ جہاں تک دوسری روایات کا تعلق ہے تو دراصل ان میں ایک سے لے کر تیرہ (۱۳) رکعات تک کا ذکر ہے۔ اور ان روایات میں وتر سے مراد پوری نماز شب ہے۔ جیسے کہ امام ترمذی نے بھی امام اسحاق بن راہویہ کا قول نقل کیا ہے جہاں تک حضرت عائشہؓ کی حدیث کا تعلق ہے کہ ”آپ ﷺ وتر میں پانچ رکعتیں پڑھتے اور درمیان میں نہیں بیٹھتے تھے“۔ تو درحقیقت ان پانچ رکعتوں میں دو رکعت نفل بھی شامل ہے، اور نہ بیٹھنے سے مراد کافی دیر تک بیٹھ کر دعا و ذکر وغیرہ کرنا ہے نہ کہ قعدہ کی نفی۔

رہ گیا مسئلہ ان تینوں رکعات میں ایک ہی سلام پھیرنے کا، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ وتر کی تین رکعات کی حتمی روایات اوپر ذکر کی گئیں ان میں سے کسی میں بھی دو مسلمانوں کا ذکر نہیں۔ اگر آنحضرت رسول اللہ ﷺ کا معمول دو مسلمانوں کے ساتھ تین رکعات پڑھنے کا ہوتا تو یہ ایک غیر معمولی بات ہوتی جس کا ذکر صحابہ کرام ضرور کرتے اس لیے یہی کہا جائے گا کہ آپ ﷺ یہ تین رکعتیں معمول کے مطابق مغرب کی نماز کی طرح ایک ہی سلام کے ساتھ ادا فرماتے تھے۔

صحابہ کرامؓ کی ایک بڑی جماعت جن میں حضرت ابو بکر صدیقؓ، عمر فاروقؓ، علیؓ، ابن مسعودؓ اور حضرت ابن عباسؓ جیسے حلیل القدر صحابہ بھی شامل ہیں۔ یہ تمام حضرات بھی ایک سلام کے ساتھ تین رکعات پڑھنے کے قائل ہیں۔ ان کی روایات و آثار مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ اور طحاوی وغیرہ میں موجود ہیں لہذا حنفیہ کا مسلک آثار صحابہ سے بھی مؤید ہے۔ (واللہ اعلم مترجم)

باب ۳۳۲۔ وتر میں ایک رکعت پڑھنا۔

باب ۳۳۳۔ مَا جَاءَ فِي الْوَيْتِ بِرُكُوعَةٍ

۳۹۷۔ حضرت انس بن سیرینؓ کہتے ہیں میں نے ابن عمرؓ سے پوچھا کیا میں فجر کی دو رکعتوں (سنتوں) میں قرأت لمبی کروں افرمایا: نبی اکرم ﷺ رات کو دو دو رکعت کر کے نماز پڑھتے اور پھر آخر میں ایک رکعت وتر اور فجر کی دو رکعتیں اس وقت پڑھتے جب فجر کی اذان سنتے۔

۳۹۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سَيْرِيْنَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ أَطِيلُ فِي رُكُوعَتِي الْفَجْرِ فَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنِي مَثْنِي وَيَوْتِرُ بِرُكُوعَةٍ وَكَانَ

يُصَلِّي الرُّكْعَتَيْنِ وَالْأَذَانَ فِي أُذُنِهِ

اس باب میں عائشہؓ، جابرؓ، فضل بن عباسؓ، ابویوبؓ اور ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عمرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور بعض صحابہ اور تابعین کا اسی پر عمل ہے کہ دو رکعتوں اور تیسری رکعت کے درمیان فصل کرے (سلام پھیرے) اور تیسری رکعت وتر کی پڑھے۔ یہ امام مالک، شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے۔

باب ۳۳۳۔ وتر نماز میں کیا پڑھے؟

باب ۳۳۴۔ مَا جَاءَ مَا يَقْرَأُ فِي الْوُتْرِ

۳۹۹۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ وتر میں سورۃ الاعلیٰ (سج اسم ربک الاعلیٰ) سورۃ کافرون اور سورۃ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ یعنی ہر رکعت میں ایک ایک سورت پڑھتے تھے۔

۳۹۹۔ حدثنا علي بن حجر ناشريك عن ابى اسحق عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل ياتها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعة ركعة

اس باب میں علیؓ، عائشہؓ اور عبدالرحمن بن ابزی بھی ابی بن کعب سے روایت کرتے ہیں آپ ﷺ سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ ﷺ نے تیسری رکعت میں سورۃ اخلاص اور معوذتین بھی پڑھیں (قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس) جسے صحابہ کرام اور ان کے بعد کے علماء کی اکثریت نے اختیار کیا ہے وہ یہی ہے کہ ”سبح اسم ربک الاعلیٰ“، سورۃ کافرون اور سورۃ اخلاص، تینوں میں ہر رکعت میں ایک سورت پڑھے (یعنی سورۃ اعلیٰ پہلی رکعت میں اور دوسری میں سورۃ کافرون اور تیسری میں سورۃ اخلاص۔ مترجم)

۴۰۰۔ حضرت عبدالعزیز بن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے سوال کیا: رسول اللہ ﷺ وتر کے میں کیا پڑھا کرتے تھے؟ حضرت عائشہؓ نے فرمایا: آپ ﷺ پہلی رکعت میں ”سبح اسم ربک الاعلیٰ“ دوسری میں ”قل ياتها الكافرون“ اور تیسری میں ”قل هو الله أحد“ اور معوذتین پڑھتے تھے۔

۴۰۰۔ حدثنا اسحق بن ابراهيم بن حبيب بن شهيد البصرى نا محمد بن سلمة الحرانى عن خُصَيْفٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَرِيحٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُؤْتِرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوُتْرِ بِسَبْحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّلَاثَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ یہ عبدالعزیز بن جریج کے والد اور عطاء کے ساتھی ہیں، اور ابن جریج کا نام عبدالملک بن عبدالعزیز بن جریج ہے۔ یہ حدیث صحیحی بن سعید انصاری بھی عمرہ سے وہ عائشہؓ سے اور وہ نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتی ہیں۔

باب ۳۳۵۔ وتر میں قنوت پڑھنا۔

باب ۳۳۵۔ مَا جَاءَ فِي الْقَنُوتِ فِي الْوُتْرِ

۴۰۱۔ ابو حوراءؓ کہتے ہیں کہ حسن بن علیؓ نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے مجھے کچھ کلمات سکھائے تاکہ میں انہیں وتر میں پڑھا کروں (وہ یہ ہیں اللهم اهدني..... سے آخر حدیث تک۔ اس دعا کا ترجمہ: (اے اللہ

۴۰۱۔ حدثنا قتيبة نا ابو الاحوص عن ابى اسحق عن بريد بن ابي مريم عن ابي الحوراء قال قال الحسن بن علي علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

مجھے ہدایت کر ان لوگوں کے ساتھ جنہیں تو نے ہدایت عطا کی، مجھے عافیت عطا فرما ان لوگوں کے ساتھ جن کو تو نے عافیت بخشی (یعنی آنفوں اور مصیبتوں سے بچا) اور مجھ سے ان لوگوں کے ساتھ محبت کر جن سے تو نے محبت کی اور جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں برکت عطا فرما اور مجھے ان برائیوں سے بچا جو میرے مقدر میں لکھ دی گئیں۔ بے شک تو جس چیز کا چاہتا ہے حکم دیتا ہے اور تجھے کوئی حکم نہیں دیتا اور جسے تو دوست رکھتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اے پروردگار تو بابرکت ہے اور تیری ہی ذات بلند و برتر ہے۔

وَالِهٖ وَسَلَّمْ كَلِمَاتٍ اَقُوْلُهُنَّ فِي الْوُتْرِ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَا فِينِيْ فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّيْنِيْ فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِيْ فِيمَا اَعْطَيْتَ وَفِيْ شَرِّ مَا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَفْضِيْ وَلَا يُفْضِيْ عَلَيْكَ وَاِنَّهٗ لَا يَدُلُّ مَنْ وَاَلَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

اس باب میں حضرت علیؑ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ ہم اسے اس سند سے ابو حوراء سعدی کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے۔ ابو حوراء کا نام ربیعہ بن شیبان ہے۔ اور آپ ﷺ سے مروی قنوت کے متعلق روایات میں اس سے بہتر روایت کا ہمیں علم نہیں۔ علماء قنوت کے متعلق اختلاف ہے۔ عبد اللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ پورا سال قنوت پڑھے اور ان کے نزدیک قنوت کی دعا رکوع سے پہلے پڑھنا مختار ہے۔ یہ بعض علماء کا بھی قول ہے اور یہی قول سفیان ثوری، ابن مبارک، اسحاق اور اہل کوفہ کا بھی ہے۔ حضرت علیؑ سے مروی ہے کہ وہ صرف رمضان کے دوسرے پندرہ دن میں رکوع کے بعد قنوت پڑھا کرتے تھے۔ بعض اہل علم نے بھی یہی مسلک اختیار کیا ہے اور یہی شافعی اور احمد کا قول ہے۔

مسئلہ: امام ترمذی نے یہاں حنفیہ (اہل کوفہ) کا مسلک ذکر کر دیا ہے۔

ان حضرات کی دلیل ابن ماجہ میں حضرت ابی بن کعبؓ کی روایت ہے کہ ”ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر فیقنت قبل الرکوع“ یعنی آنحضرت ﷺ وتر پڑھتے اور ان میں دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ احناف کے پاس اس مسئلے میں مرفوع حدیث بھی ہے اور حضرت ابن مسعودؓ کا اثر بھی جو کہ اوپر مذکور ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۳۳۶۔ جو شخص وتر پڑھنا بھول جائے یا پڑھے بغیر سو جائے۔

۴۰۲۔ حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص وتر پڑھے بغیر سو جائے یا بھول جائے تو جب جاگے یا اسے یاد آجائے تو پڑھے۔

باب ۳۳۶۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَنَامُ عَنِ الْوُتْرِ أَوْ يَنْسِي

۴۰۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ اسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَّارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَامَ عَنِ الْوُتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ

۴۰۳۔ حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر کوئی وتر پڑھے بغیر سو جائے تو صبح ہونے پر پڑھے۔

۴۰۳۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ اسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَامَ عَنْ وَتْرِهِ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ

یہ حدیث پہلی حدیث سے اصح ہے میں نے ابو داؤد سجری (یعنی سلیمان بن اشعث) سے سنا کہ انہوں نے احمد بن حنبل سے عبد الرحمن بن زید بن اسلم کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے کہا: ان کے بھائی عبد اللہ میں کوئی مضائقہ نہیں اور میں نے امام بخاری کو علی بن عبد اللہ کے حوالے سے عبد الرحمن بن زید بن اسلم کو ضعیف کہتے ہوئے سنا۔ انہوں نے کہا کہ عبد اللہ بن زید بن اسلم ثقہ ہیں۔ بعض اہل کوفہ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب یاد آجائے تو وتر پڑھے اگرچہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد یاد آئے۔ سفیان ثوری کا بھی یہی قول ہے۔

مسئلہ: احناف اور جمہور کے درمیان وتر کے وجوب اور سنیّت میں مشہور اختلاف ہے۔ احناف اس کو واجب قرار دیتے ہیں۔ ان کے دلائل میں سے چند حسب ذیل ہیں۔

(۱) حضرت ابوسعید خدریؓ کی حدیث باب۔ اس میں وتر کی قضاء کا حکم دیا گیا ہے اور قضا کا حکم واجبات میں ہوتا ہے سنن میں نہیں۔  
 (۲) حضرت خارجہ بن حذافہ کی حدیث جو ترمذی میں باب ۳۲۶ وتر کی فضیلت حدیث ۳۹۱ ہے۔ اس حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا: ”ان اللہ امدکم“..... الخ۔ لفظ ”امد“ مد کرنے اور اضافہ کرنے کے معنی میں آتا ہے اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے۔ اگر وتر سنت ہوتے تو ان کی نسبت آنحضرت ﷺ کی طرف ہوتی جیسے کہ ایک مرتبہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے تم پر (رمضان) کے روزے فرض کیے اور میں نے اس کی راتوں کا قیام سنت بنا دیا۔ لہذا ”ان اللہ امدکم“ میں اللہ تعالیٰ کی طرف اضافے کی نسبت اس کے وجوب پر دلالت کرتی ہے۔

(۳) حضرت علیؓ کی حدیث یہ بھی ترمذی ہی میں حدیث ۳۹۲ ہے اس میں فرمایا گیا۔ ”فأوتروا یا اهل قرآن“ اس میں امر کا صیغہ استعمال کیا گیا جو وجوب پر دلالت کرتا ہے۔

(۴) نبی کریم ﷺ نے وتر ہمیشہ پڑھے اور انہیں کبھی ترک نہیں کیا اور اس کے ترک کرنے والے کے متعلق فرمایا ”من لم یوتر فلیس منا“ جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔

یہ تمام دلائل وتر کے واجب ہونے پر دلالت کرتے ہیں لیکن یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ احناف اور جمہور کے درمیان یہ اختلاف لفظی ہے اس لیے کہ ائمہ ثلاثہ مالک، شافعی اور احمد کے نزدیک سنت اور فرض کے درمیان کوئی درجہ نہیں اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک ان دونوں کے درمیان واجب کا درجہ ہے گویا کہ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ وتر کا مرتبہ فرض سے نیچے اور سنن مؤکدہ سے اوپر ہے۔ کیونکہ ائمہ ثلاثہ بھی اسے آکد السنن مانتے ہیں لہذا دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں۔ واللہ اعلم۔ (مترجم)

باب ۳۳۷۔ مَا جَاءَ فِي مُبَادَرَةِ الصُّبْحِ بِالْوُتْرِ

باب ۳۳۷۔ صبح سے پہلے وتر پڑھنا۔

۴۰۴۔ حدثنا احمد بن منيع بن يحيى بن زكريا بن ابى زائدة نا عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر أنّ النبی قال بأدروا الصُّبْحِ بِالْوُتْرِ

۴۰۴۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: صبح ہونے سے پہلے وتر ادا کر لیا کرو۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۴۰۵۔ حدثنا الحسن بن علی الخلال نا عبد أبی نصرَةَ عن أبی سعید الخدری أنّ النبی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

۴۰۵۔ حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: وتر صبح ہونے سے پہلے پڑھو۔

وَالِهٖ وَسَلَّمَ قَالَ اَوْتِرُوْا قَبْلَ اَنْ تُصْبِحُوْا

۴۰۶۔ حدیثنا محمود بن غیلان نا عند الرزاق نا ابن جریج عن سلیمان بن موسیٰ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهٖ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلْوَةِ اللَّيْلِ وَالْوَتْرِ فَاَوْتِرُوْا قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ

۳۰۶۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب فجر طلوع ہوئی تو رات کی نمازوں (تہجد وغیرہ) اور وتر کا وقت ختم ہو گیا۔ لہذا فجر کے طلوع ہونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو۔

امام ترمذی کہتے ہیں سلیمان بن موسیٰ اس لفظ کو بیان کرنے میں منفرد ہیں آپ ﷺ سے مروی ہے کہ فرمایا: ”فجر کے بعد وتر نہیں“ اور یہ کئی علماء کا قول ہے۔ شافعی، احمد اور اسحاق بھی یہی کہتے ہیں کہ فجر کے بعد وتر نہیں ہیں۔

باب ۳۳۸۔ ایک رات میں دو وتر نہیں۔

۳۳۸۔ مَا جَاءَ لَا وَتْرَانَ فِي لَيْلَةٍ

۴۰۷۔ حدیثنا ہناد نا ملازم بن عمرو قال حدثنی عبداللہ بن بَدْرِ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهٖ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا وَتْرَانَ فِي لَيْلَةٍ

۴۰۷۔ قیس بن علیؓ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ سے سنا: ایک رات میں دو وتر نہیں ہیں۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ علماء کا اس شخص کے متعلق اختلاف ہے جو رات کے شروع میں وتر پڑھے اور پھر آخری حصے میں دوبارہ پڑھے۔ چنانچہ بعض علماء کہتے ہیں کہ وتر توڑ دے اور ان کے ساتھ ایک رکعت ملا کر جو چاہے پڑھ لے پھر نماز کے آخر میں وتر پڑھے اس لیے کہ ایک رات میں دو وتر نہیں پڑھے جاتے۔ یہ صحابہ، ان کے بعد کے علماء اور امام اسحاق کا قول ہے۔ بعض علماء صحابہ کا کہنا ہے کہ اگر رات کے شروع میں وتر پڑھ کر سو گیا پھر آخری حصے میں اٹھا تو جتنی چاہے نماز پڑھے وتر کو نہ توڑے اور انہیں اسی طرح چھوڑ دے۔ یہ سفیان ثوری، مالک بن انس، احمد اور ابن مبارک کا بھی قول ہے یہ زیادہ صحیح ہے اس لیے کہ آنحضرت ﷺ سے کئی سندوں سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے وتر کے بعد نماز پڑھی۔

۴۰۸۔ حدیثنا محمد بن بشار نا حماد بن مسعدة عن ميمون بن موسى المرائي عن الحسن عن أمه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين

۴۰۸۔ حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ وتر کے بعد دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

حضرت ابوامامہؓ، عائشہؓ اور کئی صحابہ سے بھی اسی کے مثل مروی ہے۔

باب ۳۳۹۔ سواری پر وتر پڑھنا

۳۳۹۔ مَا جَاءَ فِي الْوَتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

۴۰۹۔ حدیثنا قتیبہ نا مالک بن انس عن ابی بکر بن عمر بن عبد الرحمن بن سعید بن يسار قال كنت مع ابن عمر في سفر فتخلفت عنه فقال أين

۴۰۹۔ حضرت سعید بن یسارؓ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمرؓ کے ساتھ ایک سفر میں تھا کہ میں ان سے پیچھے رہ گیا۔ انہوں نے فرمایا: تم کہاں تھے؟ میں نے کہا میں وتر پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا: تیرے

كُنْتُ قَفَلْتُ أَوْ تَرْتُ فَقَالَ كَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ  
أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُؤَيِّرُ عَلِيًّا رَأْسَهُ  
لِئَلَّا يَكُونَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ عَدُوِّهِمْ  
لِئَلَّا يَكُونَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ عَدُوِّهِمْ

اس باب میں حضرت ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت ابن عمرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض علماء صحابہ وغیرہ کا اسی پر عمل ہے کہ سواری پر وتر پڑھ لے اور یہی شامی، احمد اور اسحاق کا قول ہے جب کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ وتر سواری پر نہ پڑھے۔ اگر وتر پڑھنا چاہے تو اترے اور زمین پر پڑھے۔ یہ بعض اہل کوفہ کا قول ہے۔

باب ۳۴۰۔ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الضُّحَى

باب ۳۴۰۔ چاشت کی نماز۔

۴۱۰۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَابِ يُونُسَ  
بْنِ بَكِيْرٍ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ اسْتَحْقٍ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ  
غُلَابٍ بِنِ اَنَسِ بْنِ عَمَةَ ثَمَامَةَ بْنِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ  
اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَالِهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى  
اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ مِنْ ذَهَبٍ

۴۱۰۔ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص چاشت کی نماز بارہ رکعت پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا ایک محل بناتے ہیں (دن چڑھنے کے بعد سے زوال تک کے وقت میں)

اس باب میں ام ہانیؓ، ابو ہریرہؓ، نعیم بن حمارؓ، ابو ذرؓ، حاکمؓ، ابو امامہؓ، عقبہ بن عبد سلیمانؓ، ابن ابی اوفیؓ، ابوسعیدؓ، زید بن ارقمؓ اور ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں انسؓ کی حدیث غریب ہے ہم اسے اس سند کے علاوہ نہیں جانتے۔

۴۱۱۔ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا  
مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ  
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ مَا أَحْبَبْتَنِي أَحَدًا أَنَّهُ  
رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ يَصَلِّي  
الضُّحَى إِلَّا أُمُّ هَانِيءٍ فَإِنَّهَا حَلَّتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ  
فَاعْتَسَلَ فَسَبَّحَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ مَرَّ أَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً  
قَطُّ أَحْفَ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُثِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ

۴۱۱۔ عبدالرحمن بن ابی لیلیؓ کہتے ہیں مجھے ام ہانیؓ کے علاوہ کسی نے نہیں بتایا کہ اس نے رسول اللہ ﷺ کو چاشت پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مکہ کے دن ان کے گھر میں داخل ہوئے، غسل کیا اور آٹھ رکعت نماز پڑھی، میں نے آپ ﷺ کو اس سے پہلے اتنی خفیف نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تاہم حضور درگاہ نماز آپ ﷺ کو رکوع اور سجودے پوری طرح کر رہے تھے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے گویا کہ احمد کے نزدیک اس باب کی اس روایت ام ہانیؓ ہی کی حدیث ہے نعیم کے ہارے علماء میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں نعیم بن حمار اور بعض ابن ہار کہتے ہیں انہیں ابن ہار اور ابن ہارم بھی کہا جاتا ہے جب کہ صحیح ابن ہار ہی ہے۔ ابو نعیم کو اس میں وہم ہو گیا ہے وہ ابن حمار کہتے ہیں۔ انہوں نے اس میں خطا کی ہے اور پھر نعیم اور نبی اکرم ﷺ کے درمیان واسطہ چھوڑ دیا ہے۔ مجھے یہ عہد بن حمید نے ابو نعیم کے حوالے سے بتایا۔

۴۱۲۔ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ السَّمْعَانِيُّ نَا مُحَمَّدَ بْنَ  
الْحُسَيْنِ نَا أَبُو مَسْعُودِ السَّمْعَانِيِّ نَا عِيَّاشَ بْنَ  
۴۱۲۔ حضرت ابو ذرؓ حضور اکرم ﷺ سے حدیث قدسی نقل کرتے ہیں کہ: اے نبی آدم تو میرے لیے دن کے شروع میں چار رکعت پڑھ۔

میں تیرے دن بھر کے کاموں کو پورا کروں گا۔

بحیر بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير  
عَنْ أَبِي الثَّوْدَاءِ وَأَبِي ذَرٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ ابْنُ آدَمَ  
ارْكَعْ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَةَ

امام ترمذی کہتے ہیں کہ حدیث غریب ہے۔ کعب بن عجر بن شہیل اور کئی ائمہ حدیث اس حدیث کو نہیں بن قہم سے روایت کرتے ہیں اور ہم نہیں اس حدیث ہی سے پچھتاتے ہیں۔

۳۱۳۔ نہاس بن قہم بشاد بن ابوعمار سے اور وہ ابو ہریرہ سے نقل کرتے  
ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے چاشت کی دو رکعت ہمیشہ  
پڑھیں اس کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ خواہ وہ ہند کی جھاگ کی  
طرح ہی کیوں نہ ہوں۔

۴۱۳۔ حدثنا محمد بن عبد الاعلى البصرى نا  
يزيد بن زريع عن نهاس بن قهم عن شداد بن ابي  
عمار عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله  
عليه وآله وسلم من حافظ على شفعة الضحى  
غفر له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر

۳۱۴۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب  
چاشت کی نماز پڑھنے لگتے تو ہم کہتے ہیں اب آپ ﷺ اسے نہیں  
چھوڑیں گے۔ پھر جب آپ چھوڑ دیتے تو ہم کہتے اب آپ ﷺ اسے  
نہیں پڑھیں گے۔

۴۱۴۔ حدثنا زياد بن ايوب البغدادي نا محمد بن  
ربيعة عن فضيل ابن مرزوق عن عطية العوفي عن  
ابي سعيد بن الخدري قال كان رسول الله صلى  
الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا  
يدعها ويدعها حتى نقول لا  
يصلي

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے۔

باب ۳۲۱۔ زوال کے وقت نماز پڑھنا

۳۱۵۔ حضرت عبداللہ بن سائب فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ زوال کے  
بعد اور ظہر سے پہلے چار رکعت پڑھا کرتے اور فرماتے یہ ایسا وقت ہے  
کہ اس میں آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ایسے  
وقت میں میرا نیک عمل اوپر جائے۔

باب ۳۴۱۔ مَا جَاءَ فِي صَلَوةٍ عِنْدَ الزَّوَالِ

۴۱۵۔ حدثنا ابو موسى محمد بن المشي نا ابو داؤد  
الطيالسي نا محمد بن مسلم بن ابي الوضاح هو  
ابو سعيد المؤدب عن عبد الكريم الحزري عن معاوية  
عن عبد الله بن السائب ان رسول الله صلى الله عليه  
واله وسلم كان يصلي اربعاً بعد ان تزول الشمس قبل  
الظهر فقال انها ساعة تفتح فيها ابواب السماء و  
اجب ان يصعللي فيها عمل صالح

اس باب میں علی اور ایوب سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث عبداللہ بن سائب حسن غریب ہے۔ آنحضرت سے مروی ہے کہ زوال کے بعد چار رکعت نماز ایک ہی سلام سے پڑھا کرتے تھے۔

## باب ۳۴۲۔ مَا جَاءَ فِي صَلَوةِ الْحَاجَةِ

۴۱۶۔ حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي ناعبدالله بن بكر السمي دنا عبدالله بن منير عن عبدالله بن ابى بكر عن فائدين عبد الرحمن عن عبد الله بن ابى اوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من كانت له الى الله حاجة او الى احد من بنى ادم فليتوضأ وليحسين الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله وليصل على النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم ليقل لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم لا تدع لى ذنبا الا عفرتة ولا همما الا فرجتة ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين

## باب ۳۴۲۔ نماز حاجت پڑھنا

۳۱۶۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس کسی کو اللہ کی طرف کوئی حاجت یا لوگوں میں سے کسی سے کوئی کام ہو تو اچھی طرح وضو کرے، پھر دو رکعت نماز پڑھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نبی کریم ﷺ پر دو رو بھیجے اور پھر یہ پڑھے۔ لا الہ الا اللہ..... حدیث کے آخر تک۔ (ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو چشم پوشی اور بخشش کرنے والا ہے اور عرش عظیم کا مالک ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام عالم کا رب ہے۔ اے اللہ: میں تجھ سے وہ چیزیں مانگتا ہوں جن پر تیری رحمت ہوتی ہے اور تیری بخشش کا سبب ہوتی ہیں۔ اور میں ہر نیکی میں سے اپنا حصہ مانگتا ہوں اور ہر گناہ سے سلامتی طلب کرتا ہوں۔ اے اللہ میرے گناہ بخشے بغیر، میرے کسی غم کو دور کئے بغیر، میری کسی حاجت کو جو تیرے نزدیک پسندیدہ ہو، پورا کیے بغیر نہ چھوڑنا، اے رحم کرنے والوں سے بہت زیادہ رحم کرنے والے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے اس کی اسناد میں کلام ہے۔ اور فائدہ بن عبد الرحمن ضعیف ہیں، ان کی کنیت ابو رقاء ہے۔

## باب ۳۴۳۔ مَا جَاءَ فِي صَلَوةِ الْاِسْتِخَارَةِ

۴۱۷۔ حدثنا قتيبة نا عبدالرحمن بن ابى الموالى عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعلمنا الاستخارة فى الامور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم انى استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسئلك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لى فى دينى ومعيشتى وعاقبة امرى او قال فى عاجل امرى واجله فيسره لى ثم بارك لى فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لى فى دينى ومعيشتى وعاقبة

## باب ۳۴۳۔ استخارے کی نماز

۳۱۷۔ حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمیں ہر کام میں استخارہ اس طرح سکھاتے جس طرح قرآن سکھاتے تھے فرماتے: اگر تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو دو رکعت نماز نفل پڑھے پھر یہ پڑھے: اللہم انى استخیرک..... سے تم ارضنى بہ تک پڑھے اور اپنی حاجت کا نام لے (یعنی لفظ ہذا الامر کی جگہ حاجت کا نام لے) (ترجمہ: اے اللہ میں تیرے علم کے وسیلے سے تجھ سے بھلائی اور تیری قدرت کے وسیلے سے تجھ سے قدرت مانگتا ہوں۔ اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں تو ہر چیز پر قادر ہے اور میں کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا۔ تو ہر چیز کو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا۔ تو پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ اے اللہ! اگر یہ مقصد میرے لیے، میرے دین، دنیا، آخرت، زندگی یا فرمایا: اس جہان میں اور آخرت کے دن جہان میں بہتر ہے تو اسے میرے لیے مہیا فرما دے۔ اور اگر تو اسے میرے دین،

آمریٰ اَوْ قَالَ فِی عَاجِلِ أَمْرِیْ وَ اَجَلِهِ فَاصْرَفَهُ عَنِّیْ  
وَ اصْرَفْنِیْ عَنْهُ وَ اَقْدِرْ لِی الْخَیْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ  
اَرْضِنِیْ بِهٖ قَالَ وَ یَسْمِیْ حَاجَتَهُ

میری زندگی اور آخرت یا فرمایا اس جہان یا اس جہان کے لیے برا سمجھتا ہے تو مجھے اس سے اور اسے مجھ سے دور کر دے اور میرے لیے جہاں بھلائی ہو وہ مہیا فرما پھر اس سے مجھے راضی کر۔

اس باب میں عبداللہ بن مسعود اور ابویوبؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، جاہلی حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ ہم اسے عبدالرحمن بن ابی الموالی کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے اور وہ ایک مدنی ہیں جو کہ ثقہ ہیں۔ سفیان نے ان سے ایک حدیث اور کئی ائمہ حدیث ان سے احادیث روایت کرتے ہیں۔

باب ۳۴۴۔ مَا جَاءَ فِی صَلَوةِ التَّسْبِيْحِ

باب ۳۴۴۔ صَلَوةِ تَسْبِيْحِ

۴۱۸۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَازِيْدُ  
بْنِ حَبِيْبٍ بِالْعَكْلِيِّ نَامُوْسَى بْنِ عَبِيْدَةَ قَالَ  
حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بْنُ أَبِي سَعِيْدٍ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ بِنِ  
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ قَالَ  
رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ يَا  
عَمُّ اَلَا اَصْلُكَ اَلَا اَحْبَبُكَ اَلَا اَتَفَعَّلُكَ قَالَ بَلَى  
يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ يَا عَمُّ صَلِّ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِیْ  
كُلِّ رَكَعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ سُورَةَ اِنْقَضَتْ  
الْقِرَاءَةُ فَقُلْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ سُبْحَانَ اللّٰهِ  
خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قَبْلَ اَنْ تَرَكَعَ ثُمَّ ارْكَعْ فَقُلْهَا  
عَشْرًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا  
عَشْرًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا  
عَشْرًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ  
فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُوْنَ فِیْ كُلِّ رَكَعَةٍ هِيَ ثَلَاثُ  
مِائَةٍ فِیْ اَرْبَعٍ رَكَعَاتٍ وَ لَوْ كَانَتْ ذُنُوْبُكَ مِثْلَ رَمْلِ  
عَالِجٍ عَفَرَهَا اللّٰهُ لِكَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَنْ  
يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَقُوْلَهَا فِیْ يَوْمٍ قَالَ اِنْ لَّمْ تَسْتَطِيْعْ اَنْ  
تَقُوْلَهَا فِیْ يَوْمٍ فَقُلْهَا فِیْ جُمُعَةٍ فَاِنْ لَّمْ تَسْتَطِيْعْ اَنْ  
تَقُوْلَهَا فِیْ جُمُعَةٍ فَقُلْهَا فِیْ شَهْرِ فَلَمْ يَزَلْ يَقُوْلُ لَهُ  
حَتَّى قَالَ فَقُلْهَا فِیْ سَنَةٍ

۴۱۸۔ حضرت ابورافع کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے عباسؓ سے کہا: پچھا کیا میں آپ کے ساتھ سلوک نہ کرو، کیا میں آپ کو نہ دوں، کیا میں آپ کو نفع نہ پہنچاؤں؟ عباس نے فرمایا: کیوں نہیں یا رسول اللہ! اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: پچھا چار رکعت پڑھیے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع سے پہلے یہ پندرہ مرتبہ پڑھیے ”اللہ اکبر والحمد لله وسبحان الله“ پھر رکوع کیجئے اور رکوع میں دس مرتبہ یہی پڑھیے پھر رکوع سے کھڑے ہو کر دس مرتبہ پھر سجدے میں دس مرتبہ، پھر اٹھ کر دس مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں دس مرتبہ اور پھر سجدے سے اٹھ کر کھڑے ہونے سے پہلے دس مرتبہ یہی پڑھیے یہ ہر رکعت میں ۷۵ پچھتر مرتبہ ہوا اور چاروں رکعتوں میں تین سو (۳۰۰) مرتبہ ہوا۔ اگر آپ کے گناہ عاج (۱) کی ریت کے ذرات کے برابر بھی ہوں گے تو بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا، عباس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اسے ہر روز کون پڑھ سکتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر روزانہ نہ پڑھ سکو تو جمعہ کے دن اور اگر جمعہ کو بھی نہ پڑھ سکو تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھو۔ پھر آپ ﷺ اسی طرح فرماتے رہے، یہاں تک کہ فرمایا تو پھر سال میں ایک مرتبہ پڑھ لو۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث ابورافع کی روایت سے غریب ہے۔

(۱) عاج ایک جگہ کا نام ہے جہاں ریت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ (مترجم)

۴۱۹۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ امام سلیم صحیح کے وقت حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، مجھے ایسے کلمات سکھائیے جو میں اپنی نماز میں پڑھوں۔ فرمایا: دس مرتبہ اللہ اکبر، دس مرتبہ سبحان اللہ اور دس مرتبہ الحمد للہ پڑھو اور جو چاہو مانگو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں ہاں۔ (یعنی عطا کرتا ہے)

۴۱۹۔ حدثنا احمد بن محمد بن موسى نا عبد الله بن المبارك عن عكرمة بن عمار قال حدثني اسحق بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس بن مالك ان ام سلمة غدت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت علمني كلمات اقولهن في صلوتي فقال كبري الله عشرا وسبحي الله عشرا واحمديو عشرا ثم سلى ما شئت تقول نعم نعم

اس باب میں ابن عباس، عبد اللہ بن عمر، فضل بن عیاض اور ابو رافع سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن فریب ہے۔ صلاۃ تسبیح میں حضور اکرم ﷺ سے کئی احادیث مروی ہیں لیکن ان میں بہت سی صحیح نہیں۔ ابن مبارک اور کئی علماء بھی صلاۃ تسبیح اور اس کی فضیلت کے متعلق روایت کرتے ہیں۔ احمد بن عبدہ انصاری ابو وہب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عبد اللہ بن مبارک سے تسبیح والی نماز کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا: اللہ اکبر کہے اور پھر یہ پڑھے ”سبحانک اللہم وبحمدک وتبازک اسمک وتعالیٰ جدک ولا الہ غیرک“ اس کے بعد پندرہ مرتبہ یہ پڑھے۔ ”سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر“ پھر اعموز باللہ، بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ اور کوئی اور سورت پڑھے پھر دس مرتبہ ”سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر“ پڑھے۔ پھر رکوع میں دس مرتبہ، پھر رکوع سے کھڑے ہو کر دس مرتبہ پھر سجدے میں دس مرتبہ پھر سجدے سے اٹھ کر دس مرتبہ پھر دوسرے سجدے میں دس مرتبہ بھی پڑھے اور چار رکعتیں اسی طرح پڑھے یہ ہر رکعت میں ۵۰ تسبیحات ہوں گی ہر رکعت میں پندرہ مرتبہ سے شروع کرے۔ پھر قرأت کرے اور دس مرتبہ تسبیح کرے۔ اور اگر نماز شب پڑھ رہا ہو تو میرے نزدیک دو رکعتوں پر سلام پھیرنا بہتر ہے۔ اگر دن میں پڑھ رہا ہو تو اگر چاہے تو دو رکعت پر سلام پھیرے اور چاہے تو آخر میں سلام پھیرے (یعنی چار رکعات پڑھ کر) ابو وہب کہتے ہیں مجھے عبد العزیز (یہ ابن ابی رزمہ ہیں) نے عبد اللہ کے متعلق کہا کہ ان کا کہنا ہے: وہ رکوع میں پہلے تین مرتبہ ”سبحان ربی العظیم“ اور سجدے میں پہلے ”سبحان ربی الاعلیٰ“ تین مرتبہ پڑھے اور پھر یہ تسبیحات پڑھے ”احمد بن عبدہ وہب بن زمرہ سے اور وہ عبد العزیز (ابن ابی رزمہ) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عبد اللہ بن مبارک سے کہا: اگر اس نماز میں بھول جائے تو کیا سجدہ سہو کے دونوں سجدوں میں بھی دس دس مرتبہ تسبیحات پڑھے؟ فرمایا: نہیں یہ تین سو تسبیحات ہی ہیں۔

باب ۲۴۵۔ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ

باب ۳۳۵۔ نبی اکرم ﷺ پر کس طرح درود بھیجا جائے۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

۴۲۰۔ کتب بن حجر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم نے آپ پر سلام بھیجا تو جان لیا۔ آپ پر درود کس طرح بھیجیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: کہو: اللہم صل علی محمد سے انک حمید مجید تک (یعنی دوسرے حمید مجید تک) کہتے ہیں کہ ابو اسامہ نے اعمش کے حوالے سے، انہوں نے حکم

۴۲۰۔ حدثنا محمد بن غيلان قال حدثني ابواسامة عن مسعر والا جلع ومالك بن مغول عن الحكم ابن عتيبة عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة قال قلت يا رسول الله هل لنا السلام عليك قد علمنا فكيف الصلوة عليك قال قولوا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ  
عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ  
وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ  
حَمِيدٌ مُجِيدٌ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ أَبُو أُسَامَةَ وَذَا ذَنْبِي  
زَالِدَةٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ  
أَبِي لَيْلَى قَالَ وَنَحْنُ نَقُولُ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ

سے انہوں نے عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ سے کہا کہ ہم درود  
میں "وعلینا معهم" یعنی ہم پر بھی ان کے ساتھ (درود بھیج) کے  
الفاظ بھی کہتے ہیں۔ (یعنی یہ زیادہ بیان کیا ہے)

(درود کا ترجمہ: اے اللہ محمد ﷺ پر اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی ہے  
شک تو بزرگ و بڑا ہے۔ اے اللہ محمد ﷺ پر برکت نازل فرما جیسے کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی ہے شک تو بزرگی والا  
اور بڑا ہے۔) اس باب میں علیؑ، ابو سعیدؓ، طلحہؓ، زید بن خالد اور ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے۔ زید بن خالد کو ابن حارثہ بھی  
کہتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں کعب بن عجرہ کی حدیث حسن صحیح ہے اور عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کی کنیت ابو لیلیٰ اور ابو لیلیٰ کا نام بڑا ہے۔  
باب ۳۴۶۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

۴۲۱۔ حدثنا محمد بن بشار نا محمد بن خالد بن  
عشمة قال ثنا موسى بن يعقوب الرمعي حدثني عبدالله  
بن كيسان ان عبدالله بن شناد أخبره عن عبدالله بن  
مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال  
أولئ الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلوة

۳۴۱۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:  
قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو  
مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجتے ہیں۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے آپ ﷺ سے مروی ہے کہ فرمایا: جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس  
مرتبہ درود بھیجتے اور اس کے حصے میں دس نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔

۴۲۲۔ حدثنا علي بن حجر نا اسمعيل بن جعفر  
عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة  
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من  
صلى علي صلوة صلى الله عليه عشرًا

۳۴۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو مجھ پر  
ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔

اس باب میں عبدالرحمن بن عوفؓ، عامر بن ربیعہؓ، عمارہؓ، ابو طلحہؓ، انسؓ اور ابی بن کعبؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں  
حدیث ابو ہریرہؓ حسن صحیح ہے۔ سفیان ثوری اور کئی علماء سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا رحمت بھیجنا اور ملائکہ کا درود بھیجنا یعنی استغفار  
کرتا ہے۔

۴۲۳۔ حدثنا ابو داود سليمان بن مسلم ثلثي

۳۴۳۔ حضرت عمر بن خطابؓ فرماتے ہیں کہ دعا آسمان اور زمین کے

درمیان اس وقت تک رکی رکتی ہے جب تک تم رسول اللہ ﷺ پر درود نہ بھیجو۔

المصاحفی نا النضر بن شعیب عن ابی قرۃ الاسدی عن سعید بن المسیب عن عمرو بن الخطاب قال ان الدعاء موقوف بین السماء والأرض لا یصعد منه شیء حتی نصلی علی نبيک صلی اللہ علیہ وسلم

امام ترمذی کہتے ہیں: علماء بن عبد الرحمن، یعقوب کے بیٹے اور حرقہ کے مولیٰ ہیں اور علماء تابعین میں سے ہیں انہوں نے انس بن مالک سے احادیث سنی ہیں جب کہ عبد الرحمن، یعقوب یعنی علماء کے والد بھی تابعی ہیں انہوں نے ابو ہریرہؓ اور ابو سعید خدریؓ سے احادیث سنی ہیں۔ اور یعقوب کبار تابعین میں سے ہیں۔ عمر بن خطابؓ سے بھی ملاقات کی اور ان سے روایت بھی کرتے ہیں۔

۴۲۳۔ عباس بن عبد العظیم خزرجی، عبد الرحمن بن مہدی سے وہ مالک بن انس سے وہ علماء بن عبد الرحمن بن یعقوب سے وہ اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ عمر بن خطابؓ نے فرمایا: ہمارے بازار میں کوئی شخص اس وقت تک خرید و فروخت نہ کرے جب تک دین میں خوب سمجھ بوجھ نہ حاصل کر لے۔

۴۲۴۔ حدثنا عباس بن عبد العظیم الخزرجی ثنا عبد الرحمن بن مہدی عن مالک بن انس عن العلاء بن عبد الرحمن بن یعقوب عن ابیہ عن جده قال عمر بن الخطاب لا یبع فی سوقنا الا من تفقه فی الدین

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

## جمعہ کے متعلق ابواب

## أَبْوَابُ الْجُمُعَةِ

باب ۳۲۷۔ جمعہ کے دن کی فضیلت

باب ۳۲۷۔ فَضْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

۳۲۵۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سورج نکلنے والے دنوں میں بہترین دن مجھے کا دن ہے۔ اسی دن آدمؑ پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن اس سے نکالے گئے اور قیامت بھی جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی۔

۴۲۵۔ حدثنا قتيبة نا المغيرة بن عبد الرحمن عن ابی الزناد عن الأعرج عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعة فیہ خلق ادم و فیہ اُدخِل الجنة و فیہ اُخرج منها ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعة

اس باب میں ابویابہؓ، سلیمانؓ، ابو ذرؓ، سعید بن عبادہ اور اس سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ابو ہریرہؓ حسن صحیح ہے۔

باب ۳۲۸۔ جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی۔

باب ۳۲۸۔ فی الساعة التي ترحل یوم الجمعة

۳۲۶۔ حضرت انس بن مالکؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: وہ مبارک گھڑی تلاش کرو جس کی جھنجھ کے دن عصر اور شرب کے درمیان طے کی امید ہے۔

۴۲۶۔ حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمی البصری نا عبد الله بن عبد المجید الحنفی نا محمد بن ابی حمید نا موسی بن وردان عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ

وَسَلَّمَ قَالَ التَّمَسُّوا السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى فِي يَوْمِ  
الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث اس سند سے غریب ہے اور اس سند کے علاوہ بھی حضرت انسؓ سے مروی ہے۔ وہ حضور اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ محمد بن حمید ضعیف ہیں انہیں بعض علماء نے حافظے میں ضعیف کہا ہے۔ انہیں حماد بن ابو حمید کہا جاتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابوالبرہیم انصاری یہی ہیں جو منکر الحدیث ہیں۔ بعض صحابہ وغیرہ کہتے ہیں کہ وہ گھڑی عصر سے غروب آفتاب تک ہے (یعنی قبولیت کی) یہ احمد اور اسحاق کا قول ہے امام احمد کہتے ہیں اکثر احادیث میں یہی ہے کہ وہ گھڑی جس میں قبولیت کی امید ہے وہ عصر کی نماز کے بعد سے یہ بھی امید ہے کہ زوال آفتاب کے بعد ہو۔

۴۲۷۔ حدثنا زياد بن أيوب البغدادي حَدَّثَنَا  
أَبُو عَامِرٍ الْعُقَيْدِيُّ نَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ  
عَوْفِ الْمُرْزَبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يَسْأَلُ  
اللَّهُ الْعَبْدَ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ قَالُوا يَا رَسُولَ  
اللَّهِ آيَةُ سَاعَةٍ هِيَ قَالَ جِئِن تَقَامُ الصَّلَاةُ إِلَى  
انْصِرَافِ مَنَافِئِهَا

۴۲۷۔ حدثنا زياد بن أيوب البغدادي حَدَّثَنَا  
أَبُو عَامِرٍ الْعُقَيْدِيُّ نَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ  
عَوْفِ الْمُرْزَبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يَسْأَلُ  
اللَّهُ الْعَبْدَ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ قَالُوا يَا رَسُولَ  
اللَّهِ آيَةُ سَاعَةٍ هِيَ قَالَ جِئِن تَقَامُ الصَّلَاةُ إِلَى  
انْصِرَافِ مَنَافِئِهَا

اس باب میں ابوموسیٰؓ، ابو ذرؓ، سلمانؓ، عبد اللہ بن سلامؓ، ابولبابہؓ اور سعد بن عبادہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں عمرو بن عوف کی حدیث حسن غریب ہے۔

۴۲۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دنوں میں بہترین دن جمعے کا دن ہے اس دن آدم پیدا ہوئے۔ اسی دن جنت میں داخل ہوئے، اسی دن نکالے گئے۔ اس میں ایک وقت ایسا ہے کہ اگر اس میں مسلمان بندہ نماز پڑھتا اور اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور وہ چیز عطا کرتے ہیں۔ ابو ہریرہؓ کہتے ہیں میں نے عبد اللہ بن سلام سے ملاقات کی تو ان سے اس حدیث کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے فرمایا: میں وہ گھڑی جانتا ہوں۔ میں نے کہا پھر مجھے بتائیے اور نکل سے کام نہ لیجئے۔ انہوں نے کہا: عصر سے غروب آفتاب تک۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”جو شخص اس وقت نماز پڑھتا اور اللہ سے سوال کرتا ہے“..... میں نے کہا اس وقت میں تو نماز نہیں پڑھی جاتی اس پر عبد اللہ بن سلام نے کہا: حضور ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو کہیں نماز کے انتظار میں بیٹھے گویا کہ وہ

۴۲۸۔ حدثنا اسحاق بن موسى نا معن  
نا مالك بن انس عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن  
محمد بن ابراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال  
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير يوم  
طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه  
أدخل الجنة وفيه أهبط منها وفيه ساعة لا يوافقها  
عبد مسلم يصلي فيسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه  
إياه قال أبو هريرة فلقيت عبد الله بن سلام فذكرت  
له هذا الحديث فقال أنا أعلم بيلك الساعة فقلت  
أخبرني بها ولا تضنن بها علي قال هي بعد العصر  
إلى أن تغرب الشمس قلت فكيف تكون بعد  
العصر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله

نماز میں ہے۔ میں نے کہا ہاں فرمایا ہے انہوں نے کہا یہ بھی اسی طرح ہے اور حدیث میں طویل قصہ ہے۔

وَسَلَّمَ لَا يُؤَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّيُ وَقَلَّتْ  
السَّاعَةُ لَا يُصَلِّيُ فِيهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ الْكَلْبِيُّ  
قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ  
جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ قُلْتُ  
بَلَى قَالَ فَهُوَ ذَاكَ وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ طَوِيلَةٌ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ اور 'اخبرنی بہا ولا تضنن بہا علی' کے معنی یہ ہیں کہ اس میں میرے ساتھ بخل نہ کرو۔ الضنن بخل کو اور 'الظنن' اسے کہتے ہیں جس پر تہمت لگائی جائے۔

باب ۳۴۹۔ مَا جَاءَ فِي الْإِعْتِسَالِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

باب ۳۴۹۔ جمعے کے دن غسل کرنا۔

۴۲۹۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا سَفِيَانَ بْنَ عَيْنَةَ عَنْ  
الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ آتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ

۴۲۹۔ سالم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور اکرم ﷺ سے سنا کہ جو شخص جمعہ کی نماز کے لیے آئے اسے غسل کرنا چاہیے۔

اس باب میں ابوسعیدؓ، جابرؓ، عمرؓ، براءؓ، عائشہؓ اور ابودرداءؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں۔ ابن عمرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ زہری سے بھی یہ حدیث مروی ہے وہ عبداللہ بن عمر سے وہ اپنے والد سے اور وہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ ہم سے قتیبہ نے ان سے لیث بن سعد نے ان سے ابن شہاب نے ان سے عبداللہ بن عمر نے ان سے عبداللہ بن عمر نے اور عبداللہ بن عمر نے حضور اکرم ﷺ سے اسی کے مثل روایت کی ہے امام بخاری کہتے ہیں: زہری کی سالم سے مروی حدیث جس میں وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ اور عبداللہ بن عمر کی ان کے والد سے روایت۔ دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ زہری کے بعض دوست زہری سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن عمر کی اولاد میں سے کسی نے ابن عمر کے حوالے سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ عمر بن خطابؓ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک صحابی داخل ہوئے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا یہ کون سا وقت ہے؟ (یعنی آنے کا) انہوں نے کہا: میں نے اذان سنی اور صرف وضو کیا زیادہ دیر تو نہیں لگائی۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: یہ بھی کہ غسل کی جگہ وضو کیا (یعنی دیر بھی کی اور غسل بھی نہیں کیا) جب کہ تم جانتے ہو کہ رسول اللہ ﷺ نے غسل کا حکم دیا۔ ہم سے یہ حدیث محمد بن ابان نے عبدالرزاق کے حوالے سے بیان کی ہے وہ معمر سے اور وہ زہری سے روایت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عبدالرحمن نے بھی عبداللہ بن صالح سے انہوں نے لیث سے انہوں نے یونس سے اور انہوں نے زہری سے یہ حدیث روایت کی ہے اور مالک اس حدیث کو زہری سے اور وہ سالم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا۔ عمرؓ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے..... اور حدیث ذکر کی۔ امام ترمذی کہتے ہیں میں نے بخاری سے اس کے متعلق پوچھا تو کہا: زہری کی سالم سے اور ان کی اپنے والد سے روایت صحیح ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مالک سے بھی اسی کے مثل حدیث مروی ہے وہ زہری سے وہ سالم سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔

باب ۳۵۰۔ فِي فَضْلِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

باب ۳۵۰۔ جمعے کے دن غسل کرنے کی فضیلت

۴۳۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ نَا وَكَيْعٌ عَنْ  
سَفِيَانَ وَابُو حَبَابٍ يَحْيَى بْنُ أَبِي حَيَّةٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ  
بْنِ عَيْسَى عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ

۴۳۰۔ حضرت اوس بن اوسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے جمعے کے دن غسل کیا، غسل کروایا، اور مسجد جلدی گیا، امام کا ابتدائی خطبہ پایا، امام کے نزدیک ہوا اور خطبے کو سنا اور اس دوران

خاموش رہا تو اس کو ہر ہر قدم پر ایک سال تک روزے رکھنے اور تہجد پڑھنے کا اجر دیا جاتا ہے۔ محمود اس حدیث میں کہتے ہیں کہ وکیع نے کہا: اس نے غسل کیا اور اپنی بیوی کو غسل کروایا۔ ابن مبارک سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا: جس نے اپنے سر کو دھویا اور غسل کیا۔

الصَّنْعَانِي عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَلَ وَبَكَرَ وَابْتَكَّرَ وَذَنَاوَا اسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا آجُرٌ سَنَةِ صِيَامَهَا وَفِيَامَهَا قَالَ مَحْمُودٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ وَكَيْفُ اغْتَسَلَ هُوَ وَغَسَلَ امْرَأَتَهُ وَيُرَوَّى عَنِ ابْنِ الْمُبَارِكِ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ وَاغْتَسَلَ

اس باب میں ابوبکرؓ، عمران بن حصینؓ، ابو ذرؓ، سلمانؓ، ابوسعیدؓ، ابن عمرؓ اور ابویوبؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں: اوس بن

اوسؓ کی حدیث حسن ہے۔ ابوالاشعث کا نام شرمیل بن آدہ ہے۔

باب ۳۵۱۔ جمعہ کے دن وضو کے بیان میں

باب ۳۵۱۔ فِي الْوُضُوءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

۴۳۱۔ حضرت سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے جمعہ کے دن وضو کیا اس نے بہتر کیا اور جس نے غسل کیا تو غسل زیادہ افضل ہے۔

۴۳۱۔ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَاسِعِدُ بْنُ سَفِيَانَ الْجَحْدَرِيُّ نَاسِعِبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهَا وَنِعِمَّتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ

اس باب میں ابو ہریرہؓ، انسؓ اور حضرت عائشہؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں سمرہؓ کی حدیث حسن ہے۔ حضرت قتادہؓ کے بعض ساتھی اسے قتادہ سے وہ حسن سے اور وہ سمرہ سے روایت کرتے ہیں۔ بعض حضرات نے اسے قتادہ سے، انہوں نے حسن سے اور انہوں نے آنحضرت ﷺ سے مرسل روایت کیا ہے۔ علماء صحابہ اور ان کے بعد کے اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ جمعہ کے دن غسل کیا جائے۔ ان کے نزدیک جمعہ کے دن غسل کی جگہ وضو بھی کیا جاسکتا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اس کی دلیل حضرت عمرؓ کا عثمانؓ کو یہ کہنا ہے کہ: وضو بھی کافی ہے تمہیں معلوم ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کا غسل کا حکم وجوب کے لیے ہے تو حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ سے کہتے: جاؤ اور غسل کرو۔ پھر یہ حضرت عثمانؓ سے چھپا ہوا نہ ہوتا کیوں کہ وہ یہ حکم جانتے تھے لیکن اس حدیث میں اس بات پر دلالت ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا افضل ہے نہ کہ واجب۔

۴۳۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر جمعہ کے لیے آیا اور امام سے نزدیک ہو کر بیٹھا، پھر خطبہ سنا اور اس دوران خاموش رہا تو اس مجمعے اور دوسرے مجمعے کے درمیان ہونے والے اس کے گناہ بخش دیئے گئے اور مزید تین دن کے گناہ بھی بخش دیئے گئے لیکن جو نکلریوں سے کھیلتا رہا اس نے لغو کام کیا (اس کے لیے یہ اجر نہیں ہے)

۴۳۲۔ حَدَّثَنَا هِنَادُنَا أَبُو معاوية عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءِ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَدَنَنِي وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحِطَى فَقَدْ لَعْنَا

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۳۵۲۔ مَا جَاءَ فِي التَّبَكُّيرِ إِلَى الْجُمُعَةِ

۴۳۳۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ نَامِعُنَ مَالِكٍ عَنْ سَمِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَانَ مِمَّا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَانَ مِمَّا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّلَاثَةِ فَكَانَ مِمَّا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَبَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَانَ مِمَّا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَانَ مِمَّا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ

باب ۳۵۲۔ جمعہ کے لیے جلدی جانا۔

۴۳۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کیا اور اول وقت میں مسجد گیا۔ گویا کہ اس نے اونٹ کی قربانی پیش کی پھر جو شخص دوسری گھڑی میں گیا گویا کہ اس نے گائے کی قربانی پیش کی، جو تیسری گھڑی میں گیا گویا کہ اس نے سینگ والے دنبے کی قربانی پیش کی، پھر جو چوتھی گھڑی میں گیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کی راہ میں مرنی ذبح کی اور جو پانچویں گھڑی میں گیا وہ اس طرح ہے جیسے کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک اٹھہ خرچ کیا۔ اور جب امام خطبہ پڑھنے کے لیے آجاتا ہے تو فرشتے خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔

اس باب میں عبداللہ بن عمروؓ اور سرہ بن جنذبؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۳۵۳۔ بغير عذر کے جمعہ کا ترک کرنا

باب ۳۵۳۔ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ مِنْ غَيْرِ عُدْرٍ

۴۳۴۔ حضرت عبیدہ بن سفیان، ابو جعد (یعنی الضمری جو محمد بن عمر کے قول کے مطابق صحابی بھی ہیں) سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص سستی کی وجہ سے تین جمعے نہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔

۴۳۴۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ نَاعِيسِي بْنُ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الْجَعْدِ يُعْنِي الضَّمْرِيَّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ فِيمَا زَعَمَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ نَهَا وَنَا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ

اس باب میں ابن عمروؓ، ابن عباسؓ اور سرہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو جعد کی حدیث حسن ہے میں نے امام بخاری سے ابو جعد ضمری کا نام پوچھا تو انہیں نہیں معلوم تھا انہوں نے کہا: میں ان کی حضور اکرم ﷺ سے صرف یہی روایت جانتا ہوں۔ امام ترمذی کہتے ہیں اس حدیث کو ہم محمد بن عمرو کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے۔

باب ۳۵۴۔ کتنی دور سے جمعہ میں شرکت کے لیے آنا واجب ہے۔

باب ۳۵۴۔ مَا جَاءَ مِنْ كَمْ يُؤْتَى إِلَى الْجُمُعَةِ

۴۳۵۔ ثور، اہل قبا میں سے ایک شخص اور وہ اپنے والد سے (جو صحابی ہیں) نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: حضور اکرم ﷺ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم قبا سے جمعہ کے لیے حاضر ہوں۔

۴۳۵۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَدْوِيَةَ قَالَا ثنا الفضل بن دكين نا اسرائيل عن ثوير عن رجل من اهل قبا عن ابيه وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال امر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان نشهد الجمعة من قبا

امام ترمذی کہتے ہیں ہم اس حدیث کو اس سند کے علاوہ نہیں جانتے۔ اس باب میں آنحضرت ﷺ سے مروی احادیث میں سے کوئی بھی صحیح نہیں آپ ﷺ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جمعہ اس پر واجب ہے جو رات تک اپنے گھر واپس پہنچ سکے (یعنی جمعہ پڑھنے کے بعد) اس حدیث کی سند ضعیف ہے یہ معارک بن عباد کی عبداللہ بن سعید مقبری سے روایت ہے اور یحییٰ بن سعید قطان، عبداللہ بن سعید مقبری کو ضعیف کہتے ہیں۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ جمعہ کس پر واجب ہے۔ چنانچہ بعض علماء کہتے ہیں جو اس کے لیے ضروری ہے جو نماز پڑھ کر رات سے پہلے پہلے گھر پہنچ جائے۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ اس پر واجب ہے جو اذان سنے۔ یہ شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے۔ میں نے احمد بن حسن سے سنا کہ ہم احمد بن حنبل کے پاس بیٹھے ہوئے تھے یہی مسئلہ چھڑا کہ جمعہ کس پر واجب ہے لیکن امام احمد نے اس سے متعلق آنحضرت ﷺ سے کوئی حدیث بیان نہیں کی۔ احمد بن حسن کہتے ہیں میں نے امام احمد بن حنبل سے کہا کہ اس مسئلے میں حضرت ابو ہریرہؓ سے حدیث مروی ہے۔ امام احمد نے پوچھا: حضور اکرم ﷺ سے؟ میں نے کہا: ہاں۔

۴۳۶۔ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ نَصِيرٍ نَنَا مُعَارِكُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُمُعَةُ عَلَيَّ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ إِلَى أَهْلِهِ

۴۳۶۔ حجاج بن نصیر، معارک بن عباد سے وہ عبداللہ بن سعید مقبری سے وہ اپنے والد سے اور وہ ابو ہریرہؓ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جمعہ اس پر واجب ہے جو رات ہونے سے پہلے اپنے گھر پہنچ جائے۔

احمد بن حسن کہتے ہیں امام احمد یہ سن کر غصہ میں آگئے اور فرمایا: اپنے رب سے استغفار کرو۔ اپنے رب سے استغفار کرو۔ امام احمد نے ایسا اس لیے کیا وہ اسے حدیث نہیں سمجھتے تھے کیونکہ اس کی سند ضعیف ہے۔

مسئلہ: اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ جمعہ شہر میں رہنے والے اور شہر کے مضافات (جہاں تک شہر کی ضروریات پوری ہوتی ہوں) میں رہنے والوں پر واجب ہے۔ (مترجم)

باب ۳۵۵۔ جمعہ کی نماز کا وقت

باب ۳۵۵۔ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ الْجُمُعَةِ

۴۳۷۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جمعہ اس وقت پڑھا کرتے تھے۔ جب سورج ڈھل جاتا تھا۔

۴۳۷۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا سَرِيحُ بْنُ النُّعْمَانِ نَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ

یحییٰ بن موسیٰ، داؤد طیالسی سے وہ فلیح بن سلیمان سے وہ عثمان بن عبدالرحمن تمیمی سے اور وہ حضرت انس سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ اس باب میں سلمہ بن اکوع، جابر اور زبیر بن عوام سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث انس حسن صحیح ہے اور اسی پر اکثر علم کا اجماع ہے کہ جمعہ کا وقت آفتاب کے ڈھل جانے پر ہوتا ہے جیسے کہ ظہر کی نماز کا یہی قول شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز آفتاب کے زوال سے پہلے پڑھ لینا بھی جائز ہے۔ امام احمد کہتے ہیں: جو شخص جمعہ کی نماز زوال سے پہلے پڑھ لے اسے لوٹانا ضروری نہیں۔

باب ۳۵۶۔ منبر پر خطبہ پڑھنا

باب ۳۵۶۔ مَا جَاءَ فِي الْخُطْبَةِ عَلَى الْمَنْبَرِ

۴۳۸۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ تنے کے پاس

۴۳۸۔ حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْغَلَّاسُ نَا

کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے پھر جب آپ ﷺ منبر پر خطبہ دینے لگے تو تارونے لگا۔ یہاں تک کہ آپ ﷺ اس کے پاس آئے اور اسے چمکایا۔ اس طرح وہ چپ ہوا۔

عثمان بن عمرو یحییٰ بن کثیر ابو غسان العنبری قالوا ثنا معاذ بن العلاء عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب الى جذع فلما اتخذ المنبر حن الجذع حتى اتاه فالتزمه فسكن

اس باب میں انسؓ، جابرؓ، سہل بن سعدؓ، ابی بن کعبؓ، ابن عباسؓ اور ام سلمہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عمرؓ کی حدیث حسن غریب صحیح ہے۔ اور معاذ بن علاء بصرہ کے رہنے والے ہیں جو ابو عمرو بن علاء کے بھائی ہیں۔

باب ۳۵۷۔ دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنا

باب ۳۵۷۔ مَا جَاءَ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ

۴۳۹۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جمعہ کے دن خطبہ دیتے پھر بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہوتے اور خطبہ دیتے جیسے لوگ آج کل کرتے تھے۔

۴۳۹۔ حدثنا حميد بن مسعدة البصرى نا خالد بن الحارث نا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب يوم الجمعة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قال مثل ما يفعلون اليوم

اس باب میں ابن عباسؓ، جابر بن عبد اللہ اور جابر بن سرہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عمرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھ کر ان کے درمیان فصل کر دے۔

باب ۳۵۸۔ خطبہ مختصر پڑھنا

باب ۳۵۸۔ مَا جَاءَ فِي قِصْرِ الْخُطْبَةِ

۴۴۰۔ حضرت جابر بن سرہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا۔ آپ ﷺ کی نماز بھی درمیانی ہوتی اور خطبہ بھی متوسط (یعنی نہ زیادہ طویل اور نہ ہی زیادہ مختصر)

۴۴۰۔ حدثنا قتيبة وهناد قالنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كنت اصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكانت صلواته قصداً وخطبته قصداً

اس باب میں عمار بن یاسرؓ اور ابن ابی ادنی سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں جابر بن سرہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۳۵۹۔ منبر پر قرآن پڑھنا

باب ۳۵۹۔ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ

۴۴۱۔ صفوان بن یعلیٰ بن امیہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انھوں نے آنحضرت ﷺ کو منبر پر یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا: "وَنَادُوا يَا مَالِكُ الْآيَةَ يَا مَالِكُ".....

۴۴۱۔ حدثنا قتيبة نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ على المنبر "وَنَادُوا يَا مَالِكُ الْآيَةَ"

اس باب میں حضرت ابو ہریرہؓ اور جابر بن سرہ سے بھی روایت ہے یعلیٰ بن امیہ کی حدیث حسن غریب صحیح ہے۔ یہ ابن عیینہ کی حدیث ہے۔ علماء کی ایک جماعت اسی پر عمل پیرا ہے کہ خطبے میں قرآن کی آیات پڑھی جائیں۔ امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ اگر امام خطبہ دیتے ہوئے قرآن پاک کی کوئی آیت نہ پڑھے تو خطبہ دوبارہ پڑھے۔

باب ۳۶۰۔ فِی اسْتِقْبَالِ الْاِمَامِ اِذَا حَطَبَ

۴۴۲۔ حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي نا محمد بن الفضل بن عطية عن منصور عن ابراهيم عن عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوهِنَا

باب ۳۶۰۔ خطبہ دیتے وقت امام کی طرف چہرہ رکھنا۔

۴۴۲۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ خطبہ کے لئے منبر پر تشریف لے جاتے تو ہم اپنے چہرے آپ ﷺ کی طرف کر دیتے تھے۔

اس باب میں ابن عمرؓ سے بھی روایت ہے منصور کی حدیث کو، ہم محمد بن فضل بن عطیہ کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے اور محمد بن فضل بن عطیہ ضعیف ہیں۔ ہمارے احباب کے نزدیک یہ ذاہب الحدیث ہیں۔ صحابہ وغیرہ کا اسی پر عمل ہے کہ امام کی طرف چہرہ کرنا مستحب ہے۔ یہ سفیان ثوری، شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں اس باب میں رسول اللہ ﷺ سے مروی کوئی حدیث ثابت نہیں۔

باب ۳۶۱۔ فِی الرَّكْعَتَيْنِ اِذَا جَاءَ الرَّجُلُ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ

۴۴۳۔ حدثنا قتيبة نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يوم الجمعة اذ جاء رجل فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اصليت قال لا قال فقم فاركع

باب ۳۶۱۔ امام کا خطبہ دیتے ہوئے آنے والا شخص دو رکعت پڑھے۔

۴۴۳۔ حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں: ایک مرتبہ حضور اکرم ﷺ جمعہ کے دن خطبہ کے رہتے تھے کہ ایک شخص آیا۔ آپ ﷺ نے اس سے پوچھا: کیا تم نے نماز پڑھی؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اٹھو اور پڑھو۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۴۴۴۔ حدثنا محمد بن ابی عمر نا سفیان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله أبي سرح ان ابا سعيد الخدري دخل يوم الجمعة ومروان يخطب فقام يصلي فجااء الحرس ليجلسوه فابى حتى صلى فلما انصرف اتيناه فقلنا رحمك الله ان كادوا ليقعوا بك فقال ما كنت لاترؤهما بعد شىء رأيت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ذكر ان رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بدة والنبي ﷺ يخطب يوم الجمعة فامرته فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب

۴۴۴۔ حضرت عیاض بن عبد اللہ بن ابوسرح فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسعد خدریؓ جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوئے تو مروان خطبہ دے رہا تھا۔ انھوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اس پر محافظ انھیں بٹھانے کے لئے آئے لیکن آپ نہ مانے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو گئے پھر جب جمعہ کی نماز سے فارغ ہوئے تو ہم ان کے پاس آئے اور کہا: اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے یہ لوگ تو آپ پر ٹوٹ پڑے تھے۔ انہوں نے فرمایا: میں انھیں (دو رکعتوں) رسول اللہ ﷺ سے دیکھ لینے کے بعد کبھی نہ چھوڑتا۔ پھر قصہ ذکر کیا کہ ایک مرتبہ جمعہ کے دن ایک میلا کچلا شخص آیا۔ اس وقت آپ ﷺ خطبہ دے رہے تھے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اسے حکم دیا، اس نے دو رکعتیں پڑھیں اور آپ ﷺ خطبہ دیتے رہے۔

یعنی حدیثوں کو تلاوت دیتے ہیں۔ (مترجم)

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ابن عیینہ اگر امام کے خطبے کے دوران آتے تو دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور اسی کا حکم دیتے تھے۔ ابو عبد الرحمن مقلدی انہیں دیکھ رہے ہوتے۔ امام ترمذی کہتے ہیں میں نے ابن ابی عمر سے سنا کہ ابن عیینہ، محمد بن عجلان کو ثقہ اور مامون بن الحدیث کہتے ہیں۔ اس باب میں جابرؓ، ابو ہریرہؓ اور سہیل بن سعدؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو سعید خدریؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر بعض اہل علم کا عمل ہے۔ شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں: جب امام کے خطبہ دیتے ہوئے داخل ہو تو بیٹھ جائے، نماز نہ پڑھے۔ یہ سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا قول ہے جب کہ پہلا قول اصح ہے۔ قتیبہ، علاء بن خالد قرشی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حسن بصریؓ کو دیکھا کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو امام خطبہ پڑھا رہا تھا۔ انہوں نے دو رکعتیں پڑھیں اور پھر بیٹھے۔ یعنی انہوں نے اس میں اسی حدیث پر عمل کیا۔

باب ۳۶۲۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْكَلَامِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ  
باب ۳۶۲۔ امام کے خطبہ دینے کے دوران بات کرنے کی کراہیت۔  
۴۴۵۔ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الْعَلِيِّ بْنِ سَعْدٍ عَنِ عَقِيلِ بْنِ زُهَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَعِنَا  
۴۴۵۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اگر امام خطبہ دے رہا ہو تو اس دوران اگر کسی نے کسی کو صرف اتنا کہا کہ چپ رہو تو بھی اس نے لعوبات کی۔

اس باب میں ابن ابی اوفیٰ اور جابر بن عبد اللہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اسی پر اہل علم کا عمل ہے کہ امام کے خطبے کے دوران بات کرنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی دوسرا بات کرے تو اسے بھی اشارے ہی سے منع کرے۔ لیکن سلام کا جواب دینے اور چھینک کے جواب میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء دونوں کی اجازت دیتے ہیں جن میں احمد اور اسحاق بھی شامل ہیں جب کہ بعض علماء تابعین وغیرہ اسے مکروہ سمجھتے ہیں اور یہی امام شافعی کا بھی قول ہے۔

مسئلہ: حدیث باب ہی سے استدلال کرتے ہوئے۔ امام ابو حنیفہ، مالک اور فقہائے کوفہ یہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دوران کسی قسم کا کلام یا نماز جائز نہیں۔ یعنی یہ حضرات خطبہ کے دوران داخل ہونے والے شخص کے لیے دو رکعت نماز پڑھنا بھی جائز نہیں سمجھتے۔ احناف اپنے مسلک پر دلائل پیش کرتے ہوئے قرآن کریم کی آیت ”وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا“..... (الایۃ) (یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو) بھی پیش کرتے ہیں۔ اس پر بحث پیچھے بھی گزر چکی ہے اتنا ہی کافی ہے کہ خطبہ جمعہ بھی اس حکم میں شامل ہے گویا کہ اس کا سبب نزول نماز ہی کے بارے میں ہے لیکن اس کے عموم میں خطبہ بھی شامل ہے۔

جہاں تک باب ۳۶۱ حدیث ۲۲۳۳ کا تعلق ہے درحقیقت اس واقعہ کے علاوہ آنحضرت ﷺ سے کہیں یہ ثابت نہیں کہ آپ ﷺ نے خطبہ کے دوران آنے والے کسی شخص کو نماز پڑھنے کے لیے فرمایا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعہ بھی خطبہ سے پہلے کا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف فرما تھے کہ ایک صاحب جن کا نام سلیم بن بدبہ عطفانی تھا داخل ہوئے۔ وہ انتہائی بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ان کے فقر و فاقہ کی کیفیت دیکھ کر آنحضرت ﷺ نے مناسب سمجھا کہ تمام صحابہ ان کی حالت سے اچھی طرح واقف ہو جائیں۔ اس لیے انہیں کھڑا کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اور جنہی دیوہ نماز پڑھتے رہے آپ ﷺ خاموش رہے۔ خطبہ شروع نہیں فرمایا بعد میں آپ ﷺ نے صحابہ کرام کو ان پر صدقہ کرنے کی ترغیب بھی کی جس پر صحابہ کرام نے انہیں خوب صدقہ دیا۔ اس سے واضح ہوا کہ یہ ایک خاص واقعہ ہے جسے قواعد کلیہ کے خلاف پیش نہیں کیا جاسکتا۔ اس کی تائید صحیح مسلم کی ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں

کہ ”جاء سلیک العطفانی یوم الجمعة و رسول اللہ ﷺ اقاعد علی المنبر“ یعنی جمعہ کے دن سلیک عطفانی آئے تو آنحضرت ﷺ خطبہ دینے کے لئے منبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ بات معروف ہے کہ آپ ﷺ خطبہ ہمیشہ کھڑے ہو کر دیا کرتے تھے۔ لہذا بیٹھنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ ﷺ نے ابھی خطبہ شروع نہیں فرمایا تھا۔

پھر اس روایت سے تحیۃ المسجد پر استدلال بھی مشکل ہے اس لیے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کھڑے ہو اور دو رکعت نماز پڑھو۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ سلیک بیٹھ چکے تھے لہذا بیٹھنے کے بعد تحیۃ المسجد فوت ہوگئی۔

جہاں تک احناف کے مسلک کا تعلق ہے اسے آثار صحابہ کی بھی تائید حاصل ہے چنانچہ علامہ نووی کے مطابق حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کا بھی یہی مسلک تھا۔

حاصل یہ ہوا کہ یہ ایک مخصوص واقعہ تھا جس سے ہمیشہ خطبہ کے دوران تحیۃ المسجد کا حکم مستحب کرنا غلط ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۳۶۳۔ فِی کَرَاهِيَةِ التَّخَطُّبِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ  
 ۴۴۶۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ نَا رَشِيدُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَبَانَ بْنِ فَايِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسِ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اتَّخَذَ جَسْرًا إِلَىٰ جَهَنَّمَ

باب ۳۶۳۔ جمعہ کے دن لوگوں کو پھلانگ کر آگے جانے کی کراہت  
 ۴۴۶۔ سہل بن معاذ بن انس جہنی اپنے والد نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص جمعہ کے دن گردنیں پھلانگ کر آگے جاتا ہے اسے جہنم پر جانے کے لیے پل بنایا جائے گا۔

اس باب میں جابرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں سہل بن معاذ بن انس جہنی کی حدیث غریب ہے ہم اسے رشدین بن سعد کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے اور اسی پر علماء کا عمل ہے کہ جمعہ کے دن گردنیں پھلانگ کر آگے جانا مکروہ ہے چنانچہ علماء نے اس مسئلہ میں شدت کا موقف اختیار کیا ہے۔ بعض علماء رشدین بن سعد کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔

باب ۳۶۴۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْإِحْتِبَاءِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ  
 ۴۴۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيدٍ الرَّازِيُّ وَالْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ قَالَا نَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَقْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مَرْحُومٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنِ الْحَبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

باب ۳۶۴۔ امام کے خطبہ دینے کے دوران احتباء مکروہ ہے۔ (۱)

۴۴۷۔ سہل بن معاذ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، کہ آنحضرت ﷺ نے جمعہ کے دن امام کے خطبے کے دوران حبوہ سے منع فرمایا۔ (۲)

(۱) احتباء دونوں گھٹنوں کو پیٹ کے ساتھ ملا کر اوپر کی طرف کرنا اور کولہوں پر بیٹھ کر کمر اور ٹانگوں کو کسی کپڑے سے باندھ دینا یا دونوں ہاتھوں سے پکڑ لینا اور اگر اس طرح بیٹھ کر دونوں ہاتھ زمین پر رکھے تو یہ اتعاء ہے جس کی تفسیر پیچھے گزر چکی ہے۔ (مترجم)

(۲) حبوہ احتباء ہی کو کہتے ہیں۔ (مترجم)

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے اور ابو مرحوم کا نام عبدالرحیم بن میمون ہے۔ علماء کی ایک جماعت جمعہ کے خطبے کے دوران نبوہ کو مکروہ کہتی ہے جب کہ بعض حضرات جیسے کہ عبداللہ بن عمر وغیرہ اس طرح بیٹھنے کو جائز کہتے ہیں یہی امام احمد اور اسحاق کا بھی قول ہے کہ خطبے کے دوران اس طرح بیٹھنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

باب ۳۶۵۔ منبر پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مکروہ ہے۔  
۴۴۸۔ احمد بن منیع، مسلم سے اور وہ حصین سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے عمارہ بن رویہ سے بشر بن مروان کے خطبے دیتے وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے پر یہ سنا کہ: اللہ تعالیٰ ان دونوں چھوٹے اور نکلے ہاتھوں کو خراب کرے۔ بے شک میں نے رسول اللہ ﷺ کو اس سے زیادہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا اور ہشیم نے اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا۔

باب ۳۶۵۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ رَفْعِ الْأَيْدِي عَلَى الْمَنْبَرِ  
۴۴۸۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَاهَشْتِمُ نَا حُصَيْنَ  
قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ رُوَيْبَةَ وَبَشَرَ بْنَ مَرْوَانَ  
يَحْطَبُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ فَقَالَ عُمَارَةُ قَبَّحَ اللَّهُ  
مَنْفَاتِيْنِ الْيَدَيْتَيْنِ الْقُصَيْرَتَيْنِ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَزِيدُ عَلَيَّ أَنْ يَقُولَ  
بِهَذَا وَأَشَارَ هَشِيمٌ بِالسَّبَابَةِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۳۶۶۔ جمعہ کی اذان

۴۴۹۔ حضرت سائب بن یزید فرماتے ہیں حضور اکرم ﷺ، ابو بکرؓ اور عمرؓ کے زمانے میں (جمعہ کی) اذان امام کے نکلنے پر ہوا کرتی تھی پھر نماز کی اقامت ہوتی اس کے بعد حضرت عثمانؓ نے زوراء (مدینہ کے بازار میں ایک دیوار ہے جس پر کھڑے ہو کر مؤذن اذان دیتے تھے۔ مترجم) پر تیسری اذان زیادہ کی۔ (یعنی بشمول تکبیر کے)۔

باب ۳۶۶۔ مَا جَاءَ فِي أَذَانِ الْجُمُعَةِ  
۴۴۹۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا حَمَادُ بْنُ خَالِدٍ  
أَحْيَاظُ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَثْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ  
بْنِ يَزِيدٍ قَالَ كَانَ الْأَذَانُ عَلَيَّ عَهْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ إِذَا خَرَجَ  
الْإِمَامُ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ زَادَ الْإِدَاءَ  
الثَّلَاثَ عَلَى الزُّورَاءِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۳۶۷۔ امام کے منبر سے اترنے کے بعد بات کرنا۔

۴۵۰۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ منبر سے اترتے تو بوقت ضرورت بات کر لیتے تھے۔

باب ۳۶۷۔ مَا جَاءَ فِي الْكَلَامِ بَعْدَ نَزْوِلِ الْإِمَامِ مِنَ الْمَنْبَرِ  
۴۵۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا ابُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ  
نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ  
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُ بِالْحَاجَةِ  
إِذَا نَزَلَ مِنَ الْمَنْبَرِ

امام ترمذی کہتے ہیں: اس حدیث کو ہم جریر بن حازم کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے ہیں نے امام بخاری سے سنا کہ جریر بن حازم کو اس حدیث میں وہم ہو گیا ہے اور صحیح ثابت کی حضرت انسؓ سے مروی حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا: (ایک مرتبہ) اقامت کہی جانے کے بعد ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کو ہاتھ سے پکڑ لیا اور باتیں کرنے لگا یہاں تک کہ بعض لوگ اونگھنے لگے۔ بخاری کہنے لگے۔ حدیث تو یہ ہے۔ جب کہ جریر بن حازم کبھی کبھی وہم کر جاتے ہیں۔ اگرچہ وہ صدوق ہیں مزید کہتے ہیں کہ انہیں ثابت کی انسؓ سے مروی اس

حدیث میں بھی وہم ہوا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جب اقامت ہو جائے تو اس وقت نہ کھڑے ہو جب تک مجھے دیکھ نہ لو، امام بخاری فرماتے ہیں کہ حماد بن زید سے مروی ہے کہ وہ ثابت بنانی کے پاس تھے تو حجاج صواف نے یحییٰ بن ابوکثیر سے انہوں نے عبداللہ بن قتادہ سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے آنحضرت ﷺ سے روایت بیان کی کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب نماز کی تکبیر ہو تو نماز کے لیے اس وقت تک کھڑے نہ ہو جب تک مجھے دیکھ نہ لو“ اس پر جریر وہم میں مبتلا ہو گئے انہیں یہ گمان ہوا کہ یہ حدیث ثابت نے انس سے اور انہوں نے حضور اکرم ﷺ سے روایت کی ہے۔

۴۵۱۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کی اقامت ہو جانے کے بعد حضور اکرم ﷺ کو دیکھا کہ ایک شخص آپ ﷺ سے باتیں کر رہا تھا اور قبلے اور آپ ﷺ کے درمیان کھڑا تھا۔ وہ باتیں کرتا رہا۔ یہاں تک کہ میں نے بعض حضرات کو آنحضرت ﷺ کے کافی دیر تک کھڑے رہنے کی وجہ سے اونگھتے ہوئے دیکھا۔

۴۵۱۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَلِ نَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا تَقَامُ الصَّلَاةُ يُكَلِّمُهُ الرَّجُلُ يَقُومُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَمَا زَالَ يُكَلِّمُهُ وَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ يَنْعَسُ مِنْ طُولِ قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

باب ۳۶۸۔ جمع کی نماز میں قرأت

باب ۳۶۸۔ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

۴۵۲۔ حضرت عبید اللہ بن ابی رافع (آنحضرت ﷺ کے مولیٰ) فرماتے ہیں کہ مروان، حضرت ابو ہریرہؓ کو مدینہ میں اپنا جانشین نامزد کر کے مکہ چلا گیا حضرت ابو ہریرہؓ نے ہمیں جمعہ کی نماز پڑھائی اور پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری میں سورہ منافقون پڑھی عبید اللہ کہتے ہیں میں نے ابو ہریرہؓ سے ملاقات پر کہا کہ آپ ﷺ نے یہ دو سورتیں اس لیے پڑھیں کہ حضرت علیؓ کو فہم میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ دونوں سورتیں پڑھتے ہوئے سنا ہے۔

۴۵۲۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتَحْلَفْتُ مَرْوَانَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ وَخَرَجَ إِلَيَّ مَكَّةَ فَصَلَّى بِنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ فَقَرَأَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَفِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَأَذْرَكْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ تَقْرَأُ سُورَتَيْنِ كَانَ عَلِيٌّ يَقْرَأُ هُمَا بِالْكُوفَةِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهِمَا

اس باب میں ابن عباسؓ، نعمان بن بشیرؓ اور ابو عبیدہ خولانی سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ آپ ﷺ سے یہ بھی مروی ہے کہ جمعہ کی نماز میں سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھا کرتے تھے۔

باب ۳۶۹۔ مَا جَاءَ مَا يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

باب ۳۶۹۔ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں کیا پڑھا جائے؟

۴۵۳۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ (الم تنزیل.....) اور سورہ ہر (اہل اتی علی الانسان) پڑھا کرتے تھے۔

۴۵۳۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا شَرِيكَ عَنْ مَخُولِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطْنِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ الْمَ تَنْزِيلُ

السَّجْدَةَ وَ هَلْ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ

اس باب میں سعد، ابن مسعود اور ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت ابن عباسؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسے سفیان ثوری اور کئی حضرات نے محمول سے روایت کیا ہے۔

باب ۳۷۰۔ فی الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَ بَعْدَهَا

باب ۳۷۰۔ جمعہ سے پہلے اور بعد کی نماز

۴۵۴۔ حدثنا ابن عمر نا سفیان بن عیینة عن عمرو بن دینار عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ

۴۵۴۔ سالم اپنے والد سے اور وہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ جمعہ کے بعد دو رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔

الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ

اس باب میں جابرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عمرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور ابن عمرؓ سے بواسطہ نافع بھی مروی ہے۔ اس پر بعض علماء کا عمل ہے اور یہی امام شافعی اور امام احمد کا قول ہے۔

۴۵۵۔ حدثنا قتيبة نا الليث عن نافع عن ابن عمر

۴۵۵۔ نافع ابن عمرؓ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے نماز جمعہ پڑھنے کے بعد گھر میں دو رکعتیں پڑھیں اور پھر فرمایا: حضور اکرم ﷺ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ أَنْصَرَفَ فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۴۵۶۔ حدثنا ابن عمر ثنا سفیان بن سهيل بن

۴۵۶۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص جمعہ (کی نماز) کے بعد نماز پڑھنا چاہے تو چار رکعت پڑھے۔

ابى صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا

بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حسن بن علی، علی بن مدینی سے اور وہ سفیان بن عیینہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: ہم سہیل بن ابی صالح کو حدیث میں مثبت سمجھتے تھے بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ وہ جمعہ سے پہلے اور بعد چار

چار رکعت نماز پڑھتے تھے حضرت علی بن ابی طالبؓ سے مروی ہے، کہ انہوں نے جمعہ کے بعد، پہلے دو اور پھر چار رکعت پڑھنے کا حکم دیا۔

سفیان ثوری اور ابن مبارک، حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے قول پر عمل کرتے ہیں اسحاق کا کہنا ہے کہ اگر جمعہ سے پہلے مسجد میں نماز پڑھے تو

چار رکعت اور اگر گھر میں پڑھے تو دو رکعت پڑھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ”حضور اکرم ﷺ جمعہ کے بعد گھر میں دو رکعت پڑھا کرتے

تھے“۔ ایک اور حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے جو شخص جمعہ کے بعد نماز پڑھنا چاہے چار رکعت پڑھے“۔ امام ترمذی کہتے

ہیں کہ ابن عمرؓ نے ہی یہ حدیث بھی بیان کی ہے کہ آپ ﷺ جمعہ کے بعد گھر میں دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور ان کے متعلق روایت ہے کہ

انہوں نے جمعہ کے بعد مسجد میں دو اور پھر چار رکعت نماز پڑھی۔ یہ بات ہم سے ابن عمرؓ نے سفیان کے حوالے سے روایت کی ہے وہ ابن

جریج سے اور وہ عطاء سے روایت کرتے ہیں کہ: انہوں نے ابن عمرؓ کو جمعہ کے بعد پہلے دو اور اس کے بعد چار رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا۔

سعید بن عبد الرحمن مخزومی، سفیان بن عیینہ سے اور وہ عمر بن دینار سے روایت کرتے ہیں کہ عمرو نے کہا: میں نے زہری سے بہتر حدیث بیان کرنے والا نہیں دیکھا اور نہ ہی دولت کو ان سے زیادہ حقیر جاننے والا دیکھا، ان کے نزدیک دراہم اونٹ کی میٹگی کے برابر حیثیت رکھتے تھے امام ترمذی کہتے ہیں: میں نے ابن عمرؓ سے بحوالہ سفیان بن عیینہ سنا کہ سفیان کہا کرتے تھے کہ عمرو بن دینار، زہری سے بڑے ہیں۔

باب ۳۷۱۔ فِي مَنْ يُذْرِكُ مِنَ الْجُمُعَةِ رُكْعَةً

۴۵۷۔ حدثنا نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن

وغير واحد قالوا ثنا سفیان بن عیینة عن الزهري عن ابي

۳۵۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جسے نماز

کی ایک رکعت مل گئی اسے نماز مل گئی۔

سَلْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

قَالَ مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رُكْعَةً فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اکثر علماء صحابہ وغیرہ کا اسی پر عمل ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر ایک رکعت ملی تو دوسری رکعت اس کے ساتھ ملا لے اور اگر امام کے قعدہ کی حالت میں پہنچے تو چار رکعت پڑھے۔ سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

مسئلہ: اس مسئلے میں حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ قعدہ میں اگر سلام سے پہلے پہلے شریک ہو گیا تو وہی رکعت بطور جمعہ پڑھے گا۔

ان کا استدلال حضرت ابو ہریرہؓ ہی کی صحیح بخاری میں مذکور روایت سے ہے کہ ”اذا أتيتكم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدرأكم فصلوا وما فاتكم فاتموا“ یعنی جب تم نماز کے لیے آؤ تو اطمینان اور سکون کے ساتھ چلو جتنی نماز مل جائے پڑھو اور جو نکل جائے اسے پورا کرو۔ چونکہ اس میں جمعہ یا غیر جمعہ کی کوئی تفصیل نہیں لہذا جمعہ بھی اس حکم کے عموم میں داخل ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۳۷۲۔ فِي الْقَائِلَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

۴۵۸۔ حدثنا علي بن حجر نا عبد العزيز بن ابي

حازم عبد الله بن جعفر عن أبي حازم عن سهل بن

سعيد قال ما كنا نتغدى في عهد رسول الله صلى

الله عليه وآله وسلم ولا نقبل إلا بعد الجمعة

اس باب میں انس بن مالکؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں سهل بن سعدؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۳۷۳۔ مَنْ يُنْعَسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِنَّهُ يَتَحَوَّلُ مِنْ

۳۷۳۔ جو شخص جمعہ کے دن اوگھنے لگے اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسری

جگہ بیٹھ جائے۔

مَجْلِسِهِ

۴۵۹۔ حدثنا ابو سعيد الأشج نا عبدة بن سليمان

وابو خالد الاحمر عن محمد بن اسحاق عن نافع

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم

قال إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحوّل عن

مَجْلِسِهِ ذَلِكَ

۴۵۹۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی شخص

جمعہ کے دن اوگھنے لگے تو اپنی جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ بیٹھ جائے۔

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۳۷۴۔ مَا جَاءَ فِي السَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

باب ۳۷۴۔ جمعہ کے دن سفر کرنا۔

۴۶۰۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ عَنْ أَبِي مَعَاوِيَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فِي سَرِيَّةٍ فَوَافَقَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَعَدَا أَصْحَابَهُ فَقَالَ اتَّخَلَّفْتُ فَأُصَلِّيَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ الْحَقُّهُمْ فَلَمَّا صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَأَاهُ فَقَالَ لَهُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَعُدُّ مَعَ أَصْحَابِكَ فَقَالَ أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ مَعَكَ ثُمَّ الْحَقُّهُمْ فَقَالَ لَوْ أَنْفَقْتُ مَا فِي الْأَرْضِ مَا أَدْرَكْتُ فَضْلَ عَدْوَتِهِمْ

۳۶۰۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مرتبہ عبد اللہ بن رواحہ کو ایک لشکر کے ساتھ بھیجا۔ اتفاق سے اسی روز جمعہ تھا۔ ان کے ساتھی صبح روانہ ہو گئے۔ عبد اللہ نے کہا میں پیچھے رہ جاتا ہوں تاکہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جمعہ پڑھ سکوں پھر ان سے جا ملوں گا۔ جب انہوں نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ ﷺ نے انہیں دیکھا تو پوچھا کہ تمہیں تمہارے ساتھیوں کے ساتھ جانے سے کس چیز نے منع کیا؟ عرض کیا: میں چاہتا تھا کہ آپ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھ لوں اور پھر ان سے جا ملوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر تم زمین میں جو کچھ ہے اتنا مال صدقہ بھی کر دو تو ان کے صبح ہونے کی فضیلت تک نہیں پہنچ سکتے۔

امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو اس سند کے علاوہ ہم نہیں جانتے، علی بن مدینی، یحییٰ بن سعید سے اور وہ شعبہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ حکم نے مقسم سے صرف پانچ حدیثیں سنی ہیں۔ شعبہ نے انہیں گنا۔ یہ حدیث ان پانچ میں نہیں گویا کہ یہ حدیث حکم نے مقسم سے نہیں سنی۔ جمعہ کے دن سفر کرنے کے متعلق علماء میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ نماز کا وقت نہ ہو۔ جب کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر صبح ہو جائے تو جمعہ کی نماز پڑھ کر سفر کے لیے روانہ ہو۔

باب ۳۷۵۔ فِي السَّوَاكِ وَالطَّيِّبِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

باب ۳۷۵۔ جمعہ کو مسواک کرنا اور خوشبو لگانا

۴۶۱۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكُوفِيُّ نَا أَبُو يَحْيَى بِنِ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنِ يَزِيدِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبُرَّاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَقًّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِيَمَسَّ أَحَدُهُمْ مِنْ طَيْبٍ أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَأَلْمَاءٌ لَهُ طَيْبٌ

۳۶۱۔ حضرت براء بن عازبؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ جمعہ کے دن غسل کریں اور ہر ایک گھر کی خوشبو لگائے اور اگر نہ ہو تو پانی ہی اس کے لیے خوشبو ہے۔

اس باب میں ابو سعیدؓ اور ایک انصاری شیخ سے بھی روایت ہے۔ احمد بن منیع، ہشیم سے اور وہ یزید بن ابی زیاد سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں براء کی حدیث حسن ہے اور ہشیم کی روایت اسماعیل بن ابراہیم تمیمی سے بہتر ہے۔ اسماعیل بن ابراہیم تمیمی حدیث میں ضعیف ہیں۔

## أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ

## عیدین کے ابواب

باب ۳۷۶۔ فِي الْمَشِيِّ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ

باب ۳۷۶۔ عیدین کے لیے پیدل جانا۔

۴۶۲۔ حَدَّثَنَا اسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى نَاشِرِيكٌ عَنْ ابِي اسْحَقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَا شِئْنَا وَ أَنْ تَأْكُلَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ

۳۷۴۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ (عید کے روز) عید گاہ کی طرف پیدل جانا اور گھر سے نکلنے سے پہلے کچھ کھا لینا سنت ہے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر اکثر اہل علم کا عمل ہے کہ عید کی نماز کے لیے پیدل نکلنا مستحب ہے اور یہ کہ بغیر عذر کے کسی (سواری) پر سوار نہ ہو۔

باب ۳۷۷۔ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

باب ۳۷۷۔ عیدین میں خطبے سے پہلے نماز پڑھنا۔

۴۶۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا ابُو اسَامَةَ عَنْ عِيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ يُصَلُّونَ فِي الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يَخْطُبُونَ

۳۷۴۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ، ابو بکرؓ اور عمرؓ عیدین میں نماز خطبے سے پہلے پڑھتے اور پھر خطبہ دیا کرتے تھے۔

اس باب میں جابرؓ اور ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت ابن عمرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر علماء صحابہ وغیرہ کا عمل ہے کہ عید کی نماز خطبے سے پہلے پڑھی جائے۔ کہا جاتا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے خطبہ دینے والا شخص مروان بن حکم تھا۔

باب ۳۷۸۔ أَنْ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بِغَيْرِ آذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

باب ۳۷۸۔ عیدین کی نماز میں آذان اور اقامت نہیں ہوتی۔

۴۶۴۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا ابُو الْاِحْوَصِ عَنْ سَمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ آذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

۳۷۴۔ حضرت جابر بن سمرہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ عیدین کی نماز کی مرتبہ بغیر آذان و اقامت کے پڑھی۔

اس باب میں جابر بن عبد اللہ اور ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: جابر بن سمرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اور اس پر علماء صحابہ وغیرہ کا عمل ہے کہ عیدین یا کسی نفل نماز کے لیے آذان نہ دی جائے۔

باب ۳۷۹۔ الْقِرَاءَةُ فِي الْعِيدَيْنِ

باب ۳۷۹۔ عیدین کی نماز میں قرأت

۴۶۵۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا ابُو عَوَانَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِسَبْحِ اسْمِ

۳۷۵۔ حضرت نعمان بن بشیرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ عیدین اور جمعہ کی نمازوں میں ”سبح اسم ربك الاعلیٰ“ اور ”هل اتاك حديث الغاشية“ پڑھا کرتے تھے اور اگر کبھی عید جمعہ کے دن ہوتی تو بھی یہی دونوں سورتیں دونوں نمازوں میں پڑھتے۔

رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ وَهَلْ أُنْكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وَرَبَّمَا  
اجْتَمَعَانِي يَوْمٌ وَاحِدٍ فَيَقْرَأُ بِهِمَا

اس باب میں ابو واقد، سمرہ بن جندب اور ابن عباس سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں نعمان بن بشیر کی حدیث حسن صحیح ہے اسی طرح سفیان ثوری اور معمر بھی ابراہیم بن محمد بن منشر سے ابو عوانہ کی حدیث کے مثل بیان کرتے ہیں۔ ابن عیینہ کے متعلق اختلاف ہے۔ کوئی ان سے بواسطہ ابراہیم بن محمد بن منشر روایت کرتا ہے وہ اپنے والد سے وہ حبیب بن سالم سے وہ اپنے والد سے اور وہ نعمان بن بشیر سے روایت کرتے ہیں۔ جب کہ حبیب بن سالم کی ان کے والد سے کوئی روایت معروف نہیں۔

یہ نعمان بن بشیر کے مولیٰ ہیں اور ان سے احادیث روایت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ابن عیینہ سے مروی ہے کہ وہ ابراہیم بن محمد بن منشر سے ان حضرات کی روایت کے مثل بیان کرتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ ﷺ عیدین کی نمازوں میں سورہ ”ق“ اور ”اقتربت الساعة“ پڑھا کرتے تھے۔ یہ امام شافعی کا بھی قول ہے۔

۴۶۶۔ عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے ابو واقد لیشی سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں کیا پڑھا کرتے تھے۔ ابو واقد نے کہا: آنحضرت ﷺ ”ق“ و القرآن المجید“ اور ”اقتربت الساعة و انشق القمر“ پڑھتے تھے۔

۴۶۶۔ حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري نامعن بن عيسى نا ملك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان عمر بن الخطاب سأل ابا واقد الليثي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به في الفطر والأضحى قال كان يقرأ بقاف القرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ہناد، ابن عیینہ سے اور وہ ضمیرہ بن سعید سے اسی سند سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو واقد لیشی کا نام حارث بن عوف ہے۔

باب ۳۸۰۔ عیدین کی تکبیرات

باب ۳۸۰۔ فی التکبیر فی العیدین

۴۶۷۔ کثیر بن عبد اللہ اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے سات تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرأت سے پہلے پانچ تکبیریں کہیں۔

۴۶۷۔ حدثنا مسلم بن عمرو ابو عمرو الحذاء المديني نا عبد الله بن نافع عن كثير بن عبد الله عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة

اس باب میں عائشہ، ابن عمر اور عبد اللہ بن عمر سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کثیر کے دادا کی حدیث حسن ہے اور اس باب میں آنحضرت ﷺ سے مروی احادیث میں احسن ہے۔ کثیر کے دادا کا نام عمرو بن عوف مزنی ہے۔ اسی پر بعض علماء صحابہ کا عمل ہے۔ اسی حدیث کی مانند حضرت ابی ہریرہ سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے مدینہ میں اسی طرح امامت کی یہی قول اہل مدینہ، شافعی، مالک، احمد اور اسحاق کا ہے۔ ابن مسعود سے مروی ہے کہ انہوں نے عید کی نماز میں ۹ تکبیریں کہیں۔ پانچ قرأت سے پہلے پہلی رکعت میں اور چار

دوسری رکعت میں قرأت کے بعد، رکوع کی تکبیر کے ساتھ۔ کئی صحابہؓ سے اسی کے مثل مروی ہے۔ اور یہ اہل کوفہ اور سفیان ثوری کا قول ہے۔

مسئلہ: حنفیہ کے نزدیک زائد تکبیرات صرف چھ ہیں۔ تین پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے اور تین دوسری رکعت میں قرأت کے بعد۔

ان کا استدلال سنن ابوداؤد میں مکحول کی روایت سے ہے کہ ”سعید بن عاصیؓ نے ابو موسیٰ اشعریؓ اور حذیفہ بن یمانؓ سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں کس طرح تکبیرات کہا کرتے تھے (یعنی کتنی) ابو موسیٰ نے فرمایا: چار تکبیریں۔ جیسے کہ جنازے میں۔ اس پر حذیفہ نے ان کی تصدیق فرمائی۔“

اس حدیث میں چار تکبیروں کا ذکر ہے ان میں سے ایک تکبیر تحریر اور تین زائد ہیں۔

جہاں تک حدیث باب کا تعلق ہے اس کا مدار کثیر بن عبداللہ پر ہے جو نہایت ضعیف ہے۔ امام ترمذی کی اس حدیث کی تحسین پر

دوسرے محدثین نے سخت اعتراض کیا ہے۔ (مترجم)

باب ۳۸۱۔ عیدین سے پہلے اور بعد کوئی نماز نہیں

۳۶۸۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ عید الفطر کے روز گھر سے نکلے اور دو رکعتیں (عید کی نماز) پڑھیں نہ اس سے پہلے کوئی نماز پڑھی اور نہ اس کے بعد۔

باب ۳۸۱۔ لَا صَلَاةَ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَلَا بَعْدَهَا

۴۶۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا ابُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ اِنْبَانَا شَعْبَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جَبْرِ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا

اس باب میں عبداللہ بن عمرؓ اور ابوسعیدؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عباسؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر بعض علماء صحابہ وغیرہ کا عمل ہے اور یہی شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے جب کہ علماء صحابہ کی ایک جماعت عید سے پہلے یا بعد نماز پڑھنے کی قائل ہے لیکن یہاں قول اصح ہے۔

۳۶۹۔ حضرت ابن عمرؓ سے منقول ہے کہ وہ عید کے لیے گھر سے نکلے اور عید کی نماز سے پہلے یا بعد کوئی نماز نہیں پڑھی اور فرمایا کہ آنحضرت ﷺ نے ایسا ہی کیا۔

۴۶۹۔ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَرِيثٍ ابُو عَمَارٍ نَا وَكَيْعُ عَنْ ابَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ عَنْ ابِي بَكْرٍ بْنِ حَفْصٍ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ ابِي وَقَاصٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ عِيدٍ وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا نَعْدَهَا وَذَكَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۳۸۲۔ عیدین کے لیے عورتوں کا نکلنا

۴۷۰۔ حضرت ام عطیہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ عیدین کے لیے کنواری لڑکیوں، جوان عورتوں، پردہ دار عورتوں اور حائضہ عورتوں کو

باب ۳۸۲۔ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ

۴۷۰۔ حَدَّثَنَا اِحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا هَشِيمُ نَا مَنْصُورٌ وَهُوَ ابْنُ زَاذَانَ عَنْ ابْنِ سَبْرِينَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةٍ اَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ  
الْأَبْكَارَ وَالْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَالْحَيْضَ فِي  
الْعِيدَيْنِ فَأَمَّا الْحَيْضُ فَيَعْتَرِلْنَ الْمُصَلِّيَّ وَيَشْهَدُنَّ  
دَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنْ لَمْ يَحْنُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ  
فَلْتَعْرِهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا

نہنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ حائضہ عورتیں عید گاہ سے باہر رہتیں اور  
مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوتیں۔ ان میں سے ایک نے عرض کیا: یا  
رسول اللہ! اگر کسی عورت کی چادر نہ ہو تو؟ فرمایا: اس کی بہن اسے  
اپنی چادر عارۃ (ادھار) دے دے۔

احمد بن مویح، ہشام سے وہ ہشام بن حسان سے وہ حفصہ بنت سیرین سے اور وہ ام عطیہؓ سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ اس  
باب میں ابن عباسؓ اور جابرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ام عطیہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے بعض علماء اسی پر عمل کرتے ہوئے  
عورتوں کو عیدین کے لیے جانے کی اجازت دیتے ہیں اور بعض اسے مکروہ سمجھتے ہیں۔ ابن مبارک سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا: آج کل  
میں عورتوں کے لیے عیدین کے لیے نکلنا مکروہ سمجھتا ہوں لیکن اگر وہ نہ مانے تو اس کا شوہر اسے میلے کپڑوں میں بغیر زینت کے نکلنے کی  
اجازت دے دے اور اگر زینت کرے تو اس کے شوہر کو اسے نکلنے سے منع کر دینا چاہئے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں ”اگر رسول اللہ  
ﷺ عورتوں کی ان چیزوں کو دیکھتے جو انہوں نے نئی نکالی ہیں تو انہیں مسجد جانے سے منع فرمادیتے۔ جس طرح کہ بنو اسرائیل کی عورتوں کو  
منع کر دیا گیا، سفیان ثوری سے بھی یہی مروی ہے کہ وہ عورتوں کا عیدین کے لیے نکلنا مکروہ سمجھتے تھے۔

باب ۳۸۳۔ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْعِيدَيْنِ فِي طَرِيقِ وَرُجُوعِهِ مِنْ  
طَرِيقِ آخِر

۴۷۱۔ حَدَّثَنَا عَبْدِ الْعَلِيِّ بْنِ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْعَلِيِّ  
الْكُوفِيِّ وَابُو زُرْعَةَ قَالَ نَا مُحَمَّدَ بْنَ الصَّلْتِ عَنْ فُلَيْحِ  
بْنِ سَلِيمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ  
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ  
يَوْمَ الْعِيدَيْنِ فِي طَرِيقِ رَجَعَ فِي غَيْرِهِ

اس باب میں عبد اللہ بن عمرؓ اور ابو رافع سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن غریب ہے اسے ابو  
تمیلہ اور یونس بن محمد، فتح بن سلیمان سے وہ سعید بن حارث سے اور وہ جابر بن عبد اللہؓ سے روایت کرتے ہیں علماء کے نزدیک اس حدیث  
پر عمل کرتے ہوئے عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور کسی دوسرے راستے سے واپس آنا مستحب ہے۔ امام شافعی کا بھی یہی قول ہے گویا کہ یہ  
حدیث صحیح ہے۔

باب ۳۸۴۔ عِيدُ الْفِطْرِ كَيْفَ يَلْبَسُ فِيهِ  
۴۷۲۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبِزَارِيُّ  
عَبْدَ الصَّمَدِ ابْنَ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ ثَوَابِ بْنِ عُبَيْةَ

باب ۳۸۴۔ عید الفطر کے لیے جانے سے پہلے کچھ کھانا۔  
۴۷۲۔ حضرت عبد اللہ بن بريدةؓ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول  
اللہ ﷺ عید الفطر کے لیے اس وقت تک نہ جاتے جب تک کچھ کھانا

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَلَا يَطْعَمَ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ

لیتے جب کہ عید الاضحیٰ میں اس وقت تک کچھ نہ کھاتے جب تک نماز نہ پڑھ لیتے۔

اس باب میں علیؑ اور انسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں بریدہ بن حصیب اسلمیؓ کی حدیث غریب ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں میں ثواب بن عتبہؓ کی اس حدیث کے علاوہ کوئی حدیث نہیں جانتا۔ علماء حضرات کا مسلک یہی ہے کہ عید الفطر میں نماز سے پہلے کچھ کھا لینا مستحب ہے پھر اگر کھجور کھائے تو یہ اس سے بھی بہتر ہے لیکن عید الاضحیٰ میں نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا مستحب ہے۔

۴۷۳۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَاهِشِيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحَقَ عَنْ حَفْصِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُفِطِرُ عَلَيَّ تَمْرَاتٍ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى

۴۷۳۔ حضرت انسؓ بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ آقائے دو جہاں ﷺ عید الفطر کے دن نماز کے لیے نکلنے سے پہلے کھجوریں تناول فرماتے تھے۔

### سفر کے ابواب

### أَبْوَابُ السَّفَرِ

باب ۳۸۵۔ التَّقْصِيْرُ فِي السَّفَرِ

باب ۳۸۵۔ سفر میں قصر نماز پڑھنا

۴۷۴۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْوَرَّاقُ الْبَغْدَادِيُّ نَاهِشِيْمِ بْنِ سَلِيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَافَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَكَانُوا يُصَلُّونَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رُكْعَتَيْنِ رُكْعَتَيْنِ لَا يُصَلُّونَ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كُنْتُ مُصَلِّيًا قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا لَأَتَمَمْتُهَا

۴۷۴۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ ابو بکرؓ اور عثمانؓ کے ساتھ سفر کیا۔ یہ حضرات ظہر اور عصر کی دو دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور ان سے پہلے یا بعد کوئی نماز نہ پڑھتے۔ عبد اللہؓ فرماتے ہیں: اگر میں ان سے پہلے یا بعد بھی کچھ پڑھنا چاہتا تو فرض ہی کو مکمل کر لیتا۔

اس باب میں عمرؓ علیؓ، ابن عباسؓ، انسؓ، عمران بن حصینؓ اور عائشہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عمرؓ کی حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے یحییٰ بن سلیم کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے وہ اس کے مثل روایت کرتے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ حدیث عبید اللہ بن عمرو سے بھی مروی ہے وہ آل سراقہ کے ایک شخص سے اور وہ ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں: عطیہ عونی، ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ سفر کے دوران نماز سے پہلے اور بعد نفل نماز پڑھا کرتے تھے یہ بھی صحیح ہے کہ آپ ﷺ سفر میں قصر نماز پڑھتے۔ اسی طرح ابو بکرؓ، عمرؓ اور عثمانؓ بھی اپنے دور خلافت کے اوائل میں قصر ہی پڑھتے۔ اکثر علماء صحابہ وغیرہ کا اسی پر عمل ہے۔ جب کہ حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ وہ سفر میں پوری نماز پڑھتی تھیں لیکن آپ ﷺ اور صحابہ کرامؓ سے مروی حدیث پر ہی عمل ہے اور یہی شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے لایہ کہ امام شافعی سفر میں قصر کو اجازت پر محمول کرتے ہیں یعنی اگر وہ نماز پوری پڑھ لے تو بھی جائز ہے۔

۴۷۵۔ حضرت ابو نصرہ فرماتے ہیں کہ عمران بن حصینؓ سے مسافر کی نماز کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا: میں نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ حج کیا تو آپ ﷺ نے دو رکعتیں پڑھیں پھر ابو بکرؓ، عمرؓ اور عثمانؓ کی خلافت میں چھ آٹھ سال تک ان حضرات کے ساتھ حج کیا انہوں نے بھی دو دو رکعتیں ہی پڑھیں۔

۴۷۵۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا هَشِيمَ نَا عَلِيَّ بْنَ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ سُبُلَ عُمَرَ ابْنِ حُصَيْنٍ عَنْ صَلَوةِ الْمُسَافِرِ فَقَالَ حَجَّجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْتُ رُكْعَتَيْنِ وَحَجَّجْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَصَلَّيْتُ رُكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ فَصَلَّيْتُ رُكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُثْمَانَ سِتِّ سِنِينَ مِنْ خِلاَفَتِهِ أَوْ ثَمَانَ سِنِينَ فَصَلَّيْتُ رُكْعَتَيْنِ  
امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۴۷۶۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں ہم نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ مدینہ میں ظہر کی نماز چار رکعت ادا کی اور پھر ذوالحلیفہ میں عصر کی دو رکعتیں پڑھیں۔

۴۷۶۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا سَفِيانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَابْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسِرَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَبَدَى الْحَلِيفَةَ الْعَصْرَ رُكْعَتَيْنِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۴۷۷۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ ﷺ کو اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہ تھا۔ اور راستے میں دو رکعتیں پڑھیں۔

۴۷۷۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا هَشِيمَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ لَا يَخَافُ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ فَصَلَّيْتُ رُكْعَتَيْنِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔

باب ۳۸۶۔ تکی مدت قصر پڑھی جائے گی؟

باب ۳۸۶۔ مَا جَاءَ فِي كُمْ تَقْصُرُ الصَّلَاةَ

۴۷۸۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں ہم حضور ﷺ کے ساتھ مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے آپ ﷺ نے دو رکعتیں (قصر) پڑھی۔ راوی نے انسؓ سے پوچھا: آنحضرت ﷺ نے مکہ میں کتنے دن قیام کیا؟ فرمایا: دس روز۔

۴۷۸۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا هَشِيمَ نَا يَحْيَى ابْنُ أَبِي اسْحَقَ الْحَضْرَمِيُّ نَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّيْتُ رُكْعَتَيْنِ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسِ كَمْ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ قَالَ عَشْرًا

اس باب میں ابن عباسؓ اور جابرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ انسؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے بعض سفروں میں انیس دن تک بھی قیام کیا اور دو رکعتیں ہی پڑھتے رہے۔ چنانچہ اگر ہمارا قیام انیس دن یا اس سے کم مدت کا ہوتا تو ہم بھی قصر ہی پڑھتے اور اگر اس سے زیادہ رہتے تو پوری نماز پڑھتے۔ حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ جو دس دن قیام کرے وہ

پوری نماز پڑھے، ابن عمرؓ پندرہ دن اور دوسری روایت میں بارہ دن قیام کرنے والے کے متعلق پوری نماز کا حکم دیتے تھے۔ قنادر اور عطاء خراسانی، سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص چار دن تک قیام کرنے وہ چار رکعتیں ادا کرے۔ جب کہ داؤد بن ابی ہندان سے اس کے خلاف روایت کرتے ہیں۔ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ چنانچہ سفیان ثوری اور اہل کوفہ (حنفیہ) پندرہ دن تک قصر کا مسلک اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر پندرہ دن قیام کی نیت ہو تو پوری نماز پڑھے، امام اوزاعی بارہ دن قیام کی نیت پر پوری نماز پڑھنے کے قائل ہیں جب کہ شافعی، مالک اور احمد کا یہ قول ہے کہ اگر چار دن رہنے کا ارادہ ہو تو پوری نماز پڑھے۔ اسحاق کہتے ہیں کہ اس باب میں قوی ترین مذہب ابن عباسؓ کی حدیث کا ہے کیوں کہ وہ نبی کریم سے روایت کرتے ہوئے آپ ﷺ کے بعد بھی اسی پر عمل پیرا ہیں کہ اگر انیس دن قیام کا ارادہ ہو تو پوری نماز پڑھے۔ پھر اس بات پر علماء کا اجماع ہے کہ اگر رہنے کی مدت متعین نہ ہو تو قصر ہی پڑھے چاہے سال گزر جائیں۔ (یعنی اس کا ارادہ اور نیت نہ ہو کہ اتنے دن رہے گا)۔

۴۷۹۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے سفر کیا اور انیس دن تک قصر نماز پڑھتے رہے۔ ہم بھی اگر انیس دن سے کم قیام کریں تو قصر، اور اگر اس سے زیادہ ہیں تو پوری نماز پڑھتے ہیں۔

۴۷۹۔ حدثنا هنادنا ابو معاوية عن عاصم الاحول عن عكرمة عن ابن عباس قال سافر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سفراً فصلت تسعة عشر يوماً ركعتين ركعتين قال ابن عباس فنحن نصلي فيما بيننا وبين تسع عشرة ركعتين ركعتين فاذا افمننا اكثر من ذلك صلينا اربعاً

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے۔

باب ۳۸۷۔ سفر میں نوافل پڑھنا۔

باب ۳۸۷۔ ماجاء في التطوع في السفر

۴۸۰۔ حضرت براء بن عازبؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ اٹھارہ سفر کیے۔ میں نے آپ ﷺ کو زوال آفتاب کے وقت ظہر سے پہلے دو رکعتیں چھوڑتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔

۴۸۰۔ حدثنا قتيبة نا الليث بن سعد عن صفوان بن سليم عن ابي بسرة العفاري عن البراء بن عازب قال صحبت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثمانية عشر سفراً فما رآته ترك الركعتين اذا زاعت الشمس قبل الظهر

اس باب میں ابن عمرؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں کہ براء کی حدیث غریب ہے میں نے امام بخاری سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے لیث بن سعد کی روایت کے علاوہ اسے نہیں پہچانا انہیں ابوسعہ غفاری کا نام معلوم نہیں لیکن انہیں اچھا سمجھتے ہیں حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ سفر کے دوران نماز سے پہلے یا بعد نوافل نہیں پڑھتے تھے۔ انہی سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ ﷺ سفر میں نفل نماز پڑھتے تھے۔ لہذا علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے بعض صحابہ سفر میں نوافل پڑھنے کے قائل ہیں اور یہی امام احمد اور اسحاق کا بھی قول ہے جب کہ علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ نماز سے پہلے یا بعد کوئی نوافل نہ پڑھے جائیں چنانچہ جو لوگ ممانعت کرتے ہیں وہ حضرات رخصت پر عمل پیرا ہیں لہذا جو پڑھ لے اس کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے اور یہی اکثر علماء کا قول ہے کہ سفر میں نوافل پڑھے جاسکتے ہیں۔

۴۸۱۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ سفر میں ظہر کی دو رکعتیں اور اس کے بعد بھی دو رکعتیں پڑھیں۔

۴۸۱۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا حَفْصَ بْنَ غِيَاثَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فِي السَّفَرِ رُكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رُكْعَتَيْنِ

۴۸۲۔ ابن ابی لیلیٰ، عطیہ سے وہ نافع سے اور وہ ابن عمرؓ سے نقل کرتے ہیں کہ ابن عمرؓ نے فرمایا: میں نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ سفر اور حضر میں نمازیں پڑھیں آپ ﷺ حضر میں ظہر کی چار رکعات اور اس کے بعد دو رکعتیں پڑھتے اور سفر میں ظہر کی دو اور اس کے بعد بھی دو رکعتیں پڑھتے تھے اور پھر عصر کی دو رکعتیں پڑھتے اور ان کے بعد کچھ نہ پڑھتے۔ جب کہ مغرب حضر اور سفر دونوں میں برابر (تین رکعات) ہی ہے۔ اس میں کوئی کمی نہیں اور یہ دن کے وتر ہیں اس کے بعد آپ ﷺ دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

۴۸۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارَبِيُّ نَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ عَطِيَّةَ وَنَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْحَضَرِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رُكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ الظُّهْرَ رُكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رُكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رُكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَهَا شَيْئًا وَالْمَغْرِبَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ سَوَاءً ثَلَاثَ رُكْعَاتٍ لَا يَنْقُصُ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ وَهِيَ وَتُرُّ النَّهَارَ وَبَعْدَهَا رُكْعَتَيْنِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ امام بخاری کہتے تھے میں نے ابن ابی لیلیٰ کی کوئی روایت اس سے بہتر نہیں دیکھی۔

باب ۳۸۸۔ دو نمازوں کو جمع کرنا۔

باب ۳۸۸۔ مَا جَاءَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَوَتَيْنِ

۴۸۳۔ حضرت معاذ بن جبلؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ غزوہ تبوک کے موقع پر اگر سورج ڈھلنے سے پہلے کوچ کرتے تو ظہر کو عصر تک موخر کر دیتے اور پھر دونوں نمازیں اکٹھی پڑھتے اور اگر زوال کے بعد کوچ کرتے تو عصر میں تعجيل کرتے اور ظہر اور عصر ایک ساتھ ہی پڑھ لیتے اور پھر روانہ ہوتے پھر مغرب سے پہلے کوچ کی صورت میں مغرب کو عشاء تک موخر کرتے اور مغرب کے بعد کوچ کی صورت میں عشاء کو مجل کرتے اور مغرب کے ساتھ ہی پڑھ لیتے۔

۴۸۳۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ آخَرَ الظُّهْرِ إِلَى أَنْ يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيْنِيهِمَا جَمِيعًا وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ عَجَلَ الْعَصْرَ إِلَى الظُّهْرِ وَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ سَارَ وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ آخَرَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَلَ الْعِشَاءَ فَصَلَّيْتُهَا بَعْدَ الْمَغْرِبِ

اس باب میں علیؓ، ابن عمرؓ، عبداللہ بن عمرؓ، انسؓ، عائشہؓ، ابن عباسؓ، اسامہ بن زیدؓ اور جابرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث علی بن مدینی سے بھی مروی ہے وہ احمد بن حنبل سے اور وہ قتیبہ سے روایت کرتے ہیں۔ معاذؓ کی حدیث غریب ہے کیوں کہ اس کی روایت میں قتیبہ منفرد ہیں ہمیں علم نہیں کہ لیث سے ان کے علاوہ کسی اور نے بھی روایت کی ہو۔ لیث کی یزید بن ابی حبیب سے مروی حدیث غریب ہے۔ وہ ابو طفیل سے اور وہ معاذؓ سے روایت کرتے ہیں جب کہ علماء کے نزدیک معاذؓ کی یہ حدیث معروف ہے کہ ابو زبیر، ابو طفیل سے اور وہ معاذؓ سے روایت کرتے ہیں کہ ”آنحضرت ﷺ نے غزوہ تبوک میں ظہر، عصر اور مغرب، عشاء کو جمع کیا“ اس حدیث کو

قرۃ بن خالد، سفیان ثوری، مالک اور کئی حضرات نے ابو زبیر کی سے روایت کیا ہے شافعی بھی اس حدیث پر عمل کرتے ہیں جب کہ احمد اور اسحاق کہتے ہیں کہ سفر میں دو نمازوں کو جمع کر کے ایک وقت میں پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں۔

۴۸۴۔ حدثنا هنادنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه استعيت على بعض أهله فجد به السير وأخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما ثم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك إذا جد به السير

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۳۸۹۔ نماز استسقاء کے متعلق

باب ۳۸۹۔ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ الْإِسْتِسْقَاءِ

۴۸۵۔ حدثنا يحيى بن موسى نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين جهرا بالقرآن فبهما وحول ردائه ورفع يديه واستسقى واستقبل القبلة

۴۸۵۔ حدثنا يحيى بن موسى نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج بالناس يستسقى فصلى بهم ركعتين جهرا بالقرآن فبهما وحول ردائه ورفع يديه واستسقى واستقبل القبلة

اس باب میں ابن عباسؓ، ابو ہریرہؓ، انسؓ اور ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں: عبداللہ بن زید کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر علماء کا عمل ہے جن میں شافعی، احمد اور اسحاق بھی شامل ہیں۔ عبداللہ بن تمیم کے چچا کا نام عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی ہے۔

۴۸۶۔ ابوم فرماتے ہیں کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ کو تیل کے پتھروں کی جگہ بارش کے لیے دعا کرتے ہوئے دیکھا آپ ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے ہوئے تھے۔ (۱)

۴۸۶۔ حدثنا قتيبة نا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابى هلال عن يزيد بن عبد الله عن عمير مولى ابي اللحم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند أحجار الزيت يستسقى وهو مقلع بكفيه يدعو

امام ترمذی کہتے ہیں: قتیبہ نے بھی ابوم فرم سے روایت کرتے ہوئے اسی طرح بیان کیا ہے ان کی اس حدیث کے علاوہ کسی حدیث کا ہمیں علم نہیں۔ ان کے مولیٰ عمیر آنحضرت ﷺ سے کئی احادیث روایت کرتے ہیں اور وہ صحابی ہیں۔

۴۸۷۔ قتیبہ، حاتم بن اسماعیل سے وہ ہشام بن اسحاق سے (جو ابن عبداللہ بن کنانہ ہیں) اور وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ولید بن عقبہ جب مدینہ کے امیر تھے تو انہیں حضرت ابن عباسؓ سے حضور اکرم ﷺ کی نماز استسقاء کے متعلق پوچھنے کے لئے بھیجا۔ میں ان کے پاس

۴۸۷۔ حدثنا قتيبة نا حاتم بن اسماعيل عن هشام ابن اسحاق وهو ابن عبد الله بن كنانة عن ابيه قال ارسلني الوليد بن عقبه وهو امير المدينة الى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله صلى الله

(۱) اجازت الزیت: تیل کے پتھر (مدینہ منورہ میں ایک جگہ ہے)۔ (مترجم)

آیا تو انہوں نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ بغیر زینت کے عاجزی کے ساتھ گڑگڑاتے ہوئے نکلے یہاں تک کہ عید گاہ پہنچے۔ آپ ﷺ نے تمہارے ان خطیبوں کی طرح کوئی خطبہ نہیں پڑھا۔ بلکہ دعا، عاجزی اور تکبیر کہتے ہوئے عید کی نماز کی طرح دو رکعت نماز پڑھی۔

عَلَيْهِ وَالِاهِ وَسَلَّمَ فَاتَّبَعْتُهُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِاهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مُبْتَدِلًا مُتَوَاصِعًا مُتَضَرِّعًا حَتَّى اتَى الْمُصَلِّيَ فَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ كَمَا كَانَ يُصَلِّي فِي الْعِيدِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمود بن غیلان، وئج سے وہ سفیان سے وہ ہشام بن اسحاق بن عبد اللہ بن کنانہ سے اور وہ اپنے والد سے اسی کے مثل روایت کرتے ہوئے یہ الفاظ زیادہ بیان کرتے ہیں متخفعا یعنی ڈرتے ہوئے امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور شافعی کا یہی قول ہے کہ نماز استسقاء عید کی نماز کی طرح پڑھے۔ پہلی رکعت میں سات اور دوسری میں پانچ تکبیریں کہے۔ یہ ابن عباسؓ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں امام ترمذی کہتے ہیں کہ مالک بن انس سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: نماز استسقاء میں عید کی نماز کی طرح تکبیریں نہ کہے۔

باب ۳۹۰۔ سورج گرہن کی نماز۔

باب ۳۹۰۔ فی صَلَوةِ الْكُسُوفِ

۴۸۸۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے کسوف کی نماز پڑھی، اس میں قرأت کی پھر رکوع کیا پھر قرأت کی پھر رکوع کیا پھر دو سجود کیے اور دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھی۔ (۱)

۴۸۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا بَحْبِیَّ ابْنَ سَعِيدٍ عَنِ سَفْيَانَ عَنِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ ضَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِاهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفٍ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَالْآخَرَى مِثْلَهَا

اس باب میں علیؓ، عائشہؓ، عبد اللہ بن عمرؓ، نعمان بن بشیرؓ، مغیرہ بن شعبہؓ، ابو سعودؓ، ابو بکرؓ، اسماء بنت ابوبکرؓ، ابن عمرؓ، قبیصہ ہلالیؓ، جابر بن عبد اللہؓ، ابو موسیٰؓ، عبد الرحمن بن سمرہؓ اور ابی بن کعبؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابن عباسؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے۔ کہ ”آپ ﷺ نے نماز کسوف میں دو رکعتوں میں چار رکوع کیے“ یہ امام شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے نماز کسوف میں قرأت کے متعلق علماء کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ دن کے وقت بغیر آواز قرأت کرے جب کہ بعض بلند آواز سے پڑھنے کے قائل ہیں۔ جیسے کہ جمعہ اور عیدین کی نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ مالک، احمد اور اسحاق، اسی کے قائل ہیں کہ بلند آواز سے پڑھے لیکن امام شافعی بغیر آواز پڑھنے کا کہتے ہیں پھر یہ دونوں چیزیں، آپ ﷺ سے ثابت ہیں کہ ”آپ ﷺ نے چار رکوع اور چار سجود کیے“۔ یہ بھی صحیح ہے کہ ”آپ ﷺ نے چار سجودوں میں چھ رکوع کیے“۔ چنانچہ علماء کے نزدیک کسوف کی مقدار کے ساتھ جائز ہیں۔ یعنی اگر کسوف لمبا ہو تو چھ رکوع اور چار سجود کرنا جائز ہے لیکن اگر چار رکوع، چار سجود کرے اور قرأت لمبی کرے تو یہ بھی جائز ہے ہمارے اصحاب کے نزدیک سورج گرہن اور چاند گرہن دونوں میں نماز باجماعت پڑھی جائے۔

۴۸۹۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں سورج گرہن ہو گیا تو آپ ﷺ نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی چنانچہ لمبی

۴۸۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي شَوَّابٍ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ

(۱) کسوف سورج گرہن کو کہتے ہیں (مترجم)

قرأت کی پھر لمبارکوع کیا پھر کھڑے ہوئے اور لمبی قرأت کی لیکن پہلی رکعت سے کم تھی۔ پھر رکوع کیا اور اسے بھی لمبا کیا۔ لیکن پہلے رکوع سے کم پھر کھڑے ہوئے اس کے بعد سجدہ کیا اور پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا۔

عُرْوَةٌ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَيَّ  
عَهْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْتُ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ فَأَطَالَ  
الْقِرَاءَةَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرَّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ  
الْقِرَاءَةَ وَهِيَ دُونَ الْأُولَى ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرَّكُوعَ  
وَهُوَ دُونَ الْأُولَى ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَسَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ  
فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شافعی، احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں کہ دو رکعت میں چار رکوع اور چار سجدے کرے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر دن میں نماز پڑھ رہا ہو تو پہلے سورہ فاتحہ پڑھے اور پھر سورہ بقرہ کے برابر بغیر آواز قرأت کرے پھر ذویل رکوع کرے جیسے کہ اس نے قرأت کی پھر تکبیر کہہ کر سر اٹھائے اور کھڑا ہو کر پھر سورہ فاتحہ پڑھے اور سورہ آل عمران کے برابر تلاوت کرے۔ اس کے بعد اتنا ہی طویل رکوع کرے پھر سر اٹھاتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہے پھر اچھی طرح دو سجدے کرے اور ہر سجدے میں رکوع کے برابر رکے پھر کھڑا ہو کر سورہ فاتحہ پڑھے اور سورہ نساء کے برابر قرأت کرے اور اسی طرح رکوع میں بھی ٹھہرے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھائے اور کھڑا ہو کر سورہ مائدہ کے برابر قرأت کرے پھر اتنا ہی طویل رکوع کرے پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر سر اٹھائے اور سجدے کرے اور اس کے بعد التحیات پڑھ کر سلام پھیرے۔

باب ۳۹۱۔ نماز کسوف میں قرأت کیسے کی جائے؟

۳۹۰۔ حضرت سمرہ بن جندب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں کسوف کی نماز پڑھائی جس میں ہم نے آپ ﷺ کی آواز نہیں سنی (قرأت میں)۔

باب ۳۹۱۔ كَيْفَ الْقِرَاءَةُ فِي الْكُسُوفِ

۴۹۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ وَكَعْبُ بْنُ سَفِيَانَ  
عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ سَمُرَةَ  
بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي كُسُوفٍ لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا

اس باب میں عائشہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں سمرہ بن جندب کی حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ بعض علماء نے قرأت سز یہی کو اختیار کیا ہے۔ اور امام شافعی کا بھی یہی قول ہے۔

۳۹۱۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے نماز کسوف پڑھی اور اس میں بلند آواز سے قرأت کی۔

۴۹۱۔ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نَافِعٍ  
عَنْ سَفِيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ  
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى  
صَلَاةَ الْكُسُوفِ وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابواسحاق فزاری بھی سفیان بن حصین سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں اور مالک، احمد اور اسحاق اسی حدیث کے قائل ہیں۔

باب ۳۹۲۔ خوف کے وقت نماز پڑھنے کے متعلق

باب ۳۹۲۔ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ الْخَوْفِ

۳۹۲۔ سالم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے نماز خوف میں ایک رکعت ایک گروہ کے ساتھ پڑھی جب کہ دوسرا گروہ دشمن کے مقابل لڑتا رہا پھر یہ لوگ ان کی جگہ چلے گئے اور انہوں نے آکر آنحضرت ﷺ کی اقتداء میں دوسری رکعت پڑھی پھر آپ ﷺ نے سلام پھیر دیا۔ اور اس گروہ نے کھڑے ہو کر اپنی چھوٹی ہوئی رکعت پوری کی اس کے بعد دوسرا گروہ کھڑا ہوا اور اس نے بھی اپنی دوسری رکعت پڑھی۔

۴۹۲۔ حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابی الشوارب نا یزید بن زریع نا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلوة الخوف باحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا فقاموا في مقام أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم فقاموا هولاء ففوضوا ركعتهم وقام هولاء ففوضوا ركعتهم

اس باب میں جابر، حذیفہ، زید بن ثابت، ابن عباس، ابو ہریرہ، ابن مسعود، ابو بکر، سہل بن ابو حمزہ اور ابو عیاش زرقی سے بھی روایت ہے۔ ابو عیاش کا نام زید بن ثابت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: امام مالک، نماز خوف میں سہل بن ابی حمزہ ہی کی روایت پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہی شافعی کا قول ہے جب کہ امام احمد کہتے ہیں کہ نماز خوف آپ ﷺ سے کئی طرح مروی ہے میں اس باب میں سہل بن ابی حمزہ کی حدیث سے صحیح روایت نہیں جانتا۔ چنانچہ وہ بھی اسی طریقے کو اختیار کرتے ہیں۔ اسحاق بن ابراہیم بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ آپ ﷺ سے صلاۃ خوف میں کئی روایات ثابت ہیں۔ ان سب پر عمل کرنا جائز ہے۔ یعنی یہ بقدر خوف ہے۔ اسحاق کہتے ہیں ہم سہل بن ابی حمزہ کی حدیث کو دوسری روایات پر ترجیح نہیں دیتے۔ ابن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اسے موسیٰ بن عقبہ بھی نافع سے وہ ابن عمر سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔

۳۹۳۔ سہل بن ابی حمزہ نماز خوف کے متعلق فرماتے ہیں ابام قبیلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو اور اس کے ساتھ ایک گروہ کھڑا ہو جب کہ دوسرا گروہ دشمن کے مقابل رہے اور انہی کی طرف رخ کیے رہے۔ پھر امام پہلے گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے اور وہ لوگ دوسری رکعت خود پڑھیں اور دو سجدے کرنے کے بعد دوسری جماعت کی جگہ دشمن کے مقابل آجائیں اور وہ جماعت آکر امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھے اور وہ لوگ دوسری رکعت خود پڑھیں اور دو سجدے کرے

۴۹۳۔ حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد القطان نا يحيى بن سعيد الانصاري عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات بن جبير عن سهل بن أبي حنمة انه قال في صلوة الخوف قال يقوم الإمام مستقبل القبلة وتقوم طائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو وجوههم إلى العدو فيركع بهم ركعة ويركعون لأنفسهم ركعة ويسجدون لأنفسهم سجدتين في مكانهم ثم يذهبون إلى مقام أولئك ويحيى أولئك فيركع بهم ركعة ويسجد بهم سجدتين فهي له نيتان ولهم واحدة ثم يركعون ركعة ويسجدون سجدتين قال محمد بن بشار سألت يحيى بن سعيد عن هذا الحديث فحدثني عن شعبة عن عبد الرحمن القاسم عن أبيه

یہ امام کی دوسری اور جماعت کی پہلی رکعت ہوگی۔ پھر یہ لوگ کھڑے ہو جائیں اور دوسری رکعت پڑھیں اور سجدے کریں۔ محمد بن بشار کہتے ہیں، میں نے یحییٰ بن سعید سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے شعبہ کے حوالے سے مجھے بتایا کہ شعبہ، عبد الرحمن بن قاسم سے وہ قاسم سے وہ اپنے والد سے

عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ نِ الْآنْصَارِيِّ وَقَالَ لِي أُكْتُبُهُ إِلَيَّ جَنْبِهِ وَكُنْتُ أَحْفَظُ الْحَدِيثَ وَلَكِنَّهُ مِثْلُ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ نِ الْآنْصَارِيِّ

وہ صالح بن خوات سے وہ سہل بن ابی حثمہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے یحییٰ بن سعید انصاری کی روایت کے مثل بیان کرتے ہیں۔ پھر یحییٰ بن سعید نے مجھ سے کہا کہ اس حدیث کو اس کے ساتھ لکھ دو مجھے یہ حدیث اچھی طرح یاد نہیں لیکن یہ یحییٰ بن سعید انصاری کی حدیث ہی کے مثل ہے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسے یحییٰ بن سعید انصاری نے قاسم بن محمد کی روایت سے مرفوع نہیں کیا یحییٰ بن سعید انصاری کے ساتھی بھی اسے موقوف ہی روایت کرتے ہیں جب کہ شعبہ، عبد الرحمن بن قاسم بن محمد کے حوالے سے اسے مرفوع روایت کرتے ہیں۔ مالک بن انس، یزید بن رومان سے وہ صالح بن خوات سے اور وہ ایک ایسے شخص سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں جو نماز خوف آپ ﷺ کے ساتھ پڑھ چکا تھا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یہی مالک، شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے اور یہ کئی راویوں سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے دونوں گروہوں کے ساتھ ایک ایک رکعت نماز پڑھی۔ جو آپ ﷺ کے لیے دو اور ان دونوں کے لیے ایک ایک رکعت تھی۔

### باب ۳۹۳۔ قرآن کے سجدوں کے متعلق

۳۹۳۔ حضرت ابو درداءؓ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ گیارہ سجدے کیے جن میں سورہ نجم والا سجدہ بھی شامل ہے۔

### باب ۳۹۳۔ مَا جَاءَ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ

۴۹۴۔ حَدَّثَنَا سَفِيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ نَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَهَبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عَمْرِو الدَّمِشْقِيِّ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَجَدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً مِنْهَا الَّتِي فِي النَّجْمِ

اس باب میں ابن عباسؓ، ابو ہریرہؓ، ابن مسعودؓ، زید بن ثابتؓ اور عمرو بن عاصؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو درداءؓ کی حدیث غریب ہے۔ ہم اسے سعید بن ابو ہلال کی عمر دمشق سے روایت کے علاوہ نہیں جانتے عبد اللہ بن عبد الرحمن، عبد اللہ بن صالح سے وہ لیث بن سعد سے وہ خالد بن یزید سے وہ سعید بن ابو ہلال سے اور وہ عمر (یہ ابن حیان دمشقی ہیں) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: مجھے کسی خبر دینے والے نے خبر دی وہ ام درداءؓ سے اور وہ ابو درداءؓ سے روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے کہا: ”میں نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ گیارہ سجدے کیے جن میں سورہ نجم کا سجدہ بھی شامل ہے“۔ یہ حدیث سفیان بن وکیع کی عبد اللہ بن وہب سے مروی حدیث سے اسح ہے۔

### باب ۳۹۴۔ عورتوں کا مسجد جانا۔

۳۹۵۔ مجاہد کہتے ہیں ہم ابن عمرؓ کے پاس تھے کہ انہوں نے کہا: نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”عورتوں کو رات کے وقت مسجدوں میں جانے کی اجازت دو“۔ اس پر ان کے بیٹے نے کہا: اللہ کی قسم ہم ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ کیوں کہ یہ اسے فساد کا حیلہ بنا لیں گی۔ ابن عمرؓ نے فرمایا: اللہ تیرے ساتھ ایسے کرے اور ویسے کرے (یعنی بد دعا

### باب ۳۹۴۔ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ

۴۹۵۔ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَمْرٍو فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنْ دُنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَقَالَ ابْنُهُ وَاللَّهِ لَا نَأْذُنُ لَهُنَّ بِمُحْدَنَةٍ دَغَلًا فَقَالَ فَعَلَّ اللَّهُ بِكَ وَفَعَلَ أَقُولُ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ لَا نَأْذُنُ  
 دی) میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اور تم کہتے ہو کہ  
 اجازت نہیں دیں گے۔

اس باب میں ابو ہریرہؓ، زید بن خالدؓ اور زہبؓ سے بھی روایت ہے جو عبد اللہ بن مسعودؓ کی بیوی ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابن عمرؓ کی  
 حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۳۹۵۔ فِی كَرَاهِيَةِ الْبِزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ

۴۹۶۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيَىٰ بْنَ سَعِيدٍ  
 عَنْ سَفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ جَرَّاشٍ عَنْ  
 طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَحَارِبِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا  
 تَبْزُقُ عَنْ يَمِينِكَ وَلَكِنْ خَلْفَكَ أَوْ تَلْقَاءَ شِمَالِكَ أَوْ  
 نَحْتِ قَدَمِكَ الْيُسْرَى

باب ۳۹۵۔ مسجد میں تھوکنے کی کراہت  
 ۳۹۶۔ حضرت طارق بن عبد اللہ محاربؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے  
 فرمایا: جب تم نماز میں ہو تو اپنے دائیں طرف نہ تھوکو بلکہ اپنے پیچھے یا  
 اپنے بائیں طرف یا بائیں پاؤں کے نیچے تھوک دو۔

اس باب میں ابوسعیدؓ، ابن عمرؓ، انسؓ اور ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں طارق کی حدیث حسن صحیح ہے۔ میں نے  
 جارود سے کجج کے حوالے سے سنا کہ: ربیع بن جرّاش نے اسلام میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں کہ منصور بن معتمر  
 اہل کوفہ میں ائمتہ ہیں۔

۴۹۷۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ  
 بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ  
 وَسَلَّمَ الْبِزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ حَظِيْمَةٌ وَكَفَّارَةٌ تَهَا دَفَنُهَا  
 امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۹۷۔ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:  
 مسجد میں تھوکنے کا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اس کو دفن کرنا ہے۔

باب ۳۹۶۔ فِي السَّجْدَةِ فِي إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَ  
 اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

۴۹۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا سَفْيَانَ بْنِ عَيْنَةَ عَنْ  
 ابِرْبِ بْنِ مُوسَىٰ عَنْ عَطَاءِ بْنِ سَيْنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  
 قَالَ سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  
 فِي اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ

۳۹۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ہم نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ  
 ”اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ“ اور ”إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ“  
 میں سجدہ کیا۔

قتیبہ، سفیان سے وہ یحییٰ بن سعید سے وہ ابوبکر بن محمد بن حزم سے وہ عمر بن عبد العزیز سے وہ ابوبکر بن عبد الرحمن بن حارث بن  
 ہشام سے وہ ابو ہریرہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں اس حدیث میں چار تابعی ایک دوسرے سے روایت  
 کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اور اس پر اکثر علماء کا عمل ہے کہ ”إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ اور  
 ”اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ“ دونوں سورتوں میں سجدہ ہے۔

باب ۳۹۷۔ مَا جَاءَ فِي السَّجْدَةِ فِي النَّحْمِ

۴۹۹۔ حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبِزْازَانَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ نَا أَبِي عَنِ ابْنِ يُوْبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ قَالَ سَخَّذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِيهَا يَتَعْنَى وَالنَّحْمِ وَالْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ

باب ۳۹۷۔ سورہ نجم میں سجدہ

۳۹۹۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے سورہ ”نجم“ میں سجدہ کیا تو مسلمانوں، مشرکوں جنوں اور انسانوں سب سے سجدہ کیا۔

اس باب میں ابن مسعودؓ اور ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابن عباسؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض علماء کا اسی پر عمل ہے کہ سورہ ”نجم“ میں سجدہ کیا جائے۔ جب کہ بعض صحابہ وغیرہ اس بات کے قائل ہیں کہ ”مفصل“ میں کوئی سجدہ نہیں۔ یہ مالک بن انس کا بھی قول ہے۔ لیکن پہلا قول صحیح ہے۔ جو سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی قول ہے۔

باب ۳۹۸۔ مَا جَاءَ فِي مَنْ لَمْ يَسْجُدْ فِيهِ

۵۰۰۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَوْسَى نَا وَكَيْعٌ عَنْ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ يَزِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قِسْطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَّارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ النَّحْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا

باب ۳۹۸۔ جو سورہ نجم میں سجدہ نہ کرے۔

۵۰۰۔ حضرت زید بن ثابتؓ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے سورہ نجم پڑھی لیکن آپ ﷺ نے سجدہ نہیں کیا۔

امام ترمذی کہتے ہیں: زید بن ثابتؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض علماء اس حدیث کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ زید نے جب پڑھا تو انہوں نے بھی سجدہ نہیں کیا۔ ان حضرات کا کہنا ہے کہ جو شخص سجدے کی آیت سنے اس پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے اور اسے چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ مزید کہتے ہیں کہ اگر اس حالت میں سنا کہ وضو سے نہیں تھا تو جب وضو کرے اس وقت سجدہ کرے۔ یہ سفیان ثوری، اہل کوفہ اور اسحاق کا قول ہے بعض علماء کا کہنا ہے کہ سجدہ اس کے لیے ہے جو کرنا چاہے اور ثواب و فضیلت کی چاہت رکھتا ہے لہذا اس کا ترک کرنا بھی جائز ہے۔ ان کی دلیل حضرت زیدؓ کی مرفوع حدیث ہے کہ ”میں نے آنحضرت ﷺ کے سامنے سورہ نجم پڑھی اور آپ ﷺ نے سجدہ نہیں کیا“۔ پس اگر سجدہ واجب ہوتا تو آپ ﷺ زید کو اس وقت تک نہ چھوڑتے جب تک وہ اور آنحضرت ﷺ خود سجدہ نہ کر لیتے۔ ان کی دوسری دلیل حضرت عمرؓ کی حدیث ہے کہ انہوں نے منبر پر سجدے کی آیت پڑھی اور اتر کر سجدہ کیا۔ پھر دوسرے جیسے کودو بارہ وہی آیت پڑھی تو لوگ سجدے کے لیے مستعد ہو گئے اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا: یہ سجدہ ہم پر فرض نہیں ہے۔ ہاں اگر ہم چاہیں تو سجدہ کریں چنانچہ نہ انہوں نے سجدہ کیا اور نہ ہی لوگوں نے۔

باب ۳۹۹۔ سورہ ”ص“ میں سجدہ

۵۰۱۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں: میں نے آنحضرت ﷺ کو سورہ ”ص“ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں یہ واجب سجدوں میں سے نہیں۔

باب ۳۹۹۔ مَا جَاءَ فِي السَّجْدَةِ فِي صَ

۵۰۱۔ حَدَّثَنَا ابْنُ عَمْرٍو نَا سَفِيَانٌ عَنْ ابْنِ يُوْبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِي صَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

وَلَيْسَتْ فِي عَزَائِمِ السُّجُودِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس میں علماء صحابہ وغیرہ کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس میں سجدہ کرے۔ سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے لیکن بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ نبی کی توبہ ہے لہذا یہاں سجدہ واجب نہیں۔

باب ۴۰۰۔ فِي السَّجْدَةِ فِي الْحَجِّ

باب ۴۰۰۔ سورہ ”حج“ میں سجدہ۔

۵۰۲۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ أَبِي لَهْيَعَةَ عَنْ مَشْرِحِ بْنِ هَامَانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ بِأَنَّ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ قَالَ نَعَمْ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهَا فَلَا يَقْرَأْهَا

۵۰۲۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! سورہ حج کو دوسری سورتوں پر فضیلت دی گئی کیونکہ اس میں دو سجدے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں جو سجدہ کرنا نہ چاہے وہ اسے نہ پڑھے۔

امام ترمذی کہتے ہیں اس حدیث کی سند قوی نہیں۔ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ حضرت عمر بن خطابؓ اور ابن عمرؓ سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: ”سورہ حج کو اس وجہ سے فضیلت حاصل ہے کہ اس میں دو سجدے ہیں“۔ یہ ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے جب کہ بعض کے نزدیک اس میں ایک ہی سجدہ ہے یہ سفیان ثوری، مالک اور اہل کوفہ کا قول ہے۔

باب ۴۰۱۔ مَا جَاءَ مَا يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ

باب ۴۰۱۔ قرآن کے سجدوں میں کیا پڑھے؟

۵۰۳۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدِ بْنِ حَنِيْسٍ نَا الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ جُرَيْجٍ يَا حَسَنُ أَخْبِرْنِي عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ أَبِي يَزِيدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتِي اللَّيْلَةَ وَأَنَا نَائِمٌ كَأَنِّي أَصْلَى خَلْفَ شَجَرَةٍ فَسَجَدْتُ فَسَجَدَتِ الشَّجَرَةُ لِسُجُودِي فَسَمِعْتَهَا وَهِيَ تَقُولُ اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا وَضَعْ عَنِّي بِهَا وَزْرًا وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ قَالَ الْحَسَنُ قَالَ لِي بَنُ جُرَيْجٍ قَالَ لِي حَدِّثْكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سَجْدَةً ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مِثْلَ مَا أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ مِنْ قَوْلِ الشَّجَرَةِ

۵۰۳۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں: ایک شخص آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے رات کو سوتے ہوئے خواب میں دیکھا کہ میں ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ میں نے سجدہ کیا تو درخت نے بھی سجدہ کیا پھر میں نے اسے کہتے ہوئے سنا کہ اے اللہ میرے لیے اس سجدے کا ثواب لکھ اور اس کی وجہ سے میرے گناہ کم کر اور اسے اپنے پاس میرے لیے ذخیرہ آخرت بنا اور اسے مجھ سے قبول فرما جیسا کہ تو نے اپنے بندے داؤد سے قبول فرمایا۔ حسن کہتے ہیں کہ ابن جریج نے مجھے بتایا کہ تمہارے دادا نے مجھے ابن عباسؓ کے حوالے سے کہا کہ پھر آنحضرت ﷺ نے سجدے کی آیت پڑھی اور سجدہ کیا۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ بھی سجدے میں وہی دعا پڑھ رہے تھے جو اس شخص نے درخت کے متعلق بیان کی تھی (وہ دعا۔ ”اللہم اکتب“..... سے ”من عبدک داؤد“ تک ہے۔

اس باب میں ابوسعیدؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث ابن عباسؓ کی روایت سے غریب ہے ہم اسے ان کی روایت سے اس سند کے علاوہ نہیں جانتے۔

۵۰۴۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ رات کو قرآن کے سجدوں میں یہ دعا (”سجدو جہی“ سے آخر تک پڑھا کرتے تھے) یعنی میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اسے بنایا اور اپنی قوت و قدرت سے اس میں کان اور آنکھ بنائی۔

۵۰۴۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا عَبْدِ الْوَهَّابِ الشَّقْفِيُّ التَّقِضِيُّ نَا خَالِدَ الْحِذَّاءِ عَنِ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ سَجْدًا وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَّرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۴۰۲۔ جس کا کوئی وظیفہ رات کو چھوٹ جائے وہ اُسے دن میں پڑھ لے۔

باب ۴۰۲۔ مَا ذَكَرْتُ مِنْ فَاتَةِ حِزْبِهِ مِنَ اللَّيْلِ فَقَضَاهُ بِالنَّهَارِ

۵۰۵۔ عبدالرحمن بن عبدالقاری کہتے ہیں میں نے عمر بن خطابؓ سے سنا کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جس شخص کا رات کا وظیفہ یا اس کا کچھ حصہ چھوٹ گیا ہو وہ فجر اور ظہر کی نماز کے درمیان اسے پڑھ لے۔ وہ اس کے لیے اس طرح لکھا جائے گا جیسے کہ اس نے رات ہی کو پڑھا ہو۔

۵۰۵۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا أَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ وَعَبِيدَ اللَّهِ أَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كَتَبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابوصفوان کا نام عبداللہ بن سعید کی ہے۔ ان سے حمید اور کئی حضرات نے روایت کی ہے۔

باب ۴۰۳۔ جو شخص رکوع یا سجدے میں امام سے پہلے سر اٹھائے اس کے متعلق وعید

باب ۴۰۳۔ مَا جَاءَ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ

۵۰۶۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے اسے بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر جیسا بنا دے گا، حماد کے حوالے سے کہتے ہیں کہ محمد بن زیاد بن کہا کہ ابو ہریرہؓ نے ”اما محشی“ کا لفظ کہا۔

۵۰۶۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ أَبُو الْحَارِثِ الْبَصْرِيُّ ثِقَةٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَمَّا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوَّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ قَالَ قُتَيْبَةُ قَالَ حَمَادٌ قَالَ لِي مُحَمَّدُ ابْنُ زَيْدٍ إِنَّمَا قَالَ أَمَّا يَخْشَى

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے محمد بن زیاد بصری ثقہ ہیں اور ان کی کنیت ابو حارث ہے۔

باب ۴۰۴۔ جو شخص فرض نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کی امامت کرے۔

باب ۴۰۴۔ مَا جَاءَ فِي الَّذِي يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ ثُمَّ يَوْمُ النَّاسِ بَعْدَ ذَلِكَ

۵۰۷۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ معاذ بن جبلؓ آنحضرت ﷺ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے اور پھر اپنی قوم میں جا کر ان کی

۵۰۷۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ

يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ اِمامت کرتے۔  
ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُؤْمِنُهُمْ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر ہمارے اصحاب شافعی، احمد اور اسحاق کا عمل ہے کہ اگر کوئی شخص فرض نماز کی اِمامت کرے باوجودیکہ وہ اسے پڑھ بھی چکا ہے تو مقتدیوں کے لیے اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔ ان کی دلیل حضرت جابرؓ کی حدیث ہے جس میں حضرت معاذؓ کا قصہ ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے اور کئی سندوں سے جابرؓ سے مروی ہے۔ ابودرداء سے مروی ہے کہ ان سے اس شخص کے متعلق سوال کیا گیا۔ جو مسجد میں داخل ہوا اور عصر کی نماز پڑھی جا رہی ہو لیکن وہ ظہر سمجھ کر ان کے ساتھ شریک ہو جائے؟ انہوں نے فرمایا: اس کی نماز ہوگئی لیکن اہل کوفہ کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ اگر امام عصر کی نماز پڑھ رہا ہو اور مقتدی اسے ظہر سمجھ رہے ہوں اور اس کی اقتداء میں ظہر کی نماز پڑھ لیں تو مقتدیوں کی نماز فاسد ہو جائے گی کیوں کہ امام اور مقتدی کی نیت میں اختلاف ہے۔ (وہ ظہر کی اور امام عصر کی نیت کیے ہوئے ہے)۔

باب ۴۰۵۔ مَاجَاءَ فِي الرَّخِصَةِ فِي السُّجُودِ عَلَيَّ  
بَاب ۴۰۵۔ گرمی یا سردی کی وہ سے کپڑے پر سجدے کی اجازت  
التَّوْبِ فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ

۵۰۸۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
المبارك نا خالد بن عبدالرحمن قال حدثني غالب  
القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن  
مَالِكٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَالِهِ وَسَلَّمَ بِالظُّهَائِرِ سَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا اتِّقَاءَ الْحَرِّ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں جابر بن عبد اللہ اور ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے وکج بھی یہ حدیث خالد بن عبدالرحمن سے روایت کرتے ہیں۔

باب ۴۰۶۔ مَا ذَكَرَ مِمَّا يَسْتَحَبُّ مِنَ الْجُلُوسِ فِي  
المَسْجِدِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

۵۰۹۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا ابُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِيْمَاكٍ عَنْ  
جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  
إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ قَعَدَ فِي مَضَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۵۱۰۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعَاوِيَةَ الْجَمْحِيُّ النَّصْرِيُّ  
نا عبدالعزيز بن مسلم نا ابو ظلال عن أنس قال  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى  
الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ

حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد بیٹھ کر سورج طلوع ہونے تک اللہ کا ذکر کرتا رہا پھر دو رکعتیں پڑھیں۔ اس کے لیے ایک حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ پھر آپ ﷺ نے تین مرتبہ

الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَ  
عُمْرَةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  
تَامَةً تَامَةً تَامَةً

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ میں نے امام بخاری سے ابوطلال کے متعلق پوچھا تو کہا: وہ مقارب الحدیث ہیں  
(یعنی ان کی احادیث صحت کے قریب ہیں) ان کا نام ہلال ہے۔

باب ۴۰۷۔ مَا ذُكِرَ فِي الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ  
۵۱۱۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا نَا  
الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي هِنْدٍ  
عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْحَظُ فِي الصَّلَاةِ  
يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے کج اپنی روایت میں فضل بن موسیٰ سے اختلاف کرتے ہیں۔ محمود بن غیلان کج سے وہ  
عبداللہ بن سعید بن ابویہ ہند سے اور وہ عکرمہ کے بعض دوستوں سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نماز میں ادھر ادھر دیکھ لیتے تھے  
(یعنی بغیر گردن موڑے صرف آنکھوں سے) اور پھر مذکورہ بالا حدیث کے مثل نقل کرتے ہیں۔

۵۱۲۔ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ حَاتِمِ الْبَصْرِيِّ أَبُو حَاتِمٍ نَا  
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ  
زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَا بَنِي آدَمَ  
وَإِلْتِفَاتٍ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ  
هَلَكَةٌ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لَا فِي الْفَرِيضَةِ  
امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔

۵۱۳۔ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ  
أَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ  
عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ  
وَسَلَّمَ عَنِ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ هُوَ اجْتِنَاسٌ  
يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۴۰۸۔ مَا ذُكِرَ فِي الرَّجُلِ يُدْرِكُ الْإِمَامَ سَاجِدًا

باب ۴۰۸۔ اگر کوئی شخص امام کو سجدے میں پائے تو کیا کرے۔

كَيْفَ يَصْنَعُ

۵۱۴۔ علی اور عمرو بن مرہ، ابن ابی لیلیٰ سے اور وہ معاذ بن جبلؓ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم میں سے کوئی نماز کے لیے آئے تو امام خواہ کسی بھی حال میں ہو تم اسی طرح کرو جس طرح امام کر رہا ہو۔

۵۱۴۔ حدثنا هشام بن يونس الكوفي نا المحاربي عن الحجاج بن ارطاة عن ابى اسحق عن هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اسے اس روایت کے علاوہ کسی اور کے متصل کرنے کا ہمیں علم نہیں اسی پر علماء کا عمل ہے کہ اگر کوئی شخص امام کے بعدے میں ہونے کی حالت میں آئے تو وہ بھی سجدہ کرے۔ لیکن اگر اس کا رکوع چھوٹ جائے تو اس کے لیے سجدے میں ملنا رکعت کے لیے کافی نہیں۔ عبد اللہ بن مبارک بھی یہی کہتے ہیں کہ امام کے ساتھ سجدہ کرے جب کہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ شاید وہ شخص سجدے سے اٹھانے سے پہلے ہی بخش دیا جائے۔

باب ۴۰۹۔ نماز کے وقت لوگوں کا کھڑے ہو کر امام کا انتظار کرنا مکروہ ہے۔

باب ۴۰۹۔ كَرَاهِيَةٌ أَنْ يَنْتَظِرَ النَّاسُ الْإِمَامَ وَهُمْ قِيَامٌ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

۵۱۵۔ حضرت عبد اللہ بن ابی قتادہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اگر نماز کی اقامت ہو جائے تو تم لوگ اس وقت تک نہ کھڑے ہو جب تک مجھے نکلتے ہوئے دیکھ نہ لو۔

۵۱۵۔ حدثنا احمد بن محمد نا عبد الله بن المبارك نا معمر عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت

اس باب میں انسؓ سے بھی روایت ہے۔ ان کی روایت غیر محفوظ ہے امام ترمذی کہتے ہیں ابوقتادہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء صحابہ کی ایک جماعت لوگوں کے کھڑے ہو کر امام کا انتظار کرنے کو مکروہ سمجھتی ہے بعض علماء کہتے ہیں۔ کہ اگر امام کے مسجد میں ہوتے ہوئے اقامت ہو تو اس وقت کھڑے ہوں جب مؤذن قدامت الصلوٰۃ، قد قامت الصلوٰۃ کہے۔ ابن مبارک کا بھی یہی قول ہے۔

باب ۴۱۰۔ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آنحضرت ﷺ پر درود بھیجنا۔

باب ۴۱۰۔ مَا ذُكِرَ فِي الْفَنَاءِ عَلَى اللَّهِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الدَّعَاءِ

۵۱۶۔ حضرت عبد اللہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ آپ ﷺ، حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ ایک ساتھ تھے۔ جب میں بیٹھا تو اللہ تعالیٰ کی ثنائیاں کی۔ پھر نبی اکرم ﷺ پر درود بھیجا۔ پھر اپنے لیے دعا کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: مانگو جو مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ دومر جی اسی طرح فرمایا۔

۵۱۶۔ حدثنا محمود بن غيلان نا يحيى بن ادم نا ابو بكر بن عياش عن عاصم عن زُرِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ مَعَهُ فَلَمَّا جَلَسْتُ بَدَأْتُ بِالثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ ثُمَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

وَسَلَّمَ ثُمَّ دَعَوْتُ لِنَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَالِهِ وَسَلَّمَ سَلِّ تَعْطُهُ سَلِّ تَعْطُهُ

اس باب میں فضالہ بن عبید سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں۔ عبد اللہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ احمد بن حنبل یہی حدیث  
یحییٰ بن آدم سے مختصر بیان کرتے ہیں۔

باب ۴۱۱۔ مَا ذَكَرَ فِي تَطْيِيبِ الْمَسَاجِدِ

باب ۴۱۱۔ مسجدوں میں خوشبو کرنے کے متعلق

۵۱۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْبَغْدَادِيُّ نَا عَامِرَ بْنَ

۵۱۷۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے خلوں میں مسجدیں

صَالِحِ الزَّبِيرِيِّ نَاهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ  
قَالَتْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا  
الْمَسَاجِدِ فِي الدُّوْرِ وَأَنْ يَنْتَظَفَ وَيَتَطَيَّبَ

بنانے، انہیں صاف ستھرا رکھنے اور ان میں خوشبو (چھڑکنے) کا حکم دیا۔

ہنا، عبیدہ اور کعب سے وہ ہشام بن عروہ سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ”آپ ﷺ نے حکم دیا کہ.....“ پھر اسی کے  
مثل بیان کرتے ہیں۔ اور یہ پہلی حدیث سے صحیح ہے۔ ابن ابی عمر بھی سفیان بن عیینہ سے وہ ہشام بن عروہ سے اور وہ اپنے والد سے اسی  
حدیث کے مثل روایت کرتے ہیں۔ سفیان کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے دور میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا یعنی قبیلوں میں۔

باب ۴۱۲۔ مَا جَاءَ إِنْ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنِي مَثْنِي

باب ۴۱۲۔ رات اور دن کی (نفل) نماز دو دو رکعت ہے۔

۵۱۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

۵۱۸۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رات اور

مَهْدِي نَا شُعْبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَلِيِّ الْأَزْدِيِّ

دن کی (نفل) نماز دو دو رکعتیں ہے۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ

قَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنِي مَثْنِي

امام ترمذی کہتے ہیں شعبہ کے ساتھیوں میں اس حدیث کے متعلق اختلاف ہے بعض اسے موقوف اور بعض مرفوع روایت کرتے  
ہیں۔ عبد اللہ عمری، نافع سے وہ ابن عمرؓ سے اور وہ حضور ﷺ سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں جب کہ ابن عمرؓ کی آنحضرت ﷺ سے یہ  
روایت صحیح ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: رات کی نماز دو دو رکعتیں ہے کئی ثقہ راوی عبد اللہ بن عمرؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے روایت  
کرتے ہیں لیکن اس میں دن کی نماز کا ذکر نہیں کرتے۔ عبید اللہ سے بواسطہ نافع مروی ہے کہ ابن عمرؓ رات کو دو دو رکعتیں اور دن میں  
چار چار رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ دن و رات کی نماز دو دو رکعتیں ہے یہ شافعی اور احمد کا قول  
ہے بعض کا کہنا ہے کہ صرف رات کی نماز دو دو رکعت ہے اور اگر دن میں نوافل پڑھے جائیں تو چار چار پڑھے جائیں گے۔ جیسے کہ  
ظہر وغیرہ سے پہلے کی چار رکعتیں پڑھی جاتی ہیں یہی سفیان ثوری، ابن مبارک اور اسحاق کا بھی قول ہے۔

باب ۴۱۳۔ كَيْفَ كَانَ يَتَطَوَّعُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

باب ۴۱۳۔ آنحضرت ﷺ دن میں کس طرح نوافل پڑھتے تھے؟

وَالِهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهَارِ

۵۱۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ

۵۱۹۔ عاصم بن ضمرہ کہتے ہیں ہم نے علیؓ سے آنحضرت ﷺ کی دن کی

نَاشِعَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ

نماز کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا: تم میں اتنی سکت نہیں۔ ہم نے کہا

اگر کسی میں اتنی سکت ہو تو۔ اس پر حضرت علیؑ نے فرمایا: جب سورج اس طرف (یعنی مشرق میں) اتنا ہوتا جتنا کہ عصر کے وقت اس طرف (مغرب کی طرف) ہوتا ہے تو آپ ﷺ دو رکعتیں پڑھتے پھر جب سورج مشرق کی طرف اس جگہ ہوتا جہاں ظہر کے وقت مغرب کی طرف ہوتا ہے تو چار رکعتیں پڑھتے پھر ظہر سے پہلے چار رکعتیں پڑھتے اور ان رکعت پڑھتے۔ پھر عصر سے پہلے دو رکعتیں پڑھتے اور ان کے درمیان ملائکہ مقربین انبیاء و مرسلین اور مومنوں و مسلمانوں میں سے ان کے متبعین پر سلام بھیجتے۔

سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّهَارِ فَقَالَ إِنَّكُمْ لَا تَطِيقُونَ ذَلِكَ فَقُلْنَا مَنْ أَطَاعَ ذَلِكَ مِنَّا فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَهُنَا عِنْدَ الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَإِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَهُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا وَيُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا يَفْصَلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ

محمد بن ثنی، محمد بن جعفر سے وہ شعبہ سے وہ ابواسحاق سے وہ عاصم بن ضمرہ سے وہ حضرت علیؑ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے اسحاق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ آپ ﷺ کے دن میں نوافل کے متعلق مروی احادیث میں یہ سب سے بہتر ہے۔ ابن مبارک اس حدیث کی تضعیف کرتے تھے میرے خیال میں اس کا سبب یہی ہوگا کہ اس طرح کی روایات آپ ﷺ سے صرف اسی طریق سے مروی ہیں واللہ اعلم۔ یعنی عاصم بن ضمرہ بحوالہ علیؑ بیان کرتے ہیں۔ عاصم بن ضمرہ بعض محدثین کے نزدیک ثقہ ہیں۔ علاؤ الدین مدینی، یحییٰ بن سعید قطان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ سفیان نے کہا: ہم عاصم بن ضمرہ کی حدیث کو حارث کی حدیث کے مقابلے میں افضل سمجھتے تھے۔

باب ۴۱۴۔ عورتوں کی چادر میں نماز پڑھنے کی کراہت۔

۵۲۰۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ اپنی بیویوں کی چادروں میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔

باب ۴۱۴۔ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي لِحْفِ النِّسَاءِ  
۵۲۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَالِي نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَشْعَثَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي فِي لِحْفِ نِسَائِهِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور آپ ﷺ سے اس میں اجازت بھی مروی ہے۔

باب ۴۱۵۔ نفل نماز میں چلنے اور عمل کے متعلق (یعنی جو جائز ہے)

باب ۴۱۵۔ مَا يَجُوزُ مِنَ الْمَشْيِ وَالْعَمَلِ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ

۵۲۱۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ گھر آئی تو آپ ﷺ گھر کا دروازہ بند کر کے نماز پڑھ رہے تھے چنانچہ آپ ﷺ نے چل کر میرے لیے دروازہ کھولا اور پھر اپنی جگہ واپس چلے گئے حضرت عائشہؓ

۵۲۱۔ حَدَّثَنَا ابُو سَلْمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفِ نَا بَشَرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ بَرْدِ بْنِ سَنَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَعْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَالِهٖ وَسَلَّم يُّصَلِّي فِي الْبَيْتِ وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُعْلَقٌ  
فَمَشَى حَتَّى فَتَحَ لِي ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ وَوَصَفَتِ  
الْبَابَ فِي الْقِبْلَةِ

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۴۱۶۔ مَا ذُكِرَ فِي قِرَاءَةِ سُورَتَيْنِ فِي رُكْعَةٍ

۵۲۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نا أَبُو دَاوُدَ قَالَ  
أَبَانَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ  
سَأَلَ رَجُلٌ عَبْدَ اللَّهِ عَنْ هَذَا الْحَرْفِ غَيْرِ اسِيْنِ أَوْ  
يَاسِيْنِ قَالَ كُلُّ الْقُرْآنِ قَرَأَتْ غَيْرَ هَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ  
إِنَّ قَوْمًا يَقْرَءُوْنَ وَنَهَ يَنْشُرُوْنَهُ نَشْرَ الدَّقْلِ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ  
إِنِّي لَأَعْرِفُ السُّورَةَ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بَيْنَهُمْ قَالَ فَأَمَرْنَا  
عَلَقَمَةَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عَشْرُونَ سُورَةً مِنَ الْمَفْصَلِ  
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بَيْنَ كُلِّ  
سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رُكْعَةٍ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۴۱۷۔ مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الْمَسْجِدِ  
وَمَا يُكْتَبُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ فِي خُطَاةٍ

۵۲۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نا أَبُو دَاوُدَ قَالَ  
أَبَانَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ سَمِعَ ذُكْوَانَ عَنِ أَبِي  
هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا  
تَوَضَّأَ الرَّجُلُ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ  
لَا يُخْرِجُهُ أَوْ قَالَ لَا يُنْهَئُهُ إِلَّا إِيَّاهَا لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً  
إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۴۱۸۔ مَا ذُكِرَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَغْرَبِ أَنَّهُ فِي

فرماتی ہیں کہ دروازہ قبلے کی طرف ہی تھا۔

باب ۴۱۶۔ ایک رکعت میں دو سورتیں پڑھنا۔

۵۲۲۔ اعمش فرماتے ہیں کہ میں نے ابو وائل سے سنا کہ ایک شخص نے  
حضرت عبداللہؓ سے اس حرف کے متعلق پوچھا کہ ”غیر اسن“ ہے یا  
”غیر یاسن“ عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا: کیا تم نے اس کے علاوہ پورا  
قرآن پڑھ لیا ہے؟ اس نے کہاں ہاں۔ ابن مسعودؓ نے فرمایا: کچھ لوگ  
قرآن مجید کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کوئی رومی کھجوروں کو بکھیرتا ہے  
اور قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا (یعنی دل پر اثر نہیں کرتا)  
مجھے ایسی تشابہ سورتوں کا علم ہے جنہیں آنحضرت ﷺ آپس میں ملا کر  
پڑھا کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں ہم نے علقمہ سے کہا تو انہوں نے  
ابن مسعودؓ سے ان سورتوں کے متعلق پوچھا اس پر انہوں نے فرمایا: وہ  
مفصل کی بیس سورتیں ہیں جن میں سے دو دو کو نبی کریم ﷺ ایک رکعت  
میں جمع کرتے تھے۔ (۱)

باب ۴۱۷۔ مسجد کی طرف چلنے کی فضیلت اور ان قدموں کے اجر کے  
متعلق۔

۵۲۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب کوئی  
شخص اچھی طرح وضو کر کے نماز کے لیے نکلتا ہے بشرطیکہ اسے نماز کے  
علاوہ کسی اور چیز نے نہ نکالا ہو، یا فرمایا نہ اٹھایا ہو تو اس کے ہر قدم پر  
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند اور ایک گناہ کم کرتے ہیں۔

باب ۴۱۸۔ مغرب کے بعد گھر میں نماز پڑھنا (نوافل وغیرہ) افضل

(۱) ان سورتوں کی تفصیل معارف السنن میں موجود ہے۔ ج ۵ ص ۱۳۹

الْبَيْتِ أَفْضَلُ

ہے۔

۵۲۳۔ سعید بن اسحاق بن کعب بن عجرہ اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے بخوشی کی مسجد میں مغرب کی نماز پڑھی۔ چنانچہ کچھ لوگ نوافل پڑھنے لگے۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: تم لوگوں کو چاہئے کہ یہ نماز گھروں میں پڑھو۔

۵۲۴۔ حدثنا محمد بن بشار نا ابراهيم بن ابى الوزير نا محمد بن موسى عن سعيدي بن اسحاق بن كعب بن عجرة عن ابيه عن جده قال صلى النبي ﷺ عليه وسلم في مسجد بني عبد الأشهل المغرب فقام ناس يتنفلون فقال النبي ﷺ صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الصلوة في البيوت

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اس روایت کے علاوہ اسے نہیں جانتے اور صحیح وہ ہے جو عبد اللہ بن عمر سے مروی ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ مغرب کے بعد گھر میں دو رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔“ حدیث سے یہ بھی مروی ہے کہ ”آنحضرت ﷺ نے مغرب کی نماز پڑھی اور پھر عشاء تک نماز میں پڑھنے میں مشغول رہے۔“ پس اس حدیث میں اس بات پر دلالت ہے کہ آپ ﷺ نے مغرب کے بعد مسجد میں بھی نماز پڑھی۔

باب ۳۱۹۔ جب کوئی شخص مسلمان ہو تو غسل کرے

باب ۴۱۹۔ فی الاغتسال عند ما یسلم الرجل

۵۲۵۔ حضرت قیس بن عاصم فرماتے ہیں کہ وہ اسلام لائے تو حضور اکرم ﷺ نے انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے نہانے کا حکم دیا۔

۵۲۵۔ حدثنا بندار نا عبدالرحمن بن مهدی نا سفیان عن الاغر الصباح عن خليفة ابن حصين عن قيس بن عاصم انه اسلم فامرته النبي ﷺ صلى الله عليه وآله وسلم ان يغتسل بماء و يسدر

اس باب میں حضرت ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ اسی پر علماء کا عمل ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کرے تو اس کے لیے غسل کرنا اور کپڑے دھونا مستحب ہے۔

باب ۳۲۰۔ بیت الخلاء جاتے وقت بسم اللہ کہنا۔

باب ۴۲۰۔ ما ذکر من التسمية في دخول الخلاء

۵۲۶۔ حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنوں کی آنکھوں اور انسانوں کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب کوئی بیت الخلاء جائے تو ”بسم اللہ“ پڑھے۔

۵۲۶۔ حدثنا محمد بن حميد الرازي نا الحكم بن بشير بن سلمان نا خلاد الصفار عن الحكم بن عبد الله النصري عن ابي اسحق عن ابي جحيفة عن علي بن ابي طالب ان رسول الله ﷺ صلى الله عليه وآله وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله

امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے ہم اسے اس روایت کے علاوہ نہیں جانتے اور اس کی سند قوی نہیں۔ حضرت انسؓ سے بھی اس باب میں کچھ مروی ہے۔

باب ۴۲۱۔ قیامت کے دن وضو اور سجدوں کی وجہ سے اس امت کی نشانی۔

۵۲۷۔ حضرت عبداللہ بن بسرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن میری امت کے چہرے سجدوں کی وجہ سے اور ہاتھ پیر وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔

باب ۴۲۱۔ مَا ذُكِرَ مِنْ سَيِّمَاءٍ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ أَثَارِ السُّجُودِ وَالطُّهُورِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

۵۲۷۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ نَا الْوَلِيدِ بْنِ مَسْلَمٍ قَالَ قَالَ صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرٌّ مِنَ السُّجُودِ مُحَجَّلُونَ مِنَ الْوُضُوءِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے یعنی عبداللہ بن بسرؓ کی روایت سے۔

باب ۴۲۲۔ وضو داہنی طرف سے شروع کرنا مستحب ہے۔

۵۲۸۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ طہارت (وضو وغیرہ) میں داہنی طرف سے شروع کرنا پسند کرتے تھے اسی طرح کنگھی کرتے وقت اور جوتی پہننے وقت بھی داہنی طرف سے ہی شروع کرنا پسند کرتے تھے۔

باب ۴۲۲۔ مَا يَسْتَحِبُّ مِنَ التَّيْمَنِ فِي الطُّهُورِ

۵۲۸۔ حَدَّثَنَا هِنَادُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ اشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحِبُّ التَّيْمَانَ فِي طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ وَفِي تَرْجُلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ

ابو شعشاء کا نام سلیم بن اسود مجاہد بن ابی امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۴۲۳۔ وضو کے لیے کتنا پانی کافی ہے؟

۵۲۹۔ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: وضو کے لیے دو رطل پانی کافی ہے۔

باب ۴۲۳۔ ذُكِرَ قَدْرٌ مَا يُجْزِي مِنَ الْمَاءِ فِي الْوُضُوءِ

۵۲۹۔ حَدَّثَنَا هِنَادُنَا وَكَيْعٌ عَنْ شَرِيكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيْسَى عَنْ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُجْزِي فِي الْوُضُوءِ رَطْلَانِ مِنَ الْمَاءِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے ہم اس کے یہ الفاظ شریک کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے۔ شعبہ، عبداللہ بن عبداللہ بن جبر سے اور وہ انس بن مالکؓ سے کہ ”رسول اللہ ﷺ ایک ملوک (م) سے وضو اور پانچ ملوک سے غسل کیا کرتے تھے“۔ (۱)

باب ۴۲۴۔ دودھ پیتے بچے کے پیشاب پر پانی بہانا کافی ہے۔

۵۳۰۔ حضرت علی بن ابی طالبؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے دودھ پیتے بچوں کے پیشاب کے متعلق فرمایا کہ لڑکے کے پیشاب پر پانی بہا دینا کافی ہے جب کہ لڑکی کے پیشاب کو دھونا ضروری ہے قنادہ کہتے ہیں یہ اس صورت میں ہے کہ کھانا نہ کھانے لگیں۔ اگر کھانے لگیں تو

باب ۴۲۴۔ مَا ذُكِرَ فِي نَضْحِ بَوْلِ الْغُلَامِ الرَّضِيعِ

۵۳۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مَعَاذِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَرْبٍ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي بَوْلِ الْغُلَامِ الرَّضِيعِ يُنَضَّحُ بَوْلُ الْغُلَامِ

(۱) اس کی تفصیل باب: ”ایک مد پانی سے وضو کرنا“ میں گزر چکی ہے۔ (مترجم)

وَيُغَسَّلُ بَوْلَ الْحَارِيَةِ قَالَ قَتَادَةُ وَهَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا  
فَإِذَا طَعِمَا غُسِلَا جَمِيعًا

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے اس حدیث کو ہشام دستوائی نے قتادہ کی روایت سے مرفوع اور سعید بن ابی عروبہ نے قتادہ ہی کی روایت سے موقوف روایت کیا ہے۔

باب ۴۲۵۔ مَا ذُكِرَ فِي الرُّحْصَةِ لِلْجُنْبِ فِي الْأَكْلِ وَالنَّوْمِ إِذَا تَوَضَّأَ

۵۳۱۔ حَدَّثَنَا هِنَادُنَا قَبِيصَةُ عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلْمَةَ عَنْ عَطَاءِ الْحِزْأِ سَأَنِي عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ عَمَارِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلْجُنْبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرِبَ أَوْ يَنَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

باب ۴۲۶۔ مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ

۵۳۲۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ نَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُوسَى نَا غَالِبَ ابْنِ بَشْرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِدِ الطَّائِيِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ مَسْلَمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَعْبُدُكَ بِاللَّهِ يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ مِنْ أُمَّرَاءِ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِي فَمَنْ عَشِيَ أَبُوَابَهُمْ فَصَلَّوْهُمْ فِي كَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضُ وَمَنْ عَشِيَ أَبُوَابَهُمْ أَوْلَمَ يَغْشَ وَلَمْ يَصَلِّقَهُمْ فِي كَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعْنَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَسِيرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضُ يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ الصَّلَاةُ بُرْهَانٌ وَالصَّوْمُ حُنَّةٌ حَصِينَةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ إِنَّهُ لَا يَرْبُؤُا لِحَمِّ نَبْتٍ مِنْ سُحْبٍ إِلَّا كَانَتْ النَّارُ أَوْلَى بِهِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ میں نے بخاری سے اس کے متعلق پوچھا، وہ بھی اسے عبید اللہ بن موسیٰ کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے اور اسے بہت غریب کہتے ہیں۔ بخاری کہتے ہیں ہم سے اس حدیث کی روایت نیر نے کی ہے اور وہ عبید اللہ بن موسیٰ سے غالب کے حوالے سے روایت کرتے ہیں۔

باب ۴۲۵۔ جنسی اگر وضو کر لے تو اس کے لیے کھانے اور سونے کی اجازت ہے۔

۵۳۱۔ حضرت عمارؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جنسی کے متعلق فرمایا: کہ اگر وہ کھانا پینا یا سونا چاہے تو اسی طرح وضو کر لے جیسے نماز کے لیے کرتا ہے۔

باب ۴۲۶۔ نماز کی فضیلت۔

۵۳۲۔ حضرت کعب بن عجرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: اے کعب بن عجرہؓ میں تجھے ان امراء سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں جو میرے بعد ہوں گے۔ جو شخص ان کے دروازوں پر آکر ان کے جھوٹ کو سچ اور ان کے ظلم میں ان کی اعانت کرے گا اس کا مجھ سے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں اور وہ حوض پر نہ آسکے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص ان کے دروازوں پر آیا، یا اگر نہ بھی آیا صرف اس نے ان کے جھوٹ کو سچ اور ظلم میں اعانت نہ کی وہ مجھ سے اور میں اس سے وابستہ ہوں ایسا شخص میرے حوض پر آسکے گا۔ اے کعب بن عجرہؓ نماز دلیل و حجت اور روزہ مضبوط ڈھال ہے۔ جب کہ صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو اے کعب بن عجرہؓ کوئی گوشت ایسا نہیں جو حرام مال سے پرورش پاتا ہو اور آگ کا حقدار نہ ہو۔

باب ۴۲۷۔ بَابِ مَنَّهُ

باب ۳۲۷۔ اسی سے متعلق

۵۳۳۔ حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكوفي نا زيد بن الحباب نا معاوية بن صالح قال حدثني سليم بن عامر قال سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ فَقَالَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوا حَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَادُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَاطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أَمَامَةَ مُنذَكُم سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ سَمِعْتُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثِينَ سَنَةً

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

اخْرُ أَبُوَابِ الصَّلَاةِ

باب ۴۲۸۔ أَبْوَابِ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَابُ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي مَنَعِ الزَّكَاةِ مِنَ التَّشْدِيدِ

۵۳۴۔ حدثنا هنادنا بن السري نا ابو معاوية عن الاعمش عن معرور بن سويد عن ابي ذر قال جئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة قال فراني مقبلا فقال هم الاحسرور ورب الكعبة يوم القيامة قال فقلت مالي لعله انزل في شئ قال قلت من هم فذاك ابي واممي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الاكثرورن الا من قال هكذا وهكذا فحصى بين يديه وعن يمينه وعن شماله ثم قال والذي نفسي بيده لا يموت رجل فيدع ابلا او بقرا لم يود زكوتها الا جاءه نه يوم القيامة اعظم ما كانت واسمته تطوه باخفا فيها وتنطحه بقرونها كلما نفدت اخرها

۵۳۳۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے سنا آپ ﷺ نے فرمایا: اپنے پروردگار اللہ رب العزت سے ڈرو، ہنجانہ نماز پڑھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، اپنے حاکم کی اطاعت کرو، اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جائے۔ راوی کہتے ہیں میں نے ابو امامہ سے پوچھا: آپ نے یہ حدیث کب سے سن رکھی ہے۔ فرمایا: جب میں تیس سال کا تھا اس وقت سنی تھی۔

یہاں نماز کے ابواب ختم ہو گئے

باب ۳۲۸۔ رسول اللہ ﷺ سے مروی ابواب زکوٰۃ

زکوٰۃ نہ دینے پر آنحضرت (ﷺ) سے منقول وعید۔

۵۳۳۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ ﷺ کعبہ کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ مجھے آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: رب کعبہ کی قسم! وہ قیامت کے دن خسارہ پانے والے ہیں۔ ابو ذر فرماتے ہیں: میں نے سوچا کیا ہو گیا شاید میرے متعلق کچھ اُترا ہے میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان وہ لوگ کون ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ مالدار لوگ ہیں الا یہ کہ جو ادھر ادھر دے پھر آپ ﷺ نے دونوں ہاتھوں سے لپ بنا کر دائیں بائیں اور سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ پھر فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ جو شخص مرتے وقت اونٹ گائے وغیرہ بغیر زکوٰۃ کے چھوڑ کر جاتا ہے قیامت کے دن یہی جانور اس سے زیادہ طاقتور اور موٹا ہو کر آئے گا اور اس کو اپنے کھروں تلے روندتے اور سینگ مارتے ہوئے گزر جائے گا۔ جب وہ

عَادَتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا حَتَّى يُفْضَى بَيْنَ النَّاسِ

گزر جائے گا۔ تو پچھلا جانور لوٹے گا اور اس کے ساتھ اسی طرح ہوتا رہے گا یہاں تک کہ لوگ حساب کتاب سے فارغ ہو جائیں۔

اس باب میں حضرت ابو ہریرہؓ سے بھی اسی کے مثل روایت ہے حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ زکوٰۃ کے مانع پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ قبیسہ بن بلب اپنے والد سے ابو جابر بن عبداللہ اور عبداللہ بن مسعودؓ بھی روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابو ذرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو ذر کا نام جندب بن سکین ہے انہیں ابن جنادہ بھی کہا جاتا ہے۔ عبداللہ بن مزیر، عبید اللہ بن موسیٰ سے وہ سفیان ثوری سے اور وہ حکیم بن ویلم سے روایت کرتے ہیں کہ ضحاک بن مزاحم نے کہا: ”اکثر من“ یعنی مالدار سے مراد دس ہزار والے ہیں۔

باب ۴۲۹۔ مَا جَاءَ إِذَا أَدَيْتَ الزُّكُوهَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ  
۵۳۵۔ حدثنا عمر بن حفص الشيباني نا عبد الله بن وهب نا عمرو بن الحارث عن دراج عن ابي حنيفة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكوة مالك فقد قضيت ما عليك

باب ۴۲۹۔ اگر زکوٰۃ ادا کر دی تو واجب ادا ہو گیا۔  
۵۳۵۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو جو تم پر واجب تھا وہ تم نے ادا کر دیا۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے اور کئی سندوں سے آپ ﷺ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے جب زکوٰۃ کا تذکرہ کیا تو ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ فرض ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں ہاں اگر تم اپنی خوشی سے خیرات وغیرہ دینا چاہو۔ ابن ہبیرہ، عبدالرحمن بن حمیرہ بصری ہیں۔

۵۳۶۔ حدثنا محمد بن اسمعيل ثنا علي بن عبد الحميد الكوفي نا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال كنا نتمنى أن ينتدئ الأعرابي العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فبينما نحن كذلك إذ أتاه أعرابي فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن رسولك أتانا فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال فبالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال الله أرسلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا خمس صلوات في اليوم والليلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال فبالذي أرسلك أ الله امرك بهذا فقال نعم قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا صوم شهر

۵۳۶۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ہماری تمنا ہوتی تھی کہ کوئی عاقل دیہاتی شخص آئے اور حضور اکرم ﷺ سے سوال کرے تو ہم بھی موجود ہوں ہم اس خیال میں تھے کہ ایک اعرابی (دیہاتی) آیا اور آپ ﷺ کے سامنے دوڑا نو ہو کر بیٹھ گیا اور کہا: اے محمد ﷺ! آپ ﷺ کا قاصد ہمارے پاس آیا اور کہا کہ آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ اللہ کے رسول ﷺ ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ اعرابی نے کہا: قسم ہے اس رب کی جس نے آسمانوں کو بلند کیا، زمین کو بچھایا اور پہاڑوں کا گاڑا۔ کیا اللہ ہی نے آپ کو بھیجا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ اعرابی نے کہا: آپ کا قاصد کہتا ہے کہ آپ ﷺ ہم پر دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض بتاتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ اعرابی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ ﷺ کو بھیجا۔ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ اعرابی نے کہا: آپ کا قاصد یہ بھی کہتا ہے کہ ہم پر ہر سال ایک ماہ کے روزے رکھنا فرض ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس نے سچ کہا ہے۔ اعرابی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے

آپ کو بھیجا۔ کیا یہ حکم بھی اللہ ہی نے دیا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ اعرابی نے کہا: آپ کا قاصد یہ بھی کہتا ہے کہ آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ ہمارے اموال پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس نے ٹھیک کہا ہے۔ اعرابی نے کہا: اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو بھیجا: اس کا حکم بھی اللہ ہی نے دیا ہے! آپ نے فرمایا: ہاں۔ اعرابی نے کہا: آپ کا قاصد دعویٰ کرتا ہے کہ آپ ﷺ ہم میں سے جو صاحب استطاعت ہو اس کے لیے بیت اللہ کا حج فرض قرار دیتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ اعرابی نے کہا: اس ذات کی قسم جس نے آپ ﷺ کو رسول بنایا: کیا یہ حکم بھی اللہ ہی نے دیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ اس پر اعرابی نے کہا: اس ذات کی قسم جس نے آپ ﷺ کو دین حق دے کر بھیجا میں اس میں سے کوئی چیز نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی اس سے زیادہ کروں گا پھر وہ اٹھ کر چل دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر اعرابی سچا ہے تو جنت میں داخل ہو گیا۔

فِي السَّنَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ قَالَ فَبَالِدِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ بِهَذَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ رَسُولَكَ زَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ عَلَيْنَا فِي أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ قَالَ فَبَالِدِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَ إِنَّ رَسُولَكَ زَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ عَلَيْنَا الْحَجَّ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَ فَبَالِدِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَدْعُ مِنْهُنَّ شَيْئًا وَلَا أَجَاوِزُهُنَّ ثُمَّ وَتَبَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ صَدَقَ الْأَعْرَابِيُّ دَخَلَ الْجَنَّةَ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث اس سند سے حسن ہے۔ اور اس سند کے علاوہ بھی حضرت انسؓ سے مروی ہے۔ میں نے امام بخاری سے سنا کہ بعض محدثین اس حدیث سے یہ حکم مستنبط کرتے ہیں کہ استاد کے سامنے پڑھنا اور پیش کرنا سماع ہی کی طرح جائز ہے۔ ان کی دلیل اعرابی کی یہ حدیث ہے کہ اس نے آپ ﷺ کے سامنے بیان کیا جس پر آپ ﷺ نے اقرار کیا۔

باب ۴۳۰۔ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ

۵۳۷۔ حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: میں نے گھوڑوں اور غلاموں کی زکوٰۃ تو معاف کر دی۔ لہذا چاندی کی زکوٰۃ ہر چالیس درہم پر ایک درہم ادا کرو۔ پھر مجھے ایک سونوے (۱۹۰) درہم میں سے زکوٰۃ نہیں چاہیے ہاں اگر وہ دوسو ہو جائیں تو ان پر پانچ درہم (زکوٰۃ ہے)۔

باب ۴۳۰۔ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ  
۵۳۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَّارِبِ نَابُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا لَيْسَ لِي فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةٌ دِرْهَمًا

اس باب میں ابو بکر صدیقؓ اور عمرو بن حزمؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث اعمش اور ابو عوانہ وغیرہ ابواسحاق سے وہ عاصم بن ضمیر سے اور وہ حضرت علیؓ سے روایت کرتے ہیں۔ پھر سفیان ثوری اور ابن عیینہ اور کئی راوی بھی ابواسحاق سے وہ حارث سے اور وہ حضرت علیؓ سے روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں میں نے بخاری سے اس کے متعلق پوچھا تو کہا: میرے نزدیک دونوں صحیح ہیں۔ ممکن ہے کہ ابواسحاق دونوں سے روایت کرتے ہوں۔

باب ۴۳۱۔ مَا جَاءَ فِي زَكْوَةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ

۵۳۸۔ حدثنا زياد بن ايوب البيهقي و ابراهيم بن عبد الله الهروي. و محمد بن كامل المروزي المعنى واحد قالوا نا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهرري عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجته الى عماله حتى قبض فقرته بسيفه فلما قبض عمل به ابو بكر حتى قبض وعمر حتى قبض. وكان فيه في خمس من الابل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلث شياه وفي عشرين اربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض الى خمس وثلثين فاذا زادت ففيها بنت لبون الى خمس واربعين ففيها حقة الى ستين فاذا زادت ففيها حدة الى خمس وستين فاذا زادت ففيها البتالبون الى تسعين فاذا زادت ففيها حقتان الى عشرين ومائة فاذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين ابنة لبون وفي الشاة في كل اربعين شاة الى عشرين ومائة فاذا زادت فشاتان الى مائتين فاذا زادت فثلث مائة شاة فاذا زادت على ثلث مائة شاة ففي كل مائة شاة ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ مائة ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بالسوية ولا يؤخذ في الصدقة هزيمة ولا ذات عيب وقال الزهرري اذا جاء المصدق قسم اثلثا اثلثا ثلث خيار وثلث اوساط وثلث شرار واخذ المصدق من الوسط ولم يذكر الزهرري البقر

باب ۴۳۱۔ اونٹ اور بکریوں کی زکوٰۃ

۵۳۸۔ حضرت سالم بن عبد اللہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں۔ کہ آنحضرت ﷺ نے کتاب زکوٰۃ لکھوائی۔ لیکن ابھی اپنے عمال کو بھیج نہ پائے تھے کہ آپ ﷺ کی وفات ہو گئی اور آپ ﷺ نے اسے اپنی تلوار کے پاس رکھ دیا تھا۔ آپ ﷺ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکرؓ نے اپنی وفات تک اس پر عمل کیا۔ پھر حضرت عمرؓ نے اپنی وفات تک۔ اس میں یہ تھا کہ پانچ اونٹوں پر ایک بکری، دس اونٹوں پر دو بکریاں، پندرہ اونٹوں پر تین بکریاں، بیس اونٹوں پر چار بکریاں، پچیس سے پینتیس تک ایک سال کی اونٹنی، پینتیس سے پینتالیس تک دو سال کی اونٹنی، ساٹھ تک تین سال کی اونٹنی، ساٹھ سے پچھتر تک چار سال کی اونٹنی۔ اگر اس سے زیادہ ہوں، تو نوے تک دو اونٹنیاں، اگر اس سے زیادہ ہوں، تو ایک سو بیس اونٹوں تک تین تین سال کی دو اونٹنیاں، اور اگر ایک سو بیس سے بھی زیادہ ہوں۔ تو ہر پچاس اونٹوں پر ایک تین سال کی اونٹنی اور ہر چالیس اونٹوں پر ایک دو سال کی اونٹنی زکوٰۃ ہے۔ جب کہ بکریوں میں چالیس بکریوں پر ایک بکری، یہاں تک کہ ایک سو بیس ہو جائیں۔ پھر ایک سو بیس سے دو سو بکریوں تک دو بکریاں، دو سو سے تین سو تک تین بکریاں اور پھر ہر سو بکریوں پر ایک بکری زکوٰۃ ہے۔ اگر اس سے زیادہ ہوں تو سو تک کوئی زکوٰۃ نہیں۔ پھر متفرق اشخاص کی بکریاں یا اونٹ جمع نہ کیے جائیں۔ اور اسی طرح کسی ایک شخص کی متفرق نہ کی جائیں تاکہ زکوٰۃ ادا نہ کرنی پڑے۔ اور اگر ان میں دو شریک ہوں تو آپس میں برابر تقسیم کر لیں مزید یہ کہ زکوٰۃ میں بوڑھا اور عیب دار جانور نہیں لیا جائے گا زہری کہتے ہیں کہ جب زکوٰۃ لینے والا آئے تو بکریوں کے تین حصے کرے ایک بہترین، دوسرا متوسط اور تیسرا اس سے کم درجے کا اور پھر متوسط میں سے زکوٰۃ لے جب کہ زہری نے گائے کے متعلق کچھ ذکر نہیں کیا۔

اس باب میں ابو بکر صدیقؓ، ابو ذرؓ، انسؓ اور بہز بن حکیمؓ سے بھی روایت ہے۔ بہز بن حکیم اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عمرؓ کی حدیث حسن ہے اور اکثر فقہاء کا اسی پر عمل ہے۔ یونس بن زید اور کئی راوی بھی اس حدیث کو زہری سے بحوالہ سالم موقوف روایت کرتے ہیں جب کہ سفیان بن حصین نے اسے مرفوع روایت کیا ہے۔

باب ۴۳۲۔ مَا جَاءَ فِي زَكْوَةِ الْبَقْرِ

باب ۴۳۲۔ گائے بیل کی زکوٰۃ۔

۵۳۹۔ حدثنا محمد بن عبيد المحاربي و ابو سعيد الاشج قالنا نا عبدالسلام بن حرب عن خصيف عن ابى عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ثلثين من البقر تبع أو تبعه وفي كل أربعين مسنة

۵۳۹۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمیں گائے یا بیل پر ایک گائے یا بیل اور ہر چالیس گائے یا بیل پر دو سال کی گائے زکوٰۃ میں دی جائے۔

اس باب میں معاذ بن جبل سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ عبد السلام بن حرب نے بھی خصیف سے اسی طرح روایت کی ہے اور عبد السلام ثقہ اور حافظ ہیں۔ شریک یہ حدیث خصیف سے وہ ابو عبیدہ سے وہ اپنے والد سے اور وہ عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ ابو عبیدہ بن عبد اللہ نے اپنے والد سے کوئی حدیث نہیں سنی۔

۵۴۰۔ حدثنا محمود بن غيلان نا عبدالرزاق نا سفیان عن الاعمش عن ابى وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم الى اليمن فامرني ان اخذ من كل ثلثين بقرة تبعاً أو تبعه ومن كل أربعين مسنة ومن كل حاليم ديناراً أو عدله معافراً

۵۴۰۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے یمن بھیجا تو حکم دیا کہ تمیں گائے پر ایک سال کی ایک گائے یا بیل اور چالیس پر دو سال کی گائے زکوٰۃ لوں۔ اور پھر ہر جوان آدمی سے ایک دینار یا اس کے برابر کپڑے (جزیہ کے طور پر) لوں۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ بعض حضرات اسے سفیان سے وہ اعمش سے وہ ابو داؤد سے اور وہ مسروق سے روایت کرتے ہیں کہ ”آنحضرت ﷺ نے معاذ کو یمن بھیجا تو انہیں حکم دیا..... الخ۔ اور یہ حدیث صحیح ہے۔ محمد بن بشار، محمد بن جعفر سے وہ شعبہ سے اور وہ عمر بن مرہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو عبیدہ سے پوچھا کہ: آپ کو عبد اللہ کی کچھ باتیں یاد ہیں تو فرمایا: نہیں۔

باب ۴۳۳۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ اخْذِ خِيَارِ الْمَالِ فِي الصَّدَقَةِ

باب ۴۳۳۔ زکوٰۃ میں بہترین مال لینے کی کراہت۔

۵۴۱۔ حدثنا ابو كريب نا وكيع نا زكريا بن اسحاق المكي نا يحيى بن عبد الله بن صيفي عن ابى سعيد عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذاً الى اليمن فقال انك تأتي قوماً أهل كتاب فادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله و اني رسول الله فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله

۵۴۱۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے معاذ کو یمن بھیجا اور فرمایا: تم اہل کتاب کی ایک قوم پر سے گزرو گے لہذا انہیں دعوت دینا کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اگر وہ اسے قبول کر لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن و رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں اگر وہ یہ بھی قبول کر لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان کے اموال پر بھی زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر غریبوں کو دی جاتی ہے اگر وہ لوگ اسے بھی قبول کر لیں تو تم ان کے بہترین مال میں سے زکوٰۃ لینے سے

پر میز کرنا۔ (یعنی بہترین چیز نہ لینا) اور مظلوم کی بددعا سے بچنا۔ کیونکہ اس بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔

أَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ أَمْوَالِهِمْ تَوَخُّدًا مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتَرَدُّدًا عَلَيَّ فَقَرَأْتَهُمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَأَتَى دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

اس باب میں ضابطگی سے بھی روایت ہے ابو یوسفی ترمذی کہتے ہیں: ابن عباسؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اور ابو معبد، ابن عباسؓ کے مولیٰ ہیں۔ ان کا نام نافذ ہے۔

باب ۴۳۳۔ کھیتی، پھلوں اور غلے کی زکوٰۃ

۵۴۲۔ حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: پانچ سے کم اونٹوں میں زکوٰۃ نہیں اسی طرح پانچ اوقیہ چاندی سے کم پر اور پانچ اوسق سے کم غلے پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ (۱)

باب ۴۳۴۔ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الزَّرْعِ وَالتَّمْرِ وَالْحَبُوبِ ۵۴۲۔ حدثنا محمد بن بشار نا عبد الرحمن بن مهدى نا سفيان وشعبة و مالك بن انس عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد بن الخدري قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس فيما ذون خمسة ذون صدقة وليس فيما ذون خمسة أو سق صدقة

اس باب میں ابو ہریرہؓ، ابن عمرؓ، جابرؓ اور عبد اللہ بن عمروؓ سے بھی روایت ہے۔ محمد بن بشار، عبد الرحمن بن مهدی سے وہ سفیان سے وہ شعبہ سے وہ مالک بن انس سے وہ عمرو بن یحییٰ سے وہ اپنے والد سے وہ حضرت ابو سعید خدریؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے عبد العزیز کی عمرو بن یحییٰ سے مروی حدیث کے مثل روایت کرتے ہیں۔ اور یہ انہی سے کئی سندوں سے مروی ہے اسی پر علماء کا عمل ہے کہ پانچ اوسق سے کم غلے وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں۔ اوسق ساٹھ صاع کا ہوتا ہے لہذا پانچ اوسق تین سو صاع ہوئے۔ جب کہ آنحضرت کا صاع ۱۱ رطل کا ہوتا تھا۔ اور اہل کوفہ کا صاع آٹھ رطل کا۔ اور یہ کہ پانچ اوقیہ سے کم چاندی پر زکوٰۃ نہیں۔ اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے۔ چنانچہ پانچ اوقیہ دو سو درہم ہوئے اور نہ ہی پانچ سے کم اونٹوں پر زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اگر ان کی تعداد پچیس تک پہنچ جائے تو ایک سال کی اونٹنی اور اگر اس سے کم ہوں تو ہر پانچ پر ایک بکری زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔

باب ۴۳۵۔ گھوڑوں اور غلاموں پر زکوٰۃ نہیں۔

۵۴۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسلمان پر اس کے گھوڑے اور غلام پر زکوٰۃ نہیں۔

باب ۴۳۵۔ مَا جَاءَ لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةٌ ۵۴۳۔ حدثنا محمد بن العلاء ابو كريب ومحمود بن غيلان قالنا نا وكيع عن سفيان وشعبة عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله

(۱) اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے لہذا یہ کل دو سو درہم ہوئے جو ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہیں۔ (مترجم)

(۲) اوسق، وسق کی جمع ہے یہ ایک پیمانہ ہے جو ساٹھ صاع کے برابر ہوتا ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب کی تحقیق کے مطابق ایک وسق پانچ من ڈھائی سیر اور پانچ اوسق پچیس من۔

عَلَيْهِ وَالِاهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدُهُ صَدَقَةٌ

اس باب میں عبد اللہ بن عمرو اور علیؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر علماء کا عمل ہے کہ چرنے والے گھوڑے اور خدمت کے لیے رکھے ہوئے غلاموں پر زکوٰۃ نہیں۔ ہاں اگر یہ تجارت کے لیے ہوں تو ان پر سال گزر جانے کے بعد ان کی قیمتوں پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔

باب ۴۳۶۔ شہد کی زکوٰۃ

باب ۴۳۶۔ مَا جَاءَ فِي زَكْوَةِ الْعَسَلِ

۵۴۴۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ ﷺ نے فرمایا: شہد کی دس مشکوں پر ایک مشک زکوٰۃ ادا کی جائے۔

۵۴۴۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النِّسَابُورِيُّ نَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلْمَةَ التَّنِيسِيُّ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِاهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَسَلِ فِي كُلِّ عَشْرَةِ أَرْزُقٍ زُقٌّ

اس باب میں ابو ہریرہؓ، ابو سیارہؓ اور عبد اللہ بن عمروؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابن عمرؓ کی حدیث کی سند میں مقال ہے۔ اور اس باب میں آنحضرت ﷺ سے مروی کوئی حدیث صحیح نہیں۔ اسی پر اہل علم کا عمل ہے۔ یہی احمد اور اسحاق کا بھی قول ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ شہد پر زکوٰۃ نہیں ہے۔

باب ۴۳۷۔ مال مستفاد پر جب تک سال نہ گزر جائے اس وقت تک زکوٰۃ نہیں۔

باب ۴۳۷۔ مَا جَاءَ لَا زَكْوَةَ عَلَى الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

۵۴۵۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے زکوٰۃ کا نصاب مکمل ہونے کے بعد مال پایا اس پر اس وقت تک زکوٰۃ واجب نہیں جب تک اس پر سال نہ گزر جائے۔

۵۴۵۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى نَا هَارُونَ بْنُ صَالِحِ الطَّلْحِيِّ نَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ اسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِاهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكْوَةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

اس باب میں سراء بنت مہمان سے بھی روایت ہے۔ محمد بن بشار، عبد الوہاب ثقفی سے وہ ایوب سے وہ نافع سے اور وہ ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ ”جس نے زکوٰۃ کا نصاب مکمل ہونے کے بعد ماں پایا اس پر اللہ کے نزدیک ایک سال مکمل ہونے سے پہلے زکوٰۃ واجب نہیں۔ یہ حدیث عبد الرحمن بن زید بن اسلم کی حدیث سے صحیح ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: اسے ایوب، عبید اللہ اور کئی حضرات بھی نافع سے اور وہ ابن عمرؓ سے موقوفاً روایت کرتے ہیں۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم ضعیف ہیں۔ انہیں احمد بن حنبل اور علی بن مدینی وغیرہ ضعیف کہتے ہیں۔ اور یہ کثیر الغلط ہیں یہ حدیث کئی صحابہ سے مروی ہے کہ ”مال مستفاد پر سال مکمل ہونے سے پہلے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی“۔ (۱) شافعی، مالک، احمد بن حنبل اور اسحاق کا یہی قول ہے۔ جب کہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اگر اس کے پاس مال

(۱) مال مستفاد: اس مال کو کہتے ہیں جو زکوٰۃ کا نصاب مکمل ہونے کے بعد سال کے دوران حاصل ہوا ہو۔ جیسے کہ بہہ یا میراث وغیرہ۔ (مترجم)

مستفاد کے علاوہ اتنا مال ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے تو مال مستفاد پر بھی زکوٰۃ ادا کرے اگر ایسا نہ ہو اور سب کا سب ہی مال مستفاد ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں یہاں تک کہ ایک سال مکمل ہو جائے۔ اگر سال مکمل ہونے سے پہلے مال مستفاد حاصل کر لے تو اسے چاہیے کہ پہلے مال کے ساتھ مال مستفاد کی بھی زکوٰۃ دے۔ یہ سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا قول ہے۔

باب ۴۳۸۔ مَا جَاءَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جَزِيَّةٌ

باب ۴۳۸۔ مسلمانوں پر جزیہ نہیں۔

۵۴۶۔ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ اِقْسَمٍ بْنِ حَرِيرٍ عَنْ قَابُوسِ بْنِ اَبِي ظَبْيَانَ عَنْ اَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا يُضْلِحُ قَبِلَتَانِ فِي اَرْضٍ وَاحِدَةٍ وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جَزِيَّةٌ

۵۴۶۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک جگہ دو قبیلہ والوں کا رہنا ٹھیک نہیں اور مسلمانوں پر جزیہ واجب نہیں۔

ابو کریب، جریر سے اور وہ قابوس سے اسی سند سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ اس باب میں سعید بن زید اور حرب بن عبید اللہ ثقفی کے دادا سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت ابن عباسؓ کی حدیث قابوس بن ابی ظبیان سے اور وہ اپنے والد سے مرسل روایت کرتے ہیں۔ اکثر علماء کا اسی پر عمل ہے کہ اگر کوئی نصرانی اسلام قبول کر لے تو اس سے جزیہ معاف ہو جائے گا۔ آنحضرت ﷺ کا یہ قول کہ ”مسلمانوں پر جزیہ مشورہ واجب نہیں“ اس سے مراد جزیہ ہی ہے۔ اس حدیث سے اس کی تفسیر ہوتی ہے کیوں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: مشورہ یہود و نصاریٰ کے لیے ادا کرنا ضروری ہے مسلمانوں کے لیے نہیں۔

باب ۴۳۹۔ مَا جَاءَ فِي زَكْوَةِ الْحُلِيِّ

باب ۴۳۹۔ زیور کی زکوٰۃ۔

۵۴۷۔ حَدَّثَنَا هِنَادَانُ أَبُو معاوية عن الاعمش عن ابی وائل عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن ابن اخی زینب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فانكن اكثر اهل جهنم يوم القيامة

۵۴۷۔ حضرت عبداللہؓ کی بیوی زینبؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے عورتوں کو خطبہ دیا اور فرمایا: اے عورتو! صدقہ دیا کرو خواہ اپنے زیوروں ہی سے دو۔ اس لیے کہ قیامت کے دن جہنم میں اکثریت عورتوں کی ہوگی۔

محمود بن غیلان، ابو داؤد سے وہ شعبہ سے اور وہ اعمش سے روایت کرتے ہیں کہ ابو داؤد، عمرو بن حارث، جو عبداللہؓ کی بیوی زینب کے بھتیجے ہیں۔ زینب سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے مثل روایت کرتی ہیں۔ یہ ابو معاویہ کی حدیث سے صحیح ہے ابو معاویہ کو حدیث میں وہم ہو گیا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں عمرو بن حارث عن ابن اخی زینب جب کہ صحیح یہ ہے۔ عمرو بن الحارث بن ابن اخی زینب۔ عمرو بن شعیب سے بھی مروی ہے وہ اپنے والد اور وہ ان کے دادا سے کہ آنحضرت ﷺ نے ”زیور میں زکوٰۃ کا کہا“ اس کی سند میں مقال ہے۔ لہذا بعض علماء صحابہ اور تابعین کہتے ہیں کہ زیور میں زکوٰۃ ہے یعنی اگر سونے چاندی کا ہو۔ یہ قول سفیان ثوری اور عبداللہ بن مبارک کا ہے۔ بعض صحابہ جیسے کہ عائشہؓ، ابن عمرؓ، جابر بن عبداللہؓ اور انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ زیور میں زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح بعض فقہاء تابعین سے بھی مروی ہے اور یہی مالک بن انس، شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے۔

۵۴۸۔ حدثنا قتيبة نا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأتين اتتا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب فقال لهما اتوديان زكوتة فقلتا لا فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتحببان أن يسورا كما الله بسوارين من نار قلتا لا قال فاديا زكوتة

۵۴۸۔ عمرو بن شعيب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ دو عورتیں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں ان کے ہاتھوں میں دو سونے کے ٹکٹن تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ انھوں نے کہا: نہیں۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوزخ کی آگ کے دو ٹکٹن پہنائے؟ کہنے لگیں: نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا اس کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔

امام ترمذی کہتے ہیں اس حدیث کو شیخ بن صباح نے بھی عمرو بن شعیب سے اسی کے مثل روایت کیا ہے۔ شیخ بن صباح اور ابن ابیہر دو نون ضعیف ہیں۔ اس باب میں آنحضرت سے مروی کوئی حدیث صحیح نہیں۔

باب ۴۴۰۔ سزویوں کی زکوٰۃ۔

باب ۴۴۰۔ ماجاء فی زکوٰۃ الخضروات

۵۴۹۔ حدثنا علی بن خشرم نا عیسیٰ بن یونس عن الحسن بن محمد بن عبد الرحمن بن عبید بن عیسیٰ بن طلحة عن معاذ انه كتب الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله عن الخضروات وهي البقول فقال ليس فيها شيء

۵۴۹۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور اکرم ﷺ کو لکھا کہ سزویوں یعنی ترکاریوں وغیرہ کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ان میں کچھ نہیں (یعنی زکوٰۃ نہیں)

امام ترمذی کہتے ہیں اس حدیث کی سند صحیح نہیں۔ اس باب میں حضور ﷺ سے مروی کوئی حدیث صحیح نہیں۔ اور یہ روایت موسیٰ بن طلحہ سے مرسلہ مروی ہے وہ حضور اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ علماء کا عمل اسی پر ہے کہ سزویوں (ترکاری) پر زکوٰۃ نہیں امام ترمذی کہتے ہیں: حسن، حسن بن عمارہ ہیں اور محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔ شعبہ انہیں ضعیف کہتے ہیں جب کہ ابن مبارک ان سے روایت نہیں کرتے۔

باب ۴۴۱۔ نہری زمین کی کھیتی پر زکوٰۃ

باب ۴۴۱۔ ماجاء فی الصدقة فيما يسقى بالانهار وغيرها

۵۵۰۔ حدثنا ابو موسى الانصاري نا عاصم بن عبد العزيز مديني نا الحارث بن عبد الرحمن بن ابي باب عن سليمان بن يسار وبسرين سعيد عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر

۵۵۰۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو کھیتی بارش کے پانی یا نہروں کے پانی سے ہو اس کا دسواں حصہ اور جسے جانوروں (یارہٹ اور نیوہ وبل وغیرہ) کے ذریعے پینچا گیا ہو اس کا بیسواں حصہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔

اس باب میں انس بن مالک، ابن عمر اور جابر سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث بکیر بن عبد اللہ بن اشج، سلیمان بن یسار اور بسر بن سعید بھی آنحضرت ﷺ سے مرسلہ روایت کرتے ہیں۔ اس باب میں ابن عمر کی آنحضرت ﷺ سے مروی حدیث صحیح ہے اور اسی پر اکثر فقہاء کا عمل ہے۔

۵۵۱۔ حدثنا احمد بن الحسن نا سعيد بن ابی مریم نا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَنَّ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْغُيُوثُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشُورَ وَفِيمَا سَقِيَ بِالنُّضْحِ نِصْفَ الْعُشْرِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۴۴۲۔ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ

۵۵۲۔ حدثنا محمد بن اسماعيل نا ابراهيم بن موسى نا الوليد بن مسلم عن المثني بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَجَرَّ فِيهِ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ

۵۵۱۔ سالم اپنے والد سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے بارانی اور نہری زمین کی زراعت یا عثری زمین پر دسواں حصہ زکوٰۃ مقرر فرمائی جب کہ خود پانی دینے والی زمین کے لیے بیسواں حصہ مقرر فرمایا۔ (۱)

باب ۴۴۳۔ یتیم کے مال کی زکوٰۃ۔

۵۵۲۔ عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے ایک مرتبہ خطبہ دیا اور فرمایا: جو کسی مالدار یتیم کا ولی ہو، اسے چاہیے کہ اس مال سے تجارت کرتا رہے ایسے ہی نہ چھوڑ دے تاکہ ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ دیتے دیتے اس کا مال ختم ہو جائے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث اسی سند سے مروی ہے اور اس کی اسناد میں کلام ہے اس لیے کہ ثنی بن صباح ضعیف ہیں۔ بعض راوی یہ حدیث عمرو بن شعیب سے روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطابؓ نے خطبہ پڑھا..... الخ اور پھر یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ کئی صحابہ کے نزدیک یتیم کے مال پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ان میں عمرؓ، علیؓ، عائشہؓ اور ابن عمرؓ شامل ہیں۔ یہی قول مالک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی ہے۔ علماء کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ یتیم کے مال پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ یہ قول سفیان ثوری اور عبد اللہ بن مبارک کا بھی ہے۔ عمرو بن شعیب، عمرو بن شعیب بن محمد بن عبد اللہ بن عمرو بن عاص ہیں۔ شعیب نے اپنے دادا عبد اللہ بن عمرو سے احادیث سنی ہیں۔ یحییٰ بن سعید نے عمرو بن شعیب کی حدیث میں کلام کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ہمارے نزدیک ضعیف ہیں جس نے بھی ان کی تضعیف کی ہے اس کا کہنا ہے کہ عمرو بن شعیب اپنے دادا کی کتاب سے روایت کرتے ہیں۔ لیکن اکثر علماء محدثین ان کی حدیث کو حجت تسلیم کرتے ہیں جن میں احمد اور اسحاق شامل ہیں۔

باب ۴۴۳۔ مَا جَاءَ أَنَّ الْعَجَمَاءَ جُرْحَهَا حُبَّارٌ وَفِي الرَّكَازِ الْخُمْسُ

۵۵۳۔ حدثنا قتيبة نا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب و أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

باب ۴۴۳۔ حیوان کے زخمی کرنے پر کوئی دیت نہیں، دفن شدہ خزانے پر پانچواں حصہ۔

۵۵۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حیوان کے کسی کو زخمی کرنے پر اور کسی کے کنوئیں یا کان میں گر کر زخمی یا ہلاک ہونے پر کوئی دیت نہیں۔ پھر دفن شدہ خزانے پر پانچواں حصہ زکوٰۃ ادا

(۱) اس سے مراد وہ اشجار وغیرہ ہیں جو پانی کے کنارے ہوتے ہیں اور انہیں پانی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود ہی اپنی جڑوں سے پانی حاصل کرتے ہیں۔

وَالِيهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُجَمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبَيْتُ  
جُبَارٌ وَالْمَعِيدُ جُبَارٌ وَفِي الرَّكَازِ الْخُمْسُ

کرنا واجب ہے۔

اس باب میں انس بن مالک، عبد اللہ بن عمرو، عبادہ بن صامت، عمرو بن عوف مزنی اور حضرت جابر سے بھی روایت ہے امام ترمذی اس حدیث کو حسن صحیح کہتے ہیں۔

باب ۴۴۴۔ غلے وغیرہ میں اندازہ کرنا۔

باب ۴۴۴۔ مَا جَاءَ فِي الْخَرْصِ

۵۵۴۔ خبیب بن عبد الرحمن، عبد الرحمن بن مسعود بن نيار سے نقل کرتے ہیں کہ بھل بن ابی حمزہ ہماری مجلس میں تشریف لائے۔ اور ہمیں بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم اندازہ لگا لو تو تیسرا حصہ چھوڑ دو اور اگر تیسرا حصہ نہیں چھوڑتے تو کم از کم چوتھا چھوڑ دو (یعنی یہ حصہ زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہے)۔

۵۵۴۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا ابُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ نَا شَعْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ يَقُولُ جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَنْمَةَ إِلَيَّ مَجْلِسِنَا فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثَّلَاثَ فَإِنَّ لَمْ تَدَعُوا الثَّلَاثَ فَدَعُوا الرَّبْعَ

اس باب میں عائشہ، عتاب بن اسید اور ابن عباس سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ اکثر علماء کا عمل بھل بن ابی حمزہ کی حدیث پر ہی ہے۔ احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ خرص سے مراد یہ ہے کہ پھلوں کے پکنے کا وقت قریب آنے پر حاکم ایک تخمینہ لگانے والے کو بھیجتا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس سے کتنی مقدار میں پھل وغیرہ اترے گا۔ اس اندازہ لگانے والے کو "خارص" کہتے ہیں۔ خارص اندازہ لگانے کے بعد انہیں اس کا عشر بتا دیتا ہے کہ پھلوں کے اترنے پر اتنی زکوٰۃ ادا کرنا۔ اس کے بعد مالک کو اختیار ہے کہ وہ اس پھل وغیرہ کا جو بی میں آئے کرے۔ لیکن وقت آنے پر مقررہ مقدار ادا کرے گا بعض علماء اس کی یہی تفسیر کرتے ہیں۔ مالک، شافعی، احمد اور اسحاق بھی یہی کہتے ہیں۔

۵۵۵۔ حضرت عتاب بن اسید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ خارص کو لوگوں کے پھلوں اور انگوروں کا اندازہ کرنے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ اسی اسناد سے یہ بھی مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے انگوروں کی زکوٰۃ کے متعلق فرمایا: کہ یہ بھی کھجوروں ہی کی طرح اندازہ کر کے خشک انگوروں کی صورت میں دی جائے گی جس طرح کھجور کی زکوٰۃ خشک کھجور سے دی جاتی ہے۔

۵۵۵۔ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو مُسْلِمُ بْنُ عَمْرٍو وَالحَدَاءُ الْمَدِينِيُّ نَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ عَن مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ النَّمَارِ عَن ابْنِ شَهَابٍ عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَن عَتَابِ بْنِ أُسَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ وَبِمَازِهِمْ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي زَكَاةِ الْكُرُومِ إِنَّهَا تُخْرُصُ كَمَا يُخْرُصُ النَّخْلُ ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاةُ زَبِيًّا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ابن جریج اسے ابن شہاب سے وہ عروہ سے اور وہ حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں۔ میں نے امام بخاری سے اس کے متعلق پوچھا تو کہا: ابن جریج کی حدیث غیر محفوظ ہے اور سعید بن مسیب کی عتاب بن اسید سے روایت اصح ہے۔

باب ۴۴۵۔ مَا جَاءَ فِي الْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ  
 ۵۵۶۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ نَا  
 يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ عَنِ عَاصِمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ قَتَادَةَ ح  
 وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ لَبِيدٍ عَنْ  
 رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ  
 كَالْعَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ

باب ۴۴۵۔ انصاف کے ساتھ زکوٰۃ لینے والے عامل کے متعلق  
 ۵۵۶۔ حضرت رافع بن خدیجؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ انصاف کے ساتھ زکوٰۃ لینے والا عامل جب تک گھر نہ لوٹے اس طرح ہے جیسے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا عازی۔

امام ترمذی کہتے ہیں: رافع بن خدیج کی حدیث حسن ہے اور یزید بن عیاض محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں جب کہ محمد بن اسحاق کی حدیث اصح ہے۔

باب ۴۴۶۔ مَا جَاءَ فِي الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ  
 ۵۵۷۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ  
 عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَنَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ  
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْمُعْتَدِي فِي  
 الصَّدَقَةِ كَمَا نَزَعَهَا

باب ۴۴۶۔ زکوٰۃ لینے میں زیادتی کرنے والے کے متعلق۔  
 ۵۵۷۔ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: زکوٰۃ لینے میں زیادتی کرنے والا زکوٰۃ نہ دینے والے کی طرح ہے۔

اس باب میں ابن عمرؓ، ام سلمہؓ اور ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث اس سند سے غریب ہے اس لیے کہ احمد بن حنبل نے سعد بن سانان کے متعلق کلام کیا ہے۔ لیث بن سعد سے بھی ایسی ہی روایت ہے وہ یزید بن ابی حبیب سے وہ سعد بن سانان سے اور وہ حضرت انس بن مالکؓ سے روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں میں نے امام بخاری سے سنا کہ صحیح نام۔ ”سانان بن سعد“ ہے۔ آپ ﷺ کا فرمان کہ ”زکوٰۃ میں زیادتی کرنے والا زکوٰۃ نہ دینے والے کی طرح ہے“ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا زکوٰۃ ادا کرنے والے پر ہے۔

باب ۴۴۷۔ مَا جَاءَ فِي رِضَى الْمُصَدِّقِ

باب ۴۴۷۔ زکوٰۃ لینے والے کو راضی کرنا

۵۵۸۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ  
 مَجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَاكُمْ الْمُصَدِّقُ فَلَا  
 يُفَارِقَنَّكُمْ إِلَّا عَنْ رِضَى

۵۵۸۔ حضرت جریرؓ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب تمہارے پاس زکوٰۃ کا عامل آئے تو اسے خوش کر کے بھیجا کرو۔

ابوعمار، سفیان سے وہ داؤد سے وہ شععی سے وہ جریر سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں داؤد کی شععی سے مروی حدیث مجالد کی حدیث سے اسح ہے۔ مجالد کو بعض علماء ضعیف کہتے ہیں اور وہ کثیر الغلط ہیں۔

باب ۴۴۸۔ مَا جَاءَ أَنَّ الصَّدَقَةَ تُؤَخَّذُ مِنَ الْأَعْيَانِ فَتُرَدُّ عَلَى الْفُقَرَاءِ

باب ۴۴۸۔ زکوٰۃ مال داروں سے لے کر فقراء میں دی جائے۔

۵۵۹۔ عون بن ابی حنیفہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آنحضرت ﷺ کا عامل زکوٰۃ آیا اور مالداروں سے زکوٰۃ وصول کرنے کے بعد ہمارے غریبوں میں تقسیم کر دی۔ میں اس وقت یتیم اور کسن تھا۔ چنانچہ اس نے مجھے بھی ایک اونٹنی دی۔

۵۵۹۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ نَا حِفْصَ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ عَوْنِ بْنِ حُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَعْيَانِنَا فَجَعَلَهَا فِي فُقَرَاءِ نَا وَكُنْتُ عَلَامًا زَيْنِمَا فَأَعْطَانِي مِنْهَا قَلُوصًا

اس باب میں ابن عباس سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی ابن حنیفہ کی حدیث کو حسن غریب کہتے ہیں۔

باب ۴۴۹۔ جس کیلئے زکوٰۃ لینا جائز ہے۔

باب ۴۴۹۔ سَبَّحَ لَهَ الزَّكْوَةُ

۵۶۰۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جو شخص کفایت کے بقدر مال موجود ہونے کے باوجود لوگوں سے سوال کرتا ہے قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس سوال کی وجہ سے اس کا منہ چھلا ہلہل ہوگا آپ ﷺ سے پوچھا گیا: کفایت کے بقدر مال مال کتنا ہوتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: پچاس درہم یا اتنی قیمت کا سونا۔ راوی کو شک ہے کہ آپ ﷺ نے ”خمش“، کدو یا خدوش“ میں سے کوئی لفظ فرمایا۔ (تینوں کے معنی ایک ہی ہیں)

۵۶۰۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ قَالَ قَتِيْبَةُ حَدَّثَنَا شَرِيْكَ وَقَالَ عَلِيُّ اَنَا شَرِيْكَ الْمَعْنَى وَاحِدٌ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حَبِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ يَزِيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْئَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ خَمْشٌ أَوْ خَدُوشٌ أَوْ كَدُوْحٌ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُغْنِيهِ قَالَ خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيْمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ

اس باب میں عبداللہ بن عمر سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث حسن ہے۔ شعبہ نے حکیم بن جبیر پر اس حدیث کی وجہ سے کلام کیا ہے۔ محمود بن غیلان، یحییٰ بن آدم سے وہ سفیان سے اور وہ حکیم بن جبیر سے اسی حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ اس پر شعبہ کے ساتھی عبداللہ بن عثمان نے سفیان سے کہا کاش کہ شعبہ کے علاوہ کسی اور نے یہ حدیث روایت کی ہوتی۔ سفیان نے کہا: حکیم کو کیا ہے؟ کیا شعبہ ان سے روایت نہیں کرتے؟ کہنے لگے ہاں: سفیان کہنے لگے میں نے زبید کو بھی محمد بن عبدالرحمن بن یزید کے حوالے سے یہی بات کہتے ہوئے سنا ہے۔ اسی پر ہمارے بعض علماء کا عمل ہے۔ اور یہی ثوری، عبداللہ بن مبارک، احمد اور اسحاق کا بھی قول ہے کہ اگر کسی کے پاس پچاس درہم ہوں تو اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں لیکن بعض علماء حکیم بن جبیر کی حدیث کو حجت تسلیم نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر کسی کے پاس پچاس یا اس سے زیادہ درہم بھی ہوں تو بھی اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ بشرطیکہ وہ محتاج ہو۔ یہ شافعی اور دوسرے علماء و فقہاء کا قول ہے۔

باب ۴۵۰۔ مَا جَاءَ مَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ

۵۶۱۔ حدثنا محمد بن بشارو نا داؤد الطيالسی نا سفیان ح وثنا محمود بن غیلان نا عبدالرزاق نا سفیان عن سعد بن ابراهیم بن یزید عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سِوَيِّ

باب ۴۵۰۔ جس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔

۵۶۱۔ حضرت عبداللہ بن عمروؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کسی امیر اور تندرست وقوی شخص کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں۔

اس باب میں حبشی بن جنادہ، ابو ہریرہ اور قبیسہ بن مخارق سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے اسے شعبہ بھی سعد بن ابراہیم کے حوالے سے اسی سند سے غیر مرفوع روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث کے علاوہ بھی آپ ﷺ سے مروی ہے کہ امیر، تندرست اور قوی شخص کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص قوی ہونے کے باوجود محتاج ہو اور اس کے پاس کچھ نہ ہو تو اس صورت میں اسے زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ علماء کے نزدیک ادا ہو جائے گی۔ چنانچہ ان علماء کے نزدیک اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ ایسے شخص کو سوال کرنا جائز نہیں۔

۵۶۲۔ حدثنا علی بن سعید الکندی نا عبدالرحیم بن سلیمان عن مجالد عن غامر عن حُبَشِيِّ بْنِ جَنَادَةَ السُّلُوْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ آتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَأَحَدَهُ بِطَرْفِ رِدَائِهِ فَسَأَلَهُ إِيَّاهُ فَأَعْطَاهُ وَذَهَبَ فَعِنْدَ ذَلِكَ حُرِمَتِ الْمَسْأَلَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيِّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سِوَيِّ إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْفِعٍ أَوْ عُرْمٍ مُفْطِئٍ وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِثُرَىٰ بِهِ مَالُهُ كَانَ خَمُوشًا فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرِضْفًا يَأْكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ فَمَنْ سَأَأَ فَلْيَقِلْ وَمَنْ سَأَأَ فَلْيَكْثِرْ

۵۶۲۔ حبشی بن جنادہ سلولی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات میں کھڑے تھے کہ ایک اعرابی نے آکر آپ ﷺ کی چادر کا کونہ پکڑ کر سوال کیا آپ ﷺ نے اسے کچھ دیا تو وہ چلا گیا۔ سوال کرنا اسی وقت حرام ہوا چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا: امیر اور تندرست وقوی شخص کے لیے سوال کرنا جائز نہیں۔ ہاں اگر کوئی فقیر یا سخت حاجت مند ہو تو اس کے لیے جائز ہے۔ اور جو شخص مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے قیامت کے دن اس کا منہ چھلا ہوا ہوگا۔ ایسا شخص جہنم کے گرم پتھروں سے بھنا ہوا گوشت کھاتا ہے جو چاہے کم کھائے اور جو چاہے زیادہ۔

محمود بن غیلان، یحییٰ بن آدم سے اور وہ عبدالرحیم بن سلیمان سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔

باب ۴۵۱۔ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ مِنَ الْغَارِمِينَ وَغَيْرِهِمْ

۵۶۳۔ حدثنا قتيبة نا الليث عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد

باب ۴۵۱۔ مقروض وغیرہ کا زکوٰۃ لینا جائز ہے۔

۵۶۳۔ حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ کے زمانے میں ایک شخص نے پھل خریدے۔ اسے ان میں اتنا نقصان ہوا کہ وہ

مقروض ہو گیا۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اسے صدقہ دو لیکن لوگوں کے صدقہ دینے کے باوجود اس کا قرض ادا نہ ہو سکا تو آپ ﷺ نے قرض خواہوں سے فرمایا: جو تمہیں مل جائے لے لو اس کے علاوہ کچھ نہیں۔

بِالْحُدْرِيِّ قَالَ أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَرْمَانَ خُدُوَامَا وَحَدُّتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ

اس باب میں عائشہؓ، جویریہؓ اور انسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۴۵۲۔ آنحضرت ﷺ، آپ ﷺ کے اہل بیت اور غلاموں کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔

باب ۴۵۲۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَمَوَالِيهِ

۵۶۴۔ بہز بن حکیم اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی خدمت اقدس میں اگر کوئی چیز پیش کی جاتی تو پوچھتے: یہ صدقہ ہے یا ہدیہ؟ اگر کہتے کہ صدقہ ہے تو آپ نہ کھاتے اور اگر ہدیہ ہوتا تو کھا لیتے۔

۵۶۴۔ حَدَّثَنَا بِنْدَارٌ نَا مَكِي ابْن اِبْرَاهِيمَ وَ يَوْسُفُ بِن سَعِيدِ الضَّبْعِي قَالَا نَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنِ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِشَيْءٍ سَأَلَ أَصْدَقَةَ هِيَ أَمْ هَدِيَّةٌ فَإِنْ قَالُوا صَدَقَةٌ لَمْ يَأْكُلْ وَإِنْ قَالُوا هَدِيَّةٌ أَكَلَ

اس باب میں ابو ہریرہؓ، سلمانؓ، انسؓ، حسن بن علیؓ، ابو عمیرہؓ، معرف بن واصل کے دادا رشید بن مالکؓ، میمونؓ، مہرانؓ، ابن عباسؓ، عبد اللہ بن عمروؓ، ابورافعؓ اور عبد الرحمن بن علقمہ سے بھی روایت ہے یہ حدیث عبد الرحمن بن علقمہ بھی عبد الرحمن بن ابوعقیل سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں: بہز بن حکیم کے دادا کانام معاویہ بن حیدہ القشیری ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: بہز بن حکیم کی حدیث حسن غریب ہے۔

۵۶۵۔ حضرت ابورافعؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بنو مخزوم کے ایک شخص کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا انہوں نے ابورافع سے کہا: تم بھی میرے ساتھ چلو تا کہ تمہیں بھی حصہ دوں۔ ابورافع نے کہا: میں آپ ﷺ سے پوچھ بغیر تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ چنانچہ وہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا: زکوٰۃ ہمارے لیے حلال نہیں اور کسی قوم کے غلام بھی انہی میں سے ہوتے ہیں۔ (یعنی جس قوم کے لیے یہ جائز نہیں ان کے غلاموں کے لیے بھی جائز نہیں کیوں کہ وہ انہی میں سے ہیں۔)

۵۶۵۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ أَصْحَابِي كَيْمًا تُصِيبُ مِنْهَا فَقَالَ لَا حَتَّىٰ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْأَلَهُ فَاذْطَلِقْ إِلَيَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْأَلَهُ فَقَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا وَإِنْ مَوَالِي الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابورافعؓ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے آزاد کردہ غلام ہیں ان کا نام اسلم ہے۔ اور ابن ابی رافعؓ، عبید اللہ بن ابی رافعؓ ہیں یہ علی بن ابی طالب کے کاتب ہیں۔

باب ۴۵۳۔ عزیز و اتارب کو زکوٰۃ دینا۔

باب ۴۵۳۔ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ

۵۶۶۔ سلمان بن عامر کہتے ہیں کہ آنحضرت (ﷺ) نے فرمایا: اگر تم میں سے کوئی روزہ کھولے تو کھجور سے کھولے کیوں کہ یہ برکت کا باعث ہے اور اگر کھجور نہ ہو تو پانی سے کھولے کیوں کہ یہ پاک کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا: مسکین کو زکوٰۃ دینے پر ایک مرتبہ زکوٰۃ دینے کا اور اقرباء کو زکوٰۃ دینے پر دو مرتبہ صدقے کا ثواب ہے، ایک مرتبہ صدقے کا اور دوسری مرتبہ صلہ رحمی کا۔

۵۶۶۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا سَفِيَانَ بْنَ عِيْنَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سَيْرِيْنَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ يُبَلِّغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَيَّ تَمْرًا فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَالْمَاءَ فَإِنَّهُ طَهُورٌ وَقَالَ الصَّدَقَةُ عَلَيَّ الْمُسْكِيْنَ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَيَّ ذِي الرَّحْمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصَلَةٌ

اس باب میں جابر، زینب اور ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے۔ زینب، عبداللہ بن مسعود کی بیوی ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ رباب، رباح کی والدہ اور صلح کی بیٹی ہیں۔ اسی طرح سفیان ثوری بھی، عاصم سے وہ حفصہ بنت سیرین سے وہ رباب سے وہ اپنے چچا سلمان بن عامر سے اور وہ آنحضرت (ﷺ) سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ شعبہ، عاصم سے وہ حفصہ بنت سیرین سے اور وہ سلمان بن سیرین سے روایت کرتی ہیں اور رباب کا ذکر نہیں کرتیں۔ سفیان اور ابن عیینہ کی حدیث اصح ہے۔ اسی طرح ابن عون اور ہشام بن حسان بھی حفصہ بنت سیرین سے وہ رباب سے اور وہ سلمان بن عامر سے روایت کرتے ہیں۔

باب ۴۵۴۔ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حق ہوتا ہے۔

باب ۴۵۴۔ مَا جَاءَ إِنْ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكْوَةِ

۵۶۷۔ حضرت فاطمہ بنت قیسؓ فرماتی ہیں میں نے یا کسی نے آنحضرت (ﷺ) سے زکوٰۃ کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا: مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حق ہے پھر آپ (ﷺ) نے سورہ بقرہ کی یہ آیت تلاوت فرمائی ”لیس البران تو لوا وجوهکم“ الآیۃ۔ (ترجمہ: سارا کمال اسی میں نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو۔ کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں رشتہ داروں، قبیہوں، محتاجوں، مسافروں، سوال کرنے والے (فقیروں) اور غلاموں کو آزاد کرانے کیلئے مال خرچ کرے..... الخ۔ سورہ البقرہ آیت ۱۷۷)۔

۵۶۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَدْوِيَه نَا الْاَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شَرِيْكَ عَنْ ابْنِ حَمْزَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةَ قَيْسٍ قَالَتْ سَأَلْتُ اَوْسُقِلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّكْوَةِ فَقَالَ إِنْ فِي الْمَالِ لِحَقًّا سِوَى الزَّكْوَةِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقْرَةِ لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ الْآيَةَ

۵۶۸۔ عامر، فاطمہ بنت قیس سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت (ﷺ) نے فرمایا: مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حق ہے۔

۵۶۸۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الطَّيْلِ عَنْ شَرِيْكَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكْوَةِ

امام ترمذی کہتے ہیں: اس کی سند قوی نہیں۔ ابو حمزہ میمون اور ضعیف ہیں۔ بیان اور اسماعیل بن سالم اسے شععی سے انہی کا قول روایت کرتے ہیں۔ یہی اصح ہے۔

باب ۴۵۵۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّدَقَةِ

۵۶۹۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبَرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ رِيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً تَرَبُّوا فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْحَبْلِ كَمَا يُرِيْبِي أَحَدَكُمْ فَلَوْهَ أَوْ فَصِيلَةٌ

باب ۳۵۵۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی فضیلت

۵۶۹۔ سعید بن یسار، حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: کوئی شخص جب اپنے حلال مال میں سے زکوٰۃ دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حلال مال ہی قبول کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس مال کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں گو کہ وہ ایک گھجور ہی کیوں نہ ہو۔ پھر وہ رحمن کے ہاتھ میں بڑھنے لگتا ہے یہاں تک کہ پہاڑ سے بھی بڑا ہو جاتا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے یا گائے کے کچھڑے کی پرورش کرتا ہے۔

اس باب میں عائشہؓ، عدی بن حاتمؓ، انسؓ، عبداللہ بن ابی اوفیٰؓ، حارثہ بن وہبؓ، عبدالرحمن بن عوفؓ اور بریدہؓ سے بھی روایت ہے۔

امام ترمذی کہتے ہیں: ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

۵۷۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى عَنْ سَمْعِيلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ نَا صَدَقَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الصُّومِ أَفْضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ قَالَ شَعْبَانَ لِنِعْظِيمِ رَمَضَانَ قَالَ شَعْبَانَ لِنِعْظِيمِ رَمَضَانَ قَالَ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ صَدَقَةٌ فِي رَمَضَانَ

۵۷۰۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ سے سوال کیا گیا۔ رمضان کے بعد کون سا روزہ افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کے روزے۔ پوچھا گیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا: رمضان میں کیا جانے والا۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے۔ صدقہ بن موسیٰ محدثین کے نزدیک قوی نہیں۔

۵۷۱۔ حَدَّثَنَا عَقِبَةُ بْنُ مَكْرَمٍ الْبَصْرِيُّ نَا عَبْدِ اللَّهِ ابْنَ عَيْسَى الْخَزَّازِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَيْبِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ

۵۷۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو بجھاتا اور بری موت کو دور کرتا ہے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔

۵۷۲۔ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا وَكَيْعُ نَا عَبَادُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ فَيُرِيْبُهَا لِأَحَدِكُمْ كَمَا يُرِيْبِي أَحَدَكُمْ مُهْرَةً حَتَّى آتَى اللَّقْمَةَ لِتَصِيرُ مِثْلَ

۵۷۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ صدقے کو قبول کرتے اور اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر اس کی پرورش کرتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک لقمہ بڑھتے بڑھتے اُحد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے اس کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے۔ ”وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ

أَحَدٌ وَتَصَدِّقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ التَّوْبَةُ..... الخ“ یعنی وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ - صدقات لیتا، سود کو مٹاتا اور صدقات کی پرورش کرتا (اور انہیں بڑھاتا) - ہے۔ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت عائشہؓ سے بھی نبی اکرم ﷺ سے اسی کے مثل منقول ہے کئی علماء اس اور اس جیسی احادیث جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات مذکور ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ہررات کو دنیا کے آسمان پر اترنا وغیرہ۔ علماء کہتے ہیں: ان (کے متعلق) روایات ثابت ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں اور وہ ہم میں مبتلا نہیں ہوتے۔ چنانچہ یہ نہیں کہا جاتا: کہ کیسے؟ اس کی کیفیت کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح مالک بن انس، سفیان بن عیینہ اور عبد اللہ بن مبارک کا بھی یہی کہنا ہے۔ کہ ان احادیث پر صفات کی کیفیت جانے بغیر ایمان لانا ضروری ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہی قول ہے۔ لیکن جہمہ ان روایات کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تشبیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ اپنے ہاتھ، سماعت، اور بصیرت کا ذکر ہے۔ جہمہ ان آیات کی تاویل کرتے ہوئے ایسی تفسیر کرتے ہیں جو علماء نے نہیں کی۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا نہیں کیا۔ چنانچہ ان کے نزدیک ہاتھ کے معنی قوت کے ہیں۔ اسحاق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ تشبیہ تو اس صورت میں ہے کہ یہ کہا جائے کہ اس کا ہاتھ کسی ہاتھ جیسا یا کسی کے ہاتھ کے مثل ہے۔ یا اس کی سماعت، کسی سماعت سے مماثلت رکھتی ہے۔ پس اگر کہا جائے کہ اس کی سماعت فلاں کی سی ہے۔ تو یہ تشبیہ ہے لہذا اگر وہی کہے جو اللہ نے کہا ہے کہ: ہاتھ، سماعت، بصر۔ اور یہ نہ کہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے یا اس کی سماعت فلاں کی سماعت کی طرح ہے تو یہ تشبیہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات اسی طرح ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے وصف میں فرمادیا ہے کہ ”لیس کمثلہ شیء وھو السمع البصیر“ کوئی چیز اس سے مماثلت نہیں رکھتی (وہ تشبیہ سے پاک ہے) اور سننے والا بھی ہے اور دیکھتا بھی۔

باب ۳۵۶۔ سائل کے حق سے متعلق

باب ۴۵۶۔ مَا جَاءَ فِي حَقِّ السَّائِلِ

۵۷۳۔ عبد الرحمن بن بجد اپنی دادی ام بجد سے۔ جو ان عورتوں میں سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی تھی۔ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! کئی مرتبہ فقیر دروازے پر آکر کھڑا ہوتا ہے اور گھر میں اسے دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آپ ﷺ نے فرمایا اگر تم جلے ہوئے کھر کے علاوہ اسے دینے کے لیے گھر میں کوئی چیز نہ پاؤ تو وہی اسے دے دو۔

۵۷۳۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ عَنْ جَدِّتِهِ أُمِّ بُجَيْدٍ وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَسْكِينِ لَيَقُومُ عَلَيَّ نَبَإِي فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أُعْطِيهِ إِيَّاهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَمْ تَجْرِي لَهُ شَيْئًا تُعْطِيهِ إِيَّاهُ إِلَّا ظَلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ

اس باب میں علیؓ، حسین بن علیؓ، ابو ہریرہؓ اور ابو امامہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ام بجد کی حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۳۵۷۔ جن کا دل جیتنا منظور ہو ان کو دینا۔

باب ۴۵۷۔ مَا جَاءَ فِي إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ

۵۷۴۔ صفوان بن امیہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے غزوہ حنین کے موقع پر مجھے کچھ (مال) دیا۔ اس وقت آپ ﷺ میرے لیے ساری مخلوق سے برے تھے۔ پھر آپ ﷺ مجھے کچھ نہ کچھ دیتے رہے یہاں تک کہ وہ اب میرے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہیں۔

۵۷۴۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ نَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمِيَّةَ قَالَ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَأَنَّهُ

لَا بَعْضُ الْخَلْقِ إِلَيَّ فَمَا زَالَ يُعْطِينِي حَتَّىٰ أَنَّهُ لَا حَبَّ  
الْخَلْقِ إِلَيَّ

امام ترمذی کہتے ہیں: حسن بن علیؑ نے بھی اسی طرح یا اسی کے مثل روایت کی ہے۔ اس باب میں ابو سعید سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں: صفوان کی حدیث کو عمرو وغیرہ زہری سے بحوالہ سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ صفوان نے کہا: آنحضرت ﷺ نے مجھے دیا..... الخ گویا کہ یہ حدیث اصح اور اشہب ہے۔ اہل علم کا دل جیتنے کے لیے مال دینے کے متعلق اختلاف ہے اکثر علماء کا کہنا ہے کہ انہیں دینا ضروری نہیں، یہ آنحضرت ﷺ کے زمانے میں ایک مخصوص جماعت تھی۔ آپ ﷺ نے ان کے دلوں کی مسلمان ہونے کے لیے تالیف فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس دور میں اس مد میں دینا جائز نہیں۔ یہ سفیان ثوری اور اہل کوفہ وغیرہ کا قول ہے۔ احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں۔ اس دور میں بھی اگر کچھ لوگ ایسے ہوں جن کے متعلق امام کا خیال ہو کہ ان کے دلوں کی تالیف کی جائے تو اس صورت میں انہیں دینا جائز ہے۔ یہ امام شافعی کا قول ہے۔

باب ۴۵۸۔ مَا جَاءَ فِي الْمُتَصَدِّقِ بَرِيْثٌ صَدَقْتَهُ

۵۷۵۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا عَلِيَّ بْنَ مَسْهَرٍ عَنِ  
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ  
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَتْهُ  
امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى  
أُمِّي بِحَارِيَّةٍ وَ أَنَّهَا مَاتَتْ قَالَ وَجَبَ أَجْرُكَ وَرَدَّهَا  
عَلَيْكَ الْمِيرَاثُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمٌ  
شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا قَالَ صُومِي عَنْهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ  
اللَّهِ إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّي  
عَنْهَا

باب ۴۵۸۔ جسے زکوٰۃ میں دیا ہو مال وراثت میں ملے۔  
۵۷۵۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ  
انہوں نے فرمایا: میں آنحضرت ﷺ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عورت  
آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں نے اپنی والدہ کو زکوٰۃ میں ایک  
لوٹھی دی تھی اور اب میری والدہ فوت ہو گئی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:  
تمہیں تمہارا اجر مل گیا اور اسے میراث نے تمہاری طرف لوٹا دیا اس  
نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! میری والدہ پر ایک ماہ کے روزے بھی قضا  
تھے کیا میں ان کے بدلے میں روزے رکھ لوں؟ فرمایا: ہاں رکھ لو۔ پھر  
اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! انہوں نے حج بھی نہیں کیا تھا کیا میں  
ان کی طرف سے حج کر لوں؟ فرمایا: ہاں کر لو۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور بریدہ کی حدیث سے اس سند کے علاوہ نہیں پہچانی جاتی عبداللہ بن عطاء محدثین کے نزدیک ثقہ ہیں اکثر علماء کا عمل اسی پر ہے کہ اگر کسی شخص نے زکوٰۃ کے طور پر کوئی چیز ادا کی اور پھر وراثت میں اسے وہی چیز مل گئی تو وہ اس کے لیے حلال ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ایسی چیز ہے جسے اس نے اللہ کے لیے مخصوص کر دیا ہے لہذا اگر وہ وراثت کے ذریعے دوبارہ اس کے پاس آجائے تو اس کا خدا کی راہ میں خرچ کرنا واجب ہے۔ سفیان ثوری اور زہیر بن معاویہ یہ حدیث عبداللہ بن عطاء سے روایت کرتے ہیں۔

باب ۴۵۹۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْعُودِ فِي الصَّدَقَةِ

۵۷۶۔ حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ اسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ نَا  
عَبْدَ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ  
عُمَرَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ حَمَلَ عَلِيًّا قَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ

باب ۴۵۹۔ صدقہ کرنے کے بعد اسے واپس لوٹانا مکروہ ہے۔  
۵۷۶۔ حضرت عمرؓ نے ایک گھوڑا اللہ کی راہ میں صدقہ دیا۔ پھر اسی  
گھوڑے کو پکٹتے ہوئے دیکھا تو اسے خریدنے کا ارادہ کیا چنانچہ  
آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اپنی صدقہ کی ہوئی چیز کو نہ لوٹاؤ۔

رَاهَا تُبَاعُ فَازَادَ اَنْ يُّشْتَرِيَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعُدُّ فِي صَدَقَتِكَ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر اکثر اہل علم کا عمل ہے۔

باب ۴۶۰۔ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ

باب ۴۶۰۔ میت کی طرف سے صدقہ دینا

۵۷۷۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا رُوحَ بْنَ عَبَادَةَ نَا

۵۷۷۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ

زَكَرِيَّا بْنُ اسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنِ

عَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنْ

أَمِي تُوُفِّيَتْ أَتَيْتُهَا اِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ

دوں تو کیا انہیں اس کا فائدہ ہوگا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ اس شخص

فَاِنْ لِي مَخْرَفًا فَاشْهَدْكَ اَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهَا عَنْهَا

نے کہا: میرے پاس ایک باغ ہے اور میں آپ ﷺ کو گواہ کرتا ہوں کہ

میں نے یہ باغ اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ میں دے دیا۔

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن ہے۔ علماء یہی کہتے ہیں کہ میت کو دعا اور صدقہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں پہنچتی بعض راوی اس

حدیث کو عمرو بن دینار سے بحوالہ عمر مہر سہلاً آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ مخرف کے معنی باغ کے ہیں۔

باب ۴۶۱۔ مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا

باب ۴۶۱۔ بیوی کا شوہر کے گھر سے خرچ کرنا۔

۵۷۸۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيَّاشٍ نَا شَرْحِبِيلَ

۵۷۸۔ حضرت ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں میں نے آنحضرت ﷺ کو حجۃ

بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ عَنِ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ

الوداع کے سال خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ: کوئی عورت اپنے شوہر کے

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي

گھر سے اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خرچ نہ کرے۔ آپ ﷺ سے

خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوُدَاعِ لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ

پوچھا گیا: کیا کسی کو کھانا بھی نہ دے؟ فرمایا: یہ تو ہمارے مالوں میں سے

بَيْتِ زَوْجِهَا اِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا

الطَّعَامَ قَالَ ذَلِكَ اَفْضَلُ اَمْوَالِنَا

افضل ترین ہے۔

اس باب میں سعد بن وقاص، اسماء بنت ابی بکر، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمرو اور عائشہ سے مروی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو امامہ کی

حدیث حسن ہے۔

۵۷۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا مُحَمَّدُ بْنُ

۵۷۹۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی

جَعْفَرُ نَا شُعْبَةُ عَنِ عَمْرُو بْنِ مَرَّةٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا

عورت اپنے شوہر کے مال سے خیرات کرنے تو اسے، اس کے شوہر اور

وَإِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنِ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

خازن سب کو ثواب ملتا ہے۔ اور کسی ایک کو اجر ملنے سے کسی دوسرے کا

وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ اِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا

اجر کم نہیں ہوتا۔ شوہر کے لیے کما کر لانے اور بیوی کے لیے اس کو خرچ

كَانَ لَهَا بِهَا اَجْرٌ وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلِلخَازِنِ مِثْلُ

کرنے کا ثواب ہے۔

ذَلِكَ وَلَا يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ اَجْرِ صَاحِبِهِ

شَيْئًا لَهٗ بِمَا كَسَبَ وَلَهَا بِمَا اَنْفَقَتْ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔

۵۸۰۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جب کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے خوشی کے ساتھ، فساد کی نیت کے بغیر خیرات دیتی ہے تو اسے بھی شوہر کی طرح ثواب ملتا ہے۔ اس کے لیے اس کی نیک نیتی کا ثواب ہے اور اسی طرح خازن کو بھی۔

۵۸۰۔ حدثنا محمود بن غیلان نا المؤمل عن سفیان عن منصور عن ابی وائل عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أعطت المرأة من بيت زوجها بطيب نفس غير مفسدة فإن لها مثل أجره لها ما نوت حسنا وللخازن مثل ذلك

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح اور عمر و بن مرہ کی حدیث سے صحیح ہے۔ عمرو بن مرہ اپنی روایت میں مسروق کا ذکر نہیں کرتے۔

باب ۳۶۲۔ صدقہ فطر کے متعلق۔

باب ۴۶۲۔ ما جاء في صدقة الفطر

۵۸۱۔ حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی موجودگی میں ہم صدقہ فطر ایک صاع غلہ، ایک صاع جو، ایک صاع کھجور، ایک صاع خشک انگور یا ایک صاع پنیر سے دیا کرتے تھے۔ پھر ہم اسی طرح صدقہ فطر ادا کرتے رہے۔ یہاں تک کہ معادیہ مدینہ آئے اور خطاب کرتے ہوئے فرمایا: میرے خیال میں گیہوں کے دو شای مذہ اور ایک صاع کھجور کے برابر ہیں۔ اس پر لوگوں نے اسی کو اختیار کر لیا۔ ابوسعیدؓ فرماتے ہیں: میں اسی طرح دیتا رہا جس طرح پہلے دیا کرتا تھا۔

۵۸۱۔ حدثنا محمود بن غیلان نا وکیع عن سفیان عن زید بن اسلم عن عیاض بن عبد الله عن ابی سعید الخدری قال کنا نخرج زکوٰۃ الفطر إذا کان فینا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من شعیر أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من اقیط فلم نزل نخرجها حتى قدم معاوية المدینة فتکلم فکان فیما کلم به الناس انی لاری مدین من سمرآء الشام تعدل صاعاً من تمر قال فأخذ الناس بذلك قال أبو سعید فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر بعض علماء کا عمل ہے کہ ہر چیز سے ایک صاع صدقہ فطر ادا کیا جائے شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے جب کہ بعض صحابہ وغیرہ کا کہنا ہے کہ ہر چیز سے ایک صاع لیکن گیہوں کا نصف صاع ہی کافی ہے۔ یہ سفیان ثوری، ابن مبارک اور اہل کوفہ کا بھی قول ہے کہ گیہوں کا نصف صاع صدقہ فطر میں دیا جائے۔

۵۸۲۔ عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے مکہ کی گلیوں میں ایک منادی کو یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ صدقہ فطر ہر مسلمان مرد و عورت، غلام و آزاد اور چھوٹے بڑے پر واجب ہے۔ (اس کی مقدار) دو مد گیہوں یا اس کے علاوہ کسی بھی غلے سے ایک صاع ہے۔

۵۸۲۔ حدثنا عقبه بن مکرم البصری نا سالم بن نوح عن ابن جریج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث منادياً في فجاج مكة ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكراً أو أنثى حراً أو عبداً صغيراً أو كبيراً ممدان من قمح أو سواه صاع من طعام

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۵۸۳۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہر مسلمان مرد و عورت اور آزاد غلام پر ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو بلور صدقہ فطر فرض کیا پھر لوگوں نے اسے آدھا صاع گینوں کر دیا۔

۵۸۳۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ابوسعید، ابن عباس، حارث بن عبدالرحمن بن ابوزہاب کے دادا، ثعلبہ بن ابی صغیر اور عبداللہ بن عمرؓ نے بھی روایت ہے۔

۵۸۴۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے رمضان میں صدقہ فطر کی مقدار ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو مقرر فرمائی۔ اور اسے ہر مسلمان آزاد، غلام، مرد اور عورت پر فرض قرار دیا۔

۵۸۴۔ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْإِصْطَارِيُّ نَاعِمًا نَا مَالِكًا عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

امام ترمذی کہتے ہیں: ابن عمرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اسے مالک، نافع سے وہ ابن عمرؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ ابویوب کی حدیث کے مثل روایت کرتے ہوئے اس میں ”من المسلمین“ کا لفظ زیادہ روایت کرتے ہیں جب کہ اسے کئی اور راوی بھی نافع سے روایت کرتے ہیں لیکن یہ لفظ ذکر نہیں کرتے۔ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں اگر کسی شخص کے غلام مسلمان نہ ہوں تو ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری نہیں۔ مالک، شافعی اور احمد کا یہی قول ہے جب کہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اگر غلام مسلمان نہ بھی ہوں تو بھی صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ ثوری، ابن مبارک اور اسحاق کا قول ہے۔

باب ۴۶۳۔ صدقہ فطر نماز سے پہلے دینا۔

باب ۴۶۳۔ مَا جَاءَ فِي تَقْدِيمِهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ

۵۸۵۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ عید الفطر کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیتے تھے۔

۵۸۵۔ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَمْرٍو بْنِ مَسْلَمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقِبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتُرُ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْغَدْوِ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ نماز کے لئے جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا علماء کے نزدیک مستحب ہے۔

باب ۴۶۴۔ وقت سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنا

باب ۴۶۴۔ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ

۵۸۶۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عباسؓ نے نبی اکرم ﷺ سے زکوٰۃ کے وقت سے پہلے ادا کرنے کے متعلق پوچھا تو آپ ﷺ نے اس کی اجازت دی۔

۵۸۶۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَتِيبَةَ عَنْ حُجَيْبَةَ بِنْتِ عَدِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ

أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحُلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ

۵۸۷۔ حدثنا القاسم بن دينار الكوفي نا اسحق منصور عن اسرائيل عن الحجاج بن دينار عن النخكم بن حجل عن حجر العدوي عن علي بن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُمَرَ إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا زَكَاةَ الْعَبَّاسِ عَامَ الْأَوَّلِ لِلْعَامِ

۵۸۷۔ حضرت علیؑ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے عمرؓ سے فرمایا: ہم عباسؓ سے گزشتہ سال اس سال کی بھی زکوٰۃ لے چکے ہیں۔

اس باب میں ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔ زکوٰۃ میں تعجیل سے متعلق اسرائیل کی حجاج بن دينار سے مروی حدیث کو میں اس سند کے علاوہ نہیں جانتا۔ اور میرے نزدیک اسماعیل بن زکریا کی حجاج سے مروی حدیث اسرائیل کی حجاج سے مروی حدیث سے اسح ہے اور یہ حدیث حکم بن عتیہ کے حوالے سے آنحضرت ﷺ سے مروی ہے۔ علماء کا وقت سے پہلے زکوٰۃ کی ادائیگی میں اختلاف ہے علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ زکوٰۃ وقت سے پہلے ادا نہ کی جائے۔ سفیان ثوری کا بھی یہی قول ہے کہ میرے نزدیک اس میں تعجیل بہتر نہیں۔ لیکن اکثر علماء کے نزدیک وقت سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنے سے ادا ہو جاتی ہے۔ یہ شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے۔

۵۸۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا: اگر کوئی شخص صبح نکلے اور اپنی پیٹھ پر لکڑیاں لے کر واپس ہو پھر اس میں سے صدقہ کرے اور لوگوں سے سوال کرنے سے بے نیاز رہے اس سے بہتر ہے کہ کوئی شخص کسی سے سوال کرے پھر وہ اسے دے یا نہ دے۔ اس لیے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اور خرچ کرنا ان سے شروع کرو جن کی کفالت تمہارے ذمے ہے۔

۵۸۸۔ حدثنا هنادنا ابوالاحوص عن بيان بن بشر عن قيس بن ابي حازم عن ابي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لان يعدو احدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه ويستغنى به عن الناس خيره من ان يسئل رجلا اعطاه او منعه ذلك فان اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول

اس باب میں حکیم بن حزام، ابو سعید خدری، زبیر بن عوام، عطیہ سعدی، عبداللہ بن مسعود، مسعود بن عمرو، ابن عباسؓ، ثوبانؓ زیاد بن حارث صدائیؓ، انسؓ، حبشی بن جنادہؓ، قبیصہ بن مخارقؓ، سمرہؓ اور ابن عمرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح غریب ہے اور بیان کی قیس سے روایت کی وجہ سے غریب ہے۔

۵۸۹۔ حضرت سمرہ بن جندبؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: سوال کرنا اپنی آبرو کو خراب کرنا ہے اس سے سائل اپنے چہرے کو بے رونق اور وجاہت کو ختم کرتا ہے، ہاں البتہ سلطان سے سوال کرنے یا حاجت شدیدہ میں کسی سے سوال کرنے کی اجازت ہے۔

۵۸۹۔ حدثنا محمود بن غيلان نا وكيع نا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عنبه عن سمره بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن المسئلة كذ يكذبها الرجل وجهه إلا أن يسئل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

## أَبْوَابُ الصَّوْمِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۴۶۵۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۵۹۰۔ حدثنا كريب محمد بن العلاء بن كريب نا ابو بكر بن عياش عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يعلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة

اس باب میں عبدالرحمن بن عوف، ابن مسعود اور سلمان سے بھی روایت ہے۔

۵۹۱۔ حدثنا هنادنا نا عبدة والمحاربي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان وقامه إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه

## روزوں کے متعلق آنحضرت ﷺ سے

منقول احادیث کے ابواب

باب ۴۶۵۔ رمضان کی فضیلت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۵۹۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن زنجیروں میں جکڑ کر دوزخ میں بند کر کے اس کے تمام دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور پھر اس کا کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ ہاں پھر جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ ایک منادی آواز لگاتا ہے اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے شر کے طالب ٹھہر جا۔ اور اللہ کی طرف سے بندے آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں، یہ معاملہ ہر رات جاری رہتا ہے۔

۵۹۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جس نے رمضان میں روزے رکھے اور رات کو ایمان کے ساتھ، ثواب کے لیے نماز پڑھی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیئے گئے۔ اور جس شخص نے شب قدر میں ایمان کے ساتھ بہ نیت ثواب نماز پڑھی اس کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیئے گئے۔

یہ حدیث صحیح ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہؓ کی ابو بکر بن عیاش سے مروی حدیث غریب ہے، ہم اسے ابو بکر بن عیاش کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے۔ وہ اعمش سے وہ ابوصالح سے اور وہ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں۔ ہاں البتہ ابو بکر کی سند سے جانتے ہیں۔ میں نے امام بخاری سے پوچھا تو کہا: ہم سے حسن بن ربیع نے ان سے ابوالاحوص نے ان سے اعمش نے اور ان سے مجاہد نے آنحضرت ﷺ کا یہ قول روایت کیا ہے: اذا كان..... الخ۔ یعنی یہی حدیث۔ اور یہ میرے نزدیک ابو بکر عیاش کی حدیث سے صحیح ہے۔

باب ۴۶۶۔ رمضان کے استقبال کے لیے روزے نہ رکھو۔

باب ۴۶۶۔ مَا جَاءَ لَا تَقْدَمُوا الشَّهْرَ بِصَوْمٍ

۵۹۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: رمضان سے ایک یا دو دن پہلے رمضان کے استقبال کی نیت سے روزے نہ رکھو ہاں البتہ کسی کے ایسے روزے جو وہ ہمیشہ سے رکھتا آ رہا ہے ان دنوں میں آجائیں (مثلاً جمعہ وغیرہ کو روزہ رکھنا) تو اس صورت میں رکھ لے

۵۹۲۔ حدثنا ابو كريب، ناعبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوماً

كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ صَوْمًا رَوِيَّتَهُ وَأَفْطَرُوا رَوِيَّتَهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ ثُمَّ أَفْطَرُوا

نیز رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد روزے رکھنا شروع کرو اور شوال کا چاند دیکھ کر افطار کر لو اور اگر بادل ہو جائیں تو تیس دن پورے کرو۔

اس باب میں بعض صحابہ سے بھی روایت ہے۔ منصور بن معتمر، ربیع بن خراش سے اور وہ بعض صحابہ سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابو ہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر علماء کا عمل ہے کہ رمضان سے ایک دو دن پہلے اس کی تعظیم اور استقبال کی نیت سے روزے رکھنا مکروہ ہے اور اگر کوئی ایسا دن آجائے جس میں وہ ہمیشہ روزہ رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

۵۹۳۔ حدثنا هناد نا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقلموا شهر رمضان بصيام قبله يوم أو يومين إلا أن يكون رجل. كان يصوم صوماً فليصمه

۵۹۳۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزے نہ رکھو لیکن اگر کوئی شخص مستقل کسی دن کے روزے رکھتا ہو اور وہ شعبان کے آخری دنوں میں آجائیں تو روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۴۶۷۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ يَوْمَ الشُّكِّ

باب ۴۶۷۔ شک کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔

۵۹۴۔ حدثنا ابو سعيد عبد الله بن سعيد الاشج نا ابو خالد الاحمر عن عمرو بن قيس عن ابي اسحق عن صلابة زفر قال كنا عند عمار بن ياسر فأتيت بشاة مصلية فقال كلوا فتتحي بعض القوم فقال اني صائم فقال عمار من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم

۵۹۴۔ حضرت صلہ بن زفر فرماتے ہیں کہ ہم عمار بن یاسر کے پاس تھے کہ ایک بھنی ہوئی بکری لائی گئی۔ عمار نے کہا: کھاؤ کچھ لوگ ایک طرف ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم تو روزے سے ہیں۔ عمار نے فرمایا: جس نے یوم الشک کو روزہ رکھا اس نے ابوقاسم (ﷺ) کی نافرمانی کی۔

اس باب میں ابو ہریرہ اور انسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے اور اسی پر اکثر اہل علم کا عمل ہے۔ جن میں صحابہ، تابعین وغیرہ شامل ہیں۔ سفیان ثوری اور مالک بن انس، عبداللہ بن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے کہ شک کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے بعض حضرات یہاں تک کہتے ہیں کہ اس روز روزہ رکھ لیا پھر بعد میں معلوم ہوا کہ واقعی وہ رمضان کا دن تھا تو اس کو روزے کی تضا کرنی پڑے گی وہ روزہ اس کے لیے کافی نہیں۔

باب ۴۶۸۔ مَا جَاءَ فِي إِحْصَاءِ هِلَالِ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ

باب ۴۶۸۔ رمضان کے لیے شعبان کے ہلال کا خیال رکھنا۔

۵۹۵۔ حدثنا مسلم بن حجاج نا يحيى بن يحيى نا ابو معاوية عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصوا هلال شعبان لرمضان

۵۹۵۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: رمضان کے لیے شعبان کے ہلال کے دن گنتے رہو۔

امام ترمذی کہتے ہیں: حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث کو ہم ابو معاویہ کی اس سند کے علاوہ نہیں جانتے۔ اور صحیح وہی ہے جو محمد بن عمر سے بواسطہ ابوسلمہ مروی ہے۔ وہ ابو ہریرہؓ سے اور وہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزے نہ رکھو۔ یحییٰ بن کثیر سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ وہ ابوسلمہ سے اور وہ ابو ہریرہؓ سے محمد بن عمرو لیشی کی مانند روایت کرتے ہیں۔

باب ۴۶۹۔ مَا جَاءَ أَنَّ الصَّوْمَ لِرُؤْيَا الْهَيْلَالِ  
باب ۴۶۹۔ روزہ رکھنا اور چھوڑنا چاند دیکھنے پر موقوف ہے۔  
وَالْإِفْطَارَ لَهُ

۵۹۶۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کہ جب رمضان کا چاند نظر آجائے تو روزے رکھنا شروع کرو، اس سے پہلے روزے نہ رکھو۔ پھر اسی طرح افطار بھی (روزے رکھنا ترک) چاند دیکھ کر ہی کرو۔ اور اگر مطلع ابراؤد ہو جائے تو تیس دن پورے کرو۔

۵۹۶۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ أَبِي أَحْوَصٍ عَنْ سَمَّاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ صُومُوا لِرُؤْيَا الْهَيْلَالِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَا الْهَيْلَالِ فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غِيَابَةٌ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا

اس باب میں ابو ہریرہؓ، ابن عمر اور ابوبکرہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ان ہی سے کئی سندوں سے مروی ہے۔

باب ۴۷۰۔ مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے۔  
۵۹۷۔ حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ اکثر تیس روزے ہی رکھے انتیس کا اتفاق کم ہی ہوا۔

باب ۴۷۰۔ مَا جَاءَ أَنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ  
۵۹۷۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَيْسَى بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضَرَّارٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَا صُمْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صُمْنَا ثَلَاثِينَ

اس باب میں ابو ہریرہؓ، عمرؓ، عائشہؓ، سعد بن ابی وقاصؓ، ابن عباسؓ، ابن عمرؓ، انسؓ، جابرؓ، ام سلمہؓ اور ابوبکرہؓ سے بھی روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: مہینہ کبھی انتیس کا بھی ہوتا ہے۔

۵۹۸۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اپنی ازواج سے ایک ماہ تک نہ ملنے کی قسم کھائی، اور انتیس روز تک ایک بالائی کمرے میں رہے۔ صحابہؓ نے کہا: یا رسول اللہ آپ ﷺ نے تو ایک ماہ کی قسم کھائی تھی۔ فرمایا: مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے۔

۵۹۸۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ الْي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا فَأَقَامَ فِي مَشْرَبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ يَوْمًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ الْيَتَّ شَهْرًا فَقَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۴۷۱۔ شہادت رؤیت ہلال پر روزہ رکھنا

باب ۴۷۱۔ مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ بِالشَّهَادَةِ

۵۹۹۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں ایک اعرابی آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا: میں نے چاند دیکھا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں۔ اعرابی نے کہا: جی ہاں! آپ ﷺ نے فرمایا: اے بلالؓ! لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل روزہ رکھیں۔

۵۹۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الصَّبَّاحِ نَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ سَمَاكَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْهَلَالَ فَقَالَ أَتَشْهَدُ أَنَّ لَأِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا بِلَالُ أَذُنُ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا غَدًا

ابو کریب، حسین جعفی سے وہ زائدہ سے اور سماک بن حرب سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ ابن عباسؓ کی حدیث میں اختلاف ہے۔ سفیان ثوری وغیرہ سماک بن حرب سے وہ عکرمہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے مرسل روایت کرتے ہیں۔ سماک کے اکثر ساتھی اسے عکرمہ سے اور وہ نبی ﷺ سے مرسل ہی روایت کرتے ہیں۔ اکثر علماء کا اسی پر عمل ہے کہ رمضان کے روزے کے لیے ایک آدمی کی گواہی کافی ہے۔ یہ ابن مبارک، شافعی اور احمدؒ کا بھی قول ہے جب کہ اسحاق دو آدمیوں کی گواہ کو معتبر سمجھتے ہیں۔ لیکن عید کے چاند کے متعلق علماء متفق ہیں کہ اس میں دو آدمیوں کی گواہی ضروری ہے۔

باب ۴۷۲۔ عید کے دونوں مہینے ایک ساتھ نہیں گھنٹے۔

باب ۴۷۲۔ مَا جَاءَ شَهْرًا عِيدًا لَا يَنْقُصَانِ

۶۰۰۔ عبدالرحمن بن ابی بکر اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: عید کے دونوں مہینے یعنی رمضان اور ذوالحجہ ایک ساتھ اسی دن کے نہیں ہوتے۔

۶۰۰۔ حَدَّثَنَا ابُو سَلْمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ الْبَصْرِيُّ نَا بَشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا عِيدًا لَا يَنْقُصَانِ رَمَضَانَ وَذُو الْحِجَّةِ

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن ہے اور عبدالرحمن بن بکرہ سے بحوالہ نبی اکرم ﷺ مرسل مروی ہے۔ امام احمد کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال میں رمضان اور ذوالحجہ دونوں انتیس انتیس دن کے نہیں ہوتے۔ اگر ایک انتیس کا ہوگا تو دوسرا تیس کا۔ لیکن اسحاق اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ دونوں ماہ اگر انتیس کے بھی ہوں تب بھی ان میں اجر و ثواب تیس دن کا ہی ہوتا ہے اس میں کمی نہیں ہوتی چنانچہ اس قول کے مطابق دونوں ماہ انتیس دن کے ہو سکتے ہیں۔

باب ۴۷۳۔ ہر اہل شہر کے لیے انہی کی روایت ہلال معتبر ہے۔

باب ۴۷۳۔ مَا جَاءَ لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيُهُمْ

۶۰۱۔ علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر سے اور وہ محمد بن ابو حرمہ سے نقل کرتے ہیں کہ ام فضل بنت حارث نے کریب کو معاویہ کے پاس شام بھیجا۔ کریب کہتے ہیں میں شام گیا اور ان کا کام کیا۔ اسی اثناء میں رمضان آگیا۔ چنانچہ ہم نے جمعہ کی شب چاند دیکھا۔ پھر میں رمضان کے آخر میں مدینہ واپس آیا تو ابن عباسؓ نے مجھ سے چاند کا ذکر کیا اور پوچھا کہ تم نے کب چاند دیکھا تھا؟ میں نے کہا جمعہ کی شب

۶۰۱۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرَمَةَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ هَلَالَ رَمَضَانَ وَآنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْنَا الْهَلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي إِحْرِ الشَّهِرِ فَسَأَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ

کو۔ ابن عباسؓ نے فرمایا: تم نے خود دیکھا تھا؟ میں نے کہا: لوگوں نے دیکھا اور روزہ رکھا، معاویہؓ نے بھی روزہ رکھا۔ ابن عباسؓ نے فرمایا: ہم نے تو چاند ہفتے کی شب دیکھا تھا لہذا ہم تیس دن تک روزے رکھیں گے یا یہ کہ عید الفطر کا چاند نظر آجائے۔ میں نے کہا: کیا آپ کے لیے معاویہ کا دیکھنا اور روزہ رکھنا کافی نہیں؟ فرمایا: نہیں، آنحضرت ﷺ نے ہمیں اسی طرح حکم دیا ہے۔

ثُمَّ ذَكَرَ الْهَلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهَلَالَ فَقُلْتُ رَأَيْتَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقُلْتُ رَأَاهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ لَكِنْ رَأَيْتَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالَ نَصُومُ حَتَّى نَكْمِلَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا أَوْ نَزَاهُ فَقُلْتُ أَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَا مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ قَالَ لَا هَكَذَا أَمَرَ نَارِسُؤُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

امام ترمذی اس حدیث کو حسن صحیح غریب کہتے ہیں اور اسی پر علماء کا عمل ہے کہ ہر شہر والوں کے لیے انہی کا چاند دیکھنا معتبر ہے۔

باب ۴۷۴۔ کس چیز سے روزہ افطار کرنا مستحب ہے

۶۰۲۔ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اگر کسی کے پاس کھجور ہو تو اس سے افطار کرے اور جس کے پاس کھجور نہ ہو وہ پانی سے افطار کرے کیوں کہ پانی عمدہ ترین (پاکیزہ) غذا ہے۔

باب ۴۷۴۔ مَا جَاءَ مَا يَسْتَحَبُّ عَلَيْهِ الْإِفْطَارُ

۶۰۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ نَا سَعِيدَ بْنَ عَامِرٍ نَا شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَلِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ

اس باب میں سلمان بن عامرؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں: انسؓ کی حدیث کو سعید بن عامرؓ کی کے علاوہ کسی اور کے شعبہ سے اس طرح روایت کرنے کا ہمیں علم نہیں اور یہ حدیث غیر محفوظ ہے۔ ہم اسے عبدالعزیز بن صہیب کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے۔ وہ انسؓ سے روایت کرتے ہیں۔ شعبہ کے ساتھی بھی یہ حدیث شعبہ سے وہ عامر احوال سے وہ حفصہ بنت سیرین سے وہ رباب سے وہ سلمان بن عامر سے اور وہ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ روایت سعید بن عامر کی روایت سے صحیح ہے۔ اسی طرح یہ حضرات شعبہ سے وہ عامر سے وہ حفصہ بنت سیرین سے اور وہ سلیمان بن عامر سے بھی روایت کرتے ہیں اور رباب کا نام ذکر نہیں کرتے۔ صحیح روایت سفیان ثوری ہی کی ہے وہ ابن عیینہ اور کئی حضرات سے وہ عامر احوال سے وہ حفصہ بنت سیرین سے وہ رباب سے اور وہ سلیمان بن عامر اور ابن عون سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم سے ام راحؓ بنت صلیحؓ سلمان بن عامر کے حوالے سے روایت کرتی ہیں۔ رباب، راحؓ کی والدہ ہیں۔

۶۰۳۔ حضرت سلیمان بن عامر الفحیمیؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور سے کرے اگر کھجور نہ ہو تو پانی سے۔ یہ بہترین (پاکیزہ) غذا ہے۔

۶۰۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ وَكَعْبُ بْنُ سَفِيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَحْوَلٍ ح وَثَنَا هِنَادُ بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَحْوَلٍ ح وَثَنَا قَتِيْبَةُ قَالَ ابْنَانَا سَفِيَانَ بْنِ عِيْنَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَحْوَلٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سَيْرِيْنَ عَنْ الرَّبَابِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَامِرِ الصَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۶۰۴۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نماز عید الفطر سے پہلے چند کھجیوں، خشک کھجوروں یا پانی کے چند گھونٹ سے افطار کیا کرتے تھے۔

۶۰۴۔ حدثنا محمد بن رافع نا عبد الرزاق نا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم تكن رطبات فتميرات فإن لم تكن تميرات حسا حساوات من ماء  
امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۴۷۵۔ عید الفطر اس دن ہوتی ہے جس دن سب افطار کریں اور عید الاضحیٰ اس دن ہوتی ہے جس دن سب قربانی کریں۔

باب ۴۷۵۔ مَا جَاءَ أَلَّ الْفِطْرِ يَوْمَ تَفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تَضْحُونَ

۶۰۵۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: رمضان اس دن ہے جس دن تم سب روزے رکھو عید الفطر اس روز جب تم سب افطار کرو اور عید الاضحیٰ اس دن جس دن تم سب عید الاضحیٰ مناؤ یعنی قربانی کرو۔

۶۰۵۔ حدثنا محمد بن اسمعيل نا ابراهيم بن المنذر نا اسحاق بن جعفر بن محمد قال حدثني عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفترون والأضحى يوم تضحون

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ بعض علماء اس کی یہ تفسیر کرتے ہیں کہ رمضان اور عیدین میں جماعت فرض ہے اور سب لوگوں کا اس کے لیے اہتمام کرنا ضروری ہے۔

توضیح: حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب شرعی ثبوت کے بعد روزہ رکھ لیا یا عید منالی تو خواہ مخواہ شکوک و اوہام میں مبتلا نہیں ہونا چاہئے۔ چنانچہ اس سے چاند کے چھوٹے یا بڑے ہونے کی وجہ سے پھیلائے جانے والے دوسو سو کی نفی مقصود ہے۔ واللہ اعلم۔ (مترجم)

باب ۴۷۶۔ مَا جَاءَ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَادْبَرَ النَّهَارُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

۶۰۶۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جب دن ختم ہونے اور رات شروع ہونے کو اور سورج غروب ہو جائے تو افطار کرو۔

۶۰۶۔ حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني نا عبدة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عاصم بن عمر عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقبل الليل وادبر النهار وغابت الشمس فقد أظفرت

اس باب میں ابن ابی اوفیٰ اور ابوسعید سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۴۷۷۔ افطار میں جلدی کرنا۔

باب ۴۷۷۔ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الْإِفْطَارِ

۶۰۷۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب

۶۰۷۔ حدثنا بندار نا عبد الرحمن بن مهدى عن

سفیان عن ابی حازم ح واخبرنا ابو مصعب قرأه  
عن مالك بن انس عن ابی حازم عن سهل بن سعد  
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا  
يزال الناس بخير مما عجلوا الفطر

اس باب میں ابو ہریرہؓ، ابن عباسؓ، عائشہؓ اور انس بن مالکؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور علماء صحابہ وغیرہ اسی کو اختیار کرتے ہیں کہ جلدی روزہ کھولنا مستحب ہے۔ امام شافعی، احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔

۶۰۸۔ حدثنا اسحق بن موسى الانصاري نا  
الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن قرة عن الزهري  
عن ابی سلمة عن ابی هريرة قال قال رسول الله  
صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل احب  
عبادى الى اعجلهم فطرا

عبداللہ بن عبد الرحمن، ابو عاصم اور ابو نعیمہ سے اور وہ اوزاعی سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۶۰۹۔ حدثنا هنادنا ابو معاوية عن الاعمش عن  
عمارة بن عمير عن ابی عطية قال دخلت انا  
ومسروق على عائشة فقلنا يا أم المؤمنين رجلا  
من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم احدهما  
يعجل الفطر ويعجل الصلوة والآخر يؤخر الإفطار  
ويؤخر الصلوة قالت ايهما يعجل الإفطار ويعجل  
الصلوة قلنا عبد الله ابن مسعود قالت هكذا صنع  
رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر ابو موسى

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو عطیہ کا نام مالک بن ابو عامر ہمدانی ہے۔ انہیں مالک بن عامر ہمدانی بھی کہتے ہیں۔

باب ۴۷۸۔ ماجاء في تأخير السحور

باب ۴۷۸۔ سحری میں تاخیر کرنا۔

۶۱۰۔ حدثنا يحيى بن موسى نا  
الطبالسي نا هشام الداستاني عن قتادة عن انس  
عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى  
الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلوة قال قلت كم  
كان قدر ذلك قال قدر خمسين آية

۶۱۰۔ حضرت زید بن ثابتؓ فرماتے ہیں: ہم نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ سحری کی اور پھر فجر کی نماز کے لیے چل دیے راوی نے پوچھا کھانے اور نماز میں کتنا وقفہ ہوگا۔ حضرت زیدؓ نے فرمایا: پچاس آیتیں پڑھنے کا۔

ہناد، وکیع سے اور وہ ہشام سے اسی حدیث کے مثل روایت کرتے ہیں لیکن اس میں ”قرأت“ لفظ زیادہ ہے۔ اس باب میں حدیفہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں زید کی حدیث حسن صحیح ہے۔ شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے کہ سحری میں تاخیر کرنا مستحب ہے۔

باب ۴۷۹۔ مَا جَاءَ فِي بَيَانِ الْفَجْرِ

باب ۴۷۹۔ صبح صادق کی تحقیق۔

۶۱۱۔ حَدَّثَنَا هِنَادٌ مَلَا زِمٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ النُّعْمَانِ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا يَهِيْدُنْكُمْ السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ وَكُلُّوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يُعْتَرِضَ لَكُمْ الْأَحْمَرُ

۶۱۱۔ قیس بن طلق بن علی، ابوظلق سے نقل کرتے ہیں، کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: رمضان کی شب میں کھاؤ پیو اور چڑھتی ہوئی روشنی تمہیں گھبراہٹ میں مبتلا نہ کرے چنانچہ اس پر کھانا پینا نہ چھوڑو، یہاں تک کہ شفقِ احمر (صبح صادق) ظاہر ہو جائے۔

اس باب میں عدی بن حاتم، ابو ذر، اور سمرہ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ اور اسی پر علماء کا عمل ہے کہ شفقِ احمر کے ظاہر ہونے تک روزہ دار کے لیے کھانا پینا جائز ہے۔ یہ اکثر علماء کا قول ہے۔

۶۱۲۔ حَدَّثَنَا هِنَادٌ وَيُوسُفُ بْنُ عَيْسَى قَالَا نَا وَكَيْعٌ عَنْ أَبِي هِلَالٍ عَنْ سَوَادَةَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ وَ لَكِنَّ الْفَجْرَ الْمُسْتَطِيرَ فِي الْأَفْقِ

۶۱۲۔ حضرت سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سحری کھانے سے بلال کی اذان اور لمبی فجر یعنی صبحِ کاذب کی وجہ سے باز نہ آؤ ہاں البتہ پھیلتی ہوئی فجر یعنی صبح صادق کے ظاہر ہونے پر کھانا پینا ترک کر دو۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۴۸۰۔ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْغَيْبَةِ لِلصَّائِمِ

باب ۴۸۰۔ روزہ دار کے لیے غیبت کرنے پر وعید۔

۶۱۳۔ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَاعِمَانُ بْنُ عَمْرِو قَالَ وَثْنَا ابْنَ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَدْعُ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدْعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

۶۱۳۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جو شخص جھوٹی باتیں اور ان پر عمل کرنا نہ ترک کرے، اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

اس باب میں انس سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۴۸۱۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ السَّحُورِ

باب ۴۸۱۔ سحری کھانے کی فضیلت۔

۶۱۴۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَابُوعَوَانَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

۶۱۴۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: سحری کھاؤ اسی میں برکت ہے۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسْحَرُوا فَإِنَّ فِي السَّحْرِ بَرَكَةً

اس باب میں ابو ہریرہ، عبداللہ بن مسعود، جابر بن عبداللہ، ابن عباس، عمرو بن عاص، عرباض بن ساریہ، عتبہ بن عبد اللہ اور ابو درداء سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ آپ ﷺ سے مروی ہے کہ فرمایا: ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں صرف سحری کا فرق ہے۔ یہ حدیث تہنید، لیث سے وہ موسیٰ بن علی سے وہ اپنے والد سے وہ ابو قیس (جو عمرو بن عاص کے مولیٰ ہیں) سے وہ عمرو بن عاص سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اہل مصر موسیٰ بن علی اور اہل عراق موسیٰ بن علی کہتے ہیں۔ یہ موسیٰ بن علی بن رباح اللخمی ہیں۔

باب ۴۸۲۔ سفر میں روزہ رکھنے کی کراہت

باب ۴۸۲۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ

۶۱۵۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو کراخ الغمیم (۱) کے مقام تک روزہ رکھتے رہے۔ لوگ بھی آپ ﷺ کے ساتھ روزہ رکھتے رہے۔ پھر آپ ﷺ سے کہا گیا کہ لوگوں پر روزہ رکھنا گراں گزر رہا ہے لیکن آپ ﷺ کی اتباع میں روزے رکھ رہے ہیں۔ چنانچہ آپ ﷺ نے عصر کے بعد پانی کا پیالہ منگوا لیا اور پی لیا۔ لوگ آنحضرت ﷺ کو دیکھ رہے تھے۔ پھر بعض نے اظہار کر لیا اور بعض نے مکمل کیا۔ جب یہ خبر آنحضرت ﷺ کو ملی کہ کچھ لوگوں نے پھر بھی روزہ نہیں توڑا تو فرمایا: یہ لوگ نافرمان ہیں۔

۶۱۵۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامَ وَإِنَّ النَّاسَ يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ فَدَعَا بِقَدْحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَأَفْطَرَ بَعْضُهُمْ وَصَامَ بَعْضُهُمْ فَبَلَغَهُ أَنَّ نَاسًا صَامُوا فَقَالَ أُولَئِكَ الْعَصَاةُ

اس باب میں کعب بن عاصم، ابن عباس اور ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں جابر کی حدیث حسن ہے اور آنحضرت ﷺ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”سفر میں روزہ رکھنا بہتر نہیں“۔ علماء کا سفر کے دوران روزہ رکھنے میں اختلاف ہے۔ بعض صحابہ وغیرہ کے نزدیک سفر میں روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ یہاں تک کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر سفر میں روزہ رکھے تو دوبارہ رکھنا پڑے گا۔ احمد اور اسحاق بھی سفر میں روزہ نہ رکھنا ہی اختیار کرتے ہیں۔ بعض علماء صحابہ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر قوت ہو تو روزہ رکھے اور یہی افضل ہے۔ اور اگر نہ رکھے تو بھی بہتر ہے۔ سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک اور مالک بن انس کا بھی یہی قول ہے۔ شافعی، جابر بن عبداللہ کی حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ برائی اس شخص سے متعلق ہے جس کا دل اللہ تعالیٰ کی رخصت اور اجازت کو قبول نہ کرے لہذا وہ شخص جو روزہ رکھے کو جائز سمجھتا ہو اور اس کی طاقت بھی رکھتا ہو اس کا روزہ رکھنا میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔

باب ۴۸۳۔ سفر میں روزہ رکھنے کی اجازت

باب ۴۸۳۔ مَا جَاءَ فِي الرَّخْصَةِ فِي السَّفَرِ

۶۱۶۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حمزہ بن عمرو اسلمی نے رسول اللہ ﷺ سے سفر میں روزہ رکھنے کے متعلق دریافت کیا۔ حمزہ پے در پے روزے رکھا کرتے تھے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: چاہو تو روزے رکھو اور چاہو

۶۱۶۔ حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِي نَاعِبِدَةَ بِنِ سَلِيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْأَسْلَمِيِّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

(۱) کراخ الغمیم: ایک مقام کا نام ہے جو مکہ سے تقریباً تیس میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ عسفان کے کنوئیں کے پاس ہے۔ (مترجم)

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَكَانَ يَسْرُدُ  
الصَّوْمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ  
شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ

اس باب میں انس بن مالکؓ، ابوسعیدؓ، عبداللہ بن مسعودؓ، عبداللہ بن عمرؓ، ابودرداءؓ اور حمزہ بن عمروؓ سلمیٰ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں عائشہؓ کی حمزہ بن عمروؓ سلمیٰ والی حدیث حسن صحیح ہے۔

۶۱۷۔ حدثنا نصر بن علي الجهضمي. ناشر بن  
المفضل عن سعيد بن يزيد بن سلمه عن أبي  
نضرة عن أبي سعيد قال كُنَّا نَسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَمَا يُعَابَ  
عَلَى الصَّائِمِ صَوْمُهُ وَلَا عَلَى الْمُفْطِرِ فِطْرُهُ

۶۱۸۔ حدثنا نصر بن علي نا يزيد بن زريع نا  
الجريري ح ونا سفيان بن وكيع نا عبدالاعلى  
عن الجريري عن ابى نضرة عن ابى سعيد  
نا الخدرى قال كُنَّا نَسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَلَا  
يَجِدُ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ وَلَا الصَّائِمُ عَلَى  
الْمُفْطِرِ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مَنْ وَجَدَ قُوَّةَ فَصَامَ  
فَحَسَنٌ وَمَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَحَسَنٌ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۴۸۴۔ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ لِلْمُحَارِبِ فِي الْإِفْطَارِ  
۶۱۹۔ حدثنا قتيبة نا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي  
حبيب عن معمر بن أبي حبيبة عن ابن المسيب أنه  
سأله عن الصوم في السفر فحدث أن عمر بن الخطاب  
قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في  
رمضان غزوتين يوم بدر وألفتح فأفطرنا فيهما

اس باب میں ابوسعیدؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں: ہم عمرؓ کی حدیث کو اس سند کے علاوہ نہیں جانتے، ابوسعیدؓ سے یہ بھی مروی ہے کہ ”آنحضرت ﷺ نے ایک غزوہ میں افطار کا حکم بھی دیا تھا“۔ حضرت عمر بن خطابؓ سے بھی مروی ہے کہ وہ بھی دشمن سے مقابلے کے وقت افطار کی اجازت دیتے تھے۔ بعض علماء بھی اسی کے قائل ہیں۔

باب ۴۸۵۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے افطار کی اجازت۔  
 ۶۲۰۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے لشکر نے ہمارے قبیلے پر حملہ کیا۔ میں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ کھانا کھا رہے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: قریب ہو جاؤ اور کھاؤ۔ میں نے کہا میں روزے سے ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: قریب آؤ میں تمہیں روزے کے متعلق بتاؤں (راوی کو شک ہے کہ صوم یا صیام جو صوم (یعنی روزے) کی جمع ہے فرمایا) اللہ تعالیٰ نے مسافر کے لیے آدھی نماز اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے روزہ معاف فرمایا ہے (یہاں بھی راوی کو صوم اور صیام میں شک ہے) اللہ کی قسم آپ ﷺ نے حاملہ اور مرضہ دونوں کا یا ایک کا ذکر کیا۔ مجھے اپنے اوپر یہ افسوس ہے کہ میں نے آپ ﷺ کے ساتھ کیوں نہیں کھایا۔

باب ۴۸۵۔ مَا جَاءَ فِي الرُّحْصَةِ فِي الْإِفْطَارِ لِلْحَبْلِیِّ وَالْمَرْضِعِ  
 ۶۲۰۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ وَيُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَا نَا  
 وَكَيْعُ نَا أَبُو هَلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ أَنَسِ  
 بْنِ مَالِكٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ  
 أَغَارَتْ عَلَيْنَا حَيْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُهُ  
 يَغْعَدِي فَقَالَ اذْنُ فَكُلْ فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ اذْنُ  
 أُحَدِّثُكَ عَنِ الصَّوْمِ أَوْ الصِّيَامِ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ  
 الْمَسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمَرْضِعِ  
 الصَّوْمَ أَوْ الصِّيَامَ وَاللَّهُ لَقَدْ قَالََهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِلَيْهِمَا أَوْ أَحَدَهُمَا فَيَا هَفَفَ نَفْسِي أَنْ  
 لَا أَكُونَ طَعْمًا مِنْ طَعَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس باب میں ابوامیہ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے اور انس کھسی کی اس روایت کے علاوہ ہم کوئی حدیث نہیں جانتے۔ بعض علماء اسی حدیث پر عمل پیرا ہیں جب کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ حائضہ اور مرضہ دونوں روزہ نہ رکھیں پھر قضاء کریں اور اس کے ساتھ ہی صدقہ فطر کے برابر فقیروں کو ہر روزے کے بدلے میں کھانا بھی کھلائیں۔ سفیان ثوری، مالک، شافعی اور احمد اسی کے قائل ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ افطار کریں اور مسکینوں کو کھانا کھلائیں قضا نہ کریں۔ اور اگر چاہیں تو قضا کر لیں اور اس صورت میں کھانا کھلانا ضروری نہیں۔ اسحاق بھی یہی کہتے ہیں۔

باب ۴۸۶۔ میت کی طرف سے روزہ رکھنا۔

۶۲۱۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں: ایک عورت آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ! میری بہن فوت ہو گئی ہے اور اس کے متواتر دو مہینے کے روزے چھوٹ گئے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: دیکھو اگر تمہاری بہن پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتیں؟ کہنے لگی ہاں۔ فرمایا: اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیگی کا اس سے زیادہ مستحق ہے۔

باب ۴۸۶۔ مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ

۶۲۱۔ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجَعِيُّ نَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ  
 عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَلْمَةَ بِنِ كَهَيْلٍ وَمُسْلِمِ الْبَطْنِيِّ  
 عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  
 قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 فَقَالَتْ إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرَيْنِ  
 مُتَابِعَيْنِ قَالَ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكَ دَيْنٌ أَكُنْتِ  
 تَقْضِيْنَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَحَقُّ اللَّهِ أَحَقُّ

اس باب میں حضرت ابن عمرؓ اور عائشہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی، ابن عباسؓ کی حدیث کو حسن صحیح کہتے ہیں ابو کریب، ابو خالد احمر سے اور وہ اعمش سے اسی سند سے اسی حدیث کے مثل روایت کرتے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں: ابو خالد کے علاوہ بھی کچھ راوی اعمش سے ابو خالد کی روایت کی مانند بیان کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابو معاذ یہ اور کئی راوی حضرات یہ حدیث اعمش سے وہ مسلم بطین سے وہ سعید بن جبیرؓ سے وہ ابن عباسؓ سے اور وہ حضور ﷺ سے روایت کرتے ہوئے سلمہ بن کہیل، عطاء اور مجاہد کا ذکر نہیں کرتے۔

باب ۴۸۷۔ مَا جَاءَ فِي الْكُفَّارَةِ

باب ۴۸۷۔ روزے کا کفارہ۔

۶۲۲۔ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ نَا عِثْرَ عَنْ اشْعَثَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ شَهْرٍ فَلْيَطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مَسْكِينًا

۶۲۲۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی فوت ہو جائے اور اس پر ایک مہینے کے روزے باقی ہوں تو اس کے بدلے ہر روزے کے مقابلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔

امام ترمذی کہتے ہیں: ابن عمرؓ کی حدیث کو ہم اس سند کے علاوہ مرفوع نہیں جانتے اور صحیح یہی ہے کہ یہ ابن عمرؓ پر موقوف ہے اور انہی کا قول ہے۔ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے روزے رکھے جائیں احمد اور اسحاق بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر نذر کے روزے ہوں تو اس کی طرف سے روزے رکھے جائیں اور اگر رمضان کے ہوں تو مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے جب کہ مالک شافعی اور سفیان کا قول یہ ہے کہ کوئی کسی کی طرف سے روزہ نہ رکھے، اشعث، سوار کے بیٹے ہیں اور محمد بن عبد الرحمن بن ابی الحلی ہیں۔

باب ۴۸۸۔ مَا جَاءَ فِي الصَّائِمِ يَذْرَعُهُ الْفَيْءُ

باب ۴۸۸۔ روزے میں قے آنا۔

۶۲۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمُحَارِبِيِّ نَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ اسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَّارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرُنَّ الصَّائِمَ الْحِجَامَةُ وَالْفَيْءُ وَالْإِحْتِلَامُ

۶۲۳۔ حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تین چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حجامت، قے اور احتلام۔

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث غیر محفوظ ہے۔ عبد اللہ بن زید بن اسلم، عبد العزیز بن محمد اور کئی راویوں نے یہ حدیث زید بن اسلم سے مرسل روایت کی ہے اور ابوسعید کا ذکر نہیں کیا۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم ضعیف ہیں۔ میں نے ابوداؤد بخاری سے سنا کہ انہوں نے احمد بن حنبل سے عبد الرحمن بن زید بن اسلم کے متعلق پوچھا؟ فرمایا: ان کے بھائی عبد اللہ بن زید میں کوئی مضائقہ نہیں۔ امام بخاری علی بن عبد اللہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن زید بن اسلم ثقہ اور عبد الرحمن بن زید بن اسلم ضعیف ہیں۔ میں ان سے روایت نہیں کرتا۔

باب ۴۸۹۔ مَا جَاءَ فِي مَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا

باب ۴۸۹۔ روزے میں عمد آتے کرنا۔

۶۲۴۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ذَرَعَهُ الْفَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ

۶۲۴۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جسے خود بخود قے ہو جائے اس پر قضا واجب نہیں البتہ اگر کوئی عمد آتے کرے تو اس پر قضا واجب ہے۔

اس باب میں ابودرداء، ثوبان اور فضالہ بن عبید سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن غریب ہے ہم اسے ہشام کی ابن سیرین اور ان کی ابو ہریرہؓ سے روایت کے متعلق عیسیٰ بن یونس کی حدیث کے علاوہ نہیں جانتے۔ امام بخاری کہتے ہیں یہ محفوظ نہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث کئی سندوں سے حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے وہ حضور اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں اس کی سند صحیح نہیں۔ ابودرداء، ثوبان اور فضالہ بن عبید سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ ایک مرتبہ نقلی روزے سے تھے کہ آپ ﷺ

کو... نے ہوئی جس سے آپ ﷺ نے ضعف محسوس کیا اور روزہ کھول لیا۔ بعض احادیث میں اس کی یہ تفسیر بھی موجود ہے یعنی آپ ﷺ نے خود روزہ کھول لیا تھا کہ روزہ ٹوٹ گیا تھا۔ علماء کے نزدیک عمل حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث پر ہی ہے کہ اگر کسی روزہ دار کو خود بخود قے ہو جائے تو اس پر قضاء واجب نہیں البتہ اگر عمداتے کرے گا تو قضاء کرنی ہوگی۔ شافعی، سفیان ثوری، احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔

باب ۴۹۰۔ مَا جَاءَ فِي الصَّائِمِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ نَاسِيًا

۶۲۵۔ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجَعِيُّ نَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِيُّ عَنْ حِجَّاجٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلَا يُفْطِرُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ

باب ۴۹۰۔ روزے میں بھول کر کھانا پینا۔

۶۲۵۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی شخص روزے میں بھول کر کچھ کھاپی لے، تو روزہ نہ توڑے۔ اس نے جو کچھ کھایا پیا وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ رزق تھا۔

ابو سعید، ابو امامہ سے وہ عوف سے وہ میرین اور خلاص سے یہ دونوں ابو ہریرہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی حدیث کے مثل بیان کرتے ہیں۔ اس باب میں ابو سعید اور ام اسحاق غنویہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر اکثر اہل علم کا عمل ہے۔ سفیان، شافعی، احمد اور اسحاق بھی یہی کہتے ہیں جب کہ اسحاق کا کہنا ہے کہ بھولے سے کچھ کھاپی لینے پر بھی قضا کرنا ہوگی لیکن پہلا قول ہی صحیح ہے۔

باب ۴۹۱۔ مَا جَاءَ فِي الْإِفْطَارِ مُتَعَمِدًا

۶۲۶۔ حَدَّثَنَا بَنْدَارٌ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا نَا سَفْيَانٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ نَا أَبُو الْمُطَوِّسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُحْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَإِنْ صَامَهُ

باب ۴۹۱۔ قصد آروزہ توڑنا۔

۶۲۶۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے رمضان میں بغیر عذر یا مرض کے روزہ افطار کر لیا (توڑ دیا) وہ اگر ساری عمر بھی روزہ رکھے تو اس ایک روزے کے برابر ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔

امام ترمذی کہتے ہیں اس حدیث کو ہم اس سند کے علاوہ نہیں جانتے۔ امام بخاری کہتے تھے ابوالمطوس کا نام یزید بن مطوس ہے اور میں ان کی اس حدیث کے علاوہ کوئی حدیث نہیں جانتا۔

باب ۴۹۲۔ مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ

۶۲۷۔ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَأَبُو عَمْرٍو الْمَعْنَى وَاحِدٌ وَاللَّفْظُ لَفْظُ أَبِي عِمَارَةَ قَالَا نَا سَفْيَانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ آتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ وَمَا أَهْلَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَيَّ أَمْرٌ آتَى فِي رَمَضَانَ قَالَ هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً قَالَ لَا

باب ۴۹۲۔ رمضان میں روزہ توڑنے کا کفارہ۔

۶۲۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں ہلاک ہو گیا: آپ ﷺ نے فرمایا: تمہیں کس چیز نے ہلاک کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے رمضان میں روزے کے دوران اپنی بیوی سے صحبت کر لی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ عرض کیا نہیں فرمایا: کیا تم دو مہینے متواتر روزے رکھ سکتے ہو؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا: کیا ساٹھ مسکینوں

قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ قَالَ لَا  
 قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَطْعَمَ سِتِّينَ مَسْكِينًا قَالَ لَا  
 قَالَ اجْلِسْ فَحَلَسَ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ قَالَ فَتَصَدَّقْ  
 بِهِ فَقَالَ مَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا أَحَدٌ أَفْقَرُ مِنَّا قَالَ فَضَحِكَ  
 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْبِابُهُ قَالَ  
 خُذْهُ فَاطْعِمُهُ أَهْلَكَ

کو مانا کھلا سکتے ہو؟ عرض کیا نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اچھا بیٹے جاؤ۔  
 وہ بیٹہ گیا پھر آپ ﷺ کے پاس کھجوروں کا ایک ٹوکرا لایا گیا۔ (ابو عرق)  
 بارے بڑے ٹوکرے کو کہتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: اسے  
 کرو۔ اس شخص نے کہا مدینہ کے لوگوں میں مجھ سے زیادہ کوئی فقیر نہیں  
 ہوگا۔ اس پر آپ ﷺ اس طرح ہنسے کہ آپ ﷺ کی کچلیاں مبارک نظر  
 آنے لگیں۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: جاؤ اسے اپنے اہل و عیال کو  
 کھلا دو۔

اس باب میں ابن عمرؓ، عائشہؓ اور عبداللہ بن عمروؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر  
 علماء کا عمل ہے۔ جو شخص جماع سے روزہ توڑ دے اور جو شخص کھانے پینے سے روزہ توڑے۔ ان کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔  
 بعض علماء کے نزدیک اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں اور جماع اور کھانے پینے میں کوئی فرق نہیں۔ یہ اسحاق، سفیان ثوری اور ابن  
 مبارک کا قول ہے جب کہ بعض کا کہنا ہے کہ اس پر صرف قضا ہے کفارہ نہیں۔ اس لیے کہ صرف جماع ہی پر آپ ﷺ سے کفارہ ادا کرنے  
 کا حکم مروی ہے کھانے پینے میں نہیں۔ چنانچہ ان علماء کا موقف یہ ہے کہ کھانے پینے اور جماع میں کوئی مشابہت نہیں لہذا ان دونوں کا حکم  
 بھی ایک نہیں ہو سکتا یہ شافعی اور احمد کا قول ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں اس حدیث میں اس شخص کو وہ کھجوریں اپنے اہل و عیال کو کھلانے میں  
 کئی احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ کفارہ اسی پر واجب ہوتا ہے جس میں قدرت ہو۔ اور اس شخص میں اس کی قدرت نہیں تھی پھر جب وہ ٹوکرا آپ  
 ﷺ نے اس کو دیا تو اس نے عرض کیا کہ مجھ سے زیادہ محتاج بھی کوئی نہیں چنانچہ آپ ﷺ نے اسے حکم دیا کہ لے جاؤ اور اپنے گھر والوں کو  
 کھلا دو۔ یہ حکم اسی لیے تھا کہ کفارہ کا وجوب اسی صورت میں ممکن ہے کہ اس کے پاس حاجت سے زیادہ مال ہو۔ امام شافعی اس مسئلے  
 میں یہ مذہب اختیار کرتے ہیں کہ ایسے شخص پر کفارہ فرض رہے گا۔ جب اس میں قدرت ہوگی ادا کرے گا۔

باب ۴۹۳۔ روزے میں مسواک کرنا۔

باب ۴۹۳۔ مَا جَاءَ فِي السَّوَاكِ لِلصَّائِمِ

۶۲۸۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں  
 کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ کو ان گنت مرتبہ روزے میں مسواک  
 کرتے ہوئے دیکھا۔

۶۲۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ نَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ  
 مَهْدِيٍّ نَا سَفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ  
 بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَا أُحْصِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ

اس باب میں حضرت عائشہؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں عامر بن ربیعہ کی حدیث حسن ہے اور اسی پر علماء کا عمل ہے کہ  
 روزے میں مسواک کرنے میں کوئی مضاقت نہیں۔ لیکن بعض علماء روزہ دار کے لیے ہر گیلی کنزی کی مسواک کو مکروہ کہتے ہیں جب کہ بعض  
 علماء دن کے آخری حصے میں مسواک کو مکروہ کہتے ہیں اسحاق اور احمد کا بھی یہی قول ہے لیکن امام شافعی کے نزدیک دن کے کسی بھی حصے میں  
 مسواک کرنے میں کوئی مضاقت نہیں۔

باب ۴۹۴۔ روزے میں سرمہ لگانا۔

باب ۴۹۴۔ مَا جَاءَ فِي الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ

۶۲۹۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور ﷺ کے

۶۲۹۔ حَدَّثَنَا عَبْدِ الْعَلِيِّ بْنِ وَاصِلٍ نَا الْحَسَنِ بْنِ

عطية نا أبو عاتكة عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت عيني أفأكتحل وأنا صائم قال نعم

پاس آیا اور عرض کیا کہ میری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں کیا میں روزے میں سرمہ لگا سکتا ہوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں۔

اس باب میں حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کی سند قوی نہیں اس باب میں آنحضرت ﷺ سے مروی کوئی حدیث صحیح نہیں اور ابو عاتکہ ضعیف ہیں۔ علماء کا روزے میں سرمہ لگانے میں اختلاف ہے بعض اسے مکروہ سمجھتے ہیں جن میں سفیان، ابن مبارک، احمد اور اسحاق بھی شامل ہیں جبکہ بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں یہ امام شافعی کا قول ہے۔

باب ۴۹۵۔ مَا جَاءَ فِي الْقِبْلَةِ لِلصَّائِمِ

باب ۴۹۵۔ روزے میں بوسہ لینا۔

۶۳۰۔ حَدَّثَنَا هِنَادُنا وَقَتِيبة قَالَا نا اَبُو الِاحْوَصِ عَن زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَن عَمْرُو بْنِ مَيْمُونٍ عَن عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْبَلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ

۶۳۰۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ رمضان کے مہینے میں بوسہ لیا کرتے تھے۔

اس باب میں حضرت عمر بن خطاب، حفصہ، ابوسعید، ام سلمہ، ابن عباس، انس اور ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت عائشہ کی حدیث حسن صحیح ہے اور علماء کا روزے میں بوسہ لینے میں اختلاف ہے۔ بعض صحابہ نے اس کی صرف بوزھے شخص کے لیے اجازت دی ہے جو ان کے لیے نہیں۔ اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ جو ان جذبات میں آکر اپنے روزے سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ جب کہ مباشرت (یعنی بوس و کنار اور ساتھ لیٹنے) کے معاملے میں یہ حضرات اس سے بھی سخت ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے روزے کے اجر میں تو کمی آجاتی ہے لیکن روزہ ٹوٹتا نہیں۔ چنانچہ ان کے نزدیک اگر روزہ دار کو اپنے نفس پر قدرت ہو تو اس کے لیے بوسہ لینا جائز ہے ورنہ نہیں تاکہ اس کا روزہ محفوظ رہے یہ سفیان ثوری اور شافعی کا قول ہے۔

باب ۴۹۶۔ مَا جَاءَ فِي مُبَاشَرَةِ الصَّائِمِ

باب ۴۹۶۔ روزے میں بوس و کنار کرنا۔

۶۳۱۔ حَدَّثَنَا اِبْنُ اَبِي عَمْرٍَا وَكَيْعِ نا اسْرَائِيْلُ عَن اَبِي اسْحَقَ عَن اَبِي مَيْسَرَةَ عَن عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُبَاشِرُنِي وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ اَمْلِكُكُمْ لِارْبِهِ

۶۳۱۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ روزے میں مجھ سے مباشرت کرتے تھے اور وہ سب سے زیادہ اپنی شہوت پر قابو رکھتے تھے۔

۶۳۲۔ حَدَّثَنَا هِنَادُنا اَبُو معاوية عَن الِاعْمَشِ عَن اِبْرَاهِيْمَ عَن عِلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدَ عَن عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْبَلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ اَمْلِكُكُمْ لِارْبِهِ

۶۳۲۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ روزے کی حالت میں بوسہ بھی لیتے اور مباشرت بھی کرتے۔ لیکن آپ ﷺ شہوت پر سب سے زیادہ قدرت رکھنے والے تھے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے اور ابو میسرہ کا نام عمرو بن شریحیل ہے۔

باب ۴۹۷۔ مَا جَاءَ لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَعْزِمْ مِنَ اللَّيْلِ

باب ۴۹۷۔ جو شخص رات سے نیت نہ کرے اس کا روزہ درست نہیں۔

۶۳۳۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ نا اِبْنُ اَبِي مَرْيَمَ نا يَحْيَى بْنُ اَبِيوبَ عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِي بَكْرٍ عَن اِبْنِ شَهَابٍ عَن سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَن اَبِيهِ عَن حَفْصَةَ

۶۳۳۔ حضرت حفصہ کہتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جو شخص صبح صادق سے پہلے روزے کی نیت نہ کرے۔ اس کا روزہ نہیں ہوتا۔

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَجْمَعْ  
الصَّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

امام ترمذی کہتے ہیں: حصصہ کی حدیث کو ہم اس سند کے علاوہ مرفوع نہیں جانتے یہ نافع سے بواسطہ ابن عمرؓ انہی کا قول مروی ہے اور وہ اصح ہے۔ اس حدیث کا بعض علماء کے نزدیک معنی یہ ہے کہ جو شخص رمضان، قضاء رمضان یا نذر وغیرہ کے روزے کی نیت اگر صبح صادق سے پہلے نہ کرے تو اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ نقلی روزوں میں صبح بھی نیت کی جاسکتی ہے۔ یہ امام شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے۔

باب ۳۹۸۔ نفل روزہ توڑنا۔

باب ۴۹۸۔ مَا جَاءَ فِي افْطَارِ الصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ

۶۳۴۔ حضرت ام ہانیؓ فرماتی ہیں کہ میں آنحضرت ﷺ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ ﷺ کی خدمت میں کوئی پینے والی چیز پیش کی گئی۔ آپ ﷺ نے اس سے بیا پھر مجھے دیا میں نے بھی پیا۔ پھر میں نے عرض کیا مجھ سے گناہ مرزد ہو گیا ہے میرے لیے استغفار کیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا گناہ ہوا؟ میں نے کہا: میں روزے سے تھی اور روزہ ٹوٹ گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا آپ نے قضاء روزہ رکھا ہوا تھا؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا: اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

۶۳۴۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا أَبُو الْاِحْوَصِ عَنْ سَمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ ابْنِ اُمِّ هَانِيٍّ عَنْ اُمِّ هَانِيٍّ ؓ قَالَتْ كُنْتُ قَاعِدَةً عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَى بِشَرَابٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلَنِي فَشَرِبْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ اِنِّي اَذْنَبْتُ فَاَسْتَغْفِرْ لِي قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَتْ كُنْتُ صَائِمَةً فَاَفْطَرْتُ فَقَالَ اَمِيْنُ قَضَاءٌ كُنْتَ تَقْضِيْنَهُ قَالَتْ لَا قَالَ فَلَا يَضُرُّكَ

اس باب میں ابوسعیدؓ اور عائشہؓ سے بھی روایت ہے اور ام ہانیؓ کی حدیث میں کلام ہے۔ بعض علماء صحابہ وغیرہ کا اسی پر عمل ہے کہ اگر کوئی شخص نقلی روزہ توڑ دے تو اس پر قضاء واجب نہیں۔ ہاں اگر وہ چاہے کہ رکھے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ یہ سفیان ثوری، شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے۔

۶۳۵۔ محمود بن غیلان، ابوداؤد سے وہ شعبہ سے اور وہ سماک بن حرب سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ام ہانیؓ کی اولاد میں سے کسی سے یہ حدیث سنی اور پھر ان میں سے افضل ترین شخص جمعہ سے ملاقات کی۔ ام ہانیؓ ان کی دادی ہیں چنانچہ وہ اپنی دادی سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ان کے پاس آئے اور کچھ پینے کے لیے طلب کیا اور پیا۔ پھر ام ہانیؓ کو دیا تو انہوں نے بھی پیا۔ پھر کہا یا رسول اللہ! میں تو روزے سے تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: نقلی روزہ رکھنے والا اپنے نفس کا امین ہوتا ہے اگر چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے تو افطار کر لے، شعبہ نے کہا کیا تم نے خود یہ ام ہانیؓ سے سنا تو کہنے لگے نہیں۔ مجھے یہ واقعہ میرے گھر والوں اور ابوصالح نے سنایا۔

۶۳۵۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ نَا دَاوُدُ نَا شُعْبَةُ قَالَ كُنْتُ اَسْمَعُ سَمَاكَ بْنَ حَرْبٍ يَقُوْلُ اَحَدَيْتَنِي اُمُّ هَانِيٍّ ؓ حَدَّثَنِي فَلَقِيْتُ اَنَا اَفْضَلَهُمْ وَكَانَ اسْمُهُ جَعْدَةً وَكَانَتْ اُمُّ هَانِيٍّ ؓ حَدَّثَهُ فَحَدَّثَنِي عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَذَعَى بِشَرَابٍ فَشَرِبْتُ ثُمَّ نَا وَلَهَا فَشَرِبْتُ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمَا اِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ اَمِيْنُ نَفْسِهِ اِنْ شَاءَ صَامَ وَاِنْ شَاءَ اَفْطَرَ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ لَهُ اَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ اُمِّ هَانِيٍّ ؓ قَالَ اَخْبَرَنِي أَبُو صَالِحٍ وَاهْلُنَا عَنْ اُمِّ هَانِيٍّ ؓ

حماد بن سلمہ یہ حدیث سماک سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ام ہانی کے نواسے ہارون اپنی نانی، ام ہانی سے روایت کرتے ہیں۔ اور شعبہ کی روایت احسن ہے۔ محمود بن غیلان، ابوداؤد کے حوالے سے روایت کرتے ہوئے ”امین نفسہ“ کے الفاظ محمود کے علاوہ دوسرے راوی ابوداؤد ہی سے ”امیر نفسہ“ یا ”امین نفسہ“ کے الفاظ نقل کرتے ہیں (یعنی راوی کا شک) اسی طرح کئی طرق سے شعبہ سے راوی کا یہی شک مروی ہے کہ ”امیر نفسہ“ یا ”امین نفسہ“

۶۳۶۔ ام المؤمنین حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضور اکرم ﷺ گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا: کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ میں نے عرض کی: نہیں۔ فرمایا: میں روزے سے ہوں۔

۶۳۶۔ حَدَّثَنَا عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ قَالَتْ قُلْتُ لَا قَالَ فَإِنِّي صَائِمٌ

۶۳۷۔ ام المؤمنین حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں: آنحضرت ﷺ جب دن میں میرے یہاں آتے تو پوچھتے کچھ کھانے کو ہے؟ اگر میں کہتی کہ نہیں تو آپ ﷺ فرماتے: میں روزے سے ہوں۔ چنانچہ ایک مرتبہ تشریف لائے تو میں نے عرض کیا: آج ہمارے ہاں کھانا ہدیے کے طور پر آیا ہے آپ ﷺ نے پوچھا: کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: جیس ہے۔ فرمایا: میں نے تو صبح روزے کی نیت کر لی تھی۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں پھر آنحضرت ﷺ نے اسے کھایا۔

۶۳۷۔ حَدَّثَنَا محمود بن غيلان نا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك عذاء فأقول لا فيقول إني صائم قالت فأتاني يوماً فقلت يا رسول الله إنه قد أهديت لنا هدية قال وما هي قلت حيس قال أما إني أصبحت صائماً قالت ثم أكل

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔

باب ۴۹۹۔ نفل روزے کی قضاء واجب ہے۔

باب ۴۹۹۔ مَا جَاءَ فِي إِيحَابِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ

۶۳۸۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں اور حفصہؓ روزے سے تھیں کہ ہمیں کھانا پیش کیا گیا۔ ہمارا جی چاہا کہ کھالیں چنانچہ ہم نے اس میں سے کچھ کھالیا۔ پھر جب آنحضرت ﷺ تشریف لائے تو حفصہؓ آپ ﷺ سے پوچھنے میں مجھ سے سبقت لے گئیں کیوں کہ وہ تو باپ کی بیٹی تھیں (یعنی یہ عمر کی بیٹی تھیں اور انہی کی طرح ہوشیار تھیں) حفصہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم دونوں روزے سے تھیں کہ کھانا آ گیا اور اسے دیکھ کر ہمارا کھانے کو جی چاہا۔ چنانچہ ہم نے اس میں سے کھالیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس روزے کے بدلے کسی دوسرے دن اس کی قضا میں روزہ رکھو۔

۶۳۸۔ حَدَّثَنَا احمد بن منيع نا كثير بن هشام نا جعفر بن برقان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فاكلنا منه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها فقالت يا رسول الله إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتتهيناه فاكلنا منه قال أفضيا يوماً آخر مكانه

امام ترمذی کہتے ہیں: صالح بن ابوالخضر اور محمد بن ابوالخصہ بھی یہ حدیث زہری سے وہ عروہ سے اور وہ عائشہ سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ مالک بن انس، معمر، عبید اللہ بن عمر، زیاد بن سعد اور کئی حفاظ حدیث زہری سے بحوالہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرات اپنی روایت میں عروہ کا ذکر نہیں کرتے۔ یہ حدیث اصح ہے۔ اس لیے کہ ابن جریج نے زہری سے پوچھا کہ کیا آپ سے عروہ نے عائشہ کے حوالے سے کوئی حدیث روایت کی ہے؟ تو کہنے لگے میں نے اس کے متعلق عروہ سے کوئی چیز نہیں سنی۔ ہاں البتہ سلیمان بن عبد الملک کے دور خلافت میں ایسے کئی لوگوں سے یہ حدیث سنی جنہوں نے ایسے حضرات سے سنی تھی جنہوں نے حضرت عائشہ سے خود سنی تھی۔ ہمیں یہ بات عیسیٰ بن یزید بغدادی نے عبادہ کے اور انہوں نے ابن جریج کے حوالے سے بتائی۔ علماء صحابہ اور دیگر علماء کی ایک جماعت اسی حدیث پر عمل پیرا ہے۔ ان کے نزدیک نفلی روزہ توڑنے پر قضا واجب ہے یہ مالک بن انس کا بھی قول ہے۔

باب ۵۰۰۔ مَا جَاءَ فِي وَصَالِ شُعْبَانَ بِرَمَضَانَ

۶۳۹۔ حَدَّثَنَا بَنْدَارٌ نَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ

۶۳۹۔ حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں: میں نے آنحضرت ﷺ کو رمضان

اور شعبان کے ملاوہ دو مہینے متواتر روزے رکھتے نہیں دیکھا۔

سَفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ الْجَعْدِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُسْتَتَابِعَيْنِ إِلَّا شُعْبَانَ وَرَمَضَانَ

اس باب میں حضرت عائشہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: حضرت ام سلمہؓ کی حدیث حسن ہے۔ یہ حدیث ابو سلمہ سے بھی حضرت عائشہ کے واسطے سے مروی ہے کہ ”میں نے آنحضرت ﷺ کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ ﷺ اس ماہ کے اکثر ایام میں روزے رکھتے بلکہ پورے مہینے میں ہی روزے رکھتے تھے۔“ یہ حدیث ہم نے ہناد سے ان سے عبدہ نے ان سے محمد بن عمرو نے ان سے ابو سلمہ نے ان سے عائشہ نے اور انہوں نے آنحضرت ﷺ سے روایت کی ہے۔ سالم بن ابوالنضر اور کئی راوی بھی ابو سلمہ سے بحوالہ عائشہ، محمد بن عمرو کی حدیث کے مثل روایت کرتے ہیں۔ ابن مبارک سے اس حدیث کے متعلق مروی ہے کہ: اگر کوئی مہینے کے اکثر ایام میں روزے رکھے تو اس کے متعلق یہ کہا جاتا کہ اس نے پورے ماہ کے روزے رکھے۔ قاعدے کے مطابق جائز ہے چنانچہ کہا جاتا ہے فلاں نے پوری رات نماز پڑھی حالانکہ اس نے اس دوران ممکن ہے کہ کھانا بھی کھایا ہو اور دوسرے کام بھی کیے ہوں۔ ابن مبارک کے نزدیک ام سلمہ اور عائشہ کی حدیث دونوں ایک ہی ہیں اور اس سے مراد یہی ہے کہ مہینے کے اکثر ایام میں روزہ رکھتے تھے۔

باب ۵۰۱۔ رَمَضَانَ كِي تَعْظِيمِ كِلِي شُعْبَانَ كِلِي دُوسرے پندرہ دنوں

میں روزے رکھنا مکروہ ہے۔

باب ۵۰۱۔ مَا جَاءَ فِي كِرَاهِيَةِ الصَّوْمِ فِي النِّصْفِ

الْبَاقِي مِنْ شُعْبَانَ لِحَالِ رَمَضَانَ

۶۴۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب

شعبان کا مہینہ آدھا رہ جائے تو روزے نہ رکھا کرو۔

۶۴۰۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

الْبَعْلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَقِيَ نِصْفُ

مِنْ شُعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ہم اسے اس سند اور ان الفاظ ہی سے جانتے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزے نہیں رکھ رہا تھا پھر جب شعبان کے کچھ دن باقی رہ گئے تو روزے رکھنا شروع کر دیئے۔ (یعنی یہ نبی ایسے شخص کے متعلق ہے) حضرت ابو ہریرہؓ سے بھی اسی طرح کا قول مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: رمضان سے پہلے اس کے استقبال کے لیے کوئی شخص روزے نہ رکھے، بجز اس کے کہ ایسا اتفاق ہو جائے کہ وہ دن ایسے ہوں جن میں ہم ہمیشہ سے روزے رکھتا آیا ہے۔ چنانچہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ کراہت اس شخص کے لیے ہے۔ جو رمضان کی تعظیم و استقبال کی نیت سے شعبان کے دوسرے پندرہ روزے میں روزے رکھے۔

توضیح: کراہت کا یہ حکم صرف اس صورت میں ہے کہ کوئی شخص شعبان کے آخری دنوں میں روزے رکھنے شروع کرے اور مہینے کے شروع سے نہ رکھ رہا ہو۔ پھر یہ نہ قضاء کے روزے ہوں اور نہ ان دنوں روزے رکھنے کی اس کی عادت ہو۔ مزید یہ کہ یہ کراہت بھی بندوں پر شفقت کی وجہ سے ہے تاکہ رمضان میں ضعف کا خطرہ نہ رہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۵۰۲۔ شب برات کے متعلق۔

باب ۵۰۲۔ مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ

۶۴۱۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے آنحضرت ﷺ کو موجود نہ پایا تو نکلی اور تلاش کیا۔ آپ ﷺ تہجد میں تھے۔ فرمانے لگے، کیا تم ڈر رہی تھیں کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم نہ کریں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں سمجھی شاید آپ کسی دوسری بیوی کے ہاں گئے ہوں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی پندرہویں رات کو دنیا کے آسمان پر اترتے اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔

۶۴۱۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ نَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ فَحَرَحْتُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَيْعِ فَقَالَ أَكُنْتُ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَسُولُهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ آتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرِ مَنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمٍ كُلِّبٍ

اس باب میں ابو بکر صدیقؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ہم حضرت عائشہؓ کی حدیث کو حجاج کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ امام بخاری اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یحییٰ بن کثیر نے عروہ سے اور حجاج نے یحییٰ بن کثیر سے کوئی حدیث نہیں سنی۔

باب ۵۰۳۔ محرم کے روزے

باب ۵۰۳۔ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ الْمُحَرَّمِ

۶۴۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ تعالیٰ کے مہینہ محرم کے ہیں۔

۶۴۲۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ حَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَمْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔

۶۴۳- نعمان بن سعد حضرت علیؑ سے نقل کرتے ہیں کہ کسی شخص نے ان سے پوچھا کہ رمضان کے علاوہ کون سے مہینے میں روزے رکھنے کا حکم ہے۔ حضرت علیؑ نے فرمایا: میں نے ایک شخص کے علاوہ کسی کو آنحضرت ﷺ سے یہ سوال کرتے ہوئے نہیں سنا۔ میں اس وقت آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر تھا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ مجھے رمضان کے علاوہ کون سے مہینے میں روزے رکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر رمضان کے بعد روزے رکھنا ہی ہیں تو محرم میں رکھا کرو یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک دن ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روز ایک قوم کی توبہ قبول کی تھی۔ اور اسی میں دوسری قوم پر بھی دوبارہ فضل و کرم فرمائے گا۔

۶۴۳- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا عَلِيَّ بْنَ مَسْهَرٍ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ عَلِيِّ قَالَ قَالَ أَيُّ شَهْرٍ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَهُ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يُسْأَلُ عَنْ هَذَا إِلَّا رَجُلًا سَمِعْتُهُ يُسْأَلُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا قَاعِدٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ شَهْرٍ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ إِنْ كُنْتُ صَائِمًا بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَصُمِ الْمُحْرَمَ فَإِنَّهُ شَهْرُ اللَّهِ فِيهِ يَوْمٌ تَابَ اللَّهُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ وَيَتُوبُ فِيهِ يَوْمٌ تَابَ اللَّهُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔

باب ۵۰۴- جمعہ کو روزہ رکھنا۔

باب ۵۰۴- مَا جَاءَ فِي صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

۶۴۴- حضرت عبداللہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ ہر مہینے کے ابتدائی تین روز روزے رکھتے اور جمعے کے دن بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ آپ ﷺ روزے سے نہ ہوں۔

۶۴۴- حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى وَطَلْقُ بْنُ غَنَامٍ عَنِ شَيْبَانَ عَنِ عَاصِمِ بْنِ زُرٍّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَقَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

اس باب میں ابن عمرؓ اور ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی عبداللہؓ کی حدیث کو حسن غریب کہتے ہیں۔ علماء کی ایک جماعت جمعہ کے دن روزہ رکھنے کو مستحب کہتی ہے۔ ان کے نزدیک جمعہ کا روزہ اس صورت میں رکھنا کہ اس سے پہلے اور بعد کوئی روزہ نہ رکھے مگر وہ ہے۔

باب ۵۰۵- صرف جمعے کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔

باب ۵۰۵- مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَحْدَهُ

۶۴۵- حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص صرف جمعے کا روزہ نہ رکھے بلکہ اس سے پہلے یا اس کے بعد بھی ایک روزہ رکھے۔

۶۴۵- حَدَّثَنَا هِنَادُ نَا أَبُو مَعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ

اس باب میں حضرت علیؓ، جابرؓ، جنادہ ازدیؓ، جویریہؓ، انسؓ اور عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حسن صحیح ہے۔ علماء کا اسی پر عمل ہے کہ صرف جمعے کے دن روزہ رکھنا اور اس کے ساتھ دوسرا روزہ نہ ملانا مکروہ ہے احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔

باب ۵۰۶۔ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ

۶۴۶۔ حَدَّثَنَا حَمِيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ نَاصِفِيَانِ بْنِ حَبِيبٍ عَنِ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدٍ عَنِ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسَيْرٍ عَنْ أُخْتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِي مَا افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُوْدَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضِغْهُ

باب ۵۰۶۔ ہفتے کے دن روزہ رکھنا۔

۶۴۶۔ حضرت عبداللہ بن بسر اپنی بہن سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ہفتے کے دن فرض روزوں کے علاوہ کوئی روزہ نہ رکھا کرو۔ بلکہ اگر کسی کے پاس اس روز کھانے کو کچھ نہ ہو تو انگور کی چھال یا کسی درخت کی لکڑی بھی چبا کر روزہ توڑے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ ہفتے کے دن کو روزہ کے لیے مخصوص نہ کیا جائے کیونکہ یہودی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔

باب ۵۰۷۔ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا۔

۶۴۷۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ پیر اور جمعرات کو خاص طور پر روزہ رکھا کرتے تھے۔

باب ۵۰۷۔ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ ۶۴۷۔ حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَاسِيُّ نَاصِفِيَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَاوُدَ عَنِ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدٍ عَنِ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

اس باب میں حضرت حفصہؓ، ابوقادہؓ اور اسامہ بن زیدؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کے نزدیک حدیث عائشہؓ اس سند سے حسن ہے۔

۶۴۸۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک ماہ میں ہفتہ، اتوار اور پیر کو اور دوسرے ماہ میں منگل، بدھ اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔

۶۴۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ أَبُو أَحْمَدٍ وَمَعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَا نَاصِفِيَانِ عَنِ مَنصُورِ بْنِ حَبِثَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ وَالْإِثْنَيْنِ وَمِنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ الثَّلَاثَاءَ وَالْأَرْبَعَاءَ وَالْخَمِيسَ

امام ترمذی کے نزدیک یہ حدیث حسن ہے اور عبدالرحمن بن مہدی بھی یہ حدیث سفیان سے غیر مرفوع روایت کرتے ہیں۔

۶۴۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔

۶۴۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى نَاصِفِيَانِ أَبُو عَاصِمٍ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنِ سَهِيلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ

امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس باب میں یہ حدیث غریب ہے۔

باب ۵۰۸۔ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ الْأَرْبَعَاءِ وَالْحَمِيسِ

۶۵۰۔ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَرِيرِيُّ وَ

مُحَمَّدُ بْنُ مَدْيُونَةَ قَالَ نَا عُبَيْدَ اللَّهِ بْنِ

مُوسَى نَا هَارُونَ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُسْلِمِ

الْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَوْسَيْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ فَقَالَ إِنْ لَاهَلَكَ عَلَيْكَ

حَقًّا ثُمَّ قَالَ صُمْ رَمَضَانَ وَالَّذِي يَلِيهِ وَكُلَّ أَرْبَعَاءٍ

وَحَمِيسٍ فَإِذَا آتَتْ قَدْ صُمَّتِ الدَّهْرَ وَأَفْطَرْتَ

باب ۵۰۸۔ بدھ اور جمعرات کو روزہ رکھنا

۶۵۰۔ حضرت عبید اللہ بن مسلم قرشی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں

نے یا کسی شخص نے آپ ﷺ سے پورا سال روزے رکھنے کے متعلق

پوچھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے۔ پھر

فرمایا: رمضان کے روزے رکھو پھر شوال کے اور اس کے بعد ہر بدھ اور

جمعرات کو روزہ رکھ لیا کرو اگر تم نے ایسا کیا تو گویا کہ تم نے تمام سال

کے روزے بھی رکھے اور افطار بھی کیا (یعنی مذکورہ ایام کے روزے

رکھنے سے پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ہے)۔ (۱)

اس باب میں حضرت عائشہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں مسلم قرشی کی حدیث غریب ہے۔ یہ حدیث بعض حضرات

ہارون بن سلیمان سے بحوالہ مسلم بن عبید اللہ اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔

توضیح: امام ترمذی نے یہاں کئی ابواب میں مختلف دنوں میں روزہ رکھنے کے متعلق احادیث ذکر کی ہیں یہاں یہ مد نظر رکھنا چاہئے

کہ کسی خاص دن کے روزے کے مستحب ہونے کے بارے میں ایک اصولی قاعدہ ہے کہ ہر وہ روزہ جس کے بارے میں کوئی حدیث

مردی ہو اور اس میں کفار کی تشبیہ نہ ہو۔ وہ مستحب ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۵۰۹۔ عَزَفَ مِنْ دُنْيَا رُزْوَةَ رُكْحَنِي كِي فَضِيْلَتِ۔

باب ۵۰۹۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّوْمِ يَوْمَ عَرَفَةَ

۶۵۱۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ وَاحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّبِيّ قَالَ نَا

حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غِيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

مَعْبُدِ الرُّمَّانِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ

يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ

۶۵۱۔ حضرت ابو قتادہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: مجھے امید

ہے کہ عَزَفَ مِنْ دُنْيَا رُزْوَةَ رُكْحَنِي كِي فَضِيْلَتِ۔

ہے کہ عَزَفَ مِنْ دُنْيَا رُزْوَةَ رُكْحَنِي كِي فَضِيْلَتِ۔

گناہوں کو دھو دیتا ہے۔

اس باب میں ابوسعیدؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو قتادہؓ کی حدیث حسن ہے۔ علماء عَزَفَ مِنْ دُنْيَا رُزْوَةَ رُكْحَنِي كِي فَضِيْلَتِ۔

روزہ رکھنے کو مستحب کہتے ہیں۔

توضیح: عَزَفَ مِنْ دُنْيَا رُزْوَةَ رُكْحَنِي كِي فَضِيْلَتِ۔ اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے لیکن حجاج کے لیے عرفات میں روزہ رکھنا مکروہ

ہے۔ آنحضرت ﷺ نے بھی عرفات میں روزہ نہیں رکھا۔ ہاں البتہ اگر کسی حاجی کو یقین ہو کہ روزہ رکھنے سے اس میں ضعف نہیں پیدا ہوگا تو

اس کے لیے بھی یہ مستحب ہی ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۵۱۰۔ عَرَفَاتُ فِي عَزَفِ رُزْوَةَ رُكْحَنِي كِي فَضِيْلَتِ۔

باب ۵۱۰۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ

۶۵۲۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے عَزَفَ مِنْ دُنْيَا رُزْوَةَ رُكْحَنِي كِي فَضِيْلَتِ۔

۶۵۲۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ نَا

(۱) اس سے مراد شوال کے چھ روزے ہیں۔ (مترجم)

ایوب عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْطَرَ بَعْرَةَ وَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الْفَضْلِ بِلَيْنٍ فَشَرِبَتْ  
 دن روزہ نہیں رکھا۔ چنانچہ ام فضلؓ نے آپ ﷺ کی خدمت میں دودھ  
 بھیجا تو پی لیا۔

اس باب میں ابو ہریرہؓ، ابن عمرؓ اور ام فضلؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ابن عباس حسن صحیح ہے ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ حج کیا تو آپ ﷺ نے عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا۔ اسی طرح حضرت ابو بکرؓ، عمرؓ اور عثمانؓ نے بھی اس روز حج میں روزہ نہیں رکھا۔ اکثر علماء اسی پر عمل کرتے ہیں کہ عرفہ کے دن روزہ نہ رکھنا مستحب ہے تاکہ حاجی دعاؤں وغیرہ کے وقت ضعف محسوس نہ کرے۔ جب کہ بعض علماء نے عرفات میں بھی عرفہ کے دن روزہ رکھا ہے۔

۶۵۳۔ حدثنا احمد بن منيع و علي بن حجر قالوا  
 نا سفیان عن عيينة واسماعيل بن إبراهيم عن ابن  
 أبي نجيح عن أبيه قال سئل ابن عمر عن صوم يوم  
 عرفة بعرفة قال حجهت مع النبي صلى الله عليه  
 وسلم فلم يصمه ومع أبي بكر فلم يصمه ومع عمر  
 فلم يصمه ومع عثمان فلم يصمه وأنا لا أصومه  
 ولا أمر به ولا أنهى عنه۔  
 ۶۵۳۔ ابن ابی شیح اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ابن عمرؓ سے عرفات  
 میں عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم پوچھا تو فرمایا: میں نے آنحضرت  
 ﷺ کے ساتھ حج کیا آپ ﷺ نے روزہ نہیں رکھا اسی طرح ابو بکرؓ، عمرؓ اور  
 عثمانؓ نے بھی اس دن روزہ نہیں رکھا۔ یعنی حج کے دوران۔ چنانچہ میں  
 اس دن روزہ نہیں رکھتا اور نہ ہی کسی کو اس کا حکم دیتا یا اس سے منع کرتا  
 ہوں۔

امام ترمذی کے نزدیک یہ حدیث حسن ہے۔ ابویح کا نام یہاں ہے۔ انہوں نے ابن عمرؓ سے یہ حدیث سنی ہے یہ حدیث اس سند سے بھی مروی ہے کہ ابن شیح اپنے والد سے وہ ایک شخص سے اور وہ ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں۔

باب ۵۱۱۔ مَا جَاءَ فِي الْحِثِّ عَلَى صَوْمِ يَوْمِ  
 عَاشُورَاءَ  
 باب ۵۱۱۔ عاشورے کے روزے کے متعلق ترغیب۔

۶۵۴۔ حدثنا قتيبة و احمد بن عبدة الضبي قالوا نا  
 حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن  
 معبد الزماني عن أبي سادة أن النبي صلى الله عليه  
 وسلم قال صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على  
 الله أن يكفر السنة التي قبله۔  
 ۶۵۴۔ حضرت ابو قتادہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: مجھے امید  
 ہے کہ جو شخص عاشوراء (۱) کے دن روزہ رکھے اس کے گزشتہ سال کے  
 تمام گناہ معاف کر دیئے جائیں۔

اس باب میں حضرت علیؓ، محمد بن یحییٰؓ، سلمہ بن اکوعؓ، ہند بن اسماؓ، ابن عباسؓ، ربیع بنت معوذ بن عمروؓ، عبد اللہ خزاعیؓ، عبد اللہ بن زبیرؓ اور عبد اللہ بن سلمہؓ سے بھی روایت ہے۔ عبد اللہ بن سلمہؓ اپنے بچپا سے روایت کرتے ہیں۔ یہ سب حضرات فرماتے ہیں کہ ”آنحضرت ﷺ نے عاشورے کے روزے کی ترغیب دی۔“ امام ترمذی کہتے ہیں ابو قتادہؓ کی حدیث کے علاوہ کسی روایت میں یہ الفاظ مذکور نہیں کہ عاشورے کا روزہ پورے سال کا کفارہ ہے احمد اور اسحاق ابو قتادہؓ کی حدیث ہی کے قائل ہیں۔

توضیح: عاشوراء کے روزے میں مسنون یہ ہے کہ اس سے پہلے یا بعد ایک روزہ ملا کر یہود کے ساتھ اس کی مشابہت ختم کر دی جائے کیوں کہ آنحضرت ﷺ نے اپنی وفات سے پہلے فرمایا کہ آئندہ میں صرف عاشوراء کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا۔ لیکن آپ ﷺ اس پر عمل نہ فرما سکے کیوں کہ اس پر عمل سے پہلے ہی آپ ﷺ کی وفات ہو گئی تھی۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۵۱۲۔ مَا جَاءَ فِي الرُّحْصَةِ فِي تَرْكِ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

۶۵۵۔ حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني نا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان عاشوراء يوم تصوموه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه

۶۵۵۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں: قریش، رسول اللہ ﷺ سے پہلے عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے پھر آپ ﷺ نے بھی اس دن روزہ رکھا۔ چنانچہ جب آپ ﷺ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کا حکم دیا لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو انہی کی فرضیت باقی رہ گئی اور عاشوراء کی فرضیت ختم ہو گئی۔ پھر جس نے چاہا رکھا اور جس نے چاہا چھوڑ دیا۔

اس باب میں ابن مسعود، قیس بن سعد، جابر بن عمرؓ اور معاویہؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں علماء کا حضرت عائشہؓ ہی کی حدیث پر عمل ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ ان کے نزدیک عاشوراء کا روزہ واجب نہیں۔ چنانچہ جس کا جی چاہے وہ رکھ لے کیونکہ اس کی بہت فضیلت ہے۔

باب ۵۱۳۔ مَا جَاءَ فِي عَاشُورَاءَ أَيُّ يَوْمٍ هُوَ

۶۵۶۔ حدثنا هناد و ابو كريب قالنا و كيع عن حاجب بن عمار عن الحكم بن الاعرج قال انتهيت الى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت اخبرني عن يوم عاشوراء أي يوم أصومه فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعبدوا ثم أصبح من يوم التاسع صائما قال قلت أهكذا كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم قال نعم

۶۵۶۔ حکم بن اعرج کہتے ہیں۔ میں ابن عباسؓ کے پاس گیا۔ وہ زمزم کے پاس اپنی چادر سے تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ میں نے کہا: مجھے عاشوراء کے متعلق بتائیے کہ کون سا دن ہے فرمایا: جب تم محرم کا چاند دیکھو تو دن گننا شروع کر دو اور نویں دن روزہ رکھو۔ میں نے کہا: کیا آنحضرت ﷺ بھی اسی دن روزہ رکھا کرتے تھے؟ فرمایا: ہاں۔

۶۵۷۔ حدثنا قتيبة نا عبدالوارث بن يونس عن الحسن بن ابن عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر

۶۵۷۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے عاشوراء کا روزہ دس محرم کو رکھنے کا حکم دیا۔

امام ترمذی کہتے ہیں ابن عباسؓ کی حدیث حسن صحیح ہے علماء کا عاشورے کے دن میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں، کہ نو محرم اور بعض دس محرم کو عاشوراء کا دن کہتے ہیں ابن عباسؓ سے یہ بھی مروی ہے کہ ”نویں اور دسویں محرم کو روزہ رکھ کر یہود کی مخالفت کرو۔“

باب ۵۱۴۔ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ الْعَشْرِ

باب ۵۱۴۔ ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں روزہ رکھنا

۶۵۸۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ أَبُو مَعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ

۶۵۸۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو ذوالحجہ کے

ابِرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ

پہلے دس دن میں روزہ رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ

امام ترمذی کہتے ہیں: کئی حضرات اعمش سے بھی اسی طرح روایت کرتے ہیں وہ ابراہیم سے وہ اسود سے اور وہ عائشہ سے روایت

کرتے ہیں ثوری وغیرہ بھی یہ حدیث منصور سے اور وہ ابراہیم سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کو ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں

روزے سے نہیں دیکھا گیا۔ ابواحوص، منصور سے وہ ابراہیم سے اور وہ عائشہ سے روایت کرتے ہوئے اسود کا ذکر نہیں کرتے۔ منصور کی

روایت میں علماء کا اختلاف ہے جب کہ اعمش کی روایت اصح اور اس کی سند متصل ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: محمد بن ابان، وکیع کے

حوالے سے کہتے ہیں کہ اعمش ابراہیم کی سند کے معاملے میں منصور سے زیادہ احفظ ہیں۔

باب ۵۱۵۔ مَا جَاءَ فِي الْعَمَلِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ

باب ۵۱۵۔ ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں اعمال صالحہ کی فضیلت۔

۶۵۹۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ أَبُو مَعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ

۶۵۹۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ذوالحجہ

کے پہلے دس دنوں میں کیے گئے اعمال صالحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے

نزدیک تمام ایام میں کیے گئے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ

نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر ان دس ایام کے علاوہ اللہ کی راہ میں جہاد

کرے تو بھی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں تب بھی انہی ایام کا عمل زیادہ

محبوب ہے ہاں البتہ اگر کوئی شخص اپنی جان و مال دونوں چیزیں لے کر

جہاد میں نکلا، اور واپسی میں اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ (تو یہ افضل

ہے)۔

مُسْلِمٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ الْبَطْنِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ

جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ

إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ

وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ

بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ

اس باب میں ابن عمرؓ، ابو ہریرہؓ، عبد اللہ بن عمرؓ اور جابرؓ سے روایت ہے۔ امام ترمذی کے نزدیک یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۶۶۰۔ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْبَصْرِيُّ نَا مَسْعُودَ

بْنَ وَاصِلٍ عَنِ نَحَّاسِ بْنِ فَهْمٍ عَنِ قَتَادَةَ عَنِ سَعِيدِ

بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهَا

مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ يُعَدُّ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا

بِصِيَامِ سَنَةٍ وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

۶۶۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ

کے نزدیک ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی عبادت تمام دنوں کی عبادت

سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ان ایام میں سے ایک دن کا روزہ پورے سال

کے روزوں اور ایک رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے ہم اسے مسعود بن واصل کی نہاس سے روایت کے علاوہ نہیں جانتے۔ میں نے امام

بخاری سے اس کے متعلق پوچھا تو انہیں بھی اس سند کے علاوہ کسی اور طریق کا علم نہیں تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ قتادہ، سعید بن مسیب سے اور وہ

آنحضرت ﷺ سے اسی طرح کی حدیث مرسلہ مروی ہے۔

باب ۵۱۶۔ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ سُؤَالِ

باب ۵۱۶۔ سوال کے چھ روزوں کے متعلق۔

۶۶۱۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا أَبُو مَعَاوِيَةَ نَا سَعْدُ  
بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَابِتٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ  
ثُمَّ اتَّبَعَهُ بِسِتِّ مِنْ سُؤَالِ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ

۶۶۱۔ حضرت ابو ایوبؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جس نے  
رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال میں بھی چھ روزے رکھے گویا  
کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔

اس باب میں حضرت جابرؓ، ابو ہریرہؓ اور ثوبانؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو ایوبؓ کی حدیث حسن صحیح ہے علماء اس  
حدیث کی وجہ سے شوال کے چھ روزوں کو مستحب کہتے ہیں۔ ابن مبارک کا کہنا ہے کہ یہ روزے رکھنا ہر ماہ کے تین روزے رکھنے کی طرح  
بہتر ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ بعض روایات میں مروی ہے کہ ان روزوں کو ”رمضان کے روزوں کے ساتھ ملا کر رکھے“ لہذا یہ روزے شوال  
کے شروع میں ہی رکھے جانے چاہئیں۔ لیکن شوال میں متفرق ایام کے چھ روزے رکھنا بھی جائز ہے۔ یعنی ان میں تسلسل ضروری نہیں۔  
امام ترمذی کہتے ہیں: عبدالعزیز بن محمد، صفوان بن سلیم سے اور وہ سعد بن سعید سے یہ حدیث عمر بن ثابت کے حوالے سے روایت کرتے  
ہیں وہ ابو ایوبؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شعبہ بھی یہ حدیث ورقاء بن عمر سے اور وہ سعد بن سعید  
سے روایت کرتے ہیں سعد بن سعید، یحییٰ بن سعید انصاری کے بھائی ہیں بعض علماء محدثین ان کے حافظے پر اعتراض کرتے ہیں۔

باب ۵۱۷۔ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

باب ۵۱۷۔ ہر ماہ تین روزے رکھنا۔

۶۶۲۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا أَبُو عَوَانَةَ سَمَاكُ بْنُ حَرْبٍ  
عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ عَهْدَ إِلَيَّ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ أَنْ لَا آتَامَ إِلَّا عَلَى وَتَرٍ  
وَصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَأَنْ أَصْلِي الضُّحَى

۶۶۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے مجھ سے تین  
چیزوں کا عہد لیا۔ ایک یہ کہ وتر پڑھے بغیر نہ سوؤں دوسرے یہ کہ ہر  
مہینے تین دن روزہ رکھوں اور تیسرے یہ کہ چاشت کی نماز پڑھا کروں۔

۶۶۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا أَبُو دَاوُدَ ابْنَانَا  
شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَامٍ  
يُحَدِّثُ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ  
يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ  
إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ  
وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ

۶۶۳۔ حضرت موسیٰ بن طلحہؓ، ابو ذرؓ سے نقل کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے  
فرمایا: اے ابو ذر! اگر تم مہینے میں تین دن روزہ رکھو تو تیرہ، چودہ اور  
پندرہ تاریخ کو رکھا کرو۔

اس باب میں ابو قتادہؓ، عبداللہ بن عمروؓ، بن ایاس مزیؓ، عبداللہ بن مسعودؓ، ابو عقیبؓ، ابن عباسؓ، قتادہ بن ملحانؓ، عائشہؓ، عثمان بن  
عاصؓ اور جریرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابو ذرؓ کی حدیث حسن ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ ”جو ہر ماہ تین روزے  
رکھے وہ ایسے ہے جیسے پورا سال روزے رکھے“۔

۶۶۴۔ حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر مہینے تین  
دن روزے رکھنا پورا سال روزے رکھنے کے برابر ہے اس کی تصدیق

۶۶۴۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ مَعَاوِيَةَ عَنِ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ  
عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ”من جاء بالحسنة فله، عشر امثالها“ یعنی جو ایک نیکی کرے گا اس کے لیے دس نیکیوں کا ثواب ہے لہذا ایک دن دس دن کے برابر ہوا، اور (تین دن ایک ماہ کے)۔

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ ”مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا“ الْيَوْمَ بِعَشْرَةِ أَيَّامٍ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ شعبہ بھی یہ حدیث ابو شمر اور ابو تیح سے وہ عثمان سے اور وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا..... الحدیث۔

۶۶۵۔ یزید رشک، معاذہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہؓ سے کہا: کیا رسول اللہ ﷺ ہر مہینے تین روزے رکھا کرتے تھے؟ کہنے لگیں: ہاں۔ میں نے کہا کون کون سی تاریخ کو؟ فرمایا: کسی بھی تاریخ کو رکھا کرتے تھے۔

۶۶۵۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِبْلَانَ نَا أَبُو دَاوُدَ نَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدِ الرَّشَكِيِّ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قَالَتْ نَعَمْ قُلْتُ مِنْ أَيِّهِ كَانَ يَصُومُ قَالَتْ كَانَ لَا يُبَالِي مِنْ أَيِّهِ صَامَ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور یزید رشک: یزید ضعیفی ہیں یہی یزید بن قاسم اور قاسم ہیں۔ رشک اہل بصرہ کی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی قسام کے ہیں (تقسیم کرنے والا)

۶۶۶۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: تمہارا رب کہتا ہے کہ ایک نیکی دس نیکیوں سے لے کر سات سو نیکیوں تک کے برابر ہے اور روزہ صرف میرے لیے ہے اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا، روزہ دوزخ کی ڈھال ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ بہتر ہے اور اگر تم میں کوئی جاہل ہے، کسی روزے دار سے جھگڑنے لگے تو وہ اسے کہے کہ میں روزے سے ہوں۔

۶۶۶۔ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَازِيُّ الْبَصْرِيُّ نَا عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ نَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَبَّكُمْ يَقُولُ كُلُّ حَسَنَةٍ بَعَشْرٍ أَمْثَالِهَا إِلَيَّ سَبْعِمِائَةٍ ضَعِيفٌ وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْرِي بِهِ وَالصَّوْمُ حُنَّةٌ مِنَ النَّارِ وَالْخُلُوفُ فِيمَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمَسْكِ وَإِنْ جَهِلَ عَلَى أَحَدِكُمْ جَاهِلٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ

اس باب میں حضرت معاذ بن جبلؓ، سعد، کعب بن عجرہ، سلامہ بن قیس اور بشیر بن خصاصیہ سے بھی روایت ہے بشیر بن خصاصیہ کا نام زحم بن معبد ہے خصاصیہ ان کی والدہ ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہؓ کی حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔

۶۶۷۔ حضرت سہل بن سعدؓ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ اس میں سے روزہ داروں کو بلایا جائے گا لہذا جو روزے دار ہو گا وہ اس میں سے داخل ہو گا اور جو اس میں سے داخل ہو گیا وہ کبھی پیا سا نہ رہے گا۔

۶۶۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْحَنَّةِ بَابٌ يُدْعَى الرَّيَّانَ يُدْعَى لَهُ الصَّائِمُونَ فَمَنْ كَانَ مِنَ الصَّائِمِينَ دَخَلَهُ وَمَنْ دَخَلَهُ لَمْ يَطْمَأَنَّ أَبَدًا

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۶۶۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک افطار کے وقت دوسری اس وقت جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا۔

۶۶۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّائِمِ فَرِحْتَانِ فَرِحَةٌ حِيْنَ يَفْطِرُ وَفَرِحَةٌ حِيْنَ يَلْقَى رَبَّهُ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۵۱۸۔ ہمیشہ روزہ رکھنا۔

باب ۵۱۸۔ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ الدَّهْرِ

۶۶۹۔ حضرت ابو قتادہؓ فرماتے ہیں: آنحضرت ﷺ سے اس شخص کے متعلق پوچھا گیا جو ہمیشہ روزہ رکھے آپ ﷺ نے فرمایا: اس نے نہ روزہ رکھا اور نہ ہی افطار کیا۔ راوی کو شک ہے کہ ”لاصام ولا افطر“ فرمایا، یا ”لم يصم ولم يفطر“ فرمایا۔ (دونوں کے معنی ایک ہی ہیں)۔

۶۶۹۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ وَاحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الضَّمِيّ قَالَا نَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غِيْلَانَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبُدٍ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ بِمَنْ صَامَ الدَّهْرَ قَالَ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ أَوْ لَمْ يَصُمْ وَلَا يَفْطِرْ

اس باب میں عبداللہ بن عمرؓ، عبداللہ بن شعیبؓ، عمران بن حصینؓ اور ابو موسیٰؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی حدیث ابو قتادہؓ کو حسن کہتے ہیں علماء کی ایک جماعت ہمیشہ روزہ رکھنے کو مکروہ کہتی ہے۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ ہمیشہ روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق میں بھی روزے رکھے۔ چنانچہ جو شخص ان دنوں میں روزے نہ رکھے وہ کراہت کے حکم سے خارج ہے۔ مالک بن انسؓ سے اسی طرح مروی ہے اور امام شافعیؒ کا بھی یہی قول ہے۔ احمد اور اسحاق بھی تقریباً یہی کہتے ہیں کہ ان پانچ دنوں کے علاوہ روزہ چھوڑنا واجب نہیں۔ جن میں روزہ رکھنے سے آپ ﷺ نے منع فرمایا: عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق۔

باب ۵۱۹۔ بے درپے روزے رکھنا۔

باب ۵۱۹۔ مَا جَاءَ فِي سُرْدِ الصَّوْمِ

۶۷۰۔ حضرت عبداللہ بن شعیبؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے آنحضرت ﷺ کے روزوں کے متعلق پوچھا تو فرمایا: جب آپ ﷺ روزے رکھنا شروع کرتے تو ہم سوچتے کہ اب آپ ﷺ مستقل روزے رکھیں گے۔ پھر جب افطار کرتے سوچنے لگتے کہ اب آپ ﷺ روزے نہیں رکھیں گے نیز آنحضرت ﷺ نے رمضان کے علاوہ کسی ماہ کے مکمل روزے نہیں رکھے۔

۶۷۰۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا حَمَادُ بْنُ نَهِيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُوْلَ قَدْ صَامَ وَ يَفْطِرُ حَتَّى نَقُوْلَ قَدْ أَفْطَرَ وَمَا صَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا كَامِلًا إِلَّا رَمَضَانَ

اس باب میں حضرت انسؓ اور ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۶۷۱۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ ان سے کسی نے آنحضرت ﷺ کے روزوں کے متعلق پوچھا تو فرمایا: آپ ﷺ جب کسی مہینے میں روزے رکھنا شروع کرتے تو ایسے معلوم ہوتا کہ پورا مہینہ روزے رکھیں

۶۷۱۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا اسْمَعِيْلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ سُوْلَ عَنْ صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ

گے اور جب کسی مہینے میں افطار کرتے (روزہ نہ رکھتے) تو ایسا معلوم ہوتا کہ اس مہینے میں روزے رکھیں گے ہی نہیں۔ پھر اگر تم چاہتے کہ آپ ﷺ کو رات کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھو تو دیکھتے کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر سوتے ہوئے دیکھنا چاہتے تو دیکھتے کہ سو رہے ہیں۔ (یعنی ہر مہینے روزہ بھی رکھتے افطار بھی کرتے اور اسی طرح ہر رات نماز بھی پڑھتے اور آرام بھی کرتے)۔

حَتَّى يُرَى أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُ وَيُفْطِرُ حَتَّى يُرَى أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ مُصَلِّيًا وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ نَائِمًا

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۶۷۲۔ حضرت عبداللہ بن عمروؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: افضل ترین روزے میرے بھائی داؤد کے تھے کہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے اور جب دشمن کے مقابل آتے تو کبھی فرار کا راستہ اختیار نہ کرتے۔

۶۷۲۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ كَعْبٍ عَنْ مَسْعَرٍ وَسَفِيَانَ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّوْمِ صَوْمُ أَحِبِّي دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو عباسؓ ایک نابینا شاعر ہیں ان کا نام سائب ابن فروخ ہے بعض علماء کہتے ہیں: افضل ترین روزے یہی ہیں کہ ایک دن روزہ رکھا جائے اور ایک دن افطار کیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شدید ترین روزے ہیں۔ باب ۵۲۰۔ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ

۶۷۳۔ حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے دو دن روزے رکھنے سے منع فرمایا: عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔

۶۷۳۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامَيْنِ صِيَامِ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ

اس باب میں حضرت عمرؓ، علیؓ، عائشہؓ، ابو ہریرہؓ، عقبہ بن عامرؓ اور انسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابوسعیدؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی علماء کا عمل ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: عمرو بن یحییٰؓ، ابن عمارہ بن ابوالحسن مازنی مدینی ہیں یہ ثقہ ہیں۔ ان سے سفیان ثوری، شعبہ اور مالک بن انسؓ روایت کرتے ہیں۔

۶۷۴۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا مَعْمَرُ بْنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ شَهِدْتُ عَمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي يَوْمِ نَحْرِ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ

۶۷۴۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کے مولیٰ ابوعبید فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطابؓ کو عید الاضحیٰ کے موقع پر دیکھا کہ انہوں نے خطبے سے پہلے نماز پڑھائی اور پھر فرمایا: میں نے آنحضرت ﷺ کو ان دونوں میں روزہ رکھنے سے منع کرتے ہوئے سنا۔ جہاں تک عید الفطر کا تعلق ہے۔

تو آنحضرت ﷺ اس دن روزہ رکھنے سے اس لیے منع فرماتے تھے کہ وہ روزہ کھولنے اور مسلمانوں کی عید کا دن ہے جب کہ عید الاضحیٰ میں اس لیے کہ تم اپنی قربانی کا گوشت کھا سکو۔

الْخُطْبَةِ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ صَوْمِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ أَمَا يَوْمُ الْفِطْرِ فَفِطْرُكُمْ مِنْ صَوْمِكُمْ وَعِيدٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَأَمَا يَوْمُ الْأَضْحَى فَاكْلُوا مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو عبید کا نام سعد ہے، انہیں مولیٰ عبدالرحمن بن ازہر بھی کہا جاتا ہے۔ عبدالرحمن بن ازہر: عبدالرحمن بن عوف کے چچازاد بھائی ہیں۔

باب ۵۲۱۔ ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی کراہت۔

۶۷۵۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: عرفے کا دن، عید الاضحیٰ کا دن اور ایام تشریق ہم مسلمانوں کے عید اور کھانے پینے کے دن ہیں۔

باب ۵۲۱۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ۶۷۵۔ حَدَّثَنَا هِنَادَانَا وَكَيْعٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمٌ عَرَفَةٌ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَهِيَ أَيَّامُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ

اس باب میں حضرت علیؓ، سعدؓ، ابو ہریرہؓ، جابرؓ، نبیثہؓ، بشیر بن حکیمؓ، عبداللہ بن حذافہؓ، حمزہ بن عمروؓ، سلمیٰؓ، کعب بن مالکؓ، عائشہؓ، عمرو بن عاصؓ اور عبداللہ بن عمروؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: عقبہ بن عامرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور علماء کا اسی پر عمل ہے کہ ایام تشریق میں روزے رکھنا مکروہ ہے لیکن صحابہ کی ایک جماعت اور بعض علماء متمتع کے لیے اگر اس کے پاس قربانی کے لیے کوئی جانور نہ ہو تو روزے رکھنے کی اجازت دیتے ہیں بشرطیکہ اس نے پہلے دس دنوں میں روزے نہ رکھے ہوں یہ مالک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی قول ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ اہل عراق، موسیٰ بن علی بن رباح اور اہل مصر موسیٰ بن علی کہتے ہیں۔ میں نے قتیبہ کو لیث بن سعد کے حوالے سے کہتے ہوئے سنا کہ موسیٰ بن علی کہا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ کے نام کی تصغیر کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔

باب ۵۲۲۔ روزہ دار کے لیے کچھ نالگوانا مکروہ ہے۔

۶۷۶۔ حضرت رافع بن خدیجؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کچھنے لگانے والا اور لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔

باب ۵۲۲۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ ۶۷۶۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ بْنِ النَّيْسَابُورِيِّ وَمَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالُوا نَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْحُومُ

اس باب میں حضرت سعدؓ، علیؓ، شداد بن اوسؓ، ثوبانؓ، اسامہ بن زیدؓ، عائشہؓ، معقل بن یسارؓ، نہیں معقل بن سنانؓ بھی کہا جاتا ہے، ابو ہریرہؓ، ابن عباسؓ، ابوموسیٰ اور بلالؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: رافع بن خدیجؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ احمد بن حنبل کے نزدیک اس باب کی اصح حدیث یہی ہے جب کہ علی بن عبداللہ کے بارے میں مذکور ہے۔ کہ ان کے نزدیک ثوبان اور شداد بن اوس کی بھی، علماء صحابہ کی ایک جماعت اور ان کے علاوہ بھی کئی حضرات روزے دار کے لیے کچھنے لگوانے کو مکروہ سمجھتے ہیں یہاں تک کہ بعض صحابہ جیسے کہ ابوموسیٰ اشعریؓ اور ابن عمرؓ کو کچھنے لگوانا کرتے تھے۔ ابن مبارکؓ بھی اسی کے قائل ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں: میں نے اسحاق بن منصور

سے سنا کہ عبدالرحمن بن مہدی پچھنا لگوانے والے روزہ دار کے متعلق نفا کا حکم دیتے ہیں۔ اسحاق بن منصور کہتے ہیں احمد بن حنبل اور اسحاق بن ابراہیم بھی اسی کے قائل ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں حسن بن محمد زعفرانی نے مجھے بتایا کہ شافعی کا کہنا ہے: آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روزے کی حالت میں پچھنا لگوانا مروی ہے۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا لگانے والے کا بھی اور لگوانے والے کا بھی چنانچہ مجھے علم نہیں کہ ان میں سے کون سی روایت ثابت ہے۔ لہذا اگر روزہ دار اس سے اجتناب کرے تو میرے نزدیک بہتر اور اگر پچھنا لگوائے تو میرے خیال میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ امام ترمذی کہتے ہیں: امام شافعی کا یہ قول بغداد کا ہے۔ جبکہ مصر آنے کے بعد وہ حجامت (پچھنا لگانے) کی اجازت کی طرف مائل ہو گئے تھے اور ان کے نزدیک اس میں کوئی مضائقہ نہیں تھا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر روزے اور احرام کی حالت میں پچھنے لگوائے۔

باب ۵۲۳۔ روزے کی حالت میں پچھنے لگانے کی اجازت۔ باب ۵۲۳۔ مَا جَاءَ فِي الرُّحْصَةِ فِي ذَٰلِكَ

۶۷۷۔ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ هَلَالٍ الْبَصْرِيُّ نَا عَبْدِ الْوَارِثِ

۶۷۷۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے احرام اور روزے کی حالت میں پچھنے لگوائے۔

بن سعيد نا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس قال

احتجتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو

محرّم صائتم

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔

۶۷۸۔ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا

۶۷۸۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے مکہ اور مدینہ کے درمیان احرام اور روزے کی حالت میں پچھنے لگائے۔

محمد بن عبد الله الانصاري عن حبيب بن الشهيد

عن ميمون بن مهران عن ابن عباس ان النبي صلى

الله عليه وسلم احتجتم فيما بين مكة والمدينة وهو

محرّم صائتم

اس باب میں ابوسعید، جابر اور انس سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں: ابن عباس کی حدیث حسن صحیح ہے بعض علماء اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے پچھنے لگانے کی اجازت دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی مضائقہ نہیں یہ سفیان ثوری، مالک بن انس اور شافعی کا قول ہے۔

باب ۵۲۴۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْوُصَالِ فِي الصِّيَامِ

۶۷۹۔ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ نَا بَشْرُ بْنُ

۶۷۹۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: روزوں سے وصال (۱) نہ کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ! آپ تو وصال ہی کرتے ہیں۔

فرمایا: میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔

المفضل وخالد بن الحارث عن سعيد بن ابى

عروة عن قتادة عن انس قال قال رسول الله صلى

الله عليه وسلم لا تواصلوا قالوا فانك تواصل

يا رسول الله قال اني لست كاحدكم ان ربي

(۱) وصال کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص دو دن یا اس سے زیادہ تک افطار نہ کرے۔ (مترجم)

يُطْعَمُنِي وَيَسْقِيَنِي

اس باب میں علیؓ، ابو ہریرہؓ، عائشہؓ، ابن عمرؓ، جابرؓ، ابو سعیدؓ، جابر بن خصاصیہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں انسؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر علماء کا عمل ہے کہ روزے میں وصال مکروہ ہے۔ عبداللہ بن زبیرؓ سے مروی ہے کہ وہ وصال کرتے تھے یعنی درمیان میں افطار نہیں کرتے تھے۔

باب ۵۲۵۔ مَا جَاءَ فِي الْحُنْبِ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ يُرِيدُ الصَّوْمَ

۶۸۰۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ زَوْجَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ حُنْبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فَيَصُومُ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اکثر علماء صحابہ وغیرہ کا اسی پر عمل ہے۔ سفیان، احمد، شافعی اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ بعض تابعین کا مسلک یہ ہے کہ اگر حالت جنابت میں صبح ہو جائے تو روزہ قضا کرے لیکن پہلا قول صحیح ہے۔

باب ۵۲۶۔ مَا جَاءَ فِي إِجَابَةِ الصَّائِمِ الدَّعْوَةَ

۶۸۱۔ حَدَّثَنَا زَهْرَبْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيَّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّاءٍ نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ أَبِي يُوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَبْرَبْنٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيَجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَصِلْ يَعْني الدَّعَاءَ

۶۸۲۔ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ نَا سَفِيَّانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقْلُ إِنِّي صَائِمٌ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ دونوں حدیثیں حسن صحیح ہیں۔

باب ۵۲۷۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ صَوْمِ الْمَرْأَةِ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

۶۸۳۔ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ نَا سَفِيَّانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنْ

۵۲۷۔ عورت کا شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھنا مکروہ ہے۔

۶۸۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: کوئی

باب ۵۲۵۔ صبح تک حالت جنابت میں رہتے ہوئے روزے کی نیت کرنا۔

۶۸۰۔ ازواج مطہرات حضرت عائشہؓ اور ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ کو حالت جنابت میں صبح ہو جایا کرتی تھی۔ پھر آپ غسل کرتے اور روزہ رکھتے۔

باب ۵۲۶۔ روزہ دار کا دعوت قبول کرنا

۶۸۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اگر تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو وہ اسے قبول کرے اور اگر روزے سے ہو تو دعا بھی کرے۔

۶۸۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: اگر تم میں سے کسی روزے دار کی دعوت کی جائے تو کہہ دے کہ وہ روزے سے ہے۔

ابو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَرُؤُوحَهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِّنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِهِ

عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر ایک نفلی روزہ بھی نہ رکھے۔

اس باب میں ابن عباسؓ اور ابوسعیدؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح اور ابوزناد سے بھی مروی ہے۔ وہ موسیٰ بن ابی عثمان سے وہ اپنے والد سے اور وہ ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں۔

باب ۵۲۸۔ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ

باب ۵۲۸۔ رمضان کی قضا میں تاخیر

۶۸۴۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ اسْمَعِيلِ السَّدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْبَهِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا كُنْتُ أَقْضِي مَا يَكُونُ عَلَيَّ مِنْ رَمَضَانَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ حَتَّى تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۶۸۴۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں اپنے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے شعبان میں قضا رکھا کرتی تھی یہاں تک کہ آنحضرت ﷺ کی وفات ہوئی۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یحییٰ بن سعید انصاری، ابوسلمہ سے اور وہ حضرت عائشہؓ سے اسی کی مثل روایت کرتے ہیں۔

باب ۵۲۹۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ عِنْدَهُ

باب ۵۲۹۔ کسی روزہ دار کے سامنے لوگوں کے کھانے پر اس کی فضیلت۔

۶۸۵۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا شَرِيكَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي لَيْلَى عَنْ مَوْلَا تَيْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكَلَ عِنْدَهُ الْمَفَاطِيرُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ

۶۸۵۔ ابولیلیٰ اپنی مولاة سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اگر کسی روزہ دار کے سامنے کھایا پیا جائے تو فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یحییٰ بن سعید انصاری، ابوسلمہ سے اور وہ حضرت عائشہؓ سے اسی کی مثل روایت کرتے ہیں۔

۶۸۶۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا أَبُو دَاوُدَ نَا شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ مَوْلَاةَ لَنَا يَقُولُ لَهَا لَيْلَى تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ عَمَّارَةَ ابْنَةِ كَعْبِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَدَمَتْ إِلَيْهِ طَعَامًا فَقَالَ كَلِيْ فَقَالَتْ إِنِّي صَائِمَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصَّائِمَ تُصَلِّي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ إِذَا أَكَلَ عِنْدَهُ حَتَّى يَفْرَغُوا وَرَبَّمَا قَالَ حَتَّى يَشْبَعُوا

۶۸۶۔ ام عمارہ بنت کعب انصاریہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ ان کے گھر تشریف لائے تو میں نے آپ ﷺ کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا تم بھی کھاؤ۔ میں نے عرض کیا میرا روزہ ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر کسی روزہ دار کے سامنے کھایا جائے تو ان کے کھانے سے فارغ ہونے یا فرمایا، ان کے سیر ہو جانے تک فرشتے روزہ دار کے لئے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔

امام ترمذی کہتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح اور شریک کی روایت سے اصح ہے۔ محمد بن بشار، محمد بن جعفر سے وہ شعبہ سے وہ حبیب بن زید سے وہ اپنی مولاة (لیلیٰ) سے اور وہ ام عمارہ بنت کعب سے اسی کے مثل روایت کرتی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ارح لیکن اس میں ”حتی یفرغوا“ اور ”یشبعوا“ کا لفظ مذکور نہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں ام عمارہ، حبیب بن زید کی دادی ہیں۔

باب ۵۳۰۔ مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ الْحَائِضِ الصِّيَامِ دُونَ الصَّلَاةِ

۶۸۷۔ حَدَّثَنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَجْرٍ نَا عَلِيَّ بْنَ مَسْعَرٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَطْهَرُ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصِّيَامِ وَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

۶۸۷۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم آنحضرت ﷺ کے زمانے میں ایام حیض سے پاک ہوتیں تو آپ ﷺ ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا کرتے تھے جب کہ نماز کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے اور معاد یہ سے بھی بواسطہ عائشہ مروی ہے۔ علماء کا اس مسئلے میں اتفاق ہے کہ حائضہ صرف روزے کی قضا کرے نماز کی نہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں: عبیدہ، عبیدہ بن معتب ضعیف کوئی ہیں ان کی کنیت ابو عبد الکریم ہے۔

باب ۵۳۱۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ مُبَالَغَةِ الْاِسْتِنْسَاقِ لِلصَّائِمِ

۶۸۸۔ حَدَّثَنَا نَاعِدُ الوَهَابِ الوَرَّاقُ وَ ابو عمار قالا نَا يحيى بن سليم قال حدثني اسمعيل بن كثير قال سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ لَقِيْطِ بْنِ صَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الوُضُوءِ قَالَ اَسْبِغِ الوُضُوءَ وَ خَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَ بَالِغْ فِي الْاِسْتِنْسَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

باب ۵۳۱۔ روزہ دار کے لیے ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے۔

۶۸۸۔ عاصم بن لقیط بن صبرہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے وضو کا طریقہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا: اچھی طرح وضو کرو، انگلیوں کا خلال کرو۔ اور اگر روزے سے نہ ہو تو ناک میں بھی اچھی طرح پانی ڈالو۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء روزے کی حالت میں ناک میں دو اڈالنے کو مکروہ کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ حدیث اس قول کی تائید کرتی ہے۔

باب ۵۳۲۔ مَا جَاءَ فِي مَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَلَا يَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ

۶۸۹۔ حَدَّثَنَا بشر بن معاذ العقدي البصري نَا ايوب بن واقد الكوفي عن هشام بن عروة عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَزَلَ عَلَيَّ قَوْمٍ فَلَا يَصُومَنَّ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِمْ

باب ۵۳۲۔ اگر کوئی شخص کسی کا مہمان ہو تو میزبان کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے۔

۶۸۹۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جو شخص کسی کے ہاں مہمان بن کر جائے وہ ان کی اجازت کے بغیر نفل روزہ نہ رکھے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث منکر ہے ہم اسے کسی ثقہ راوی کی ہشام بن عروہ سے روایت کے متعلق نہیں جانتے۔ موسیٰ بن داؤد ابو بکر مدینی سے وہ ہشام بن عروہ سے وہ اپنے والد سے وہ عائشہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث بھی ضعیف ہے کیوں کہ محدثین کے نزدیک ابو بکر ضعیف ہیں۔ ابو بکر مدینی جو جابر بن عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں ان کا نام فضل بن مبشر ہے اور وہ ان سے زیادہ ثقہ اور پرانے ہیں۔

باب ۵۳۳۔ اعتکاف کے متعلق۔

باب ۵۳۳۔ مَا جَاءَ فِي الْإِعْتِكَافِ

۶۹۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ اور عروہؓ، حضرت عائشہؓ سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ اپنی وفات تک رمضان کے آخری دس دن اعتکاف کیا کرتے تھے۔

۶۹۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِبْلَانَ نَا عَبْدَ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ

اس باب میں ابی بن کعبؓ، ابویعلیٰؓ، ابوسعیدؓ، انسؓ اور ابن عمرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابو ہریرہؓ اور عائشہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

۶۹۱۔ حضرت عائشہؓ عمر ماتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ جب اعتکاف کا ارادہ کرتے تو فجر کی نماز کے بعد ہی اپنی اعتکاف گاہ میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔

۶۹۱۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ نَا أَبُو معاوية عَنِ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ فِي مُعْتَكِفِهِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث یحییٰ بن سعید سے بھی مروی ہے وہ عمرہ سے اور وہ نبی اکرم ﷺ سے مرسلہ روایت کرتے ہیں۔ مالک اور کئی راوی بھی اسے یحییٰ بن سعید سے مرسلہ روایت کرتے ہیں۔ پھر اوزاعی اور سفیان ثوری بھی یحییٰ بن سعید سے وہ عمرہ سے اور وہ حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں۔ بعض علماء اسی پر عمل کرتے ہیں جن میں احمد اور اسحاق بھی شامل ہیں کہ اعتکاف کا ارادہ ہو تو فجر کے بعد اعتکاف گاہ میں داخل ہو جائے۔ جب کہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ جس روز کا اعتکاف کرنا ہے اس رات کا سورج غروب ہونے سے پہلے اسے اپنی اعتکاف گاہ میں ہونا چاہیے چنانچہ ان کے نزدیک غروب آفتاب سے پہلے کا وقت ہے۔ سفیان ثوریؓ اور امام مالک اسی کے قائل ہیں۔

باب ۵۳۳۔ شب قدر کے متعلق

باب ۵۳۴۔ مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

۶۹۲۔ حضرت عائشہؓ عمر ماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ رمضان کے آخری دس دن اعتکاف بیٹھتے اور فرماتے: شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔

۶۹۲۔ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ اسْحَقَ الهمدانی نَا عبدة بن سليمان عَنِ هشام بن عروة عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَيَقُولُ تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

اس باب میں حضرت عمرؓ، ابی بن اسب، جابر بن سمرہ، جابر بن عبداللہ، ابن عمرؓ، فلان بن عاصمؓ، انسؓ، عبداللہ بن انیسؓ، ابوسعیدؓ، ابوبکرؓ، ابن عباسؓ، بلالؓ اور عیادہ بن صامتؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت عائشہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اور ”یجاور“ کے معنی اعتکاف کرنے کے ہیں۔ اکثر روایتوں میں یہی ہے کہ شعبہ کو رمضان کے آخری عشرے کی ہر طاق رات میں تلاش کرو۔ آنحضرت ﷺ سے شب قدر کے متعلق یہ بھی مروی ہے کہ وہ اکیسویں، تیسویں، پچیسویں، ستائیسویں یا رمضان کی آخری رات ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک واللہ اعلم۔ اس کی یہ حقیقت ہے کہ آنحضرت ﷺ سے جس طرح کا سوال کیا جاتا اسی طرح جواب دیا کرتے تھے۔ اگر کہا جاتا کہ ہم اسے اس رات میں تلاش کریں؟ تو فرماتے اچھا اس میں تلاش کرو۔ لیکن میرے نزدیک قوی ترین روایت اکیسویں رات والی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابی بن کعب قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ یہ ستائیسویں رات ہے۔ اور کہتے کہ ہمیں آنحضرت ﷺ نے اس کی علامات بتائی تھیں۔ ہم نے اسے گن کر یاد کر لیا۔ ابوقلابہ سے مروی ہے کہ فرمایا: ”شب قدر آخری عشرے میں پائی رہتی ہے۔“ اس میں اس کی خبر عبد بن حمید نے عبدالرزاق کے حوالے سے دی وہ معمر سے وہ ایوب سے اور وہ ابوقلابہ سے روایت کرتے ہیں۔

۶۹۳۔ حضرت زر کہتے ہیں میں نے ابی بن کعبؓ سے پوچھا، کہ آپ نے ابو منذر کو کس طرح کہا کہ شب قدر رمضان کی ستائیسویں رات ہے۔ فرمایا: بیٹک! ہمیں آنحضرت ﷺ نے بتایا کہ وہ ایسی رات ہے کہ اس کے بعد صبح جب سورج نکلتا ہے تو اس میں شعاعیں نہیں ہوتیں۔ ہم نے گنا اور حفظ کر لیا۔ قسم ہے اللہ رب العزت کی کہ ابن مسعود بھی جانتے تھے کہ یہ رات رمضان کی ستائیسویں رات ہی ہے لیکن تم لوگوں کو بتانا بہتر نہیں سمجھتا کہ تم لوگ صرف اسی رات پر بھروسہ نہ کرنے لگو اور دوسری راتوں میں عبادت کرنا کم نہ کرو۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۶۹۴۔ عیینہ بن عبدالرحمن اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ابوبکرؓ کے سامنے شب قدر کا تذکرہ کیا گیا تو فرمایا: میں نے اس وقت سے اسے تلاش کرنا چھوڑ دیا ہے جب سے آنحضرت ﷺ نے اس کے متعلق فرمایا کہ اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ چنانچہ آپ ﷺ کا فرمان ہے، جب رمضان کے ختم ہونے میں نورائیں باقی رہ جائیں تو اسے تلاش کرو، یا جب سات راتیں رہ جائیں یا جب پانچ راتیں رہ جائیں یا جب تین راتیں رہ جائیں یا پھر رمضان کی آخری رات (یعنی اکیسویں، تیسویں، پچیسویں، ستائیسویں یا آخری رات) راوی کہتے ہیں: کہ ابوبکرؓ رمضان کے بیس دن اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے

۶۹۲۔ حدثنا زبیر بن عبد اللہ بن الکوفی نا ابوبکر بن جابر عن عیینہ بن عبد الرحمن قال قلت لابی نبی کعب انی علمت ان السدیر انھا لیلة سبع وعشرین قال بلی اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انھا لیلة صبیحتها تطلع الشمس لیس لها شعاع فعددتنا وحفظنا واللہ لقد علم ان مسعود انھا فی رمضان وانھا لیلة سبع وعشرین ولكن کرة ان یخبرکم فتکفلوا

۶۹۴۔ حدثنا حمید بن مسعدة نا یزید بن زریع نا عیینة بن عبد الرحمن قال حدثنی ابي قال ذكرت لیلة القدر عند ابي بكرة فقال ما انا بملتمسها لشیء سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا فی العشر الاواخر فانی سمعته یقول التمسوها فی تسع یقین او سبع یقین او خمس یقین او ثلث او اجر لیلة قال وكان ابو بكرة یصلی فی العشرین من رمضان کصلوته فی سایر السنة فاذا دخل العشر اجتهد

جس طرح پورا سال پڑھتے پھر جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرتے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۵۳۵۔ شبِ قدر کے متعلق

۶۹۵۔ حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ رمضان کے آخری عشرے میں اتنی زیادہ عبادت کی کوشش کیا کرتے تھے جتنی عام دنوں میں نہ کرتے تھے۔

باب ۵۳۵۔ بَابٌ مِنْهُ

۶۹۵۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ وَكَعْبُ بْنُ سَفِيَانَ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ هَبِيرَةَ بْنِ مَرِيَمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۶۹۶۔ حضرت عائشہؓ فرماتی کہ آنحضرت ﷺ رمضان کے آخری عشرے میں اتنی زیادہ عبادت کی کوشش کیا کرتے تھے جتنی عام دنوں میں نہ کرتے تھے۔

۶۹۶۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهَا

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۵۳۶۔ سردیوں کے روزے

۶۹۷۔ حضرت عامر بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: سردیوں میں روزہ رکھنا تو مفت کا ثواب کمانا ہے۔

باب ۵۳۶۔ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ الشِّتَاءِ

۶۹۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَاحِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَاحِيَةُ سَفِينٍ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ نَمِيرِ بْنِ عَرِيْبٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْغَنِيْمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمِ فِي الشِّتَاءِ

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث مرسل ہے کیونکہ عامر بن مسعودؓ صحابی نہیں ہیں۔ یہ ابراہیم بن عامر قرظی کے والد ہیں۔ جن سے

شعبہ اور ثوری روایت کرتے ہیں۔

باب ۵۳۷۔ ان لوگوں کا روزے رکھنا جو اس کی طاقت رکھتے ہیں۔

۶۹۸۔ حضرت سلمہ بن اکوعؓ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ”وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ“ (ترجمہ: یعنی جن لوگوں میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، وہ اس کے بدلے میں مسکین کو کھانا بھی کھلا سکتا ہے) تو ہم میں سے جو چاہتا کہ روزہ نہ رکھے وہ فدیہ دے دیتا۔ یہاں تک کہ اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی جس نے

باب ۵۳۷۔ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ

۶۹۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مِزْرَعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ يَزِيدٍ مَوْلَى سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ كَانَ مَنْ أَرَادَ مِنَّا أَنْ يُفْطِرَ وَيُقْتَدِيَ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ النَّبِيِّ بَعْدَهَا

فَنَسَخَتْهَا

اس حکم کو منسوخ کر دیا۔

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور یزید ابو عبید کے بیٹے اور سلمہ بن اکوع کے مولیٰ ہیں۔

باب ۵۳۸۔ مَا جَاءَ فِي مَنْ أَكَلَ ثُمَّ خَرَجَ يُرِيدُ سَفَرًا  
 ۶۹۹۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ قَالَ نَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ زَيْدِ  
 بْنِ اسْلَمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ  
 كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ قَدْ آتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ  
 وَهُوَ يُرِيدُ سَفَرًا وَقَدْ رَجَلَتْ لَهُ رَأْسُهُ وَلَيْسَ يُنَابِ  
 السَّفَرَ فَذَعَى بِطَعَامٍ فَأَكَلَ فَقُلْتُ لَهُ سُنَّةٌ فَقَالَ سُنَّةٌ  
 ثُمَّ رَكِبَ

باب ۵۳۸۔ جو شخص رمضان میں کھانا کھا کر سفر کے لیے نکلے۔

۶۹۹۔ محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ میں رمضان میں انس بن مالک کے پاس آیا تو وہ کہیں جانے کا ارادہ کر رہے تھے ان کی سواری تیار تھی اور انہوں نے سفر کا لباس پہن لیا تھا۔ پھر انہوں نے کھانا منگوا لیا اور کھایا۔ میں نے کہا کیا یہ سنت ہے؟ فرمایا: ہاں اور پھر سوار ہو گئے۔

محمد بن اسماعیل، سعید بن ابی مریم سے وہ محمد بن جعفر سے وہ زید بن اسلم سے وہ محمد بن منکدر سے اور وہ محمد بن کعب سے روایت کرتے ہیں کہ میں انس کے پاس آیا اور پھر اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمد بن جعفر: ابن ابی کثیر مدینی ہیں۔ یہ ثقہ اور اسماعیل بن جعفر کے بھائی ہیں۔ جب کہ عبد اللہ بن جعفر: صحیح کے بیٹے اور علی بن مدینی کے والد ہیں۔ یحییٰ بن معین انہیں ضعیف کہتے ہیں۔ بعض علماء اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں: مسافر کو سفر کے لیے نکلنے سے پہلے افطار کرنا چاہئے۔ لیکن قصر نماز اس وقت تک نہ شروع کرے جب تک گاؤں یا شہر کی حدود سے باہر نہ نکل جائے۔ یہ اسحاق بن ابراہیم کا قول ہے۔

باب ۵۳۹۔ روزہ دار کے تحفے سے متعلق

باب ۵۳۹۔ مَا جَاءَ فِي نُحْفَةِ الصَّائِمِ

۷۰۰۔ حضرت حسن بن علی کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: روزہ دار کو تحفہ دیا جائے تو تیل یا خوشبو وغیرہ دی جانی چاہئے۔

۷۰۰۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا أَبُو معاويةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طُوَيْفٍ عَنْ عَمِيرِ بْنِ مَأْمُونٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُحْفَةُ الصَّائِمِ الدُّهْنُ وَالْمِجْمَرُ

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث غریب ہے اس کی سند قوی نہیں۔ ہم اسے سعد بن طریف کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے اور سعد ضعیف ہیں۔ انہیں عمیر بن مأمون بھی کہا جاتا ہے۔

باب ۵۴۰۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کب ہوتی ہیں۔

باب ۵۴۰۔ مَا جَاءَ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى مَتَى يَكُونُ

۷۰۱۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عید الفطر اسی دن ہے جب سب لوگ افطار کریں (روزہ نہ رکھیں) اور عید الاضحیٰ اسی دن ہے جس دن سب لوگ قربانی کریں۔

۷۰۱۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَوْسَى نَا يَحْيَى ابْنَ الْيَمَانِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِطْرُ يَوْمَ يُضْحِي النَّاسُ

امام ترمذی کہتے ہیں: میں نے امام بخاری سے پوچھا کہ کیا محمد بن منکدر نے حضرت عائشہؓ سے احادیث سنی ہیں؟ تو فرمایا: ہاں وہ اپنی حدیث میں کہتے ہیں کہ میں نے عائشہؓ سے سنا۔ امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۵۴۱۔ مَا جَاءَ فِي الْإِعْتِكَافِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ  
 ۷۰۲۔ حدثنا محمد بن بشار نا ابن ابی عدی  
 ابناناحمید الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ  
 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ  
 الْأَوَّخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا فَلَمَّا كَانَ فِي  
 الْعَامِ الْمُقْبِلِ اعْتَكَفَ عَشْرِينَ

باب ۵۴۱۔ جو شخص اعتکاف میں رہا اور اس کے بعد نماز عشاء میں  
 ۷۰۲۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم  
 آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ اعتکاف نہ  
 کر سکے تو آئندہ سال میں دن نکلنا اعتکاف میں بیٹھے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث انسؓ کی روایت سے حسن صحیح فریب ہے۔ علماء اہل سنت (۱) کے بارے میں اختلاف ہے جو اسے  
 پورا ہونے سے پہلے توڑ دے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر اعتکاف توڑ دے تو اس کی قضاء واجب ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ  
 آنحضرت ﷺ اعتکاف سے نکل آئے تو سوال میں دس دن اعتکاف لیا۔ یہ امام مالک کا قول ہے جب کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ایک مرتبہ  
 نذر یا خود اپنے اوپر واجب کیا ہوا اعتکاف نہیں تھا تو اس کی قضاء واجب نہیں۔ بشرطیکہ عمل ہی ہو۔ ہاں البتہ اگر اس کی حاجت ہو تو قضاء  
 کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ شافعی مزید کہتے ہیں: اگر کوئی عمل واجب نہ ہو اور تم اسے ادا کرنے لگو لیکن مکمل نہ کر سکو تو اس کی قضاء واجب  
 نہیں۔ ہاں اگر عمرے یا حج میں ایسا ہو تو قضاء واجب ہے۔ اس باب میں ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے۔

باب ۵۴۲۔ کیا مختلف اہل سنت کے لیے نکل سکتا ہے؟

باب ۵۴۲۔ الْمُعْتَكِفُ يَخْرُجُ لِحَاجَتِهِ أَمْ لَا

۷۰۳۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں: آنحضرت ﷺ اعتکاف میں  
 ہونے کے دوران میں اگر کسی حاجت کی ضرورت پڑے تو نکل دیا کرتے اور اس کی حاجت  
 تکمیل فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص  
 نکلے۔

۷۰۳۔ حدثنا ابو مصعب المدني قراءة عن مالك  
 بن انس عن ابن شهاب عن عروة و عمرو بن  
 عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه  
 وسلم إذا اعتكف أدنى إلى رأسه فأرجله وكان لا  
 يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے اس طرح کئی راوی مالک بن انس سے وہ ابن شہاب سے وہ عروہ اور عمرہ سے اور وہ  
 حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں۔ جب کہ بعض راوی اسے مالک سے وہ ابن شہاب سے وہ عروہ سے وہ عمرہ سے اور وہ حضرت عائشہؓ سے  
 روایت کرتے ہیں لیکن صحیح یہ ہے کہ عروہ اور عمرہ حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں۔ لیث بن سعد بھی ابن شہاب سے اسی سند سے  
 روایت کرتے ہیں۔ ہمیں اس کی خبر قتیبہ نے لیث کے حوالے سے دی علماء کا اسی پر عمل ہے کہ معتکف انسانی ضروریات کے علاوہ اعتکاف  
 سے نہ نکلے چنانچہ اسی پر علماء کا اجماع ہے کہ معتکف صرف قضاے حاجت کے لیے ہی نکل سکتا ہے۔ پھر علماء کا مریض کی عیادت، جمعہ کی  
 نماز اور جنازہ میں شرکت کے لیے معتکف کے نکلنے میں اختلاف ہے۔ بعض صحابہ کا مسلک یہ ہے کہ مریض کی عیادت بھی کرے، اور جمعے  
 و جنازے میں بھی شریک ہو لیکن اس شرط پر کہ اعتکاف شروع کرتے وقت ان چیزوں کی نیت کی ہو۔ یہ سفیان ثوری اور ابن مبارک کا قول  
 ہے جب کہ بعض علماء کے نزدیک ان میں سے کوئی عمل بھی جائز نہیں۔ لہذا اگر معتکف ایسے شہر میں ہو کہ اس میں جمعے کی نماز ہوتی ہو تو اسے  
 اسی مسجد میں اعتکاف بیٹھنا چاہیے۔ کیونکہ یہ حضرات معتکف کا جمعے کے لیے اعتکاف سے نکلنا بھی مکروہ سمجھتے ہیں اور ساتھ ہی ان کے نزدیک

اس کا جمعے کو چھوڑ دینا بھی جائز نہیں۔ حاصل یہ کہ ان حضرات کے نزدیک اسے جامع مسجد میں ہی اعتکاف کرنا چاہئے تاکہ اسے قضاءے حاجت کے علاوہ کسی دوسری ضرورت کے لیے نکلنا نہ پڑے۔ کیونکہ قضاءے حاجت کے علاوہ کسی کام کے لیے نکلنے سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ مالک اور شافعی کا قول ہے۔ امام احمد حضرت عائشہؓ کی حدیث کی وجہ سے معتکف کا جنازے یا مریض کی عیادت کے لیے نکلنا جائز نہیں سمجھتے جب کہ اسحاق اس شرط کے ساتھ اس کی اجازت دیتے ہیں کہ اعتکاف کے شروع میں اس کی نیت کی ہو۔

باب ۵۴۳۔ مَا جَاءَ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

باب ۵۴۳۔ رمضان میں رات کو نماز پڑھنا۔

۷۰۴۔ حدثنا محمد بن الفضيل عن داود بن ابى هند عن الوليد بن عبدالرحمن الجرسى عن جبير بن نفير عن ابي ذر قال قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يوصل بنا حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلنا يا رسول الله لو نقلتنا بقیة لکیننا هذه فقال انه من قام مع الإمام حتى ينصرف کتب له قیام لیلة ثم لم یوصل بنا حتى بقي ثلث من الشهر وصلی بنا فی الثالثة ودعى أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح قلت له وما الفلاح قال السحور

۷۰۴۔ حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں ہم نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ روزے رکھے۔ آپ ﷺ نے تیسویں رات تک ہمارے ساتھ رات کی نماز نہیں پڑھی۔ پھر تیسویں رات کو ہمیں لے کر کھڑے ہوئے یہاں تک کہ تہائی رات گزر گئی پھر چوبیسویں رات کو نماز نہیں پڑھائی لیکن پچیسویں رات کو آدھی رات تک نماز پڑھائی ہم نے عرض کیا ہماری آرزو تھی کہ آپ باقی رات بھی ہمارے ساتھ نواقل پڑھتے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جو شخص امام کے ساتھ اس کے فارغ ہونے تک نماز میں شریک رہا اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا گیا۔ پھر آنحضرت ﷺ نے ستائیسویں رات تک نماز شب نہ پڑھائی۔ ستائیسویں رات کو پھر کھڑے ہوئے اور ہمارے ساتھ اپنے گھر والوں اور عورتوں کو بھی بلایا۔ یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ فلاح کا وقت نہ نکل جائے۔ راوی کہتے ہیں میں نے ابو ذر سے پوچھا فلاح کیا ہے؟ تو فرمایا سحری۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء کا رمضان میں نماز شب کے متعلق اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک وتر سمیت چالیس رکعتیں پڑھنی چاہئیں۔ یہ اہل مدینہ کا قول ہے اور اسی پر ان کا عمل ہے۔ جب کہ اکثر علماء حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ کے قول پر عمل کرتے ہیں کہ بیس رکعتیں پڑھے۔ یہ شافعی، ابن مبارک اور سفیان ثوری کا بھی قول ہے۔ شافعی کہتے ہیں: ہم نے اپنے شہر مکہ میں اسی پر عمل کرتے ہوئے دیکھا۔ امام احمد کہتے ہیں: اس میں کئی قسم کی روایات مروی ہیں لہذا اس مسئلے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ اسحاق اکتالیس رکعات کا مذہب اختیار کرتے ہیں جیسے ابی بن کعب سے مروی ہے۔ پھر ابن مبارک، احمد اور اسحاق کہتے ہیں کہ رمضان میں امام کے ساتھ نماز پڑھی جائے لیکن شافعی کہتے ہیں کہ اگر خود قاری ہو تو اکیلے نماز پڑھے۔

باب ۵۴۴۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا

باب ۵۴۴۔ کسی کو روزہ افطار کرانے کی فضیلت۔

۷۰۵۔ حدثنا هناد نا عبدالرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن ابى سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه

۷۰۵۔ حضرت زید بن خالد جہنیؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ دار کو۔ اور یہ روزہ دار کے ثواب میں کسی کی کے بغیر ہوگا۔

وَسَلَّمَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَحْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۵۴۵۔ التَّرْغِيبُ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَمَا جَاءَ فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ

۷۰۶۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنٍ حَمِيدٌ نَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ وَيَقُولُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ فَتَوَقَّي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَلَى ذَلِكَ

باب ۵۴۳۔ رمضان میں نماز شب کے متعلق ترغیب اور اس کی فضیلت۔

۷۰۶۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے رمضان میں رات کو فرضیت اور وجوب کے حکم کے بغیر نماز کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ چنانچہ فرماتے: جس شخص نے رمضان میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ رات کو نماز پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرمادیتے ہیں۔ پھر آپ ﷺ کے وفات پا جانے تک اسی پر عمل رہا۔ اسی طرح خلافت ابو بکر صدیق اور خلافت عمرؓ کے ابتدائی دور میں بھی اسی پر عمل کرتے رہے۔

اس باب میں حضرت عائشہؓ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور زہری سے بھی مروی ہے وہ عروہ سے اور وہ حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں۔

یہ روزوں کے ابواب کا اختتام اور ابواب حج کی ابتداء ہے۔

حج کے متعلق آنحضرت ﷺ سے

منقول احادیث کے ابواب

باب ۵۴۶۔ مکہ کے حرم ہونے کے متعلق۔

۷۰۷۔ حضرت ابو شریح عدوی فرماتے ہیں کہ میں نے عمرو بن سعید سے مکہ کی طرف لشکر بھیجتے ہوئے کہا: اے امیر! مجھے اجازت دو کہ میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کروں جو رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کی صبح کھڑے ہو کر فرمائی۔ میرے کانوں نے اسے سنا، دل نے یاد رکھا اور آنکھوں نے آنحضرت ﷺ کو فرماتے ہوئے دیکھا۔ آپ ﷺ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا: مکہ اللہ تعالیٰ کا حرم ہے اسے لوگوں نے حرمت کی جگہ قرار نہیں دیا اللہ نے قرار دیا ہے کسی بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے شخص کے لیے اس میں خون بہانا اور وہاں

اِحْرَابِ الصُّومِ وَ اَوَّلِ ابْوَابِ الْحَجِّ

اَبْوَابِ الْحَجِّ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۵۴۶۔ ماجاء في حرمة مكة

۷۰۷۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ بِنِ سَعِيْدٍ نَا الْبَلِيْثِ بِنِ سَعْدٍ عَنِ سَعِيْدِ بِنِ اِبِي سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنِ اِبِي شُرَيْحِ الْعَدَوِيِّ اَنَّهُ قَالَ لِعُمْرُو بْنِ سَعِيْدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوْتِ اِلَى مَكَّةَ اَتَدْنُ لِيْ اَيُّهَا الْاَمِيْرُ اَحَدْتُكَ قَوْلًا قَامَ بِهٖ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَدَمِ يَوْمَ الْفَتْحِ سَمِعْتُهُ اذْ نَاى وَوَعَاهَ قَلْبِيْ وَ اَبْصَرْتُهُ عَيْنَاى حِيْنَ تَكَلَّمْتُ بِهٖ اِنَّهٗ حَمْدُ اللَّهِ وَاَنْنِيْ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ مَكَّةَ حَرَمٌ لِلَّهِ تَعَالَى وَلَمْ يُحْرَمْهَا النَّاسُ وَلَا يَجِلُّ

کے درخت کا ثنا حلال نہیں۔ اگر کوئی شخص اسے جائز سمجھنے پر اللہ کے رسول کے قتال سے استدلال کرے تو اس سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو اس کی اجازت دی تھی تمہیں نہیں۔ اور میرے لیے بھی دن کے کچھ حصے میں اس کی اجازت دی گئی اور اس کے بعد اس کی حرمت اسی دن اسی طرح لوٹ آئی جیسے کہ کل تھی۔ چنانچہ موجود لوگ غیر موجود لوگوں کو یہ حکم پہنچادیں۔ ابو شریح سے پوچھا گیا کہ اس پر عمرو بن سعید نے کیا کہا؟ کہنے لگے کہ اس نے کہا: اے ابو شریح میں اس حدیث کو تم سے بہتر طور پر جانتا ہوں۔ حرم نافرمان اور باغیوں کو پناہ نہیں دیتا۔ اور نہ قتل کر کے بھاگنے والوں یا چوری کر کے بھاگنے والوں کو پناہ دیتا ہے۔ (۱)

لَا مَرِيءٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا أَوْ يُعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ أَدِنَ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكَ وَإِنَّمَا أُذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ وَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ مَا قَالَ لَكَ عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ بِذَلِكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيدُ عَاصِبًا وَلَا فَارًا بِدَمٍ وَلَا فَارًا بِخَرْبَةٍ

امام ترمذی کہتے ہیں ”خریبہ“ کی جگہ ”خریبہ“ کے الفاظ بھی مروی ہیں۔ خربہ کے معنی ذلت کے ہیں۔ اس باب میں ابو ہریرہؓ اور ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔

توضیح: حضرت عبداللہ بن زبیرؓ طلیل القدر صحابی ہیں چنانچہ ان کے متعلق عمرو بن سعید حاکم مدینہ کا قول کہ وہ مجرم ہیں بہتانِ عظیم ہے۔ اس نے یہ لشکر یزید کے حکم پر یزید کی بیعت کے لیے بھیجا تھا۔ جب کہ علماء کے نزدیک عبداللہ بن زبیرؓ خلافت کے یزید سے زیادہ حقدار تھے۔ اور ان کے ہاتھ پر بیعت بھی ہو چکی تھی۔ (مترجم)

#### باب ۵۴۷۔ حج اور عمرے کا ثواب

۷۰۸۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: حج اور عمرے پے درپے کیا کرو کیونکہ یہ دونوں فہر اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لو ہے، سونے اور چاندی کے میل کو ختم کر دیتی ہے اور مقبول حج کا بدلہ صرف جنت ہی ہے۔

باب ۵۴۷۔ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ  
۷۰۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ وَأَبُو سَعِيْدِ الْاَشْجِ قَالَ نَابُو خَالِدِ الْاَحْمَرِ عَنْ عَمْرُو بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ شَقِيْقِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَانَّهُمَا يُنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يُنْفِي الْكَبِيْرُ حُبَّ الْحَدِيْدِ وَاللَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَكَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُوْرَةِ ثَوَابٌ اِلَّا الْحَنَّةَ

اس باب میں عمر، عامر بن ربیعہ، ابو ہریرہؓ، عبداللہ بن حبشی، ام سلمہ اور جابرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت سے حسن صحیح غریب ہے۔

۷۰۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: جس نے حج کیا اور اس دوران عورتوں کے ساتھ نجس کلامی یا فسق کا ارتکاب نہیں

۷۰۹۔ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عَمْرٍو نَابُو سَفِيَانَ بْنِ عَيْنَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِي حَازِمٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ

(۱) یہ لشکر حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھیجا جا رہا تھا۔ (مترجم)

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرُقْ وَلَمْ يَفْسُقْ غُفْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

کیا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ (۱)

امام ترمذی کہتے ہیں: ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور ابو حازم کوئی، اشجعی ہیں ان کا نام: سلمان مولیٰ عزہ الاجعیہ ہے۔

باب ۵۴۸۔ ترک حج پر وعید۔

باب ۵۴۸۔ مَا جَاءَ مِنَ التَّغْلِيظِ فِي تَرْكِ الْحَجِّ

۷۱۰۔ حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري نا مسلم بن ابراهيم نا هلال بن عبدالله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي عن الحارث بن عمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زاداً وراحلةً تلبغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً وذلك أن الله يقول في كتابه "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً" يعني صاحب استطاعت لوگوں کا اللہ کی خوشنودی کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔

۷۱۰۔ حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري نا مسلم بن ابراهيم نا هلال بن عبدالله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي عن الحارث بن عمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زاداً وراحلةً تلبغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً وذلك أن الله يقول في كتابه "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً"

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں اور اس کی سند میں کلام ہے چنانچہ ہلال بن عبد اللہ مجہول اور حارث ضعیف ہیں۔

باب ۵۴۹۔ زاوراہ اور سواری کی ملکیت سے حج فرض ہو جاتا ہے۔

باب ۵۴۹۔ مَا جَاءَ فِي إِحْبَابِ الْحَجِّ بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ

۷۱۱۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا کہ حج کس چیز سے فرض ہوتا ہے۔ فرمایا: زاوراہ اور سواری سے۔

۷۱۱۔ حدثنا يوسف بن عيسى نا وكيع نا ابراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج الزاد والراحلة

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ علماء کا اسی پر عمل ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس زاوراہ اور سواری ہو تو اس پر حج فرض ہے۔ ابراہیم بن یزید: خوزی کی ہیں۔ بعض حضرات ان کے حافظے کی وجہ سے انہیں ضعیف کہتے ہیں۔

باب ۵۵۰۔ کتنے حج فرض ہیں۔

باب ۵۵۰۔ مَا جَاءَ كَمْ فَرَضَ الْحَجُّ

۷۱۲۔ حضرت علی بن ابی طالبؓ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی "ولله على الناس....." آیت تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ! کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ ﷺ خاموش رہے۔ صحابہ نے پھر پوچھا کیا ہر سال؟ یا رسول اللہ! اس مرتبہ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں۔ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی

۷۱۲۔ حدثنا ابو سعيد الاشج نا منصور بن وردان كوفي عن علي بن عبد الاعلى عن ابيه عن ابي اليختر عن علي بن ابي طالب قال لما نزلت "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً" قالوا يا رسول الله أفنى كل عام فسكت فقالوا يا

(۱) فسق: گناہوں کے ارتکاب اور اطاعت سے نکل جانے کو کہتے ہیں۔ (مترجم)

رَسُولَ اللَّهِ أَفِي كُلِّ عَامٍ قَالَ لَا وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءَ إِن تَبَدَّلَكُمْ تَسْأَلَكُمْ»

”يا ايها الذين امنوا لاتسألوا“..... الآية یعنی اے ایمان والو! ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر ان کی حقیقت تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں بُری لگیں۔

اس باب میں ابن عباسؓ اور ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت علیؓ کی حدیث اس سند سے حسن غریب ہے اور ابو بکرؓ کا نام سعید بن ابی عمران ہے اور وہ سعید بن فیروز ہیں۔

باب ۵۵۱۔ آنحضرت ﷺ نے کتنے حج کیے؟

۷۱۳۔ حدثنا عبد الله بن ابي زياد نا زيد بن حباب عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حج ثلاث حجج حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعد ما هاجر معها عمرة فساق ثلثة وسنتين بدنة وجاء علي من اليمن ببيتها فيها جملاً لابي جهل في انفه وسلم من ذل بدنة بضعه فضبحت فشرّب من مرقها

۷۱۳۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے تین حج کیے۔ دو مرتبہ ہجرت سے پہلے اور ایک مرتبہ ہجرت کے بعد جس کے ساتھ عمرہ بھی کیا۔ اس حج میں آنحضرت ﷺ قربانی کے لیے اپنے ساتھ تریسٹھ اونٹ لائے تھے جب کہ باقی حضرت علیؓ یمن سے ساتھ لے کر آئے ان میں سے ایک اونٹ ابو جہل کا بھی تھا جس کے ناک میں چاندی کا پھلہ تھا۔ آپ ﷺ نے انہیں ذبح کیا اور ہر اونٹ میں گوشت کا ایک ایک ٹکڑا اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ پھر اسے پکایا گیا اور اس کے بعد آپ ﷺ نے اس کا شور بہ پیا۔

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث بخاری کی روایت سے غریب ہے، ہم اسے صرف زید بن حباب کی روایت سے جانتے ہیں۔ عبد اللہ بن عبد الرحمنؓ کی کتاب میں یہ حدیث عبد اللہ بن ابو زیاد سے روایت کرتے ہیں۔ میں نے امام بخاری سے اس کے متعلق پوچھا: وہ بھی اسے ثور بن ابی جعفر سے روایت کے متعلق نہیں جانتے۔ جعفر اپنے والد سے وہ جابرؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ حدیث محفوظ نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ حدیث ثوری، ابو اسحاق سے اور وہ مجاہد سے مرسل روایت کرتے ہیں۔

۷۱۴۔ حدثنا اسحاق بن منصور نا حبان بن هلال نا همام نا قتادة قال قلت لانس بن مالك كم حج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال حجّة وأحده وأعتمر أربع عمر عمرة في ذى القعدة و عمرة الحديبية و عمرة في ذى القعدة و عمرة الحديبية و عمرة مع حجته و عمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة حنين

۷۱۴۔ حضرت قتادہؓ فرماتے ہیں میں نے انس بن مالکؓ سے پوچھا کہ آنحضرت ﷺ نے کتنے حج کیے؟ فرمایا: ایک حج اور چار عمرے۔ ایک عمرہ ہجرانہ کیا جب غزوہ حنین کے مال غنیمت کی تقسیم کی۔

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حبان بن ہلال کی کنیت ابو صیب بصری ہے۔ یہ پائے کے بزرگ اور ثقہ ہیں۔ یحییٰ بن سعید قطان انہیں ثقہ کہتے ہیں۔

باب ۵۵۲۔ حضور اکرم ﷺ نے کتنے عمرے کیے۔

۷۱۵۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں: آنحضرت ﷺ نے چار عمرے

باب ۵۵۲۔ ماجاء كم اعتمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۷۱۵۔ حدثنا قتيبة نا داؤد بن عبد الرحمن العطار

کیے۔ ایک حدیبیہ کے موقع پر دوسرا آئندہ سال ذیقعدہ میں حدیبیہ والے عمرے کی قضا میں، تیسرا عمرہ حجاز اور چوتھا حج کے ساتھ۔

عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرَةَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَعُمَرَةَ الثَّانِيَةَ مِنْ قَابِلِ عُمَرَةَ الْقَصَا فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمَرَةَ الثَّلَاثَةَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَالرَّابِعَةَ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ

اس باب میں حضرت انسؓ، عبداللہ بن عمروؓ اور ابن عمرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عباسؓ کی حدیث غریب ہے۔ ابن عیینہ یہ حدیث عمرو بن دینار سے اور وہ مکرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے چار عمرے کیے۔ اس میں انہوں نے ابن عباسؓ کا ذکر نہیں کیا۔ سعید بن عبدالرحمن مخزومی بھی سفیان بن عیینہ سے وہ عمرو بن دینار سے وہ مکرمہ سے اور وہ حضور اکرم ﷺ سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔

باب ۵۵۳۔ مَا جَاءَ فِي آيِ مَوْضِعِ أَحْرَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۷۱۶۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍَا سَفِيَانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فَاجْتَمَعُوا فَلَمَّا أَتَى الْبَيْدَاءَ أَحْرَمَ

۷۱۷۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نا عبد السلام عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أهل ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد من عند المشجرة

اس باب میں ابن عمرؓ اور موسیٰ بن مجزومہ سے بھی روایت ہے۔

۷۱۷۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں: تم لوگ آنحضرت ﷺ پر افتراء اور جھوٹ باندھتے ہو کہ آپ ﷺ نے بیداء سے احرام باندھا۔ اللہ کی قسم آپ ﷺ نے ذوالحلیفہ کے پاس درخت کے نزدیک سے لبیک پکارنا شروع کیا۔

۷۱۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نا عبد السلام عن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبيرة

باب ۵۵۴۔ مَا جَاءَ مَعِيَ أَحْرَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۷۱۸۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں: آنحضرت ﷺ نے نماز کے بعد تہلیل پڑھی۔ (۱)

۷۱۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نا عبد السلام عن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبيرة

۷۱۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نا عبد السلام عن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبيرة

(۱) تہلیل کے معنی یہ ہیں کہ ”لیک اللهم لیک لیک لا شریک لک لیک ان الحمد والنعمة لک والملك لا شریک لک“ پڑھتے ہوئے آواز بلند کرے۔ اور یہ احرام کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَهْلًا فِي ذُبْرِ الصَّلَاةِ

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث غریب ہے ہمیں نہیں معلوم کہ اسے عبد السلام بن حرب کے علاوہ کسی اور نے روایت کیا ہو۔ علماء اسی کو مستحب کہتے ہیں کہ نماز کے بعد احرام باندھے اور تلبیہ پڑھے۔

باب ۵۵۵۔ حج افراد۔

باب ۵۵۵۔ مَا جَاءَ فِي إِفْرَادِ الْحَجِّ

۷۱۹۔ حدثنا ابو مصعب قراءة عن مالك بن انس

عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الْحَجَّ

اس باب میں حضرت جابرؓ اور ابن عمرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت عائشہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر بعض علماء کا عمل ہے۔ حضرت ابن عمرؓ سے بھی مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حج افراد کیا اسی طرح ابو بکرؓ، عمرؓ اور عثمانؓ نے بھی حج افراد ہی کیا۔ ہمیں اس کی خبر تھیہ نے دی وہ عبداللہ بن عمرؓ سے وہ نافع سے اور وہ ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی، ثوری کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک اگر حج افراد کرے تو بہتر اور اگر تمتع کرے تو بھی بہتر ہے۔ شافعی بھی یہی کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے ہمارے نزدیک افراد سب سے بہتر ہے۔ پھر تمتع اور اس کے بعد قرآن۔

توضیح: حج کی تین قسمیں ہیں جن میں سے پہلی ”افراد“ یعنی میقات سے صرف حج کے لیے احرام باندھنا۔ دوسری ”تمتع“، یعنی حج کے مہینوں میں عمرے کا احرام باندھے اور عمرہ کرنے کے بعد اگر قربانی کا جانور ساتھ لایا ہو تو۔ احرام نہ کھولے اور اگر ساتھ نہ لایا ہو تو احرام کھول دے۔ تیسری قسم ”قرآن“ ہے اس میں عمرے اور حج کا احرام ایک ساتھ میقات ہی سے باندھے گا اور دونوں سے فارغ ہونے تک احرام ہی میں رہے گا۔ (مترجم)

باب ۵۵۶۔ حج اور عمرہ ایک ہی احرام میں کرنا۔

باب ۵۵۶۔ مَا جَاءَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

۷۲۰۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں میں نے آنحضرت ﷺ کو ”لیک بھرمہ

۷۲۰۔ حدثنا قتيبة نا حماد بن زيد عن حميد عن

وحجة“ کہتے ہوئے سنا (یعنی حج اور عمرے دونوں کی نیت کی)۔

انس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول

ليك بعمره وحجة

اس باب میں حضرت عمرؓ اور عمران بن حصینؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں انس کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض علماء اسی پر عمل کرتے ہیں۔ اہل کوفہ وغیرہ کا بھی یہی قول ہے۔

توضیح: علماء کا حج کی تینوں قسموں میں سے افضل ترین کے متعلق اختلاف ہے۔ اس میں حنفیہ قرآن کی افضلیت کے قائل ہیں پھر تمتع اور پھر افراد۔ ان کی دلیل حضرت انسؓ کی حدیث باب ہے۔ ان سے اور بھی کئی راوی یہی روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ قارن تھے۔ اور پھر تلبیہ میں حج و عمرہ کو جمع کرنا حج قرآن ہی کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی احادیث حنفیہ کے مسلک کی تائید کرتی ہیں ان میں سے ایک حضرت ام سلمہؓ کی روایت بھی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اپنے اہل بیت کو قرآن کا حکم دیا۔ اس سے بھی اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ آپ ﷺ قارن ہی تھے۔ کیونکہ آپ ﷺ یقیناً اہل بیت کے لیے وہی اختیار کرتے جو انہوں نے خود اختیار کیا تھا۔ واللہ اعلم (مترجم)

## باب ۵۵۷۔ مَا جَاءَ فِي التَّمَتُّعِ

## باب ۵۵۷۔ تمتع کے متعلق

۷۲۱۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَارِثِ بْنِ نُوفَلٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدُ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ وَالضُّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ وَهُمَا يُذَكِّرَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ الضُّحَّاكُ ابْنُ قَيْسٍ لَا يَصْنَعُ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ جَهَلَ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ سَعْدٌ بَسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أَحِيٍّ فَقَالَ الضُّحَّاكُ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ سَعْدٌ قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۷۲۲۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَالِمٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَهُوَ يُسْئَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمَرَ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَمَرَ هِيَ حَلَالٌ فَقَالَ الشَّامِيُّ إِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمَرَ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ أَبِي يُتَّبَعُ أَمْ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۷۲۳۔ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ إدریس عن لیث عن طوائس عن ابن عباس قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من نهى عنه معاوية

۷۲۱۔ حضرت محمد بن عبد اللہ بن حارث بن نوفل نے سعد بن ابی وقاص اور ضحاک بن قیس کو تمتع کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا، جس میں حج کے ساتھ عمرہ بھی کیا جاتا ہے۔ ضحاک کہنے لگے یہ تو وہی کرے گا جو اللہ کے حکم سے جاہل ہوگا۔ سعد نے فرمایا: بھتیجے تم نے غلط کہا۔ اس پر ضحاک نے کہا عمر بن خطابؓ نے اس سے منع کیا ہے۔ سعد کہنے لگے آنحضرت ﷺ نے خود بھی تمتع کیا اور ان کے ساتھ ہم نے بھی۔

۷۲۲۔ ابن شہاب، سالم بن عبد اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک شامی شخص کو عبد اللہ بن عمرؓ سے حج کے ساتھ عمرے کے ملانے (تمتع) کے متعلق پوچھا۔ عبد اللہ بن عمرؓ نے فرمایا: حلال ہے شامی نے کہا کہ آپ کے والد نے اس سے منع کیا ہے ابن عمرؓ نے فرمایا: دیکھو اگر میرے والد کسی کام سے منع کریں اور رسول اللہ ﷺ وہی کام کریں تو میرے والد کی اتباع کی جائے گی یا آنحضرت ﷺ کی؟ شامی نے کہا: حضور ﷺ کی۔ ابن عمرؓ نے فرمایا: آنحضرت ﷺ نے تمتع ہی کیا۔

۷۲۳۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے تمتع کیا۔ اسی طرح ابو بکرؓ، عثمانؓ اور عمرؓ نے بھی تمتع ہی کیا اور جس نے سب سے پہلے تمتع سے منع کیا وہ معاویہؓ ہیں۔

اس باب میں حضرت علیؓ، عثمانؓ، جابرؓ، سعدؓ، اسماء بنت ابی بکرؓ اور ابن عمرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں۔ ابن عباسؓ کی حدیث حسن ہے۔ علماء صحابہ کی ایک جماعت نے تمتع ہی کو اختیار کیا ہے۔ یعنی حج اور عمرے کو۔ تمتع حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے اور اس کے بعد حج کرنے تک وہیں رہنے کو کہتے ہیں۔ اس قسم میں قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی قربانی نہ کر سکتا ہو تو حج کے دنوں میں تین اور گھر لوٹنے پر سات روزے رکھے۔ پھر اس کے لیے مستحب ہے کہ تین روزے ذوالحج کے پہلے دس دنوں میں رکھ لے اس طرح کہ تیسرا روزہ عرفے کے دن ہو۔ یعنی پہلے عشرے کے آخری تین دن۔ اگر ان دنوں میں روزے نہ رکھے ہوں تو بعض علماء کے نزدیک ایام تشریق میں روزے رکھے۔ جن میں عمر اور عائشہ شامل ہیں۔ مالک، شافعی، احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔ جب کہ احناف کے نزدیک ایام تشریق میں روزے نہ رکھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: محدثین تمتع ہی کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی قول ہے۔

توضیح: حنفیہ ان احادیث کے متعلق کہتے ہیں کہ لفظ ”تمتع“، ”قرآن“ سے زیادہ عام ہے یعنی ”قرآن“ اسی میں داخل ہو سکتا ہے چنانچہ اس سے مراد قرآن بھی لیا جاسکتا ہے۔ اور یہاں تمتع سے مراد تمتع لغوی ہے یعنی عمرے کے ساتھ حج کو ملائے اور دونوں کو ایک ہی سفر میں ادا کر کے نفع حاصل کرے تاکہ دونوں کیلئے الگ الگ سفر نہ کرنا پڑے۔ واللہ اعلم۔ (مترجم)

باب ۵۵۸۔ لیک کے متعلق

باب ۵۵۸۔ مَا جَاءَ فِي التَّلْبِيَةِ

۷۲۴۔ حدثنا احمد بن منيع نا اسمعيل بن ابراهيم عن ابوب عن نافع عن ابن عمر قال كان تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

۲۳۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ تلبیہ اس طرح کہتے تھے۔ لبيك اللهم لبيك..... الخ یعنی حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں اور میری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تمام تعریفیں اور نعمتیں تیرے ہی لیے ہیں تیری بادشاہت میں بھی تیرا کوئی شریک نہیں۔

تعمیر لیٹ سے وہ نافع سے اور وہ ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے تلبیہ کہا تو اس طرح کہا ”لبيك اللهم لبيك“..... الخ۔ ابن عمرؓ فرماتے تھے کہ آنحضرت ﷺ کا تلبیہ یہی ہے پھر اپنی طرف سے یہ الفاظ زیادہ کیا کرتے تھے ”لبيك، لبيك وسعديك والخير في يدك لبيك والرغائب اليك والعمل“ یعنی حاضر ہوں میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور تیری تابعداری ہی میں میں راضی ہوں۔ خیر تیرے دونوں ہاتھوں میں ہے۔ میری رغبت اور عمل بھی تیرے ہی لیے ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں اس باب میں جابرؓ، ابن مسعودؓ، عائشہؓ، ابن عباسؓ اور ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے اور ابن عمرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر علماء، صحابہ اور دیگر علماء کا عمل ہے۔ اور یہی سفیان ثوری، شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے۔ شافعی کہتے ہیں، اگر تلبیہ میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے الفاظ اور زیادہ کرے تو انشاء اللہ کوئی مضا لقتہ نہیں۔ جبکہ میرے نزدیک بہتر یہی ہے کہ اتنا ہی پڑھے جتنا کہ آپ ﷺ سے ثابت ہے۔ اس میں زیادتی کرنے میں اس لئے کوئی حرج نہیں کہ حضرت ابن عمرؓ حضور ﷺ کے تلبیے کے حافظ تھے۔ پھر بھی اس میں اپنی طرف سے زیادتی کی۔ چنانچہ یہ عمل اس کے لئے جواز پر دلالت کرتا ہے۔

باب ۵۵۹۔ تلبیہ اور قربانی کی فضیلت

باب ۵۵۹۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّلْبِيَةِ وَالنَّحْرِ

۷۲۵۔ حدثنا محمد بن رافع نا ابن ابی فديك وثنا اسحق بن منصور نا ابن فديك عن الضحاك بن

۲۵۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ سے پوچھا گیا کون سا حج افضل ہے۔ فرمایا: جس میں تلبیہ کی کثرت ہو اور خون زیادہ

بہایا جائے۔

عثمان عن محمد بن المنکدر بن یزید عن أبی بکر الصّدیق أنّ رسولَ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئلَ أيُّ الحجِّ أفضلُ قالَ العَجُّ والشَّجُّ

۷۲۶۔ حدثنا هنادنا اسمعيل بن عياش عن عمارة بن غزبية عن أبی حازم عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَلْبَسِي إِلَّا لَبِيٍّ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدْرٍ حَتَّى يَنْقُطَعَ الْأَرْضُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا

۷۲۶۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جب کوئی مسلمان تلبیہ کہتا ہے تو اس کے دائیں بائیں کے پتھر، اشجار اور کنکریاں یہاں تک کہ زمین کے تمام نباتات و جمادات اس کے ساتھ ”لبیک.....“ الخ کہنے لگتے ہیں۔

حسن بن محمد زعفرانی، عبد الرحمن بن اسود اور ابو عمر و بصری، عبیدہ بن حمید سے وہ عمارہ بن غزویہ سے وہ ابو حازم سے وہ سہل سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسامعیل بن عیاش کی حدیث کے مثل روایت کرتے ہیں۔ اس باب میں ابن عمر اور جابر سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابو بکرؓ کی حدیث غریب ہے، ہم اسے ابن ابی ندیک کی ضحاک بن عثمان سے روایت کے علاوہ نہیں جانتے۔ محمد بن منکدر، سعید بن عبد الرحمن بن یزید سے بھی ان کے والد کے حوالے سے اس کے علاوہ روایت کرتے ہیں۔ ابو نعیم طحان ضرار بن مردیہ حدیث ابن ابی ندیک سے وہ ضحاک سے وہ محمد بن منکدر سے وہ سعید بن عبد الرحمن بن یزید سے وہ اپنے والد سے وہ ابو بکرؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں لیکن ضرار نے اس میں غلطی کی ہے۔ امام ترمذی، احمد بن حسن کے حوالے سے کہتے ہیں کہ احمد اس شخص کے متعلق جو اس حدیث کو (محمد بن منکدر سے وہ سعید بن عبد الرحمن بن یزید سے اور وہ اپنے والد سے.....) اس سند سے روایت کرتا ہے کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ میں نے امام بخاری کے سامنے ضرار بن مردیہ کی ابن ابی ندیک سے روایت بیان کی تو فرمایا: کچھ نہیں۔ پس ان لوگوں نے اسے ابن ابی ندیک سے روایت کر دیا ہے اور سعید بن عبد الرحمن کو چھوڑ دیا ہے امام بخاری، ضرار بن مردیہ کو ضعیف کہتے ہیں۔

عج: تلبیہ زور سے پڑھنے اور حج: قربانی کو کہتے ہیں۔

باب ۵۶۰۔ تلبیہ بلند آواز سے پڑھنا۔

باب ۵۶۰۔ مَا جَاءَ فِي رُفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ

۷۲۷۔ حدثنا احمد بن منيع ناسفیان بن عيينة عن عبد الله ابی بکر عن عبد الملك بن ابی بکر بن عبد الرحمن عن خلاد بن السائب عن أبیہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا نِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْأَهْلَالِ أَوْ بِالتَّلْبِيَةِ

۷۲۷۔ حضرت خلاد بن ابی سائب اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: میرے پاس جبریلؑ آئے اور مجھے حکم دیا کہ میں اپنے صحابہ کو حکم دوں کہ تلبیہ بلند آواز سے پڑھیں۔ راوی کو شک ہے کہ ”الہلال“ فرمایا یا ”تلبیہ“ دونوں کے معنی ایک ہیں۔

امام ترمذی کہتے ہیں خلاد کی ان کے والد سے مروی حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض راوی اسے خلاد بن سائب سے زید بن خالد کے حوالے سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں یہ صحیح نہیں۔ خلاد کی اپنے والد سے روایت ہی صحیح ہے اور وہ خلاد بن سائب بن خلاد بن سوید انصاری ہیں۔ اس باب میں زید بن خالد، ابو ہریرہ اور ابن عباس سے بھی روایت ہے۔

باب ۵۶۱۔ احرام پہننے وقت غسل کرنا۔

۷۲۸۔ خارجہ بن زید بن ثابت اپنے والد سے نقل کرتے ہیں۔ کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ نے احرام باندھتے وقت اپنے کپڑے اتارے اور غسل کیا۔

امام ترمذی کہتے ہیں حدیث حسن غریب ہے بعض علماء احرام باندھتے وقت غسل کرنے کو مستحب کہتے ہیں۔ شافعی بھی اسی کے قائل ہیں۔

باب ۵۶۲۔ آفاقی کے لیے احرام باندھنے کی جگہ۔

۷۲۹۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم کہاں سے احرام باندھیں؟ فرمایا: اہل مدینہ ذوالحلیفہ سے، اہل شام جھ سے، اہل نجد قرن سے اور اہل یمن یملم سے احرام باندھیں۔

اس باب میں ابن عباس، جار بن عبد اللہ اور عبد اللہ بن عمرو سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر علماء کا عمل ہے۔

۷۳۰۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اہل مشرق کے لیے حقیق کو میقات مقرر فرمایا:

۷۳۰۔ حدثنا ابو کریب نا و کعب عن سفیان عن یزید بن ابی زید عن محمد بن علی عن ابی عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت لاهل المشرق العقیق امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔

باب ۵۶۳۔ محرم (احرام والے) کے لیے کیا پہننا جائز ہے۔

۷۳۱۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! حالت احرام میں ہم کون کون سے کپڑے پہن سکتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: قمیص، شلوار، برساتی، گپڑی اور موزے نہ پہنو۔ ہاں اگر کسی کے پاس جوتے نہ ہوں تو موزے پہن سکتا ہے لیکن انہیں ٹخنوں کے نیچے تک کاٹ دے۔ پھر ایسا کپڑا بھی نہ پہنو جس میں ورس یا زعفران لگا ہوا ہو اور عورت اپنے چہرے پر نقاب نہ ڈالے اور ہاتھوں میں دستانے نہ پہنے۔ (۱)

باب ۵۶۳۔ ماجاء فی مالا یحوز للمحرم لبسہ

۷۳۱۔ حدثنا قتیبة نا اللیث عن نافع عن ابی عمر انه قال قام رجل فقال یارسول اللہ ماذا تأمرنا ان نلبس من الثیاب فی الحرم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تلبس القمیص ولا السرا ویلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف الا ان یكون احد لیست له نعلان فلیلبس الخفین ولیقطعہما ما اسفل من الکعبین ولا تلبسوا شیئا من الثیاب مسہ الزعفران ولا الورس ولا تنقب المرأة المحرمة ولا

(۱) ورس: یہ گھاس کی ایک قسم ہے جس سے رنگائی کی جاتی ہے۔ (مترجم)

## تَلْبَسُ الْقَفَازِينَ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر علماء کا عمل ہے۔

باب ۵۶۴۔ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ السَّرَاوِيلِ وَالْخُفَيْنِ باب ۵۶۴۔ اگر لنگی اور جوتے نہ ہوں تو شلوار اور موزے پہن لے۔

لِلْمُحْرَمِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ وَالنَّعْلَيْنِ

۷۳۲۔ حدثنا أحمد بن عبدَةَ الضَّبِيِّ البَصْرِيُّ نا يزيد

بن زريع نا عمر بن دينار عن جابر بن زَيْدٍ عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ الْمُحْرَمُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ

قتیبہ، حماد بن زید سے عمرو کے حوالے سے اسی طرح روایت کرتے ہیں اس باب میں ابن عمرؓ اور جابرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام

ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض علماء اسی پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر لنگی نہ ہو تو شلوار اور اگر جوتے نہ ہوں تو موزے

پہن سکتا ہے۔ یہ امام احمد کا بھی قول ہے۔ بعض ابن عمرؓ کی مرفوع حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں: اگر جوتے نہ ہوں تو

موزے پہن سکتا ہے۔ بشرطیکہ انہیں ٹخنوں کے نیچے تک کاٹ دے۔ یہ سفیان ثوری اور شافعی کا قول ہے۔

باب ۵۶۵۔ مَا جَاءَ فِي الذِّئِي يُحْرِمُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ باب ۵۶۵۔ جو شخص قمیص یا جبہ پہن کر احرام باندھے۔

أَوْ جُبَّةً

۷۳۳۔ حدثنا قتيبة بن سعيد نا عبد الله بن ادریس

عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن يعلى

بن أمية قال رأى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أعرابياً قد أحرم وعليه جبة فامرته أن ينزعها

ابن ابی عمر بھی سفیان بن عمرو بن دینار سے وہ عطاء سے وہ صفوان بن یعلیٰ سے وہ اپنے والد سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی

حدیث کے ہم معنی روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ صحیح ہے۔ اور اس حدیث میں قصہ ہے۔ اسی طرح قتادہ، جاج بن اراطة

اور کئی راوی بھی عطاء سے یعلیٰ بن امیہ کے واسطے سے روایت کرتے ہیں لیکن صحیح عمر بن دینار اور ابن جریج کی ہی روایت ہے یہ دونوں

عطاء سے وہ صفوان بن یعلیٰ سے اور وہ اپنے والد سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں۔

باب ۵۶۶۔ مَا جَاءَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرَمُ مِنَ الدَّوَابِّ

۷۳۴۔ حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابی

الشوارب نا يزيد بن زريع نا معمر عن الزهري عن

عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ

عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم الفارة

والعقرب والغراب والحديا والكلت العقور

باب ۵۶۶۔ محرم کا کن جانوروں کو مارنا جائز ہے۔

۷۳۴۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: احرام میں

پانچ چیزوں کو مارنا جائز ہے۔ چوہا، بچھو، کوا، چیل اور کانٹے والا کتا۔

اس باب میں ابن مسعود، ابن عمر، ابو ہریرہ، ابو سعید اور ابن عباس سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۷۳۵۔ حدثنا احمد بن منيع نا هشيم نايزيد بن ابى زياد عن ابن ابي نعيم عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفارة والعقرب والحداة والغراب

۷۳۵۔ حضرت ابو سعیدؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: محرم کے لیے درندے، کائٹنے والے کتے، بچھو، چیل اور کوءے کو مارنا جائز ہے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے علماء اسی پر عمل کرتے اور کہتے ہیں کہ درندے اور کائٹنے والے کتے کو قتل کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ سفیان ثوری اور شافعی کا یہی قول ہے۔ جب کہ شافعی مزید کہتے ہیں کہ جو درندہ، انسان یا جانور پر حملہ آور ہوتا ہے اس کو مارنا بھی جائز ہے۔

باب ۵۶۷۔ محرم کا پچھنے لگانا۔

باب ۵۶۷۔ مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ

۷۳۶۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے احرام کی حالت میں پچھنے لگائے۔

۷۳۶۔ حدثنا قتيبة نا سفیان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاؤس وعطاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم

اس باب میں انسؓ، عبداللہ بن بچینہ اور جاہل سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے بعض علماء محرم کو پچھنے لگانے کی اجازت دیتے ہیں بشرطیکہ بال نہ موٹا ہے۔ امام مالک بھی بوقت ضرورت اس کی اجازت دیتے ہیں جب کہ امام شافعی اور سفیان ثوری کے نزدیک اگر بال نہ اکھاڑے جائیں تو پچھنے لگانے میں کوئی حرج نہیں۔

باب ۵۶۸۔ احرام کی حالت میں نکاح کرنے کی کراہت۔

باب ۵۶۸۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ تَزْوِيجِ الْمُحْرِمِ

۷۳۷۔ حدیثنا احمد بن منيع نا اسمعيل بن عليه نا ايوب عن نافع عن نبيه بن وهب قال اراد بن معمر ان ينكح ابنة قبيصة الى ابان بن عثمان وهو امير المؤمنين فقلت ان احاك يريد ان ينكح ابنة فاحب ان يشهدك على ذلك فقال لا اراه الا اعرايا جافيا ان المحرم لا ينكح ولا ينكح او كما قال ثم حدث عن عثمان مثله يرفعه

۷۳۷۔ نبیہ بن وہب کہتے ہیں کہ ابن مسعود نے اپنے بیٹے کی شادی کا ارادہ کیا تو مجھے امیرج ابان بن عثمان کے پاس بھیجا۔ میں گیا اور کہا کہ آپ کے بھائی اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی چاہت ہے کہ آپ اس بات پر گواہ ہوں۔ فرمایا: وہ گوار اور بے عقل شخص ہیں۔ محرم نہ خود نکاح کر سکتا ہے اور نہ کسی کا کروا سکتا ہے۔ یا اسی طرح کچھ کہا۔ پھر عثمان سے مرفوعاً اسی کے مثل روایت بیان کی۔

اس باب میں ابورافع اور میمونہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی اس حدیث کو حسن صحیح کہتے ہیں۔ بعض صحابہ کا اسی پر عمل ہے جن میں حضرت عمر بن خطابؓ، علیؓ اور ابن عمرؓ شامل ہیں پھر بعض فقہاء تابعین، امام مالک، شافعی، احمد اور اسحاق بھی احرام کی حالت میں نکاح کرنے کو ناجائز سمجھتے ہیں ان کے نزدیک اگر نکاح کر لیا جائے تو باطل ہے۔

۷۳۸۔ حضرت ابورافعؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے میمونہ کے ساتھ بغیر حالت احرام نکاح کیا پھر جب صحبت کی تب بھی احرام سے

۷۳۸۔ حدثنا قتيبة نا احمد نا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن ابى عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن ابي رافع قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو

نہیں تھے میں دونوں کے درمیان پیغامبر تھا۔

هَلَالٌ وَكُنْتُ اَنَا الرَّسُولُ فَيَمَّا بَيْنَهُمَا

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حماد بن زید کے بحوالہ راق ربیعہ سے روایت کرنے کے علاوہ ہمیں اس کی سند کے اتصال کا علم نہیں۔ مالک بن انس، ربیعہ سے اور وہ سلیمان بن یسار سے روایت کرتے ہیں کہ ”آنحضرت ﷺ نے میمونہ سے نکاح حلال ہوتے ہوئے کیا تھا“۔ مالک اسے مرسل روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح سلیمان بن بلال بھی ربیعہ سے مرسل روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح سلیمان بن بلال بھی ربیعہ سے مرسل روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں: یزید بن اصم سے میمونہ کے حوالے سے مروی ہے کہ ”آنحضرت ﷺ نے حلال ہونے کی حالت میں مجھ سے نکاح کیا“۔ جب کہ بعض راوی یزید بن اصم سے روایت کرتے ہیں کہ ”آنحضرت ﷺ نے میمونہ سے نکاح کیا تو وہ حلال تھے“۔ امام ترمذی کہتے ہیں: یزید بن اصم: میمونہ کے بھانجے ہیں۔

باب ۵۶۹۔ محرم کے لیے نکاح کی اجازت

باب ۵۶۹۔ مَا جَاءَ فِي الرُّحْصَةِ فِي ذَلِكَ

۷۳۹۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے میمونہ سے

۷۳۹۔ حَدَّثَنَا حُمَيْدَةُ بْنُ مَسْعُودَةَ نَا سَفِيَانَ بْنَ

محرم ہوتے ہوئے نکاح کیا۔

حَبِيبٍ عَنِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنِ عِكْرِمَةَ عَنِ

ابن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ

مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

اس باب میں حضرت عائشہ سے بھی مروی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عباس کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر علماء کا عمل ہے۔

سفيان ثوري اور اہل کوفہ بھی اسی کے قائل ہیں۔

۷۴۰۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ

عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نے میمونہ سے نکاح کیا تو آپ ﷺ حالت احرام میں تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

تھے۔

قتیبہ، داؤد بن عبد الرحمن عطار سے وہ عمرو بن دینار سے اور وہ ابوشعاع سے حضرت ابن عباس کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ

”حضور ﷺ نے میمونہ سے نکاح حالت احرام میں کیا تھا“۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ ابوشعاع کا نام جابر بن زید ہے۔ علماء کا

آنحضرت ﷺ کے میمونہ سے نکاح کے متعلق اختلاف ہے۔ اس لیے کہ آنحضرت ﷺ نے ان سے مکہ کے راستے میں نکاح کیا تھا۔ بعض

کہتے ہیں: نکاح حلال ہوتے ہوئے ہوا لیکن لوگوں کو اس کا پتہ محرم ہونے کی حالت میں چلا۔ پھر دخول بھی حلال ہونے کی حالت میں ہی

سرف (ایک مقام کا نام) کے مقام پر مکہ میں ہوا۔ حضرت میمونہ کی وفات بھی سرف میں ہی ہوئی اور وہیں دفن ہوئیں۔

۷۴۱۔ حضرت میمونہ فرماتی کہ آنحضرت ﷺ نے مجھ سے نکاح بھی اور

۷۴۱۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا وَهَبُ بْنُ جَرِيرٍ

مجاہد بھی حلال ہوتے ہوئے ہی فرمائی تھی۔ راوی کہتے ہیں: پھر

نَا ابِي قَالَ سَمِعْتُ ابا فزارة يحدث عن يزيد بن

میمونہ سرف کے مقام پر فوت ہوئیں اور ہم نے انہیں اسی اقامت گاہ

الاصم عن ميمونة ان رسول الله صلى الله عليه

میں دفن کیا جہاں آپ ﷺ نے ان سے مجاہد کی تھی۔

وسلم تزوجها وهو حلال وبنى بها حلالا وماتت

بسرف ودفنناها في الظلة التي بنى بها فيها

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث غریب ہے اور کئی راویوں نے یزید بن عاصم سے مرسل روایت کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے میمونہ سے نکاح کیا تو حلال تھے۔

باب ۵۷۰۔ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ

باب ۵۷۰۔ محرم کا شکار کا گوشت کھانا۔

۷۴۲۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ

۷۴۲۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: حالت احرام

عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُو بْنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ

میں اگر تم نے خود یا کسی نے تمہارے لیے شکار نہ کیا ہو تو تمہارے لیے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَيْدُ الْبَيْرِ لَكُمْ حَلَالٌ

حلال ہے۔

وَأَنْتُمْ حُرْمٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدِّكُمْ

اس باب میں ابوقادہ اور طلحہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: جابر کی حدیث مفتر ہے۔ مطلب کے جابر سے سماع کا ہمیں علم نہیں۔ علماء اسی پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں: محرم کے شکار کا گوشت کھانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ بشرطیکہ اس نے خود یا صرف اسی کے لیے نہ شکار کیا گیا ہو۔ امام شافعی کہتے ہیں یہ حدیث اس باب کی احسن، اور قیاس کے سب سے زیادہ موافق حدیث ہے اور اسی پر عمل ہے۔ احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

۷۴۳۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي

۷۴۳۔ حضرت ابوقادہ فرماتے ہیں کہ میں اور صحابہ آنحضرت ﷺ کے

سَاتِحًا مَكَهًا جَارًا هُوَ تَحْتَهُ مَكَةٌ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ

ساتھ مکہ جا رہے تھے جب مکہ کے قریب پہنچے تو میں اپنے کچھ ساتھیوں

كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ

کے ساتھ پیچھے رہ گیا۔ صرف میں احرام میں نہیں تھا جب کہ باقی سب

بِبَعْضِ طَرِيقٍ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ

احرام میں تھے، چنانچہ ابوقادہ نے ایک وحشی گدھے کو دیکھا تو اپنے

وَهُوَ غَيْرٌ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَارًا وَحَشِيًّا فَاسْتَوَى عَلَيَّ

گھوڑے پر چڑھ گئے اور ساتھیوں سے نیزہ مانگا۔ انہوں نے انکار

فَرَسِهِ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا

کر دیا۔ پھر کوڑا مانگا تو بھی انہوں نے نہیں دیا۔ پھر خود ہی لیا اور اس

فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا عَلَيْهِ فَأَخَذَ فَشَدَّ عَلَيَّ الْحِمَارِ

گدھے کی طرف دوڑے اور اسے قتل کر دیا بعض صحابہ نے اس میں

فَقَتَلَهُ فَأَكَلْتُ مِنْهُ بَعْضٌ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

سے کھایا اور بعض نے انکار کر دیا۔ جب آنحضرت ﷺ کے پاس پہنچے

وَسَلَّمَ وَأَبَى بَعْضُهُمْ فَأَدْرَكُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اور اس کے متعلق پوچھا تو فرمایا: وہ تو کھانا تھا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں

وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ

کھلایا۔

أَطَعَمَكُمْ مَوْهَا اللَّهُ

قتیبہ، مالک سے وہ یزید بن اسلم سے وہ عطاء بن یسار سے اور وہ قنادہ سے وحشی گدھے کے متعلق ابوالضر کی حدیث کے مثل روایت کرتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے کچھ باقی ہے؟ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۵۷۱۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ

باب ۵۷۱۔ محرم کے لیے شکار کا گوشت کھانا مکروہ ہے۔

۷۴۴۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ

۷۴۴۔ حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ، ابن عباس سے اور وہ صعوب بن

عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ الصَّعْبَ

جثامہ سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ صعوب کو ابواء یا وذان

(دونوں مقام مکہ اور مدینہ کے درمیان ہیں) ساتھ لے کر گئے تو وہ آنحضرت ﷺ کے لیے ایک وحشی گدھالائے۔ آنحضرت ﷺ نے واپس کر دیا لیکن جب آنحضرت ﷺ نے ان کے چہرے پر کراہت کے آثار دیکھے تو فرمایا: یہ میں نے اس لیے واپس کیا ہے کہ ہم احرام میں ہیں۔ چنانچہ مجبوری کی وجہ سے واپس کیا ہے۔

بْنِ حَتَّامَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بَوْدَانَ فَأَهْدَى لَهُ جِمَارًا وَحَشِيًّا فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِنَارِدٌ عَلَيْكَ وَلَكِنَّا حُرْمٌ

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء اور صحابہ کی ایک جماعت اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے محرم کے لیے شکار کا گوشت کھانے کو مکروہ سمجھتی ہے امام شافعی کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اسے اس لیے واپس کر دیا تھا کہ ان کے خیال میں صعب نے اسے انہی کے لیے شکار کیا تھا اور آپ ﷺ کا اسے ترک کرنا تنزیہاً ہے۔ زہری کے بعض ساتھی بھی اسے زہری سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ”صعب نے وحشی گدھے کا گوشت ہدیے میں پیش کیا تھا۔ لیکن یہ غیر محفوظ ہے اس باب میں حضرت علیؓ اور زید بن ارقم سے بھی روایت ہے۔

باب ۵۷۲۔ محرم کیلئے سمندری جانوروں کا شکار حلال ہے۔

باب ۵۷۲۔ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْبَحْرِ لِلْمُحْرِمِ

۷۴۵۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں: ہم آنحضرت ﷺ کے ساتھ حج یا عمرے کے لیے نکلے تو ہمارے سامنے ٹنڈی دل آگیا۔ چنانچہ ہم نے انہیں لائیوں اور کوزوں سے مارنا شروع کر دیا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اسے کھاؤ یہ تو پانی کا شکار ہے۔

۷۴۵۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ نَا وَكَيْعٌ عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلْمَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَزَّمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَاسْتَقْبَلْنَا رَجُلٌ مِنْ جَرَادٍ فَجَعَلْنَا نَضْرِبُهُ بِأَسْيَاطِنَا وَعَصَبِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّوهُ فَإِنَّهُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے ہم اسے ابو ہریرہؓ کی حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کے علاوہ نہیں جانتے۔ ان کا نام زید بن سفیان ہے۔ شعبہ نے ان کے متعلق کلام کیا ہے۔ علماء کی ایک جماعت محرم کے لیے ٹنڈی کو شکار کر کے کھانے کی اجازت دیتی ہے جب کہ بعض علماء کہتے ہیں: اگر محرم ٹنڈی کو کھائے یا اس کا شکار کرے گا تو اس پر صدقہ واجب ہو جائے گا۔

باب ۵۷۳۔ محرم کے لیے بچو کا حکم۔ (۱)

باب ۵۷۳۔ مَا جَاءَ فِي الصَّبْعِ يُصَيِّبُهَا الْمُحْرِمُ

۷۴۶۔ حضرت ابن ابی عمار فرماتے ہیں میں نے جابر بن عبد اللہ سے پوچھا کیا بچو شکار ہے؟ فرمایا: ہاں۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا میں اسے کھا سکتا ہوں؟ فرمایا: ہاں۔ میں نے پوچھا کیا یہ آنحضرت ﷺ کا فرمان ہے؟ فرمایا: ہاں۔

۷۴۶۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا اسْمَعِيلُ بْنُ الْإِبْرَاهِيمِ نَا ابْنِ جَرِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ ابْنِ أَبِي عَمْرٍاءَ قَالَ قُلْتُ لِحَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الصَّبْعُ أَصِيدٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ أَكَلُهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ أَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ

(۱) بچو: ایک جانور ہے جو مردار کھاتا ہے اور اس کا شمار ذی ناب و ذی مخلب میں ہوتا ہے۔ جس کی حرمت حدیث صحیح سے ثابت ہے جو ابواب الاطعمہ میں آ رہی

ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ علی، یحییٰ بن سعید کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جریر بن حازم یہ حدیث روایت کرتے ہوئے بحوالہ جابر، حضرت عمرؓ سے روایت کرتے ہیں۔ ابن جریج کی حدیث اصح ہے اور یہی احمد اور اسحاق کا قول ہے۔ علماء کا اسی حدیث پر عمل ہے کہ محرم اگر نوجو کا شکار کرے تو اس پر جزاء ہے۔

باب ۵۷۴۔ مَا جَاءَ فِي الْإِعْتِسَالِ لِذُحُولِ مَكَّةَ

باب ۵۷۴۔ مکہ داخل ہونے کے لیے غسل

۷۴۷۔ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ مُوسَىٰ أَخْبَرَنِي هَارُونَ بْنُ

۷۴۷۔ حضرت ابن عمرؓ نے مکہ داخل ہونے سے پہلے فنج کے مقام پر

صَالِحٌ نَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ اسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ

غسل کیا۔

ابْنِ عُمَرَ قَالَ اغْتَسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لِذُحُولِ مَكَّةَ بِفَنَجٍ

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث غیر محفوظ ہے۔ صحیح وہی ہے جو نافع سے مروی ہے کہ ابن عمرؓ مکہ جانے کے لیے غسل کیا کرتے تھے۔ شافعی کا بھی یہی قول ہے کہ مکہ جانے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ عبدالرحمن بن زید بن اسلم ضعیف ہیں۔ علی بن مدینی اور احمد بن حنبل انہیں ضعیف کہتے ہیں اور ہم اس حدیث کو صرف انہی کی روایت سے مرفوع جانتے ہیں۔

باب ۵۷۵۔ مَا جَاءَ فِي ذُحُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

باب ۵۷۵۔ آنحضرت ﷺ مکہ میں بلندی کی طرف سے داخل اور پستی

وَسَلَّمَ مَكَّةَ مِنْ أَعْلَاهَا وَخَرُوجِهِ مِنْ أَسْفَلِهَا

کی طرف سے باہر نکلے۔

۷۴۸۔ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا

۷۴۸۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں جب آنحضرت ﷺ مکہ گئے تو بلندی

سَفِيَانَ بْنِ عَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ

عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِلَى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا

اس باب میں ابن عمرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۵۷۶۔ مَا جَاءَ فِي ذُحُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

باب ۵۷۶۔ آنحضرت ﷺ مکہ میں دن میں داخل ہوئے۔

وَسَلَّمَ نَهَارًا

۷۴۹۔ حَدَّثَنَا يَوْسُفُ بْنُ عَيْسَىٰ نَا وَكَيْعٌ نَا

۷۴۹۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ مکہ میں دن کے

الْعُمَرَىٰ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ نَهَارًا

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۵۷۷۔ مَا جَاءَ فِي كِرَاهِيَةِ رَفْعِ الْيَدِ عِنْدَ رُؤْيَةِ

باب ۵۷۷۔ بیت اللہ پر نظر پڑنے پر ہاتھ اٹھانے کی کراہت۔

النَّبِيِّ

۷۵۰۔ حَدَّثَنَا يَوْسُفُ بْنُ عَيْسَىٰ نَا وَكَيْعٌ نَا شُعْبَةَ عَنْ

۷۵۰۔ مہاجر کی کہتے ہیں کہ جابر بن عبد اللہؓ سے بیت اللہ کو دیکھنے پر

ابی قرعۃ الباہلی عن المہاجر المکبّی قال سئل جابر بن عبد اللہ ارفع الرجل یدیه اذا رأى البیت فقال حجاجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افکننا نفعلہ

ہاتھ اٹھانے سے متعلق پوچھا گیا۔ تو فرمایا: ہم نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ حج کیا۔ کیا ہم ہاتھ اٹھایا کرتے تھے؟

امام ترمذی کہتے ہیں: بیت اللہ کو دیکھنے پر رفع یدین کی کراہت کے متعلق ہم صرف شعبہ کی ابو قزحہ سے روایت سے ہی جانتے ہیں

ان کا نام: سوید بن حجر ہے۔

باب ۵۷۸۔ طواف کی کیفیت۔

باب ۵۷۸۔ مَا جَاءَ كَيْفَ الطَّوَّافِ

۷۵۱۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں: جب حضور اکرم ﷺ مکہ آئے تو مسجد حرام میں داخل ہوئے اور حجر اسود کو بوسہ دیا اور پھر وہی طرف چل دیئے پھر تین چکروں میں رمل (۱) کیا اور چار چکروں میں (عادت کے مطابق) چلے۔ پھر مقام ابراہیمؑ کے پاس آئے اور فرمایا: مقام ابراہیمؑ پر نماز پڑھو پھر آپ ﷺ نے یہاں دو رکعت نماز پڑھی۔ اس وقت مقام ابراہیمؑ آپ ﷺ اور بیت اللہ کے درمیان تھا۔ پھر حجر اسود کی طرف آئے اور اسے بوسہ دیا۔ پھر صفا کی طرف چلے گئے۔ راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی ”ان الصفا والمروة.....“ الآیۃ۔ یعنی صفا اور مردہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔

۷۵۱۔ حدثنا محمود بن غيلان نا يحيى بن ادم نا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى اربعا ثم اتى المقام فقال واتخذوا من مقام ابراهيم مضى فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البیت ثم اتى الحجر بعد الركعتين فاستلمه ثم خرج الى الصفا اظنه قال ان الصفا والمروة من شعائر الله

اس باب میں ابن عمرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث جابرؓ حسن صحیح ہے اور علماء کا اسی پر عمل ہے۔

باب ۵۷۹۔ حجر اسود سے رمل شروع کرنا اور اسی پر ختم کرنا۔

باب ۵۷۹۔ مَا جَاءَ فِي الرَّمْلِ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ

۷۵۲۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے حجر اسود سے رمل شروع کیا اور تین چکروں کے بعد اسی پر ختم کیا پھر چار چکر اپنی عادت کے مطابق چل کر پورے کیے۔

۷۵۲۔ حدثنا علي بن خشرم نا عبد الله بن وهب

عن مالك ابن انس عن جعفر بن محمد عن أبيه

عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من

الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى اربعا

باب ۵۸۰۔ حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ کسی چیز کو بوسہ نہ دے۔

باب ۵۸۰۔ مَا جَاءَ فِي اسْتِلامِ الْحَجَرِ وَالرُّكْنِ

الْيَمَانِيِّ دُونَ مَا سِوَاهُمَا

۷۵۳۔ حضرت ابو طفیلؓ فرماتے ہیں کہ ہم ابن عباسؓ اور معاویہؓ کے ساتھ طواف کر رہے تھے۔ معاویہؓ جب بھی کسی کونے سے گزرتے اسے بوسہ دیتے۔ اس پر ابن عباسؓ نے فرمایا: آنحضرت ﷺ حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ کسی چیز کو بوسہ نہیں دیتے تھے۔ حضرت معاویہؓ

۷۵۳۔ حدثنا محمود بن غيلان نا عبدالرزاق نا

سفين ومعمّر عن ابن خنيم عن أبي الطفيل قال كنا

مع ابن عباس ومعاوية لا يمر بركن إلا استلمه

فقال له ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم لم

(۱) رمل: اکڑ تیز تیز چلنے، قدم زد یک نزدیک رکھنے اور جلدی جلدی اٹھانے کو کہتے ہیں۔ (مترجم)

يَكُنْ يَسْتَلِمُ إِلَّا الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ  
فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لَيْسَ شَيْءٌ مِّنَ الْبَيْتِ مَهْجُورًا

نے فرمایا: بیت اللہ میں سے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑنی چاہئے۔

اس باب میں عمرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اکثر علماء اسی پر عمل کرتے ہیں۔ کہ حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ کسی چیز کو بوسہ نہ دے۔

باب ۵۸۱۔ مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ مُضْطَبِعًا

باب ۵۸۱۔ آنحضرت ﷺ نے اضطباع کی حالت میں طواف کیا۔ (۱)

۷۵۴۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا قَبِيصَةَ عَنْ سَفِيَانَ عَنْ ابْنِ جَرِيحٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ مُضْطَبِعًا وَعَلَيْهِ بُرْدٌ

۷۵۴۔ حضرت ابن ابی یعلیٰ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، کہ آنحضرت ﷺ نے حالت اضطباع میں طواف کیا اور آپ ﷺ کے بدن پر ایک چادر تھی۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث ثوری کی ابن جریج سے ہے، ہم اسے ان کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عبد الحمید: عبد الحمید بن جمیر بن شیبہ اور..... یعلیٰ: یعلیٰ بن امیہ ہیں۔

باب ۵۸۲۔ مَا جَاءَ فِي تَقْبِيلِ الْحَجَرِ

باب ۵۸۲۔ حجر اسود کو بوسہ دینا۔

۷۵۵۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَائِشِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ إِنِّي أَقْبَلْتُكَ وَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْ لَا إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ لَمْ أَقْبَلُكَ

۷۵۵۔ عابس بن ربیعہ فرماتے ہیں میں نے عمر بن خطابؓ کو حجر اسود کو بوسہ دیتے اور یہ کہتے ہوئے سنا: میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے۔ اگر میں نے رسول اللہ ﷺ کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔

امام ترمذی کہتے ہیں: حضرت عمرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر علماء کا عمل ہے کہ حجر اسود کا بوسہ لینا مستحب ہے اگر اس تک پہنچنا ممکن نہ ہو تو ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو چوم لے اور اگر ایسا بھی ممکن نہ ہو تو اس کے سامنے ہو کر تکبیر کہے یہ امام شافعی کا قول ہے۔

باب ۵۸۳۔ مَا جَاءَ أَنَّهُ يُبَدَأُ بِالْصَّفَا قَبْلَ الْمَرْوَةِ

باب ۵۸۳۔ سحی صفا سے شروع کرنا۔

۷۵۶۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍَا سَفِيَانَ بْنِ عَيْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَآتَى الْمَقَامَ فَقَرَأَ وَاتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ آتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ قَالَ بُدَأَ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالْصَّفَا وَقَرَأَ "إِنَّ الصَّفَا

۷۵۶۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں: جب آنحضرت ﷺ مکہ تشریف لائے تو بیت اللہ کا طواف کیا۔ پھر مقام ابراہیمؑ پر آئے اور یہ آیت پڑھی "واتخذوا من مقام ابراہیم مصلیٰ" پھر مقام ابراہیمؑ کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد حجر اسود کی طرف آئے اور اسے بوسہ دیا۔ پھر فرمایا: ہم بھی اسی طرح شروع کرتے ہیں جس طرح اللہ نے شروع کیا اور صفا کی سحی شروع کرتے ہوئے یہ آیت پڑھی "ان الصفا والمروة....."

(۱) اضطباع سے مراد یہ ہے کہ چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے گزار کر دونوں کونے یا ایک کونہ بائیں کندھے پر ڈالا جائے۔ (مترجم)

وَالْمَرَوَّةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ“  
 آیہ یعنی صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور اسی پر علماء کا عمل ہے کہ سعی میں صفا سے شروع کرے لہذا اگر مروہ سے شروع کرے گا تو سعی نہیں ہوگی علماء کا اس شخص کے متعلق اختلاف ہے جو طواف کعبہ کر کے بغیر سعی کیے واپس آجائے بعض علماء کہتے ہیں اگر طواف کعبہ کیا اور سعی صفا و مروہ کیے بغیر مکہ سے نکل گیا تو اگر وہ قریب ہی ہو تو واپس جائے اور سعی کرے اگر اپنے وطن پہنچنے تک یاد نہ آئے تو دم کے طور پر قربانی کرے یہ سفیان ثوری کا قول ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اگر وہ سعی کیے بغیر اپنے وطن واپس پہنچ جائے تو اس کا حج نہیں ہوا۔ یہ امام شافعی کا قول ہے۔ ان کے نزدیک سعی صفا و مروہ واجب ہے اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔

باب ۵۸۴۔ مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرَوَّةِ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا۔

۷۵۷۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا ابْنِ عِيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاءٍ وَوَسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّمَا سَعَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرَوَّةِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِيْنَ قُوَّةَهُ

۷۵۷۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں: آنحضرت ﷺ نے بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی مشرکین پر اپنی قوت ظاہر کرنے کے لیے کی۔ (۱)

اس باب میں عائشہ، ابن عمر اور جابر سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے علماء صفا اور مروہ میں دوڑ کر چلنے کو مستحب کہتے ہیں۔ لیکن آہستہ چلنا بھی جائز ہے۔

۷۵۸۔ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسَى نَا ابْنِ فُضَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ كَثِيْرٍ بْنِ جُمُهَانَ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمْشِي فِي الْمَسْعَى فَقُلْتُ لَهُ اَتَمْشِي فِي الْمَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرَوَّةِ فَقَالَ لَيْنُ سَعَيْتُ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَى وَلَيْنُ مَشَيْتُ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي وَاَنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ

۷۵۸۔ حضرت کثیر بن جہان فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کو صفا و مروہ کی سعی کے دوران آہستہ چلتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کیا آپ یہاں آہستہ چلتے ہیں؟ فرمایا اگر میں دوڑوں تو بے شک میں نے آنحضرت ﷺ کو دوڑتے ہوئے دیکھا ہے اور اگر آہستہ چلوں تو میں نے آنحضرت ﷺ کو آہستہ چلتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اور میں بہت بوڑھا ہوں۔ (۲)

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سعید بن جبیر بھی عبد اللہ بن عمر سے ایسے ہی روایت کرتے ہیں۔

باب ۵۸۵۔ مَا جَاءَ فِي الطَّوَافِ رَاكِبًا سواری پر طواف کرنا۔

۷۵۹۔ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ هَلَالٍ الصَّوَّافِ نَا عَبْدِ الْوَارِثِ وَعَبْدُ الْوَهَّابُ الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِ عَنْ عِكْرِمَةَ

۷۵۹۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر طواف کیا۔ چنانچہ جب حجر اسود کے سامنے پہنچتے تو اس کی

(۱) صفا و مروہ کے درمیان ایک ٹکڑے کو ”بطن مسیل“ کہتے ہیں۔ اس کے دونوں سروں پر نشان لگے ہوئے ہیں۔ سعی کے دوران ان نشانوں کے درمیان تیز چلنا تمام علماء کے نزدیک مستحب ہے۔ (مترجم)

(۲) اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ ”بطن مسیل“ میں آہستہ بھی چلے۔ تاکہ لوگ عذر کے وقت اس کے جواز سے واقف ہو جائیں۔ لہذا ابن عمر نے اپنے متعلق یہ کہہ کر کہ میں بوڑھا ہوں یہی ظاہر کیا ہے کہ میں اب دوڑ نہیں سکتا اور چلنا بھی جائز ہے۔ (مترجم)

عن ابن عباس قال طاف النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طرف اشاره کر دیتے تھے۔  
عَلَى رَأْسِهِ فَإِذَا أَتَى إِلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ

اس باب میں جابر، ابو طفیل اور ام سلمہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابن عباس کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض علماء صفا و مروہ کی سعی اور بیت اللہ کا طواف بغیر عذر کے سواری پر کرنے کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ شافعی بھی اسی کے قائل ہیں۔

باب ۵۸۶۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الطَّوَافِ طواف کی فضیلت

۷۶۰۔ حَدَّثَنَا سَفِيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ نَاحِيَةَ بَنِي يَمِيْنٍ عَنْ شَرِيْكَ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ جَبْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ حَمْسِينَ مَرَّةً حَرَّجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

۷۶۰۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا جس شخص نے بیت اللہ کا پچاس مرتبہ طواف کیا وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو گیا جیسے کہ اس کی ماں نے ابھی جنا۔

اس باب میں حضرت انس اور ابن عمر سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے۔ میں نے اس کے متعلق امام بخاری سے پوچھا تو فرمایا: اس طرح کا قول ابن عباس ہی سے مروی ہے یعنی ان کا اپنا قول ہے۔ ابن ابی عمر، سفیان بن عیینہ سے اور وہ ایوب سے روایت کرتے ہیں کہ محدثین عبداللہ بن سعید بن جبیر کو ان کے والد سے افضل سمجھتے تھے۔ ان کا ایک بھائی عبدالملک بن سعید بن جبیر بھی ہے ان سے بھی روایت کرتے ہیں۔

باب ۵۸۷۔ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ فِي الطَّوَافِ لِمَنْ يَطُوفُ

باب ۵۸۷۔ عصر اور فجر کے بعد طواف کے دو نفل پڑھنا۔

۷۶۱۔ حَدَّثَنَا أَبُو عَمَارٍ وَعَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ قَالَا نَا سَفِيَانُ بْنُ عَيِّنَةَ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْتَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى آيَةَ سَاعَةِ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ

۷۶۱۔ حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اے بنو عبد مناف جو شخص اس گھر کا طواف کرے اور دن یا رات کے کسی حصے میں بھی نماز پڑھے اسے منع نہ کر دو۔

اس باب میں ابن عباس اور ابو ذر سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: جبیر بن مطعم کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اے عبداللہ بن ابی نجیح بھی عبداللہ بن باباہ سے روایت کرتے ہیں۔ علماء کا عصر اور فجر کے بعد مکہ میں نماز پڑھنے میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک عصر اور فجر کے بعد طواف کرنے اور نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ شافعی، احمد اور اسحاق اسی کے قائل ہیں۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اگر عصر کے بعد طواف کرے تو غروب آفتاب تک نماز نہ پڑھے۔ ان کی دلیل حضرت عمر کی حدیث ہے کہ انہوں نے فجر کے بعد طواف کیا اور نماز پڑھے بغیر مکہ سے نکل آئے یہاں تک کہ ذی طوی کے مقام پر پہنچے اور طلوع آفتاب کے بعد طواف کے نوافل ادا کیے۔ یہ سفیان ثوری اور مالک بن انس کا قول ہے۔

باب ۵۸۸۔ مَا جَاءَ مَا يُقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ

۷۶۲۔ حَدَّثَنَا أَبُو مَصْعَبٍ قَرَأَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ  
عِمْرَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ  
عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي  
رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ بِسُورَتِي الْإِخْلَاصِ قُلْ يَا أَيُّهَا  
الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

باب ۵۸۸۔ طواف کے دو نظلوں میں کیا پڑھا جائے۔

۷۶۲۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے  
طواف کی نماز کی ایک رکعت میں ”قل یا ایہا الکافرون“ اور دوسری  
میں ”قل هو اللہ احد پڑھی۔“

ہنا، کعب سے وہ سفیان سے وہ جعفر بن محمد سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ”ان کے نزدیک طواف کے نوازل میں ”قل  
یا ایہا الکافرون“ اور ”قل هو اللہ احد“ پڑھنا مستحب ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث عبد العزیز بن عمران کی حدیث سے اسح ہے۔  
اور جعفر بن محمد کی اپنے والد سے مروی حدیث حضرت جابرؓ سے مروی روایت ہے اور عبد العزیز بن عمران محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔

باب ۵۸۹۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الطَّوَافِ عُرْيَانًا

۷۶۳۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ نَا سَفِيَانَ بْنَ عَيْنَةَ  
عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي عَتِيَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيًّا بَابِي  
شَيْءٌ يُعْتَبَرُ قَالَ بَارِعٌ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ  
مُسْلِمَةٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَلَا يَجْتَمِعُ  
الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَمَنْ كَانَ  
بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَعَهْدُهُ  
إِلَى مُدَّتِهِ وَمَنْ لَا مُدَّةَ لَهُ فَارْبَعَةَ أَشْهُرٍ

باب ۵۸۹۔ ننگے طواف کرنا حرام ہے۔

۷۶۳۔ زید بن اشج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علیؓ سے پوچھا آپ  
آنحضرت ﷺ کی طرف سے کن چیزوں کا حکم دے کر بھیجے گئے تھے فرمایا: چار  
چیزوں کا۔ ایک یہ کہ جنت میں صرف مسلمان ہی داخل ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ  
بیت اللہ کا طواف عریانی کی حالت میں نہ کیا جائے۔ تیسرا یہ کہ اس سال کے  
بعد مسلمان اور مشرک حج میں اکٹھے نہیں ہوں گے اور چوتھے یہ کہ آنحضرت  
ﷺ اور جس کسی کے درمیان بھی کوئی عہد و پیمان ہے وہ اپنی مقرر مدت تک رہے  
گا۔ اور اگر کوئی مدت مقرر نہ ہو تو اس کے لیے چار ماہ تک کی مہلت ہے۔

اس باب میں ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: حضرت علیؓ کی حدیث حسن ہے۔ ابن ابی عمر، اور نصر بن علی،  
سفیان سے اور وہ ابواسحاق سے اسی کے مثل روایت کرتے ہوئے زید بن اشج کہتے ہیں اور یہ اسح ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: شعبہ کو اس  
میں وہم ہو گیا ہے چنانچہ وہ زید بن اشج کہتے ہیں۔

باب ۵۹۰۔ مَا جَاءَ فِي دُخُولِ الْكُعْبَةِ

۷۶۴۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍو نَا وَكَيْعٌ عَنْ اسْمَعِيلِ بْنِ  
عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ ابْنِ أَبِي مَلِيكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَ  
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِي وَهُوَ قَرِيرٌ الْعَيْنِ  
طِيبُ النَّفْسِ قَرَجَعَ إِلَيَّ وَهُوَ حَزِينٌ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ  
إِنِّي دَخَلْتُ الْكُعْبَةَ وَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ فَعَلْتُ لِنَبِيِّ  
أَخَافُ أَنْ أَكُونَ أَتَعِبْتُ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي  
باب ۵۹۱۔ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْكُعْبَةِ

باب ۵۹۰۔ کعبہ کے اندر جانے کے متعلق

۷۶۴۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں: ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ میرے  
پاس سے نکلے تو آنکھیں ٹھنڈی اور مزاج خوش تھا۔ لیکن جب واپس  
آئے تو غمگین تھے۔ میں نے پوچھا تو فرمایا: میں کعبہ میں داخل ہوا۔  
کاش کہ میں داخل نہ ہوا ہوتا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ میں نے اپنے بعد اپنی  
امت کو تکلیف میں ڈال دیا۔

باب ۵۹۱۔ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا۔

۷۶۵۔ حدثنا قتيبة نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن بلال أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَوْفِ الْكُعْبَةِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ يُصَلِّ وَلَكِنَّهُ كَبَّرَ

۷۶۵۔ حضرت بلالؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے کعبہ میں نماز پڑھی جب کہ ابن عباسؓ کا کہنا ہے کہ نماز نہیں پڑھی بلکہ تکبیر کی۔

اس باب میں اسامہ بن زید، فضل بن عباس، عثمان بن طلحہ اور شیبہ بن عثمان سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں حضرت بلالؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ امام مالک کے نزدیک نوافل کا یہی حکم ہے جب کہ فرض نماز خانہ کعبہ میں پڑھنا ان کے نزدیک مکروہ ہے۔ لیکن امام شافعی کہتے ہیں: خواہ فرض ہو یا نفل۔ کسی میں بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ اس لیے کہ طہارت اور قبلے کا حکم دونوں کے لیے برابر ہے۔

باب ۵۹۲۔ مَا جَاءَ فِي كَسْرِ الْكُعْبَةِ

باب ۵۹۲۔ خانہ کعبہ کو توڑنا

۷۶۶۔ حدثنا محمود بن غيلان نا ابو داؤد عن شعبة عن ابي اسحق عن الاسوديين يزيد أن ابن الزبير قال له حدثني بما كانت تفضي إليك أم المؤمنين يعني عائشة فقال حدثني أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا لَوْلَا أَنْ قَوْمِكَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ لَهَدَمْتُ الْكُعْبَةَ وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ فَلَمَّا مَلَكَ ابْنُ الزُّبَيْرِ هَمَمَهَا وَجَعَلَ لَهَا بَابَيْنِ

۷۶۶۔ حضرت اسود بن یزید فرماتے ہیں کہ ابن زبیر نے ان سے کہا کہ مجھے وہ باتیں بتاؤ جو حضرت عائشہؓ تمہیں بتایا کرتی تھیں۔ اسود نے فرمایا: حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ان سے فرمایا: اگر تمہاری قوم کے لوگ ابھی نئے نئے جاہلیت چھوڑ کر مسلمان نہ ہوئے ہوتے تو میں کعبہ کو توڑ کر بناتا اور اس کے دو دروازے رکھتا۔ پھر جب ابن زبیر مکہ کے حاکم مقرر ہوئے تو انہوں نے اسے توڑ کر دوبارہ بنایا اور اس کے دو دروازے کر دیئے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۵۹۳۔ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي الْحَجْرِ

باب ۵۹۳۔ حطیم میں نماز پڑھنا۔

۷۶۷۔ حدثنا قتيبة نا عبدالعزيز بن محمد عن علقمة بن ابي علقمة عن ابيه عن عائشة قالت كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيدي فأدخلىني الحجر وقال صلى في الحجر أن أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت ولكن قَوْمِكَ اسْتَقْصَرُوا حِينَ بَنَوْا الْكُعْبَةَ فَأَخْرَجُوهُ مِنَ الْبَيْتِ

۷۶۷۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں چاہتی تھی کہ کعبہ میں داخل ہوؤں اور نماز پڑھوں۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑا اور حجر (حطیم) میں لے گئے پھر فرمایا: اگر تم بیت اللہ میں نماز پڑھنا چاہو تو حطیم میں پڑھ لیا کرو۔ یہ بھی بیت اللہ کا ہی ٹکڑا ہے۔ لیکن تمہاری قوم نے کعبہ کی تعمیر کے وقت اسے چھوٹا کر دیا اور کعبہ سے نکال دیا۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور علقمہ بن ابی علقمہ: بلال کے بیٹے ہیں۔

باب ۵۹۴۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْحَجْرِ الْأَسْوَدِ وَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ

باب ۵۹۴۔ مقام ابراہیم، حجر اسود اور رکن یرمائی کی فضیلت۔

باب ۵۹۴۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْحَجْرِ الْأَسْوَدِ وَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ

۷۶۸۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: حجر اسود جب جنت سے اتارا گیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔

۷۶۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا جَرِيْرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ الْحَجَرُ الْاَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ اَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ حَطَايَا بَنِي اٰدَمَ

اس باب میں عبد اللہ بن عمر اور ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۷۶۹۔ قتیبہ، یزید بن زریع سے اور وہ رجا بن یحییٰ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے مسافع حاجب کو عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت کرتے ہوئے سنا کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: رکن اور مقام دونوں جنت کے یا قوت ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا نور زائل کر دیا ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہ کرتے تو ان کی روشنی سے مشرق سے مغرب تک منور ہو جاتے۔

۷۶۹۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا يَزِيْدُ ابْنُ زُرَيْعٍ عَنْ رَجَاءِ ابِي يَحْيٰى قَالَ سَمِعْتُ مَسْفَعًا الْحَا جِبَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بِنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ الرُّكْنَ وَالْمَقَامَ يَأْقُوْتَانِ مِنْ يَأْقُوْتِ الْجَنَّةِ طَمَسَ اللّٰهُ نُورَهُمَا وَلَوْ لَمْ يَطْمَسْ نُورُهُمَا لَا ضَاءَ تَامًا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث عبد اللہ بن عمرؓ سے موقوفہ انہی کا قول مروی ہے۔ اس باب میں انسؓ سے بھی روایت ہے اور یہ روایت غریب ہے۔

باب ۵۹۵۔ منیٰ کی طرف جانا اور قیام کرنا۔  
۷۷۰۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے منیٰ میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز پڑھائی۔ پھر صبح سویرے عرفات کی طرف چل دیے۔

باب ۵۹۵۔ مَا جَاءَ فِي الْخُرُوْجِ اِلَىٰ مَنٰى وَالْمَقَامِ بِهَا  
۷۷۰۔ حَدَّثَنَا اَبُو سَعِيْدٍ الْاَشْجَعِ نَا عَبْدَ اللّٰهِ بِنِ الْاِجْلِحِ عَنْ اِسْمَعِيْلِ بْنِ مَسْلَمٍ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنٰى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ غَدَىٰ اِلَىٰ عَرَفَاتِ  
امام ترمذی کہتے ہیں: اسمعیل بن مسلم میں کلام ہے۔

۷۷۱۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے منیٰ میں ظہر اور فجر کی نماز پڑھی اور پھر عرفات گئے۔

۷۷۱۔ حَدَّثَنَا اَبُو سَعِيْدٍ الْاَشْجَعِ نَا عَبْدَ اللّٰهِ بِنِ الْاِجْلِحِ الْاِعْمَشِ عَنْ الْحَكَمِ عَنِ مِقْسَمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنٰى الظُّهْرَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ غَدَا اِلَىٰ عَرَفَاتِ

اس باب میں عبد اللہ بن زبیر اور انسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ علی بن مدینی، یحییٰ کے حوالے سے اور وہ شعبہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ حکم نے مقسم سے صرف پانچ حدیثیں سنی ہیں جن میں یہ حدیث شامل نہیں۔

باب ۵۹۶۔ منیٰ میں پہلے پہنچنے والا قیام کا زیادہ حق دار ہے۔

باب ۵۹۶۔ مَا جَاءَ اَنَّ مَنٰى مَنْ سَبَقَ

۷۷۲۔ حدثنا يوسف بن عيسى و محمد بن ابان فالانا و كيعب عن اسرائيل عن ابراهيم بن مهاجر عن يوسف بن مالك عن أمه، مَسِيكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْآ تَنبِي لَكَ بِنَاءَ يُظَلُّكَ بِمَنَى قَالَ لَا مَنَى مَنَاحٍ مَن سَبَقَ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔

باب ۵۹۷۔ مَا جَاءَ فِي تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ

باب ۵۹۷۔ منی میں قصر نماز پڑھنا۔

۷۷۳۔ حدثنا قتيبة نا ابوالاحوس عن أبي إسحق عن حارثة بن وهب قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنا منى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين

۷۷۳۔ حضرت حارثہ بن وہب فرماتے ہیں میں نے آنحضرت ﷺ اور بہت سے لوگوں کے ساتھ منی میں بے خوف و خطر قصر نماز پڑھی۔

اس باب کی حضرت میں ابن مسعود، ابن عمر اور انس سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حارثہ بن وہب کی حدیث حسن صحیح ہے۔ ابن مسعود سے مروی ہے کہ فرمایا: میں نے حضور اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ابوبکر، عمر اور عثمان کی خلافت کے ابتدائی دور میں ان حضرات کے ساتھ منی میں دو رکعتیں پڑھیں۔ اہل مکہ کے منی میں قصر کرنے کے متعلق علماء کا اختلاف ہے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ منی میں صرف مسافر ہی قصر نماز پڑھ سکتا ہے اہل مکہ نہیں۔ یہ قول ابن جریج، سفیان ثوری، یحییٰ بن سعید قطان، شافعی، احمد اور اسحاق کا ہے۔ جب کہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اہل مکہ کے بھی منی میں قصر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ اوزاعی، مالک، سفیان بن عیینہ اور عبد الرحمن بن مہدی کا قول ہے۔

باب ۵۹۸۔ مَا جَاءَ فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ وَالِدُعَاءِ فِيهَا

باب ۵۹۸۔ عرفات میں کھڑے ہونا اور دعا کرنا۔

۷۷۴۔ حدثنا قتيبة نا سفیان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبدالله بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال آتانا ابن مريع الأنصاري ونحن وقوف بالموقف مكانا يُبَاعِدُهُ عَمْرُو فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكُمْ كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ إِبْرَاهِيمَ

۷۷۴۔ حضرت یزید بن شیبان فرماتے ہیں کہ ہم موقف پر ایسے مقام پر کھڑے تھے کہ عمرو (یعنی امام) اس جگہ سے دور تھے۔ چنانچہ ابن مریع انصاری تشریف لائے اور فرمایا: میں تمہارے لیے رسول اللہ ﷺ کا اپنی بن کر آیا ہوں فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے اعمال کی جگہ کھڑے رہو تاکہ ابراہیم کی میراث کی پیروی پر قائم رہو۔ (۱)

اس باب میں علی، عائشہ، جبیر بن مطعم اور شرید بن سوید ثقفی سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن مریع کی حدیث حسن صحیح ہے ہم اسے صرف ابن عیینہ کی روایت سے جانتے ہیں وہ عمرو بن دینار سے روایت کرتے ہیں۔ ابن مریع کا نام یزید بن مریع انصاری ہے ان سے بھی ایک حدیث مروی ہے۔

۷۷۵۔ حدثنا محمد بن عبد الاعلی الصنعانی البصری

۷۷۵۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ قریش اور ان کے تبعین جنہیں ”حمس“ (۲)

(۱) موقف: یعنی کھڑے ہونے کی جگہ۔ (مترجم)

(۲) حمس: اہل حرم کے معنی میں آتا ہے۔ (مترجم)

نا محمد بن عبدالرحمن الطفاوی نا هشام بن عروہ  
عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ قُرَيْشٌ وَ مَنْ كَانَ عَلَى  
دِينِهَا وَهُمْ الْحُمُسُ يَقْفُونَ بِالْمَزْدَلِفَةِ يَقُولُونَ نَحْنُ  
قَطِيبُ اللَّهِ وَكَانَ مَنْ سِوَاهُمْ يَقْفُونَ بِعَرَفَةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ  
عَزَّ وَجَلَّ "ثُمَّ أَيْضُوا مِنْ حَيْثُ أَقَاضَ النَّاسُ"

کہا جاتا ہے۔ مزدلفہ میں رہتے اور کہتے ہم بیت اللہ کے خادم اور اہل مکہ  
ہیں چنانچہ عرفات نہ جاتے جب کہ دوسرے تمام لوگ عرفات میں جا کر  
ٹھہرتے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی "ثم  
ایضوا من....." (ترجمہ: پھر جہاں سے دوسرے لوگ واپس  
ہوتے ہیں تم بھی وہیں سے واپس ہو۔)

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اہل مکہ حرم سے باہر نہیں جاتے تھے جب کہ عرفات حرم  
سے باہر ہے۔ وہ لوگ مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے اور کہتے کہ ہم تو اللہ کے گھر والے ہیں۔ لیکن دوسرے لوگ عرفات میں جا کر ٹھہرتے اس پر  
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذکورہ بالا آیت نازل فرمائی۔

باب ۵۹۹۔ عرفات پورا ٹھہرنے کی جگہ ہے۔

باب ۵۹۹۔ مَا جَاءَ أَنْ عَرَفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ

۷۷۶۔ حدیثنا محمد بن بشار نا ابو احمد الزبیری

نا سفیان عن عبدالرحمن بن الحارث بن عیاش بن

۷۷۶۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ عرفات میں کھڑے

ابی ربیعہ عن زید بن علی عن ابیہ عن عبید اللہ بن

ہوئے اور فرمایا: یہ عرفات ہے اور یہی موقف ہے۔ (۱) عرفات پورے

ابی ربیعہ عن زید بن علی عن ابیہ عن عبید اللہ بن

کا پورا موقف ہے۔ پھر سورج غروب ہونے پر وہاں سے واپس ہوئے

أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ وَقَفَ رَسُولُ

اور اسامہ بن زید کو ساتھ بٹھالیا اور اپنی عادت کے مطابق سکون

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ هَذِهِ عَرَفَةُ

واطمینان کے ساتھ اشارے کرنے لگے۔ لوگ دائیں بائیں اپنے

هَذَا هُوَ الْمَوْقِفُ وَعَرَفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ ثُمَّ أَقَاضَ حِينَ

اونٹوں وغیرہ کو مار رہے تھے۔ آنحضرت ﷺ ان کی طرف متوجہ ہوتے

غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَ أَرْدَفَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَ جَعَلَ يُشِيرُ

اور فرماتے: اے لوگو! اطمینان اور سکون کے ساتھ چلو۔ پھر آنحضرت

بِيَدِهِ عَلَى هَيْئَتِهِ وَالنَّاسُ يَضْرِبُونَ بِيَمِينًا وَ شِمَالًا

کا پورا موقف ہے بلکہ مزدلفہ پورے کا پورا موقف ہے پھر وہاں سے

يَلْتَفِتُ إِلَيْهِمْ وَيَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ ثُمَّ

کے وقت قزح (۲) کے مقام پر آئے اور کھڑے ہو کر فرمایا: یہ قزح ہے

أَتَى جَمْعًا فَصَلَّى بِهِمُ الصَّلَوَتَيْنِ جَمِيعًا فَلَمَّا أَصْبَحَ

اور یہی موقف ہے بلکہ مزدلفہ پورے کا پورا موقف ہے پھر وہاں سے

أَتَى فَرَحَ وَ وَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ هَذَا فَرَحٌ وَهُوَ الْمَوْقِفُ

چلے اور وادی محسر (۳) پہنچے اور اپنی اونٹنی کو ایک کوزا مارا جس پر وہ

وَ جَمَعَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ ثُمَّ أَقَاضَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى

دوڑنے لگی یہاں تک کہ اس وادی سے نکل گئے پھر زکے اور فضل بن

وَأَدَى مُحَسِرٍ فَفَرَعَ نَافَتَهُ فَخَبَّتْ حَتَّى جَاوَزَ الْوَادِي

عباس کو اپنے ساتھ بٹھا کر جمرے کے پاس آئے۔ ری سے فارغ ہو کر

فَوَقَفَ وَ أَرْدَفَ الْفَضْلُ ثُمَّ أَتَى الْحِمْرَةَ فَرَمَاَهَا ثُمَّ

مذبح خانے کی طرف تشریف لے گئے اور فرمایا: یہ قربانی کی جگہ ہے اور

أَتَى الْمُنْحَرَّ فَقَالَ هَذَا الْمُنْحَرُّ وَمِنْهُ كُلُّهَا مَنْحَرٌّ

منی پورے کا پورا قربان گاہ ہے۔ یہاں قبیلہ حنم کی ایک لڑکی نے

وَ اسْتَفْتَتْهُ جَارِيَةٌ شَابَةٌ مِنْ حَنَمٍ فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ

آنحضرت ﷺ سے پوچھا: کہنے لگی میرے والد بہت بوڑھے ہیں اور

(۱) موقف: یعنی ٹھہرنے کی جگہ۔ (مترجم)

(۲) قزح: مزدلفہ میں امام کے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ یہ ایک پہاڑ کا نام ہے۔ (مترجم)

(۳) یہ مزدلفہ اور منی کے درمیان ایک وادی ہے۔ اس میں سے تیزی سے گزرنا مستحب ہے۔ (مترجم)

ان پر حج فرض ہے کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں فرمایا: ہاں اپنے والد کی طرف سے حج کرلو۔ پھر فضل کی گردن اس لڑکی کی طرف سے پھیر دی۔ حضرت عباس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اپنے چچا زاد بھائی کی گردن کیوں موڑ دی؟ فرمایا: میں نے جو ان لڑکی اور جو ان لڑکے کو دیکھا تو شیطان کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ پھر ایک شخص حاضر ہوا۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے حلق (۱) سے پہلے طواف افاضہ کر لیا ہے آپ ﷺ نے فرمایا: کوئی بات نہیں حلق کرو۔ یا فرمایا: کوئی حرج نہیں بال کواؤ۔ راوی کہتے ہیں: پھر ایک اور شخص آیا اور عرض کیا: میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی آپ ﷺ نے فرمایا: کوئی بات نہیں اب کنکریاں مارلو۔ پھر آنحضرت ﷺ بیت اللہ تشریف لے گئے اور طواف کرنے کے بعد زمزم پر تشریف لائے اور فرمایا: اے بنو عبدالمطلب اگر مجھے خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ تمہیں بعد میں پانی نہیں نکالنے دیں گے تو میں خود پانی نکالتا۔ یعنی میرے اس طرح نکالنے پر لوگ میری سنت کی اتباع میں تمہیں پانی نکالنے کی مہلت نہ دیں گے۔

كَبِيرٌ قَدْ اَدْرَكْتُهُ فَرِيضَةُ اللّٰهِ فِي الْحَجِّ اَفِيحُزِيْ اَنْ اَحْجَّ عَنْهُ قَالَ حُجِّي عَنْ اَبِيكَ قَالَ وَاَلَوْى عُنُقِ الْفَضْلِ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ لَوَيْتَ عُنُقَ ابْنِ عَمِّكَ قَالَ رَاَيْتَ شَابًا وَّشَابَةً فَلَمْ اَمِنْ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا فَاتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اَفَضْتُ قَبْلَ اَنْ اَحْلِقَ قَالَ اَحْلِقْ وَاَحْرَجْ اَوْ قَصِّرْ وَلَا حَرَجَ قَالَ وَجَاءَ اٰخَرَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ ذَبَحْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِيْ قَالَ اِرْمِ وَلَا حَرَجَ قَالَ ثُمَّ اَتَى الْبَيْتَ فَطَافَ بِهٖ ثُمَّ اَتَى زَمْرَمَ فَقَالَ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِّبِ لَوْ لَا اَنْ يُغَلِّبَكُمْ عَلَيْهِ النَّاسُ لَنَزَعْتُ

اس باب میں جابر سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، ہم اسے حضرت علیؑ کی حدیث سے صرف عبدالرحمن بن حارث بن عیاش کی روایت سے جانتے ہیں۔ کئی راوی ثوری سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ اسی پر علماء کا عمل ہے۔ چنانچہ علماء کا کہنا ہے کہ: عرفات میں ظہر اور عصر، ظہر کے وقت اکٹھی پڑھی جائیں۔ جب کہ بعض علماء کہتے ہیں اگر کسی شخص نے اپنے خیمے میں اکیلے نماز پڑھ لی ہو اور امام کے ساتھ نماز میں شریک نہ ہو تو اگر چاہے تو دونوں نمازیں امام ہی کی طرح ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ زید بن علی: زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہیں۔

مسئلہ: دس ذوالحجہ کے چار افعال جمرہ (۲) عقبہ پر کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، حلق یا قصر (۳) کرنا اور طواف افاضہ کرنا ہیں۔ ان افعال میں ترتیب حنفیہ کے نزدیک واجب ہے۔ حنفیہ اس باب کی حدیث کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ دفع حرج اس لیے تھا کہ صحابہ کرامؓ مناسک حج سے جاہل تھے۔ چنانچہ ان میں تقدیم و تاخیر کرنے والے پر دم واجب ہوگا۔ پھر حرج کے معنی اٹم یعنی گناہ کے ہیں۔ اس طرح معنی یہ ہوا کہ کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ تم احکام سے واقفیت نہیں رکھتے لہذا جہالت بھی ایک عذر ہے مزید یہ کہ حدیث میں صدقہ یا دم واجب ہونے کا ذکر نہیں جب کہ ابن عباسؓ اسی طرح کی ایک حدیث کے راوی بھی ہیں لیکن ان کا فتویٰ اس کے خلاف ہی ہے اور حنفیہ کے مسلک کی تائید کرتا ہے۔ حاصل یہ کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ اس حدیث سے یہ معنی مراد لیے جاسکتے ہیں۔ اس دن کے افعال میں تقدیم و تاخیر پر کوئی صدقہ یا دم وغیرہ واجب نہیں تو وہ بھی آنحضرت ﷺ ہی کے زمانے میں تھا اب نہیں کیونکہ آپ ﷺ کا زمانہ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا لہذا اس میں جہالت معتبر تھی۔ جب کہ اس وقت جب کہ تمام احکام مکمل ہو چکے ہیں اس کی حاجت باقی نہیں رہتی۔ واللہ اعلم (مترجم)

(۱) حلق کے معنی سرمندانے کے ہیں۔ (مترجم)۔ (۲) جمرہ عقبہ: بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کی جگہ کہتے ہیں۔ (مترجم)

(۳) قصر: اس کے معنی بال چھوٹے کرانے کے ہیں۔ (مترجم)

باب ۶۰۰۔ مَا جَاءَ فِي الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَافَاتٍ

باب ۶۰۰۔ عرفات سے واپسی سے متعلق۔

۷۷۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا وَكَيْعٌ وَبِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ وَابُو نَعِيمٍ قَالُوا نَا سَفِينُ بْنُ عَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْرَعَ فِي وَادِي مُحَسِّبٍ وَزَادَ فِيهِ بِشْرٌ وَأَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ وَزَادَ فِيهِ أَبُو نَعِيمٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَا الْحَذْفِ وَقَالَ لَعَلِّي لَا أَرَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا

۷۷۷۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ محسر سے تیزی سے گزرے۔ اور بشر اس میں یہ زیادتی کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ جب مزدلفہ سے لوٹے تو اطمینان کے ساتھ اور صحابہؓ کو بھی اسی کا حکم دیا۔ ابونعیم اس میں یہ زیادتی کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے صحابہؓ کو حکم دیا کہ حمرات پر ایسی کنکریاں ماریں جو انگلیوں میں پکڑی جاسکیں۔ یعنی چھوٹی ہوں پھر آپ ﷺ نے فرمایا: شاید میں اس سال کے بعد تم لوگوں کو نہ دیکھ سکوں۔

اس باب میں اسامہ بن زید سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۶۰۱۔ مَا جَاءَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

باب ۶۰۱۔ مغرب اور عشاء مزدلفہ میں ایک ساتھ پڑھنا۔

۷۷۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ نَا سَفِيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى بِجَمْعٍ فَجَمَعَ بَيْنَ الصَّلَوَتَيْنِ بِأَقَامَةٍ وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ هَذَا فِي هَذَا الْمَكَانِ

۷۷۸۔ حضرت عبداللہ بن مالک فرماتے ہیں کہ ابن عمرؓ نے مزدلفہ میں نماز پڑھائی اور دو نمازیں ایک ہی تکبیر سے ایک ساتھ پڑھیں۔ اور فرمایا: میں نے آنحضرت ﷺ کو اس جگہ اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا۔

محمد بن بشار، یحییٰ بن سعید سے وہ اسماعیل بن ابی خالد سے وہ ابواسحاق سے وہ سعید بن جبیر سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے مرفوعاً اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ محمد بن بشار، یحییٰ بن سعید کے حوالے سے کہتے ہیں کہ سفیان کی حدیث صحیح ہے۔ اس باب میں علیؓ، عبداللہ بن مسعودؓ، ابویوبؓ، جابرؓ اور اسامہ بن زیدؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابن عمرؓ کی حدیث سفیان کی روایت سے اسماعیل بن ابی خالد کی روایت سے اصح ہے اور سفیان کی حدیث صحیح ہے اسرائیل بھی یہ حدیث ابواسحاق سے وہ عبداللہ اور خالد (یہ دونوں مالک کے بیٹے ہیں) سے اور وہ ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں۔ سعید بن جبیر کی ابن عمرؓ سے مروی حدیث بھی حسن صحیح ہے۔ اسے سلمہ بن کہیل، سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں جب کہ اسحاق، عبداللہ اور خالد سے اور وہ دونوں ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں۔ علماء کا اسی پر عمل ہے کہ مغرب کی نماز، مزدلفہ سے پہلے نہ پڑھی جائے۔ چنانچہ حاجی جب مزدلفہ پہنچیں تو مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ایک ہی وقت میں ایک ہی تکبیر کے ساتھ پڑھیں اور ان کے درمیان کوئی نفل نماز نہ پڑھیں۔ بعض علماء نے یہی مسلک اختیار کیا ہے۔ جن میں سفیان ثوری بھی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر چاہے تو مغرب پڑھ کر کھانا وغیرہ کھالے اور پھر تکبیر کہہ کر عشاء کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن بعض علماء کا کہنا ہے کہ مغرب اور عشاء کی نمازیں مزدلفہ میں ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ پڑھی جائیں یعنی مغرب کے لیے اذان دی جائے پھر تکبیر کہہ کر مغرب اور اس کے بعد تکبیر کہہ کر عشاء کی نماز پڑھی جائے یہ امام شافعی کا قول ہے۔

باب ۶۰۲۔ مَا جَاءَ فِي مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ بِجَمْعٍ فَقَدْ

باب ۶۰۲۔ جو شخص (وقوف عرفہ کے بعد) مزدلفہ میں امام کے ساتھ

أَدْرَكَ الْحَجَّ

۷۷۹- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا نَا سَفِينُ بْنُ بَكِيرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ اتَّوَأَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بَعْرَفَةَ فَسَأَلُوهُ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى الْحَجَّ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ أَيَّامَ مِنِّي ثَلَاثَةٌ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِيَّامَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِيَّامَ عَلَيْهِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَزَادَ يَحْيَى وَارْتَدَفَ رَجُلًا فَنَادَى بِهِ

وقوف میں شریک ہو جائے اس کا حج ہو گیا۔

۷۷۹- حضرت عبدالرحمن بن میسرہ فرماتے ہیں کہ اہل نجد کے کچھ لوگ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں عرفات میں حاضر ہوئے اور حج کے متعلق دریافت کیا۔ آپ ﷺ نے منادی کو حکم دیا۔ کہ لوگوں میں یہ اعلان کرے: حج عرفات میں وقوف کا نام ہے اور جو شخص مزدلفہ کی رات طلوع فجر سے پہلے عرفات پہنچ جائے اس کا حج ہو گیا۔ منیٰ کا قیام تین دن ہے لیکن اگر کوئی دو دن بعد چلا جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں اور اس طرح جو تیسرا دن بھی پورا کرے اس میں بھی کوئی مضاقتہ نہیں۔ محمد کہتے ہیں کہ یحییٰ اس حدیث کی روایت میں کہتے ہیں: آنحضرت ﷺ نے کسی شخص کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھا کر یہ اعلان کرایا تھا۔

ابن ابی عمر، سفیان بن عیینہ سے وہ سفیان ثوری سے وہ بکیر بن عطاء سے وہ عبدالرحمن بن میسرہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے ہم معنی روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابن ابی عمر، سفیان بن عیینہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ: سفیان ثوری کی روایات میں سے یہ روایت سب سے بہتر ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: علماء صحابہ اور دیگر علماء کرام عبدالرحمن بن میسرہ کی حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ کہ جو شخص طلوع فجر سے پہلے عرفات نہ پہنچا اس کا حج نہیں ہوا۔ لہذا طلوع فجر کے بعد پہنچنے والے شخص کا حج فوت ہو گیا۔ وہ اس مرتبہ عمرہ کر لے اور آئندہ سال کا حج اس پر واجب ہے۔ یہ سفیان ثوری، شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے۔ شعبہ نے بھی بکیر بن عطاء سے ثوری کی حدیث کی مانند روایت کی ہے۔ جارود کو حج کے حوالے سے یہ حدیث روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ حدیث ام المناسک ہے۔ یعنی حج کے احکام کی اصل بنیاد ہے۔

۷۸۰- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ نَا سَفِيَانُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ وَاسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ وَزَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ عُرْوَةَ بْنِ مَضَرٍّ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ ابْنِ لَامِ الطَّائِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُزْدَلِفَةِ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

أَتَيْتُ مِنْ جَبَلِي طَيًّا أَكَلْتُ رَاحِلَتِي وَأَتَيْتُ نَفْسِي وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ جَبَلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَهِدَ صَلَاتِنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى يَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَنَّهُ

۷۸۰- حضرت عمرو بن مضر بن اوس بن حارث بن ام طائی فرماتے ہیں کہ میں مزدلفہ میں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ ﷺ نماز کے لیے نکل رہے تھے میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں طئی کے پہاڑ سے آیا ہوں میں نے اپنی اونٹنی کو بھی خوب تھکایا اور خود بھی بے انتہا تھک گیا ہوں۔ قسم ہے پروردگار کی میں نے کوئی پہاڑ وقوف کے بغیر نہیں چھوڑا۔ کیا میرا حج ہو گیا؟ فرمایا: جو شخص ہماری اس نماز میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائے اور ہمارے یہاں رہنے تک ساتھ رہے تو اس کا حج ہو گیا۔ بشرطیکہ وہ اس سے پہلے عرفات میں دن یا رات کے کسی بھی حصے میں وقوف کر چکا ہو (یعنی ۹ تاریخ کی صبح سے لے کر رات کو طلوع فجر تک) وہ اپنا احرام کھول لے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۶۰۳۔ ضعیف لوگوں کو مزدلفہ سے جلدی روانہ کرنا۔

باب ۶۰۳۔ مَا جَاءَ فِي تَقْدِيمِ الضَّعْفَةِ مِنْ جَمْعِ بَلِيلٍ

۷۸۱۔ حدثنا قتيبة نا حماد بن زيد عن ابوب عن عكرمة عن ابن عباس قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل من جمع بليل

۷۸۱۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے مجھے سامان وغیرہ کے ساتھ رات ہی کو مزدلفہ سے بھیج دیا تھا۔

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَقُلٍ مِنْ جَمْعِ بَلِيلٍ

اس باب میں عائشہ، ام حبیبہ، اسماء اور فضل سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عباس کی یہ حدیث صحیح ہے اور کئی طرق سے انہی سے مروی ہے۔ شعبہ یہ حدیث مشاش سے اور وہ عطاء سے اور وہ فضل بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ”آنحضرت ﷺ نے ضعیف کو رات ہی کے وقت مزدلفہ سے روانہ کر دیا تھا۔“ اسی حدیث میں مشاش سے غلطی ہوئی ہے انہوں نے فضل بن عباس کا ذکر زیادہ کیا ہے کیوں کہ ابن جریج وغیرہ یہ حدیث عطاء سے اور وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں۔

۷۸۲۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں: آنحضرت ﷺ نے گھر کے ضعیف کو مزدلفہ پہلے بھیج دیا اور فرمایا: طلوع آفتاب سے پہلے کنکریاں نہیں مارنا۔

۷۸۲۔ حدثنا ابو كريب نا وكيع عن المسعودي عن الحكم عن مقسام عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة اهله وقال لا تزوموا الجمره حتى تطلع الشمس

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسی پر اہل علم کا عمل ہے کہ ضعیف کو مزدلفہ سے جلدی بھیج دینے میں کوئی حرج نہیں۔ پھر اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ سورج نکلنے سے پہلے کنکریاں نہ ماریں جب کہ بعض علماء رات ہی کو کنکریاں مارنے کی بھی اجازت دیتے ہیں۔ لیکن عمل آنحضرت ﷺ کی حدیث پر ہی ہے اور یہی سفیان ثوری اور شافعی کا قول ہے۔

باب ۶۰۴۔ بلا عنوان

باب ۶۰۴۔

۷۸۳۔ حضرت جابر فرماتے ہیں: آنحضرت ﷺ نے دسویں تاریخ کو چاشت کے وقت کنکریاں ماریں جب کہ اس کے بعد زوال کے بعد مارتے رہے۔

۷۸۳۔ حدثنا علي بن خشرم نا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحى واما بعد ذلك فبعد زوال الشمس

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسی پر علماء کا عمل ہے کہ دس تاریخ کے بعد زوال آفتاب کے بعد ہی کنکریاں مارے۔

باب ۶۰۵۔ مزدلفہ سے طلوع آفتاب سے پہلے نکلنا۔

باب ۶۰۵۔ مَا جَاءَ إِذَا الْإِفَاضَةَ مِنْ جَمْعِ قَبْلِ طُلُوعِ الشَّمْسِ

۷۸۴۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں: آنحضرت ﷺ مزدلفہ سے سورج طلوع ہونے سے پہلے واپس تشریف لے گئے۔

۷۸۴۔ حدثنا قتيبة نا ابو خالد الاحمر عن الاعمش عن الحكم عن مقسام عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم افاض قبل طلوع الشمس

اس باب میں حضرت عمرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ طلوع آفتاب کا انتظار کرتے اور اس کے بعد مزدلفہ سے نکلا کرتے تھے۔

۷۸۵۔ حدیثنا محمود بن غیلان نا ابو داؤد قال  
أَبَانَا شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ وَبَنَ  
مَيْمُونٍ يَقُولُ كُنَّا وَفُوقًا بِجَمْعٍ وَقَالَ عُمَرُ بِنُ  
الْحَطَّابِ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ  
الشَّمْسُ فَكَانُوا يَقُولُونَ أَشْرَقَ نَبِيٌّ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَفَهُمْ فَأَقَاضَ عُمَرُ قَبْلَ  
طُلُوعِ الشَّمْسِ

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۶۰۶۔ چھوٹی کنکریاں مارنا

باب ۶۰۶۔ مَا جَاءَ إِنْ الْجِمَارِ الَّتِي تُرْمَى مِثْلَ  
حَصَى الْحَدْفِ

۷۸۶۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو انگلیوں  
سے کنکریاں مارتے ہوئے دیکھا یعنی چھوٹی چھوٹی کنکریاں۔

۷۸۶۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ  
الْقَطَّانِ ابْنِ جَرِيحٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَأَيْتُ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الْجِمَارَ بِمِثْلِ  
حَصَى الْحَدْفِ

اس باب میں سلیمان بن عمرو بن احوصؓ (یہ اپنی والدہ: ام جندب ازدیہ سے روایت کرتے ہیں) ابن عباسؓ، فضل بن عباسؓ،  
عبدالرحمن بن عثمان تمیمیؓ اور عبدالرحمن بن معاذؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء اسی کو اختیار کرتے  
ہیں کہ چھوٹی کنکریاں ماری جائیں جو انگلیوں سے ماری جاسکیں۔

باب ۶۰۷۔ زوال آفتاب کے بعد کنکریاں مارنا

باب ۶۰۷۔ مَا جَاءَ فِي الرَّمِيِّ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ

۷۸۷۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ زوال آفتاب  
کے بعد کنکریاں مارا کرتے تھے۔

۷۸۷۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الضَّبِيِّ الْبَصْرِيُّ نَا  
زِيَادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ  
مِقْسَمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الْجِمَارَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۶۰۸۔ سوار ہو کر کنکریاں مارنا۔

باب ۶۰۸۔ مَا جَاءَ فِي الرَّمِيِّ الْجِمَارِ رَاكِبًا

۷۸۸۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے دس

۷۸۸۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ

ابن زائدة نا الحجاج عن الحكم عن مفسم عن  
ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى  
الحجرة يوم النحر راكباً

ذوالحجہ کو حجرہ عقبہ پر سواری پر سوار ہو کر کنکریاں ماریں۔

اس باب میں جاہل، قدمہ بن عبداللہ اور ام سلیمان بن عمرو بن احوصؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابن عباسؓ کی حدیث حسن ہے۔ بعض علماء کا اسی پر عمل ہے جب کہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ کنکریاں پیدل چل کر ماری جائیں۔ ہمارے نزدیک اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ حضور ﷺ نے اس لیے ایسا کیا کہ لوگ آپ کو دیکھ کر اقتدا کر سکیں پھر دونوں حدیثیں علماء کے نزدیک معمول بہ ہیں۔ یعنی مذکورہ بالا اور مندرجہ ذیل حدیث۔

۷۸۹۔ حدثنا يوسف بن عيسى نا ابن نمير عن  
عبيدالله عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه  
وسلم كان اذا رمى الحجرة مشى اليه ذاهباً وراجعاً

۷۸۹۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ جب کنکریاں مارنے جاتے تو پیدل ہی جاتے اور پیدل ہی واپس تشریف لاتے۔

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض راوی اسے عبید اللہ سے روایت کرتے ہوئے مرفوع نہیں کرتے۔ اکثر علماء کا عمل اسی حدیث پر ہے۔ جب کہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ قربانی والے دن (دس تاریخ کو) سوار ہو کر اور اس کے بعد پیدل چل کر کنکریاں مارے۔ گویا کہ یہ حضرات آنحضرت ﷺ کے فعل کی اتباع میں یہ حکم دیتے ہیں: کہ آنحضرت ﷺ نے دس تاریخ کو حجرہ عقبہ پر سواری پر سوار ہو کر کنکریاں ماری تھیں اور اس دن صرف حجرہ عقبہ پر ہی کنکریاں ماری جاتی ہیں۔

باب ۶۰۹۔ كَيْفَ تُرْمَى الْجِمَارُ

باب ۶۰۹۔ رمی (۱) کیسے کی جائے۔

۷۹۰۔ حدثنا يوسف بن عيسى نا وكيع نا  
المسعودي عن جامع بن شداد أبي صحرة عن  
عبد الرحمن بن يزيد قال لما أتى عبد الله جمره العقبة  
استبطن الوادي واستقبل الكعبة وجعل يرمي  
الحجرة على حاجبه الأيمن ثم رمى بسبع حصيات  
يكبّر مع كل حصاة ثم قال والله الذي لا إله غيره من  
ههنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة

۷۹۰۔ عبدالرحمن بن يزيد فرماتے ہیں جب عبداللہؓ حجرہ عقبہ پر میدان کے بیچ میں پہنچے تو قبلہ رخ ہوئے اور اپنی داہنی جانب حجرے پر کنکریاں مارنے لگے پھر انہوں نے سات کنکریاں ماریں اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے۔ پھر فرمایا: قسم ہے اس رب کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر سورہ بقرہ نازل کی گئی اس نے یہیں سے کنکریاں ماری تھیں۔

ہنا دو کج سے اور وہ مسعودی سے اسی سند سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ اس باب میں فضل بن عباسؓ، ابن عباسؓ، جاہلؓ اور ابن عمرؓ سے بھی روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر علماء کا عمل ہے کہ کنکریاں مارنے والا میدان کے درمیان سے سات کنکریاں مارے اور ہر کنکری پر تکبیر کہے۔ جب کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر میدان کے درمیان سے مارنا ممکن نہ ہو تو جہاں سے مار سکے وہاں سے ہی مارے۔

۷۹۱۔ حدثنا نصر بن علي الجهضمي وعلي بن  
۷۹۱۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: کنکریاں

(۱) رمی: کنکریاں مارنے کو کہتے ہیں۔ (مترجم)

حشرم قالانا عیسیٰ بن یونس عن عبید اللہ بن ابی زیاد عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال إنما جعل رمی الجمار والسعی بین الصفا والمروة لإقامة ذکر اللہ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۶۱۰۔ ماجاء فی کراهیة طرد الناس عند رمی الجمار

۷۹۲۔ حدثنا احمد بن منيع نا مروان بن معاوية عن ايمن بن نابل عن قدامة بن عبید اللہ قال رأيت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرمی الجمار علی ناقته لیس ضرب (۳) ولا طرد ولا الیک الیک

اس باب میں عبد اللہ بن حنظلہ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں: قدامہ بن عبد اللہ کی روایت حسن صحیح ہے یہ حدیث بھی اسی سند سے پہچانی جاتی ہے یہ بھی حسن صحیح ہے۔ ایمن بن نابل محدثین کے نزدیک ثقہ ہیں۔

باب ۶۱۱۔ اونٹ اور گائے میں شراکت کے متعلق۔

۷۹۳۔ حدثنا قتيبة نا مالك بن انس عن أبي الزبير عن جابر قال نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحديبية البقرة عن سبعة والبئنة عن سبعة

اس باب میں ابن عمر، ابو ہریرہ، عائشہ اور ابن عباس سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: جابر کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر علماء صحابہ اور دیگر علماء کا عمل ہے کہ قربانی میں گائے یا اونٹ سات آدمیوں کی طرف سے کافی ہے سفیان ثوری، شافعی اور احمد کا بھی یہی قول ہے حضرت ابن عباس سے مرفوعاً مروی ہے کہ ”قربانی میں گائے سات اور اونٹ دس آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ اسحاق اسی سے استدلال کرتے ہیں اور ان کا یہی قول ہے۔ ابن عباس کی حدیث کو ہم ایک ہی سند سے جانتے ہیں جو ذیل میں مذکور ہے۔

۷۹۴۔ حدثنا الحسين بن حريث وعمر واجد قالوا نا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد سے وہ علیاء بن احمر سے وہ عکرمہ سے اور وہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ ہم آنحضرت ﷺ کے ساتھ سفر میں تھے کہ عید الاضحی

(۱) یعنی یہ حضرت ہاجرہ کی اسلیل کی معیت میں ہجرت کرنے اور اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کی یاد میں ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

(۲) حجرات: حجرہ کی جمع ہے۔ (مترجم)

(۳) ضرب: مارنے کو کہتے ہیں۔ (مترجم)

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَحَضَرَ الْأَضْحَى  
فَأَشْتَرَكُنَا فِي الْبَقْرَةِ سَبْعَةَ وَفِي الْجَزُورِ عَشْرَةَ  
آگئی۔ چنانچہ ہم لوگ گائے میں سات اور اونٹ میں دس حصہ دار بنے۔  
امام ترمذی کہتے ہیں: حسین بن واقد کی حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۶۱۲۔ مَا جَاءَ فِي إِشْعَارِ الْبُذُنِ  
باب ۶۱۳۔ قِرْبَانِي كَيْ اَوْنَتِ كَاشْعَارِ (۱) كَرْنَا۔  
۷۹۵۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ نَا وَكَيْعٌ عَنْ هِشَامِ  
الدِّسْتَوَائِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَانَ الْأَعْرَجِ عَنْ  
أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّدَ نَعْلَيْنِ  
وَأَشْعَرَ الْهَدْيَ فِي الشَّقِ الْأَيْمَنِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَ  
أَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ

اس باب میں مسور بن مخرمہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابن عباسؓ کی حدیث حسن صحیح ہے ابو حسان اعرج کا نام مسلم ہے علماء صحابہ اور دیگر علماء اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشعار کا حکم دیتے ہیں۔ ثوری، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں میں نے یوسف بن عیسیٰ کو یہ حدیث وکج کے حوالے سے روایت کرتے ہوئے سنا چنانچہ انہوں نے کہا: اس مسئلے میں اہل رائے کی رائے کی طرف نہ دیکھو (اہل رائے سے مراد: امام عبدالرحمن تمیمی مدنی ہیں جو امام مالک کے استاد ہیں) اس لیے کہ اشعار سنت ہے جب کہ ان کے نزدیک یہ بدعت ہے۔ ابوسائب کہتے ہیں کہ ہم وکج کے پاس تھے کہ انہوں نے ایک (اہل رائے کے قبعیں میں سے) شخص سے کہا کہ آنحضرت ﷺ نے اشعار کیا۔ اور ابو حنیفہؒ کہتے ہیں کہ یہ مثلہ ہے۔ (ہاتھ پیر کاٹنے میں داخل ہے) اس شخص نے کہا: ابراہیم نخعی سے بھی مروی ہے کہ اشعار مثلہ ہے۔ اس پر وکج سخت غصے میں آگئے اور فرمایا: میں تم سے کہتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اور تم ابراہیم نخعی کا قول بیان کرتے ہو۔ تم اس قابل ہو کہ تمہیں قید کر دیا جائے یہاں تک کہ تم اپنے اسی قول سے رجوع کرو۔

مسئلہ: احناف کے نزدیک اشعار مکروہ اور تقلید مستحب ہے۔ امام طحاوی کہتے ہیں: امام ابو حنیفہؒ اس اشعار کی سبب ہی کے قائل ہیں جو آنحضرت ﷺ سے مروی ہے چنانچہ آپ ﷺ کا اشعار صرف یہ تھا کہ کھال میں ایک خراش ڈال دی جاتی تھی تاکہ اس سے خون نکل جائے نہ کہ جانور کا گوشت کاٹ دیا جاتا۔ جس طرح بعد کے جہلا کیا کرتے تھے کہ گوشت کا ٹکڑا تک اتار دیتے تھے جو بعض اوقات جانور کی ہلاکت پر منتج ہوتا تھا۔ چنانچہ امام ابو حنیفہؒ اسی قسم کو مکروہ کہتے ہیں جب کہ بعض حضرات کا موقف یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کا اشعار اس لیے تھا کہ مشرکین ہدی (۳) جانوروں کے علاوہ دوسرے جانوروں کو پکڑ لیا کرتے تھے چنانچہ اب یہ علت باقی نہیں رہی لہذا یہ عمل مکروہ ہو گیا۔ واللہ اعلم (مترجم)

(۱) اشعار: اونٹ کے پہلو کو تھوڑا سا زخمی کر دینے کو کہتے ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ قربانی کا جانور ہے۔ چنانچہ اس سے خون رستا رہتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے

کہ یہ قربانی کے لیے مخصوص ہے۔ (مترجم)

(۲) تقلید: قربانی کے جانور کے گلے میں جوتوں اور ہڈیوں کا ہار ڈالنے کو تقلید کہتے ہیں یہ بھی اسی مقصد کے لیے ہے۔ (مترجم)

(۱) ہدی: ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو طلب ثواب کے لیے حرم مکہ میں ذبح کیے جاتے ہیں۔

باب ۶۱۳۔

باب ۶۱۳۔ بلا عنوان

۷۹۶۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ وَ أَبُو سَعِيْدِ الْاَشْجِ قَالَ ثَنَا ابْنُ  
الِيْمَانَ عَنْ سَفِيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ  
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنْ قُدَيْدٍ

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے ثوری کی روایت سے یحییٰ بن یمان کی سند کے علاوہ نہیں جانتے۔ نافع سے مروی ہے کہ ابن عمرؓ نے بھی اپنی ہدیٰ قدیدی سے خریدی۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ روایت اسحٰب ہے۔

باب ۶۱۴۔ مَا جَاءَ فِي تَقْلِيْدِ الْهَدْيِ لِلْمُقِيْمِ

باب ۶۱۴۔ مقیم کا ہدیٰ کی تقلید کرنا۔

۷۹۷۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا الْلِيْثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ  
الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ فَتَلْتُ فَلَا يَدُ  
هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَمْ يُحْرَمِ  
وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ

۷۹۷۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں: میں آنحضرت ﷺ کی ہدیٰ کے بارے کے لیے رسیاں بنا کرتی تھی پھر آپ ﷺ نہ احرام باندھتے اور نہ ہی کپڑے پہننا ترک کرتے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے بعض علماء کا اسی پر عمل ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ہدیٰ کے جانور کی ”تقلید“ کرتا ہے تو اس وقت تک اس پر سلعے ہوئے کپڑے یا خوشبو حرام نہیں ہوتی۔ جب تک وہ احرام نہ باندھے۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں: ”تقلید“ کے ساتھ ہی اس پر وہ تمام چیزیں حرام ہو گئیں۔ جو محرم پر حرام ہوتی ہیں۔

باب ۶۱۵۔ مَا جَاءَ فِي تَقْلِيْدِ الْعَنَمِ

باب ۶۱۵۔ بکریوں کی ”تقلید“

۷۹۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ  
بْنَ مَهْدِيٍّ عَنْ سَفِيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ  
عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَقْبِلُ فَلَا يَدُ  
هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلِّهَا  
عَنَّمَا تُمْ لَا يُحْرَمُ

۷۹۸۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں: میں آنحضرت ﷺ کی قربانی کی بکریوں کے گلے کے باروں کی رسیاں بنا کرتی تھی۔ پھر آپ ﷺ احرام نہیں باندھتے تھے (یعنی اپنے اوپر کسی چیز کو حرام نہیں کرتے تھے)۔

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسی پر بعض صحابہ اور دیگر علماء کا عمل ہے کہ بکریوں کے گلے میں ہار ڈالا جائے۔ (اشعارتہ کیا جائے)۔

باب ۶۱۶۔ مَا جَاءَ إِذَا عَطِبَ الْهَدْيُ مَا يَصْنَعُ بِهِ

باب ۶۱۶۔ اگر ہدیٰ کا جانور قریب المرگ ہو جائے تو کیا کیا جائے۔

۷۹۹۔ حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ اسْلَخِ الْهَمْدَانِي نَا عُبَيْدَةَ  
بْنَ سَلِيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَاجِيَةَ  
الْحُرَزَائِيَّةِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ اصْنَعُ بِمَا  
عَطِبَ مِنَ الْهَدْيِ قَالَ انْحَرِهَا ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي  
دَمِهَا ثُمَّ حَلَّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهَا فَيَاكُلُوْهَا

۷۹۹۔ حضرت ناجیہ خزاعیؓ فرماتی ہیں: میں نے آنحضرت ﷺ سے پوچھا: اگر ہدیٰ قریب المرگ ہو جائے تو کیا کروں؟ فرمایا: اس کو ذبح کر دو اور اس کے گلے کی جوتی کو اس کے خون میں ڈبو دو پھر اسے لوگوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دو۔

اس باب میں ذویب البوقیصہ خزاعی سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ناجیہ حسن صحیح ہے اور اسی پر علماء کا عمل ہے کہ اگر نفلی قربانی کا جانور قریب المرگ ہو جائے تو وہ خود یا اس کے دوست اس کا گوشت نہ کھائیں بلکہ دوسرے لوگوں کو کھلا دیں۔ اس طرح اس کی قربانی ہو جائے گی۔ یہ شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر اس میں سے کچھ کھالیا تو جتنا کھایا ہے اتنا ہی تاوان کے طور پر ادا کرے جب کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر اس میں سے کچھ لیا تو اتنی ہی قیمت ادا کرے۔

باب ۶۱۷۔ مَا جَاءَ فِي رُكُوبِ الْبَدَنَةِ

باب ۶۱۷۔ قربانی کے اونٹ پر سوار ہونا۔

۸۰۰۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ أَرَكْبُهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ فَقَالَ لَهُ فِي الثَّلَاثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ أَرَكْبُهَا وَيُحَكُّ أَوْ وَيَلُكُّ

۸۰۰۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ایک شخص کو قربانی کا اونٹ ہانکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: اس پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ (یہ قربانی کا جانور ہے آپ ﷺ تیسری یا چوتھی مرتبہ فرمایا: تمہارا ستیاناس ہو۔ سوار ہو جاؤ راوی کو شک ہے کہ ”وَلُكُّ“ فرمایا: ”وَيُحَكُّ“ (ان دونوں الفاظ کے معنی یہ ہیں کہ ”تم پر ہلاکت ہو“۔) (مترجم)

باب ۶۱۸۔ مَا جَاءَ بِأَيِّ جَانِبِ الرَّأْسِ يَبْدَأُ فِي الْحَلْقِ

باب ۶۱۸۔ سر کی کس جانب سے حلق شروع کیا جائے۔

۸۰۱۔ حَدَّثَنَا أَبُو عَمَارٍ نَا سَفِيَانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَانَ عَنْ ابْنِ سَبْرِيْنٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمْرَةَ نَحَرَ نُسْكُهُ ثُمَّ نَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ فَأَعْطَى أَبَا طَلْحَةَ ثُمَّ نَاوَلَهُ شِقَّهُ الْأَيْسَرَ فَحَلَقَهُ فَقَالَ أَمْسَمَهُ بَيْنَ النَّاسِ

۸۰۱۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں آنحضرت ﷺ جب حجرے پر کنگریاں مارنے سے فارغ ہوئے تو قربانی کے جانور ذبح کیے پھر حجام کو بلا یا اور سر کی دائیں جانب اس کے سامنے کر دی اس نے اس طرف سے سر موٹا آپ ﷺ نے وہ بال ابوطحہ کو دے دیئے پھر حجام کی طرف بائیں جانب کی تو اس نے اس طرف سے بھی سر موٹا۔ پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا: یہ بال لوگوں کے درمیان تقسیم کر دو۔

ابن ابی عمر، سفیان بن عیینہ سے اور وہ ہشام سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔

باب ۶۱۹۔ حلق اور قصر کے متعلق

باب ۶۱۹۔ مَا جَاءَ فِي الْحَلْقِ وَالْقَصْرِ

۸۰۲۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں: آنحضرت ﷺ اور اصحاب نبی ﷺ کی ایک جماعت نے سر کے بال منڈوائے جب کہ بعض صحابہ نے بال چھوٹے کرائے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں: آنحضرت ﷺ نے دو یا تین مرتبہ فرمایا: اے اللہ بال منڈوانے والوں پر رحم فرما۔ پھر ایک مرتبہ بال کتروانے والوں کے متعلق بھی یہی دعا کی۔

۸۰۲۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَلَقَ طَائِفَةً مِّنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَرَ بَعْضُهُمْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَجِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَالْمَقْصِرِينَ

اس باب میں ابن عباسؓ، ابن ام حنینؓ، ماربؓ، ابوسعیدؓ، ابو مرثدؓ، حبشی بن جنادہ اور ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء کا اسی حدیث پر عمل ہے یعنی آدمی سر کے بال منڈوائے لیکن اگر بال کتر والے تو بھی جائز ہے۔ یہ سفیان ثوریؓ، شافعیؓ، احمد اور اسحاق کا قول ہے۔

باب ۶۲۰۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْحَلْقِ لِلنِّسَاءِ

۸۰۳۔ حدثنا محمد بن موسى الجرشى البصرى نا ابو داؤد الطيالسى نا همام عن قتادة عن خلاص بن عمر و عن عليّ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها

باب ۶۲۰۔ عورت کے لیے سر منڈانا حرام ہے

۸۰۳۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے عورت کو بال منڈوانے سے منع فرمایا۔

محمد بن بشار، ابو داؤد سے وہ ہمام سے اور وہ خلاص سے اسی کے مثل روایت کرتے ہوئے حضرت علیؓ کا ذکر نہیں کرتے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: اس حدیث میں اضطراب ہے۔ پھر یہ حدیث حماد بن سلمہ سے بھی قتادہ کے حوالے سے حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے عورت کو سر کے بال منڈوانے سے منع فرمایا۔ علماء کا عمل اسی پر ہے کہ عورت حلق نہ کرے بلکہ بال کٹوائے۔

باب ۶۲۱۔ مَا جَاءَ فِي مَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يُدْبِحَ أَوْ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ

۸۰۴۔ حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي و ابن ابى عمر قالانا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمر و أنّ رجلاً سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حلفت قبل أن أدبج فقال ادبج ولا حرج وسأله آخر فقال نحررت قبل أن أرمي قال أرم ولا حرج

باب ۶۲۱۔ جو شخص ذبح سے پہلے حلق کر لے یا ری سے پہلے قربانی کر لے۔ (۱)

۸۰۴۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں: ایک شخص نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا: میں نے قربانی سے پہلے حلق کر لیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کوئی بات نہیں اب قربانی کر لو۔ دوسرے شخص نے سوال کیا میں نے ری (کنکریاں مارنے) سے پہلے قربانی کر لی۔ فرمایا: کوئی حرج نہیں اب رمی کر لو۔

اس باب میں علیؓ، جابرؓ، ابن عباسؓ، ابن عمرؓ اور اسامہ بن شریکؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: عبداللہ بن عمروؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر اکثر اہل علم کا عمل ہے۔ احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں جب کہ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ اگر کوئی چیز کسی دوسری پر مقدم کر دے تو اس پر دم واجب ہے (اس کی تفصیل کے لیے ملاحظہ کیجئے باب ”ان العرفۃ کلھا موقف“ (باب ۵۹۹۔ حدیث ۷۷۶)

باب ۶۲۲۔ مَا جَاءَ فِي الطَّيِّبِ عِنْدَ الْأَحْلَالِ قَبْلَ الزِّيَارَةِ

۸۰۵۔ حدثنا احمد بن منيع نا هشيم نا منصور بن زاذان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يطوف بالبيت يطيب فيه مسك

باب ۶۲۲۔ احرام کھولنے کے بعد طواف زیارت سے پہلے خوشبو استعمال کرنا۔

۸۰۵۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں۔ میں نے آنحضرت ﷺ کو احرام لگانے سے پہلے اور نحر کے دن دس ذوالحجہ کو طواف زیارت سے پہلے خوشبو لگائی۔ اس خوشبو میں مسک بھی تھا۔

اس باب میں ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اکثر صحابہ اور بعد کے علماء کی اکثریت کا اسی حدیث پر عمل ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ نحر کے دن یعنی دس تاریخ کو حجرہ عقبہ پر کنکریاں مارنے قربانی کرنے اور حلق یا قصر کرانے

(۱) اس مسئلے کی تفصیل باب ”ما جاء ان عرفه كلها موقف“ میں گزر چکی ہے۔ (مترجم)

کے بعد حرم کے لیے عورتوں کے علاوہ تمام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ یہ شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی قول ہے لیکن حضرت عمر بن خطابؓ سے مروی ہے کہ فرمایا: اس کے لیے عورتوں اور خوشبو کے علاوہ تمام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ بعض علماء صحابہ، اہل کوفہ اور بعض علماء کا بھی یہی قول ہے۔

باب ۶۲۳۔ مَا جَاءَ مِنِّي يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْحَجِّ  
 ۸۰۶۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيَىٰ بْن سَعِيدٍ  
 الْفِطَّانُ عَنْ ابْنِ جَرِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ  
 الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَرَدْتَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْعٍ إِلَىٰ مِنِّي فَلَمْ يَزَلْ يَلْبِسِي حَتَّىٰ  
 رَمَىٰ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

باب ۶۲۳۔ حج میں لبیک..... کہنا کب ترک کیا جائے۔  
 ۸۰۶۔ حضرت فضل بن عباسؓ فرماتے ہیں: آنحضرت ﷺ نے مزدلفہ کو  
 نکلنا مارنے تک مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا۔ آپ ﷺ جمرہ عقبہ کو  
 نکلنا مارنے تک لبیک..... کہتے رہے۔

اس باب میں حضرت علیؓ، ابن مسعود اور ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں فضل بن عباسؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر اہل علم صحابہ وغیرہ کا عمل ہے۔ ان کے نزدیک حاجی کو تلبیہ پڑھنا اسی وقت چھوڑنا چاہئے جب جمرہ عقبہ کو نکلنا مارے۔ شافعی، احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔

باب ۶۲۴۔ مَا جَاءَ مِنِّي يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ  
 ۸۰۷۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ هَشِيمٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ عَنْ  
 عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ أَنَّهُ كَانَ  
 يُمَسِّكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ

باب ۶۲۴۔ عمرے میں تلبیہ پڑھنا کب ترک کرے؟  
 ۸۰۷۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ عمرے میں تلبیہ  
 (لبیک.....) پڑھنا اس وقت چھوڑتے تھے جب حجرا سود کو بوسہ  
 دیتے۔

اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عباسؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر اکثر علماء کا عمل ہے کہ عمرے میں تلبیہ اس وقت تک موقوف نہ کیا جائے جب تک حجرا سود کو بوسہ نہ دے لیا جائے جب کہ علماء کہتے ہیں کہ جب مکہ کی آبادی میں پہنچ جائے تو ترک کر دے لیکن عمل آنحضرت ﷺ کی حدیث پر ہی ہے۔ سفیان، شافعی، احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔

باب ۶۲۵۔ مَا جَاءَ فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ بِاللَّيْلِ  
 ۸۰۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ  
 مَهْدِيٍّ نَا سَفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  
 وَعَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ طَوَافَ  
 الزِّيَارَةِ إِلَى اللَّيْلِ

باب ۶۲۵۔ رات کو طواف زیارت کرنا۔  
 ۸۰۸۔ حضرت ابن عباسؓ اور عائشہؓ فرماتے ہیں: آنحضرت ﷺ نے  
 طواف زیارت میں رات تک تاخیر کی۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ بعض علماء اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے طواف زیارت میں رات تک تاخیر کی اجازت دیتے ہیں۔ جب کہ بعض کے نزدیک نحر کے دن طواف زیارت کرنا مستحب ہے۔ پھر بعض علماء مئی میں قیام کے آخر تک بھی اس کی اجازت کے قائل ہیں۔

باب ۶۲۶۔ مَا جَاءَ فِي نَزْوِلِ الْأَبْطَحِ  
 باب ۶۲۶۔ ابطح (۱) کے مقام پر ٹھہرنا۔

(۱) ابطح: مکہ اور مئی کے درمیان ایک وادی ہے۔ اسے صحب بھی کہتے ہیں۔ (مترجم)

۸۰۹۔ حدثنا اسحاق بن منصور قال ثنا عبدالرزاق نا عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وأبو بکر و عمر و عثمان ینزلون الأبطح

۸۰۹۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں: آنحضرت ﷺ، ابو بکر، عمر اور عثمان بطح میں ٹھہرا کرتے تھے۔

اس باب میں حضرت عائشہؓ، ابن عباسؓ اور ابو رافعؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ ہم اسے صرف عبدالرزاق کی عبید اللہ بن عمر سے روایت سے جانتے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک بطح میں ٹھہرنا مستحب ہے۔ واجب نہیں یعنی اگر چاہے تو ٹھہرے ورنہ واجب نہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں: یہ مناسک حج میں داخل نہیں۔ یہ ایک منزل ہے جہاں آنحضرت ﷺ ٹھہرے۔

۸۱۰۔ حدثنا ابن ابی عمر نا سفیان عن عمرو بن دینار عن عطاء عن ابن عباس قال لیس التحصیب بشیء إنما هو منزل نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

۸۱۰۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں: تحصیب میں ٹھہرنا واجب نہیں وہ تو ایک منزل ہے جہاں آنحضرت ﷺ نے آرام فرمایا:

امام ترمذی کہتے ہیں: تحصیب کے معنی بطح میں اترنے کے ہیں۔ اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۶۲۷۔ من نزل الأبطح

باب ۶۲۷۔ من نزل الأبطح

۸۱۱۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ بطح میں اس لیے ٹھہرے کہ وہاں سے آپ ﷺ کا نکلنا آسان تھا۔

۸۱۱۔ حدثنا محمد بن عبدالاعلیٰ نا یزید بن زریع نا حبيب المعلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبطح لأنه كان أسحح لخروجه

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابن ابی عمرو بواسطہ سفیان، ہشام بن عروہ سے اسی کی مانند روایت کرتے ہیں۔

باب ۶۲۸۔ نچے کاج کرنا۔

باب ۶۲۸۔ مَا جَاءَ فِي حَجِّ الصَّبِيِّ

۸۱۲۔ حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں: ایک عورت ایک بچے کو لے کر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ! کیا اس کاج صحیح ہے؟ فرمایا: ہاں اور ثواب تمہیں ملے گا۔

۸۱۲۔ حدثنا محمد بن طريف الكوفي نا ابو معاوية عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال رفعت امرأة صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إلهذا حج قال نعم ولك أجر

اس باب میں ابن عمرؓ سے بھی روایت ہے۔ جابرؓ کی حدیث غریب ہے۔ قتیبہ، ترمذی، ترمذی بن سوید باہلی سے وہ محمد بن منکدر سے اور وہ

حضرت جابرؓ سے مرفوعاً اسی کے مثل روایت کرتے ہیں جب کہ محمد بن منکدر سے مرسل بھی روایت ہے۔

۸۱۳۔ حضرت سائب بن یزیدؓ فرماتے ہیں: میرے والد نے مجھے لے کر آنحضرت ﷺ کے ساتھ حجۃ الوداع میں حج کیا اس وقت میری عمر

۸۱۳۔ حدثنا قتيبة بن سعيد نا حاتم بن اسمعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال

حَجَّ بِي أَبِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ

سات سال تھی۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے علماء کا اسی پر اجماع ہے کہ نابالغ بچے کا حج کر لینے سے فرض ساقط نہیں ہوتا۔ اسی طرح غلام کا بھی حالتِ غلامی میں کیا ہوا حج کافی نہیں اسے حالتِ آزادی میں دوسرا حج کرنا ہوگا۔ سفیان ثوری، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

۸۱۴۔ حدثنا محمد بن اسمعيل الواسطي قال سمعت ابن نمير عن اشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر قال كُنَّا إِذَا حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا نَلْبِي عَنِ النِّسَاءِ وَنَزِمِي عَنِ الصَّبِيَّانِ

۸۱۳۔ حضرت جابر فرماتے ہیں: ہم جب آنحضرت ﷺ کے ساتھ حج کیا کرتے تھے تو عورتوں کی طرف سے ایک لبتیک ..... کہتے اور بچوں کی طرف سے کنکریاں مارا کرتے تھے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ علماء کا اسی پر اجماع ہے کہ عورت کی طرف سے کوئی دوسرا تلبیہ نہ کہے بلکہ وہ خود کہے لیکن اس کے لیے آواز بلند کرنا مکروہ ہے۔

باب ۶۲۹۔ مَا جَاءَ فِي الْحَجِّ عَنِ الْكَبِيرِ وَالْمَيْتِ

باب ۲۲۹۔ میت اور بوڑھے کی طرف سے حج بدل کرنا۔

۸۱۵۔ حدثنا احمد بن منيع قال ثنا روح بن عباد بن ابي جريح قال اخبرني ابن شهاب قال حدثني سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس ان امرأة من خثعم قالت يا رسول الله ان ابي اذركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع ان يستوي على ظهر البعير قال حجى عنه

۸۱۵۔ حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں: خثعم کی ایک عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے والد پر حج فرض ہو گیا ہے اور وہ بہت عمر رسیدہ ہیں اونٹ پر بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم ان کی طرف سے حج کرو۔

اس باب میں حضرت علیؓ، بریدہؓ، حصین بن عوفؓ، ابوزین عقیلیؓ، سوده اور ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: فضل بن عباسؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ یہ ابن عباسؓ سے بھی بواسطہ ستان بن عبداللہ جہنی ان کی پھوپھی سے مرفوعاً مروی ہے۔ پھر یہ حضرت ابن عباسؓ سے بھی مرفوعاً مروی ہے۔ میں نے امام بخاری سے ان روایات کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا اس باب میں اصح روایت ابن عباسؓ کی فضل بن عباس سے مرفوعاً روایت ہے یہ بھی احتمال ہے کہ ابن عباس نے یہ حدیث فضل بن عباس وغیرہ سے مرفوعاً سنی ہو اور پھر اسے مرسل روایت کر دیا ہو۔ اور فضل بن عباس کے علاوہ کسی دوسرے راوی کا ذکر نہ کیا ہو۔ امام ترمذی کہتے ہیں: اس باب میں آنحضرت ﷺ سے مروی کئی احادیث صحیح ہیں اور اسی حدیث پر صحابہ وغیرہ کا عمل ہے۔ سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے کہ میت کی طرف سے حج کیا جاسکتا ہے امام مالک کہتے ہیں: اگر اس نے حج کرنے کی وصیت کی ہو تو حج کیا جائے۔ بعض علماء اس شخص کے بدلے میں بھی حج کرنے کی اجازت دیتے ہیں جو عمر رسیدہ ہو اور حج نہ کر سکتا ہو، یہ ابن مبارک اور شافعی کا قول ہے۔

باب ۶۳۰۔ بَابُ مِنْهُ

باب ۶۳۰۔ اسی سے متعلق۔

۸۱۶۔ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَيْسَى نَا وَكَيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ  
عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ  
أَبِي رَزِينِ الْعَقِيلِيِّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ  
وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّلْعَنَ قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ

۸۱۶۔ حضرت ابو رزین عقیلی فرماتے ہیں: میں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ! میرے والد بہت بوڑھے ہیں نہ حج کر سکتے ہیں نہ عمرہ اور نہ سواری پر بیٹھنے کے ہی قابل ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم اپنے والد کی طرف سے حج اور عمرہ کر لو۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عمرے کا ذکر اسی حدیث میں ہے کہ کسی دوسرے کی طرف سے بھی کیا جاسکتا ہے۔

ابورزین عقیلی کا نام لقیط بن عامر ہے۔

۸۱۷۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں۔ کہ ایک عورت آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: میری والدہ فوت ہوگئی ہیں وہ حج ادا نہیں کر سکیں کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ فرمایا: ہاں کر سکتی ہو۔

۸۱۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْعَالِي نَا عَبْدِالرِّزَاقِ  
عَنْ سَفِيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ  
عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنِّي أَنَّهُ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى  
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أُمَّيْ مَاتَتْ  
وَلَمْ تَحُجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا  
امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۶۳۱۔ عمرہ واجب ہے یا نہیں؟

باب ۶۳۱۔ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَةِ أَوْ اجْتَبَتْ هِيَ أَمْ لَا

۸۱۸۔ حضرت جابر فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ سے عمرے کے متعلق پوچھا گیا کہ کیا یہ واجب ہے؟ فرمایا: فرض تو نہیں لیکن افضل ضرور ہے۔

۸۱۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْعَالِي الصَّنَعَانِيُّ ثَنَا  
عَمْرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ  
عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ  
الْعُمْرَةِ أَوْ اجْتَبَتْ هِيَ قَالَ لَا وَأَنْ يَعْتَمِرُوا هُوَ أَفْضَلُ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض علماء کا یہی قول ہے کہ عمرہ واجب نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حج کی دو قسمیں ہیں۔ حج اکبر جو نجر کے دن یعنی دس ذوالحجہ کو ہوتا ہے اور دوسرا حج اصغر یعنی عمرہ شافعی کہتے ہیں: عمرہ سنت ہے کسی نے اس کے ترک کی اجازت نہیں دی اور نہ ہی اس کی نفل ہونے کے متعلق کوئی روایت ثابت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ایک روایت اسی طرح کی ہے لیکن ضعیف ہے اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ابن عباسؓ اسے واجب کہتے تھے۔

باب ۶۳۲۔ اسی سے متعلق۔

باب ۶۳۲۔ بَابُ مِنْهُ

۸۱۹۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: عمرہ قیامت تک حج میں داخل ہو گیا۔

۸۱۹۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِالضَّبِيِّ ثَنَا زِيَادُ بْنُ  
عَبْدِاللَّهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ  
ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

اس باب میں سراقہ بن مالک بن عجم اور جابر بن عبد اللہ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن ہے اس کا معنی یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں شافعی، احمد اور اسحاق اسی طرح کہتے ہیں زمانہ جاہلیت کے لوگ حج کے مہینوں میں عمرہ نہیں کیا کرتے تھے لیکن اسلام آیا تو آنحضرت ﷺ نے اس کی اجازت دے دی اور فرمایا ”عمرہ قیامت تک حج میں داخل ہو گیا“۔ یعنی حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ حج کے مہینے یہ ہیں۔ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے دس دن۔ حج کے لیے تلبیہ کہنا انہی چار مہینوں میں جائز ہے۔ پھر حرام کے مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں کئی راوی علماء صحابہ وغیرہ سے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔

باب ۶۳۳۔ مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ فَضْلِ الْعُمْرَةِ

باب ۶۳۳۔ عمرے کی فضیلت

۸۲۰۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيْبٍ نَا وَكَيْعٌ عَنْ سَفِيَانَ عَنْ سَمِيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ تَكْفِيرٌ مَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْحَنَّةُ

۸۲۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مقبول کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۶۳۴۔ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَةِ مِنَ التَّنْعِيمِ

باب ۶۳۴۔ تنعم سے عمرے کے لیے جانا

۸۲۱۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَوْسَى وَابْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا نَا سَفِيَانَ بْنِ عَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ أَرْسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يُعْمَرَ عَائِشَةَ مِنَ التَّنْعِيمِ

۸۲۱۔ حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے حکم دیا کہ عائشہؓ کو تنعم سے عمرے کے لیے احرام بندھو الاؤ۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۶۳۵۔ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَةِ مِنَ الْجِعْرَانَةِ

باب ۶۳۵۔ جعرانہ سے عمرے کے لیے جانا

۸۲۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جَرِيْجٍ عَنْ مِزَاحِمِ بْنِ أَبِي مِزَاحِمٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَرَّرِشِ الْكُعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ لَيْلًا مُعْتَمِرًا فَدَخَلَ لَيْلًا فَقَطَعِيَ عُمْرَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ لَيْلَتِهِ فَأَصْبَحَ بِالْجِعْرَانَةِ كَبَائِتٍ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنْ الْغَدِ خَرَجَ فِي بَطْنِ سَرِفٍ حَتَّى جَاءَ مَعَ الطَّرِيقِ طَرِيقُ جَمْعِ بِنْتِ سَرِفٍ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ خَفِيَتْ عُمْرَتُهُ عَلَى النَّاسِ

۸۲۲۔ حضرت محرز کعبیؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جعرانہ سے رات کے وقت عمرے کے لیے نکلے، اور رات ہی کو مکہ میں داخل ہو کر عمرہ کیا پھر اسی وقت مکہ سے واپس چل دیے اور صبح تک جعرانہ واپس آگئے۔ جیسے کوئی کسی کے ہاں رات رہتا ہے۔ پھر زوال آفتاب کے وقت نکلے، اور سرف کے میدان میں جہاں دو راستے جمع ہوتے ہیں وہاں تک تشریف لائے اسی لیے آپ ﷺ کا یہ عمرہ لوگوں سے پوشیدہ رہا۔

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث غریب ہے، ہم محرش کعسی کی آنحضرت ﷺ سے اس روایت کے علاوہ کوئی روایت نہیں جانتے۔

باب ۶۳۶۔ مَا جَاءَ فِي عُمْرَةِ رَجَبٍ

باب ۶۳۶۔ رجب میں عمرہ کرنا۔

۸۲۳۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ نَا يَحْيَىٰ بِنَ أَدَمَ عَنِ أَبِي بَكْرٍ بِنَ عِيَاشَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ عُرْوَةَ قَالَ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فِي أَبِي شَهْرٍ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِي رَجَبٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا وَهُوَ مَعَهُ تَعْنِي ابْنَ عُمَرَ وَمَا اعْتَمَرَ فِي شَهْرِ رَجَبٍ قَطُّ

۸۲۳۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں: ابن عمرؓ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ ﷺ نے کون سے مہینے میں عمرہ کیا تھا؟ فرمایا: رجب میں۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں ابن عمرؓ حضور اکرم ﷺ کے ہر عمرے میں ان کے ساتھ تھے لیکن آپ ﷺ نے رجب میں کبھی عمرہ نہیں کیا۔

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث غریب ہے۔ میں نے امام بخاری سے سنا کہ حبیب بن ابی ثابت نے عروہ بن زبیر سے کوئی حدیث نہیں سنی۔ احمد بن منیع، حسن بن موسیٰ سے وہ شیبان سے وہ منصور سے وہ مجاہد سے اور وہ ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ ”آنحضرت ﷺ نے چار عمرے کیے جن میں سے ایک رجب میں کیا“ امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۶۳۷۔ مَا جَاءَ فِي عُمْرَةِ ذِي الْقَعْدَةِ

باب ۶۳۷۔ ذی قعدہ میں عمرہ کرنا۔

۸۲۴۔ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُرُوزِيُّ ثَنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ الْكُوفِيُّ عَنِ اسْرَائِيلَ عَنِ أَبِي اسْحَقَ عَنِ الْبُرَّاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ

۸۲۴۔ حضرت براء بن عازبؓ فرماتے ہیں: آنحضرت ﷺ نے ذی قعدہ کے مہینے میں عمرہ کیا۔

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔

باب ۶۳۸۔ مَا جَاءَ فِي عُمْرَةِ رَمَضَانَ

باب ۶۳۸۔ رمضان میں عمرہ کرنا۔

۸۲۵۔ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ نَا أَبُو أَحْمَدَ الزَّبِيرِيُّ ثَنَا اسْرَائِيلُ عَنِ أَبِي اسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ابْنِ أُمِّ مَعْقِلٍ عَنِ أُمِّ مَعْقِلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً

۸۲۵۔ حضرت ام معقلؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب ایک حج کے برابر ہے۔

اس باب میں ابن عباسؓ، جابر ابو ہریرہؓ، انسؓ اور وہب بن جنبشؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں انہیں ہرم بن جنبش بھی کہا جاتا ہے۔ بیان اور جابرؓ، عسی سے اور وہب بن جنبش سے روایت کرتے ہیں۔ (یعنی بیان اور جابر، ”وہب“ اور داؤد ”ہرم“ کہتے ہیں) لیکن وہب صحیح ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ام معقل کی حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ احمد اور اسحاق کا کہنا ہے کہ رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہونا آنحضرت ﷺ سے ثابت ہے۔ اسحاق کہتے ہیں اس حدیث کے معنی بھی اسی طرح ہیں جیسے کہ اس حدیث کے کہ جس نے سورہ اخلاص پڑھی اس نے قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ لیا۔

باب ۶۳۹۔ جو حج کے لیے تلبیہ پڑھنے کے بعد زخمی یا معذور ہو جائے۔  
۸۲۶۔ حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ مجھے حجاج بن عمرو نے بتایا کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جس کا کوئی عضو ٹوٹ گیا یا لنگڑا ہو گیا تو اس کا احرام کھل گیا اور اس پر آئندہ سال حج واجب ہے۔ میں نے یہ حدیث ابو ہریرہ اور ابن عباس کے سامنے بیان کی تو دونوں نے فرمایا: اس نے حج کہا۔

باب ۶۳۹۔ مَا جَاءَ فِي الذِّي يُهَلُّ بِالْحَجِّ فَيَكْسِرُ أَوْ يَعْزَجُ  
۸۲۶۔ حَدَّثَنَا اسْلَخُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا رُوحَ بْنَ عَبَادَةَ  
نَا حِجَّاجَ الصَّوَّافِ نَا يَحْيَى بْنَ كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ  
قَالَ حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ عَمْرِوٍ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَسِرَ أَوْ عَزَجَ فَقَدْ حَلَّ  
وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ  
وَإِبْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَا صَدَقَ

اسحاق منصور، محمد بن عبد اللہ انصاری سے اور وہ حجاج سے اسی کے مثل روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں: ”میں نے آنحضرت ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا“۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ کئی راوی حجاج صواف سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں معمر اور معاویہ بن سلام یہ حدیث یحییٰ بن ابی کثیر سے وہ عکرمہ سے وہ عبد اللہ بن رافع سے وہ حجاج بن عمرو سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے یہی حدیث روایت کرتے ہیں۔ حجاج صواف اپنی روایت میں عبد اللہ بن رافع کا ذکر نہیں کرتے اور حجاج محدثین کے نزدیک ثقہ اور حافظ ہیں۔ امام بخاری کے نزدیک معمر اور معاویہ بن سلام کی روایت اسح ہے۔ عبد بن حمید، عبد الرزاق سے وہ عمر سے وہ یحییٰ بن ابی کثیر سے وہ عکرمہ سے وہ عبد اللہ بن رافع سے وہ حجاج بن عمرو سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔

باب ۶۴۰۔ حج میں اشتراط سے متعلق۔

باب ۶۴۰۔ مَا جَاءَ فِي الْأَشْرَاطِ فِي الْحَجِّ

۸۲۷۔ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ نَا عَبَادَةَ  
الْعَوَامِ عَنْ هَلَالِ بْنِ خَبَابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ  
عَبَّاسٍ أَنَّ ضَبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ آتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ  
أَفَأَشْتَرِطُ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ كَيْفَ أَقُولُ قَالَ قُولِي لَبَّيْكَ  
اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ مَحَلِّي مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ تَحْسِنِي

۸۲۷۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ضباعہ بنت زبیر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا: میں حج کرنا چاہتی ہوں کیا میں شرط لگا سکتی ہوں؟ (یعنی اپنی ہی نیت میں یہ فیصلہ کر لوں کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کسی عذر کی وجہ سے رکتا پڑ جائے۔ اور احرام کھولنا پڑے آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ عرض کیا: کیا کہوں؟ فرمایا: یہ کہو: ”لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ مَحَلِّي مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ تَحْسِنِي“ میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں میرے احرام کھولنے کی جگہ وہی ہے جہاں آپ مجھے روک دیں۔

اس باب میں جاہل، عائشہ اور اسماء سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اسی پر بعض علماء کا عمل ہے کہ احرام کو مشروط کر لینا جائز ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ اگر مشروط احرام کی نیت کی ہو اور پھر بیمار یا معذور ہو جائے تو اس کے لیے احرام کھولنا جائز ہے۔ شافعی، احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔ بعض علماء مشروط احرام کی اجازت نہیں دیتے ان کے نزدیک احرام شرط کے ساتھ لگانے کے بعد بھی کھولنا جائز نہیں۔ یعنی ان کے نزدیک شرط لگانا یا نہ لگانا دونوں برابر ہیں۔ (احناف اسی مسلک کے قائل ہیں)۔ (مترجم)

باب ۶۴۱۔ اسی سے متعلق

باب ۶۴۱۔ بَابٌ مِنْهُ

۸۲۸۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ

۸۲۸۔ سالم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ وہ حج کے احرام کو مشروط

کرنے کا انکار کرتے اور فرماتے: کیا تمہارے لیے نبی ﷺ کی سنت کافی نہیں؟ (۱)

اخیر نبی معمر عن الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ الْإِسْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ وَيَقُولُ الْكَيْسَ حَسْبِكُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ

باب ۶۴۲۔ طوافِ افاضہ کے بعد کسی عورت کو حیض آجانا۔

باب ۶۴۲۔ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضٌ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ

۸۲۹۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ صفیہ بنت جہی، حائضہ ہو گئی ہیں۔ یعنی منیٰ میں قیام کے دنوں میں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا یہ ہمیں روکنے والی ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا: انہوں نے طوافِ افاضہ کر لیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: پھر روکنے کی ضرورت نہیں۔

۸۲۹۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا اللَّيْثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُجَيْبٍ حَاضَتْ فِي أَيَّامِ مِنَى فَقَالَ أَحَابِسْتَنَا هِيَ قَالُوا إِنَّهَا قَدْ أَقَاضَتْ فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا إِذَا

اس باب میں ابن عمرؓ اور ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: حدیث عائشہؓ حسن صحیح ہے اور اسی پر علماء کا عمل ہے کہ اگر کسی عورت کو طوافِ افاضہ کے بعد حیض آجائے تو طوافِ وداع کے لیے رکن اور پاک ہونے کا انتظار کرنا ضروری نہیں۔ ثوری، شافعی، احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔

۸۳۰۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں: جو شخص حج کرے اسے آخر میں بیت اللہ کا طواف کر کے جانا چاہئے ہاں البتہ حائضہ کے لیے طوافِ وداع ترک کرنے کی اجازت ہے۔

۸۳۰۔ حَدَّثَنَا أَبُو عَمَارٍ نَا عَيْسَى بْنِ يُونُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَلْيَكُنْ آخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ إِلَّا الْحَيْضَ وَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر علماء کا عمل ہے۔

باب ۶۴۳۔ حائضہ کون کون سے افعال کر سکتی ہے۔

باب ۶۴۳۔ مَا جَاءَ مَا تَقْضِي الْحَائِضُ مِنَ الْمَنَاسِكِ

۸۳۱۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں: میں حج کے موقع پر ایامِ حیض میں تھی تو آنحضرت ﷺ نے مجھے طوافِ بیت اللہ کے علاوہ تمام مناسک ادا کرنے کا حکم دیا۔

۸۳۱۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا شَرِيكَ عَنْ جَابِرٍ وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ الْجَعْفِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حِضْتُ فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوْفَ بِالْبَيْتِ

امام ترمذی کہتے ہیں علماء کا اسی پر عمل ہے کہ حائضہ طواف کے علاوہ تمام مناسک ادا کرے۔ یہ حدیث حضرت عائشہؓ سے اور سند سے بھی مروی ہے۔

۸۳۲۔ حضرت ابن عباسؓ مروفاً نقل کرتے ہیں کہ حائضہ اور نفساء

۸۳۲۔ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ نَا مَرْوَانَ بْنَ شِجَاعٍ

(۱) اس سے مراد صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے مشروطیت نہیں کی تھی بلکہ جب نہ جاسکے تو احرام کھول دیا اور اس کی تفصیح کی۔ (مترجم)

(نفاس والی) غسل کر کے احرام باندھیں اور تمام مناسک حج ادا کریں  
سوائے بیت اللہ کے طواف کے، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔

الجزري عن خصيف عن عكرمة و مُجاهدٍ وَعَطَاءٍ  
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّفْسَاءَ وَالْحَائِضَ تَغْسِلُ وَتُحْرِمُ  
وَتَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفَ بِالْبَيْتِ  
حَتَّى تَطْهَرَ

یہ حدیث اسی سند سے حسن غریب ہے۔

باب ۶۴۳۔ جو شخص حج یا عمرے کے لیے آئے اسے چاہئے کہ آخر میں  
بیت اللہ سے ہو کر واپس لوٹے۔

باب ۶۴۴۔ مَا جَاءَ مِنْ حَجٍّ أَوْ اعْتَمَرَ فَلْيَكُنْ آخِرُ  
عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ

۸۳۳۔ حضرت حارث بن عبد اللہ بن اوسؓ فرماتے ہیں میں نے  
آنحضرت ﷺ سے سنا: جو شخص اس گھر کا حج یا عمرہ کرے وہ آخر میں  
بیت اللہ کا طواف یعنی طواف وداع کرنے کے بعد روانہ ہو۔ حضرت عمرؓ  
نے فرمایا: افسوس ہے کہ تم نے آنحضرت ﷺ سے یہ حکم سنا اور ہمیں نہیں  
بتایا۔

۸۳۳۔ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ نَا  
الْمَحَارِبِيِّ عَنِ الْحِجَّاجِ بْنِ ارطَاةَ عَنِ عَبْدِ الْمَلِكِ  
بِنِ مَغْيِرَةَ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَيْلِمَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ  
يُونُسَ عَنْ حَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ  
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَجَّ هَذَا  
الْبَيْتِ أَوْ اعْتَمَرَ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ فَقَالَ لَهُ  
عُمَرُ خَرَرْتُ مِنْ يَدَيْكَ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ تُخْبِرْنَا بِهِ

اس باب میں ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: حارث کی حدیث غریب ہے کئی راوی حجاج بن ارطاة سے  
بھی اسی کے مثل روایت کرتے ہیں جب کہ بعض اس سند کے بیان کرنے میں حجاج سے اختلاف بھی رکھتے ہیں۔

باب ۶۴۵۔ قارن ایک ہی طواف کرے

باب ۶۴۵۔ مَا جَاءَ أَنْ الْفَارِغَ يَطُوفُ طَوَافًا وَاحِدًا  
۸۳۴۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ نَا أَبُو معاوية عَنِ  
الْحِجَّاجِ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ قَطَافًا  
لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا

۸۳۳۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں: آنحضرت ﷺ نے حج قرآن کیا۔  
یعنی حج اور عمرہ ایک ساتھ کیا چنانچہ دونوں کے لیے ایک ہی طواف کیا۔

اس باب میں ابن عمرؓ اور ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: حضرت جابرؓ کی حدیث حسن ہے اور اسی پر علماء صحابہ  
وغیرہ میں سے بعض کا عمل ہے کہ قارن ایک ہی طواف کرے۔ شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ جب کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ دو  
مرتبہ طواف اور دو مرتبہ ہی سعی کرے۔ ثوری اور اہل کوفہ بھی اسی کے قائل ہیں۔

۸۳۵۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے  
حج اور عمرے کے لیے احرام باندھا اسے حلال ہونے کے لیے ایک

۸۳۵۔ حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ أَسْلَمَ الْبَغْدَادِيُّ نَا  
عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ

نافِعَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَجْزَاءَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا حَتَّى يَجِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ دروردی اسے ان الفاظ سے روایت کرنے میں منفرد ہیں۔ جب کہ کئی راوی یہ حدیث ابن عمر سے غیر مرفوع روایت کرتے ہیں اور یہ صحیح ہے۔

باب ۶۴۶۔ مَا جَاءَ أَنْ يَمُكَّ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ الصُّدْرِ ثَلَاثًا

۸۳۶۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَاسِفِيَانُ بْنُ عَيْبَةَ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمِيدٍ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ يُعْنِي مَرْفُوعًا قَالَ يَمُكُّ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ قِضَاءِ نُسُكِهِ بِمَكَّةَ ثَلَاثًا

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس سند سے اسی طرح کئی راوی مرفوعاً روایت کرتے ہیں۔

باب ۶۴۷۔ مَا جَاءَ مَا يَقُولُ عِنْدَ الْقُفُولِ مِنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

۸۳۷۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَاسِفِيَانُ بْنُ عَيْبَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَفَلَ مِنْ عَزْوَةٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَعَلَا فَذَقْنَا مِنَ الْأَرْضِ أَوْ شَرَفًا كَبِيرًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ائْتِيُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَائِحُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَادِقَ اللَّهِ وَعِدَّةً وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

۸۳۷۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی جہاد، حج یا عمرے سے واپس تشریف لے جاتے تو جب کسی بلند جگہ یا اونچی چیز یا غیر ہموار زمین سے گزرتے تو تین مرتبہ تکبیر کہتے اور یہ دعا پڑھتے۔

لا اله الا الله ..... حدیث کے آخر تک۔ (ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہم لوٹنے والے توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اپنے رب کے لیے پھرنے والے اور اپنے رب کی حمد و ثناء بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اپنے بندے کی مدد کی اور مخالف لشکروں کو اکیلے شکست دی)۔

اس باب میں برائے، انس اور جاہل سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۶۴۸۔ مَا جَاءَ فِي الْمُحْرَمِ يَمُوتُ فِي إِحْرَامِهِ

۸۳۸۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍَا نَاسِفِيَانُ بْنُ عَيْبَةَ عَنِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ

۸۳۸۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں: ہم آنحضرت ﷺ کے ساتھ سفر میں تھے کہ ایک شخص جو احرام باندھے ہوئے تھا اونٹ سے گرا اور گردن ٹوٹ جانے کی وجہ سے فوت ہو گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اسے

قرای رجلاً سَقَطَ عَنْ بَعِيرِهِ فَوَقَّصَ فَمَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْسَلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُحَجِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَهْلُ أَوْ يَلْبِي

بیری کے پتوں اور پانی سے غسل دے دو انہی کپڑوں میں کفن دے دو اور اس کا سر نہ ڈھکو کیونکہ قیامت کے دن یہ اسی طرح تھلیل یا تلبیہ کہتے ہوئے اٹھایا جائے گا۔ (راوی کو شک ہے کہ تھلیل فرمایا، یا تلبیہ۔ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں)۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سفیان ثوری، شافعی، احمد اور اسحاق اسی کے قائل ہیں لیکن بعض علماء کے نزدیک فوت ہو جانے سے احرام کھل جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے ساتھ بھی غیر محرم ہی کی طرح معاملہ کیا جائے گا۔

باب ۶۴۹۔ مَا جَاءَ أَنَّ الْمُحْرِمَ يَشْتَكِي عَيْنَهُ فَيَضْمُدُهَا بِالصَّبْرِ

باب ۶۳۹۔ محرم اگر آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا ہو جائے، تو ایلوے کا لیپ کرے۔

۸۳۹۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ نَا سَفِيَانَ بْنَ عَيْنَةَ عَنْ ابِي يُوْبَ بْنِ مُوسَى بْنِ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَ مَعْمَرٍ اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَسَأَلَ ابَانَ ابْنَ عَثْمَانَ فَقَالَ اضْمُدْهُمَا بِالصَّبْرِ

۸۳۹۔ نبیہ بن وہب کہتے ہیں: عمر بن عبید اللہ بن معمر کی احرام کی حالت میں آنکھیں دکھنے لگیں۔ انہوں نے ابان بن عثمان سے اس کا تذکرہ کیا تو فرمایا: ان پر ایلوے کا لیپ کرو کیونکہ میں نے عثمان بن عفان کو آنحضرت سے روایت کرتے ہوئے سنا کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ان پر ایلوے کا لیپ کرو۔

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے چنانچہ علماء کا یہی مسلک ہے کہ محرم کے دو استعمال کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں بشرطیکہ اس میں خوشبو نہ ہو۔

باب ۶۵۰۔ مَا جَاءَ فِي الْمُحْرِمِ يَحْلِقُ رَأْسَهُ فِي إِحْرَامِهِ مَا عَلَيْهِ

باب ۶۵۰۔ اگر محرم احرام کی حالت میں سر منڈا دے تو کیا حکم ہے؟

۸۴۰۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ نَا سَفِيَانَ بْنَ عَيْنَةَ عَنْ ابِي يُوْبَ وَابْنِ ابِي نَجِيحٍ وَحَمِيدِ الْاَعْرَجِ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مَجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ابِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ ابْنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَهُوَ يُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ وَالْقَمَلُ يَتَهَافَتُ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ اتَّوَذُّبِكَ هَوَامُكَ هَذِهِ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ احْلِقْ وَأَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينٍ وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ أَصْعٍ أَوْ صَمٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ اَنْسُكَ نَسِيكَةً قَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ أَوْ اذْ بَحْ شَاءَ

۸۴۰۔ حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ حدیبیہ میں مکہ داخل ہونے سے پہلے ان کے پاس سے گزرے وہ احرام کی حالت میں ہنڈیا کے نیچے آگ سلگا رہے تھے اور جوئیں ان کے منہ پر چلی آ رہی تھیں۔ آنحضرت ﷺ نے پوچھا: کیا یہ جوئیں تمہیں اذیت دیتی ہیں؟ عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا: سر منڈا دو اور ایک فرق میں چھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ فرق تین صاع کا ہوتا ہے۔ یا پھر تین دن روزہ رکھو یا ایک قربانی کرو۔ ابن ابی نجیح اپنی روایت میں کہتے ہیں یا ایک بکری ذبح کرو۔

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر علماء صحابہ کا عمل ہے کہ محرم اگر سر منڈا دے یا سلسے ہوئے کپڑے وغیرہ پہن لے یا خوشبو استعمال کر لے تو اس پر اسی طرح کفارہ ہے جیسا کہ آنحضرت ﷺ سے مروی ہے۔

باب ۶۵۱۔ مَا جَاءَ فِي الرَّحْصَةِ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا ۶۵۱۔ چرواہوں کو ایک دن رمی نہ کرنے کی اجازت  
وَيَدْعُوا يَوْمًا

۸۴۱۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍَا سَفِيَانٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ  
بن ابی بکر بن محمد بن عمر بن حزم مَن أَبِيهِ عَنْ  
أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدْعُوا يَوْمًا

امام ترمذی کہتے ہیں: ابن عیینہ بھی اسی طرح روایت کرتے ہیں۔ مالک بن انس بھی عبداللہ بن ابی بکر سے وہ اپنے والد سے اور وہ  
ابو بداح بن عاصم بن عدی سے ان کے والد کے حوالے سے روایت کرتے ہیں۔ مالک کی روایت اصح ہے۔ علماء کی ایک جماعت  
چرواہوں کو ایک دن رمی کرنے اور ایک دن نہ کرنے کی اجازت دیتی ہے، امام شافعی کا بھی یہی قول ہے:

۸۴۲۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَالُ نَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ  
نا مالک بن انس قال حدثني عبدالله بن ابی بکر عَنْ  
أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ  
رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرِّعَاءِ الْإِبِلَ  
فِي الْبَيْتُوتَةِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَجْمَعُوا رَمَى يَوْمَيْنِ  
بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ فَيَرْمُونَهُ فِي أَحَدِهِمَا قَالَ مَالِكٌ طَنَنْتُ  
أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَوَّلِ مِنْهُمَا ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ

یہ حدیث حسن صحیح اور ابن عیینہ کی عبداللہ بن ابی بکر سے مروی حدیث سے اصح ہے۔

۸۴۳۔ حَدَّثَنَا عَبْدِ الْوَارِثُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ  
قال حدثني ابی نا سلیم بن خیاب قال سمعت  
مروان الأصفري عن أنس بن مالك أن علياً قدِمَ علي  
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ بَمَا  
أَهَلَّكَ فَقَالَ أَهَلَّكَ بِمَا أَهَلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا أَن مَعِيَ هَدْيًا لَأَحَلَّكَ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔

۸۴۴۔ حَدَّثَنَا عَبْدِ الْوَارِثُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ  
عبدالوارث نا ابی عن ابیہ عن محمد بن اسحق  
عن ابی اسحق عن الحارث بن علفي قال سألتُ  
حضرت علیؑ فرماتے ہیں میں نے آنحضرت ﷺ سے پوچھا: حج  
اکبر کون سے دن ہوتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: نحر کے دن (یعنی دس  
ذوالحجہ کو)

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَوْمِ الْحَجِّ  
الْأَكْبَرِ فَقَالَ يَوْمَ النَّحْرِ

۸۴۵۔ حضرت علیؑ غیر مرفوع حدیث نقل کرتے ہیں کہ حج اکبر کا دن نحر کا دن ہے۔

۸۴۵۔ حدثنا ابن عمر نا سفیان بن عیینة عن ابی اسحق عن الحارث عن علی قال یوم الحج الاکبر یوم النحر ولم یرفعه

یہ حدیث پہلی حدیث سے اس صحیح ہے اور ابن عیینہ کی موقوف روایت محمد بن اسحاق کی مرفوع روایت سے اس صحیح ہے۔ کئی حفاظ حدیث ابواسحاق سے وہ حارث سے اور وہ حضرت علیؑ سے اسی طرح موقوف روایت کرتے ہیں۔

۸۴۶۔ ابو عبید بن عمیر اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ابن عمرؓ دونوں رکنوں (حجر اسود اور رکن یمانی) پر ٹھہرا کرتے تھے میں نے کہا: اے ابو عبید الرحمن آپ دونوں رکنوں پر ٹھہرتے ہیں جب کہ میں نے کسی صحابی کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ابن عمرؓ نے فرمایا: کیوں نہ ٹھہروں۔ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ ان کو چھونے سے گناہوں کا کفارہ ادا ہوتا ہے۔ میں نے یہ بھی سنا کہ فرمایا: جس شخص نے اس گھر کا سات مرتبہ طواف کیا اور گناہوں کے لیے ایک غلام آزاد کرنے کا اجر ہے یہ بھی سنا کہ فرمایا: طواف میں جب کوئی شخص ایک قدم رکھتا اور دوسرا اٹھاتا ہے تو اس کا ایک گناہ معاف اور ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔

۸۴۶۔ حدثنا قتیبة نا جریر عن عطاء بن السائب عن ابی عبید بن عمیر عن ابیہ ان ابن عمر کان یزاحم علی الرکنین فقلت یا ابا عبد الرحمن انک تزاحم علی الرکنین زحاما ما رأیت احدا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یزاحم علیہ فقال ان افعل فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان مسحهما کفارة للخطایا وسمعته یقول من طاف بهذا البیت استبوعا فاحصاه کان کعتق رقبة وسمعته یقول لا یضع قدما ولا یرفع اخری الا حط اللہ عنه بها خطیئة وکتبت له بها حسنة

امام ترمذی کہتے ہیں: حماد بن زید بھی عطاء بن سائب سے وہ عبید بن عمیر سے اور وہ ابن عمرؓ سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں لیکن ابن عبید کے والد کا ذکر نہیں کرتے یہ حدیث حسن ہے۔

باب ۶۵۲۔ بلا عنوان

باب ۶۵۲۔

۸۴۷۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: بیت اللہ کا طواف نماز ہی کی طرح ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ تم اس میں باتیں کر لیتے ہو لہذا جو شخص بات کرے اچھی ہی کرے۔

۸۴۷۔ حدثنا قتیبة نا جریر عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الطواف حول البیت مثل الصلوة الا انکم تتکلمون فیہ فمن تکلم فلا یتکلم الا بخیر

امام ترمذی کہتے ہیں: ابن طاووس وغیرہ طاووس سے اور وہ ابن عباسؓ سے یہ حدیث موقوف روایت کرتے ہیں۔ ہم اسے عطاء بن سائب کی روایت کے علاوہ مرفوع نہیں جانتے۔ اکثر علماء اسی پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ طواف میں باتیں نہ کرنا مستحب ہے لیکن ضرورت کے وقت یا علم کی باتیں کرنے کی اجازت ہے یا پھر ذکر کرتا رہے۔

باب ۶۵۳۔

باب ۶۵۳۔ بلا عنوان

۸۴۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ نَا حَرِيرٍ عَنِ ابْنِ خَثِيمٍ عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجْرِ وَاللَّهُ لَيُبَعَثَنَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانًا يُنطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَيَّ مَنْ اسْتَلَمَهُ بِحَقِّ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔

۸۴۸۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حجرِ اسود کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا: کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس حالت میں اٹھائیں گے کہ اس کی دو آنکھیں اور زبان ہوگی جن سے وہ دیکھے اور باتیں کرے گا۔ اور جس نے اسے چھوا یا بوسہ دیا ہوگا۔ اس کے متعلق گواہی دے گا۔

۸۴۹۔ حَدَّثَنَا هِنَادُنا وَكَيْعٌ عَنِ حَمَادِ بْنِ سَلْمَةَ عَنِ فَرْقَدِ السَّبْحِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدَّهْنُ بِالزَّيْتِ وَهُوَ مُحْرِمٌ غَيْرَ الْمُقْتَتِ

۸۴۹۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ احرام کی حالت میں بغیر خوشبو کا تیل استعمال کرتے تھے۔

امام ترمذی کہتے ہیں مقتت خوشبودار کو کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے ہم اسے فرقہ نجی کی سعید بن جبیر سے روایت سے ہی جانتے ہیں۔ یحییٰ بن سعید نے فرقہ نجی میں کلام کیا ہے لیکن لوگ ان سے روایت کرتے ہیں۔

باب ۶۵۴۔

باب ۶۵۴۔ بلا عنوان

۸۵۰۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ نَا خِلَادُ بْنُ يَزِيدَ الْجَعْفِيُّ نَا زَهْرَةَ بْنِ مَعَاوِيَةَ عَنِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ أَبِيهِ عَنِ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْمِلُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَتُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْمِلُهُ

۸۵۰۔ حضرت عائشہ زَمْزَم کا پانی اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھیں اور فرماتیں کہ آنحضرت ﷺ بھی لے جایا کرتے تھے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

باب ۶۵۵۔

باب ۶۵۵۔ بلا عنوان

۸۵۱۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ الْوَاسِطِيُّ الْمَعْنِيُّ وَاحِدٌ قَالَا نَا اسْحَقُ بْنُ يَوْسُفَ الْأَزْرَقِ عَنِ سُفْيَانَ عَنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ قُلْتُ لِأَنْسِ حَدِيثِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ بَيْنِي قَالَ قُلْتُ وَ أَيْنَ صَلَّى العَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ قَالَ بِالْأَبْطَحِ ثُمَّ قَالَ أَفْعَلُ كَمَا يَفْعَلُ أَمْرًا وَكَ

۸۵۱۔ عبدالعزیز بن رفیع کہتے ہیں میں نے انس سے کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ آنحضرت ﷺ نے آٹھ ذواج کو ظہر کی نماز کہاں پڑھی تھی؟ فرمایا: منیٰ میں نے کہا: جس روز روانہ ہوئے اس روز عصر کہاں پڑھی؟ فرمایا: اَبْطَح میں۔ پھر فرمایا: تم دو ہیں نماز پڑھا کرو جہاں تمہارے حج کے امراء پڑھیں۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث اسحاق ازرق کی روایت سے حسن صحیح غریب معلوم ہوتی ہے۔ وہ ثوری سے روایت کرتے ہیں۔

حج کے ابواب ختم ہو گئے۔

## أَبْوَابُ الْجَنَائِزِ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۶۵۶۔ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ الْمَرَضِ

۸۵۲۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ أَبِي مَعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ

باب ۶۵۶۔ بیماری پر اجر سے متعلق  
۸۵۲۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: مؤمن کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھ جائے یا اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند اور ایک گناہ کم کر دیتے ہیں۔

اس باب میں سعد بن ابی وقاصؓ، ابو سعید بن جراحؓ، ابو ہریرہؓ، ابوامامہؓ، ابوسعیدؓ، انسؓ، عبداللہ بن عمرؓ، اسد بن کرزہؓ، جابرؓ، عبدالرحمن بن ازہرؓ اور ابو موسیٰؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۸۵۳۔ حَدَّثَنَا سَفِيانُ بْنُ وَكَيْعٍ نَا أَبِي عَن إِسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ بَشَّارٍ عَنِ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا حَزَنٍ وَلَا وَصَبٍ حَتَّىٰ أَلْهَمَ بِهِمُةً إِلَّا يُكَفِّرَ اللَّهُ بِهِ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ

۸۵۳۔ حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جب بھی کسی مؤمن کو کوئی درد، غم یا دکھ یہاں تک کہ اگر کوئی پریشانی بھی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مؤمن کے گناہوں کو کم کر دیتے ہیں۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جارود، وکیع کے حوالے سے کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: میں نے اس روایت کے علاوہ کسی روایت میں نہیں سنا کہ پریشانی یا فکر سے بھی گناہ کم ہوتے ہوں۔ بعض راوی یہ حدیث عطاء بن یسار سے اور وہ ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں۔

باب ۶۵۷۔ مَا جَاءَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ

۸۵۴۔ حَدَّثَنَا حَمِيدُ بْنُ مَسْعُودَةَ نَائِزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا خَالِدَ الْحَذَاءِ عَنِ أَبِي قَلَابَةَ عَنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ الرَّحْبِيِّ عَنِ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ الْمُسْلِمُ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ

باب ۶۵۷۔ مریض کی عیادت کرنا۔  
۸۵۴۔ حضرت ثوبانؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کوئی مسلمان کسی مسلمان کی ہتھی دیر تک عیادت کرتا ہے۔ اتنی دیر جنت میں میوے چننا رہتا ہے۔

اس باب میں علیؓ، ابو موسیٰؓ، براءؓ، ابو ہریرہؓ، انسؓ اور جابرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ثوبان کی حدیث حسن ہے۔ ابو غفار اور عاصم احوال یہ حدیث ابو قلابہ سے وہ ابو الاشعث سے وہ ابواسماء سے وہ ثوبان سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے مانند روایت کرتے ہیں۔ میں نے محمد سے سنا کہ جو یہ حدیث ابو اشعث سے روایت کرتے ہیں۔ وہ ابواسماء سے بھی روایت کرتے ہیں۔

محمد بن وزیر واسطی، یزید بن ہارون سے وہ عاصم احوال سے وہ ابو قلابہ سے وہ ابواحسب سے وہ ابواسماء سے وہ ثوبان سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے مثل روایت کرتے ہوئے یہ الفاظ زیادہ نقل کرتے ہیں۔ "قبل ماخرقة الجنة قال جناها"، یعنی پوچھا گیا خرفہ جنت کیا ہے تو فرمایا: میوے چننا۔ احمد بن عبدہ نسبی، حماد بن زید سے وہ ابویب سے وہ ابو قلابہ سے وہ ابواسماء سے وہ ثوبان سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے خالد کی حدیث کے مانند روایت کرتے ہوئے ابواحسب کا ذکر نہیں کرتے۔ بعض راوی یہ حدیث حماد بن زید سے بھی غیر مرفوع روایت کرتے ہیں۔

۸۵۵۔ ثور اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: علیؑ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا چلو حسینؑ کی عیادت کے لیے چلیں۔ چنانچہ ابوموسیٰ بھی وہیں تھے۔ حضرت علیؑ نے پوچھا: ابوموسیٰ آپ زیارت کے لیے آئے ہیں یا عیادت کے لیے فرمایا: عیادت کیلئے۔ حضرت علیؑ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو ستر ہزار فرشتے شام تک اس کیلئے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اگر رات کو دوبارہ عیادت کر لے تو اسی طرح صبح تک مغفرت مانگتے ہیں۔ نیز اس کیلئے جنت میں ایک باغ بھی لگایا جائے گا۔

۸۵۵۔ حدثنا احمد بن منيع نا الحسن بن محمد نا اسرائيل عن ثوير عن ابيه قال اخذني علي بيدي فقال انطلق بنا الى الحسين نعوذة فوجدنا عنده ابا موسى فقال علي اعاندا جئت يا ابا موسى ام زائرا فقال لا بل عاندا فقال علي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعوذ مسلما عذوة الا صلى عليه سبعون الف ملك حتى يمسي وان عادة عشية الا صلى عليه سبعون الف ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے اور حضرت علیؑ ہی سے کئی سندوں سے مروی ہے۔ بعض راوی یہ حدیث موقوفاً روایت کرتے ہیں۔ ابواحسب کا نام سعید بن علاقہ ہے۔

باب ۶۵۸۔ ماجاء في النهي عن التمني للموت

باب ۶۵۸۔ موت کی تمنا کرنے کی ممانعت۔

۸۵۶۔ حضرت حارث بن مغرب کہتے ہیں میں خواب کے پاس گیا انہوں نے اپنے پیٹ کو کسی بیماری کی وجہ سے دافا تھا۔ فرمانے لگے: مجھے نہیں معلوم صحابہ میں سے کسی پر اتنی مصیبتیں آئی ہوں جتنی مجھ پر آئیں۔ میرے پاس آنحضرت ﷺ کے زمانے میں ایک درہم بھی نہیں ہوتا تھا اور اب میرے گھر کے کونے میں چالیس ہزار درہم پڑے ہوئے ہیں۔ اگر رسول اللہ ﷺ نے موت کی تمنا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں موت کی تمنا کرتا۔

۸۵۶۔ حدثنا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن ابي اسحق عن حارثة بن مضرب قال دخلت على حباب وقد اكثوى في بطنه فقال ما اعلم احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقي من البلاء ما لقيت لقد كنت وما اجد درهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ناحية بيتي اربعون الفا ولو لا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انها نا او نهى ان يتمنى الموت لتمنيت

اس باب میں ابو ہریرہؓ، انسؓ اور جابرؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں: خواب کی حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت انسؓ سے بھی مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: "تم میں سے کوئی شخص کسی نقصان کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے بلکہ اس طرح کہے اللھم احیننی ما كانت الحيوة خیرالی وتوفنی اذا كانت الوفاة خیرالی" یعنی یا اللہ اگر میرے لیے زندگی بہتر ہو تو زندہ رکھ اور اگر موت

بہتر ہو تو موت دے دے۔ علی بن جبر، اسلمیل بن ابراہیم سے وہ عبدالعزیز بن صہیب سے وہ انس بن مالک سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے یہی حدیث روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۶۵۹۔ مَا جَاءَ فِي التَّعْوِذِ لِلْمَرِيضِ

باب ۶۵۹۔ مریض کے لیے دعا (دم) سے متعلق

۸۵۷۔ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ هَلَالٍ الصَّوَّافِ الْبَصْرِيُّ نَا

۸۵۷۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ حضرت جبرئیلؑ آنحضرت ﷺ

عَبْدُ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صَهِيْبٍ عَنْ

کے پاس آئے اور فرمایا: اے محمد (ﷺ) کیا آپ بیمار ہیں؟ فرمایا: ہاں۔

اَبِي نَضْرَةَ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ اَنَّ جِبْرِيْلَ اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى

جبرئیل نے فرمایا: بسم اللہ..... حدیث کے آخر تک۔ (ترجمہ) اللہ کے

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اسْتَكْبَيْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ

نام پر ہر اس چیز سے افسوس پڑھتا ہوں جو آپ کو اذیت میں مبتلا کرے

بِسْمِ اللَّهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ

پھر ہر شخص کی برائی یا حسد کرنے والی آنکھ سے اللہ کے نام پر افسوس

نَفْسٍ وَعَيْنٍ حَاسِدَةٍ بِسْمِ اللَّهِ اَرْقِيْكَ وَاللَّهُ يَشْفِيْكَ

پڑھتا ہوں اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔

۸۵۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ

۸۵۸۔ حضرت عبدالعزیز بن صہیب فرماتے ہیں کہ میں اور ثابت بنانی

عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صَهِيْبٍ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَثَابِتُ الْبَنَانِيُّ

حضرت انسؓ کے پاس گئے ثابت نے کہا: اے ابو حمزہ میں علیل ہوں۔

عَلَى اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ ثَابِتٌ يَا اَبَا حَمَزَةَ

انسؓ نے فرمایا: کیا میں تم پر رسول اللہ ﷺ کی دعا پڑھ کر نہ پھوٹوں؟ عرض

اسْتَكْبَيْتَ فَقَالَ اَنَسٌ اَفَلَا اَرْقِيْكَ بِرُقِيَةِ رَسُوْلِ اللَّهِ

کیا: کیوں نہیں۔ چنانچہ انسؓ نے یہ پڑھا۔ ”اللھم رب الناس“.....

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلَى قَالَ اَللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ

حدیث کے آخر تک۔ (ترجمہ) اے لوگوں کے پروردگار اے تکلیفوں کو

مُذْهِبِ الْبَاسِ اشْفِ اَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِيَ اِلَّا اَنْتَ

دور کرنے والے شفاء عطا فرما صرف تو ہی شفا دینے والا ہے تیرے علاوہ

شِفَاءٌ لَا يَغَادِرُ سَقَمًا

کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ ایسی شفاء عطا فرما کہ کوئی بیماری نہ رہے۔

اس باب میں انسؓ اور عائشہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابو سعیدؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ میں نے ابو زرہ سے اس

حدیث کے متعلق پوچھا کہ عبدالعزیز کی ابو نضرہ سے بحوالہ ابو سعید مروی حدیث زیادہ صحیح ہے یا عبدالعزیز کی انسؓ سے مروی حدیث؟

ابو زرہ نے کہا: دونوں صحیح ہیں۔ عبدالصمد بن عبدالوارث اپنے والد سے وہ عبدالعزیز بن صہیب سے وہ ابو نضرہ سے اور وہ ابو سعیدؓ سے

روایت کرتے ہیں۔ پھر عبدالعزیز بن صہیب انسؓ سے بھی روایت کرتے ہیں۔

باب ۶۶۰۔ مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى الْوَصِيَّةِ

باب ۶۶۰۔ وصیت کی ترغیب

۸۵۹۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَمِيْرٍ نَا

۸۵۹۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ہر مسلمان کو

عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ

چاہئے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جس کے متعلق وصیت ضروری ہو تو اس

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ حَقَّ امْرَأٍ مُّسْلِمٍ يَبِيْتُ

پر دو راہیں ایسی نہ گزریں کہ اس کی وصیت کتابت کی صورت میں اس

لِكِلْتَايْنِ وَاَلَهُ شَيْءٌ يُؤْصِي فِيهِ اِلَّا وَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ

کے پاس موجود نہ ہو۔

اس باب میں ابن ابی اوفیٰ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عمرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۶۶۱۔ مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ بِالثَّلْثِ وَالرُّبْعِ

باب ۶۶۱۔ تہائی یا چوتھائی مال کی وصیت کرنا

۸۶۰۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا جَرِيْرٌ عَنِ عَطَاءِ بْنِ الْمَسَائِبِ

۸۶۰۔ حضرت سعد بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ میری

وصیت کرنا

علائق کے دوران عیادت کے لیے تشریف لائے اور فرمایا: تم نے وصیت کر دی ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ فرمایا: کتنے مال کی میں نے کہا: اللہ کی راہ میں پورے مال کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کیا وہ سب غنی ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اپنے مال کے دسویں حصے کی وصیت کرو۔ یعنی نو حصے اولاد کے لیے چھوڑو میں اس میں کمی کرتا رہا۔ یہاں تک کہ آپ ﷺ نے فرمایا: اچھا تہائی مال کی وصیت کرو حالانکہ یہ بھی بہت ہے۔ ابو عبد الرحمن کہتے ہیں ہم چاہتے تھے کہ وہ اس میں سے بھی کچھ کم کی وصیت کریں کیونکہ آپ ﷺ نے فرمایا: تہائی حصہ بھی بہت ہے۔

عن ابی عبدالرحمن السلمی عن سعد بن مالک قال عادینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وأنا مریض فقال اوصیت قلت نعم قال بکم قلت بما لی کلبہ فی سبیل اللہ قال فما ترکت لولدک قلت ہم اغنیاء بخیر فقال اوص بالعشر فما زلت انا قصه حتی قال اوص بالثلث والثلث کبیر قال ابو عبد الرحمن فنحن نستحب ان ینقص من الثلث لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والثلث کبیر

اس باب میں ابن عباس سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: سعدی حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے مروی ہے۔ پھر کئی سندوں میں ”کبیر“ اور کئی میں ”کثیر“ کا لفظ آیا ہے۔ علماء کا اسی پر عمل ہے کہ کوئی شخص تہائی مال سے زیادہ کی وصیت نہ کرے بلکہ ٹکٹ (تہائی) سے بھی کم کی وصیت کرنا مستحب ہے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ علماء مال کے پانچویں یا چوتھے حصے کی وصیت کو مستحب سمجھتے تھے اور جس نے تہائی کی وصیت کی گویا کہ اس نے کچھ نہیں چھوڑا۔ اس سے زیادہ کی وصیت کرنا جائز ہی نہیں۔

باب ۶۶۲۔ حالت نزع میں مریض کو تلقین کرنا اور اس کے لیے دعا کرنا۔

باب ۶۶۲۔ ماجاء فی تلقین المریض عند الموت والدعاء له

۸۶۱۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قریب المرگ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔

۸۶۱۔ حدثنا ابوسلمة یحیی ابن خلف البصری نا بشر بن المفضل عن عمارة بن غزوة عن یحیی بن عمارة عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لقنوا موتاكم لا اله الا الله

اس باب میں ابو ہریرہ، ام سلمہ عائشہ، جابر اور سعدی المریہ سے بھی روایت ہے۔ سعدی مریہ، طلحہ بن عبید اللہ کی بیوی ہیں۔ امام

ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۸۶۲۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اگر تم کسی مریض یا میت کے پاس جاؤ تو اچھی دعا کرو اس لیے کہ فرشتے تمہارے دعا کرنے پر آمین کہتے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ فوت ہوئے تو میں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ (ابو سلمہ فوت ہو گئے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا اس طرح پڑھو۔ ”اللهم“ سے ”حسنہ“ تک۔) (ترجمہ: اے اللہ میری اور ان کی مغفرت فرما اور ان کے بدلے میں مجھے ان سے بہتر عطا فرما۔)

۸۶۲۔ حدثنا ہنادنا ابو معاویہ عن الاعمش عن شقیق عن ام سلمة قالت قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضرتم المریض او المیت فقولوا خیرا فان الملائكة یؤمنون علی ما تقولون قالت فلما مات ابوسلمة اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ ان اباسلمة مات قال فقولی اللہم اغفر لی ولہ واعقبنی منه عقبی حسنہ

قالت فقلت فاعقبني الله منه من هو خير منهُ ام سلمة عمراتی ہیں میں نے یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بہتر رسول اللہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

امام ترمذی کہتے ہیں: شقیق بن شقیق بن سلمہ ابو وائل اسدی ہیں۔ ام سلمہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ موت کے وقت ”لا الہ الا اللہ“ کی تلقین کرنا مستحب ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں: اگر وہ ایک مرتبہ پڑھ لے تو بار بار اسے اس کی تلقین نہ کی جائے۔ ابن مبارک سے مروی ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ایک شخص نے انہیں اس کلمے کی بار بار تلقین کی۔ اس پر انہوں نے فرمایا: جب میں نے ایک مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لیا تو جب تک کوئی دوسری بات نہ کروں اسی پر ہوں۔ ان کے اس طرح کہنے کا مقصد آنحضرت ﷺ کی اس حدیث پر عمل کرنا ہے ”من کان آخر کلامه ”لا الہ الا اللہ دخل الجنة“ جس کا آخری کلام یہ کلمہ ہو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔

باب ۶۶۳۔ موت کی سختی سے متعلق۔

باب ۶۶۳۔ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ عِنْدَ الْمَوْتِ

۸۶۳۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں: میں نے آنحضرت ﷺ کو وفات سے پہلے دیکھا۔ آپ ﷺ کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ آپ ﷺ اپنا دست مبارک پانی کے پیالے میں ڈبوتے اور چہرے پر مل لیتے تھے۔ پھر فرماتے: اللهم اعني ..... حدیث کے آخر تک۔ اے اللہ موت کی سختیوں اور تکلیفوں پر میری مدد فرما۔

۸۶۳۔ حدثنا قتيبة نا الليث عن ابن الهاد عن موسى ابن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها قالت رأيت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يذجل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم اعني على عمرات الموت وسكرات الموت

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے۔

۸۶۴۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ کی وفات کے موقع پر موت کی شدت دیکھنے کے بعد میں کسی کی آسانی سے موت کی تمنا نہیں کرتی۔

۸۶۴۔ حدثنا الحسن بن الصباح البزار نا مبشر بن اسمعيل الحلبي عن عبدالرحمن بن العلاء عن ابيه عن ابن عمر عن عائشة قالت ما اغبط احدا بيهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

امام ترمذی کہتے ہیں میں نے ابو زرہ سے اس حدیث کے متعلق پوچھا کہ عبدالرحمن بن علاء کون ہیں۔ کہنے لگے علاء بن جلاب کے بیٹے ہیں۔ میں اس حدیث کو اس سند کے علاوہ نہیں جانتا۔

توضیح: حضرت عائشہ کی مذکورہ بالا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو میں سمجھتی تھی کہ موت کی سختی کثرت ذنوب کی وجہ سے ہوتی ہے لیکن آپ ﷺ کی وفات دیکھی تو معلوم ہوا کہ یہ درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ اس لیے میں کسی کے لیے آسانی سے موت کی تمنا نہیں کرتی۔ واللہ اعلم۔ (مترجم)

باب ۶۶۴۔ بلا عنوان

باب ۶۶۴۔

۸۶۵۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: مؤمن جب مرتا ہے تو شدت تکلیف سے اس

۸۶۵۔ حدثنا ابن بشار نا يحيى ابن سعيد عن المثني بن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن

آبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ  
يَمُوتُ بِعَرَقِ الْحَبِيبِ

اس باب میں ابن مسعود سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن ہے۔ بعض محدثین کہتے ہیں۔ قتادہ کے عبد اللہ بن بریدہ سے سماع کا ہمیں علم نہیں۔

باب ۶۶۵۔ بلا عنوان

باب ۶۶۵۔

۸۶۶۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ ایک جوان شخص کے پاس تشریف لے گئے وہ قریب المرگ تھا آپ ﷺ نے فرمایا: خود کو کیسا پار ہے ہو؟ عرض کیا: یا رسول اللہ! میں اللہ کی رحمت و مغفرت کا امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے خوف میں مبتلا ہوں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اگر کسی مؤمن کے دل میں یہ دونوں چیزیں (امید اور خوف) جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی امید کے مطابق عطا کرتے اور اس چیز سے اس کو دور کر دیتے ہیں جس سے وہ ڈرتا ہے۔

۸۶۶۔ حدثنا عبد الله بن ابي زياد وهارون بن عبد الله البزاز البغدادي قالانا سيار بن حاتم نا جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو بالموت فقال كيف تجدك قال والله يا رسول الله اني ارجو الله واني اخاف دنوبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن الا اعطاه الله ما يرجو وامنه مما يخاف

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے۔ بعض راوی یہ حدیث ثابت سے مرسل روایت کرتے ہیں۔ یعنی انسؓ کا ذکر نہیں کرتے۔

باب ۶۶۶۔ کسی کی موت کی خبر کا اعلان کرنے کی کراہت

باب ۶۶۶۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّعْيِ

۸۶۷۔ حضرت خدیفہؓ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا: جب میں مروں تو کسی کو خبر نہ کرنا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ یہ بھی نہیں ہے میں نے آنحضرت ﷺ کو نبی (موت کا اعلان کرنے) سے منع فرماتے ہوئے سنا۔

۸۶۷۔ حدثنا احمد بن منيع نا عبد القدوس بن بكر بن حنيس نا حبيب بن سليمان العبسي عن بلال بن يحيى العبسي عن خديفة قال اذا ميت فلا تؤذونوا بي احدا فانني اخاف ان يكون نعيًا و اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي

یہ حدیث حسن ہے۔

۸۶۸۔ حضرت عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: نبی سے بچو یہ زمانہ جاہلیت کے عملوں میں سے ہے۔ عبد اللہؓ کہتے ہیں نبی: کسی کی موت کا اعلان کرنا ہے۔

۸۶۸۔ حدثنا محمد بن حميد الرازي نا حكام بن سلم وهارون بن المغيرة عن عنبسة عن ابي حمزة عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والنعي فان النعي من عمل جاهلية قال عبد الله والنعي اذان بالميت

اس باب میں خدیفہ سے بھی روایت ہے۔ سعید بن عبد الرحمن مخزومی، عبد اللہ بن ولید عدنی سے وہ سفیان ثوری سے وہ ابو حمزہ سے وہ ابراہیم سے وہ علقمہ سے اور وہ عبد اللہؓ سے اسی کے مثل غیر مرفوع روایت کرتے ہوئے "النعي اذان بالميت" کے الفاظ بیان نہیں کرتے۔

یہ حدیث عنبرہ کی ابوہزہ سے مروی حدیث سے صحیح ہے۔ ابوہزہ کا نام۔ میمون اور ہے یہ محدثین کے نزدیک قوی نہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں: عبداللہ کی حدیث غریب ہے۔ بعض علماء ہی کو مکروہ کہتے ہیں اور ان کے نزدیک اس سے مراد یہی ہے کہ کسی کی موت کا اعلان کیا جائے تاکہ لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوں۔ بعض علماء کہتے ہیں: اپنے اقرباء کو خریدنے میں کوئی مضا تقہ نہیں۔ ابراہیم سے بھی یہی مروی ہے۔

باب ۶۶۷۔ ۶۶۷۔ اصل صبر وہی ہے جو صدمے کے شروع میں ہو۔  
۸۶۹۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اصل میں صبر وہی ہے جو صدمہ ہوتے ہی ہو۔

باب ۶۶۷۔ مَا جَاءَ أَنَّ الصَّبْرَ فِي الصَّدْمَةِ الْأُولَى  
۸۶۹۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ  
عَنْ سَعْدِ بْنِ سَنَانَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّبْرُ فِي الصَّدْمَةِ الْأُولَى

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔

۸۷۰۔ ثابت بنانی، حضرت انسؓ سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: صبر وہی ہے جو مصیبت کے نازل ہوتے ہی ہو۔

۸۷۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ  
عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّبْرُ عِنْدَ  
صَدْمَةِ الْأُولَى

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حسن صحیح ہے۔

باب ۶۶۸۔ میت کو بوسہ دینا۔  
۸۷۱۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے عثمان بن مظعون کی میت کو بوسہ دیا اس وقت آپ ﷺ رو رہے تھے یا فرمایا: آپ ﷺ کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔

باب ۶۶۸۔ مَا جَاءَ فِي تَقْبِيلِ الْمَيِّتِ  
۸۷۱۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ  
مَهْدِي نَا سَفِيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ الْقَاسِمِ  
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ وَهُوَ يَبْكِي أَوْ قَالَ  
عَيْنَاهُ تَدْرِي فَا نَ

اس باب میں ابن عباسؓ، جابرؓ اور عائشہؓ سے بھی روایت ہے۔ یہ سب حضرات کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیقؓ نے آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد آپ ﷺ کا بوسہ لیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں۔ حدیث عائشہؓ حسن صحیح ہے۔

باب ۶۶۹۔ میت کو غسل دینا۔

۸۷۲۔ حضرت ام عطیہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی صاحبزادی فوت ہوئیں تو آپ ﷺ نے فرمایا: انہیں طاق اعداد میں تین تہ یا پانچ تہ سے زیادہ مرتبہ غسل دو یعنی اگر مناسب سمجھو تو۔ اور غسل پانی اور پیر کے پتوں سے دو اور آخری مرتبہ اس میں کافور ڈالو۔ یا فرمایا: تھوڑا سا کافور ڈالو۔ پھر جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے بتا دینا۔ چنانچہ ہم نے فارغ

باب ۶۶۹۔ مَا جَاءَ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ  
۸۷۲۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا هَشِيمُ نَا خَالِدُ  
وَمَنْصُورٌ وَهَشَامُ فَا مَا أَحْمَدُ وَهَشَامُ فَقَالَ عَنِ مُحَمَّدٍ  
وَ حَفْصَةَ وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَ  
تَوَفَّيْتُ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فَقَالَ اغْسِلْنَهَا وَتَرَا لَنَا أَوْ حَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ

ہو کر آنحضرت ﷺ کو بتایا تو آپ ﷺ نے اپنی تہ بند ہمیں دی اور فرمایا: کہ اسے ان کے جسم پر لپیٹ دو۔ ہشیم دوسری روایت میں کہتے ہیں کہ (مجھے معلوم نہیں لیکن میرا خیال ہے کہ ہشام بھی انہی میں سے ہیں) ام عطیہؓ فرماتی ہیں: ہم نے ان کے بالوں کی تین چوٹیاں بنائیں۔ ہشیم کہتے ہیں: میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے انہیں پیچھے کی طرف ڈال دیا۔ ہشیم کہتے ہیں پھر خالد نے حفصہ اور محمد سے اور انہوں نے ام عطیہ سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا: آنحضرت ﷺ نے ہمیں حکم دیا کہ وضو کے اعضاء اور داہنی جانب سے شروع کریں۔

إِنَّ رَأَيْتَنِي وَأَعْسَلْتَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنِي فِي الْأَجْرَةِ  
كَمَا قُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَأَفُورٍ فَإِذَا فَرَعْتَنِي فَأَذِنْتَنِي فَلَمَّا  
فَرَعْنَا إِذْ نَاهَا فَالْقَى إِلَيْنَا حَفْوَةً فَقَالَ اشْعُرْ نَهَا بِهِ قَالَ  
هُشَيْمٌ وَفِي حَدِيثٍ غَيْرِ هُوَلَاءِ وَلَا أَدْرِي لَعَلَّ  
هَشَامًا مِنْهُمْ قَالَتْ وَظَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ قَالَ  
هُشَيْمٌ أَظُنُّهُ قَالَ فَالْقَيْتُهُ خَلْفَهَا قَالَ هُشَيْمٌ فَحَدَّثَنَا  
خَالِدٌ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ عَنْ حَفْصَةَ وَمُحَمَّدٍ عَنْ  
أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ وَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ إِبْدَانٌ بَيْنَمَا مِنْهَا وَمَوَاضِعُ الْوُضُوءِ

اس باب میں اسلمہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ام عطیہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر علماء کا عمل ہے۔ ابراہیم نخعی سے مروی ہے کہ غسل میت غسل جنابت ہی کی طرح ہے۔ مالک بن انس فرماتے ہیں کہ میت کے غسل کی کوئی مقررہ حد نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی خاص کیفیت ہے بلکہ مقصد یہی ہے کہ میت پاک ہو جائے۔ شافعی کہتے ہیں: مالک کا یہ قول مجمل ہے کہ میت کو نہلایا اور صاف کیا جائے اگر سادے پانی یا کسی چیز کی ملاوٹ والے پانی سے مقصد حاصل ہو جائے تو کافی ہے۔ لیکن تین مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ غسل دینا میرے نزدیک مستحب ہے۔ چنانچہ تین مرتبہ سے کم نہ کیا جائے کیونکہ آنحضرت ﷺ نے تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ کا حکم دیا۔ اگر اسے اس سے کم تعداد میں پاک صاف کر دیا جائے تو کافی ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے اس حکم سے مراد صاف و پاک کرنا ہے کوئی عدد مقرر کرنا نہیں۔ فقہاء بھی یہی کہتے ہیں اور وہی حدیث کے معانی کو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ امام احمد اور اسحاق کا قول یہ ہے کہ میت کو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دیا جائے اور آخر میں کافور بھی ساتھ ملا یا جائے۔

باب ۶۷۰۔ میت کو مشک لگانا۔

باب ۶۷۰۔ مَا جَاءَ فِي الْمِسْكِ لِلْمَيِّتِ

۸۷۳۔ حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ سے مشک کے استعمال کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا: یہ تمہاری سب خوشبوؤں سے بہتر ہے۔

۸۷۳۔ حَدَّثَنَا سَفِيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ نَا أَبِي عَنِ شُعْبَةَ عَنْ  
خَلِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ  
نَا الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ  
الْمِسْكِ فَقَالَ هُوَ أَطْيَبُ طَبِيبِكُمْ

محمود بن غیلان، ابو داؤد اور شاہدہ دونوں شعبہ سے اور وہ خلید بن جعفر سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء کا اسی پر عمل ہے۔ احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے جب کہ بعض علماء کے نزدیک میت کو مشک لگانا مکروہ ہے۔ پھر یہ حدیث مستر بن ریان بھی روایت کرتے ہیں وہ ابو نصرہ سے وہ ابو سعید سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ علی کہتے ہیں: مستر بن ریان اور خلید بن جعفر دونوں صحیحی بن سعید کے نزدیک ثقہ ہیں۔

باب ۶۷۱۔ میت کو نہلانے کے بعد خود غسل کرنا۔

باب ۶۷۱۔ مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ

۸۷۴۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: میت کو

۸۷۴۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَّارِبِ

ثا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن ابي صالح عن  
 ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  
 من غسله الغسل ومن حمليه الوضوء يعني الميت

اس باب میں علیؑ اور عائشہؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن ہے اور حضرت ابو ہریرہؓ سے موقوفاً بھی مروی ہے۔ علماء کا اسی مسئلے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء صحابہ و دیگر علماء کا کہنا ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد نہانا چاہئے جب کہ بعض کے نزدیک وضو کر لینا ہی کافی ہے۔ امام مالک کہتے ہیں: میت کو نہانے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے واجب نہیں۔ شافعی بھی اسی کے قائل ہیں۔ امام احمد کہتے ہیں: جو میت کو نہلائے میرے خیال میں اس پر غسل واجب نہیں جب کہ وضو کی روایات بہت کم ہیں۔ لیکن اسحاق کے نزدیک وضو کرنا ضروری ہے۔ عبد اللہ بن مبارک سے مروی ہے کہ غسل میت کے بعد نہانا یا وضو کرنا ضروری نہیں۔

باب ۶۷۲۔ مَا جَاءَ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَكْفَانِ

۸۷۵۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا بَشْرُ بْنُ الْمَفْضَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
 عَثْمَانَ بْنِ حَنِيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ  
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ  
 الْبِيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ

اس باب میں سمرہؓ، ابن مبارکؓ اور عائشہؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں: ابن عباسؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء کے نزدیک یہی مستحب ہے۔ ابن مبارک کہتے ہیں: جن کپڑوں میں وہ نماز پڑھا کرتا تھا ان کپڑوں میں کفن دینا میرے نزدیک مستحب ہے۔ احمد اور اسحاق کا کہنا ہے کہ سفید کپڑے سے غسل دینا سب سے بہتر ہے۔ پھر اچھا کفن دینا مستحب ہے۔

باب ۶۷۳۔ بِأَعْوَانِ

۸۷۶۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ نَا عَمْرُ بْنُ يُونُسَ نَا  
 عِكْرَمَةَ بْنِ عِمَارٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ  
 سِيرِيْنٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ

اس باب میں جاہل سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ابن مبارک، سلام بن مطح سے روایت کرتے ہوئے یہ الفاظ نقل کرتے ہیں: ”ولیحسن احدکم کفن اخیه“ یعنی آنحضرت ﷺ کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ صاف اور سفید کپڑوں کا کفن دیا جائے نہ کہ قیمتی کپڑے کا۔

باب ۶۷۴۔ مَا جَاءَ فِي كَفْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۸۷۷۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ  
 بْنِ عَرُوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى

۸۷۷۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ کو تین بیخی کپڑوں میں کفن دیا گیا نہ ان میں قیص تھی اور نہ ہی عمامہ۔ راوی کہتے ہیں: اس

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بَيْضِ يَمَانِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ قَالَ فَذَكَرُوا لِعَائِشَةَ قَوْلَهُمْ فِي نُؤْبِينَ وَبُرْدٍ جَبْرَةَ فَقَالَتْ قَدْ أُوتِيَ بِالْبُرْدِ وَلَكِنَّمِ رَدُوهُ وَلَمْ يُكْفَنُوهُ فِيهِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۸۷۸۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ نَابِطُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّنَ حَمْرَةَ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِي نَجْرٍ فِي نَوْبٍ وَاحِدٍ

۸۷۸۔ حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حمزہ بن عبد المطلب کو ایک چادر یعنی ایک ہی کپڑے میں کفن دیا۔

اس باب میں علیؑ، ابن عباسؓ، عبد اللہ بن مغفلؓ اور ابن عمرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت عائشہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور کفن میں آنحضرت ﷺ کی مختلف روایات ہیں۔ جن میں سے حضرت عائشہؓ کی روایت سب سے زیادہ صحیح ہے۔ اسی پر علماء صحابہ وغیرہ کا عمل ہے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں مرد کو تین کپڑوں میں کفن دینا چاہیے ایک قمیص اور دو لفافے۔ اگر چاہے تو تین لفافوں میں ہی کفن دے دے پھر اگر تین کپڑے نہ ہوں تو دو اور دو بھی نہ ہوں تو ایک سے بھی دیا جاسکتا ہے۔ شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ عورت کو پانچ کپڑوں میں غسل دیا جائے۔

باب ۶۷۵۔ اہل میت کا کھانا پکانا۔

باب ۶۷۵۔ مَا جَاءَ فِي الطَّعَامِ يُصْنَعُ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ  
۸۷۹۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَعَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ قَالَا نَا سَفِيَانَ بْنَ عَيْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ جَعْفَرٍ قَالَ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ

۸۷۹۔ حضرت عبد اللہ بن جعفر فرماتے ہیں: جب جعفرؓ کی شہادت کی خبر آئی تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جعفرؓ کے گھر والوں کے لیے کھانا پکاؤ کیونکہ وہ لوگ مشغول ہیں۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض علماء اہل میت کے ہاں ایسی چیز بھیجے کو مستحب کہتے ہیں جس سے ان کی مصیبت کم ہو اور کٹ جائے شافعی کا بھی یہی قول ہے۔ جعفر بن خالد، سارہ کے بیٹے ہیں یہ ثقہ ہیں۔ ان سے ابن جریرؒ کی روایت کرتے ہیں۔

باب ۶۷۶۔ مصیبت کے وقت چہرہ پیٹنا اور گریبان پھاڑنا حرام ہے۔

باب ۶۷۶۔ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْخُدُودِ وَشَقِّ الْحُيُوبِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

۸۸۰۔ حضرت عبد اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص رخساروں کو پیٹے، گریبان پھاڑے یا زامانہ جاہلیت کے لوگوں کی طرح ناشکری کی باتیں کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔

۸۸۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَفِيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي زَبِيدُ الْإِيْمِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْحُيُوبَ وَضَرَبَ الْخُدُودَ وَدَعَا بِدَعْوَةِ الْجَاهِلِيَّةِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۶۷۷۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّوْحِ

۸۸۱۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا قِرَانَ بْنَ تَمَامٍ وَمِرْوَانَ بْنَ مَعَاوِيَةَ وَيَزِيدَ بْنَ هَارُونَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ الطَّائِبِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الْأَسَدِيِّ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ قَرظَةُ بْنُ كَعْبٍ فَنِيحَ عَلَيْهِ فَجَاءَ الْمُغَيَّرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا بَالَ النَّوْحُ فِي الْإِسْلَامِ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ عُذِّبَ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ

باب ۶۷۷۔ نوح کی حرمت۔

۸۸۱۔ حضرت علی بن ربیعہ اسدی فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص قرظہ بن کعب فوت ہو گئے لوگ اس پر نوح کرنے لگے۔ مغیرہ بن شعبہ آئے منبر پر چڑھے اور اللہ کی حمد و ثنائیاں کرنے کے بعد فرمایا: نوحے کا اسلام میں کیا کام ہے۔ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ جس پر نوحہ کیا جاتا ہے اسے عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔

اس باب میں حضرت عمرؓ، علیؓ، ابو موسیٰ، قیس بن عاصم، ابو ہریرہ، جنادہ بن مالک، انسؓ، ام عطیہؓ، سمرہ اور ابو مالک اشعریؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں مغیرہ بن شعبہؓ کی حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۸۸۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: زمانہ جاہلیت کی چار چیزیں ایسی ہیں جنہیں میری امت کے چند لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ نوحہ کرنا، نسب پر طعن کرنا، عدوی یعنی یہ اعتقاد رکھنا کہ اونٹ کو کھلی ہوئی تو سب کو ہی ہوگی۔ اگر ایسا ہی ہے تو پہلے اونٹ کو کس سے لگی تھی۔ اور یہ اعتقاد رکھنا کہ بارش ستاروں کی گردش سے ہوتی ہے۔

۸۸۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا ابُو دَاوُدَ نَا شُعْبَةَ وَالْمَسْعُودِيَّ عَنْ عُلُقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدْعَهُنَّ النَّاسُ النَّيَاحَةَ وَالطَّعْنَ فِي الْأَحْسَابِ وَالْعَدْوَى وَاجْرَبَ بَعِيرٌ فَأَجْرَبَ مِائَةٌ بَعِيرٍ مِّنْ أَجْرَبَ الْبَعِيرِ الْأَوَّلِ وَالْأَنْوَاءُ مُطْرُنًا بِنَوْءٍ كَذَا وَكَذَا

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۶۷۸۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

۸۸۳۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الزِّيَادِ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ نَا أَبِي عَن صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ

باب ۶۷۸۔ کسی کی موت پر بلند آواز سے رونا۔

۸۸۳۔ حضرت سالم بن عبد اللہ اپنے والد سے اور وہ حضرت عمرؓ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میت کے گھر والوں کے بلند آواز سے رونے پر میت کو عذاب ہوتا ہے۔

اس باب میں حضرت لیث بن عمرؓ، عمرؓ، عمران بن حصینؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت عمرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء میت پر زور سے رونے کو حرام کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر اس کے گھر والے روئیں تو ان کے رونے سے میت پر عذاب ہوتا ہے۔ یہ حضرات

اسی حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ ابن مبارک کہتے ہیں: اگر وہ خود اپنی زندگی میں انہیں اس سے روکتا رہا اور مرنے سے پہلے منع بھی کیا تو امید ہے کہ اسے عذاب نہیں ہوگا۔

۸۸۳۔ موسیٰ بن ابوموسیٰ اشعری اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کسی میت کے فوت ہونے پر مرنے والے (۱) و اجلاہ (۱) و اسیداہ اور اسی طرح کے الفاظ کہہ کر دیا جائے گا تو میت پر دو فرشتے مقرر کر دیئے جاتے ہیں جو اس کے سینے پر گھونٹے مارتے اور پوچھتے ہیں کہ تم بھی کیا ایسے ہی تھے؟

۸۸۴۔ حدثنا علی بن حجرنا محمد بن عمار قال حدثنی اسید ابن ابی اسید عن مؤسی ابن ابی مؤسی الأشعری أخبره عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من میت یموت فیقوم بآکیہم فیقول واجبلاہ و اسیداہ اونحو ذلک الا وکل بہ ملک ان ینہز انہ اھلکذا کنت

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۶۷۹۔ کسی پر چلائے بغیر رونا جائز ہے۔

باب ۶۷۹۔ ماجاء فی الرخصة فی البكاء علی المیت

۸۸۵۔ حضرت عمرؓ، حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے سامنے کسی نے ذکر کیا کہ ابن عمرؓ کہتے ہیں: میت زندوں کے رونے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کی جاتی ہے حضرت عائشہؓ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن کی مغفرت فرمائے انہوں نے یقیناً جھوٹ نہیں بولا لیکن یا تو وہ بھول گئے ہیں یا ان سے غلطی ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ ایک یہودی عورت کی میت کے پاس سے گزرے۔ لوگ اس کی موت پر رورہے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ رورہے ہیں اور اس پر قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔

۸۸۵۔ حدثنا قتیبة نا مالک ح وثنا اسحق بن مؤسی الانصاری نا معن نا مالک عن عبد اللہ بن ابی بکرو هو ابن محمد بن عمرو بن حزم عن ابیہ عن عمرہ انہا أخبرته انہا سمعت عائشہ و ذکرھا ان ابن عمر یقول ان المیت لیتعذب ببکاء الحی فقالت عائشہ غفر اللہ لابی عبد الرحمن اما انہ لم یكذب ولكنه نسی او اخطا انما مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی یہودیة یتکی علیہا فقال انہم لیتکون وانہا لتعذب فی قبرھا

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۸۸۶۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میت پر اس کے اقرباء کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا: اللہ ان پر رحم فرمائے انہوں نے جھوٹ نہیں گھڑا بلکہ انہیں وہم ہو گیا ہے آنحضرت ﷺ نے یہ بات ایک یہودی کے متعلق فرمائی تھی کہ اس پر عذاب قبر ہو رہا ہے اور اس کے اقرباء اس پر رورہے ہیں۔

۸۸۶۔ حدثنا قتیبة نا عباد بن عباد المہلبی عن محمد بن عمرو عن یحیی بن عبد الرحمن عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المیت یعذب ببکاء اھلہ علیہ فقالت عائشہ یرحمہ اللہ لم یكذب ولكنه وهم انما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیرجل مات یہودیہ ان المیت

(۱) و اجلاہ، و اسیداہ اور اسی جیسے الفاظ اعلیٰ عرب زیادہ افسوس کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ (مترجم)

لَيُعَذَّبُ وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَسْكُونُ عَلَيْهِ

اس باب میں ابن عباسؓ، قرظ بن کعبؓ، ابو ہریرہؓ، ابن مسعودؓ اور اسامہ بن زیدؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں۔ حضرت عائشہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور انہی سے کئی سندوں سے مروی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی یہی فرماتے ہیں ولا تنزروا ذرۃ وزرا اخروی (کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھاتا)۔ امام شافعی کا بھی یہی قول ہے۔

۸۸۷۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اپنے صاحبزادے ابراہیم کے پاس لے گئے۔ وہ اس وقت نزع کی حالت میں تھے۔ آپ ﷺ نے انہیں اپنی گود میں لے لیا اور رونے لگے۔ عبد الرحمن نے عرض کیا: آپ ﷺ بھی روتے ہیں؟ کیا آپ ﷺ نے رونے سے منع نہیں کیا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں۔ ہاں البتہ دوری اور بھدی آوازوں سے منع کیا تھا۔ ایک کسی کے مصیبت کے وقت رونے چہرے کو نوچنے اور کپڑوں کو پھاڑنے اور دوسرے نوحہ کرنے اور شیطان کی طرح پیچنے سے منع کیا تھا۔

۸۸۷۔ حدثنا علی بن خشرم نا عیسیٰ بن یونس عن ابن ابی لیلیٰ عن عطاء عن جابر بن عبد اللہ قال اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق به الى ابنه ابراهيم فوجده يحود بنفسه فاحذ النبي صلی اللہ علیہ وسلم فوضعه في حجره فبكى فقال له عبد الرحمن اتبكي اولم تكن نهيت عن البكاء قال لا ولكن نهيت عن صوتين احققين فاجرتين صوت عند مصيبة خمس وجوه وشق جيوب وزنة شيطان وفي الحديث كلام اكثر من هذا

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔

باب ۶۸۰۔ جنازے کے آگے چلنا۔

باب ۶۸۰۔ ماجاء فی الممشی امام الجنائزۃ

۸۸۸۔ حضرت سالم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ، ابو بکرؓ اور عمرؓ کو جنازے کے آگے چلتے ہوئے دیکھا۔

۸۸۸۔ حدثنا قتيبة بن سعيد واحمد بن منيع واسحق بن منصور و محمود بن غيلان قالوا نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابيه قال رايت النبي صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بكر و عمر يمشون امام الجنائزۃ

حسن بن علیؓ، خالد بن عاصمؓ سے وہ ہمام سے وہ منصور، بکر کوفی، زیاد اور سفیان سے یہ سب زہری سے اور وہ سالم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا کہ: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکرؓ اور عمرؓ کو جنازے کے آگے چلتے ہوئے دیکھا۔ پھر عبد بن حمید، عبد الرزاق سے وہ معمر سے اور وہ زہری سے بھی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: آنحضرت ﷺ، ابو بکرؓ اور عمرؓ جنازے کے آگے چلا کرتے تھے اس باب میں انسؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں: ابن جریج، زیاد بن سعد اور کئی راوی زہری سے وہ سالم سے اور وہ اپنے والد ابن عمرؓ کی حدیث کی مانند روایت کرتے ہیں۔ یعنی ابن عیینہ کی حدیث کے ہم معنی۔ معمر، یونس بن یزید اور مالک وغیرہ بھی زہری سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ جنازے کے آگے چلتے تھے۔ تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ اس باب میں مرسل حدیث زیادہ صحیح ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: یحییٰ بن موسیٰ نے عبد الرزاق سے ابن مبارک کے حوالے سے سنا کہ زہری کی مرسل

حدیث ابن عیینہ کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ ابن مبارک کہتے ہیں: شاید ابن جریج نے یہ روایت ابن عیینہ سے لی ہو۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ہام بن یحییٰ نے یہ حدیث زیاد بن سعد سے پھر منصور، ابوبکر اور سفیان نے زہری سے انہوں نے سالم سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے۔ جب کہ درحقیقت ہام، سفیان بن عیینہ سے روایت کرتے ہیں۔ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جنازے کے آگے چلنا افضل ہے۔ شافعی اور احمد کا بھی یہی قول ہے۔

۸۸۹۔ حدثنا محمد بن المثنیٰ نا محمد بن بکر نا یونس بن یزید عن الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي أَمَامَ الْحَنَازَةِ وَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ

۸۸۹۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں: آنحضرت ﷺ، ابو بکرؓ، عمرؓ اور عثمانؓ جنازے کے آگے چلا کرتے تھے۔

امام ترمذی کہتے ہیں: میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو فرمایا: اس میں محمد بن بکر نے غلطی کی ہے اور یہ حدیث یونس بھی زہری کے حوالے سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ، ابو بکرؓ اور عمرؓ سب جنازے کے آگے چلتے تھے۔ پھر زہری، سالم کے حوالے سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے والد بھی جنازے کے آگے چلا کرتے تھے۔ اور یہ صحیح ہے۔

باب ۶۸۱۔ مَا جَاءَ فِي الْمَشِيِّ خَلْفَ الْحَنَازَةِ

باب ۶۸۱۔ جنازے کے پیچھے چلنا۔

۸۹۰۔ حدثنا محمود بن غيلان نا وهب بن جرير عن شعبة عن يحيى امام بنى تيم الله عن ابي ماجد عن عبد الله بن مسعود قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الحنازة فقال ما دون الحبيب فإن كان خيرا عجلتموه وإن كان شرا فلا يبعد إلا أهل النار الحنازة متبوعة ولا تتبع ليس منها من تقدمها

۸۹۰۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں: ہم نے آنحضرت ﷺ سے جنازے کے پیچھے چلنے کے متعلق پوچھا تو فرمایا: دوڑنے سے آہستہ چلنا چاہئے۔ چنانچہ اگر وہ نیک ہے تو تم اسے جلدی قبر میں پہنچا دو گے اور اگر وہ بد ہے تو اہل دوزخ ہی کو دور کیا جاتا ہے۔ پھر جنازے کے پیچھے چلنا چاہئے نہ کہ اس کو پیچھے چھوڑنا چاہئے اور جو اس سے آگے چلتا ہے وہ ان کے ساتھ نہیں۔

امام ترمذی کہتے ہیں: اس حدیث کو ہم اس سند سے صرف ابن مسعود ہی کی روایت سے جانتے ہیں۔ امام بخاری ابو ماجد کی اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں۔ مزید کہتے ہیں کہ حمیدی کہتے ہیں کہ ابن عیینہ نے یحییٰ سے ابو ماجد کے متعلق پوچھا تو فرمایا: ایک مجہول الحال شخص ہیں، ہم سے روایت کرتے ہیں۔ بعض علماء صحابہ وغیرہ اسی مذہب پر عمل پیرا ہیں کہ جنازے کے پیچھے چلنا افضل ہے۔ ثوری اور اسحاق بھی یہی کہتے ہیں کہ ابو ماجد مجہول ہیں ان کی ابن مسعود سے دو حدیثیں مروی ہیں اور یحییٰ امام بنی تيم اللہ ثقہ ہیں ان کی کنیت ابو حارث ہے۔ انہیں جاہر اور یحییٰ مجمر بھی کہا جاتا ہے یہ کوئی ہیں۔ شعبہ، سفیان ثوری، ابو احوص اور سفیان بن عیینہ ان سے روایت کرتے ہیں۔

باب ۶۸۲۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الرُّكُوبِ خَلْفَ الْحَنَازَةِ

باب ۶۸۲۔ جنازے کے پیچھے سوار ہو کر چلنا مکروہ ہے۔

۸۹۱۔ حدثنا علي بن حجر نا عيسى بن يونس عن بكر بن ابي مريم عن راشد بن سعد عن ثوبان

۸۹۱۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ ہم آنحضرت ﷺ کے ساتھ ایک جنازے میں گئے آپ ﷺ نے کچھ لوگوں کو سواری پر چلتے ہوئے دیکھا

تو فرمایا: تمہیں شرم نہیں آتی اللہ تعالیٰ کے فرشتے پیدل چل رہے ہیں اور تم سواریوں پر سوار ہو۔

قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةِ فَرَأَى نَاسًا رُكْبَانًا فَقَالَ لَا تَسْتَحْيُونَ إِنْ مَلَاحِكَةَ اللَّهِ عَلَى أَقْدَامِهِمْ وَانْتُمْ عَلَى ظُهُورِ الدَّوَابِّ

اس باب میں مغیرہ بن شعبہ اور جابر بن سمرہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ثوبان کی حدیث انہی سے موقوفاً بھی مروی ہے۔

باب ۶۸۳۔ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

باب ۶۸۳۔ سواری پر سوار ہونے کے جواز سے متعلق

۸۹۲۔ حضرت سماک بن حرب حضرت جابر بن سمرہ سے نقل کرتے ہیں کہ ہم آنحضرت ﷺ کے ساتھ ابن دحاح کے جنازے میں گئے آپ ﷺ اپنے گھوڑے پر سوار تھے۔ جو دوڑتا تھا، ہم آپ ﷺ کے ارد گرد تھے۔ آپ ﷺ اسے چھوٹے چھوٹے قدموں سے لیے جا رہے تھے۔

۸۹۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا أَبُو دَاوُدَ نَاشِعَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمْرَةَ يَقُولُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةِ ابْنِ الدَّحْدَاحِ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ يَسْعَى وَنَحْنُ حَوْلَهُ وَهُوَ يَتَوَقَّضُ بِهِ

۸۹۳۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ ابن دحاح کے جنازے میں پیدل گئے اور گھوڑے پر واپس تشریف لائے۔

۸۹۳۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَاحِ الْهَاشِمِيُّ نَا ابُو قَتِيْبَةَ عَنِ الْجَرَّاحِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّبَعَ جَنَازَةَ ابْنِ الدَّحْدَاحِ مَا شِئْنَا وَرَجَعَ عَلَى فَرَسٍ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۶۸۴۔ مَا جَاءَ فِي الْإِسْرَاعِ بِالْجَنَازَةِ

باب ۶۸۴۔ جنازے کو لے کر جلدی چلانا۔

۸۹۴۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے جنازے کو لے کر جلدی چلنے کا حکم دیا۔ اس لیے کہ اگر وہ نیک شخص ہے تو اسے جلد بہتر جگہ پہنچایا جائے، اور اگر برا ہے تو اپنی گردنوں سے جلد بوجھ اتارا جائے۔

۸۹۴۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا ابْنُ عِيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمَسِيْبِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَسْرَعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنَّ تَكَّ خَيْرًا تَقْدِمُوهَا وَإِنْ تَكَّ شَرًّا تَضَعُوهَا عَنْ رِقَابِكُمْ

اس باب میں ابوبکرہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابو ہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۶۸۵۔ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ أَحَدٍ وَذِكْرِ حَمْزَةٍ

باب ۶۸۵۔ شہدائے احد اور سیدنا حمزہ کا ذکر۔

۸۹۵۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں آنحضرت ﷺ حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے گئے ہیں۔ فرمایا: اگر صغیر کے دل پر گراں گزرنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں اسی طرح چھوڑ دیتا یہاں تک کہ انہیں جانور کھا جاتے پھر قیامت کے دن انہیں جانوروں کے پیڑوں سے اٹھایا جاتا۔ راوی کہتے ہیں پھر آنحضرت ﷺ نے چادر

۸۹۵۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا ابُو صَفْوَانَ عَنِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَمْزَةَ يَوْمَ أُحُدٍ فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَرَأَاهُ قَدْ مِثَّلَ بِهِ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةً فِي نَفْسِهَا لِتَرْكُمَهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الْعَافِيَةُ حَتَّى يُحْشَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ بَطُونِهَا قَالَ ثُمَّ دَعَا بِنَمْرَةٍ فَكَفَّنَهُ فِيهَا

مٹگوائی اور اس میں انہیں کفن دیا۔ وہ چادر بھی ایسی تھی کہ اگر سر پر ڈالی جاتی تو پاؤں نکلے ہو جاتے اور اگر پاؤں ڈھکے جاتے تو سر سے ہٹ جاتی۔ راوی کہتے ہیں: پھر شہید زیادہ ہو گئے اور کپڑے کم پڑ گئے چنانچہ ایک دو اور تین شہیدوں تک کو ایک ہی کپڑے میں کفن دیا گیا اور پھر ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ اس دوران آنحضرت ﷺ ان کے متعلق پوچھتے تھے کہ کسے قرآن زیادہ یاد تھا۔ چنانچہ جس نے زیادہ حفظ کیا ہوتا اسے قبر میں قبلہ کی طرف سے آگے کرتے۔ راوی کہتے ہیں پھر آنحضرت ﷺ نے سب کو دفن کیا اور ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔

فَكَانَتْ إِذَا مَدَّتْ عَلَى رَأْسِهِ بَدَتْ رِجْلَاهُ وَ إِذَا مَدَّتْ عَلَى رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ قَالَ فَكَثُرَ الْقَتْلَى وَقَلَّتِ النِّيَابُ قَالَ فَكُفِّنَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالثَّلَاثَةُ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ ثُمَّ يُدْفَنُونَ فِي قَبْرِ وَاحِدٍ قَالَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ عَنْهُمْ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ قُرْآنًا فَيَقْدِمُهُ إِلَى الْقَبِيلَةِ فَقَالَ فَدَفَنَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے انسؓ کی روایت سے جانتے ہیں۔

باب ۶۸۶۔ بَابُ أَحْرَ

باب ۶۸۶۔ دوسرا باب

۸۹۶۔ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مریض کی عیادت کرتے، جنازے میں شریک ہوتے، گدھے پر سوار ہوتے اور غلام کی دعوت قبول کیا کرتے تھے۔ بنو قریظہ کے فیصلے کے دن بھی آپ ﷺ گدھے پر سوار تھے جس کی لگام کھجور کی چھال کی رسی سے بنی ہوئی تھی اور اس پر زین بھی اس چھال ہی کا تھا۔

۸۹۶۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا عَلِيَّ بْنَ مَسْعُورٍ عَنْ مُسْلِمِ الْأَعْمُورِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ الْمَرِيضَ وَيَشْهَدُ الْحَنَازَةَ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ وَيُحِبُّ دَعْوَةَ الْعَبْدِ وَكَانَ يَوْمَ بَنِي قُرَيْظَةَ عَلِيٌّ حِمَارٍ مَخْطُومٍ بِحَبْلِ مِنْ لَيْفٍ عَلَيْهِ إِكَافٌ لَيْفٌ

امام ترمذی کہتے ہیں: ہم اس حدیث کو صرف مسلم کی روایت سے جانتے ہیں وہ انسؓ سے روایت کرتے ہیں۔ مسلم اور ضعیف ہیں

اور کیسان ملائی کے بیٹے ہیں۔

باب ۶۸۷۔

باب ۶۸۷۔ بلا عنوان۔

۸۹۷۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ کی وفات ہوئی تو صحابہؓ میں آپ ﷺ کی تدفین کے متعلق اختلاف پیدا ہو گیا۔ چنانچہ ابو بکرؓ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے ایک بات سنی اور کبھی نہیں بھولا کہ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نبی کی روح اسی جگہ قبض کرتے ہیں جس جگہ اس کی تدفین کو پسند کرتے ہیں۔ اس پر آپ ﷺ کو آپ ﷺ کے بستر مبارک کی جگہ ہی دفن کیا گیا۔

۸۹۷۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ نَا أَبُو مَعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا قَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَلَفُوا فِي دَفْنِهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَسِيتُهُ قَالَ مَا قَبِضَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ فَدَفَنُوهُ فِي مَوْضِعِ فِرَاشِهِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے۔ عبدالرحمن بن ابوبکرؓ ملکی حافظے کی وجہ سے ضعیف ہیں اور یہ حدیث کئی سندوں سے

مروی ہے۔ ابن عباسؓ یہ حدیث ابو بکرؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔

باب ۶۸۸۔ بَابُ آخَرُ

باب ۶۸۸۔ دوسرا باب

۸۹۸۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ نَا مَعَاوِيَةَ بْنَ هِشَامٍ عَنْ  
عِمْرَانَ بْنِ أَنَسٍ الْمَكِّيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَذْكُرُوا  
مَحَاسِنَ مَوْتَانَا كُمْ وَكُفُّوا عَن مَسَاوِيهِمْ

۸۹۸۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اپنے  
فوت ہو جانے والوں کی بھلائیاں یاد کیا کرو اور ان کی برائیوں کے ذکر  
سے باز رہو۔

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث غریب ہے۔ میں نے امام بخاری سے سنا کہ عمران بن انس کی منکر الحدیث ہیں۔ بعض راوی عطاء  
سے بھی حضرت عائشہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں۔ عمران بن انس مصری، عمران بن انس مکی سے زیادہ ثابت اور مقدم ہیں۔

باب ۶۸۹۔ مَا جَاءَ فِي الْجُلُوسِ قَبْلَ أَنْ تُوَضَّعَ

باب ۶۸۹۔ جنازہ رکھنے سے پہلے بیٹھنا۔

۸۹۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا صَفْوَانَ بْنَ عَيْسَى  
عَنْ بَشْرِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِيمَانَ بْنِ جِنَادَةَ  
ابْنِ أَبِي أَمِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
الصَّامِتِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
إِذَا تَبِعَ الْجَنَازَةَ لَمْ يَفْعُدْ حَتَّى تُوَضَّعَ فِي اللَّحْدِ  
فَعَرَّضَ لَهُ جِبْرًا فَقَالَ هَكَذَا نَضَعُ يَا مُحَمَّدُ فَجَلَسَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ خَالِفُوهُمْ

۸۹۹۔ حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ اگر کسی  
جنازے میں ہوتے تو اسے قبر میں اتارنے تک بیٹھتے نہیں تھے چنانچہ  
یہودیوں کا ایک عالم آیا اور کہا کہ اے محمد! ہم بھی اسی طرح کرتے  
ہیں۔ اس پر آپ ﷺ بیٹھ گئے اور فرمایا: ان کی مخالفت کرو۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے اور بشر بن رافع حدیث میں قوی نہیں۔

باب ۶۹۰۔ فَضْلِ الْمُصِيبَةِ إِذَا احْتَسَبَ

باب ۶۹۰۔ اگر مصیبت پر صبر کیا جائے تو اس کی فضیلت۔

۹۰۰۔ حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ نَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ  
عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَنَانَ قَالَ دَفَنْتُ أَبِيئِي  
سِنَانًا وَأَبُو طَلْحَةَ الْخَوْلَانِي جَالِسٌ عَلَيَّ شَفِيرُ الْقَبْرِ  
فَلَمَّا أَرَدْتُ الْخُرُوجَ أَخَذَ بِيَدِي فَقَالَ أَلَا أَبَشِّرُكَ يَا  
أَبَا سَنَانَ قُلْتُ بَلَى قَالَ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ ابْنُ  
عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَرَزَبٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ  
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ  
وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ لِمَلَائِكِهِ قَبِضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي  
فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَقُولُ قَبِضْتُمْ نَمْرَةً فَوَادِهِ فَيَقُولُونَ نَعَمْ  
فَيَقُولُ مَاذَا قَالَ عَبْدِي فَيَقُولُونَ فَيَقُولُونَ  
بِحَمْدِكَ وَاسْتَرْجَعَ فَيَقُولُ اللَّهُ ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي

۹۰۰۔ حضرت ابوسنان فرماتے ہیں میں نے اپنے بیٹے سان کو دفن کیا  
تو ابوطالحہ خولانی قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں جب قبر سے نکلنے  
لگا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: اے ابوسنان کیا میں تمہیں خوشخبری  
نہ سناؤں۔ میں نے کہا کیوں نہیں فرمایا: ضحاک بن عبدالرحمن بن  
عرب، ابوموسیٰ اشعری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے  
فرمایا: اگر کسی شخص کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے  
پوچھتے ہیں کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی جان لے لی؟ وہ عرض  
کرتے ہیں: جی ہاں! اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: تم نے اس کے دل کا ٹکڑا  
لے لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: جی ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں  
میرے بندے نے کیا کہا؟ عرض کرتے ہیں: آپ کی تعریف بیان کی  
اور "اناللہ....." الآیۃ پڑھا۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ میرے

الْحَنَّةَ وَسَمُوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ

بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔

امام ترمذی کہتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۶۹۱۔ مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ

۹۰۱۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى

النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا

باب ۶۹۱۔ نماز جنازہ میں تکبیر کہنا۔

۹۰۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے نجاشی کی نماز

جنازہ پڑھی اور اس میں چار مرتبہ تکبیر کہی۔

اس باب میں ابن عباسؓ، ابن ابی اوفیٰؓ، جابرؓ، انسؓ اور یزید بن ثابتؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: یزید بن ثابتؓ،

یزید بن ثابت کے بڑے بھائی ہیں اور یہ جنگ بدر میں بھی شریک تھے جب کہ یزید اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ امام ترمذی کہتے ہیں:

ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اکثر علماء اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں چار تکبیریں کہی جائیں۔ سفیان

ثوری، مالک بن انس، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔

۹۰۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ

نَا شُعْبَةَ عَنِ عَمْرِو بْنِ مَرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي

لَيْلَى قَالَ كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا

وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةِ حُمْسًا فَسَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُهَا

۹۰۲۔ حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰؓ فرماتے ہیں کہ یزید بن ارقمؓ ہمارے

جنازوں کی نماز میں چار تکبیریں کہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے

ایک جنازہ پڑھتے ہوئے پانچ تکبیریں کہیں تو ہم نے ان سے پوچھا:

فرمایا: آنحضرت ﷺ بھی اسی طرح کرتے تھے۔

امام ترمذی کہتے ہیں: یزید بن ارقمؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض علماء صحابہ وغیرہ کا یہی مذہب ہے کہ نماز جنازہ میں پانچ تکبیریں

کہے امام احمد اور اسحاق کہتے ہیں کہ اگر امام پانچ تکبیریں کہے تو مقتدی بھی اس کی اتباع کریں۔

باب ۶۹۲۔ مَا يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ

باب ۶۹۲۔ نماز جنازہ کی دعا۔

۹۰۳۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ ثَنَا هَقْلُ بْنُ زِيَادٍ نَا

الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي

أَبُو إِبْرَاهِيمَ الْأَشْهَلِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ قَالَ

”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَعَاقِبِنَا وَصَغِيرِنَا

وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأَنْثَانَا“ قَالَ يَحْيَى وَحَدَّثَنِي

أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ وَزَادَ ”فِيهِ اللَّهُمَّ مَنْ

أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ

۹۰۳۔ حضرت یحییٰ بن ابی کثیرؓ، ابوالبرہم اشہلیؓ سے اور وہ اپنے والد

سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز جنازہ میں یہ دعا پڑھا

کرتے تھے۔ ”اللهم اغفر لحينا..... انثانا“۔ تک (ترجمہ: اے

اللہ ہمارے زندوں، موجود لوگوں، غائب لوگوں، چھوٹوں، بڑوں اور

مردوں و عورتوں کی مغفرت فرما۔) یحییٰ بھی ابوسلمہ بن عبدالرحمنؓ سے اور

وہ حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً اسی کی مانند روایت کرتے ہوئے یہ الفاظ

زیادہ نقل کرتے ہیں۔ ”اللهم من.....“ سے حدیث کے آخر تک

(ترجمہ: اے اللہ ہم میں سے جسے زندہ رکھا ہے اسے سلام پر زندہ رکھ اور

جسے موت دے اسے بھی ایمان ہی پر موت دے)۔

عَلَى الْإِيمَانِ“

اس باب میں عبدالرحمن بن عوفؓ، ابوقنادہؓ، عائشہؓ، جابرؓ اور عوف بن مالکؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ ہشام دستوائی اور علی بن مبارک بھی یہ حدیث یحییٰ بن ابی کثیر سے اور وہ ابوسلمہ بن عبدالرحمن سے مرسل روایت کرتے ہیں۔ عکرمہ بن عمار بھی یحییٰ بن کثیر سے وہ ابوسلمہ بن عبدالرحمن سے وہ حضرت عائشہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتی ہیں عکرمہ بن عمار کی حدیث غیر محفوظ ہے کیونکہ یہ یحییٰ بن ابی کثیر کی حدیث میں وہم کرتے ہیں۔ یحییٰ بن ابی کثیر یہ حدیث عبداللہ بن قنادہ سے بھی روایت کرتے ہیں وہ اپنے والد سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ امام بخاری کے نزدیک ان تمام روایات میں سے سب سے زیادہ صحیح روایت یحییٰ بن ابی کثیر کی ہے جو ابراہیم اشہلی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں۔ میں نے ان سے ابو ابراہیم اشہلی کے متعلق پوچھا تو انہوں نے انہیں نہیں پہچانا۔

۹۰۴۔ حضرت عون بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو نماز جنازہ میں دعا پڑھتے ہوئے سنا تو یہ الفاظ یاد کر لیے ”اللهم اغفر..... الخ (ترجمہ: اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما اور اس کے گناہوں کو رحمت کے دلوں سے اس طرح دھو دے جیسے کہ کپڑا دھویا جاتا ہے۔

۹۰۴۔ حدثنا محمد بن بشار نا عبدالرحمن بن مهدى نا معاوية بن صالح عن عبدالرحمن بن جبیر بن نفيير عن أبيه عن عون بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت ففهمت من صلوته عليه ”اللهم اغفر له وارحمه واغسله بالبرد كما يغسل الثوب“

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں اس باب میں یہ سب سے زیادہ صحیح روایت ہے۔

باب ۶۹۳۔ مَا جَاءَ فِي الْفِرَاةِ عَلَى الْحَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

۹۰۵۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی۔

۹۰۵۔ حدثنا احمد بن منيع نا زيد بن حباب نا ابراهيم بن عثمان عن الحكم عن مِقْسَمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ عَلَى الْحَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

اس باب میں ام شریک سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں اس حدیث کی سند قوی نہیں۔ ابراہیم بن عثمان کی کنیت ابوشیبہ واسطی ہے اور وہ مکر الحدیث ہیں۔ ابن عباسؓ سے بھی روایت صحیح ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔

۹۰۶۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوفؓ فرماتے ہیں کہ ابن عباسؓ نے ایک مرتبہ جنازے کی نماز پڑھی تو اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی میں نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو فرمایا: یہ سنت ہے۔ یا فرمایا: ”من تمام السنة“ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔

۹۰۶۔ حدثنا محمد بن بشار نا عبدالرحمن بن مهدى نا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف أن ابن عباس صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقلت له فقال إنه من السنة أو من تمام السنة

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر بعض علماء صحابہ وغیرہ کا عمل ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے۔ شافعی، احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں جب کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے کیونکہ اس میں ثناء، درود شریف اور میت کے لیے دعا ہی ہے۔ یہ ثوری اور اہل کوفہ کا قول ہے۔

توضیح: اہل کوفہ سے مراد حنفیہ ہی ہیں ان کا مسلک تو ذکر ہو چکا چنانچہ یہ حضرات اس حدیث کے متعلق کہتے ہیں کہ اس میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا بطور دعائے تہانہ کہ بطور تلاوت۔ امام طحاوی بھی یہی کہتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ (مترجم)

باب ۶۹۴۔ کَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ وَالشَّفَاعَةُ لَهُ  
 ۹۰۷۔ حدثنا ابو كريب نا عبدالله بن المبارك  
 ويونس بن بكير عن محمد بن اسحاق عن زيد بن  
 ابي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني قال كان  
 مالك بن هبيرة اذا صلى على جنازة فتقال للناس  
 عليها جزاهم ثلثة اجزاء ثم قال قال رسول الله  
 صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلثة صفوف  
 فقد اوجب

باب ۶۹۳۔ نماز جنازہ کی کیفیت اور میت کے لیے شفاعت سے متعلق۔  
 ۹۰۷۔ حضرت مرثد بن عبد اللہ یزنی فرماتے ہیں کہ مالک بن ہبیرہ  
 جب نماز جنازہ پڑھتے تو اگر لوگ کم ہوتے تو ان کی تین صفیں  
 کر دیتے پھر فرماتے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس پر تین صفوں  
 نے نماز پڑھی اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔

اس باب میں عائشہ، ام حبیبہ، ابو ہریرہ اور میمونہ (آنحضرت ﷺ کی بیوی) سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن ہے۔ کئی راوی ابواسحاق سے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔ ابراہیم بن سعد بھی محمد بن اسحاق سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں۔ اور مرثد اور مالک کے درمیان ایک اور شخص کا ذکر کرتے ہیں۔ جب کہ پہلی والی روایت ہمارے نزدیک زیادہ صحیح ہے۔

۹۰۸۔ حدثنا ابن ابی عمر نا عبد الوهاب الثقفی  
 عن ایوب ح وثنا احمد بن منیع وعلی بن حجر  
 قالنا اسمعیل بن ابراهیم عن ایوب عن ابی قلابہ  
 عن عبد الله بن یزید رضیع كان لعائشة عن عائشة  
 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت احد  
 من المسلمين فيصلي عليه امة من المسلمين يبلغوا  
 ان يكونوا مائة فيشفعوا له الا شفّعوا فيه وقال علي  
 في حديثه مائة فما فوقها

۹۰۸۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسلمانوں  
 میں سے کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کی وفات کے بعد نماز جنازہ میں  
 مسلمانوں کی ایک جماعت جس کی تعداد سو تک ہو، وہ سب اس کے  
 لیے شفاعت کریں اور ان کی شفاعت قبول نہ کی جائے۔ علی اپنی نقل  
 کردہ حدیث میں کہتے ہیں۔ کہ ان کی تعداد سو یا اس سے زیادہ ہو۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض اسے موقوفاً روایت کرتے ہیں۔

باب ۶۹۵۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزَةِ  
 عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا  
 ۹۰۹۔ حدثنا هناد نا وكيع عن موسى بن علي بن

باب ۶۹۵۔ طلوع آفتاب اور غروب کے وقت نماز جنازہ پڑھنا مکروہ  
 ہے۔  
 ۹۰۹۔ حضرت عقبہ بن عامر چینی فرماتے ہیں کہ تین وقت ایسے ہیں کہ

رسول اللہ ﷺ ہمیں ان اوقات میں نماز پڑھنے اور مردوں کو دفن کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ طلوع آفتاب کے وقت یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے۔ پھر دوپہر کو جب سورج سر پر آجائے۔ یہاں تک کہ زوال کا وقت ہو جائے۔ اور آخر میں غروب آفتاب کے وقت جب سورج غروب ہونے کے لیے جھک جائے یہاں تک کہ غروب ہو جائے۔

رَبَاحٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ ثَلَاثَ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتًا نَاجِحِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَارِعَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمَ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ وَحِينَ تَضِيئُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض علماء صحابہ وغیرہ کا اسی پر عمل ہے کہ ان اوقات میں نماز جنازہ مکروہ ہے۔ ابن مبارک کہتے ہیں کہ مردوں کی تدفین سے ان اوقات میں منع کرنے کا مطلب یہی ہے کہ نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ ان کے نزدیک ان اوقات میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے یعنی طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور ٹھیک دوپہر کے وقت احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں: ان اوقات میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ نہیں۔

باب ۶۹۶۔ بچوں کی نماز جنازہ

باب ۶۹۶۔ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْأَطْفَالِ

۹۱۰۔ حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنازے کے ساتھ چلنے والا سوار جنازے کے پیچھے اور پیدل چلنے والا جہاں جی چاہے وہاں چلے اور بچوں کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے۔

۹۱۰۔ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ أَدَمَ بْنِ بَنَتِ أَزْهَرَ السَّمَانِ نَا اسْمَعِيلَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ نَا أَبِي عَنِ زِيَادِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّكْبُ خَلْفَ الْجَنَائِزَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ يَشَاءُ مِنْهَا وَالطِّفْلُ يُصَلِّي عَلَيْهِ

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسرائیل اور کئی راوی یہ حدیث سعید بن عبید اللہ سے روایت کرتے ہیں بعض علماء صحابہ وغیرہ اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بچے پر نماز جنازہ پڑھی جائے اگرچہ وہ پیدا ہونے کے بعد رویا بھی نہ ہو۔ صرف اس کی شکل ہی بنی ہو۔ احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

باب ۶۹۷۔ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ حَتَّى يَسْتَهْلَ

باب ۶۹۷۔ اگر بچہ پیدائش کے بعد رویا نہ ہو تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔

۹۱۱۔ حَدَّثَنَا أَبُو عَمَارٍ الْحُسَيْنِيُّ بْنُ حُرَيْثِ نَا مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اسْمَعِيلَ بْنِ مَسْلَمٍ عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنِ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطِّفْلُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ وَلَا يَرْتُّ وَلَا يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهْلَ

۹۱۱۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بچہ جب تک پیدائش کے بعد روئے نہیں اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے نیز اس صورت میں نہ وہ کسی کا وارث ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی وارث۔

امام ترمذی کہتے ہیں: اس حدیث میں اضطراب ہے۔ بعض راوی اسے ابو زبیر سے وہ جابر سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں جب کہ اشعث بن سوار اور کئی راوی حضرت جابر سے موقوفاً انہی کا قول روایت کرتے ہیں اور یہ مرفوع حدیث کے مقابلے میں اصح ہے بعض علماء کا یہی مسلک ہے کہ بچہ اگر پیدائش کے بعد روئے نہیں تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ ثوری اور شافعی کا بھی یہی قول ہے۔

باب ۶۹۸۔ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ  
 ۹۱۲۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ  
 ۶۹۸۔ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا  
 ۹۱۲۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ نے سہیل بن بیضاء کی  
 نماز جنازہ مسجد میں پڑھی۔  
 ابن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن  
 الزبير عن عائشة قالت صليت رسول الله صلى الله  
 عليه وسلم على سهيل بن البيضاء في المسجد.

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن ہے اور بعض علماء کا اسی پر عمل ہے۔ شافعی کہتے ہیں: مالک کا کہنا ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ نہ پڑھی جائے جب کہ شافعی اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے اس کی اجازت دیتے ہیں۔

مسئلہ: مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کو حنفیہ مکروہ کہتے ہیں۔ یہ حضرات، حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے نجاشی کی نماز جنازہ مسجد سے نکل کر پڑھائی باوجودیکہ میت موجود بھی نہیں تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔

جہاں تک حدیث باب کا تعلق ہے یہ ایک خالص واقعہ ہے لہذا اس سے استدلال جائز نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ آنحضرت ﷺ اس وقت اعتکاف میں ہوں یا بارش ہو رہی ہو اس وجہ سے مسجد میں نماز پڑھی ہو۔ چنانچہ صاحب الحیطہ کہتے ہیں: آنحضرت ﷺ اس وقت معتکف تھے لہذا آپ ﷺ کا مسجد سے نکلنا ممکن نہیں تھا۔ اس لیے آپ ﷺ نے جنازے کو مسجد سے باہر رکھنے کا حکم دیا اور اسی عذر کی وجہ سے مسجد میں نماز جنازہ پڑھائی۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۶۹۹۔ مَا جَاءَ آيِنَ يَقُومُ الْإِمَامُ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ  
 ۹۱۳۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَنِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ  
 ۶۹۹۔ مرد اور عورت کی نماز جنازہ میں امام کہاں کھڑا ہو۔  
 ۹۱۳۔ حضرت ابو غالب فرماتے ہیں کہ میں نے انس بن مالکؓ کے  
 ساتھ ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھی وہ اس کے سر کے مقابل کھڑے  
 ہوئے پھر ایک قریشی عورت کا جنازہ لایا گیا اور ان سے کہا گیا: اے  
 ابو حمزہ اس کی نماز جنازہ پڑھائیے۔ چنانچہ وہ میت کے وسط کے مقابل  
 کھڑے ہوئے۔ اس پر علماء بن زیاد نے ان سے پوچھا کیا آپ نے  
 آنحضرت ﷺ کو مرد اور عورت کا نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے اسی جگہ  
 کھڑے ہوتے دیکھا ہے۔ جہاں کھڑے ہوئے۔ فرمایا: ہاں۔  
 پھر جب فارغ ہو گئے تو فرمایا: یاد رکھنا۔

اس باب میں سمرہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: انسؓ کی حدیث حسن ہے۔ کئی راوی حمام سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ اور وکیع یہ حدیث حمام سے روایت کرتے ہوئے وہم کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنی روایت میں کہتے ہیں کہ غالب سے روایت ہے۔ جب کہ صحیح ابو غالب ہے۔ پھر عبدالوارث بن سعد اور کئی راوی بھی یہ حدیث ابو غالب سے حمام ہی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ ابو غالب کے نام میں اختلاف ہے۔ بعض نافع اور بعض رافع کہتے ہیں بعض علماء کا اسی حدیث پر عمل ہے۔ احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

۹۱۴۔ حدیثنا علی بن حجرنا ابن المبارک والفضل بن موسی عن الحسین المعلم عن عبد اللہ بن بُرَیْدَةَ عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيَّ امْرَأَةً فَقَامَ وَسَطَهَا

۹۱۳۔ حضرت سرہ بن جندب فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ایک عورت کی نماز جنازہ پڑھی تو جنازے کے وسط میں کھڑے ہوئے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شعبہ بھی حسین معلم سے اسے روایت کرتے ہیں۔

مسئلہ: امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک امام مرد و عورت دونوں کے سینے کے مقابل کھڑا ہوگا اس لیے کہ دل سینے میں ہوتا ہے۔ اور دل ہی میں ایمان کا نور ہے چنانچہ اس کے سامنے کھڑا ہونے میں اس کے ایمان کی شفاعت کی طرف اشارہ ہے۔ احناف دلیل کے طور پر سرہ بن جندبؒ کی حدیث پیش کرتے ہیں جو امام طحاوی نے ذکر کی ہے کہ میں نے آنحضرت ﷺ کے پیچھے ام کعب کی نماز جنازہ پڑھی۔ آپ ﷺ ان کے وسط میں کھڑے ہوئے۔ لہذا اس سے یہ ظاہر ہوا کہ آپ ﷺ ان کے سینے کے مقابل کھڑے ہوئے کیونکہ سینہ ہی وسط ہے اس لیے کہ اس کے اوپر دو ہاتھ اور نیچے دو پاؤں ہیں۔

جہاں تک حضرت انسؓ کی حدیث کا تعلق ہے اس کے متعلق احناف کا موقف یہ ہے کہ یہ حکم اصل نہیں تھا کیونکہ احتمال ہے کہ جنازہ مکمل طور پر ڈھکا ہوا نہ ہو جس کی وجہ سے انسؓ تھوڑا ہٹ کر کھڑے ہوئے ہوں کیونکہ بعض روایات میں انسؓ سے مروی ہے کہ میں اس طرح اس لیے کھڑا ہوا تاکہ اس عورت کے درمیان حائل ہو جاؤں۔

باب ۷۰۰۔ شہید کی نماز جنازہ نہ پڑھنا۔

۹۱۵۔ حضرت عبدالرحمن بن کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جابر بن عبد اللہ نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ شہدائے اُحد میں سے دو دو آدمیوں کو ایک ایک کپڑے میں کفن دینے کے بعد پوچھتے ان دونوں میں سے کون زیادہ قرآن کا حافظ ہے پھر جب بتایا جاتا تو قبر میں اسے آگے کی طرف رکھتے اور فرماتے: میں قیامت کے دن ان سب کا گواہ ہوں۔ آپ ﷺ نے ان سب کو ان کے خون سمیت دفن کرنے کا حکم دیا۔ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی اور نہ ہی انہیں غسل دیا گیا۔

باب ۷۰۰۔ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ

۹۱۵۔ حَدِيثُنَا قَتِيْبَةُ ابْنِ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي الثُّوبِ الْوَاحِدِ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمَا أَكْثَرَ حِفْظًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَ فِي اللَّحْدِ فَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغْسَلُوا

اس باب میں انسؓ بن مالک سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: جابرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور زہری سے بحوالہ انسؓ مرفوعاً مروی ہے زہری، عبد اللہ بن ثعلبہ بن ابوصعیر سے اور وہ حضور اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ جب کہ کچھ راوی جابر سے بھی روایت کرتے ہیں۔ علماء کا شہید کی نماز جنازہ پڑھنے میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ شہداء کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے۔ اہل مدینہ، امام شافعی اور احمد کا یہی قول ہے جب کہ بعض کا کہنا ہے کہ ان کی بھی نماز پڑھی جائے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حمزہؓ کی نماز جنازہ پڑھی۔ سخیان ثوری، اہل کوفہ اور اسحاق کا یہی قول ہے۔

باب ۷۰۱۔ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ

۹۱۶۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا هَشِيمَ أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَى قَبْرًا مُنْتَبِذًا فَصَفَّ أَصْحَابُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَقِيلَ لَهُ مَنْ أَخْبَرَكَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

باب ۷۰۱۔ قبر پر نماز جنازہ پڑھنا۔

۹۱۶۔ شععی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو دیکھنے والے نے مجھے خبر دی کہ آنحضرت ﷺ نے (مجھے اس نے خبر دی جس نے رسول اللہ ﷺ ایک قبر کو جو دور افتادہ تھی دیکھا تو آپ ﷺ کے اصحاب نے صف باندھی اور اس قبر پر نماز جنازہ پڑھی۔ شععی سے پوچھا گیا وہ کون ہے جس نے آپ کو یہ واقعہ سنایا؟ فرمایا: ابن عباس۔

اس باب میں انسؓ، بريدہؓ، يزيد بن ثابتؓ، ابو هريرهؓ، عامر بن ربيعہؓ، ابو قتادہؓ اور سہل بن حنيفؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابن عباس کی حدیث حسن صحیح ہے اور اکثر علماء صحابہ، شافعی، احمد اور اسحاق کا یہی قول ہے۔ جب کہ بعض علماء جن میں مالک بھی شامل ہیں کہتے ہیں کہ قبر پر نماز نہ پڑھے۔ اسحاق کا قول یہ ہے کہ اگر بغیر نماز جنازہ پڑھے دن کر دیا گیا ہو تو اس صورت میں قبر پر نماز پڑھی جاسکتی ہے اس لیے کہ ہم نے سعید بن مسیب سے اکثر سنا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ام سعد بن عبادہ کی قبر پر ایک مہینے کے بعد نماز پڑھی۔

۹۱۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنِ قَتَادَةَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أُمَّ سَعِيدٍ مَاتَتْ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَائِبٌ فَلَمَّا قَدِمَ صَلَّى عَلَيْهَا وَقَدْ مَضَى لِدَالِكَ شَهْرٌ

۹۱۷۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ ام سعد، آنحضرت ﷺ کی غیر موجودگی میں فوت ہو گئیں۔ پھر جب آپ ﷺ واپس تشریف لائے تو ان کی نماز جنازہ پڑھی جب کہ ان کی وفات کو ایک ماہ ہو گیا تھا۔

باب ۷۰۲۔ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّجَاشِيِّ

۹۱۸۔ حَدَّثَنَا أَبُو سَلْمَةَ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلْفٍ وَحَمِيدُ بْنُ مَسْعُودَةَ قَالَا نَا بَشْرُ بْنُ الْمَفْضَلِ نَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرِ بْنِ عَنُ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنِ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَاكُمُ النَّجَاشِيِّ قَلَمَاتٍ فَفُؤُمُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ قَالَ فَفُؤُمْنَا فَصَفَّفْنَا كَمَا يُصَفِّ عَلَى الْمَيِّتِ وَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَلِّي عَلَى الْمَيِّتِ

۹۱۸۔ حضرت عمران بن حصینؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم سے فرمایا: تمہارے بھائی نجاشی فوت ہو گئے ہیں۔ چلو اٹھو اور ان کی نماز جنازہ پڑھو۔ راوی کہتے ہیں ہم کھڑے ہوئے اور جس طرح نماز جنازہ میں صفیں بنائی جاتی ہیں اسی طرح صفیں بنا لیں اور نماز جنازہ پڑھی جیسے کسی میت پر پڑھی جاتی ہے۔

اس باب میں ابو هريرهؓ، جابر بن عبد اللہؓ، حذیفہ بن اسیدؓ اور جریر بن عبد اللہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔ ابو قتادہؓ بھی یہ حدیث اپنے چچا ابو مہلب سے اور وہ عمران بن حصینؓ سے روایت کرتے ہیں۔ ابو مہلب کا نام عبد الرحمن بن عمرو ہے انہیں معاویہ بن عمرو بھی کہتے ہیں۔

مسئلہ: احناف اور مالکیہ کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں کیونکہ حضور ﷺ اور خلفائے راشدین کے زمانے میں بہت سے کبار صحابہ کا دوسرے شہروں اور جنگوں وغیرہ میں انتقال ہوا۔ لیکن ان میں سے ایک دو کے علاوہ کسی پر نماز جنازہ پڑھنا ثابت نہیں۔ پھر نماز جنازہ کے لیے میت کا موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ جہاں تک نجاشی کی نماز جنازہ کا تعلق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ رہتے تھے جہاں ان کی نماز جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں

تھا۔ اس لیے آپ ﷺ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے وقت حضور ﷺ کے سامنے نجاشی کو کشف کر دیا گیا تھا۔ اور آپ ﷺ انہیں دیکھ رہے تھے یا ممکن ہے کہ روح آپ ﷺ کے سامنے لائی گئی ہو۔ چنانچہ یہ آپ ﷺ ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۷۰۳۔ نماز جنازہ کی فضیلت

۹۱۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص نماز جنازہ پڑھے اس کے لیے ایک قیراط ثواب ہے۔ اور جو میت کے دفن ہونے تک جنازے کے ساتھ رہے اس کے لیے دو قیراط۔ جن میں سے ایک یا فرمایا: ان دونوں میں سے چھوٹا قیراط اُحد پہاڑ کے برابر ہے۔ راوی کہتے ہیں میں نے اس حدیث کا ابن عمرؓ کے سامنے تذکرہ کیا تو انہوں نے حضرت عائشہؓ سے پچھوایا۔ فرمانے لگیں: ابو ہریرہؓ نے سچ کہا ہے۔ اس پر ابن عمرؓ نے فرمایا: ہم نے تو بہت سے قیراطوں کا نقصان کر دیا۔

باب ۷۰۳۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزَةِ

۹۱۹۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيْبٍ نَا عَبْدَةَ بِنَ سَلِيْمَانَ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو نَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ الْجَنَائِزَةَ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يُقْضَى دَفْنُهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ أَحَدُهُمَا أَوْ أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أَحَدٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ عَائِشَةُ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَقَدْ فَرَطْنَا فِي قِرَارِ بَطْنٍ كَثِيرَةٍ

اس باب میں براءؓ، عبداللہ بن مغفلؓ، عبداللہ بن مسعودؓ، ابوسعیدؓ، ابی بن کعبؓ، ابن عمرؓ اور عثمانؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابو ہریرہؓ ہی سے کئی سندوں سے مروی ہے۔

باب ۷۰۴۔ دوسرا باب

۹۲۰۔ ابوہزم فرماتے ہیں: میں دس سال تک ابو ہریرہؓ کے ساتھ رہا۔ میں نے ان سے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو جنازے کے ساتھ چلا اور اسے تین مرتبہ کندھا دیا۔ اس نے اس کا حق ادا کر دیا۔

باب ۷۰۴۔ بَابُ آخَرُ

۹۲۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا رُوحُ بْنُ عَبَادَةَ نَا عَبَادُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمُهَزَّمِ يَقُولُ صَحِبْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَشْرَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَبِعَ جَنَائِزَةً وَحَمَلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ حَقِّهَا

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے بعض راوی یہ حدیث اسی سند سے غیر مرفوع روایت کرتے ہیں۔ ابوہزم کا نام بیزید بن سفیان ہے۔ شعبہ انہیں ضعیف کہتے ہیں۔

باب ۷۰۵۔ جنازہ دیکھ کر کھڑے ہونا۔

۹۲۱۔ حضرت عامر بن ربیعہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو، یہاں تک کہ وہ گزر جائے یا رکھ دیا جائے۔

باب ۷۰۵۔ مَا جَاءَ فِي الْقِيَامِ لِلْجَنَائِزَةِ

۹۲۱۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَائِزَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تَخْلِفَكُمْ أَوْ تُوَضَّعَ

اس باب میں ابوسعیدؓ، جابر بن سمیل بن حنیف، قیس بن سعد اور ابو ہریرہؓ سے روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں عامر بن ربیعہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

۹۲۲۔ حضرت ابوسعیدؓ ترمذی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ۔ اور جو جنازے کے ساتھ ہو وہ جنازہ کندھوں سے اتارنے سے پہلے ہرگز نہ بیٹھے۔

۹۲۲۔ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَوَانِيُّ قَالَا نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ نَا هِشَامُ الدِّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَا الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدَنَّ حَتَّى تُوَضَعَ

امام ترمذی کہتے ہیں۔ اس باب میں ابوسعیدؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ احمد اور اسحاق کا یہی قول ہے کہ جنازے کے ساتھ آنے والا شخص اس کے نیچے رکھے جانے تک نہ بیٹھے۔ بعض صحابہ وغیرہ سے مروی ہے کہ وہ جنازے کے آگے آگے چلتے تھے اور جنازے کے ان تک پہنچنے تک بیٹھے رہتے تھے۔ امام شافعی کا بھی یہی قول ہے۔

باب ۷۰۶۔ جنازہ دیکھ کر کھڑے نہ ہونے کے متعلق۔

باب ۷۰۶۔ فِي الرُّحْصَةِ فِي تَرْكِ الْقِيَامِ

۹۲۳۔ حضرت علی بن ابی طالبؓ سے منقول ہے کہ انہوں نے جنازے کی آمد پر اس کے رکھے جانے تک کھڑے رہنے کا ذکر کیا تو فرمایا: آنحضرت ﷺ شروع میں کھڑے ہوا کرتے تھے پھر بیٹھنے لگے۔

۹۲۳۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ وَاقِدٍ وَهَوَابِنِ عَمْرٍو بْنِ سَعْدِ بْنِ مَعَاذٍ عَنْ نَافِعِ ابْنِ حَبِيْرٍ عَنْ مَسْعُوْدِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ ذَكَرَ الْقِيَامَ فِي الْجَنَائِزِ حَتَّى تُوَضَعَ فَقَالَ عَلِيُّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَعَدَ

اس باب میں حسن بن علیؓ اور ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں تابعین سے چار روایتیں ہیں۔ جو ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں۔ اس پر بعض علماء کا عمل ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں یہ حدیث اس باب میں اسحٰب ہے اور پہلی حدیث کو منسوخ کرتی ہے جس میں جنازے کی آمد پر کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ امام احمد کہتے ہیں: اگر چاہے تو کھڑا ہو اور نہ بیٹھا رہے۔ کیونکہ آپ ﷺ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ شروع میں کھڑے ہوا کرتے تھے لیکن بعد میں بیٹھے رہتے تھے۔ اسحاق بھی اسی طرح کہتے ہیں۔

حضرت علیؓ کی حدیث کا مطلب یہی ہے کہ آپ ﷺ شروع شروع میں جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن بعد میں کھڑا ہونا ترک کر دیا۔ چنانچہ جب جنازہ دیکھتے تو بیٹھے رہتے تھے۔

باب ۷۰۷۔ آنحضرت ﷺ کا فرمان کہ لحد ہمارے لیے اور شق اوروں کے لیے ہے۔

باب ۷۰۷۔ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِعَيْرِنَا

۹۲۴۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لحد ہمارے لیے ہے اور شق ہمارے علاوہ لوگوں کے لیے۔

۹۲۴۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيْبٍ وَنَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ الْبَغْدَادِيُّ قَالُوا

نا حکام بن مسلم عن علی بن عبدالاعلی عن ابیہ  
عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال قال النبی  
صلی اللہ علیہ وسلم اللحد لنا و الشق لغيرنا

اس باب میں جریر بن عبداللہ، عائشہ، ابن عمر اور جابر سے بھی روایت ہے۔

توضیح: لحد قبر کو سیدھا کھودنے کے بعد نیچے سے ایک جانب کو کھودنے کو کہتے ہیں جب کہ سیدھا نیچے ہی کی طرف کھودنے کو شق کہتے ہیں۔ ان دونوں طریقوں سے قبر کھودنا جائز ہے لیکن اگر زمین سخت ہو تو لحد افضل ہے۔ جب کہ زمین نرم ہونے کی صورت میں شق افضل ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۷۰۸۔ میت کی تدفین کے وقت کیا پڑھا جائے۔

باب ۷۰۸۔ مَا جَاءَ مَا يَقُولُ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتَ قَبْرَهُ

۹۲۵۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب میت قبر میں

۹۲۵۔ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجَعِيُّ نا أَبُو خَالِدٍ

رکھتے۔ راوی کہتے ہیں کہ ابو خالد کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: جب

الاحمر نا الحجاج عن نافع عن ابن عمر أنَّ

میت لحد میں رکھی جاتی تو یہ دعا پڑھتے۔ ”بسم اللہ وباللہ وعلی

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتَ الْقَبْرَ

ملہ رسول اللہ“۔ (ترجمہ: ہم اس میت کو اللہ کے نام کے ساتھ اسی

قَالَ وَ قَالَ أَبُو خَالِدٍ مَرَّةً إِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ فِي

کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ ﷺ کی شریعت پر قبر میں اتارتے ہیں)

لَحْدِهِ قَالَ مَرَّةً بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلِيٍّ مِلَّةَ رَسُولِ

ابو خالد نے ایک اور مرتبہ فرمایا کہ آپ ﷺ نے یہ دعا پڑھی۔ ”بسم

اللَّهُ وَ قَالَ مَرَّةً بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلِيٍّ سُنَّةَ رَسُولِ

اللہ وباللہ وعلی سنۃ رسول اللہ“ (ترجمہ: اور رسول اللہ ﷺ کی

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سنت پر قبر میں اتارتے ہیں۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث اسی سند سے حسن غریب ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی سندوں سے ابن عمر سے مروی ہے وہ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں ابو صدیق ناجی بھی یہ حدیث ابن عمر سے مروی روایت کرتے ہیں۔ پھر ابو بکر صدیق کے واسطے سے بھی ابن عمر سے موقوفاً مروی ہے۔

باب ۷۰۹۔ قبر میں میت کے نیچے کپڑا بچھانا۔

باب ۷۰۹۔ مَا جَاءَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ يُلْفَى تَحْتَ

الْمَيِّتِ فِي الْقَبْرِ

۹۲۶۔ محمد کہتے ہیں کہ ابو طلحہ نے آنحضرت ﷺ کی قبر کھودی اور شتران

۹۲۶۔ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَحْزَمٍ الطَّائِيُّ نا عَثْمَانُ بْنُ فَرْقَدٍ

نے اس میں آپ ﷺ کے نیچے چادر بچھائی۔ یہ آنحضرت ﷺ کے مولا

قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ ابِيهِ قَالَ الَّذِي الْحَدِّ

ہیں۔ جعفر کہتے ہیں: مجھے ابن ابی رافع نے بتایا کہ میں نے شتران کو

قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو طَلْحَةَ وَالَّذِي

کہتے ہوئے سنا: اللہ کی قسم میں نے ہی آنحضرت ﷺ کی قبر میں آپ ﷺ

الْفِي الْقَطِيفَةِ تَحْتَهُ شُقْرَانُ مَوْلَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

کے نیچے چادر بچھائی تھی۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَعْفَرُ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي رَافِعٍ قَالَ

سَمِعْتُ شُقْرَانَ يَقُولُ أَنَا وَاللَّهِ طَرَحْتُ الْقَطِيفَةَ تَحْتَ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَبْرِ

اس باب میں ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسنِ غریب ہے۔ علی بن مدینی بھی یہ حدیث عثمان بن فرقد سے روایت کرتے ہیں۔

۹۲۷۔ حدثنا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد عن  
شعبة عن أبي حمزة عن ابن عباس قال جعل في قبر  
رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء

۹۲۷۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ کی قبر مبارک میں  
سرخ چادر بچھائی گئی۔

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور شعبہ سے بھی مروی ہے شعبہ، ابو حمزہ قصاب (عمران بن عطاء) سے روایت کرتے  
ہیں۔ یہی حدیث ابو حمزہ صہمی سے بھی مروی ہے ان کا نام نصر بن عمران ہے۔ اور دونوں ہی ابن عباسؓ کے دوستوں میں سے ہیں۔  
ابن عباسؓ سے یہ بھی مروی ہے کہ قبر میں چادر بچھانا مکروہ ہے۔ بعض علماء کا بھی یہی مذہب ہے۔ ایک اور جگہ محمد بن بشار، محمد بن جعفر  
اور یحییٰ سے وہ شعبہ سے وہ ابو حمزہ قصاب سے اور وہ ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں۔ اور یہ روایت زیادہ صحیح ہے۔

باب ۷۱۰۔ مَا جَاءَ فِي تَسْوِيَةِ الْقَبْرِ  
باب ۱۰۔ قبروں کو زمین کے برابر کرنا۔

۹۲۸۔ حدثنا محمد بن بشار نا عبدالرحمن بن  
مهدي نا سفیان عن حبيب ابن أبي ثابت عن  
أبي وإيل أن علياً قال لأبي الهيثم الأسدي أبعثك  
علي ما بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تدع  
قبراً مشرفاً إلا سويته ولا تمثالاً إلا طمسته

۹۲۸۔ حضرت ابو داؤد فرماتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے ابو ہيثم اسدي  
سے فرمایا: میں تمہیں اس کام کے لیے بھیج رہا ہوں۔ جس کام کے لیے  
آنحضرت ﷺ نے مجھے بھیجا تھا کہ تم کسی اونچی قبر کو زمین کے برابر کیے  
بغیر نہ چھوڑو۔ اور نہ ہی کسی تصویر کو منائے بغیر چھوڑو۔

اس باب میں جابرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: حضرت علیؓ کی حدیث حسن ہے اور بعض علماء کا اسی پر عمل ہے کہ قبر کو  
زمین سے بلند کرنا حرام ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں: حضرت علیؓ کی حدیث حسن ہے اور بعض علماء کا اسی پر عمل ہے کہ قبر کو زمین سے بلند کرنا  
حرام ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں: قبر کو زمین سے اونچا رکھنا حرام ہے۔ البتہ اتنی اونچی نہ چاہئے کہ پتہ چلے یہ قبر ہے تاکہ لوگ اس پر چلیں یا  
بیٹھیں نہیں۔

باب ۷۱۱۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْوُطْئِ عَلَى الْقُبُورِ  
باب ۱۱۔ قبروں پر چلنے اور بیٹھنے کی ممانعت۔

وَالْحُلُوسِ عَلَيْهَا  
۹۲۹۔ حدثنا هنادنا ابن المبارك عن عبدالرحمن  
بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن  
أبي ادريس الحولاني عن وإيلة بن الأسقع عن  
أبي مرثد الغنوي قال قال النبي صلى الله عليه  
وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها

۹۲۹۔ حضرت ابو مرثد غنوی سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا  
قبروں پر نہیں بیٹھا کرو اور نہ ہی ان کی طرف نماز پڑھا کرو۔

اس باب میں ابو ہریرہؓ، عمرو بن حزمؓ اور بشیر بن خصاصہؓ سے بھی روایت ہے۔ محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی سے اور وہ ابن  
مبارک سے اسی سند سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں علی بن حجر اور ابو عمار، ولید بن مسلم سے وہ عبدالرحمن بن یزید بن جابر سے وہ

بسر بن عبید اللہ نے وائلہ بن اسقع سے وہ ابو مرثد سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ اس میں ابودریس کا ذکر نہیں ہے اور یہی صحیح ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ امام بخاری نے فرمایا: ابن مبارک کی اس حدیث میں ان سے خطا ہوئی ہے۔ انہوں نے ابودریس خولانی کا نام زیادہ ذکر کیا ہے جب کہ درحقیقت بسر بن عبد اللہ کی وائلہ بن اسقع کے حوالے سے روایت ہے۔ کئی راوی عبد الرحمن بن جابر سے اسی طرح روایت کرتے ہیں کہ ابودریس خولانی کا نام نہیں آتا۔ اور بسر بن عبید اللہ نے وائلہ بن اسقع سے احادیث سنی ہیں۔

باب ۷۱۲۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ تَحْصِيصِ الْقُبُورِ وَالْكِتَابَةِ عَلَيْهَا

باب ۷۱۲۔ قبروں کو پختہ کرنا اور ان پر لکھنا حرام ہے۔

۹۳۰۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے قبروں کو پختہ کرنے، ان پر لکھنے، ان پر تعمیر کرنے اور ان پر چلنے سے منع فرمایا۔

۹۳۰۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ الْبَصْرِيُّ نَا مُحَمَّدَ بْنَ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ جَرِيحٍ عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُحَصَّصَ الْقُبُورُ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا وَأَنْ تُوَطَّأَ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے جابرؓ سے مروی ہے بعض علماء جن میں حسن بصری بھی شامل ہیں قبروں کو لینے کی اجازت دیتے ہیں۔ شافعی کے نزدیک بھی اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

باب ۷۱۳۔ قَبْرِسْتَانِ جَانَةِ كِي دَعَا۔

۹۳۱۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مدینہ کے قبرستان سے گزرے تو قبروں کی طرف منہ کر کے فرمایا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا..... الرَّحْمَنُ۔ اے قبر والو تم پر سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ تم ہم سے پہلے پہنچے ہو اور ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔

باب ۷۱۳۔ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْمَقَابِرَ

۹۳۱۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ نَا مُحَمَّدَ بْنَ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ كَدِينَةَ عَنِ قَابُوسِ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ عَنِ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُورِ الْمَدِينَةِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفْنَا وَنَحْنُ بِالْآثَرِ

اس باب میں بریدہ اور عائشہؓ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث غریب ہے اور ابو کدینہ کا نام یحییٰ بن مہلب اور ابو ظبیان کا حصین بن جندب ہے۔

باب ۷۱۴۔ قَبْرُوكِي زِيَارَتِ كِي اِجَازَتِ

۹۳۲۔ حضرت سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا۔ لیکن محمد (ﷺ) کو اب اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرنے کی اجازت مل گئی ہے لہذا تم بھی قبروں کی زیارت کیا کرو اس لیے کہ یہ آخرت کی

باب ۷۱۴۔ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ

۹۳۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ وَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالُوا نَا ابُو عَاصِمِ النَّبِيلِ نَا سَفْيَانَ عَنِ عُلُقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنِ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أَمِّهِ فَرُوزُهَا فَإِنَّهَا تَذَكِّرُ الْأَخْرَةَ

اس باب میں ابوسعید، ابن مسعود، ابو ہریرہ اور ام سلمہ سے بھی روایت ہے۔ علماء کا اسی حدیث پر عمل ہے کہ قبروں کی زیارت کرنے میں کوئی مضاقت نہیں۔ ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

باب ۷۱۵۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ لِلنِّسَاءِ

باب ۷۱۵۔ عورتوں کے قبروں کی زیارت کرنے کی کراہت۔

۹۳۳۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا ابُو عَوَانَةَ عَنْ عَمْرُو بْنِ اَبِي

۹۳۳۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے قبروں کی

سَلْمَةَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى

زیارت کے لیے بکثرت جانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ

اس باب میں ابن عباس اور حسان بن ثابت سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ حکم زیارت کی اجازت سے پہلے کا ہے۔ چنانچہ جب اجازت دی گئی تو اس میں عورتیں اور مرد دونوں برابر ہیں۔ جب کہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت اس لیے حرام ہے کہ ان میں صبر کم ہوتا ہے۔

باب ۷۱۶۔ مَا جَاءَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ لِلنِّسَاءِ

باب ۷۱۶۔ عورتوں کا قبروں کی زیارت کرنا۔

۹۳۴۔ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَرِيْثٍ نَا عِيْسَى بْنِ

۹۳۴۔ حضرت عبداللہ بن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ عبدالرحمن بن

يُوْنُسَ عَنْ اَبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ

ابو بکر حبشہ میں فوت ہو گئے انہیں مکہ لا کر دفن کیا گیا پھر جب حضرت

تُوْفِيْقِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ اَبِي بَكْرٍ بِالْحُبَشِيِّ قَالَ

عائشہ مکہ گئیں تو اپنے بھائی عبدالرحمن بن ابو بکر کی قبر پر گئیں اور

فَحَمَلْنَا اِلَى مَكَّةَ فَذَفَنَ فِيْهَا فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ اَتَتْ

دوسرے پڑھے۔ ان کا معنی یہ ہے۔ (ہم دونوں اس طرح تھے

قَبْرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ وَكُنَّا كَنَدَ مَا نِي

جیسے بادشاہ جزیرہ کے دو ہمنشین ایک طویل مدت تک ساتھ رہے

جَدِيْمَةَ حِقْبَةَ مِنَ الدَّهْرِ حَتَّى قِيْلَ لَنْ يَتَّصِدَعَا فَلَمَّا

ہوں یہاں تک کہ کہا جانے لگا یہ کبھی جدا نہ ہوں گے لیکن جب ہم

تَفَرَّقْنَا كَانِي وَمَا لِكُنَا بِطُوْلِ اجْتِمَاعٍ لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً

جدا ہوئے تو باوجود یکہ طویل مدت تک ساتھ رہے ایسا محسوس

مَعَانِيْمٌ قَالَتْ وَاللّٰهُ لَوْ حَضَرْتُكَ مَا دَفَنْتُ اِلَّا حَيْثُ

ہونے لگا کہ جیسے ایک دن بھی ساتھ نہ رہے ہوں) پھر حضرت

مُتَّ وَلَوْ شَهِدْتُكَ مَا زَرْتُكَ

عائشہ نے فرمایا: اللہ کی قسم اگر میں موجود ہوتی تو تمہیں تمہاری وفات

کی جگہ ہی دفن کراتی اور اگر موت سے پہلے تمہیں دیکھ لیتی تو کبھی

تمہاری قبر پر نہ آتی۔

باب ۷۱۷۔ مَا جَاءَ فِي التَّغْنِ بِاللَّيْلِ

باب ۷۱۷۔ رات کو دفن کرنا۔

۹۳۵۔ حَدَّثَنَا ابُو كَرِيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو السَّوَاقِ

۹۳۵۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک قبر میں

قَالَانَا يَحْيَى بْنُ اَلِيْمَانَ عَنْ الْمَنْهَالِ بْنِ حَنْبَلَةَ عَنْ

(تدفین کے لیے) رات کے وقت اترے تو آپ ﷺ کے لیے چراغ

الْحَجَّاجِ بْنِ اِرطَاةٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ

سے روشنی کی گئی۔ آپ ﷺ نے اسے قبلے کی طرف سے نچکڑا اور فرمایا:

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ قَبْرًا لَيْلًا فَاسْرَجَ لَهُ سِرَاجًا فَأَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ الْقَبْلَةِ وَقَالَ رَحِمَكَ اللَّهُ إِنْ كُنْتَ لَأَوْهَا تَلَاءَ لِلْقُرْآنِ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا

اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے تم بہت نرم دل اور قرآن کی بہت زیادہ تلاوت کرنے والے تھے۔ نیز آپ ﷺ نے چار کعبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھائی۔

اس باب میں جابرؓ اور یزید بن ثابتؓ سے بھی روایت ہے۔ یزید زید بن ثابت کے بڑے بھائی ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن ہے۔ بعض علماء اسی حدیث پر عمل پیرا ہیں۔ ان کا کہنا کہ میت کو قبلے کی طرف سے قبر میں اتارا جائے جب کہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ سر کی طرف سے قبر میں اتارا جائے۔ پھر اکثر اہل علم رات کو دفن کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔

باب ۷۱۸۔ ماجاء فی النناء الحسن علی المیت

۹۳۶۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو صحابہ نے اس کی اچھائی بیان کی۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اس کے لیے جنت واجب ہوگی پھر فرمایا: تم لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔

۹۳۶۔ حدثنا احمد بن منيع نا يزيد بن هارون نا حميد عن انس بن مالك قال مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأتونا عليها خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت ثم قال انتم شهداء الله في الارض

اس باب میں عمرؓ، کعب بن عجرہؓ اور ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث انسؓ حسن صحیح ہے۔

۹۳۷۔ حضرت ابو اسودؓ فرماتے ہیں میں مدینہ آیا تو ایک روز عمر بن خطابؓ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک جنازہ گزرا۔ لوگوں نے اس کی تعریف بیان کی۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: اس کے لیے واجب ہوگی۔ میں نے کہا: کیا واجب ہوگی۔ کہنے لگے میں نے وہی کہا جو رسول اللہ ﷺ سے سنا: آپ ﷺ نے فرمایا: اگر تین شخص کسی مسلمان کی گواہی دیں تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ ہم نے عرض کیا: اگر دو شخص گواہی دیں تو؟ فرمایا تب بھی راوی کہتے ہیں ہم نے آپ ﷺ سے ایک شخص کے متعلق نہیں پوچھا۔

۹۳۷۔ حدثنا يحيى بن موسى و هارون بن عبد الله البزان قالوا نا ابو داود الطيالسي نا داود بن ابى الفرات نا عبدالله بن بريدة عن ابي الأسود الدئلي قال قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب فمرؤا بجنازة فأتونا عليها خيرا فقال عمر وجبت فقلت لعمر ما وجبت قال أقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يشهد له ثلاثة إلا وجبت له الجنة قال قلنا وأثنان قال وأثنان قال ولم نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الواحد

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابو اسودؓ کی کا نام ظالم بن عمرو بن سفیان ہے۔

باب ۷۱۹۔ ماجاء فی نواب من قدم ولدا

۹۳۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسلمانوں میں سے اگر کسی کے تین بیٹے فوت ہو جائیں تو اسے دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ بائبلتہ صرف قسم پوری کرنے کے بقدر۔

۹۳۸۔ حدثنا قتيبة عن مالك بن انس ح و نا الانصاري نا معن نا مالك بن انس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ان رسول الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَالِدِ فَتَمَسَّتُهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ

اس باب میں عمر، معاذ، کعب بن مالک، عقبہ بن عبد، ام سلیم، جابر، انس، ابو ذر، ابن مسعود، ابو ثعلبہ اشجعی، ابن عباس، عقبہ بن عامر، ابوسعید، قرہ بن ایاس مزنی اور ابو ثعلبہ سے بھی روایت ہے۔ یہ ابو ثعلبہ خشکی نہیں ہیں ان کی صرف ایک ہی حدیث ہے۔ امام ترمذی ابو ہریرہ کی حدیث کو حسن صحیح کہتے ہیں۔

۹۳۹۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس کے تین نابالغ بچے فوت ہوئے وہ اسے دوزخ سے بچانے کے لیے مضبوط قلعے کی مانند ہوں گے۔ ابو ذر سے عرض کیا: میں دو بچے پیش کر چکا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: دو بھی اسی طرح ہیں۔ ابی ابن کعب سید القراء نے عرض کیا: میرا بھی ایک بیٹا فوت ہوا ہے چنانچہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ایک بھی۔ لیکن یہ سب اسی صورت میں ہے کہ ان کے فوت ہوتے ہی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے۔

۹۳۹۔ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ نَا اسْحَقُ بْنُ يَوْسُفَ نَا الْعَوَامُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنِ ابْنِ مُحَمَّدٍ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ عَبِيدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَدَّمَ ثَلَاثَةً لَمْ يَلْغُوا الْحُلْمَ كَانُوا لَهُ حِصْنًا حَصِينًا مِنَ النَّارِ قَالَ أَبُو ذَرٍّ قَدَّمْتُ اثْنَيْنِ قَالَ وَأَثْنَيْنِ فَقَالَ أَيُّ بِنِّ كَعْبٍ سَيِّدُ الْفُرَّاءِ قَدَّمْتُ وَاحِدًا قَالَ وَوَاحِدًا وَلَكِنْ إِنَّمَا ذَلِكَ عِنْدَ الصَّدَمَةِ الْأُولَى

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن غریب ہے۔ کیونکہ ابو عبیدہ نے اپنے والد سے کوئی حدیث نہیں سنی۔

۹۴۰۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں: میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا کہ میری امت میں سے جس کے دو بیٹے فوت ہوئے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا: آپ کی امت میں سے جس کا ایک بیٹا فوت ہوا۔ فرمایا: ایک بھی کافی ہے۔ اے نبی عورت۔ پھر عرض کیا: اگر کسی کا کوئی بیٹا نہ ہو تو آپ ﷺ نے فرمایا: میری امت کا فرط ہوں میری امت کے لیے کسی کی جدائی کی تکلیف میری جدائی کی تکلیف سے زیادہ نہیں۔ (۱)

۹۴۰۔ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَأَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ قَالَ أَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنِ بَارِقِ الْحَنْفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ جَدِّي أَبَا أُمِّي سَمَّاكَ بْنَ الْوَلِيدِ الْحَنْفِيُّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ لَهُ فَرْطَانٌ مِنْ أُمَّتِي أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهِمَا الْجَنَّةَ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرْطٌ مِنْ أُمَّتِكَ قَالَ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرْطٌ يَا مَوْفِقَةُ قَالَتْ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرْطٌ مِنْ أُمَّتِكَ قَالَ فَإِنَّا فَرْطٌ مِنْ أُمَّتِي لَمْ يُصَابُوا بِمِثْلِي

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف عبد رب بن باریق کی روایت سے جانتے ہیں ان سے کسی ائمہ حدیث روایت کرتے ہیں۔ ہم سے امام ابن مرابطی نے انہوں نے حبان بن بلال سے اور انہوں نے عبد رب بن باریق سے اسی حدیث کے کئی روایت کی ہے۔

(۱) فرط اس کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح ان کے بچے فوت ہو کر ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنادے گئے اسی طرح میں قیامت کے دن جس کے بچے نہیں ہیں اس کی شفاعت کروں گا۔ (واللہ اعلم)۔ ترجم۔

باب ۷۲۰۔ مَا جَاءَ فِي الشُّهَدَاءِ مَنْ هُمْ

باب ۷۲۰۔ شہداء کون ہیں؟

۹۴۱۔ حَدَّثَنَا الْإِنصَارِيُّ نَا مَعْنَا مَالِكُ ح وَ نَا قَتِيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشُّهَدَاءُ خَمْسُ الْمُطْعُوْنَ وَالْمَبْطُوْنَ وَالْعَرِيْقُ وَ صَاحِبُ الْهَذْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

۹۴۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: شہید پانچ ہیں۔ (۱) طاعون کی وبا سے مرنے والا، (۲) پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، (۳) ڈوب کر مرنے والا، (۴) دیوار وغیرہ کے گرنے سے مرنے والا، (۵) اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا۔

اس باب میں انس، صفوان بن امیہ، جابر بن عتیک، خالد بن عرفطہ، سلمان بن صرد، ابو موسیٰ اور عائشہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام

ترمذی کہتے ہیں: ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

۹۴۲۔ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْبَاطَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ

۹۴۲۔ حضرت ابواسحاق سبیعی کہتے ہیں کہ سلیمان بن صردؓ نے خالد بن عرفطہؓ سے یا خالدؓ نے سلیمانؓ سے کہا: کیا تم نے رسول اللہ ﷺ سے یہ حدیث سنی ہے؟ کہ فرمایا: جو پیٹ کی بیماری کی وجہ سے مر گیا اسے عذاب قبر نہیں ہوگا۔ تو ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا: ہاں سنی ہے۔

الْكُوفِيُّ نَا ابِي نَا أَبُو سَنَانِ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيْعِيِّ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَيْدٍ لِيخَالِدِ بْنِ عَرْفُطَةَ أَوْ خَالِدِ بْنِ سُلَيْمَانَ أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ فَتَكَهُ بَطْنُهُ لَمْ يَعْذَبْ فِي قَبْرِهِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ نَعَمْ

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث اس باب میں حسن غریب ہے اور دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

باب ۷۲۱۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْفَرَارِ مِنَ الطَّاعُونِ

باب ۷۲۱۔ طاعون سے فرار ہونے کی کراہت۔

۹۴۳۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الطَّاعُونَ فَقَالَ بَقِيَّةُ رِجْزٍ أَوْ عَذَابٍ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَ أَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَلَسْتُمْ بِهَا فَلَا تَهْبِطُوا عَلَيْهَا

۹۴۳۔ حضرت اسامہ بن زیدؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے طاعون کا ذکر کیا تو فرمایا: یہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت کی طرف بھیجے جانے والے عذاب کا پچا ہوا حصہ ہے۔ چنانچہ اگر کسی جگہ یہ وبا پھیلی ہوئی ہو اور تم وہیں ہو تو وہاں سے فرار نہ اختیار کرو۔ اور اگر تم وہاں سے علاقے سے باہر ہو تو اس علاقے میں مت داخل ہو۔ راوی کو شک ہے کہ ”رجز“ فرمایا، یا ”عذاب“ ”رجز“ بھی عذاب ہی کے معنی میں آتا ہے۔

اس باب میں سعد بن زبیر بن ثابتؓ، عبدالرحمن بن عوفؓ، جابرؓ اور عائشہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن

صحیح ہے۔

باب ۷۲۲۔ مَا جَاءَ فِي مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ

باب ۷۲۲۔ جو اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتے ہیں۔

۹۴۴۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُقَدَّمِ أَبُو الْأَشْعَثِ الْعَجَلِيُّ

۹۴۴۔ حضرت عبادہ بن صامتؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

نا المعتمر بن سليمان قال سمعت ابي يحدث عن قتادة عن انس عن عباد بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه

جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے ملنا پسند فرماتے ہیں اور جو اللہ کی ملاقات سے کراہت کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتے۔

اس باب میں ابو موسیٰ، ابو ہریرہ اور عائشہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: عبادہ بن صامت کی حدیث حسن صحیح ہے۔

۹۴۵۔ حدثنا حميد بن مسعدة نا خالد بن الحارث نا سعيد بن ابى عروبہ ح و نا محمد بن بكر عن سعيد بن ابى عروبہ عن قتادة عن زرارة بن ابى اوفى عن سعيدي بن هشام عن عائشة انها ذكرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقالت فقلت يا رسول الله كلنا يكره الموت قال ليس كذلك ولكن المؤمن اذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته احب لقاء الله واحب الله لقاءه وان الكافر اذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه

۹۳۵۔ حضرت عائشہ، رسول کریم ﷺ کا یہ ارشاد نقل کرتی ہیں کہ جس نے اللہ سے ملنا چاہا اللہ بھی اس سے ملنے کی چاہت رکھتے ہیں اور جو ان سے نہیں ملنا چاہتا اللہ بھی اس سے ملاقات کی چاہت نہیں رکھتے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ تم میں سے کوئی بھی موت کو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا: یہ بات نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مؤمن کو اللہ کی رحمت، اس کی رضا اور جنت کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کے دل میں اللہ سے ملاقات کا اشتیاق پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کے مشتاق ہوتے ہیں لیکن جب کافر کو اللہ کے عذاب اور اس کے غصے کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو وہ اللہ کی ملاقات سے گریز کرتا ہے چنانچہ اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند نہیں کرتے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۷۲۳۔ ماجاء في من يقتل نفسه لم يصل عليه

۹۴۶۔ حدثنا يوسف بن عيسى نا وكيع نا اسراييل وبشر بن عمار عن سبائك بن حرب عن جابر بن سمره ان رجلا قتل نفسه فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم

باب ۲۳۔ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔

۹۳۶۔ حضرت سمرہ بن جندب فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے خودکشی کر لی تو آنحضرت ﷺ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن ہے۔ اور علماء کا اس میں اختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ جس شخص نے بھی قبلہ رخ نماز پڑھی ہو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے خواہ اس نے خودکشی ہی کیوں نہ کی ہو۔ یہ سفیان ثوری اور اسحاق کا قول ہے جب کہ امام احمد کے نزدیک خودکشی کرنے والے شخص کی نماز جنازہ پڑھنا امام کے لیے جائز نہیں۔ دوسرے لوگ پڑھ لیں۔

باب ۷۲۴۔ ماجاء في صلوة المديون

۹۴۷۔ حدثنا محمود بن غيلان نا ابو داود نا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت

باب ۲۴۔ مقروض کی نماز جنازہ

۹۴۷۔ حضرت عثمان بن عبد اللہ بن موهب فرماتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ بن ابی قتادہ کو اپنے والد سے نقل کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ

عَنْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّى بَرَّحِلَ لِيُصَيَّ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا عَلَيَّ ضَاجِحِكُمْ فَإِنَّ عَلِيَّ زَيْنًا فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ هُوَ عَلِيٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَفَاءِ فَقَالَ بِالْوَفَاءِ فَصَلُّوا عَلَيْهِ

ﷺ کے پاس ایک جنازہ آیا گیا تاکہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ آپ ﷺ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ یہ مقروض تھا۔ ابو قتادہ نے عرض کیا وہ قرض میرے ذمے ہے میں ہی اسے ادا کروں گا۔ آپ ﷺ نے پوچھا: پورا قرضہ؟ انہوں نے عرض کیا: جی ہاں پورا۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔

اس باب میں جابر، سلم بن الوعظ اور اسماء بنت یزید سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۹۴۸۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُفَضَّلِ مَكْتُومُ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ ثَنَى سِدْلَهُ . . . مَسَحَ تَى الْيَدِ ثَنَى عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ نَهَابٍ . . . حِزْرِي أَبُو سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتِي بِالرَّحْلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدِّينَ فَيَقُولُ هَلْ تَرَكَ لِيَدِينِهِ مِنْ قِضَاءٍ فَإِنْ حَدَّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَقَاءَهُ صَلَّى عَلَيْهِ وَلَا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلُّوا عَلَيَّ ضَاجِحِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَامَ فَقَالَ إِنَّا الْوَلِيُّ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَسَنُتَوَفَّى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَتَرَكَ ذَيْنَا فَعَلَى قِضَاءِهِ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا وَهُوَ يُورَثُهُ

۹۴۸۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر آنحضرت ﷺ کے پاس کسی مقروض شخص کی میت نماز جنازہ کے لیے لائی جاتی تو پوچھتے: کیا اس نے اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ اگر کہا جاتا کہ چھوڑا ہے تو اس کی نماز پڑھتے ورنہ مسلمانوں سے کہتے اپنے ساتھی کی نماز پڑھ لو۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بہت سی فتوحات عنایت فرمائیں تو آنحضرت ﷺ کھڑے ہوئے اور فرمایا: میں مؤمنوں کے لیے اپنی ذات سے بھی زیادہ بہتر ہوں لہذا مؤمنین میں سے اگر کوئی مقروض ہوئے فوت ہو جائے تو میں اس کا قرض ادا کروں گا۔ اور جو کچھ وہ وراثت میں چھوڑے گا وہ اس کے وارثوں کے لیے ہوگا۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یحییٰ بن کثیر اور کئی راوی بھی یہ حدیث لیث بن سعد سے روایت کرتے ہیں۔

باب ۲۵۔ عذاب قبر سے متعلق۔

۹۴۹۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب کسی میت یا فرمایا تم میں سے کسی کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے فرشتے جنہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے، آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ وہی جواب دیتا ہے جو دیتا ہے، کہا کرتا تھا کہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں گواہوں دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر وہ فرشتے کہیں گے کہ ہم جانتے تھے تو یہی جواب دے گا پھر اس کی قبر ستر سترگز وسیع کر دی جاتی ہے اور اسے منور کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ سو جا۔ وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کے پاس جا کر ان کو بتا دوں وہ کہتے ہیں: لیکن کی طرح

باب ۷۲۵۔ ما جاء في عذاب القبر

۹۴۹۔ حَدَّثَنَا أَبُو سَلْمَةَ يَحْيَى بْنُ حَدَفِ الْبَصْرِيُّ نَائِمُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اسْحَقٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُقْبَرِيِّ حِينَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فُيِّرَ الْمَيِّتُ أَوْ قَالَ أَحَدَانِمْ أَنَا مَكَانِ اسْمِ بَنِ الْأَرْفَاقِ يُقَالُ لَا حِدَهُمَا الْمُتَمَكَّرُ . . . لِأَحْرِ التَّمَكُّرِ فَيَقُولُ لَانِ مَا كُنْتَ تَعْمَلُ فِي هَذَا الرَّحْلِ فَيَقُولُ مَا كُنْتُ بَعُولًا هَذَا مَسْأَلُهُ وَرَسُولُهُ وَالشَّهَادَةُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . . . انْ لَمْ يَسْأَلْهُ عَذَابُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولُ لَانِ فَذَكَرْنَا لَعْنَةُ تَمَكُّرٍ هَذَا تَمَكُّرٌ . . . فِي قَبْرِهِ سَعْفًا . . . انْ لَمْ يَسْأَلْهُ

سو جائے اس کے محبوب ترین شخص کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا۔ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اس کی خواب گاہ ہی سے اٹھائیں گے۔ لیکن اگر وہ منافق ہوگا تو یہ جواب دے گا۔ میں لوٹوں سے جس طرح سنا کرتا تھا اسی طرح کہا کرتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم۔ وہ فرشتے کہیں گے: ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی جواب دے گا۔ پھر زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ اسے دیوبچ لے۔ وہ اسے اس طرح دیوبچتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایسے دوسری میں گھس جاتی ہیں۔ پھر اسے اسی طرح عذاب دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے اسی جگہ سے اٹھایا جائے گا۔

يُنَوَّرُ لَهُ، فِيهِ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ، نَمْ فَيَقُولُ أَرْجِعْ إِلَى أَهْلِي فَأُخْبِرُهُمْ فَيَقُولَانِ لَهُ، نَمْ كَنَوْمَةِ الْعُرُوسِ الَّذِي لَا يُوقِظُهُ، إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجِعِهِ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ فَقُلْتُ مِثْلَهُ، لَا أَدْرِي فَيَقُولَانِ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ إِنَّكَ تَقُولُ ذَلِكَ فَيُقَالُ لِلْأَرْضِ التَّيْمِي عَلَيْهِ فَتَلْتَهُمْ عَلَيْهِ فَتَخْتَلِفُ أَضْلَاعُهُ، فَلَا يَزَالُ فِيهَا مُعَذَّبًا حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجِعِهِ ذَلِكَ

اس باب میں علیؑ، زید بن ثابتؓ، ابن عباسؓ، براء بن عازبؓ، ابو ایوبؓ، انسؓ، جابرؓ، عائشہؓ اور ابو سعیدؓ، آنحضرت ﷺ سے عذاب قبر کے متعلق روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن غریب ہے۔

۹۵۰۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب کوئی شخص مرتا ہے تو اسے اس کے رہنے کی جگہ دکھائی جاتی ہے۔ اگر جنت والوں میں سے ہوتا ہے تو جنت اور اگر اہل دوزخ میں سے ہوتا ہے تو دوزخ۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائیں گے تو یہی تمہاری جگہ ہے۔

۹۵۰۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۷۲۶۔ مَا جَاءَ فِي أَحْرِمٍ مِنْ عَزَى مُصَابَا

۹۵۱۔ حَدَّثَنَا يَوْسُفُ بْنُ عَيْسَى نَاعِلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ نَا وَاللَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَوْقَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَزَى مُصَابَا فَلَهُ مِثْلُ أَحْرِمِ

باب ۷۲۶۔ مصیبت زدہ کو تسلی دینے پر اجر۔  
۹۵۱۔ حضرت عبداللہؓ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص کسی مصیبت زدہ کو تسلی دیتا ہے اسے بھی اسی کی طرح ثواب ہوتا ہے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف علی بن عاصم کی روایت سے مرفوع جانتے ہیں۔ بعض راوی اسے محمد بن

سوق سے بھی اسی سند سے اسی کے مثل موقوف روایت کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ علی بن عاصم پر اسی حدیث کی وجہ سے طعن کیا گیا۔

باب ۷۲۷۔ مَا جَاءَ فِي مَنْ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

۹۵۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ نَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ وَابُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَا نَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ

۹۵۲۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی مسلمان جمعہ یا جمعہ کی رات کو فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبر کے

قنن سے محفوظ رکھتے ہیں۔

سَعِيدُ بْنُ أَبِي هَلَالٍ عَنْ رَيْبَعَةَ بْنِ سَيْفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث غریب ہے اس کی سند متصل نہیں کیونکہ ربیعہ بن سیف سے عبدالرحمن حبلی سے عبداللہ بن عمرو کے حوالے سے روایت کرتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ربیعہ بن سیف نے عبداللہ بن عمرو سے کوئی حدیث سنی ہو۔

باب ۷۲۸۔ جنازے میں جلدی کرنا۔

باب ۷۲۸۔ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الْجَنَازَةِ

۹۵۳۔ حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اسے علی: تین چیزوں میں تاخیر نہ کرو۔ نماز: جب اس کا وقت ہو جائے۔ جنازہ: جب حاضر ہوئے اور بالبع عورت: جب اس کے لیے مناسب رشتہ مل جائے۔

۹۵۳۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَهْضَمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرُهَا الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ وَقُتْهَا وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْإِيْمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفُوًا

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث غریب ہے۔ اس کی سند کے اتصال کا مجھے علم نہیں۔

باب ۷۲۹۔ تعزیت کی فضیلت۔

باب ۷۲۹۔ آخَرُ فِي فَضْلِ التَّعْزِيَةِ

۹۵۴۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے کسی عورت سے اس کے بیٹے کے فوت ہو جانے پر تعزیت کی اسے جنت کی چادر اور ڈھائی جائے گی۔

۹۵۴۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ الْمُؤَدَّبِ نَا يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اِمَّ السُّودِ عَنْ مَنِةِ ابْنَةِ عَمِيْدِ بْنِ اَبِي بَرَزَةَ عَنْ جَدِّهَا عَنْ اَبِي بَرَزَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَزَّى نَكْلِي كَسِي بُرْدًا فِي الْجَنَّةِ

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث غریب ہے۔ اس کی سند قوی نہیں۔

باب ۷۳۰۔ نماز جنازہ میں رفع یدین۔

باب ۷۳۰۔ مَا جَاءَ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْجَنَازَةِ

۹۵۵۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مرتبہ نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کی تو رفع یدین کیا اور وایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا۔

۹۵۵۔ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ نَا اسْمَعِيلَ بْنِ اَبَانَ الْوَرَّاقِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْلَى الْاِسْلَمِيِّ عَنْ اَبِي قُرَّةِ زَيْدِ بْنِ سَنَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِي اَنِيْسَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي اَوَّلِ تَكْبِيْرِهِ وَوَضَعَ الْيَمْنَى عَلَى السُّرَى

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ اکثر علماء صحابہ وغیرہ کہتے ہیں کہ ہر تکبیر کے وقت رفع یدین کیا جائے۔ ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ جب کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے۔ ثوری اور اہل کوفہ (احناف) کا یہی قول ہے۔ ابن مبارک سے مروی ہے۔ کہ نماز جنازہ میں ہاتھ باندھنا ضروری نہیں۔ لیکن بعض علماء کے نزدیک اس میں بھی دوسری نمازوں ہی کی طرح ہاتھ باندھنے چاہئیں۔ امام ترمذی بھی اسی کو بہتر سمجھتے ہیں۔

باب ۷۳۱۔ مَا جَاءَ أَنَّ نَفْسَ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدِينِهِ حَتَّى يُقْضَى عَلَيْهِ

باب ۳۱۔ مؤمن کا دل قرض ہی کی طرف لگا رہتا ہے جب تک اس کی طرف سے ادا نہ کر دیا جائے۔

۹۵۶۔ حدثنا محمود بن غيلان نا ابو اسامة عن زكريا بن ابى زائدة عن سعد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدنيه حتى يقضى عنه

۹۵۶۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مؤمن کا دل اس کے قرض ہی میں معلق رہتا ہے یہاں تک کہ اسے ادا کر دیا جائے۔

محمد بن بشار، عبد الرحمن بن مہدی سے وہ ابراہیم بن سعد سے وہ اپنے والد سے وہ عمرو بن سلمہ سے وہ اپنے والد سے اور وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اور یہی حدیث بیان کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے اور پہلی حدیث سے صحیح ہے۔

## آنحضرت ﷺ کے نکاح کے متعلق

### منقول احادیث کے ابواب

۹۵۷۔ حضرت ابو ایوب کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: چار چیزیں انبیاء کی سنتوں میں سے ہیں۔ حیاء، عطر، سواک اور نکاح۔

## أَبْوَابُ النِّكَاحِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

### صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۹۵۷۔ حدثنا سفیان بن وكيع نا حفص بن غياث عن الحجاج عن مكحول عن ابى الشمال عن ابي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح

اس باب میں عثمان، ثوبان، ابن مسعود، عائشہ، عبد اللہ بن عمر، جابر اور عکاف سے بھی روایت ہے۔ ابو ایوب کی حدیث حسن غریب ہے۔ محمود بن خدش وہ عباد بن عوام سے وہ حجاج سے وہ ابو شمال سے وہ ابو ایوب سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے حفص کی حدیث کے مثل روایت کرتے ہیں۔ پھر یہی حدیث، شمیم، محمد بن یزید واسطی، معاویہ اور کئی راوی بھی حجاج سے وہ مکحول سے اور وہ ابو ایوب سے روایت کرتے ہوئے ابو شمال کا ذکر نہیں کرتے۔ حفص بن غیاث اور عباد بن عوام کی حدیث صحیح ہے۔

۹۵۸۔ حدثنا محمود بن غيلان نا ابو احمد نا سفیان عن الاعمش عن عمارة بن عمير عن

۹۵۸۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نکلے۔ ہم جوان تھے لیکن نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔

آپ ﷺ نے فرمایا: اے جوانو! تمہارے لیے نکاح کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ یہ آنکھوں کو نیچا رکھتا اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے لیکن اگر کوئی شادی کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ روزے رکھے اس لیے کہ روزوں سے شہوت ختم ہو جاتی ہے۔

عبدالرحمن بن یزید عن عبد اللہ بن مسعود قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبان لا نقدر على شئٍ وقال يا معشر الشباب عليكم بالباء فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فمن لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حسن بن علی خلال، عبداللہ بن نمیر سے وہ اعمش سے اور وہ عمارہ سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں پھر کئی راوی اعمش سے بھی اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ ابو محاد یہ اور مجاری بھی اعمش سے وہ ابراہیم سے وہ علقمہ سے وہ عبداللہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔

باب ۷۳۲۔ ترک نکاح کی ممانعت۔

باب ۷۳۲۔ ما جاء في النهي عن التبتل

۹۵۹۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے عثمان بن مظعون کو ترک نکاح کی اجازت نہیں دی۔ ورنہ ہم خسی ہو جاتے۔

۹۵۹۔ حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا نا عبدالرزاق نا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو اذن له لاختصينا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۹۶۰۔ حضرت سمرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ترک نکاح کی ممانعت فرمائی۔ (زید بن جرم اپنی حدیث میں کہتے ہیں۔ کہ قتادہ نے یہ آیت پڑھی ”ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجاً وذرية“ یعنی ہم نے آپ ﷺ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور انہیں بیویاں اور اولاد عطا کی)۔

۹۶۰۔ حدثنا ابو هشام الرفاعي وزيد بن اخزم واسحق بن ابراهيم البصري قالوا نا معاذ بن هشام عن ابيه عن قتادة عن الحسن عن سمره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل

اس باب میں سعد، مالک بن ديار، عائشہ اور ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔ سمرہ کی حدیث حسن غریب ہے۔ اشعث بن عبدالملک یہ حدیث حسن سے وہ سعد بن ہشام سے وہ حضرت عائشہؓ سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے اسی کی مانند روایت کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔

باب ۷۳۳۔ دینی اعتبار سے بہترین آدمی کے ساتھ نکاح کرو۔

باب ۷۳۳۔ ما جاء في من تزوج دينه فزوجوه

۹۶۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر ایسا شخص تمہاری طرف پیغام بھیجے کہ اس کی دینداری اور اخلاق کو پسند کرتے ہو تو اس سے نکاح کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ

۹۶۱۔ حدثنا قتيبة نا عبد الحميد بن سليمان عن ابن عجلان عن ابن وثيمه النصرى عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب

إِلَيْكُمْ مَن تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا  
تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

پیدا ہوگا اور بہت بڑا فساد ہوگا۔

اس باب میں ابو حاتم مزنی اور عائشہؓ سے بھی روایت ہے۔ ابو ہریرہؓ کی حدیث میں عبد الحمید بن سلیمان سے اختلاف کیا گیا ہے۔ چنانچہ لیث بن سعد، ابن عجلان سے اور وہ ابو ہریرہؓ سے مرسلًا روایت کرتے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں۔ حدیث لیث اشبہ اور حدیث عبد الحمید غیر محفوظ ہے۔

۹۶۲۔ حدثنا محمد بن عمرو نا حاتم بن اسمعيل  
عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد وسعيد  
أبني عبید عن أبي حاتم المزني قال قال رسول الله  
صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه  
وخلقه فانكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض  
وفساد قالوا يا رسول الله وإن كان فيه قال إذا  
جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ثلث مرات

۹۶۲۔ حضرت ابو حاتم مزنیؒ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص آئے جس کے دین سے تم راضی ہو اور اس کے اخلاق کو بھی پسند کرتے ہو تو اس سے نکاح کر دو۔ اگر ایسا نہ کیا زمین میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور یہ بہت بڑے فساد کا موجب ہوگا۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! اگر چہ وہ مفلس ہی کیوں نہ ہو؟ تو فرمایا: اگر اس کی دینداری اور اخلاق کو پسند کرتے ہو تو اسی سے نکاح کر دو۔ یہی الفاظ تین مرتبہ فرمائے۔

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ابو حاتم مزنیؒ صحابی ہیں۔ لیکن ان کی اس حدیث کے علاوہ کسی اور حدیث کا ہمیں علم نہیں۔

باب ۷۳۴۔ ماجاء في من ينكح علي ثلث حصا  
۹۶۳۔ حدثنا احمد بن محمد بن موسى نا اسحق  
بن يوسف الازرق نا عبد الملك عن عطاء عن جابر  
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة تنكح  
علي دينها وما لها وجمالها فعليك بذات الدين  
تربت يدك

باب ۷۳۴۔ جو شخص تین حصتیں دیکھ کر نکاح کرے۔

۹۶۳۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عورت سے اس کے دین، اس کے مال اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ لہذا دیندار عورت ہی کو نکاح کے لیے اختیار کرو۔ خاک آلودہ ہوں تمہارے دونوں ہاتھ۔

اس باب میں عوف بن مالک، عائشہؓ، عبید اللہ بن عمر اور ابو سعیدؓ سے بھی روایت ہے۔ حضرت جابرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۷۳۵۔ ماجاء في النظر إلى المخطوبة  
۹۶۴۔ حدثنا احمد بن منيع نا ابن ابي زائدة ثني  
عاصم بن سليمان عن بكر بن عبد الله المزني عن  
المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله  
عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما

باب ۷۳۵۔ منسوبہ (منگیتر) کو دیکھنا۔

۹۶۴۔ حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک عورت سے منگنی کی تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اسے دیکھ لو۔ یہ تمہاری محبت کو زیادہ دوام بخشنے گا۔

اس باب میں محمد بن سلمہ، جابرؓ، انسؓ، ابو حمید اور ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن ہے اور یہی بعض علماء کا مسلک ہے کہ منگیتر کو دیکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ لیکن اس کا کوئی ایسا عضو نہ دیکھے جس کو دیکھنا حرام ہو۔ احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ اس کے معنی یہی ہیں کہ منگیتر کو دیکھ لینا تمہارے درمیان محبت والفت کو دوام بخشنے گا۔

باب ۷۳۶۔ مَا حَاءَ فِي اِعْلَانِ النِّكَاحِ

۹۶۵۔ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَاهِشِيمُ نَا اَبُو بَلَجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَاثِمِ الْجُمَحِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَّلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدَّفْ وَالصَّوْتُ

باب ۷۳۶۔ نکاح کا اعلان کرنا۔

۹۶۵۔ حضرت محمد بن حاطبؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حرام اور حلال کے درمیان فرق صرف دف بجانے اور آواز کا ہے۔ (یعنی اعلان کا)۔

اس باب میں عائشہؓ، جابرؓ اور ربیع بنت معوذ بن عمروؓ سے بھی روایت ہے۔ محمد بن حاطب کی حدیث حسن ہے ابو بلج کا نام یحییٰ بن ابی سلیم ہے۔ انہیں ابن سلیم بھی کہتے ہیں۔ محمد بن حاطب نے اپنے بچپن کے زمانے میں آنحضرت ﷺ کو دیکھا ہے۔

۹۶۶۔ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ نَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاَجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاَضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذَّفُوفِ

۹۶۶۔ حضرت عاتشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم لوگ نکاح کا اعلان کیا کرو اور مسجدوں میں کیا کرو اور نکاح کے وقت دف بجایا کرو۔

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ عیسیٰ بن میمون انصاری ضعیف ہیں۔ اور عیسیٰ بن میمون جو ابن ابی نجیح سے تفسیر میں روایت کرتے ہیں۔ ثقہ ہیں۔

۹۶۷۔ حَدَّثَنَا حَمِيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ نَا بَشْرُ بْنُ الْمَفْضَلِ نَا خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مَعُوذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ حَاءَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيَّ غَدَاةَ بَنِي بِي فَجَلَسَ عَلَيَّ فِرَاشِي كَمَا جَلَسْتُ مَنِيَّ وَجُورِيَّاتٍ لَنَا يَضْرِبُنَّ بِدَعْوَقِهِنَّ وَيَنْدُبُنَّ مَنْ قُتِلَ مِنْ اَبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ اِلَى اَنْ قَالَتْ اِحْلَاهُنَّ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَالَ لَهَا اسْكُنِي عَنْ هَذِهِ وَقُولِي الَّتِي كُنْتِ تَقُولِينَ قَبْلَهَا

یہ حدیث حسن ہے۔

باب ۷۳۷۔ مَا يُقَالُ لِلْمَتْرُوجِ

۹۶۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَاعِبِ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ سَهْلِ بْنِ اَبِي صَالِحٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا رَفَا الْاِنْسَانَ اِذَا تَزَوَّجَ قَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَحَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

باب ۷۳۷۔ دولہا کو کیا دعویٰ جائے۔

۹۶۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شادی کرتا تو آنحضرت ﷺ اس کو اسی طرح مبارکباد دیتے تھے۔ ”بارک اللہ الخ“ (ترجمہ: اللہ تعالیٰ تمہیں ہمہ جہت برکتوں سے نوازے اور تم دونوں میں بہترین میل جول پیدا فرمائے۔

اس باب میں عقیل بن ابی طالب سے بھی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۷۳۸۔ مَا جَاءَ فِي مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ  
 ۹۶۹۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ نَاسِفِيَانُ بْنُ عَمِيْنَةَ عَنْ  
 مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبِ بْنِ  
 عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ  
 أَنْ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا  
 الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنْ قَضَى اللَّهُ  
 بَيْنَهُمَا وَلَدَا لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ  
 یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۷۳۸۔ جب صحبت کا ارادہ کرے تو کون سی دعا پڑھے۔  
 ۹۶۹۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جب تم  
 میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس صحبت کے لیے جائے تو یہ دعا پڑھے۔  
 ”اللہم سے رزقنا تک۔ پھر اگر ان کے ہاں کوئی اولاد پیدا ہوگی تو  
 شیطان اسے ضرر نہیں پہنچا سکے گا (ترجمہ: اللہ کے نام سے، اے اللہ  
 شیطان کو ہم سے دور رکھ اور جو کچھ ہمیں رزق کے طور پر عطا کرے اسے  
 بھی شیطان کے اثرات سے محفوظ رکھ۔

باب ۷۳۹۔ جن اوقات میں نکاح کرنا مستحب ہے۔

باب ۷۳۹۔ مَا جَاءَ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي يَسْتَحَبُّ فِيهَا  
 النِّكَاحُ

۹۷۰۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ نے میرے ساتھ  
 نکاح شوال میں کیا پھر صحبت بھی شوال ہی میں کی۔ چنانچہ حضرت عائشہؓ  
 اپنی سہیلیوں کی سہاگ رات شوال میں ہونا پسند کرتی تھیں۔

۹۷۰۔ حَدَّثَنَا بَنْدَارٌ نَاحِيْبِي بْنُ سَعِيْدٍ نَاسِفِيَانُ عَنْ  
 اِسْمَاعِيْلِ بْنِ اَمِيَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ  
 قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي  
 شَوَّالٍ وَبَنِي بِي فِي شَوَّالٍ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ  
 أَنْ يُنْبِي بِنِسَائِهَا فِي شَوَّالٍ

یہ حدیث حسن صحیح ہے ہم اسے صرف ثوری کی اسماعیل سے روایت کے ذریعہ جانتے ہیں۔

باب ۷۴۰۔ ویسے کے متعلق

باب ۷۴۰۔ مَا جَاءَ فِي الْوَلِيْمَةِ

۹۷۱۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن آنحضرت ﷺ نے  
 عبدالرحمن بن عوفؓ کے بدن یا کپڑوں پر زرد رنگ کا اثر دیکھا تو پوچھا  
 یہ کیا ہے؟ عبدالرحمن نے عرض کیا: میں نے ایک نواۃ سونے کے عوض  
 ایک عورت سے نکاح کیا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اللہ تمہیں  
 مبارک کرے ولیمہ کرو چاہے ایک ہی بکری سے کرو۔

۹۷۱۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَا حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ  
 اَنْسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ اَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا  
 فَقَالَ اِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَاةً عَلَيَّ وَزِنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ  
 فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَنَا وَلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

اس باب میں ابن مسعود، عائشہ، جابر اور زہیر بن عثمان سے بھی روایت ہے۔ انسؓ کی حدیث صحیح ہے۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں ایک  
 گٹھلی کے برابر سونا تین درہم اور درہم کے تہائی حصے کے برابر ہوتا ہے جب کہ اسحاق کے نزدیک پانچ درہم کے برابر ہے۔

۹۷۲۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے صفیہ  
 بنت حنی سے نکاح کے موقع پر ستوا اور کھجور سے ولیمہ کیا۔

۹۷۲۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ نَاسِفِيَانُ بْنُ عَمِيْنَةَ عَنْ  
 وَاثِلِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ اَبِيهِ نُوْفٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنْسِ  
 اِبْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْلَمَ عَلَيَّ  
 صَفِيَّةَ بِنْتِ حُنَيْبٍ بِسَوِيْقٍ وَتَمْرٍ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ محمد بن یحییٰ بھی حمید سے اور وہ سفیان سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ کئی راوی یہ حدیث ابن عیینہ سے وہ زہری سے اور وہ انسؓ سے روایت کرتے ہوئے اس میں وائل کا ذکر نہیں کرتے۔ وائل اپنے بیٹے نوف سے روایت کرتے ہیں۔ سفیان بن عیینہ اس حدیث میں تدلیس کرتے ہیں کیونکہ کبھی وائل اور نوف کا ذکر کرتے ہیں اور کبھی نہیں۔

۹۷۳۔ حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پہلے دن کا کھانا حق ہے جب کہ دوسرے دن کا سنت اور تیسرے روز ریا کاری ہے لہذا جو شخص ریا کاری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے کام لوگوں کو سنائیں گے۔ (۱)

۹۷۳۔ حدثنا محمد بن موسى البصرى نا زياد بن عبد الله نا عطاء بن السائب عن ابى عبد الرحمن عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام اول يوم حقا وطعام يوم الثانى سنة وطعام يوم الثالث شفعة ومن سمع سمع الله به

حضرت ابن مسعودؓ کی حدیث کو ہم صرف زیاد بن عبد اللہ ہی کی روایت سے مرفوع جانتے ہیں اور یہ بہت غریب اور منکر روایتیں کرتے ہیں۔ امام بخاری محمد بن عقبہ کے حوالے سے اور وہ کعب کے حوالے سے کہتے تھے کہ زیاد بن عبد اللہ اپنے باعزت مقام کے باوجود حدیث میں جھوٹ بول دیتے ہیں۔

توضیح: یہ حدیث شادی کے بعد ویسے کی دعوت سے متعلق ہے۔ چنانچہ تیسرے دن بھی دعوت کرنے والے کے متعلق تنبیہ کی گئی ہے کہ جو شخص شہرت اور نام و نمود کی وجہ سے تیسرے دن بھی دعوت پر بلائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بارے میں اعلان کرائیں گے کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ اس نے صرف دکھاوے کے لیے لوگوں کو کھانا کھلایا تھا۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۷۴۱۔ دعوت قبول کرنے سے متعلق

باب ۷۴۱۔ مَا جَاءَ فِي إِحَابَةِ الدَّاعِي

۹۷۴۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دعوت میں بلائے جاؤ تو جاؤ۔

۹۷۴۔ حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف نا بشر بن المفضل عن اسمعيل بن امية عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايتوا الدعوة اذا دعيتم

اس باب میں علیؓ، ابو ہریرہؓ، براءؓ، انسؓ اور ابویوبؓ سے بھی روایت ہے حضرت ابن عمرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۷۴۲۔ جو شخص دعوت کے بغیر ویسے میں جائے۔

باب ۷۴۲۔ مَا جَاءَ مَنْ يَجِيءُ إِلَى الْوَلِيْمَةِ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ

۹۷۵۔ حضرت ابو مسعودؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ابوشعیب اپنے غلام لحام کے پاس آئے اور اسے کہا کہ پانچ آدمیوں کا کھانا پکاؤ۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھے ہیں۔ غلام نے کھانا پکایا تو اس نے آنحضرت ﷺ کو ہمشیبوں سمیت بلوایا۔ چنانچہ آپ ﷺ کے ساتھ ایک ایسا شخص بھی چل دیا۔ جو دعوت دینے کے وقت موجود نہیں تھا۔ آپ ﷺ جب اس کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو فرمایا:

۹۷۵۔ حدثنا هنادنا ابو معاوية عن الاعمش عن شقيق عن ابى مسعود قال جاء رجل يقال له ابوشعيب الى غلام له لحام فقال اصنع لي طعاما يكفي خمسة فاني رايت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع فصنع طعاما ثم ارسل الى النبي

(۱) یعنی وہ آخرت میں اجر سے محروم ہوگا۔ (مترجم)

ہمارے ساتھ ایک ایسا شخص بھی ہے جو دعوت دیتے وقت ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ اگر تم اجازت دو۔ وہ بھی آجائے۔ ابو شعیب نے عرض کیا: میں نے اجازت دی وہ بھی آجائے۔

صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَاَهُ وَجُلَسَاءَهُ الَّذِينَ مَعَهُ فَلَمَّا  
قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّبَعَهُمْ رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ  
مَعَهُمْ حِينَ دُعُوا فَلَمَّا انْتَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَابِ قَالَ لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ إِنَّهُ  
اتَّبَعَنَا رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ مَعَنَا حِينَ دَعَوْتَنَا فَإِنْ أذْنَتْ لَهُ  
دَخَلَ قَالَ فَقَدْ أَذِنَّا لَهُ فَلْيَدْخُلْ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور اس باب میں ابن عمرؓ سے بھی روایت ہے۔

باب ۷۴۳۔ کنواری لڑکی سے شادی کرنا۔

باب ۷۴۳۔ مَا جَاءَ فِي تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

۹۷۶۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں۔ میں نے ایک عورت سے نکاح کیا تو آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ ﷺ نے پوچھا کیا تم نے شادی کی ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ فرمایا: کنواری سے یا بیوہ سے؟ میں نے عرض کیا: بیوہ سے۔ فرمایا: کنواری سے کیوں نہیں کی وہ تم سے کھیتی اور تم اس سے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! عبد اللہ (یعنی ان کے والد) فوت ہو گئے اور سات یا نو لڑکیاں چھوڑ گئے۔ (راوی کو شک ہے) چنانچہ میں نے ایسی عورت سے شادی کی جو ان کی پرورش کر سکے۔ اس پر آنحضرتؐ نے میرے لیے دہا فرمائی۔

۹۷۶۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُمَرَ وَبْنِ دِينَارٍ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَزَوَّجْتُ يَا جَابِرُ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكْرًا أَمْ نَيْبًا فَقُلْتُ لَا بَلْ نَيْبًا فَقَالَ هَلَّا جَارِيَةٌ تَلَا عِيَهَا وَتَلَاعِبُكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ تَلَا وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ أَوْ تَسْعَا فِجَمْتُ بِمَنْ يَقُومُ عَلَيْهِنَّ فَدَعَا عَلِيَّ

اس باب میں ابی بن کعبؓ اور کعب بن عجرؓ سے بھی روایت ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۷۴۴۔ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا۔

باب ۷۴۴۔ مَا جَاءَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

۹۷۷۔ حضرت ابو موسیٰؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔

۹۷۷۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي اسْحَقَ ح وَنَا قَتِيْبَةُ نَا ابُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي اسْحَقَ ح وَثَنَا بَنْدَارُ نَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ اسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي اسْحَقَ ح وَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زَيْدٍ نَا زَيْدُ بْنُ حَبَابٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي اسْحَقَ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

اس باب میں عائشہؓ، ابن عباسؓ، ابو ہریرہؓ، عمران بن حصینؓ اور انسؓ سے بھی روایت ہے۔

۹۷۸۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی

۹۷۸۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ نَا سَفِيَّانُ بْنُ عِيْنَةَ عَنْ

ابن جریر عن سلیمان عن الزهري عن عُرْوَةَ عَنْ  
عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا  
امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيَّتِهَا فَبَكَحَهَا بَاطِلٌ فَبَكَحَهَا  
بَاطِلٌ فَبَكَحَهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ  
بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَحْرُوا فَالْسُلْطَانُ وَلِيُّ  
مَنْ لَأَوْلِيَّ لَهُ

عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے گی تو اس کا نکاح باطل  
ہوگا۔ (اسی طرح تین مرتبہ فرمایا) اگر اس نے اس (عورت) سے  
صحبت کی تو اس کی فرج کی تحلیل کے عوض اسے مہر ادا کرنا ہوگا پھر اگر ان  
کے درمیان کوئی تنازعہ ہو جائے تو سلطان اس کا ولی ہے جس کا کوئی ولی  
نہ ہو۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یحییٰ بن سعید انصاری، یحییٰ بن ایوب، سفیان ثوری اور کئی حفاظ حدیث ابن جریر سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ ابو موسیٰ کی حدیث میں اختلاف ہے۔ چنانچہ اسے اسرائیل، شریک بن عبد اللہ، ابو عوانہ، زہیر بن معاویہ اور قیس بن ربیع ابواسحاق سے وہ ابو بردہ سے وہ ابو موسیٰ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ جب کہ ابو عبیدہ حداد، یونس بن ابواسحاق سے وہ ابو بردہ سے وہ ابو موسیٰ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند روایت کرتے ہوئے ابواسحاق کا ذکر نہیں کرتے۔ پھر یہ یونس بن ابواسحاق سے بھی ابو بردہ کے حوالے سے مرفوعاً مروی ہے۔ شعبہ اور سفیان ثوری بھی ابواسحاق سے وہ ابو موسیٰ سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے یہی حدیث روایت کرتے ہیں۔ سفیان کے بعض ساتھی بھی سفیان سے وہ ابواسحاق سے وہ ابو بردہ سے اور وہ ابو موسیٰ سے روایت کرتے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں۔ میرے نزدیک ابواسحاق کی ابو بردہ سے اور ان کی ابو موسیٰ کے حوالے سے آنحضرت ﷺ سے مروی حدیث کہ ”ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا“۔ صحیح ہے۔ اس لیے کہ ان تمام راویوں کا جو ابواسحاق سے روایت کرتے ہیں۔ ابواسحاق سے اس حدیث کا سننا مختلف اوقات میں تھا۔ اگرچہ سفیان اور شعبہ ان سب سے زیادہ اثبت واحفظ ہیں۔ چنانچہ کئی راویوں کی روایت میرے نزدیک صحیح و اشبه ہے۔ اس لیے کہ ثوری اور شعبہ دونوں نے یہ حدیث ابواسحاق سے ایک ہی وقت میں سنی ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ محمود بن غیلان، ابو داؤد سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے شعبہ نے کہا: میں نے سفیان ثوری کو ابواسحاق سے یہ پوچھتے ہوئے سنا کہ کیا آپ نے ابو بردہ سے یہ حدیث سنی ہے تو فرمایا: ہاں۔ چنانچہ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان دونوں نے یہ حدیث ایک ہی وقت میں سنی جب کہ دوسرے راویوں نے مختلف اوقات میں سنی۔ پھر اسرائیل، ابواسحاق کی روایتوں کو اچھی طرح یاد رکھنے والے ہیں۔ محمد بن ثنی، عبد الرحمن بن مہدی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا: ثوری کی جو احادیث مجھ سے چھوٹی گئی ہیں وہ اسرائیل ہی پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے چھوٹی ہیں کیونکہ یہ انہیں اچھی طرح یاد رکھتے تھے پھر حضرت عائشہ کی حدیث کہ ”ولی کے بغیر نکاح صحیح نہیں“۔ حسن ہے۔ اسے ابن جریر، سلیمان بن موسیٰ سے وہ زہری سے وہ عروہ سے وہ عائشہ سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ پھر حجاج بن ارطاة اور جعفر بن ربیعہ بھی زہری سے وہ عروہ سے اور وہ حضرت عائشہ سے مرفوعاً اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ ہشام بھی اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ بعض محدثین زہری کی بحوالہ عائشہ، عروہ سے مروی حدیث میں کلام کرتے ہیں۔ ابن جریر کہتے ہیں میں نے زہری سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نے یہ حدیث روایت نہیں کی۔ چنانچہ اسی وجہ سے محدثین اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ یحییٰ بن معین کے بارے میں مذکور ہے کہ انہوں نے کہا: حدیث کے یہ الفاظ صرف اسماعیل بن ابراہیم ہی ابن جریر سے روایت کرتے ہیں جب کہ ان کا ابن جریر سے سماع قوی نہیں۔ چنانچہ ان کے نزدیک بھی یہ ضعیف ہے۔ علماء کا اسی حدیث پر عمل ہے کہ ”بغیر ولی کے نکاح صحیح نہیں“۔ سعید بن مسیب، حسن بصری، شریک، ابراہیم نخعی، عمر بن عبد العزیز وغیرہ اسی کے قائل ہیں اور سفیان ثوری، اوزاعی، مالک، عبد اللہ بن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

مسئلہ: بغیر ولی کے نکاح کے انعقاد میں علماء کا مشہور اختلاف ہے چنانچہ شافعیہ کا مسلک یہ ہے کہ عورتوں کی عبارت سے نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ ان کا استدلال مذکورہ بالا دو حدیثوں سے ہے۔ یعنی حضرت ابوموسیٰ اور حضرت عائشہؓ کی حدیث جب کہ احناف کا مسلک یہ ہے کہ عورتوں کی عبارت و قول سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے البتہ موقوف ضرور ہوتا ہے لہذا ولی کو اعتراض کرنے یا اجازت دینے کا اختیار ہوتا ہے۔

احناف اپنے مسلک پر استدلال کرتے ہوئے شافعیہ کی متدل احادیث کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ دونوں حدیثیں قابل استدلال نہیں۔ کیونکہ حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی عبدالرحمن بن ابی بکرؓ کی غیر موجودگی میں ان کی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ جب وہ آپس آئے تو اس سے اپنی عدم رضامندی کا اظہار کیا۔ لیکن اس کے باوجود اس نکاح کے ابطال کا حکم نہیں دیا۔ اس واقعے کا اہم پہلو یہ ہے کہ شافعیہ کا استدلال حضرت عائشہؓ ہی کی حدیث سے ہے اور ان کا عمل اس حدیث کے خلاف ہے چنانچہ اس میں دو ہی صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ: یا تو حضرت عائشہؓ کے نزدیک ان کی یہ حدیث صحیح نہیں۔ چنانچہ وہ اس پر عمل نہ کرنے میں کوئی، ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتیں۔ اور اس طرح ان کی عدالت نعوذ باللہ مشکوک ہو جاتی ہے۔ اور ان کی حدیث سے استدلال صحیح نہیں رہتا اور یہ ممکن نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اپنی ہی روایت کردہ حدیث پر عمل پیرا ہیں لیکن ان کے نزدیک اس کا مفہوم وہ نہیں جو حضرات شافعیہ سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ولی عبدالرحمن بن ابوبکرؓ کی غیر موجودگی میں کیا۔ لہذا حضرت عائشہؓ کی یہ حدیث لوٹدی پر محمول ہے آزاد عورت پر نہیں۔ یہ تھا حضرت عائشہؓ کی حدیث کے متعلق احناف کا موقف باقی رہ گئی ابوموسیٰ کی حدیث تو وہ بھی قابل استدلال نہیں۔ اس لیے کہ اس کے ارسال و اتصال میں اختلاف ہے۔ جیسا کہ امام ترمذی نے خود بیان کیا ہے۔ لہذا یہی ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے۔ امام طحاوی بھی اس کے ارسال ہی کے قائل ہیں جب کہ علامہ ابن حجر عسقلانی کا کہنا ہے کہ اس سے استدلال صحیح نہیں۔

اس مختصر بحث کے بعد اب احناف کے چند دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔

(۱) صحاح میں مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جب حضرت ام سلمہؓ کو نکاح کا پیغام دیا تو انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! (ﷺ) میرا کوئی ولی موجود نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: بیوہ عورت اپنے نفس کی اپنے ولی سے زیادہ حقدار ہے۔ چنانچہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ولی کے بغیر نکاح کا انعقاد جائز ہے۔

(۲) نصوص قرآنی بھی احناف ہی کے مسلک پر دلالت کرتے ہیں کیونکہ کئی مقامات پر انعقاد نکاح کو ولی کی اجازت سے مشروط کیے بغیر عورت ہی کی طرف مضاف کیا گیا ہے جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ”وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُغْنِيَنَّ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضَلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ“ (ترجمہ: جب تم سے کچھ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں اور وہ اپنی عدت پوری کرنے کے بعد اپنے شوہروں سے رضامندی کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں تو انہیں اس سے نہ روکو اس آیت میں نکاح کے انعقاد کی اضافت عورت ہی کی طرف کی گئی ہے جس کے لیے ولی کی اجازت کی شرط نہیں رکھی گئی۔ لہذا یہ اس باب پر دلالت کرتا ہے کہ عورت کے قول سے نکاح منعقد ہو سکتا ہے۔

(۳) قیاس سے استدلال کرتے ہوئے احناف کہتے ہیں کہ جس طرح وہ شخص جو اپنے مال میں تصرف کر سکتا ہو اس کا نکاح اس کے قول و عبارت سے صحیح ہے اسی طرح جو عورت اپنے مال کو خرچ کرنے اور اس میں تصرف کا حق رکھتی ہے اس کے قول سے بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ لہذا جس طرح وہ اپنے مال میں تصرف کر سکتی ہے اسی طرح اپنے نفس میں بھی تصرف کر سکتی ہے۔

خلاصہ یہ کہ مذکورہ بالا دلائل اور شافعیہ کی متدل احادیث پر مختصری بحث سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس مسئلے میں احناف کے دلائل قوی اور صحیح ہیں نیز یہ کہ نصوص قرآنی اور قیاس بھی اسی کی تائید کرتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ (مترجم)

باب ۷۴۵۔ مَا جَاءَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بَيِّنَةً

۹۷۹۔ حدثنا يوسف بن حماد المعنى البصرى نا  
عبدالاعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن  
ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البعائيا  
اللاتى ينكحن أنفسهن بغير بينة قال يوسف بن  
حماد رفع عبد الاعلى هذا الحديث فى التفسير  
وأوقفه فى كتاب الطلاق ولم يرفعه

باب ۷۴۵۔ بغیر گواہوں کے نکاح صحیح نہیں

۹۷۹۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: زانی  
عورتیں وہی ہیں جو گواہوں کے بغیر نکاح کرتی ہیں۔ یوسف بن حماد  
کہتے ہیں کہ عبدالاعلیٰ نے یہ حدیث تفسیر میں مرفوع اور کتاب الطلاق  
میں موقوف نقل کی ہے۔

قتیبہ، غندر سے اور وہ سعید سے اسی کی مثل روایت کرتے ہوئے بھی اسے مرفوع نہیں کرتے اور یہی صحیح ہے۔ یہ حدیث غیر محفوظ  
ہے۔ ہمیں علم نہیں کہ اسے عبدالاعلیٰ کے علاوہ کسی اور نے مرفوع روایت کیا ہو۔ عبدالاعلیٰ، سعید سے اور وہ قتادہ سے مرفوع روایت کرتے  
ہیں۔ پھر عبدالاعلیٰ ہی اسے سعید سے موقوف روایت کرتے ہیں۔ صحیح یہی ہے کہ یہ ابن عباس کا قول ہے کہ فرمایا: گواہوں کے بغیر نکاح صحیح  
نہیں۔ کئی راوی سعید بن عروبہ سے بھی اسی کے مثل موقوف روایت کرتے ہیں۔ اس باب میں عمران بن حصین، انسؓ اور ابو ہریرہؓ سے بھی  
روایت ہے۔ علماء صحابہ، تابعین اور دیگر علماء اسی پر عمل پیرا ہیں کہ بغیر گواہوں کے نکاح نہیں ہوتا۔

سلف میں سے کسی کا اس مسئلے میں اختلاف نہیں۔ البتہ علماء متاخرین کی ایک جماعت کا اس میں اختلاف ہے پھر علماء کا اس مسئلے میں  
اختلاف ہے۔ کہ اگر ایک گواہ دوسرے کے بعد گواہی دے تو کیا حکم ہے؟ چنانچہ اکثر علماء کوفہ اور دیگر علماء کا قول ہے کہ اگر دونوں گواہ بیک  
وقت نکاح کے وقت موجود نہ ہوں اور یکے بعد دیگرے گواہی دیں تو نکاح صحیح ہے بشرطیکہ نکاح کا اعلان کیا جائے۔ مالک بن انس کا یہی  
قول ہے اور اسحاق بھی اسی طرح کہتے ہیں۔ پھر بعض علماء کے نزدیک نکاح میں ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی کافی ہے۔ احمد اور اسحاق  
بھی اسی کے قائل ہیں۔

باب ۷۴۶۔ مَا جَاءَ فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ

۹۸۰۔ حدثنا قتيبة نا عشر بن القاسم عن الاعمش  
عن ابى اسحق عن ابى الاحوص عن عبد الله قال  
علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التَّشَهُدُ فِي  
الصَّلَاةِ. وَالتَّشَهُدُ فِي الْحَاجَةِ قَالَ التَّشَهُدُ فِي  
الصَّلَاةِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ  
عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا  
وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَالتَّشَهُدُ فِي  
الْحَاجَةِ أَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ  
بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ

باب ۷۴۶۔ نکاح کا خطبہ

۹۸۰۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ہمیں نماز کے  
لیے تشہد سکھانے کے ساتھ ساتھ حاجت کے لیے بھی تشہد سکھایا۔ آپ  
ﷺ نے فرمایا: نماز میں اس طرح تشہد پڑھو ”التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ.....  
وَرَسُولِهِ“ تک اور حاجت جیسے کہ نکاح وغیرہ کا تشہد یہ ہے۔  
”الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ..... وَرَسُولِهِ“ تک۔ راوی کہتے ہیں کہ  
اس کے بعد قرآن حکیم کی تین آیات پڑھی جائیں۔ عبث۔ سفیان ثوری  
کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ تین آیتیں یہ ہیں: ”اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ  
تَقَاتِهِ..... مُسْلِمُونَ“ تک (ترجمہ: اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو  
جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور مرو تو مسلمان ہی مرو) ۲: ”اتَّقُوا اللَّهَ  
..... رَقِيبًا“ تک (ترجمہ: اللہ سے ڈرو جس کے نام کو سوال کا ذریعہ

بناتے ہو اور قطع رحمی نہ کرو بیشک اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ۳: اتقوا اللہ  
وقولوا قولاً سدیداً یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم  
ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزاً عظیماً (ترجمہ:  
اے ایمان والو! خدا سے ڈرو اور بات سیدھی ہی کہو۔ وہ تمہارے  
اعمال درست اور تمہاری مغفرت کر دے گا۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے  
رسول ﷺ کی فرمانبرداری کرے گا بے شک وہ بہت بڑی کامیابی سے  
ہمکنار ہوگا)۔

کسی حاجت یا نکاح وغیرہ کے وقت پڑھے جانے والے تشہد کا ترجمہ  
یہ ہے (تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں ہم اسی سے مدد اور مغفرت  
کے طلبگار ہیں اور اپنے نفسوں کو برائیوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں  
جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ  
گمراہ کر دیں اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ  
اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد ﷺ اللہ کے بندے  
اور اس کے رسول ہیں۔

اس باب میں عدی بن حاتم سے بھی روایت ہے۔ حضرت عبد اللہ کی حدیث حسن ہے۔ یہ حدیث آعمش، ابواسحاق سے وہ ابو عبیدہ  
سے اور وہ عبد اللہ سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔ شعبہ بھی ابواسحاق سے اور وہ ابو عبیدہ سے بحوالہ عبد اللہ مرفوعاً نقل کرتے ہیں اور یہ دونوں  
حدیثیں صحیح ہیں اس لیے کہ اسرائیل نے دونوں سندوں کو جمع کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ ابواسحاق سے وہ ابواحوص اور ابو عبیدہ سے وہ عبد اللہ بن  
مسعود سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نکاح بغیر خطبے کے بھی جائز ہے۔ سفیان ثوری اور کئی علماء کا بھی  
یہی قول ہے۔

۹۸۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس خطبے  
میں تشہد نہ ہو وہ کوڑھی کے ہاتھ کی طرح ہے۔

۹۸۱۔ حدثنا ابو ہشام الرفاعی نا ابن فضیل عن  
عاصم بن کلیب عن ابیہ عن ابی ہریرۃ قال قال  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل خطبۃ لیس  
فیہا تشہد فیہی کالید الجذماء  
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۷۴۷۔ کنواری اور بیوہ سے اجازت لینا۔

باب ۷۴۷۔ مَا جَاءَ فِي اسْتِئْذَانِ الْبِكْرِ وَالْتَيْبِ

۹۸۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کنواری  
اور بیوہ دونوں کا نکاح ان کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ مزید کہ  
کنواری لڑکی اگر پوچھنے پر (نکاح کے متعلق) خاموش رہے تو یہی اس

۹۸۲۔ حدثنا اسحاق بن منصور نا محمد بن  
یوسف نا الاوزاعی عن یحییٰ بن ابی کثیر عن  
ابی سلمہ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْكَحُ الثَّيْبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَإِذْنُهَا الصَّمُوتُ  
کی رضامندی ہے۔

اس باب میں حضرت عمرؓ، ابن عباسؓ، عائشہ اور عرس بن عمیرہؓ سے بھی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر علماء کا عمل ہے کہ بیوہ کا اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کیا جائے۔ اگر چہ اس کے والد ہی نکاح کرنا چاہیں چنانچہ اگر اس کے والد نے اس کی عدم رضامندی کے باوجود نکاح کر دیا تو اکثر علماء کے نزدیک نکاح صحیح ہو جائے گا جب کہ کنواری کے متعلق علماء میں اختلاف ہے۔ اہل کوفہ (احناف) کا مذہب یہ ہے کہ اگر کنواری لڑکی کے والد اس کی عدم رضامندی کے باوجود اس کا نکاح کر دیں تو یہ نکاح بھی صحیح ہو جائے گا۔ البتہ اس میں لڑکی کے بالغ ہونے کی شرط رکھی گئی ہے۔ لیکن بعض اہل مدینہ کہتے ہیں: کنواری کے والد اگر اس کا نکاح کر دیں تو یہ نکاح جائز ہے۔ اگر چہ اس میں لڑکی کی رضامندی شامل نہ ہو یہ امام مالک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی قول ہے۔

۹۸۳۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمَفْضَلِ عَنِ نَافِعِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْاَيِّمُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَاٰلِهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِيْ نَفْسِهَا وَ اِذْنُهَا صَمَاتُهَا  
۹۸۳۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بیوہ عورت اپنے ولی سے زیادہ اپنے نفس کی حقدار ہے اور کنواری لڑکی سے بھی نکاح کی اجازت لی جائے گی چنانچہ اس کی خاموشی اس کی رضامندی کی دلیل ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور شعبہ اور سفیان ثوری سے بھی بحوالہ امام مالک بن انس منقول ہے بعض علماء اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نکاح بغیر ولی کے بھی جائز ہے۔ لیکن اس حدیث سے ان کا استدلال صحیح نہیں کیونکہ حضرت ابن عباسؓ سے یہ حدیث کئی سندوں سے منقول ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ولی کے بغیر نکاح صحیح نہیں۔ پھر آپ ﷺ کے بعد ابن عباسؓ کا فتویٰ بھی اسی پر ہے۔ اس حدیث سے علماء یہ معنی اخذ کرتے ہیں کہ: بیوہ کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے اگر اس کا ولی ایسا کرے گا تو نکاح صحیح ہو جائے گا۔ جیسے کہ خنساء بنت خدام کی حدیث میں ہے کہ وہ بیوہ تھیں اور ان کے والد نے ان کے نہ چاہنے کے باوجود ان کا نکاح کر دیا تو آپ ﷺ نے اس کے نسخ کا حکم دیا۔

باب ۷۴۸۔ ما جاء في إكراه اليتيمه على التزويج

باب ۷۴۸۔ ما جاء في إكراه اليتيمه على التزويج  
۹۸۴۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَتِيْمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِيْ نَفْسِهَا فَاِنْ صَمَتَتْ فَهِيَ اِذْنُهَا وَ اِنْ اَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا  
۹۸۴۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: یتیم لڑکی سے بھی نکاح کے لیے اس کی اجازت لی جائے۔ اگر وہ خاموش رہے تو یہ اس کی رضامندی ہے اور اگر انکار کر دے تو اس پر کوئی جبر نہیں۔

۹۸۴۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَتِيْمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِيْ نَفْسِهَا فَاِنْ صَمَتَتْ فَهِيَ اِذْنُهَا وَ اِنْ اَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا

اس باب میں ابن عمرؓ اور ابو موسیٰؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر یتیم لڑکی کا اس کی اجازت کے بغیر نکاح کر دیا تو یہ موقوف ہے۔ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے پھر اسے اختیار ہے کہ چاہے تو قبول کرے اور اگر چاہے تو ختم کر دے۔ بعض تابعین وغیرہ کا بھی یہی قول ہے۔ جب کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہ بلوغت سے پہلے۔ یتیم لڑکی کا نکاح کرنا جائز ہے اور نہ ہی نکاح میں اختیار دینا۔ یہ سفیان ثوری، شافعی اور کچھ علماء کا قول ہے امام احمد اور اسحاق کا مسلک یہ ہے اگر یتیم کا نوسال کی عمر میں براء و رغبت نکاح کیا گیا تو جوانی کے بعد کوئی اختیار باقی نہیں ہوتا۔ ان کی دلیل حضرت عائشہؓ کی حدیث ہے کہ

”آنحضرت ﷺ نے ان کے ساتھ نو سال کی عمر میں زفاف کیا۔ (۱) اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اگر لڑکی کی عمر نو سال ہو تو وہ مکمل جوان ہے۔

باب ۷۴۹۔ مَا جَاءَ فِي الْوَالَيْنِ يُزَوِّجَانِ ۹۸۵۔ حدثنا قتبية نا عنده نا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة زوجهها وليان فهى للاول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما

باب ۷۴۹۔ اگر دو ولی دو (مختلف جگہ) نکاح کر دیں تو کیا کیا جائے؟ حضرت سمیرہ بن جندبؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کسی عورت کے دو ولی اس کا نکاح دو جگہ کر دیں تو وہ ان دونوں میں سے پہلے والے کی بیوی ہے اور اسی طرح اگر کوئی شخص ایک چیز کو دو آدمیوں کے ہاتھ فروخت کرے گا وہ ان دونوں میں سے پہلے کی ہوگی۔

یہ حدیث حسن ہے علماء اس مسئلے میں متفق ہیں کہ اگر کسی عورت کے دو ولی ہوں اور ایک اس کا نکاح کر دے لیکن دوسرے کو اس کا علم نہ ہو اور وہ بھی کہیں اور نکاح کر دے تو وہ پہلے والے ہی کی بیوی ہے اور دوسرا نکاح باطل ہے اور اگر دونوں ایک ہی وقت میں نکاح کریں تو دونوں کا ہی باطل ہوگا یہ سفیان ثوری احمد اور اسحاق کا بھی قول ہے۔

باب ۷۵۰۔ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ۹۸۶۔ حدثنا علي بن حجر نا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ايما عبدا تزوج بغير اذن سيده فهو عاهر

باب ۷۵۰۔ غلام کا اپنے سید کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ، آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو وہ زانی ہے۔

اس باب میں ابن عمرؓ سے بھی روایت ہے۔ حضرت جابرؓ کی حدیث حسن ہے۔ بعض راوی یہ حدیث عبد اللہ بن محمد بن عقیل سے اور وہ ابن عمرؓ سے مروفا نقل کرتے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں۔ صحیح یہی ہے کہ عبد اللہ بن محمد بن عقیل حضرت جابرؓ سے روایت کرتے ہیں۔ تمام علماء صحابہ وغیرہ کا یہی مسلک ہے کہ غلام کا اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا صحیح نہیں۔ احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

۹۸۷۔ حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الاموى نا ابي نا ابن حريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما عبدا تزوج بغير اذن سيده فهو عاهر

۹۸۷۔ عبد اللہ بن محمد بن عقیل، حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جو غلام اپنے مالک سے اجازت لیے بغیر نکاح کرے وہ زانی ہے۔

باب ۷۵۱۔ مَا جَاءَ فِي مُهُورِ النِّسَاءِ ۹۸۸۔ حدثنا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدى و محمد بن جعفر قالوا نا

۹۸۸۔ عاصم بن عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ بن عامر بن ربیعہ سے ان کے والد کے حوالے سے سنا کہ قبیلہ بنو فزارہ کی ایک عورت نے

(۱) زفاف: سہاگ رات کو کہتے ہیں۔ (مترجم)

دو جوتیوں کی مہر مقرر کر کے نکاح کیا تو آنحضرت ﷺ نے اس سے پوچھا: کیا تم دو جوتیوں کے عوض اپنی جان و مال دینے پر راضی ہو؟ اس نے عرض کیا: جی ہاں چنانچہ آپ ﷺ نے اسے اجازت دے دی۔

شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَرَاةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَأَجَازَهُ

اس باب میں عمرؓ، ابو ہریرہؓ، سہل بن سعدؓ، ابو سعیدؓ، انسؓ، عائشہؓ، جابرؓ اور ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے۔ عامر بن ربیعہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ مہر کے مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ مہر کی کوئی مقدار متعین نہیں لہذا زوجین جس پر متفق ہو جائیں وہی مہر ہے۔ سفیان ثوری، شافعی، احمد اور اسحاق کا یہی قول ہے۔ جب کہ امام مالک کے نزدیک مہر زلیخ دینا رہے (¼) اور اہل کوفہ کے نزدیک دس درہم سے کم نہیں ہے۔

۹۸۹۔ حضرت سہل بن سعد ساعدیؓ فرماتے ہیں کہ ایک عورت خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: میں نے خود کو آپ ﷺ کے حوالے کر دیا۔ پھر کافی دیر کھڑی رہی تو ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! (ﷺ) اگر آپ کو اس کی حاجت نہیں تو اس کا نکاح مجھ سے کر دیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ عرض کیا: میرے پاس صرف یہی تہبند ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر تم اپنا تہبند اسے دو گے تو خود خالی بیٹھے رہو گے۔ لہذا کوئی اور چیز تلاش کرو۔ عرض کیا: کچھ نہیں۔ فرمایا: تلاش کرو اگرچہ وہ لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ راوی کہتے ہیں انہوں نے تلاش کیا لیکن کچھ نہ پا کر دوبارہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے پوچھا: تم نے قرآن میں سے کچھ حفظ کیا ہے؟ عرض کیا جی ہاں فلاں سورت، فلاں سورت وغیرہ حفظ کی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں نے اس قرآن کے عوض تیرا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ (یعنی تم اس کو وہ قرآن پڑھا دو جو تمہیں یاد ہے یہی اس کا مہر ہے)۔

۹۸۹۔ حدثنا الحسن بن علي الخلال نا اسحق بن عيسى و عبد الله بن نافع قالانا مالك بن انس عن ابى حازم بن دينار عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ النَّسَاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي وَهَيْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَامَتْ طَوِيلًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارِي إِنْ أُعْطِيَتْهَا جَلَسْتُ وَلَا إِزَارَ لَكَ فَالتَّمَسُّ شَيْئًا فَقَالَ مَا أَحَدٌ قَالَ التَّمَسُّ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ قَالَ فَالتَّمَسَّ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ سُوْرَةٌ كَذَا وَسُوْرَةٌ كَذَا لِسُوْرِ سَمَاءَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوِّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور شافعی اسی پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں: کہ اگر کوئی قرآن کی تعلیم کو مہر مقرر کرتے ہوئے کسی کے ساتھ نکاح کر لے تو یہ جائز ہے بشرطیکہ اس کے پاس کوئی اور چیز نہ ہو۔ لہذا وہ اپنی بیوی کو چند سورتیں پڑھا دے۔ لیکن اہل کوفہ، امام احمد اور اسحاق کہتے ہیں کہ نکاح تو ہو جاتا ہے لیکن مہر مثل کی ادائیگی واجب ہے۔

۹۹۰۔ ابو عقیلہؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے فرمایا: عورتوں کا مہر

۹۹۰۔ حدثنا ابن ابی عمر نا سفیان بن عیینة عن

مقرر کرنے میں غلو نہ کرو اس لیے کہ اگر زیادہ مہر رکھنا دنیا میں عزت اور اللہ کے نزدیک تقویٰ ہوتا تو اس کے لیے تم سب میں آنحضرت ﷺ اس کے زیادہ لائق ہوتے مجھے علم نہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ یا اپنی بیٹیوں کے نکاحوں میں بارہ اوقیہ سے زیادہ مہر مقرر کیا ہو۔

ایوب عن ابن سیرین عن أبي العجفاء قال قال عمر بن الخطاب الاتغالوا صدقة النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نساؤه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من بنتي عشرة أوقية

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو عجفاء کا نام ہرم ہے۔ علماء کے نزدیک اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے لہذا بارہ اوقیہ چار سو اسی درہم ہوئے۔

باب ۵۲۔ جو شخص اپنی لونڈی کو آزاد کرے اس سے نکاح کرے۔  
۹۹۱۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے صفیہ کو آزاد کیا۔ اور یہی آزادی ان کا مہر مقرر کی۔

باب ۷۵۲۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُعْتَقُ الْأَمَةَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا  
۹۹۱۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ  
وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صَهْبِ بْنِ صَهْبِ بْنِ أَنَسِ بْنِ  
مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ  
صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عَتَقَهَا صَدَاقَهَا

اس باب میں صفیہ سے بھی روایت ہے۔ حضرت انس کی حدیث حسن صحیح ہے اور بعض علماء صحابہ وغیرہ، امام شافعی، احمد اور اسحاق اسی پر عمل کرتے ہیں جب کہ بعض علماء حنفیہ کو مہر مقرر کرنا مکروہ سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک ضروری ہے کہ حنفی کے علاوہ بھی مہر ہونا چاہیے۔ لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔

باب ۷۵۳۔ مَا جَاءَ فِي الْفَضْلِ فِي ذَلِكَ

باب ۵۳۔ اس کی فضیلت سے متعلق۔

۹۹۲۔ حضرت ابو بردہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تین شخصوں کو ان کی نیکیوں کا اجر دو گنا ملے گا۔ (۱) ایسا غلام جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے سید کا بھی۔ (۲) ایسا شخص جس کی ملکیت میں ایک خوبصورت باندی ہو وہ اسے ادب (دینداری) سکھانے کے بعد آزاد کر کے اسی کے ساتھ نکاح کر لے۔ بشرطیکہ اس کا یہ عمل خلصۃ اللہ ہی کی رضامندی کے لیے ہو۔ (۳) تیسرے وہ شخص جو پہلی کتاب پر بھی (توراة، زبور، انجیل وغیرہ) ایمان لایا اور اس کے بعد جب دوسری کتاب نازل ہوئی تو اس پر بھی ایمان لایا۔ (یعنی قرآن کریم) ایسے تینوں اشخاص کے لیے ان کے اعمال پر دو گنا اجر دیا جائے گا۔

۹۹۲۔ حَدَّثَنَا هِنَادُنا عَلِي بن مسهر عن الفضل بن يزيد عن الشعبي عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلثة يؤتون أجرهم مرتين عبد أدى حق الله وحق موالیه فذلک يؤتى أجره مرتين و رجل كانت عنده جارية وضيعة فادبها ثم أعتقها ثم تزوجها يبتغي بذلك وجه الله فذلک يؤتى أجره مرتين و رجل آمن بالكتاب الأول ثم جاءه الكتاب الآخر فآمن به فذلک يؤتى أجره مرتين

حضرت ابن عمر، سفیان سے وہ صالح بن صالح بن حنی سے وہ شعیب سے وہ ابو بردہ سے وہ ابوموسیٰ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابوموسیٰ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو بردہ کا نام عامر بن عبد اللہ بن قیس ہے۔ شعبہ اور ثوری یہ حدیث صالح بن صالح بن حنی سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۷۵۴۔ جو شخص کسی عورت سے نکاح کرنے کے بعد اس سے صحبت کرنے سے پہلے اسے طلاق دیدے تو کیا وہ اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟

باب ۷۵۴۔ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هَلْ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا أَمْ لَا

۹۹۳۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرنے کے بعد صحبت کر لے تو وہ اس عورت کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر صحبت نہ کی ہو تو اس صورت میں اس کی بیٹی اس کے لیے حلال ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کر لے تو اس کی ماں اس پر حرام ہو جاتی ہے خواہ اس نے صحبت کی ہو یا نہ کی ہو۔

۹۹۳۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ مَرْثَدَةَ عَنْ ابْنِ لَهِيْعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيَّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلْيَنْكِحْ ابْنَتَهَا وَ أَيَّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْلَمَ يَدْخُلُ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا

امام ترمذی کہتے ہیں: اس حدیث کی سند صحیح نہیں۔ ابن لہیعہ، ثنی بن صباح سے اور وہ عمرو بن شعیب سے روایت کرتے ہیں اور ابن لہیعہ اور ثنی دونوں حدیث میں ضعیف ہیں۔ اکثر علماء اسی حدیث پر عمل پیرا ہیں۔ چنانچہ ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کر کے اس سے صحبت کیے بغیر طلاق دے دے تو اس کی بیٹی اس کے لیے حلال ہے لیکن بیوی کی ماں اس پر ہر صورت میں حرام ہے چاہے وہ اس کے ساتھ صحبت کر کے طلاق دے یا اس سے پہلے اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”وامہات نسائکم“ اور تمہاری بیویوں کی ماںیں (تمہارے لیے حرام ہیں) امام شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

باب ۷۵۵۔ جو شخص اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے اور اس کے بعد وہ کسی اور کے ساتھ شادی کر لے لیکن یہ شخص صحبت سے پہلے ہی اسے طلاق دیدے۔

باب ۷۵۵۔ مَا جَاءَ فِي مَنْ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا آخَرَ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

۹۹۴۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رفاعہ قرظی کی بیوی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ میں رفاعہ کے نکاح میں تھی کہ انہوں نے مجھے تین طلاقیں دے دیں۔ پھر میں نے عبدالرحمن بن زبیر کے ساتھ شادی کی لیکن ان کے پاس صرف کپڑے کے جھال کی طرح ہے۔ (۱) آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم چاہتی ہو کہ دوبارہ رفاعہ کے نکاح میں آ جاؤ؟ نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ تم ان کا اور وہ تمہارا مزہ چکھ لیں۔ (۲)

۹۹۴۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍو اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ نَا سَفِيَانُ بْنُ عِيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ رِفَاعَةَ الْقُرْظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَيْتَ طَلِيقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَقَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرَجِعِي إِلَيَّ رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ

(۱) یہ الفاظ نامروی سے کنایہ ہیں۔ یعنی وہ نامرد ہیں۔ (مترجم)

(۲) یہ الفاظ جماع سے کنایہ کے طور پر ہیں۔ یعنی یہاں تک کہ تم دونوں جماع کی لذت حاصل کر لو۔ (مترجم)

اس باب میں ابن عمر، انس، مہیصاء یا غمیصاء اور ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے۔ حضرت عائشہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور تمام علماء صحابہ اور دیگر علماء کا اسی پر عمل ہے کہ اگر کوئی عورت تین طلاقیں لینے کے بعد کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لے اور صحبت سے پہلے ہی طلاق واقع ہو جائے تو وہ پہلے والے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوتی یہاں تک کہ دوسرا شوہر اس سے صحبت کرے۔

باب ۷۵۶۔ مَا جَاءَ فِي الْمُحَلِّ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ

۹۹۵۔ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ نَا اشعث بن عبد الرحمن بن زبید الايامی نا محالد عن المشعبي

عَنْ جَابِرٍ وَعَلِيٍّ قَالَ إِنْ زَوَّجَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُحَلِّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

۹۹۵۔ حضرت جابرؓ اور علیؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حلالہ کرنے اور کرانے والے دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔

اس باب میں ابن مسعودؓ، ابو ہریرہؓ، عقبہ بن عامرؓ اور ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت جابر اور حضرت علیؓ

کی حدیث معلول ہے۔ اشعث بن عبد الرحمن بھی خالد سے وہ عامر سے وہ حارث سے وہ علی سے وہ عامر سے وہ جابر سے وہ عبد اللہ سے اور

وہ آنحضرت ﷺ سے ایسے ہی نقل کرتے ہیں۔ اس حدیث کی سند قوی نہیں۔ اس لیے کہ مجالد بن سعید بعض محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں

جن میں احمد بن حنبل بھی شامل ہیں۔ عبد اللہ بن نمیر بھی یہ حدیث مجالد سے وہ عامر سے وہ جابر سے اور وہ علی سے نقل کرتے ہیں۔ اس

روایت میں ابن نمیر وہم کرتے ہیں اور پہلی حدیث زیادہ صحیح ہے۔ مغیرہ، ابن ابی خالد اور کئی راوی بھی شخصی سے وہ حارث سے اور وہ علیؓ

سے روایت کرتے ہیں۔ محمود بن غیلان بھی ابو احمد سے وہ سفیان سے وہ ابو قیس سے وہ ہزیریل بن شریل سے اور وہ حضرت عبد اللہ بن

مسعودؓ سے نقل کرتے ہیں۔ کہ آنحضرت ﷺ نے حلالہ کرنے اور کرانے والے دونوں پر لعنت بھیجی ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو القیس کا

نام عبد الرحمن بن ثروان ہے۔ یہ حدیث آنحضرت ﷺ سے کئی سندوں سے منقول ہے۔ علماء صحابہ جیسے کہ عمر بن خطاب، عثمان بن عفان

عبد اللہ بن عمرؓ اور ان کے علاوہ کئی صحابہ کا اسی پر عمل ہے۔ فقہائے تابعین، سفیان ثوری، ابن مبارک، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے

میں نے جارد سے سنا کہ کعب بھی اسی کے قائل تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس باب میں اہل رائے کی رائے پھینک دینے کے قابل ہے۔ وکعب

کہتے ہیں کہ سفیان کے نزدیک اگر کوئی شخص کسی عورت سے اس نیت سے نکاح کرے کہ اسے پہلے شوہر کے لیے حلال کر دے اور پھر اس

کی چاہت ہو کہ وہ اسے اپنے ہی پاس رکھے تو دوسرا نکاح کرے کیونکہ پہلا نکاح صحیح نہیں۔

مسئلہ: احناف کا اس مسئلے میں مسلکت ہے کہ چونکہ روایت ابن مسعودؓ میں حلالہ کرنے والے اور کرانے والے دونوں پر لعنت بھیجی گئی

ہے۔ لہذا تحلیل کی شرط سے نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن یہ نکاح صحیح ہے اور وہ عورت پہلے شوہر کے لیے صحبت کے بعد حلال ہو جائے

گی اس لیے کہ نکاح شرط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا۔ جہاں تک حضرت ابن مسعودؓ کی حدیث کا تعلق ہے تو چونکہ اس میں دوسرے شوہر کو

حلالہ کرنے والا بنایا گیا ہے لہذا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ نکاح صحیح ہے اور اس سے وہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جاتی

ہے۔ کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ ﷺ اسے حلالہ کرنے والا نہ کہتے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۷۵۷۔ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الْمُتَعَةِ

۹۹۶۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍ نَا سفیان عن الزهري

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنِي مُحَمَّدٍ بِنِ عَلِيٍّ عَنْ

۹۹۶۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے غزوہ خیبر کے زمانے میں نکاح متعہ اور شہری گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا:

أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَبِيرٍ

اس باب میں سبرہ جھنڈی اور ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے۔ حضرت علیؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء صحابہ وغیرہ کا اسی پر عمل ہے۔ ابن عباسؓ سے متعہ کے متعلق کسی قدر رخصت منقول ہے لیکن بعد میں جب انہیں بتایا گیا کہ آنحضرت ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے تو انہوں نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا تھا۔ اکثر علماء متعہ کو حرام کہتے ہیں جن میں ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق شامل ہیں۔ محمود بن غیلان، سفیان بن عقبہ (جو قبصہ بن عقبہ کے بھائی ہیں) سے وہ سفیان ثوری سے وہ موسیٰ بن عبیدہ سے وہ محمد بن کعب سے اور وہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: متعہ اسلام کے شروع میں تھا۔ جب کوئی شخص کسی نئی جگہ جاتا جہاں اس کی کوئی جان پہچان نہ ہوتی تو وہ جتنے اسے وہاں رہنا ہوتا اتنے دن کے لیے کسی عورت کے ساتھ شادی کر لیا کرتا تھا کہ وہ اس کے سامان کی حفاظت اور اس کی خدمت کرے۔ یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی ”الاعلیٰ ازواجہم او ماملکت ایمانہم“ یعنی وہی لوگ مؤمن ہیں جو اپنی بیویوں اور باندیوں کے علاوہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں ان دونوں کے علاوہ تمام فروج (شرمگاہیں) حرام ہیں۔

باب ۷۵۸۔ نکاح شغار کی ممانعت۔ (۱)

۹۹۷۔ حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابی الشوارب نا بشر بن المفضل نا حمید وهو الطویل قال حدث الحسن عن عمران بن حصین عن النبي صلى الله عليه وسلم في ما جاء من النهي عن نكاح الشغار

باب ۷۵۸۔ مَا جَاءَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ

۹۹۷۔ حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابی الشوارب نا بشر بن المفضل نا حمید وهو الطویل قال حدث الحسن عن عمران بن حصین عن النبي صلى الله عليه وسلم في ما جاء من النهي عن نكاح الشغار

اس باب میں انسؓ، ابو ہریرہؓ، ابو یوسفؓ، ابن عمرؓ، جابرؓ، معاویہؓ اور وائل بن حجرؓ سے بھی روایت ہے۔

۹۹۸۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے نکاح شغار سے منع فرمایا۔

۹۹۸۔ حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري نا معن

نا مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله

(۱) شغر کے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح اس شرط پر کسی کے ساتھ کرے کہ وہ بھی اس سے اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح کرے اور ان میں مہر کا تقرونہ ہو۔ (مترجم)

(۲) جلب کا زکوٰۃ کے باب میں یہ معنی ہے کہ زکوٰۃ کا عامل کسی ایک جگہ ٹھہر جائے اور جانوروں والوں سے کہے کہ وہ خود اپنے اپنے جانور اس کے پاس لائیں۔ یہی لفظ گھڑ دوڑ میں استعمال ہوتا ہے اور اس میں اس سے یہ معنی مراد لیے جاتے ہیں کہ آدمی ایک گھوڑے پر سوار ہو اور دوسرا بھی ساتھ رکھے تاکہ ایک تھک جائے تو دوسرے پر سوار ہو سکے۔ (مترجم)

(۳) جلب کے بھی گھڑ دوڑ کے باب میں جلب ہی کے معنی ہیں لیکن زکوٰۃ کے باب میں کچھ علماء کے نزدیک اس کے یہ معنی ہیں کہ زکوٰۃ دینے والے اپنے جانور لے کر دو دروڑ چلے جائیں تاکہ عامل ان کو ڈھونڈتا اور تلاش کرتا پھرے۔ واللہ اعلم (مترجم)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشَّغَارِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر تمام علماء کا عمل ہے کہ نکاح شغار جائز نہیں۔ شغار اسے کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنی بہن یا بیٹی کو بغیر مہر مقرر کیے کسی کے نکاح میں اس شرط پر دے دے کہ وہ بھی اپنی بہن یا بیٹی اس کے نکاح میں دے۔ اس میں مہر مقرر نہیں ہوتا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر اس پر مہر بھی مقرر کر دیا جائے تب بھی یہ حلال نہیں اور یہ نکاح باطل ہو جائے گا شافعی، احمد اور اسحاق کا یہی قول ہے۔ عطاء بن ابی رباح سے منقول ہے کہ ان کا نکاح برقرار رکھا جائے۔ لیکن مہر مثل واجب ہوگا۔ اہل کوفہ بھی اسی کے قائل ہیں۔

باب ۷۵۹۔ مَا جَاءَ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَاتِهَا

۹۹۹۔ حدثنا نصر بن علي الجهضمي نا عبد الاعلى بن عبد الاعلى نا سعيد بن ابى عروبة عن ابى حريز عن عكرمة ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تزوج المرأة على عمته او على خالتها

۹۹۹۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے پھوپھی کی نکاح میں موجودگی میں اس کی بھتیجی اور خالہ کی موجودگی میں اس کی بھانجی سے نکاح کرنے سے منع فرمایا۔

نصر بن علی، عبد الاعلیٰ سے وہ ہشام بن حسان سے وہ ابن سیرین سے اور وہ ابو ہریرہؓ سے منقول ہے۔ اس باب میں علیؓ، ابن عمرؓ، ابوسعیدؓ، ابو امامہؓ، جابرؓ، عائشہؓ، ابو موسیٰؓ اور سرہ بن جندبؓ سے بھی روایت ہے۔

۱۰۰۰۔ حدثنا الحسن بن علي نا يزيد بن هارون نا داود بن ابى هند نا عامر عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تنكح المرأة على عمته او العممة على بنت اخيها او المرأة على خالتها او الخالة على بنت اخيها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى

۱۰۰۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے پھوپھی کی موجودگی میں اس کی بھتیجی اور بھتیجی کی موجودگی میں اس کی پھوپھی اور پھر خالہ کی موجودگی میں اس کی بھانجی اور بھانجی کی موجودگی میں اس کی خالہ سے نکاح کرنے سے منع فرمایا۔ یعنی بڑی کی موجودگی میں چھوٹی اور چھوٹی کی موجودگی میں بڑی سے نکاح نہیں کیا جاسکتا۔

حضرت ابن عباسؓ اور ابو ہریرہؓ کی حدیثیں حسن صحیح ہیں۔ ہمارے علم کے مطابق علماء کا اس مسئلے میں اتفاق ہے کہ کسی شخص کے لیے بھانجی اور خالہ یا پھوپھی بھتیجی کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں۔ اور اگر کسی نے ایسا کیا تو ان میں سے دوسرا نکاح باطل ہوگا۔ تمام علماء اسی کے قائل ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں: شعبہ کی حضرت ابو ہریرہؓ سے ملاقات ثابت ہے میں نے امام بخاری سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ بھی صحیح ہے اور شعبہ، حضرت ابو ہریرہؓ سے ایک شخص کے واسطے سے بھی روایت کرتے ہیں۔

باب ۷۶۰۔ مَا جَاءَ فِي الشَّرْطِ عِنْدَ عَقْدَةِ النِّكَاحِ

۱۰۰۱۔ حدثنا يوسف بن عيسى ناوكيع نا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن ابى حبيب عن مرثد بن عبد الله الزينبي ابي الخير عن عقبه ابن عامر

۱۰۰۱۔ حضرت عقبہ بن عامرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: شروط میں سب سے زیادہ قابل ایفاء وہ شرط ہے جس سے تم نے فردج کو حلال کیا ہو۔

الْجَهَنِّيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوقَىٰ بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهَا الْفُرُوجَ

ابوموسیٰ محمد بن ثنی، یحییٰ بن سعید سے اور وہ عبدالحمید بن جعفر سے اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض علماء صحابہ وغیرہ کا اسی پر عمل ہے۔ جن میں عمر بن خطابؓ بھی شامل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے اس شرط پر نکاح کرے کہ وہ اسے اس کے شہر سے باہر نہیں لے جائے گا تو اسے اس شرط کو پورا کرنا چاہیے۔ بعض علماء شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت علیؓ سے منقول ہے کہ اللہ کی شرط ہر شرط پر مقدم ہے۔ گویا کہ ان کے نزدیک شوہر کا اپنی بیوی کو اس طرح کے باوجود شہر سے لے جانا صحیح ہے بعض علماء کا بھی یہی قول ہے۔ سفیان ثوری اور بعض اہل کوفہ بھی اسی کے قائل ہیں۔

باب ۷۶۱۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسَلِّمُ وَ عِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ

باب ۷۶۱۔ اس شخص کے متعلق جس کے نکاح میں دس بیویاں ہوں اور وہ مسلمان ہو جائے

۱۰۰۲۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ عَبْدِ عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنِ مَعْمَرِ بْنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غِيلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ..... فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

۱۰۰۲۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے کہ غیلان بن سلمہ ثقفی مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں دس بیویاں تھیں وہ بھی ان کے ساتھ ہی مسلمان ہو گئیں۔ آپ ﷺ نے حکم دیا کہ ان میں سے چار کا انتخاب کر لیں۔

معمربھی زہری سے وہ سالم سے اور وہ اپنے والد سے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔ میں نے امام بخاری سے سنا کہ یہ حدیث غیر محفوظ ہے اور صحیح وہ ہے جو شعیب بن حمزہ وغیرہ زہری سے اور وہ محمد بن سوید ثقفی سے نقل کرتے ہیں کہ غیلان بن سلمہ اسلام لائے تو ان کی دس بیویاں تھیں۔ مزید کہتے ہیں کہ زہری کی سالم سے اور ان کی ان کے والد سے منقول یہ حدیث بھی صحیح ہے کہ بنو ثقیف کے ایک شخص نے اپنی بیویوں کو طلاق دی تو حضرت عمرؓ نے اسے حکم دیا کہ تم ان سے رجوع کرو، وگرنہ میں تمہاری قبر کو بھی ابورغال کی قبر کی طرح رجم کروں گا۔ اس باب میں غیلان ہی کی حدیث پر علماء کا عمل ہے۔ جن میں امام شافعی اور احمد بھی شامل ہیں۔

باب ۷۶۲۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسَلِّمُ وَ عِنْدَهُ أُخْتَانِ

باب ۷۶۲۔ اس شخص کے متعلق جو مسلمان ہو اور اس کے نکاح میں دو بہنیں ہوں۔

۱۰۰۳۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا ابْنِ لَهَيْعَةَ عَنْ أَبِي وَهَبٍ الْحَيْشَانِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ فَيْرُوزَ الدِّيلَمِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَ تَحْتِي أُخْتَانِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَرِ أَيَّهُمَا شِئْتَ

۱۰۰۳۔ ابو وہب حیثانی، ابن فیروز دیلمی سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے والد نے فرمایا: میں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میرے نکاح میں دو بہنیں ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم ان دونوں میں سے جس کا چاہو انتخاب کر لو۔

یہ حدیث حسن غریب ہے اور ابو وہب حیثانی کا نام دیلیم بن ہوشع ہے۔

باب ۷۶۳۔ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَامِلٌ

باب ۷۶۳۔ اس شخص کے متعلق جو حاملہ باندی خریدے۔

۱۰۰۴۔ حضرت روفیع بن ثابتؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ کسی دوسرے سے حاملہ ہونے والی عورت سے صحبت نہ کرے (یعنی اگر اس کو خرید لے وغیرہ)

۱۰۰۴۔ حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري نا عبد الله بن وهب نا يحيى بن ايوب عن ربيعة بن سليم عن بسر بن عبيد الله عن رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِي مَاءَهُ وَلَا يَدْعِيهِ

یہ حدیث حسن ہے اور کئی سندوں سے روفیع بن ثابتؓ ہی سے منقول ہے علماء اسی پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی باندی کو حاملہ ہوتے ہوئے خریدے تو بچہ پیدا ہونے تک اس سے صحبت نہ کرے۔ اس باب میں ابو درداءؓ، عمر باض بن ساریہؓ اور ابوسعیدؓ سے بھی روایت ہے۔

باب ۶۳۔ اگر کسی باندی کا شوہر بھی ہو تو کیا اس سے صحبت کرنا جائز ہے؟

باب ۷۶۴۔ مَا جَاءَ يَسْبِي الْأَمَةَ وَلَهَا زَوْجٌ هَلْ يَجِلُّ لَهَا وَطَيْهَا

۱۰۰۵۔ حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنگ اوٹاس کے موقع پر کچھ ایسی عورتیں قید کیں جو شادی شدہ تھیں اور ان کے شوہر بھی اپنی اپنی قوم میں موجود تھے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ سے اس کا تذکرہ کیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی ”والمحصنات من النساء الامالكت ايمانكم“ ترجمہ: اور وہ عورتیں جو شوہروں والی ہیں ان سے صحبت کرنا حرام ہے ہاں البتہ اگر وہ تمہاری ملکیت میں آجائیں تو.....

۱۰۰۵۔ حدثنا احمد بن منيع نا هشيم نا عثمان البتي عن ابي الخليل عن ابي سعيد الخدري قال اصبنا سبائيا يوم اوطاس ولهن ازواج في قومهن فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت ”والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم“

یہ حدیث حسن ہے ثوری اور عثمان بنی بھی ابوخلیل سے اور وہ ابوسعید سے اسی حدیث کے مثل بیان کرتے ہیں۔ ابوخلیل کا نام صالح بن ابی مریم ہے۔ ہمام بھی یہ حدیث قتادہ سے وہ صالح ابوخلیل سے وہ ابوعلقہ ہاشمی سے وہ ابوسعید سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ ہم سے اسے عبد بن حمید نے حبان بن ہلال سے اور انہوں نے ہمام کے حوالے سے نقل کیا ہے۔

باب ۶۵۔ زنا کی اجرت حرام ہے۔

باب ۷۶۵۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ مَهْرِ الْبَغِيِّ

۱۰۰۶۔ حضرت ابو مسعود انصاریؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کتے کی قیمت، زانیہ کی اجرت اور کاہن (غیب کے علم کے دعویدار) کی مٹھالی کھانے سے منع فرمایا۔

۱۰۰۶۔ حدثنا قتيبة نا الليث عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي مسعود الانصاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن

اس باب میں رافع بن خدیجؓ، ابو ہریرہؓ، ابو حنیفہؓ اور ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔ ابو مسعودؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۶۶۔ کسی کے پیغام پر پیغام نکاح بھیجنے کی ممانعت

باب ۷۶۶۔ مَا جَاءَ أَنْ لَا يُخْطَبَ الرَّجُلُ عَلَى حِطْبَةِ أَخِيهِ

۱۰۰۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی شخص اپنے بھائی کی بیٹی ہوئی چیز پر وہی چیز اس سے کم قیمت میں فروخت نہ

۱۰۰۷۔ حدثنا احمد بن منيع و قتيبة قال نا سفين بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن

ابۃ ہُرَیْرَةَ قَالَ قُتَيْبَةُ يَبْلُغُ بِهِ وَقَالَ أَحْمَدُ قَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَيَّ يَبِيعُ  
أَجْنِيَهُ وَلَا يَخْطُبُ عَلَيَّ خُطْبَةَ أَجْنِيهِ

کرے۔ اور نہ ہی کوئی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام بھیجے۔

اس باب میں سمرہ اور ابن عمر سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ نکاح کے پیغام کی ممانعت اس صورت میں ہے کہ وہ پہلے شخص سے نکاح پر راضی ہو۔ امام شافعی بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ ممانعت اسی صورت میں ہے کہ اگر نکاح کا پیغام دی جانے والی عورت اس کی طرف راغب ہو اور اس سے رضامندی ظاہر کر دے تو اسے پیغام بھیجنا جائز نہیں۔ لیکن اگر اس کی رضا اور رغبت سے پہلے پیغام بھیجے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ جس کی دلیل حضرت فاطمہ بنت قیسؓ کی حدیث ہے کہ وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ (ابو جہم بن حذیفہ اور معاویہ بن ابوسفیان نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ آپ ﷺ فرمایا: ”ابو جہم تو ایسا شخص ہے کہ عورتوں کو بہت مارتا ہے رہ گئے معاویہ وہ فقیر ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ایسا کرو کہ اسامہ سے نکاح کر لو۔“ ہمارے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ فاطمہؓ بنت قیس نے اس وقت تک ان دونوں میں کسی سے بھی اپنی رضامندی کا اظہار نہیں کیا تھا کیونکہ اگر انہوں نے آپ ﷺ کو بتایا ہوتا کہ وہ کسی ایک کے ساتھ راضی ہیں تو آپ ﷺ کبھی انہیں اسامہؓ سے شادی کا مشورہ نہ دیتے۔

۱۰۰۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ، ابوداؤد سے وہ شعبہ سے اور وہ ابو بکر بن ابی جہم سے نقل کرتے ہیں کہ میں (ابو بکر بن ابی جہم) اور ابوسلمہ بن عبدالرحمن، فاطمہ بنت قیسؓ کے پاس گئے تو انہوں نے بتایا کہ ان کے شوہر نے انہیں تین طلاقیں دے دی ہیں اور ان کے لیے نہ رہائش کا بندوبست کیا ہے نہ مال و نفقہ کا۔ باوجودیکہ انہوں نے اپنے ایک چچا زاد بھائی کے پاس دس قبضہ غلہ رکھوایا ہے جس میں سے پانچ جو کے اور پانچ گیہوں کے ہیں۔ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہیں یہ ماجرا سنایا: آپ ﷺ نے فرمایا: انہوں نے ٹھیک کیا اور مجھے حکم دیا کہ میں ام شریک کے ہاں گزروں لیکن پھر آپ ﷺ نے فرمایا ام شریک کے ہاں تو مہاجرین ہوتے ہیں تم ایسا کرو کہ ابن ام مکتوم کے یہاں مدینہ کے دن پورے کرو کیونکہ اگر وہاں کبھی تمہیں کپڑے وغیرہ اتارنے پڑ جائیں تو تمہیں دیکھنے و کوئی نہیں ہوگا۔ پھر تمہاری عدت پوری ہونے کے بعد اگر کوئی نکاح پیغام بھیجے تو میرے پاس آنا۔ چنانچہ جب میری عدت پوری ہوئی تو ابو جہم اور معاویہ نے مجھے پیغام بھیجے میں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ ﷺ کو بتایا تو فرمایا: جہاں تک معاویہ کا تعلق ہے وہ مفلس ہیں ان کے پاس کچھ نہیں جب کہ ابو جہم عورتوں کے معاملے میں بہت سخت پیر فاطمہؓ فرماتی ہیں کہ پھر مجھے اسامہ بن زیدؓ نے نکاح کا پیغام اور اس سے

۱۰۰۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ نَا أَبُو دَاوُدَ أَنبَانَا  
شُعْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي الْحَنَمِ قَالَ دَخَلْتُ  
أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَيَّ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ  
فَحَدَّثَتُ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا  
سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ قَالَتْ وَوَضَعَ لِي عَشْرَةَ أَفْئِزَةٍ عِنْدَ  
ابْنِ عَمِّ لَهْ خَمْسَةَ شَعِيرٍ وَخَمْسَةَ بَرٍّ قَالَتْ فَاتَيْتُ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ  
قَالَتْ فَقَالَ صَدَقَ فَاَمْرِي أَنْ أَعْتَدَ فِي بَيْتِ أُمِّ  
شَرِيكِ ثُمَّ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
إِنَّ بَيْتَ أُمِّ شَرِيكِ بَيْتٌ يَعْشَاهُ الْمُهَاجِرُونَ وَلَكِنْ  
اعْتَدِي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَعَسَى أَنْ تَلْفِي  
نِيَابِكَ فَلَا يَرَاكَ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكَ فَجَاءَ أَحَدٌ  
يَخْطُبُكَ فَادْنَيْتِي فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتِي خَطَبَنِي  
أَبُو جَهْمٍ وَمَعَاوِيَةُ قَالَتْ فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَمَّا مَعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ  
لَا مَالَ لَهُ وَ أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ شَدِيدٌ عَلَى النِّسَاءِ  
قَالَتْ فَخَطَبَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَتَزَوَّجَنِي فَبَارَكَ اللَّهُ

بعد شادی کی۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے برکت عطا فرمائی۔

یٰ فِیْ اَسْمَاءَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سفیان ثوری بھی ابوبکر بن جم سے اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہوئے یہ الفاظ زیادہ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”اسامہ سے نکاح کر لو“ ہم سے یہ بات محمود بن غیلان نے انہوں نے وکیع سے انہوں سے سفیان سے اور انہوں نے ابوبکر بن جم کے حوالے سے بیان کی ہے۔

باب ۷۶۷۔ عزل کے متعلق۔ (۱)

باب ۷۶۷۔ مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ

۱۰۰۹۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ ہم عزل کیا کرتے تھے لیکن یہود کے خیال میں یہ چھوٹے نقل کے مترادف ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہود جھوٹ بولتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔

۱۰۰۹۔ حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابی الشوارب نا يزيد بن زريع نا معمر عن يحيى بن ابی كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر قال قلنا يا رسول الله انا كنا نعزل فزعمت اليهود انه الموء ودة الصغرى فقال كذبت اليهود ان الله اذا اراد ان يخلق له لم يمنعه شيء

اس باب میں عمر، براء، ابو ہریرہ اور ابوسعید سے بھی روایت ہے۔

۱۰۱۰۔ حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن کے نازل ہونے کے زمانے میں عزل کیا کرتے تھے (یعنی اگر اس میں کوئی برائی ہوتی تو اس سے منع کر دیا جاتا)۔ (مترجم)

۱۰۱۰۔ حدثنا قتيبة و ابن ابی عمر قالا نا سفیان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا نعزل و القرآن ينزل

حضرت جابر کی حدیث حسن صحیح ہے اور انہی سے کئی سندوں سے منقول ہے۔ چنانچہ علماء صحابہ کی ایک جماعت عزل کی اجازت دیتی ہے جب کہ امام مالک کا مسلک یہ ہے کہ آزاد عورت سے اس کی اجازت ضروری ہے۔ اور باندی سے نہیں۔ (امام ابو حنیفہ کا بھی یہی قول ہے)۔ (مترجم)

باب ۷۶۸۔ عزل کی کراہت سے متعلق

باب ۷۶۸۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْعَزْلِ

۱۰۱۱۔ حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے عزل کا ذکر کیا گیا تو فرمایا: تم میں سے کوئی ایسا کیوں کرتا ہے؟ ابن عمر اپنی حدیث میں یہ الفاظ زیادہ بیان کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہ کرے پھر دونوں راوی کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نفس کو پیدا کرنا چاہیں گے تو وہ ہر صورت میں پیدا ہوگا۔

۱۰۱۱۔ حدثنا ابن ابی عمر وقتيبة قالا نا سفیان عيينة عن ابن ابی نجيح عن مجاهد عن قزعة عن ابی سعيد قال ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يفعل ذلك احدكم زاد ابن ابی عمر في حديثه ولم يقل لا يفعل ذلك احدكم قال في حديثيهما فانها ليست نفس مخلوقة الا الله خالقها

باب ۷۶۹۔ بیوہ اور کنواری کے لیے رات کی تقسیم سے متعلق

باب ۷۶۹۔ مَا جَاءَ فِي الْقِسْمَةِ لِلْبِكْرِ وَ الثَّيِّبِ

(۱) عزل یہ ہے کہ صحبت کرتے وقت جب انزال ہونے لگے تو آگے نائل کو باہر نکال لیا جائے تاکہ نسل نہ ہو۔ (مترجم)

اس باب میں جاہل سے بھی روایت ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابو سعیدؓ ہی سے کئی سندوں سے منقول ہے علماء صحابہ کی ایک جماعت عزل کو مکروہ سمجھتی ہے۔

۱۰۱۲۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا..... لیکن انسؓ نے یہی فرمایا کہ اگر کوئی شخص شادی شدہ ہوتے ہوئے کسی کنواری لڑکی سے شادی کرے تو اس کے ساتھ سات راتیں اور بیوہ کے ساتھ تین راتیں گزارنا سنت ہے۔

۱۰۱۲۔ حدثنا ابوسلمة يحيى بن خلف نا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال لو شئت أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... ولكنته قال السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلثا

اس باب میں ام سلمہؓ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اسے محمد بن اسحاق، ایوب سے وہ ابو قلابہ سے اور وہ انسؓ سے مرفوعاً بھی روایت کرتے ہیں۔ جب کہ راوی اسے غیر مرفوع روایت کرتے ہیں۔ بعض اہل علم اسی حدیث پر عمل پیرا ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے کنواری لڑکی سے شادی کرے تو اس کے پاس سات دن تک رہے۔ اور اس کے بعد ہر بیوی کے پاس ایک رات گزارے۔

باب ۷۷۰۔ سو کنوں کے درمیان انصاف کرنا۔

۱۰۱۳۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ اپنی بیویوں کے درمیان راتیں برابر برابر تقسیم کرتے اور فرماتے: اے اللہ یہ میری تقسیم ہے جتنی کہ میں استطاعت رکھتا ہوں لہذا آپ جس چیز پر قدرت رکھتے ہیں اور میں اس پر قادر نہیں تو مجھے ایسی پر ملامت نہ کیجئے۔

باب ۷۷۰۔ مَا جَاءَ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الصَّرَائِرِ

۱۰۱۳۔ حدثنا ابن عمر نا بشر بن السري نا حماد بن سلمة عن ايوب عن ابي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نساياه فيعدل فيقول اللهم هذه قسمتي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك

یہ حدیث کئی راویوں نے حماد بن سلمہ سے انہوں نے ایوب سے انہوں نے ابو قلابہ سے انہوں نے عبد اللہ بن یزید سے اور انہوں نے حضرت عائشہؓ سے اسی طرح مرفوعاً نقل کی ہے کہ آپ ﷺ اپنی ازواج مطہرات میں برابر برابر تقسیم کرتے تھے..... الخ پھر حماد بن زید اور کئی راوی ایوب سے اور وہ ابو قلابہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ تقسیم کیا کرتے تھے..... یہ حدیث حماد بن سلمہ کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ آپ ﷺ کا یہ قول کہ ”مجھے ملامت نہ کر“ بعض علماء اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد محبت قلبی ہے۔

۱۰۱۴۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کسی شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان انصاف اور عدل نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن اس کے بدن کا آدھا حصہ مفلوج ہوگا۔

۱۰۱۴۔ حدثنا محمد بن بشار نا عبد الرحمن بن مهدى نا همام عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط

یہ حدیث ہمام بن یحییٰ، قتادہ سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں جب کہ ہشام دستوائی، قتادہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایسا کہا جاتا تھا۔ لہذا ہمیں علم نہیں کہ ہمام کے علاوہ کسی اور نے اسے مرفوع کیا ہو۔

باب ۷۷۱۔ مَا جَاءَ فِي الزَّوْجِيِّ الْمَشْرِكِيِّ يُسَلِّمُ  
أَحَدَهُمَا

۱۰۱۵۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَهْنَادٌ قَالَا نَا  
أَبُو مَعَاوِيَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ  
أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِمَنْهَرٍ  
جَدِيدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ

اس حدیث کی سند میں کلام ہے۔ عمل ہے کہ اگر بیوی، شوہر سے پہلے اسلام لے آئے اور اس کے بعد عورت کی عدت ہی کے دوران شوہر بھی مسلمان ہو جائے تو وہی شوہر اپنی بیوی کا زیادہ مستحق ہے۔ مالک، شافعی، اوزاعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

۱۰۱۶۔ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى نَا وَكَيْعُ نَا  
إِسْرَائِيلُ عَنِ سَمَّاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ غُكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ  
عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ مُسْلِمًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَتْ أَمْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً فَقَالَ يَا  
رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ أَسْلَمَتْ مَعِيَ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ

یہ حدیث صحیح ہے، میں نے عبد بن حمید سے اور انہوں نے یزید بن ہارون سے سنا کہ وہ یہی حدیث محمد بن اسحاق سے نقل کرتے تھے حدیث حجاج جو عمرو بن شعیب کی سند سے منقول ہے اسی کے متعلق یزید بن ہارون کہتے ہیں کہ علماء اسی پر عمل پیرا ہیں اگرچہ حضرت ابن عباس کی حدیث اس سے بہتر ہے۔

باب ۷۷۲۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ  
فَيَمُوتُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرُضَ لَهَا

۱۰۱۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا زَيْدُ بْنُ  
الْحَبَابِ نَا سَفِيَانُ عَنِ مَنصُورٍ عَنِ اِبْرَاهِيمَ عَنِ  
عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ  
أَمْرَأَةً وَلَمْ يَفْرُضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى  
مَاتَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَاءِهَا لَا  
وَكَسٍّ وَلَا شَطَطٍ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَامَ

باب ۷۷۳۔ وَهُوَ شَخْصٌ جُو نِكَاحِ كَيْ بَعْدَ مَهْرٍ مَقْرَرٍ كَرْنِي سِي پِيلِي فَوْتِ  
ہو جائے۔

۱۰۱۷۔ حضرت ابن مسعود سے اس شخص کے متعلق پوچھا گیا۔ جو نکاح کرنے کے بعد مہر مقرر کرنے اور صحبت کرنے سے پہلے فوت ہو جائے ابن مسعود نے فرمایا: ایسی عورت کا مہر اس کی مثل عورتوں کے برابر ہوگا نہ اس میں کمی کی جائے گی اور نہ ہی زیادتی۔ وہ عورت عدت گزارے گی اور اسے خاوند کے مال سے وراثت بھی ملے گی اس پر معقل بن سنان اشجعی گھڑے ہوئے اور فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے بروح بنت واشق

مَعْقِلُ بْنُ سِنَانَ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرُوعِ بِنْتِ وَاشِقِ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلُ مَا قَضَيْتُ فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ

(ہم میں سے ایک عورت) کے متعلق ایسا ہی فیصلہ دیا جیسا کہ آپ نے دیا۔ اس پر حضرت ابن مسعود بہت خوش ہوئے۔

اس باب میں جراح سے بھی روایت ہے۔ حسن بن علی خلال بھی یزید ہارون اور عبدالرزاق سے یہ دونوں سفیان سے اسی کے مثل نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود کی حدیث حسن صحیح ہے اور انہی سے کئی سندوں سے منقول ہے۔ بعض علماء صحابہ اسی پر عمل کرتے ہیں۔ ثوری، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ بعض علماء صحابہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر وہ اس سے خلوت سے پہلے مر گیا تو اس عورت کا میراث میں تو حصہ ہے لیکن مہر نہیں۔ ہاں عدت واجب ہے۔ حضرت علیؓ، یزید بن ثابتؓ، ابن عباسؓ اور ابن عمرؓ اسی کے قائل ہیں۔ شافعی کا بھی یہی قول ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ اگر بروع کی حدیث ثابت ہو تو وہ آنحضرت ﷺ کی طرف سے حجت ہے چنانچہ ان سے منقول ہے کہ انہوں نے مصر میں اپنے اس قول سے رجوع کر لیا تھا اور بروع بنت و اشق کی حدیث پر عمل کرنے لگے تھے۔

### أَبْوَابُ الرِّضَاعِ

### رضاعت (دودھ پلانا) کے ابواب

باب ۷۷۳۔ مَا جَاءَ يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ

۱۰۱۸۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا اسْمَعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ نَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرِّضَاعِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ

باب ۷۷۳۔ جو رشتے نب سے حرام ہوتے ہیں وہی رضاعت سے بھی حرام ہوتے ہیں

۱۰۱۸۔ حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جو رشتے نب سے حرام کیے ہیں رضاعت سے بھی وہ تمام رشتے حرام ہیں۔

اس باب میں عائشہؓ، ابن عباسؓ اور ام حبیبہؓ سے بھی روایت ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۰۱۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا يَجْبِي بْنُ سَعِيدٍ نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ح وَ نَا اسْحَقُ بْنُ مَوْسَى الْأَنْصَارِيُّ نَا مَعْنُ نَا مَالِكُ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ الْوِلَادَةِ

۱۰۱۹۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے رضاعت سے بھی وہی رشتے حرام کیے ہیں جو ولادت یعنی نسب سے حرام کیے ہیں۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے علماء صحابہ وغیرہ کا اسی پر عمل ہے اور اسی مسئلے میں علماء کا اتفاق ہے۔

باب ۷۷۴۔ دُودُ مَرْدٍ كَيْفَ مَنْسُوبٍ هُوَ كَيْفَ مَتَّعٍ

باب ۷۷۴۔ مَا جَاءَ فِي لَبَنِ الْفَحْلِ

۱۰۲۰۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا ابْنُ نَعْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ عَمِّي مِنَ الرِّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلِيًّا فَأَيُّتُ أَنْ أَدِّنَ لَهُ حَتَّى

۱۰۲۰۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میرے پاس میرے رضاعی چچا آئے اور اجازت چاہی میں نے انہیں آنحضرت ﷺ سے پوچھنے سے پہلے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ تمہارے

پاس داخل ہو سکتے ہیں وہ تو تمہارے چچا ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے تو عورت نے دودھ پلایا ہے مرد نے نہیں آپ ﷺ نے فرمایا: انہیں چاہئے کہ وہ آجائیں اس لیے کہ وہ تمہارے چچا ہیں۔

اسْتَأْمَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَلِجْ عَلَيْكَ فَإِنَّ عَمَّكَ قَالَتْ إِنَّمَا أَرْضَعْتَنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ فَإِنَّ عَمَّكَ فَلْيَلِجْ عَلَيْكَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر بعض علماء صحابہ کا عمل ہے کہ مرد کا دودھ حرام ہے۔ اس باب میں حضرت عائشہؓ کی حدیث ہی اصل ہے۔ بعض علماء مرد کے دودھ کی بھی اجازت دیتے ہیں لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔

۱۰۲۱۔ حضرت ابن عباسؓ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص کے پاس دو بانگیاں ہیں۔ ان میں سے ایک نے ایک لڑکی کو اور دوسری نے ایک لڑکے کو دودھ پلایا۔ کیا اس لڑکے کے لیے یہ لڑکی جائز ہے؟ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا: نہیں۔ کیونکہ منی ایک ہی ہے۔ (یعنی وہ شخص دونوں کے ساتھ صحبت کرتا ہے)۔

۱۰۲۱۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ ح وَثَنَا الْاِنصَارِيُّ نَا مَعْنُ نَا مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ سُوِلَ عَنْ رَجُلٍ لَّهُ جَارِيَتَانِ اَرْضَعَتْ اِحْدَهُمَا جَارِيَةً وَالْاُخْرَى غُلَامًا مَا اِيْحَلُّ لِلْغُلَامِ اَنْ يَتْرُوَجَ الْجَارِيَةَ فَقَالَ لَا اللَّقَاحُ وَاحِدٌ

یہ مرد کے دودھ کی تفسیر ہے یہی اس باب میں اصل ہے۔ احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔

باب ۷۷۵۔ ایک یادگھونٹ دودھ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ ۱۰۲۲۔ حضرت عائشہؓ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتی ہیں کہ ایک دو گھونٹ دودھ پینے سے رضاعت کا حکم نہیں لگایا جاسکتا۔

بَاب ۷۷۵۔ مَا جَاءَ لَا تُحْرِمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ نَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سَلِيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْبٍ يَحْدُثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِي مَلِيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّبِيْعِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُحْرِمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ

اس باب میں ابو ہریرہؓ، ام فضلؓ، زبیرؓ اور ابن زبیرؓ سے بھی روایت ہے۔ ابن زبیرؓ، حضرت عائشہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتی ہیں کہ ایک دو گھونٹ پینے سے رضاعت کی حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ محمد بن بشار، ہشام بن عروہ سے وہ اپنے والد سے وہ عبد اللہ بن زبیر سے وہ زبیر سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ زبیر نے رسول اللہ ﷺ سے نقل کیا ہے۔ لیکن یہ غیر محفوظ ہے۔ محدثین کے نزدیک صحیح حدیث ابن ابی ملیکہ کی ہے۔ وہ عبد اللہ بن زبیرؓ سے وہ عائشہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتی ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر بعض علماء صحابہ وغیرہ کا عمل ہے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ قرآن میں دس مرتبہ دودھ چوسنے پر رضاعت کے حکم کے متعلق آیت نازل ہوئی پھر اس میں سے پانچ منسوخ ہو گئیں اور پانچ رہ گئیں۔ پھر آپ ﷺ کی وفات تک یہی حکم رہا کہ پانچ مرتبہ چوسنے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ ہم سے حضرت عائشہؓ کا یہ قول اسحاق بن موسیٰ انصاری نے انہوں نے معن سے انہوں نے مالک سے انہوں نے عبد اللہ بن ابوبکر سے انہوں نے عمرہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہؓ سے نقل کیا ہے۔ حضرت عائشہؓ اور بعض ازواج مطہرات کا فتویٰ بھی اسی پر ہے۔ شافعی اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں جب کہ امام احمد ایک یادگھونٹ سے

رضاعت کی حرمت ثابت نہ ہونے والی حدیث پر عمل کرتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی حضرت عائشہ کے قول پر عمل کرے تو یہ زیادہ قوی ہے۔ چنانچہ وہ اس مسئلے میں حکم دینے سے ڈرتے تھے۔ بعض علماء صحابہ وغیرہ کہتے ہیں کہ کم اور زیادہ دونوں ہی سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ بشرطیکہ وہ پیٹ گیا ہو۔ سفیان ثوری، مالک، اوزاعی، ابن مبارک، کوچج اور اہل کوفہ کا بھی یہی قول ہے۔

باب ۷۷۶۔ مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرِّضَاعِ

۱۰۲۳۔ عبداللہ بن ابی ملیکہ، عبید بن ابی مریم سے اور وہ عقبہ بن حارث سے نقل کرتے ہیں۔ عبداللہ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث عقبہ سے بھی سنی ہے لیکن عبید کی حدیث مجھے زیادہ یاد ہے کہ عقبہ نے کہا: میں نے ایک عورت سے نکاح کیا تو ایک سیاہ فام عورت آئی اور کہا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ چنانچہ میں نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے فلاں عورت کے ساتھ نکاح کیا تھا کہ ایک سیاہ فام عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے اور وہ جھوٹی ہے۔ عقبہ کہتے ہیں: آپ ﷺ نے مجھ سے چہرہ پھیر لیا۔ میں پھر آپ ﷺ کے سامنے آیا اور عرض کیا وہ جھوٹی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیسے! جب کہ اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ تم اس عورت کو چھوڑ دو۔

۱۰۲۳۔ حدثنا علي بن حجرنا اسمعيل بن ابراهيم عن ايوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبید بن أبي مریم عن عتبة بن الحارث قال وسمعت من عتبة ولكنني لحديث عبید أحفظ قال تزوجت امرأة..... فجاءتنا امرأة سوداء فقالت اني قد ارضعتكما فاتيئني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت اني قد ارضعتكما وهي كاذبة قال فاعرض عني قال فاتيئني من قبل وجهي فقلت انها كاذبة قال وكتبف بها وقد زعمت انها قد ارضعتكما دعها عنك

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ کئی راوی یہ حدیث ابن ابی ملیکہ سے اور وہ عقبہ بن حارث سے نقل کرتے ہوئے عبیدہ بن ابی مریم کا ذکر نہیں کرتے۔ پھر اس حدیث میں یہ الفاظ بھی نہیں ہیں کہ تم اسے چھوڑ دو۔ بعض علماء صحابہ وغیرہ کا اسی پر عمل ہے کہ رضاعت کے ثبوت کے لیے ایک عورت کی گواہی کافی ہے۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ یہ اس صورت میں کافی ہے کہ اس عورت سے قسم لی جائے۔ احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ جب کہ بعض علماء کہتے ہیں ایک عورت کی گواہی کافی نہیں بلکہ زیادہ ہونی چاہئیں۔ شافعی بھی اسی کے قائل ہیں۔ عبداللہ بن ابی ملیکہ: عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی ملیکہ ہیں ان کی کنیت ابو محمد ہے۔ عبداللہ بن زبیرؓ نے انہیں طائف میں قاضی مقرر کیا تھا۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ میں نے آنحضرت ﷺ کے تیس صحابیوں کو پایا ہے۔ میں نے جارد بن معاذ سے سنا کہ کوچج کے نزدیک بھی رضاعت کے لیے ایک عورت کی گواہی کافی نہیں۔ لیکن اگر ایک عورت کی گواہی سے اپنی بیوی کو چھوڑ دے تو یہ عین تقویٰ ہے۔

باب ۷۷۷۔ مَا جَاءَ أَنَّ الرِّضَاعَةَ لَا تُحْرِمُ إِلَّا فِي الصِّغَرِ دُونَ الْحَوْلَيْنِ

باب ۷۷۷۔ رضاعت کی حرمت دو سال کی عمر تک ہی ثابت ہوتی ہے۔

۱۰۲۴۔ حضرت ام سلمہؓ کہتی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رضاعت کی حرمت اس صورت میں ثابت ہوتی ہے کہ دودھ بچے کی آنٹوں میں پہنچ کر غذا کے قائم مقام ہو اور یہ دودھ چھڑانے سے پہلے ہو۔ یعنی دودھ

۱۰۲۴۔ حدثنا قتيبة نا ابو عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما

پلانے کی مدت میں۔

فَتَقَّ الْأَمْعَاءَ فِي النَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اس پر صحابہ اور اہل علم کا عمل ہے کہ رضاعت دو سال کے اندر اندر دودھ پینے سے ہی ثابت ہوتی ہے۔ اور جو دو برس کے بعد پیئے اس سے کچھ حرام نہیں ہوتا۔ فاطمہ بنت منذر بن زبیر بن عوام، ہشام بن عروہ کی بیوی ہیں۔

باب ۷۷۸۔ مَا يُذْهَبُ مَلَمَّةَ الرِّضَاعِ

باب ۷۷۸۔ دودھ پلانے والی کے حق کی ادائیگی۔

۱۰۲۵۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ

۱۰۲۵۔ حجاج بن حجاج اسلمی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے

هشام بن عروة عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجِ

رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ میرے ذمے سے دودھ پینے کا حق

الْإِسْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

کس طرح ادا ہو سکتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ایک غلام یا باندی دودھ

وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُذْهَبُ عَنِّي مَلَمَّةَ

پلانے والی کو دے دو تو اس کا حق ادا ہو گیا۔

الرِّضَاعِ فَقَالَ عُزْرَةٌ عَبْدًا أَوْ أَمَةً

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یحییٰ بن سعید قطان، حاتم بن اسماعیل اور کئی راوی ہشام بن عروہ سے وہ اپنے والد سے وہ حجاج بن حجاج سے

اور وہ اپنے والد سے یہ حدیث اسی طرح مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔ سفیان بن عیینہ، ہشام سے وہ اپنے والد سے وہ حجاج بن ابی حجاج سے وہ

اپنے والد سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں۔ لیکن یہ غیر محفوظ ہے۔ صحیح وہی ہے جو کئی راوی ہشام سے اور وہ

اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ ہشام بن عروہ کی کنیت ابو منذر ہے اور ان کی جابر بن عبد اللہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ

”ما یدھب عنی ملزمة الرضاع“ کا معنی یہ ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو دودھ پلانے کے حق کو ادا کر دیتی ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے

فرمایا: اگر تم اپنی دودھ پلانے والی کو غلام یا باندی دے دو تو اس کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ ابو طفیل سے منقول ہے کہ میں آنحضرت ﷺ کے پاس

بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عورت آئی تو آپ ﷺ نے ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی تو وہ اس پر بیٹھ گئیں۔ پھر جب وہ چلی گئیں تو لوگ کہنے لگے کہ

یہ آپ ﷺ کی رضاعی ماں ہیں۔

باب ۷۷۹۔ مَا جَاءَ فِي الْأَمَةِ تُعْتَقُ وَلَهَا زَوْجٌ

باب ۷۷۹۔ شادی شدہ باندی کو آزاد کرنا۔

۱۰۲۶۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرَةَ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ

۱۰۲۶۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ بریرہ کے شوہر غلام تھے لہذا آپ

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ

ﷺ نے انہیں اختیار دے دیا تو انہوں نے خاوند سے علیحدگی اختیار

زَوْجٌ بِرَيْرَةَ عَبْدًا فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کر لی۔ اگر ان کے شوہر آزاد ہوتے تو آپ ﷺ انہیں اختیار نہ دیتے۔

فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيَّرْهَا

ہناؤ، ابو معاویہ سے وہ عشم سے وہ ابراہیم سے اور وہ اسود سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا: کہ بریرہ کا شوہر آزاد تھا۔

اور آپ ﷺ نے انہیں اختیار دیا۔ حضرت عائشہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ ہشام بن عروہ بھی اپنے والد سے اور وہ حضرت عائشہؓ سے اسی

طرح نقل کرتے ہیں کہ بریرہ کا شوہر غلام تھا۔ عکرمہ، ابن عباس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ انہوں نے بریرہ کے شوہر کو دیکھا وہ غلام تھا اور

اسے مغیث کہتے تھے۔ ابن عمر سے بھی اسی طرح منقول ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اسی حدیث پر عمل ہے کہ اگر باندی کو آزاد کیا جائے اور

وہ کسی آزاد شخص کے نکاح میں ہو تو اسے اختیار نہیں لیکن اگر غلام کے نکاح میں ہو تو اسے اختیار ہے شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

کئی راوی عشم سے وہ ابراہیم سے وہ اسود سے اور وہ حضرت عائشہؓ سے یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ بریرہ کا شوہر آزاد تھا اور آپ ﷺ نے اسے

اختیار دیا تھا۔ ابو عوانہ یہ حدیثِ اعمش سے وہ ابراہیم سے وہ اسود سے اور وہ حضرت عائشہ سے بریرہ کا قصہ نقل کرتے ہیں۔ اسود کہتے ہیں کہ بریرہ کا شوہر آزاد تھا۔ اس پر بعض علماء تابعین اور ان کے بعد کے علماء کا قول ہے۔ سفیان ثوری اور اہل کوفہ بھی اسی کے قائل ہیں۔

۱۰۲۷۔ حدیثنا ہنادنا عبدة عن سعید عن ایوب وقتادة عن عكرمة عن ابن عباس ان زوج بريرة كان عبداً اسود ليني المغييرة يوم اُعتقت بريرة والله لكانت بي في طرقي المدينة وتواحيها وان ذمومة لتسبل علي لحيته يترضاها ليتختارة فلم تفعل

۱۰۲۷۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بریرہ جب آزاد کی گئیں تو ان کا خاندان بنو مغیرہ کا سیاہ فام غلام تھا۔ اللہ کی قسم ایسے لگتا ہے کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں میرے سامنے پھر رہا ہے اس کی واڑھی آنسوؤں سے تر ہے اور وہ بریرہ کو اس بات پر راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اسے اختیار کر لے لیکن بریرہ نے ایسا نہیں کیا۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سعید بن ابی عمرو: سعید بن مہران ہیں ان کی کنیت ابو النضر ہے۔

باب ۷۸۰۔ اولاد ہم بستر ہی کی ہے۔

۱۰۲۸۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اولاد ہمبستر (یعنی شوہر) یا باندی کے مالک کی ہے اور زانی کے پتھر ہیں یعنی رجم۔

باب ۷۸۰۔ مَا جَاءَ أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ

۱۰۲۸۔ حدیثنا احمد بن منیع نا سفیان عن الزهري عن سعید بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراس وللعاهر الحجر

اس باب میں حضرت عمرؓ، عثمانؓ، عائشہؓ، ابوامامہؓ، عمرو بن خطابؓ، عبد اللہ بن عمرؓ، براء بن عازبؓ اور زید بن ارقمؓ سے بھی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ زہری یہ حدیث سعید بن مسیب اور ابوسلمہ سے اور وہ ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں اور اسی پر علماء کا عمل ہے۔

باب ۷۸۱۔ وہ شخص جو کسی عورت کو دیکھے اور وہ اسے پسند آجائے۔

۱۰۲۹۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک عورت کو دیکھا تو اپنی بیوی زینبؓ کے پاس داخل ہوئے اور اپنی حاجت پوری کی یعنی صحبت کی اور باہر نکلے تو فرمایا: عورت جب سامنے آتی ہے تو شیطان کی صورت میں آتی ہے۔ لہذا اگر تم میں سے کوئی کسی عورت کو دیکھے اور وہ اسے اچھی لگے تو وہ اپنی بیوی کے پاس جائے کیونکہ اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو اس کے پاس ہے۔

باب ۷۸۱۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَرَى الْمَرْأَةَ فَتُعْجِبُهُ

۱۰۲۹۔ حدیثنا محمد بن بشارنا عبد الاعلی بن عبد الاعلی بن عبد الاعلی نا هشام بن ابی عبد اللہ وهو الدستوالی عن أبي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب فقضى حاجته وخرج وقال ان المرأة اذا اقبلت في صورة شيطان فاذا رأى احدكم امرأة فاعجبته فليات اهلها فان معها مثل الذي معها

اس باب میں ابن مسعودؓ سے بھی روایت ہے۔ حضرت جابرؓ کی حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ ہشام بن ابی عبد اللہ دستوالی کے دوست اور سمر کے صاحبزادے ہیں۔

باب ۷۸۲۔ بیوی پر خاوند کا حق۔

۱۰۳۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ

باب ۷۸۲۔ مَا جَاءَ فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

۱۰۳۰۔ حدیثنا محمود بن غیلان نا النضر بن شهیل نا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ  
يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

اس باب میں حضرت معاذ بن جبل، سراقہ بن مالک بن حنظل، عائشہ، ابن عباس، عبد اللہ بن ابی اویس، طلحہ بن علی، ام سلمہ اور ابن عمر سے بھی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث اس سند سے صحیح ہے۔ یعنی محمد بن عمرو کی ابو سلمہ سے اور ان کی ابو ہریرہ سے روایت ہے۔

۱۰۳۱۔ حدثنا هنادنا ملازم بن عمرو ثنی عبد الله  
بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال  
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الرجل  
دعأ زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنوير  
یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۱۰۳۲۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جو عورت  
اس حالت میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، وہ جنتی  
ہے۔  
۱۰۳۲۔ حدثنا واصل بن عبد الاعلى الكوفى نا  
محمد بن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن ابى  
نصر عن مساور الجميرى عن أبيه أم سلمة قالت  
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة  
باتت وزوجها عنها راضٍ دخلت الجنة  
یہ حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۷۸۳۔ ماجآء فی حق المرأة علی زوجها  
۱۰۳۳۔ حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء نا عبدة  
بن سليمان عن محمد بن عمرو نا أبو سلمة عن  
أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا وخياركم  
خياركم لئنسائهم  
باب ۷۸۳۔ خاندن پر بیوی کا حق۔  
۱۰۳۳۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:  
مسلمانوں میں کامل ترین ایمان والا وہ شخص ہے جو اخلاق میں سب  
سے بہتر ہے اور تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے  
معاملے میں بہترین ہیں۔

اس باب میں عائشہ اور ابن عباس سے بھی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔  
۱۰۳۴۔ حدثنا الحسن بن علي الخلال نا الحسين  
بن علي الجعفي عن زائدة عن شيبان بن غرقدة  
عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال نبي أبي أنه  
شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه  
وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر وعظ وذكر  
۱۰۳۴۔ حضرت سلیمان بن عمرو بن احوص کہتے ہیں کہ ان کے والد نے  
انہیں بتایا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر وہ بھی رسول اللہ ﷺ کے ساتھ  
تھے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اللہ کی حمد و ثنائیاں کی اور وعظ و نصیحت کی  
راوی نے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے ایک قصہ بیان کیا جس میں یہ  
بھی کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: خبردار! عورتوں کے ساتھ خیر خواہی

کے ساتھ پیش آؤ اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قید ہیں اور تم ان پر اس کے علاوہ کوئی اختیار نہیں رکھتے کہ ان سے صحبت کرو۔ ہاں البتہ اگر وہ کھلے طور پر فواحش کا ارتکاب کریں تو انہیں اپنے بستر سے الگ کر دو۔ اور ان کی معمولی پٹائی کرو۔ پھر اگر وہ تمہاری بات ماننے لگیں تو انہیں تکلیف پہنچانے کے راستے تلاش نہ کرو۔ جان لو کہ تمہارا، تمہاری بیویوں پر اور ان کا تم پر حق ہے۔ تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر ان لوگوں کو نہ بٹھائیں جنہیں تم پسند نہیں کرتے بلکہ ایسے لوگوں کو گھر میں بھی نہ داخل ہونے دیں۔ اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں بہترین کھانا اور بہترین کپڑا پہننے کے لیے دو۔

فِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ فَقَالَ آلا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَاثٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا آلا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَاءٍ كُمْ وَلِنِسَاءٍ كُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَمَا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَاءٍ كُمْ فَلَا يُؤْطَفَنَّ فُرُشُكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ آلا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۷۸۴۔ عورتوں کے ساتھ بد فعلی کرنا حرام ہے۔

باب ۷۸۴۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِيْتَانِ النِّسَاءِ فِي أَذْبَارِهِنَّ

۱۰۳۵۔ حضرت علی بن طلحہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی (دیہاتی) آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم میں سے کوئی کسی وقت جنگل میں ہوتا ہے جہاں پانی کی قلت ہوتی ہے وہاں اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے۔ تو وہ کیا کرے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر کبھی ایسا ہو جائے تو وضو کرو اور عورتوں کے ساتھ بد فعلی کا ارتکاب نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے حیا نہیں کرتے۔ (۱)

۱۰۳۵۔ حدثنا احمد بن منيع وهناد قالانا ابو معاوية عن عاصم الاحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلح قال اتى اعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله منا يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ فَتَكُونُ مِنْهُ الرُّوِيْحَةُ وَتَكُونُ فِي الْمَاءِ فَلَئِمَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ

اس باب میں عمر، خزیمہ بن ثابت، ابن عباس اور ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے۔ حضرت طلحہ بن علی کی حدیث حسن ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں: میں علی بن طلحہ کی آنحضرت ﷺ سے اس حدیث کے علاوہ کوئی حدیث نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی طلحہ بن علیؓ کی ہو گیا کہ ان کے خیال میں یہ کوئی اور صحابی ہیں۔ و کج بھی یہ حدیث روایت کرتے ہیں۔

۱۰۳۶۔ حدثنا قتيبة وغير واحد قالوا نا وكيع عن عبد الملك بن مسلم وهو ابن سلام عن أبيه عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسأ

۱۰۳۶۔ حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم میں سے کسی کی ہوا خارج ہو جائے تو وہ وضو کرے اور عورتوں کے ساتھ پیچھے سے بد فعلی نہ کرو۔

(۱) بد فعلی سے مراد یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ دبر (مقعد) میں صحبت کی جائے اور صحیح جگہ یعنی قبل کو چھوڑ دیا جائے۔ (مترجم)

أَخَذَكُمْ فَلَيْتَوَضُّا وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْمَارِهِنَّ

یعلیٰ طلق ہی کے بیٹے ہیں۔

۱۰۳۷۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ (قیامت کے دن) اس شخص کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ جس نے کسی مرد یا عورت کے پیچھے سے جماع کیا ہوگا۔

۱۰۳۷۔ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ نَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَثْمَانَ عَنِ مَخْرَمَةَ بْنِ سَلِيمَانَ عَنِ كُرَيْبِ بْنِ أَبِي عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ آتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي الدُّبْرِ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۷۸۵۔ عورتوں کے بناؤ سنگھار کر کے نکلنے کی ممانعت  
۱۰۳۸۔ آنحضرت ﷺ کی خادمہ میمونہ بنت سعدؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اپنے شوہر کے علاوہ دوسروں کے لیے بناؤ سنگھار کرنے کے بعد نازنخرے سے چلنے والی عورت اس طرح ہے جیسے قیامت کے دن کا اندھیرا جس میں روشنی کا شائبہ تک نہیں۔

باب ۷۸۵۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الزَّيْنَةِ  
۱۰۳۸۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ نَا عَمِيسَى بِنِ يُونُسَ عَنِ مُوسَى بْنِ عَبِيدَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ مَيْمُونَةَ ابْنَةِ سَعْدٍ وَكَانَتْ خَادِمَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الرَّافِلَةِ فِي الزَّيْنَةِ فِي غَيْرِ أَهْلِهَا كَمَثَلِ ظُلْمَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا نُورَ لَهَا

اس حدیث کو ہم صرف موسیٰ بن عبیدہ کی ہی روایت سے جانتے ہیں اور وہ حافظے کی وجہ سے ضعیف ہیں لیکن صدوق ہیں۔ شعبہ اور ثوری ان سے روایت کرتے ہیں۔ بعض راوی یہ حدیث موسیٰ بن عبیدہ ہی سے غیر مرفوع بھی نقل کرتے ہیں۔

باب ۷۸۶۔ غیرت کے متعلق

باب ۷۸۶۔ مَا جَاءَ فِي الْغَيْرَةِ

۱۰۳۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ بہت غیرت والے ہیں۔ اسی طرح مؤمن بھی غیرت مند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس وقت غیرت آتی ہے جب مؤمن کسی حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے۔

۱۰۳۹۔ حَدَّثَنَا حَمِيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ نَا سَفِيَانُ بْنُ حَبِيبٍ عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ عَنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُعَارُ وَالْمُؤْمِنُ يُعَارُ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ بَاتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ

اس باب میں عائشہؓ اور عبداللہ بن عمرؓ سے بھی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن غریب ہے یحییٰ بن کثیر بھی یہ حدیث ابوسلمہ سے وہ عذرہ سے وہ اسماء بنت ابوبکرؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتی ہیں۔ یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ حجاج صواف: حجاج بن ابوعثمان ہیں ان کا نام میسرہ ہے حجاج کی کنیت ابوصلت ہے۔ یحییٰ بن سعید قطان کے نزدیک ثقہ ہیں۔ ابویحییٰ، ابوبکر بن عطار سے اور وہ علی بن عبداللہ مدنی سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے یحییٰ بن سعید قطان سے حجاج صواف کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا: وہ بہت عقلمند اور ہوشیار ہیں۔

باب ۷۸۷- مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ وَحَدَّهَا

۱۰۴۰۔ حدثنا احمد بن منيع نا ابو معاوية عن  
الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد قال قال  
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة  
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً فيكون ثلثة  
أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها وأخوها أو زوجها  
أو ابنها أو ذو محرم منها

باب ۷۸۷- عورت کا اکیلے سفر کرنا صحیح نہیں۔

۱۰۴۰۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کسی ایسی  
عورت کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو جائز نہیں  
کہ تین دن یا اس سے زیادہ کا سفر اپنے والد، بھائی، شوہر، بیٹے یا کسی  
محرم کو ساتھ لیے بغیر کرے۔

اس باب میں ابو ہریرہ، ابن عباس اور ابن عمر سے بھی حدیثیں منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ آپ ﷺ سے یہ بھی منقول ہے  
کہ کوئی عورت ایک دن ورات کا سفر بغیر محرم کے نہ کرے۔ علماء اسی پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عورت کا محرم کے بغیر سفر کرنا حرام  
ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت حج کی استطاعت رکھتی ہو لیکن اس کا کوئی محرم نہ ہو تو اس کے متعلق علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ  
اس پر حج واجب نہیں کیونکہ محرم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”من استطاع اليه سبيلاً“ یعنی حج اسی پر واجب ہے  
جس میں جانے کی استطاعت ہو۔ اور یہ عورت استطاعت نہیں رکھتی کیونکہ اس کا کوئی محرم نہیں۔ سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا بھی یہی قول  
ہے لیکن بعض علماء کا کہنا ہے کہ اگر راستے میں امن ہو تو وہ حج کے قافلے کے ساتھ جائے۔ مالک اور شافعی بھی اسی کے قائل ہیں۔

۱۰۴۱۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی  
عورت ایک رات و دن کی مسافت کا سفر بغیر محرم کے نہ کرے۔

۱۰۴۱۔ حدثنا الحسن بن علي الخلال نا بشر بن  
عمر نا مالك بن انس عن سعيد بن ابي سعيد عن  
أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله  
عليه وسلم لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا  
ومعها ذو محرم

باب ۷۸۸- غیر محرم عورتوں سے خلوت کی ممانعت۔

باب ۷۸۸- مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الدُّخُولِ عَلَى  
الْمُغِيَّبَاتِ

۱۰۴۲۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:  
عورتوں کے پاس داخل ہونے سے پرہیز کرو۔ ایک انصاری شخص نے  
عرض کیا یا رسول اللہ! حمو کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ فرمایا: حمو تو موت  
ہے۔ (۱)

۱۰۴۲۔ حدثنا قتيبة نا الليث عن يزيد بن ابي  
حبيب عن ابي الخير عن عقبه بن عامر ان رسول  
الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على  
النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت  
الحمو قال الحمو الموت

(۱) حمو: شوہر کے والد اور اس کے بیٹوں کے علاوہ دوسرے عزیز و اقارب کو کہا جاتا ہے آپ ﷺ نے اسے موت سے تشبیہ دی ہے کہ ان سے موت ہی کی طرح  
پرہیز کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم (مترجم)

اس باب میں عمر، جابر اور عمرو بن عاصؓ نے بھی روایت ہے۔ حضرت عقبہ بن عامرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ عورتوں کے پاس داخل ہونے سے ممانعت کا مطلب اسی طرح ہے جیسے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”کوئی شخص جب کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں رہتا ہے تو ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے“، شوہر کے بھائیوں کو کہتے ہیں گویا کہ آپ ﷺ نے دیور کی عورت کے ساتھ تہا رہنے کی ممانعت فرمائی ہے۔

باب ۷۸۹۔

باب ۸۹۔ بلا عنوان

۱۰۴۳۔ حدثنا نصر بن علی نا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن جابر عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَلْجُوا عَلَيَّ الْمُعِيَّاتِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ قُلْنَا وَمِنْكَ قَالَ وَمِنِّي عَلَيْهِ فَاسْلَمَ

۱۰۴۳۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جن عورتوں کے شوہر گھروں میں موجود نہ ہوں ان کے ہاں مت داخل ہو۔ کیونکہ شیطان تم میں سے ہر ایک کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا رہتا ہے۔ ہم نے عرض کیا آپ ﷺ کے بدن میں بھی؟ فرمایا: ہاں لیکن اللہ تعالیٰ نے میری اس پردہ دہ کی اور میں اس سے محفوظ ہوں۔

یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔ بعض علماء مجالد بن سعید کے حافظے میں کلام کرتے ہیں۔ علی بن خشرم، سفیان بن عیینہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے اس قول ”کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور وہ اسلام لے آیا“ کا مقصد یہ ہے کہ میں اس کے شر سے محفوظ رہتا ہوں۔ سفیان کہتے ہیں کہ شیطان تو اسلام نہیں لاتا۔ نیز ”مغیبہ“ اس عورت کو کہتے ہیں جس کا خاندان غیر موجود ہو یعنی کسی سفر پر گیا ہو اور ”مغیبات“ اس کی جمع ہے۔

باب ۷۹۰۔

باب ۹۰۔ بلا عنوان

۱۰۴۴۔ حدثنا محمد بن بشار نا عمرو بن عاصم نا همام عن قتادة عن مروق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

۱۰۴۴۔ حضرت عبداللہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عورت کے لیے پردہ ضروری ہے کیونکہ جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اسے بہکانے کے لیے موقع تلاش کرتا رہتا ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۷۹۱۔

باب ۹۱۔ بلا عنوان

۱۰۴۵۔ حدثنا الحسن بن عرفة نا اسمعيل بن عياش عن بحير ابن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُؤْذِي امْرَأَةً زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ لَا تُؤْذِيهِ قَاتَلِكِ اللهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَجِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكَ إِلَيْنَا

۱۰۴۵۔ حضرت معاذ بن جبلؓ، آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جب کوئی بیوی دنیا میں اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے تو اس کی جنت والی بیوی (حور) کہتی ہے: تجھ پر اللہ کی مار! اپنے شوہر کو تکلیف نہ پہنچا کیونکہ وہ دنیا میں تیرا مہمان ہے اور جلد ہی تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آجائے گا۔

یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں اور اسماعیل بن عیاش کی اہل شام سے منقول احادیث بہتر ہیں جب کہ وہ اہل جاز اور اہل عراق سے منکر احادیث بھی نقل کرتے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَبْوَابُ الطَّلَاقِ وَاللِّعَانِ

عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَاب ۷۹۲ - مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ

۱۰۴۶ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ يُوْنُسَ بْنِ سَيْبِ بْنِ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ عُمَرَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ قُلْتُ فَيَعْتَدُ بِتِلْكَ الطَّلِيقَةِ قَالَ فَمَهْ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحَمَقَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

طلاق اور لعان کے متعلق

آنحضرت ﷺ سے منقول احادیث کے ابواب

باب ۷۹۲۔ طلاق سنی کے متعلق

۱۰۴۶۔ یونس بن جبیر کہتے ہیں میں نے ابن عمرؓ سے اس شخص کے متعلق پوچھا جو اپنی بیوی کو ایام حیض میں طلاق دیتا ہے فرمایا: عبد اللہ بن عمرؓ کو جانتے ہو؟ انہوں نے بھی اپنی بیوی کو حیض کے دوران ہی طلاق دی تھی جس پر حضرت عمرؓ نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا تو آپ ﷺ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کریں۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا: کیا وہ طلاق بھی گنی جائے گی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: خاموش رہو! اگر وہ عاجز اور پاگل ہو جائیں تو کیا ان کی طلاق نہیں گنی جائے گی۔ (یعنی ایسا سوال۔ کیوں کرتے ہو وہ یقیناً گنی جائے گی۔

توضیح: طلاق کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) طلاق رجعی: اس میں نکاح نہیں ٹوٹتا بلکہ عدت کے دوران بغیر نکاح کیے رجوع کیا جاسکتا ہے۔

(۲) طلاق بائن: اس میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جس میں دوبارہ نکاح پڑھنے کے بعد (ازدواجی تعلقات قائم کیے جاسکتے ہیں اور دوسری وہ جس میں حلالہ کیے بغیر اس عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ عموماً فقہاء بائن کی پہلی قسم کو طلاق بائن اور دوسری کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں۔

پھر طلاق کے الفاظ دو طرح کے ہوتے ہیں۔

(۱) صریح یعنی ایسے الفاظ جن سے اس زبان میں طلاق کے علاوہ کوئی اور معنی مراد نہ لیے جاسکیں جیسے کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ میں نے تجھے طلاق دی یا تو مطلق ہے یا تجھ کو طلاق ہے یا میں نے تجھ کو چھوڑ دیا یہ تمام الفاظ صریح ہیں اور ان کے ادا ہوتے ہی طلاق واقع ہو جاتی ہے خواہ نیت ہو یا نہ ہو۔ مذاق میں کہے ہوں یا سنجیدگی میں۔

(۲) کنایہ: ایسے الفاظ جن کے اور معنی بھی مراد لیے جاسکتے ہوں اور طلاق کے بھی صریح الفاظ سے طلاق دینے کی تین قسمیں ہیں اور ہر ایک کا حکم علیحدہ علیحدہ ہے۔

(۱) طلاق رجعی: اگر کسی عورت کو صریح الفاظ میں ایک یا دو طلاقیں دی گئی ہوں اور پھر عدت کے اندر اس کا شوہر اس سے دوبارہ ازدواجی تعلقات کی خواہش رکھتا ہو تو وہ رجوع کر سکتا ہے۔ چاہے بیوی راضی ہو یا نہ ہو۔

(۲) طلاق بائن: اگر ایک یا دو طلاقیں دیں اور پھر عدت کے دوران رجوع نہیں کیا تو اگر ایک طلاق دی تھی تو ایک طلاق بائن اور اگر دو دی تھیں تو دو طلاق بائن ہو گئیں اب وہ شخص اسے بغیر نکاح کیے اپنی بیوی نہیں بنا سکتا جس کے لیے ظاہر ہے کہ عورت کی رضامندی بھی ضروری ہے۔

(۳) طلاق مغلظہ: اگر کسی شخص نے ایک یا دو کے بجائے تین طلاقیں دے دی ہیں تو اب نہ وہ اس سے رجوع کر سکتا ہے اور نہ ہی اس سے نکاح کر سکتا ہے بلکہ اسے دوبارہ بیوی بنانے کے لیے حلالہ ضروری ہے۔

کنایہ کے الفاظ (مثلاً یہ کہے کہ اب تجھ سے کوئی واسطہ نہیں یا اب تیرا میرا نباہ نہیں ہوگا یا میرے گھر سے نکل جاؤ وغیرہ وغیرہ سے طلاق دینے کا حکم یہ ہے کہ اگر ایک کی نیت تھی تو ایک اور دو طلاق کنایہ دیں اور نیت بھی دو ہی کی تھی تو بھی یہ ایک طلاق بائن ہی ہوگی یعنی اس صورت میں دوبارہ نکاح ممکن ہے لیکن اگر اس نے تین طلاق بائن کی نیت کی تھی تو یہ بھی مغلظہ ہوگی۔ جس کا حکم اوپر مذکور ہے۔

طلاق مغلظہ دو طرح کے الفاظ سے واقع ہوتی ہے ایک تو یہ کہ کسی شخص نے بیوی سے کہا کہ میں نے تمہیں تین طلاقیں دیں یا تین بار لفظ طلاق دہرایا۔ دوسرے یہ کہ ایک آج دوسری کل اور تیسری تیسرے روز یا دو چار روز بعد یا کچھ مدت کے بعد دی۔ ہر صورت میں تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ البتہ اگر کنایہ کے الفاظ سے دی ہوں تو اس کی نیت دریافت کی جائے گی لیکن اگر وہ تین مرتبہ کنایہ کے الفاظ سے طلاق دینے کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ اس کی نیت ایک ہی کی تھی تو اس کا قول معتبر نہیں ہوگا بلکہ تین ہی مانی جائیں گی۔

تنبیہ: اب ذیل میں طلاق دینے کا صحیح طریقہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اس حیثیت سے طلاق کی تین قسمیں ہیں۔

(۱) احسن (۲) حسن (۳) بدعی

(۱) طلاق احسن: اگر کوئی شخص طلاق دینے کا ہی فیصلہ کر لے تو اسے چاہئے کہ ایک ہی مرتبہ تین طلاقیں نہ دے۔ بلکہ صرف ایک طلاق رجعی دے اور طہر یعنی حیض سے پاک ہونے کے ایام میں دے۔ بشرطیکہ ان ایام میں جماع نہ کیا ہو۔ اور پھر عدت گزرنے تک اسے دوسری طلاق نہ دے۔ چنانچہ عدت پوری ہوتے ہی وہ عورت اس پر حرام ہو جائے گی لیکن اب بھی اس سے دوبارہ نکاح کی گنجائش باقی رہے گی یہ طریقہ احسن یعنی سب سے بہتر اس لیے کہا جاتا ہے کہ طلاق دینے والے کو عدت تک کی مدت اپنے فیصلے پر نظر ثانی اور غور و فکر کرنے کے لیے مل جاتی ہے اگر چاہے تو عدت ہی میں رجوع کر لے ورنہ بعد میں باہمی رضامندی سے نکاح بھی ہو سکتا ہے۔

(۲) طلاق حسن: اس کی یہ صورت ہے کہ بالغ عورت جس سے جماع بھی کر چکا ہو (مدخول بہا) اسے طہر یعنی پاکی کے زمانے میں ایک طلاق دے اس قسم میں بھی طہر میں جماع نہ کرنے کی شرط موجود رہے گی۔ پھر دوسرے حیض والے طہر کا انتظار کرے اور اس میں دوسری طلاق دے اور اگر اب بھی وہ اپنے فیصلے پر قائم ہے نام نہیں تو پھر تیسری طلاق بھی دے دے۔ اس کے بعد عورت اس پر حرام ہو جائے گی۔ طہر میں جماع نہ کرنے کی شرط اسی صورت میں ہے کہ وہ طلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہو لہذا اگر رجعت مقصود ہو تو یقیناً کر سکتا ہے۔ اس قسم میں بھی مرد کو سوچنے اور نظر ثانی کرنے کے لیے دو ماہ کا موقع مل جاتا ہے۔ اسی طرح عورت کو بھی موقع ملتا ہے کہ اپنے شوہر کو رجوع کے لیے رضامند کر لے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ نابالغ لڑکی یا اتنی بوڑھی عورت جسے حیض نہ آتا ہو، ان کا حکم یہ ہے کہ انہیں ہر ماہ ایک طلاق دی جائے یہ صورت احسن سے کم درجے کی ہے لیکن بہتر ہے۔

(۳) طلاق بدعی: اگر ایک ہی وقت میں دو یا تین طلاقیں دی جائیں یا حیض کی حالت میں طلاق دی جائے یا اس طہر میں دی جائے جس میں جماع کر چکا ہو تو ان سب صورتوں میں طلاق کے واقع ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں لیکن طلاق دینے والا گنہگار ہوگا۔

نوٹ: طلاق احسن کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ طلاق دینا پسندیدہ کام ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ طلاق دینے کا یہ طریقہ صحیح ہے۔

یہاں ایک اور مسئلہ بھی نہایت اہم ہے کہ نو برس سے کم عمر لڑکی یا ایسی نابالغ لڑکی جس سے اس کے شوہر نے ابھی جماع نہ کیا ہو (اسے

شریعت میں غیر مدخول بہا کہتے ہیں) اور مدخولہ عورت کے احکام میں فرق ہے۔

(۱) غیر مدخولہ کے لیے صریح اور کناہیہ۔

دونوں قسم کے الفاظ سے طلاق دینے پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی رجعی نہیں ہوگی ایک دے تو ایک وغیرہ وغیرہ۔

(۲) غیر مدخولہ کے عدت گزارنا واجب نہیں وہ اسی وقت دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔

(۳) اگر اس کو ایک طلاق دے دی تو دوسری اور تیسری دینے کا حق باقی نہیں رہا۔

(۴) غیر مدخولہ پر تین طلاقیں اسی صورت میں واقع ہوتی ہیں کہ اس کا شوہر ایک ہی مرتبہ تین طلاقیں دے مثلاً کہے میں نے تجھے

تین طلاقیں دیں چنانچہ اگر تین کے عدد کے ساتھ طلاق نہیں دی تو تین واقع نہیں ہوں گی مثلاً کہے میں نے تجھے طلاق دی، طلاق دی،

طلاق دی۔ چنانچہ اس کے منہ سے پہلا لفظ نکلتے ہی طلاق بائن واقع ہوگی اور باقی دو طلاقیں لغو ہو گئیں جب کہ مدخولہ عورت یعنی جس سے

جماع کر چکا ہو، اسے ایک کے بعد دوسری اور تیسری طلاق بھی دے سکتا ہے اور یہ واقع بھی ہو جاتی ہیں۔ خواہ وہ عدد کا ذکر کر کے دے یا

تین مرتبہ الفاظ دہرائے۔ جتنی دے گا اتنی واقع ہو جائیں گی۔ واللہ اعلم (مترجم)

۱۰۴۷۔ حدیثنا ہنادنا و کعب عن سفیان عن محمد

بن عبد الرحمن مولیٰ الی طلحة عن سالم عن ابيہ

انہ طلق امراتہ فی الحيض فسأل عمر النبي صلى

الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها

طاهرا او حاملا

۱۰۴۷۔ حضرت یونس بن جبیر کی ابن عمر سے اور سالم کی اپنے والد سے منقول حدیث دونوں حسن صحیح ہیں۔ یہ دوسری حدیث حضرت ابن

عمرؓ سے کئی سندوں سے منقول ہے۔ اس پر علماء صحابہ اور دیگر علماء کا عمل ہے کہ طلاق سنت کی یہی صورت ہے کہ ایسے طہر (یعنی پاکی کے

ایام) میں دی جائے جس میں جماع نہ کیا ہو۔ بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک طہر میں ایک دینا بھی سنت ہے۔ امام شافعی اور احمد کا بھی

یہی قول ہے جب کہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ طلاق سنت اسی صورت میں ہوگی کہ ایک ہی طلاق دے۔ ثوری اور اسحاق کا بھی یہی قول

ہے۔ شافعی، احمد اور اسحاق یہ بھی کہتے ہیں کہ حاملہ کو کسی بھی وقت طلاق دی جاسکتی ہے جب کہ بعض علماء کے نزدیک اسے ہر ماہ ایک

طلاق دی جائے گی۔

باب ۷۹۳۔ ما جاء فی الرجل طلق امراته البتة

۱۰۴۸۔ حدیثنا ہنددنا قبیصہ عن جریر بن حازم

عن الزبیر بن سعید عن عبد الله بن یزید بن ركانة

عن ابيہ عن جدہ قال اتيت النبي صلى الله عليه

وسلم فقلت يا رسول الله اني طلق امراتي البتة

فقال ما اردت بها قلت واحدة قال والله قلت والله

قال فهو ما اردت

۱۰۴۸۔ حضرت عبد اللہ بن یزید بن رکانہ اپنے والد سے اور وہ ان کے

دادا سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: میں حضور ﷺ کی خدمت

میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق البتہ دے دی

ہے۔ آپ ﷺ نے پوچھا: اس سے تمہاری مراد کتنی طلاقیں تھیں؟ میں

نے کہا: ایک فرمایا: اللہ کی قسم؟ میں نے کہا جی ہاں۔ چنانچہ آپ ﷺ نے

فرمایا: لہذا ایک ہی واقع ہوئی۔

اس حدیث کو ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ علماء صحابہ کا لفظ ”البتہ“ کے استعمال میں اختلاف ہے کہ اس سے کتنی طلاقیں واقع ہوتی ہیں جب کہ حضرت علی کا کہنا ہے کہ اس سے تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں لیکن بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ طلاق دینے والے کی نیت پر موقوف ہے اگر ایک کی نیت ہو تو ایک اور اگر تین کی نیت ہو تو تین واقع ہوتی ہیں۔ لیکن اگر دو کی نیت کرے تو ایک ہی واقع ہوگی۔ ثوری اور اہل کوفہ کا بھی یہی قول ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ اگر ان الفاظ سے طلاق دے اور اس سے صحبت کر چکا ہو تو تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر ایک کی نیت ہو تو ایک واقع ہوگی اور رجوع کا اختیار باقی رہے گا اور اگر دو کی نیت ہو تو دو اور تین کی نیت کرنے پر تین طلاقیں واقع ہوں گی۔

باب ۷۹۴۔ مَا جَاءَ فِي أَمْرِكَ بَيْنَكَ

باب ۹۴۔ عورت سے کہنا کہ تمہارا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔

۱۰۴۹۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ بْنِ عَلِيٍّ نَا سُلَيْمَانَ بْنَ حَرْبٍ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَيُّوبَ هَلْ عَلِمْتَ أَحَدًا قَالَ فِي أَمْرِكَ بَيْنَكَ إِنَّهَا ثَلَاثٌ إِلَّا الْحَسَنَ قَالَ لَا إِلَّا الْحَسَنَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ غَفِّرَا إِلَّا مَا حَدَّثَنِي قَتَادَةَ عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى بَنِي سَمُرَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ قَالَ أَيُّوبَ فَلَقِيبْتُ كَثِيرًا مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ فَرَجَعْتُ إِلَى قَتَادَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ نَسِيَ

۱۰۴۹۔ علی بن نصر بن علی، سلیمان بن علی، حرب بن زید سے اور وہ حماد بن زید سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: میں نے ایوب سے پوچھا: کیا آپ حسن کے علاوہ کسی اور شخص کو جانتے ہیں جس نے کہا کہ ”بیوی سے یہ کہنے سے کہ ”تمہارا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے“ تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ کہنے لگے: نہیں صرف حسن ہی اس طرح کہتے ہیں پھر فرمایا: اے اللہ مغفرت فرما مجھے یہ حدیث قتادہ سے سنی انہوں نے قبیلہ بنو سمرہ کے غلام کثیر سے انہوں نے ابوسلمہ سے انہوں نے ابو ہریرہ سے اور انہوں نے آنحضرت ﷺ سے نقل کی کہ آپ ﷺ نے فرمایا: تین طلاقیں ہو گئیں۔ ایوب کہتے ہیں پھر میں نے کثیر سے ملاقات کی اور ان سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اس سے اعلیٰ کا اظہار کیا۔ پھر میں دوبارہ قتادہ کے پاس گیا اور انہیں بتایا تو کہنے لگے کہ وہ بھول گئے ہیں۔

یہ حدیث ہم صرف سلیمان بن حرب کی حماد بن زید سے روایت سے جانتے ہیں۔ میں نے امام بخاری سے اس کے متعلق پوچھا تو فرمایا: ہم سے بھی سلیمان بن حرب، حماد بن زید سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں۔ اور یہ حضرت ابو ہریرہ پر موقوف ہے یعنی انہی کا قول ہے۔ علی بن نصر حافظ اور صاحب حدیث ہیں۔ علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو اختیار دیتے ہوئے یہ کہے کہ ”تمہارا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے“ تو کتنی طلاقیں واقع ہوتی ہیں۔ بعض علماء صحابہ جن میں عمر اور عبد اللہ بن مسعود بھی شامل ہیں کہتے ہیں کہ اس سے ایک ہی واقع ہوگی۔ اور یہ تابعین اور ان کے بعد کے علماء میں سے کئی حضرات کا قول ہے۔ عثمان بن عفان اور زید بن ثابت کہتے ہیں کہ یہ عورت پر موقوف ہے یعنی وہ جتنی بھی کہے گی اسی کے قول کا اعتبار ہوگا۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اختیار دے دے اور وہ خود کو تین طلاقیں دے دے اس صورت میں اگر خاوند کا دعویٰ ہو کہ اس نے صرف ایک ہی طلاق کا اختیار دیا تھا تو اس سے حلف لیا جائے گا اور اسی کے قول کا اعتبار ہوگا۔ سفیان ثوری اور اہل کوفہ حضرت عمر اور عبد اللہ بن مسعود کے مسلک پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن مالک کہتے ہیں کہ اس میں عورت کا قول معتبر ہوگا۔ امام احمد بھی اسی کے قائل ہیں جب کہ اسحاق حضرت ابن عمر کے قول پر عمل کرتے ہیں۔

## باب ۷۹۵۔ مَا جَاءَ فِي الْخِيَارِ

## باب ۷۹۵۔ بیوی کو طلاق کا اختیار دینا۔

۱۰۵۰۔ حدثنا محمد بن بشار نا عبد الرحمن بن مهدى نا سفيان عن اسماعيل بن ابى خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه افكان طلاقا

۱۰۵۰۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ہمیں آنحضرت ﷺ نے طلاق یا آپ ﷺ کے ساتھ رہنے کا اختیار دیا تھا۔ ہم نے آپ ﷺ کے ساتھ رہنے کا اختیار کیا۔ تو کیا یہ طلاق ہوئی؟

بندار، عبد الرحمن بن مهدی سے وہ سفیان سے وہ اعمش سے وہ ابوحنیٰ سے وہ مسروق سے اور وہ حضرت عائشہؓ سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور بیوی کو اختیار دینے کے مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ اور عبد اللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق کا اختیار دے دے اور وہ خود کو طلاق دیدے تو یہ ایک بائن ہوگی۔ ان سے یہ بھی منقول ہے کہ وہ ایک طلاق رجعی بھی دے سکتی ہے لیکن اگر وہ اپنے شوہر کو اختیار کرے تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت علیؓ سے منقول ہے کہ اگر وہ خود کو اختیار کرے گی تو ایک طلاق بائن اور اگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا اختیار کرے گی تو بھی ایک طلاق رجعی ہوگی۔ حضرت زید بن ثابتؓ کہتے ہیں کہ اگر اس نے اپنے شوہر کو اختیار کیا تو ایک اور اگر خود کو اختیار کرے گی تو تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اکثر فقہاء و علماء صحابہ اور ان کے بعد کے علماء کی اکثریت حضرت عمرؓ اور عبد اللہ بن مسعودؓ کے قول پر عمل کرتی ہے۔ سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا بھی یہی قول ہے۔ لیکن امام احمد حضرت علیؓ کے قول پر عمل کرتے ہیں۔

## باب ۷۹۶۔ مَا جَاءَ فِي الْمُطَلَّغَةِ ثَلَاثًا لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ

## باب ۷۹۶۔ جس عورت کو تین طلاقیں دی گئی ہوں، اس کا روٹی، کپڑا اور رہائش کا بند و بست شوہر کے ذمے نہیں۔

۱۰۵۱۔ حدثنا هنادنا جرير عن مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا سُكْنَى لَكَ وَلَا نَفَقَةَ قَالَ مُغِيرَةُ فَذَكَرْتُهُ لِأَبِرَاهِيمَ فَقَالَ قَالَ عُمَرُ لَا نَدْعُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي أَحْفَظْتَ أَمْ نَسِيتُ فَكَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ

۱۰۵۱۔ حضرت شعبی کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت قیسؓ نے فرمایا: میرے شوہر نے رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں مجھے تین طلاقیں دیں تو آپ ﷺ نے فرمایا: تیرے شوہر پر تیرے روٹی کپڑے اور رہائش کا بند و بست واجب نہیں۔ مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے جب ابراہیم سے اس حدیث کا تذکرہ کیا تو کہنے لگے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا: ہم اللہ کی کتاب اور اپنے نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی سنت کو ایک عورت کے قول کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے جس کے متعلق ہمیں یہ بھی معلوم نہ ہو کہ اسے یاد بھی ہے یا بھول گئی ہے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ مطلقہ کے عدت تک کے اخراجات (یعنی روٹی کپڑا اور مکان) شوہر کے ذمے لگایا کرتے تھے۔

۱۰۵۲۔ حدثنا احمد بن منيع نا هشيم ابنانا حصين و اسماعيل و مجالد قال هشيم و ناداؤد ايضا عن الشعبي قال دخلت على فاطمة ابنة قيس فسألته عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم

۱۰۵۲۔ شعبی کہتے ہیں کہ میں فاطمہ بنت قیسؓ کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ آنحضرت ﷺ نے آپ کے معاملے میں کیا فیصلہ فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا: ان کے شوہر نے انہیں ”طلاق البتہ“ (تین طلاقیں) دی تو میں نے ان سے نان نفقہ اور رہائش کے لیے جھگڑا کیا۔ لیکن آپ

فِيهَا فَقَالَتْ طَلَّقَهَا زَوْجَهَا الْبَتَّةَ فَخَاصَمْتُهُ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ وَفِي حَدِيثِ دَاوُدَ قَالَتْ وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَ فِي بَيْتِ أُمِّ مَكْتُومٍ

ﷺ نے انہیں یہ چیزیں نہیں دلوائیں۔ داداؤ کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ ”پھر مجھے حکم دیا کہ ام مکتوم کے گھر عدت کے دن گزاروں۔“

یہ حدیث حسن صحیح ہے جس بصری، عطاء بن ابی رباح، شععی، احمد اور اسحاق وغیرہ کا یہی قول ہے کہ جب خاوند کے پاس رجوع کا اختیار باقی نہ رہے تو رہائش اور نان نفقہ بھی اس کے ذمے نہیں رہتا۔ لیکن بعض علماء صحابہ جن میں عمر بن خطابؓ اور عبداللہ بن مسعودؓ بھی شامل ہیں کہتے ہیں کہ تین طلاق کے بعد بھی عدت پوری ہونے تک یہ چیزیں مہیا کرنا شوہر ہی کے ذمے ہے۔ سفیان ثوری اور اہل کوفہ اسی کے قائل ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ شوہر کے ذمے صرف رہائش کا بندوبست رہ جاتا ہے نان نفقہ نہیں۔ مالک، لیث اور شافعی کا بھی یہی قول ہے۔ شافعی اپنے قول کی یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ”لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بَيْوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ“ اپنی عورتوں کو گھروں سے نہ نکالو اور وہ خود بھی نہ نکلیں۔ ہاں اگر وہ کھلے طور پر فواحش کا ارتکاب کریں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فاطمہ بنت قیس کو اس لیے عدت پوری کرنے کے لیے گھر نہیں دلوایا کہ وہ سخت کلامی کرتی تھیں۔ پھر اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شوہر کے ذمے اس کا نان نفقہ نہیں۔

باب ۷۹۷۔ مَا جَاءَ لَا طَلَّاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

باب ۷۹۷۔ نکاح سے پہلے طلاق واقع نہیں ہوتی۔

۱۰۵۳۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذْرَ لِأَبْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ لَهُ فِي مَا لَا يَمْلِكُ وَلَا طَلَّاقَ لَهُ فِي مَا لَا يَمْلِكُ

۱۰۵۳۔ عمرو بن شعیب اپنے والد اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ابن آدم جس چیز پر ملکیت نہیں رکھتا اس میں اس کی نذر صحیح نہیں۔ اسی طرح ایسے غلام یا باندی کو آزاد کرنا بھی صحیح نہیں جس کا وہ مالک نہیں اسے طلاق بھی نہیں دے سکتا۔

اس باب میں علیؓ، معاذؓ، جابرؓ ابن عباسؓ اور عائشہؓ سے بھی روایت ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں اصح حدیث ہے اکثر علماء صحابہ وغیرہ کا یہی قول ہے۔ علی بن ابی طالبؓ، ابن عباسؓ، جابر بن عبداللہؓ، سعید بن مسیب، حسن، سعید بن جبیر، علی بن حسین، شریح اور جابر بن زید سے بھی یہی منقول ہے کئی فقہائے تابعین اور شافعی کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت ابن مسعودؓ سے منقول ہے کہ اگر عورت یا قبیلے کا تعین کر کے کہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے یعنی جیسے ہی وہ نکاح کرے گا طلاق واقع ہو جائے گی۔ سفیان ثوری اور امام مالک کا بھی یہی قول ہے یہ دونوں مزید کہتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا نام لے کر یا کسی وقت یا قبیلے کی تعین کر کے طلاق دے تو اگر وہ اس عورت سے نکاح کرے گا تو اسے طلاق ہو جائے گی لیکن ابن مبارک اس مسئلے میں شدت اختیار کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے وہ عورت حرام بھی نہیں ہوتی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص نکاح نہ کرنے پر طلاق کی قسم کھالے۔ یعنی کہے کہ اگر میں نے نکاح کیا تو میری بیوی کو طلاق ہے۔ پھر تھوڑے عرصے بعد اسے نکاح کی خواہش ہوئی تو کیا اس کے لیے ان فقہاء کے قول پر عمل جائز ہے جو اس کی اجازت دیتے ہیں؟ ابن مبارک نے فرمایا: اگر وہ اس مسئلے میں مبتلا ہونے سے پہلے ان کے قول کو صحیح سمجھتا تھا تو اب بھی اس پر عمل کر سکتا ہے لیکن اگر پہلے اجازت نہ دینے والے فقہاء کے قول کو ترجیح دیتا تھا تو اب بھی اجازت دینے والے فقہاء کے قول پر عمل کرنا جائز نہیں۔

احمد کہتے ہیں کہ اگر اس نے نکاح کر لیا تو میں اسے بیوی کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیتا۔ اسحاق کہتے ہیں میں کسی متعین قبیلے، شہر یا عورت کے متعلق حضرت ابن مسعودؓ کی حدیث کی وجہ سے اجازت دیتا ہوں چنانچہ اگر وہ نکاح کر لے تو میں نہیں کہتا کہ وہ اس پر حرام ہے۔ اسحاق غیر منصوبہ (غیر متعین) عورت کے معاملے میں وسعت دیتے ہیں۔

باب ۷۹۸۔ مَا جَاءَ أَنَّ طَلَاقَ الْأَمَةِ تَطْلِيفَتَانِ

باب ۷۹۸۔ باندی کے لیے دو ہی طلاقیں ہیں

۱۰۵۴۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النِّيسَابُورِيُّ نَا

۱۰۵۴۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: باندی کی

أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ نَظَاهِرُ بْنُ إِسْلَمَ قَالَ

طلاق دو طلاقیں اور اس کی عدت دو حیض ہے یہ حدیث محمد بن یحییٰ،

حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

أَبُو عَاصِمٍ سَعْدِ وَأَبُو عَاصِمٍ أَنَا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيفَتَانِ وَعِدَّتُهَا

حَيْضَتَانِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ نَا أَبُو عَاصِمٍ أَنَا

مَظَاهِرٌ بِهَذَا

اس باب میں عبد اللہ بن عمر سے بھی روایت ہے۔ حضرت عائشہؓ کی حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف مظاہر بن اسلم کی روایت سے مرفوع جانتے ہیں اور ان کی اس کے علاوہ کوئی حدیث نہیں۔ علماء صحابہ وغیرہ اسی پر عمل کرتے ہیں سفیان ثوری شافعی، احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔

باب ۷۹۹۔ مَا جَاءَ فِي مَنْ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ

باب ۷۹۹۔ جو شخص اپنے دل میں اپنی بیوی کو طلاق دے۔

۱۰۵۵۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ قَتَادَةَ عَنِ

۱۰۵۵۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ

زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

میری امت کی دلوں میں آنے والے خیالات پر پکڑ نہیں کرتے جب

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَاوَزَ اللَّهُ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثْتُ

تک وہ زبان سے الفاظ ادا نہ کریں، یا اس پر عمل نہ کریں۔

بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَكَلِّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر اہل علم کا عمل ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو دل میں طلاق دے تو وہ واقع نہیں ہوتی۔

باب ۸۰۰۔ مَا جَاءَ فِي الْحَدِّ وَالْهَزْلِ فِي الطَّلَاقِ

باب ۸۰۰۔ کسی مذاق میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔

۱۰۵۶۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ

۱۰۵۶۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تین

عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ إِدْرِكَ مَدِينِي عَنِ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ

چیزیں ایسی ہیں جو نیت کے ساتھ تو واقع ہوتی ہی ہیں، مذاق میں بھی

مَا هَكَأِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

واقع ہو جاتی ہیں۔ طلاق، نکاح اور طلاق کے بعد رجوع کرنا۔

وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزُّ لُحْنٍ جِدُّ النِّكَاحِ

وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةُ

یہ حدیث حسن غریب ہے اور اسی پر علماء صحابہ وغیرہ کا عمل ہے۔ عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن حبیب بن ادرك بن مابک ہیں میرے

زردیک یوسف بن مابک بھی یہی ہیں۔

باب ۸۰۱۔ خلع کے متعلق۔

باب ۸۰۱۔ مَا جَاءَ فِي الْخُلْعِ

۱۰۵۷۔ حضرت ربیع بنت معوذ بن عفراء فرماتی کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ کے زمانے میں اپنے شوہر سے خلع لیا۔ پھر آپ ﷺ نے انہیں حکم دیا، یا انہیں حکم کیا گیا کہ وہ ایک حیض تک عدت میں رہیں۔

۱۰۵۷۔ حدثنا محمود بن غیلان نا الفضل بن موسی عن سفیان نا محمد بن عبدالرحمن وهو مولیٰ ال طلحة عن سلیمان بن یسار عن الربیع بنت معوذ بن عفراء أنها اختعلت علی عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَ بِحَيْضَةٍ

اس باب میں ابن عباس سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: صحیح یہی ہے کہ انہیں ایک حیض تک عدت میں رہنے کا حکم دیا گیا تو صحیح: اگر میاں بیوی میں اختلافات پیدا ہو جائیں چنانچہ ان کا ساتھ رہنا بہت مشکل ہو لیکن شوہر طلاق دینے پر بھی راضی نہ ہو تو ایسی صورت میں عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ کچھ مال یا اپنا مہر دے کر اس سے نجات حاصل کر لے۔ اسے خلع کہتے ہیں۔ اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ ”ملکیت نکاح کو مال کے عوض میں لفظ خلع سے زائل کرنا“۔ واللہ اعلم (مترجم)

۱۰۵۸۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے زمانے میں ثابت بن قیس کی بیوی نے اپنے شوہر سے خلع لیا تو آپ ﷺ نے انہیں ایک حیض کی مدت تک عدت میں بیٹھنے کا حکم دیا۔

۱۰۵۸۔ حدثنا محمد بن عبدالرحیم البغدادی ثنا علی بن بحر ثنا هشام بن یوسف عن معمر بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَ بِحَيْضَةٍ

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے خلع لینے والی عورت کی عدت میں علماء کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ اس کی عدت بھی مطلقہ ہی کی طرح ہے۔ ثوری، اہل کوفہ، احمد اور اسحاق کا یہی قول ہے۔ جب کہ بعض علماء کے نزدیک خلع لینے والی عورت کی عدت ایک حیض ہے۔ اسحاق کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس مسلک پر عمل کرے تو یہ قوی ہے۔

باب ۸۰۲۔ خلع لینے والی عورتوں کے متعلق

باب ۸۰۲۔ ما جاء في المختلعات

۱۰۵۹۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: خلع لینے والی عورتیں منافق ہیں۔

۱۰۵۹۔ حدثنا ابو كريب ثنا مزاحم بن ذواد بن علبه عن ابيه عن ليث عن ابي الخطاب عن ابي زرعة عن ابي ادریس عن ثوبان عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُخْتَلَعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ

یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔ اس کی سند قوی نہیں۔ آنحضرت ﷺ سے منقول ہے کہ جو عورت بغیر عذر کے اپنے شوہر سے خلع لے گی وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گی۔ یہ حدیث محمد بن بشار، عبدالوہاب ثقفی سے، وہ ایوب سے، وہ ابو قلابہ سے، وہ کسی شخص سے وہ ثوبان سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: جو عورت اپنے خاوند سے بغیر عذر کے طلاق لیتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پاسکے گی۔ یہ حدیث حسن ہے۔ یہ حدیث ایوب، ابو قلابہ سے، وہ ابواسماء سے اور وہ ثوبان سے بھی نقل کرتے ہیں بعض راوی اس حدیث کو اسی حدیث سے مرفوع نہیں کرتے۔

باب ۸۰۳۔ مَا جَاءَ فِي مُدَارَاةِ النِّسَاءِ

۱۰۶۰۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ ثَنِي ابْنِ إِحْسَى ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالضِّلْعِ إِنْ ذَهَبَتْ تَقِيمُهَا كَسَرَتْهَا وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعَتْ بِهَا عَلَى عَوَجٍ

باب ۸۰۳۔ عورتوں کے ساتھ سلوک کرنا۔

۱۰۶۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عورت پبلی کی طرح ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے اور اگر اسے اسی حالت میں چھوڑ دو گے تو اس کے ٹیزھے پن ہی کی صورت میں اس سے فائدہ اٹھاؤ گے۔

اس باب میں ابو ذرؓ، سمرہ اور حضرت عائشہؓ سے بھی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۸۰۴۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَسْتَلُّهُ أَبُوهُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ

۱۰۶۱۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ أُحِبُّهَا وَكَانَ أَبِي يَكْرَهُهَا فَأَمَرَنِي أَنْ أُطَلِّقَهَا فَأَبَيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلِّقِ امْرَأَتَكَ

باب ۸۰۴۔ جس شخص کے والد اسے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیں۔

۱۰۶۱۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میری ایک بیوی تھی جس سے مجھے محبت تھی لیکن میرے والد اسے پسند نہیں کرتے تھے چنانچہ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں اسے طلاق دے دوں۔ لیکن میں نے انکار کر دیا اور آنحضرت ﷺ سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے عبد اللہ بن عمر اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ہم اسے صرف ابن ابی ذنب کی روایت سے جانتے ہیں۔

باب ۸۰۵۔ مَا جَاءَ لَا تَسْئَلِ الْمَرْأَةَ طَلَاقَ أُخْتِهَا

۱۰۶۲۔ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ ثَنَا سَفِيَانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يُبْلَغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَسْئَلِ الْمَرْأَةَ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِي مَا فِي إِيَّانِهَا

باب ۸۰۵۔ عورت اپنی سوکن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے۔

۱۰۶۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ وہ اس حدیث کو جانتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کوئی عورت اپنی سوکن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے تاکہ وہ اس کے برتن میں سے انڈیل لے۔ (یعنی اس کے حصے پر قبضہ جمانے کے لیے طلاق کا مطالبہ نہ کرے)۔

اس باب میں ام سلمہؓ سے بھی روایت ہے۔ ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۸۰۶۔ پاگل کی طلاق سے متعلق

باب ۸۰۶۔ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ

۱۰۶۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثَنَا مروان بن معاوية الفزاري عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبي هريرة قال قال رسول

۱۰۶۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: معتو (یعنی جس کی عقل زائل ہوگئی ہو) کی طلاق کھلاہ تمام طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ  
الْمَعْتُوبِ الْمَعْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ

اس حدیث کو ہم صرف عطاء بن عجلان کی روایت سے مرفوع جانتے ہیں اور وہ ضعیف ہیں اور حدیثیں بھول جاتے ہیں علماء صحابہ وغیرہ کا  
اسی پر عمل ہے کہ دیوانے کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہاں اگر اسے کبھی کبھی ہوش آتا ہو اور وہ اسی حالت میں طلاق دے تو ہو جائے گی۔

باب ۸۰۷۔ بلا عنوان

باب ۸۰۷۔

۱۰۶۳۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں کوئی شخص اپنی  
بیوی کو چھٹی چاہتا طلاق دے دیتا اور پھر عدت کے دوران رجوع  
کر لیتا تو وہ اس کی بیوی رہتی۔ اگرچہ اس نے سو یا اس سے زیادہ  
طلاق ہی کیوں نہ دی ہوتیں۔ یہاں تک ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنی  
بیوی سے کہا کہ میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دوں گا تا کہ تو مجھ سے جدا نہ  
ہو جائے لیکن اس کے باوجود مجھ سے کبھی نہیں ملوں گا۔ اس نے پوچھا وہ  
کیسے؟ اس نے کہا وہ اس طرح کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور پھر  
جب تمہاری عدت پوری ہونے والی ہوگی تو رجوع کر لوں گا۔ (اسی  
طرح پھر طلاق دوں گا اور رجعت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لوں گا  
اور اسی طرح ہمیشہ کرتا رہوں گا) وہ عورت حضرت عائشہ کے پاس آئی  
اور انہیں بتایا تو وہ خاموش رہیں۔ یہاں تک رسول اللہ ﷺ تشریف  
لائے اور انہیں یہ قصہ سنایا گیا لیکن آپ ﷺ بھی خاموش رہے پھر یہ  
آیت نازل ہوئی ”الطلاق مرتان فامساک بما معروف  
او تسریح باحسان“ (یعنی طلاق دو ہی مرتبہ ہے اس کے بعد یا تو  
قاعدے کے مطابق رکھ لو یا احسن طریقے سے چھوڑ دو) حضرت عائشہ  
فرماتی ہیں کہ اس کے بعد لوگوں نے طلاق کا حساب رکھنا شروع کر دیا جو  
دے چکے تھے انہوں نے بھی اور جنہوں نے نہیں دی تھی۔ انہوں نے بھی۔

۱۰۶۴۔ حدثنا قتیبہ ثنا يعلى بن شبيب عن هشام  
بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان الناس و  
الرجل يطلق امرأته ماشاء أن يطلقها وهي امرأته إذا  
ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة أو  
أكثر حتى قال رجل لامرأته والله لا أطلقك فتبين  
ميني ولا أوويك أبدا قالت وكيف ذلك قال  
أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضى راجعتك  
فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فآخبرتها  
فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه  
وسلم فآخبرته فسكت النبي صلى الله عليه وسلم  
حتى نزل القرآن الطلاق مرتان فامساک بما معروف  
أو تسریح باحسان قالت عائشة فاستأنف الناس  
الطلاق مستقبلاً من كان طلق ومن لم يكن طلق

ابو کریب محمد بن عطاء، عبد اللہ بن اور لیس سے وہ ہشام بن عروہ سے اور وہ اپنے والد سے اسی کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں۔

لیکن اس میں حضرت عائشہ کا ذکر نہیں کرتے یہ حدیث یعلیٰ بن شیبہ کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔

باب ۸۰۸۔ ایسی حاملہ جو خاوند کی وفات کے بعد جنے۔

باب ۸۰۸۔ ماجاء فی الحامیل المتوفی عنها

زوجهها تصع

۱۰۶۵۔ ابوسائل بن بعلک کہتے ہیں کہ سبیحہ کے ہاں ان کے شوہر کی  
وفات کے تیس یا پچیس دن بعد ولادت ہوئی۔ پھر جب وہ نفاس سے

۱۰۶۵۔ حدثنا احمد بن منيع ثنا حسين بن محمد

ثنا شيبان عن منصور عن ابراهيم عن الأسود عن

پاک ہوئیں تو نکاح کے لیے زینت اختیار کی لیکن لوگوں نے اس پر اعتراض کیا جب یہ واقعہ آنحضرت ﷺ کے سامنے ذکر کیا گیا تو فرمایا: اس کی عدت پوری ہو چکی ہے اگر وہ نکاح کر لے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكُكٍ قَالَ وَضَعْتُ سُبَيْعَةَ بَعْدَ وَفَاتِ زَوْجِهَا بِثَلَاثَةِ وَعِشْرِينَ يَوْمًا أَوْ خَمْسَةَ وَعِشْرِينَ يَوْمًا فَلَمَّا تَعَلَّتْ تَشَوَّقْتُ لِلنِّكَاحِ فَأُنْكِرَ عَلَيْهَا ذَلِكَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ تَفَعَّلَ فَقَدْ حَلَّ أَحْلَاهَا

احمد بن منبج، حسن بن موسیٰ سے وہ شیبان سے اور وہ منصور سے اسی کے مثل نقل کرتے ہیں۔ اس باب میں ام سلمہ سے بھی روایت ہے۔ ابوسنابل کی حدیث اس سند سے غریب اور مشہور ہے۔ ہمیں اسود کی ابوسنابل سے اس حدیث کے علاوہ کسی روایت کا علم نہیں۔ میں نے امام بخاری سے سنا کہ مجھے علم نہیں کہ ابوسنابل، آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد زندہ رہے ہوں۔ اکثر علماء کا اسی پر عمل ہے کہ حاملہ عورت کا خاوند اگر فوت ہو جائے تو وہ ولادت کے بعد نکاح کر سکتی ہے۔ اگرچہ اس کی عدت کے دن پورے نہ ہوئے ہوں۔ سفیان ثوری، احمد شافعی اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ جب کہ بعض علماء صحابہ و دیگر علماء سے منقول ہے کہ وہ دونوں میں سے زیادہ دن کی مدت پوری کرے یعنی اگر عدت کے دن پورے ہونے تک ولادت نہ ہو تو ولادت تک اور اگر دن پورے ہونے سے پہلے ولادت ہو جائے تو عدت کی مدت پوری کرے۔ لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ یعنی حاملہ کی عدت ولادت سے پوری ہو جاتی ہے۔

۱۰۶۶۔ حضرت سلیمان بن یسار کہتے ہیں کہ ابو ہریرہؓ، ابن عباسؓ اور ابوسلمہ بن عبدالرحمنؓ نے آپس میں اس عورت کا تذکرہ کیا جو حاملہ ہو اور اس کا شوہر فوت ہو جائے۔ ابن عباس نے کہا کہ اس کی عدت دونوں میں سے زیادہ عدت ہوگی یعنی ولادت یا عدت کے دنوں میں سے جس میں زیادہ دن ہوں گے وہی اس کی ہے۔ ابوسلمہ نے کہا کہ اس کی عدت ولادت تک ہے۔ جب پیدائش ہوگی تو وہ حلال ہوگی۔ چنانچہ ابو ہریرہؓ نے کہا کہ میں بھی اپنے بھائی ابوسلمہ کے ساتھ ہوں۔ پھر انہوں نے ام سلمہ کے پاس کسی شخص کو یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا تو فرمایا: سُبَيْعَةَ کے ہاں ان کے شوہر کی وفات کے چند دن بعد ولادت ہوئی تھی۔ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا تو آپ نے انہیں نکاح کرنے کی اجازت دی۔

۱۰۶۶۔ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ ثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَ أَبَا سَلْمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ تَذَاكَرُوا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجَهَا الْحَامِلُ تَضَعُ عِنْدَ وَفَاتِ زَوْجِهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَعْتَدُ إِجْرَ الْأَحْلِيَيْنِ وَقَالَ أَبُو سَلْمَةَ بَلْ تَحِلُّ حِينَ تَضَعُ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَحْيَى يَعْنِي أَبَا سَلْمَةَ فَأَرْسَلُوا إِلَيَّ أُمَّ سَلْمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ قَدْ وَضَعْتُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ بَعْدَ وَفَاتِ زَوْجِهَا بِبَيْسِيرٍ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْزُوجَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۸۰۹۔ جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت کے متعلق۔  
۱۰۶۷۔ حمید بن نافع کہتے ہیں کہ زینب بنت ابی سلمہ نے انہیں ان تین حدیثوں کے متعلق بتایا۔ انہوں نے فرمایا: میں آنحضرت ﷺ کی زوجہ مطہرہ ام حبیبہ کے والد ابوسفیان بن حرب کی وفات کے موقع پر ان

باب ۸۰۹۔ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجِهَا  
۱۰۶۷۔ حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ ثَنَا مَعْنٌ عَنْ عَيْسَى ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ

کے ہاں داخل ہوئی انہوں نے خوشبو منگائی جس میں خلوق (ایک خوشبو) کی زردی تھی یا کچھ اور تھا۔ انہوں نے وہ خوشبو ایک لڑکی کو لگائی اور پھر اپنے گالوں پر بھی لگائی پھر فرمایا: مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں لیکن میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا کہ: اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لانے والی عورت کے لیے کسی کی وفات پر تین دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہاں البتہ اگر کسی کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ چار مہینے دس دن تک سوگ کرے۔ زہنہ کہتی ہیں پھر میں زہنہ بنت جحش کے ہاں ان کے بھائی کی وفات کے موقع پر داخل ہوئی تو انہوں نے بھی خوشبو منگوائی اور لگانے کے بعد فرمایا: مجھے خوشبو کی کوئی حاجت نہیں تھی لیکن میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ: کسی اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لانے والی عورت کے لیے جائز نہیں کہ کسی کی وفات پر تین رات سے زیادہ تک سوگ منائے۔ لیکن جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے وہ چار ماہ دس دن تک سوگ کرے زہنہ کہتی ہیں میں نے اپنی والدہ ام سلمہ سے سنا کہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میری بیٹی کا خاندن فوت ہو گیا ہے اور اس کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں کیا وہ سُرْمہ لگا سکتی ہے؟ آپ ﷺ نے دو یا تین مرتبہ فرمایا نہیں وہ آپ ﷺ سے پوچھی اور آپ ﷺ منع فرماتے پھر آپ ﷺ نے فرمایا: یہ تو چار مہینے دس دن ہیں جب کہ زمانہ جاہلیت میں عورتیں ایک سال بعد اونٹ کی میٹھیاں پھینکا کرتی تھیں۔ (۱)

بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ قَالَتْ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَىٰ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوَفِّي أَبُوهَا أَبُو سَفْيَانَ ابْنُ حَرْبٍ فَدَعَتْ بِطَيْبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خُلُوقٍ أَوْ غَيْرِهِ فَدَهَنْتْ بِهِ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضِيهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطَّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تَوْمٌ مِنَ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدَّ عَلَىٰ مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَىٰ زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ فَدَخَلْتُ عَلَىٰ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوَفِّيَ أَخُوَهَا فَدَعَتْ بِطَيْبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي فِي الطَّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تَوْمٌ مِنَ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدَّ عَلَىٰ مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَىٰ زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أُمَّيْ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوَفِّي عَنْهَا زَوْجَهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَنَكِّحُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لِأَنْتُمْ قَالَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبُعْرَةِ عَلَىٰ رَأْسِ الْحَوْلِ

اس باب میں فریوہ بنت مالک بن سنان، (جو ابوسعید خدری کی بہن ہیں) اور حفصہ بنت عمرؓ سے بھی روایت ہے۔ زہنہ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر صحابہ وغیرہ کا عمل ہے کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ خوشبو اور زیبائیس سے پرہیز کرے۔ ثوری، مالک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

(۱) قاضی عیاض وغیرہ کہتے ہیں کہ اس جملے میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تھا تو وہ کسی تک کھر میں داخل ہو کر بدترین لباس پہن لیتی اور خوشبو یا زینت کی چیزیں استعمال نہیں کرتی تھی یہاں تک کہ اسی حالت میں ایک سال گزر جاتا پھر اسے کوئی جانور یا پرندہ دیا جاتا جس سے وہ فرج کوچ کر کے عدت توڑتی، اور پھر اونٹ کی میٹھیاں پھینکتی۔ حضور ﷺ کا مقصد یہ ہے کہ یہ حکم تو اس جاہلیت کے حکم کے مقابلے میں بہت آسان ہے۔ (مترجم)

باب ۸۱۰۔ جس شخص نے اپنی بیوی سے اظہار کیا اور کفارہ ادا کرنے سے پہلے صحبت کر لی۔

۱۰۶۸۔ حضرت سلمہ بن صحزہ بیاضیؓ، آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اظہار کا کفارہ ادا کرنے سے پہلے صحبت کر لے اس پر ایک ہی کفارہ ہے۔

باب ۸۱۰۔ مَا جَاءَ فِي الْمُظَاهِرِ يُؤَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكْفَرَ

۱۰۶۸۔ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الشَّجِثِيُّ ثنا عبد الله بن ادريس عن محمد بن اسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صحزير البياضِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُظَاهِرِ يُؤَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكْفَرَ قَالَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

یہ حدیث حسن غریب ہے اور اسی پر علماء کا عمل ہے۔ سفیان ثوری، مالک، شافعی، احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں جب کہ بعض کے نزدیک ایسے شخص پر دو کفارے واجب ہو جاتے ہیں۔ عبدالرحمن بن مہدی بھی اسی کے قائل ہیں۔

توضیح: اظہار: اپنی بیوی کو کسی ایسی عورت سے تشبیہ دینا کہ جو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے یا اس کے برابر کہنا۔ اسے ظہار کہتے ہیں مثلاً کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ تو مجھ پر میری بہن وغیرہ کی طرح حرام ہے۔ اس میں اگر اس کی نیت طلاق کی نہیں تھی تو ظہار ہو گیا ورنہ طلاق۔ اور اب یہ اس وقت تک صحبت نہیں کر سکتا۔ جب تک کفارہ ادا نہ کرے۔ واللہ اعلم (مترجم)

۱۰۶۹۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنی بیوی سے ظہار کرنے کے بعد اس سے صحبت کر بیٹھا اور پھر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: میں نے اپنی بیوی سے ظہار کیا تھا اور کفارہ ادا کرنے سے پہلے اس سے صحبت کر لی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تم پر رحم کرے تمہیں کس چیز نے اس پر مجبور کیا؟ کہنے لگا میں نے چاند کی روشنی میں اس کی پازیب دیکھ لی تھی (یعنی اس طرح بے قرار ہو کر صحبت کر لی) آپ ﷺ نے فرمایا: جب تک کفارہ ادا نہ کر دو اس کے قریب مت جانا۔

۱۰۶۹۔ حَدَّثَنَا أَبُو عَمَارٍ الْحُسَيْنِيُّ بْنُ حَرْبٍ ثنا الفضل بن موسى عن معمر بن الحكم بن ابان عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلاً أتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنْ امْرَأَتِي فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أَكْفُرَ فَقَالَ وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ قَالَ رَأَيْتُ خَلْجَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ قَالَ فَلَا تَقْرُبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۸۱۱۔ ظہار کا کفارہ

باب ۸۱۱۔ مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ الظَّهَارِ

۱۰۷۰۔ حضرت ابو سلمہؓ اور محمد بن عبدالرحمنؓ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو بیاضہ کے ایک شخص سلمان بن صحزہ انصاری نے اپنی بیوی سے کہا کہ رمضان گزرنے تک تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہو لیکن ابھی آدھا رمضان ہی گزرا تھا کہ اپنی بیوی سے رات کو صحبت کر لی۔ اور پھر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا تذکرہ کیا۔ آپ ﷺ نے حکم دیا کہ ایک غلام آزاد کر دو عرض کیا: میں نہیں کر سکتا۔ فرمایا: تو پھر

۱۰۷۰۔ حَدَّثَنَا اسحاق بن منصور ثنا هارون بن اسمعيل الخزاز ثنا علي بن المبارك ثنا يحيى بن ابي كثير ثنا أبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن أن سلمان بن صحزير الأنصاري أحد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلاً فأتى

دو مہینے متواتر روزے رکھو۔ عرض کیا: مجھ میں اتنی استطاعت نہیں۔ فرمایا: تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ عرض کیا میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں۔ آپ نے فرودہ بن عمرو کو حکم دیا کہ اسے بیٹو کرادے دو۔ اس میں پندرہ یا سولہ صاع ہوتے ہیں جو ساٹھ آدمیوں کے لیے کافی ہوتے ہیں۔

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ رَقَبَةً قَالَ لَا أَحَدَهَا قَالَ فَصُمَّ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ قَالَ أَطْعِمْ سِتِّينَ مَسْكِينًا قَالَ لَا أَحَدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَرَوَةَ بِنِ عَمْرٍو أَعْطِهِ ذَلِكَ الْعَرَقَ وَهُوَ مِكْتَلٌ يَا خُدَّ خُمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ صَاعًا إِطْعَامَ سِتِّينَ مَسْكِينًا

یہ حدیث حسن ہے اور سلمان بن صحر کو سلمہ بن صحر بیاضی بھی کہا جاتا ہے۔ علماء کا ظہار کے کفارے کے متعلق اسی حدیث پر عمل ہے۔ اس باب میں خولہ بنت ثعلبہ (جو ادس بن صامت کی بیوی ہیں) سے بھی روایت ہے۔

باب ۸۱۲۔ ایلاء کے متعلق۔

باب ۸۱۲۔ مَا جَاءَ فِي الْإِيْلَاءِ

۱۰۷۱۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی بیویوں سے ایلاء کیا اور انہیں اپنے اوپر حرام کر لیا۔ پھر آپ ﷺ نے قسم کا کفارہ ادا کیا اور جس چیز کو حرام کیا تھا۔ اسے حلال کیا۔

۱۰۷۱۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ الْبَصْرِيُّ ثنا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ ثنا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَمٍ فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا وَلَا وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ كَفَّارَةً

اس باب میں ابوموسیٰ اور انسؓ سے بھی روایت ہے۔ مسلمہ بن عقیل کی داؤد سے منقول حدیث علی بن مسہود وغیرہ داؤد سے اور وہ شعبی سے مرسل نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ایلاء کیا..... الخ اس میں مسروق کے عائشہؓ سے نقل کرنے کا ذکر نہیں اور یہ حدیث مسلمہ کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ ایلاء کی تعریف یہ ہے کہ کوئی شخص قسم کھائے کہ وہ چار مہینے یا اس سے زیادہ تک اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جائے گا پھر چار مہینے گزر جانے کے بعد علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء صحابہ وغیرہ کہتے ہیں کہ چار ماہ گزر جانے پر اسے قاضی کے سامنے پیش کیا جائے۔ یا تو وہ قسم توڑے اور یا پھر طلاق دے۔ مالک شافعی احمد اور اطلق کا بھی یہی قول ہے جب کہ بعض علماء کے نزدیک چار ماہ گزر جانے پر ایک طلاق بائن خود بخود واقع ہو جاتی ہے۔ ثوری اور اہل کوفہ اسی کے قائل ہیں۔

توضیح: ایلاء کے لغوی معنی قسم کے ہیں لیکن اصطلاح میں بیوی سے چار ماہ یا اس سے زیادہ تک مباشرت نہ کرنے کی قسم کھالینے کو ایلاء کہتے ہیں۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کی ذات یا صفات کی قسم کھا کر کہے کہ میں اس سے قربت و مباشرت نہیں کروں گا۔ دوسری صورت یہ ہے اسے کسی شرط کے ساتھ مطلق کر دے مثلاً یہ کہے کہ اگر میں نے صحبت کی تو مجھ پر حج واجب ہے اس صورت میں اگر وہ چار ماہ کے اندر صحبت کرے گا تو اس پر حج واجب ہو جائے گا۔ باقی چیزیں اسی پر قیاس کر لی جائیں۔

ایلاء موقت بھی ہوتی ہے اور موبد بھی۔ موقت یہ ہے کہ وہ قسم کھا کر یا بغیر قسم کھائے یہ کہے کہ میں چار مہینے یا اس سے زیادہ تک اپنی بیوی سے صحبت نہیں کروں گا۔ یعنی اس میں وقت متعین کر دے۔ لیکن ایلاء موبد یہ ہے کہ قسم کھا کر یا بغیر قسم کھائے یہ کہے کہ میں کبھی تجھ سے صحبت نہیں کروں گا ان دونوں صورتوں میں ایلاء ہو جائے گا۔ چنانچہ اگر چار ماہ کے اندر صحبت کرے گا تو ایلاء ٹوٹ جائے گا

اور اس قسم کا کفارہ واجب ہو جائے گا۔ لیکن اگر چار ماہ تک صحبت نہیں کی تو ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ پھر وہ دونوں نکاح کرنے کے بعد میاں بیوی کا رشتہ دوبارہ قائم کر سکتے ہیں۔ لہذا موقت اور موبد دونوں کا حکم یہی ہے کہ چار ماہ کے اندر اندر صحبت کر لینی چاہئے اور کفارہ ادا کرنا چاہئے ورنہ طلاق بائن ہو جائے گی ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ موقت میں اگر طلاق واقع ہونے کے بعد انہوں نے دوبارہ نکاح کر لیا تو اس کے بعد اگر وہ چار چھ ماہ یا دو سال تک بھی صحبت نہ کرے تو دوبارہ طلاق واقع نہیں ہوگی لیکن موبد میں اگر دوبارہ نکاح کے بعد چار ماہ تک صحبت نہیں کرے گا تو دوسری طلاق واقع ہو جائے گی اور اسی طرح تیسری جس کے بعد وہ اس پر حرام ہو جائے گی۔ واللہ اعلم (مترجم)

## باب ۸۱۳۔ مَا جَاءَ فِي اللَّعَانِ

## باب ۸۱۳۔ لعان کے متعلق

۱۰۷۲۔ حضرت سعید بن جبیرؓ کہتے ہیں کہ مصعب بن زبیر کی امارت کے زمانے میں مجھ سے لعان کرنے والے میاں بیوی کے متعلق پوچھا گیا کہ کیا ان دونوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کہوں چنانچہ میں انھا اور عبد اللہ بن عمرؓ کے گھر کی طرف چل دیا۔ وہاں پہنچ کر اجازت مانگی تو مجھ سے کہا گیا کہ وہ قبول کر رہے ہیں انہوں نے میری آواز سن کر فرمایا ابن جبیر ہو؟ اندر آ جاؤ تم بغیر کسی کام کے نہیں آئے ہو گے۔ کہتے ہیں میں داخل ہوا تو وہ اونٹ پر ڈالنے والی چادر بچھا کر آرام کر رہے تھے میں نے کہا: اے ابو عبد الرحمن کیا لعان کرنے والوں کے درمیان تفریق کر دی جاتی ہے؟ کہنے لگے سبحان اللہ! ہاں ان میں جدائی کر دی جاتی ہے۔ سب سے پہلے جس شخص نے یہ مسئلہ پوچھا وہ فلاں بن فلاں تھے انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کو زنا کرتے دیکھے تو کیا کرے؟ اگر وہ کچھ کہے تو بھی یہ بہت بڑی بات ہے اور اگر خاموش رہے تو بھی ایسے معاملے میں خاموش رہنا بہت مشکل ہے۔ عبد اللہ بن عمرؓ نے فرمایا: آنحضرت ﷺ اس وقت خاموش رہے، اور اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑے عرصے بعد وہی شخص دوبارہ حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! جس چیز کے متعلق میں نے آپ سے پوچھا تھا اسی میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کی یہ آیات نازل فرمائیں۔ ”والذین یرمون ازواجہم ..... الخ“ پھر اس شخص کو بلا کر اس کے سامنے یہ آیات تلاوت فرمائیں اور اسے وعظ و نصیحت کی اور فرمایا: دنیا کی تکلیف آخرت کے عذاب کے مقابلے میں

۱۰۷۲۔ حدیثنا ہناد ثنا عبدة بن سلیمان عن عبد الملك بن ابی سلیمان عن سعید بن جبیر قال سئلت عن المتلا عنین فی إمارة مصعب بن الزبیر افرق بینہما فما دریت ما اقول فقلت مکانی الی منزل عبد اللہ بن عمر استاذنت علیہ فقیل لی انہ قائل فسمع کلامی فقال ابن جبیر ادخل ما جاء بك إلا حاجة قال قد حلت فاذا هو مفترش بردعة رحل له فقلت یا ابا عبد الرحمن المتلاعنان افرق بینہما فقال سبحان اللہ نعم ان اول من سأل عن ذلك فلان بن فلان اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یرسول اللہ ارایت لو ان احدنا رأى امرأته علی فاحشہ کیف یضغ ان تکلم بأمر عظیم و ان سکت سکت علی امر عظیم قال فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یجبه فلما کان بعد ذلك اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان الذی سألتک عنہ قد ابتلیت بہ فانزل اللہ الآيات الی فی سورۃ النور والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم حتی ختم الایۃ فدعی الرجل فتلاهن علیہ و وعظہ و ذکرہ و أخبرہ ان عذاب الدنیا اھون من عذاب الاخرۃ فقال لا والذی بعنک بالحق ما کذبت علیہا ثم بنی بالمرأۃ و

فَوَعظَهَا وَذَكَرَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَىٰ مِنْ  
عَذَابِ الْآخِرَةِ فَقَالَ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا  
صَدَقَ قَالَ فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ  
لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْحَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ  
مِنَ الْكَاذِبِينَ ثُمَّ نُنِيَ بِالْمَرْأَةِ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ  
بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْحَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ  
عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا

کچھ نہیں۔ اس نے عرض کیا: نہیں یا رسول اللہ! اس ذات کی قسم جس  
نے آپ کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا میں نے اس پر تہمت نہیں لگائی  
پھر آنحضرت ﷺ نے وہی آیتیں عورت کے سامنے پڑھیں اور اسے  
بھی اسی طرح سمجھایا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے  
میں بہت آسان ہے اس نے کہا: نہیں یا رسول اللہ! اس ذات کی قسم  
جس نے آپ ﷺ کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا یہ سچا نہیں۔ راوی  
کہتے ہیں کہ پھر آنحضرت ﷺ نے مرد سے ابتدا کی اور اس نے چار  
مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دی کہ وہ سچا ہے اور پانچویں مرتبہ کہا کہ اگر  
وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت۔ پھر عورت نے چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر  
شہادت دی کہ وہ جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ کہا کہ اگر وہ سچا ہے تو اس  
عورت پر اللہ کا غضب ہو۔ پھر آپ ﷺ نے دونوں کے درمیان تفریق  
کا حکم دیا۔

اس باب میں سعد بن عباسؓ، حذیفہؓ اور ابن مسعودؓ سے بھی روایت ہے حضرت عمرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور علماء کا اسی پر عمل ہے۔

۱۰۷۳۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ مَعْنٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَالِكٍ بِنِ انْسِ عَنْ نَافِعِ عَنِ  
ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَا عَنْ رَجُلٍ امْرَأَتَهُ وَفَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَالْحَقُّ الْوَلَدُ بِالْأُمِّ

۱۰۷۳۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک خاوند نے اپنی بیوی سے  
لعان کیا تو آپ ﷺ نے ان دونوں کو الگ کر دیا اور بچے کو ماں کی  
طرف منسوب کر دیا۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور علماء کا اسی پر عمل ہے۔

توضیح: لعان: (۱) اگر کسی شخص کو اپنی بیوی کے بارے میں زنا کا یقین ہو یا اولاد کے متعلق یہ شبہ ہو کہ وہ اس کی نہیں ہے لیکن اس کے  
پاس گواہ بھی نہیں ہیں اور عورت بھی زنا سے انکار کرتے ہوئے قاضی کے سامنے دعویٰ کر دیتی ہے کہ اس کا شوہر اس پر تہمت لگا رہا ہے  
تو قاضی ان دونوں سے چار چار مرتبہ قسم لے گا اور پانچویں مرتبہ لعنت کرانے کا پھر ان دونوں میں تفریق کر دی جائے گی۔ اس قسم لینے اور  
لعنت کرانے کو لعان کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ اوپر مذکور ہے جب کہ اس کی شروط مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) دونوں عاقل اور بالغ ہوں۔ (۲) عورت زنا سے انکار کرتی ہو۔ (۳) تہمت لگانے والا اس کا شوہر ہو اور وہ اس سے پہلے

تہمت لگانے پر سزا نہ پا چکا ہو۔ (۴) شوہر کے پاس گواہ نہ ہوں۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۸۱۴۔ مَا جَاءَ آيِنَ تَعْتَدُ الْمُتَوَفَّىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا  
باب ۸۱۳۔ جب عورت کا شوہر فوت ہو جائے، وہ عدت کہاں  
گزارے؟

۱۰۷۴۔ حَدَّثَنَا الْانصَارِيُّ ثنا معن ثنا مَالِكٍ عَنْ  
سَعْدِ بْنِ اسْحَقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبِ

۱۰۷۴۔ حضرت سعد بن اسحاق بن کعب بن عجرہؓ اپنی پھوپھی زینب  
بنت کعب بن عجرہ سے نقل کرتے ہیں کہ ابو سعید خدریؓ کی بہن فریہ

(۱) اس مسئلے میں سورہ نور کی آیت ۶ تا ۹ نازل ہوئیں۔ (مترجم)

بت مالک بن سنان نے انہیں بتایا کہ میں نے حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! میرے خاندان اپنے غلاموں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے جب وہ قدم (ایک مقام) پہنچے تو وہ انہیں مل گئے لیکن انہوں نے میرے خاندان کو قتل کر دیا۔ کیا میں اپنے اقرباء کے پاس بخود رہ چلی جاؤں؟ کیونکہ میرے خاندان نے میرے لیے نہ مکان چھوڑا ہے اور نہ ہی نان نفقہ وغیرہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہاں چلی جاؤ۔ کہتی ہیں میں لوٹی تو ابھی حجرے یا مسجد میں ہی تھی کہ آپ ﷺ نے مجھے بلایا کسی کو حکم دیا کہ مجھے بلائے اور فرمایا: تم نے کیا کہا تھا؟ میں نے اپنے شوہر کا پورا قصہ دوبارہ بیان کر دیا۔ آپ ﷺ نے حکم دیا کہ عدت پوری ہونے تک اپنے گھر میں ہی رہو۔ کہتی ہیں پھر میں نے وہاں چار مہینے دس دن عدت گزار لی۔ پھر جب عثمانؓ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے مجھ سے اس مسئلے کے متعلق پچھوایا۔ پھر اسی پر عمل کرنے اور فتویٰ دینے کا حکم دیا کہ عورت جس گھر میں ہو اسی میں اپنی عدت پوری کرے۔

بِنْتُ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ أَنَّ الْفَرِيعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ وَهِيَ أَحْتُ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ وَإِنْ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدَ لَهُ أَبْقُوا حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرْفِ الْقُدُومِ لِحَقِّهِمْ فَفَقَتُوهُ فَقَالَتْ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فَإِنْ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةً قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَتْ فَانصرفتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْفَى الْمَسْجِدِ نَادَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَمْرٌ بِي فَنُودِيَتْ لَهُ فَقَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَتْ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ شَبَابِ زَوْجِي قَالَ أَمْكِنِي فِي بَيْتِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ قَالَتْ فَاعْتَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُمَانُ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ

محمد بن بشار، یحییٰ بن سعید سے اور وہ بھی سعد بن اسحاق بن کعب بن عجرہ سے اسی کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر اکثر علماء صحابہ وغیرہ کا عمل ہے کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ اسی گھر میں عدت پوری کرے اور اپنے شوہر کے گھر سے منتقل نہ ہو۔ سفیان ثوری، شافعی، احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں جب کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر اپنے شوہر کے گھر میں عدت نہ گزارے تو کوئی مضائقہ نہیں وہ جہاں چاہے وہاں عدت گزار سکتی ہے۔

مسئلہ: امام اعظمؒ کے نزدیک جس گھر میں عورت کو اس کے شوہر کی وفات کی خبر پہنچی ہو اسی میں عدت گزارنا واجب ہے اور وہاں سے بغیر کسی عذر کے نکلنا جائز نہیں مثلاً وارث اسے نکال دیں یا وہ گھری تو زودیا جائے وغیرہ واللہ اعلم۔ (مترجم)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

آنحضرت ﷺ سے خرید و فروخت کے متعلق

أَبْوَابُ الْبَيْعِ

منقول احادیث کے ابواب

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۸۱۵۔ شہادت کو ترک کرنے سے متعلق

باب ۸۱۵۔ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الشُّبُهَاتِ

۱۰۷۵۔ حضرت نعمان بن بشیرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ

۱۰۷۵۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ ثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَجَالِدِ

عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلَالِ هِيَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرَضَهُ فَقَدْ سَلِمَ وَمَنْ وَاقَعَ شَيْئًا مِنْهَا يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ كَمَا إِنَّهُ مَنْ يَرُوعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَىً أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مُحَارِمَةٌ

ﷺ سے سنا کہ حلال اور حرام اور دونوں میں نے واضح کر لئے ہیں۔ لیکن ان دونوں کے درمیان بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ جن کے متعلق بہت سے لوگ شبہ میں مبتلا ہیں کہ یہ حرام ہیں یا حلال۔ جس نے انہیں اپنے دین کے لیے عیب جوئی اور طعن و تشنیع سے محفوظ رہنے کے لیے ترک کر دیا اس نے سلامتی کی راہ اختیار کی اور جو ان چیزوں میں مبتلاء ہو گیا۔ وہ حرام کام میں پڑنے کے قریب ہے۔ جیسے کوئی چردا ہا اپنے جانوروں کو سرحد کے قریب چراتا ہے تو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حدود پار کر جائے۔ جان لو کہ ہر بادشاہ کی حدود ہوتی ہیں اور اللہ کی حدود اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔

ہناد، وکیع سے وہ زکریا بن ابی زائدہ سے وہ شععی سے وہ نعمان بن بشیر سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے کئی راوی یہ حدیث شععی کے واسطے سے نعمان بن بشیر سے بھی روایت کرتے ہیں۔

باب ۸۱۶۔ سود کھانے سے متعلق

۱۰۷۶۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کے گواہوں اور کاتب سب پر لعنت بھیجی ہے۔

باب ۸۱۶۔ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الرَّبْوِ

۱۰۷۶۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرَّبْوِ وَأُمُورَ كُلِّهَا وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبِيهِ

اس باب میں حضرت عمرؓ اور جابرؓ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۸۱۷۔ جھوٹ اور جھوٹی گواہی دینے پر وعید۔

باب ۸۱۷۔ مَا جَاءَ فِي التَّغْلِيظِ فِي الْكُذْبِ وَالزُّورِ وَنَحْوِهِ

۱۰۷۷۔ حضرت انسؓ کبیرہ گناہوں کے متعلق بیان کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کو ناراض کرنا، قتل کرنا اور جھوٹ بولنا کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔

۱۰۷۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنَعَانِيُّ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكِبَائِرِ قَالَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَقَوْلُ الزُّورِ

اس باب میں ابوبکرؓ، انیس بن حزمؓ اور ابن عمرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۸۱۸۔ تاجروں کے متعلق اور آنحضرت ﷺ نے انہیں کیا تسمیہ دیا

باب ۸۱۸۔ مَا جَاءَ فِي التُّجَّارِ وَتَسْمِيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُمْ

۱۰۷۸۔ حضرت قیس بن ابی غزہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہماری

۱۰۷۸۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ

طرف نکلے۔ لوگ ہمیں ساسرہ کہا کرتے تھے۔ (۱) آپ نے فرمایا: اے تاجروں کی جماعت: خرید و فروخت میں شیطان اور گناہ دونوں موجود ہوتے ہیں لہذا تم لوگ اپنی خرید و فروخت کو صدقے کے ساتھ ملادیا کرو (تا کہ کفارہ ہو جائے)۔

عاصم ابی وائل عن ..... قیس بن ابی غرزہ قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى السماسيرة فقال يا معشر التجار ان الشيطان والائتم يحضران البيع فشؤبوا ببيعكم بالصدقة

اس باب میں براء بن عازب اور رفاعہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ قیس بن ابی غرزہ کی حدیث حسن صحیح ہے اسے منصور، اعمش، حبیب بن ثابت اور کئی راوی بھی ابواکل سے اور وہ قیس بن ابی غرزہ سے نقل کرتے ہیں۔ ان کی کوئی اور حدیث ہمارے نزدیک معروف نہیں۔ ہناد بھی ابومعاویہ سے وہ اعمش سے وہ شقیق بن سلمہ سے وہ قیس بن ابی غرزہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث بھی حسن صحیح ہے۔

۱۰۷۹۔ حضرت ابوسعیدؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔

۱۰۷۹۔ حدثنا هناد ثنا قبيسة ثنا سفيان عن ابى حمزة عن الحسن بن عبيد عن ابى سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصدّيقين والشهداء

سويد، ابن مبارک سے وہ سفیان سے اور وہ ابوہزہ سے اسی سند سے اسی کے مثل نقل کرتے ہیں۔ ہم اس حدیث کو صرف اسی سند سے پہچانتے ہیں۔ (یعنی ثوری کی ابوہزہ سے روایت سے) ابوہزہ کا نام عبداللہ بن جابر ہے یہ بصری شیخ ہیں۔

۱۰۸۰۔ اسماعیل بن عبید اللہ بن رفاعہ اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ وہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ عید گاہ کی طرف نکلے تو دیکھا کہ لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے تاجرو! وہ سب آنحضرت ﷺ کی نظر متوجہ ہو گئے اپنی گردنیں اٹھالیں اور آپ ﷺ کی طرف دیکھنے لگے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن تاجر گنہگار اٹھائے جائیں گے۔ ہاں البتہ اگر کوئی اللہ سے ڈرے نیکی کرے اور سچ بولے (تو وہ اس حکم میں داخل نہیں)

۱۰۸۰۔ حدثنا يحيى بن خلف ثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن اسمعيل بن عبيد بن رفاعة عن ابيه عن جدّه انه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم الى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال يا معشر التجار فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا اعناقهم وابصارهم اليه فقال ان التجار يبعثون يوم القيامة فجارا الا من اتق الله وبرّ وصدق

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ راوی کو اسماعیل بن عبید اللہ بن رفاعہ بھی کہا جاتا ہے۔

باب ۸۱۹۔ جو شخص اپنی بیچنے کی چیز پر جھوٹی قسم کھائے۔  
۱۰۸۱۔ حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: تین شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہ رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور نہ ہی انہیں پاک کریں گے۔ اور ان کے لیے دردناک

باب ۸۱۹۔ ماجاء في من خلف على سيلعته كاذبا  
۱۰۸۱۔ حدثنا محمود بن غيلان ثنا ابو داود انبانا شعبة قال اخبرني على بن مدرك قال سمعت ابازرنة ابن عمرو بن بن الحسّر عن ابى ذر عن

(۱) ساسرہ: ساسر کی جمع ہے اس کے معنی دلال کے ہیں۔ (مترجم)

عذاب ہے۔ میں نے عرض کیا وہ کون ہیں یا رسول اللہ! وہ تو برباد ہو گئے اور خسارے میں رہ گئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ایک احسان جتنا ہے والا۔ دوسرا تکبر کی وجہ سے شلوار وغیرہ ٹخنوں سے نیچی رکھنے والا اور تیسرا جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا۔

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قُلْتُ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ حَابُوا وَخَسِرُوا قَالَ الْمَنَانُ وَالْمُسْبِلُ إِزَارَةً وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ

اس باب میں ابن مسعود، ابو ہریرہ، ابوامامہ بن ثعلبہ، عمران بن حصین اور معقل بن یسار سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن

صحیح ہے۔

باب ۸۲۰۔ مَا جَاءَ فِي التَّبَكُّيرِ بِالتَّحَارَةِ

۱۰۸۲۔ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الدُّورِيُّ ثَنَا هِشِيمُ ثَنَا يَعْلى بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك في أمي في بكورها قال وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار وكان صخرًا رجلًا تاجرًا وكان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهار فأترى وأكثر ماله

باب ۸۲۰۔ تجارت کے لیے صبح جلدی نکلتا

۱۰۸۲۔ حضرت صحرا غامدی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے دعا کی کہ اے اللہ! میری امت میں سے صبح جلدی جانے والوں کو برکت عطا فرما۔ چنانچہ آپ ﷺ جب کبھی کوئی لشکر روانہ کرتے تو شروع دن میں صبح بھیجتے۔ راوی کہتے ہیں کہ صحرا بھی تاجر تھے وہ بھی جب تاجروں کو بھیجتے تو صبح بھیجا کرتے تھے لہذا وہ امیر ہو گئے اور ان کے پاس مال کی کثرت ہو گئی۔

اس باب میں حضرت علی، بریدہ، ابن مسعود، انس، ابن عمر، ابن عباس اور جابر بھی حدیثیں نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے ہمیں علم

نہیں کہ ان کی اس حدیث کے علاوہ کوئی اور حدیث بھی منقول ہو۔ یہ حدیث سفیان ثوری بھی شعبہ سے اور وہ یعلیٰ بن عطاء سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۸۲۱۔ مَا جَاءَ فِي الرَّحْصَةِ فِي الشِّرَاءِ إِلَى أَجَلٍ

۱۰۸۳۔ حَدَّثَنَا ابُو حَفْصِ عَمْرُو بن عَلِي ثَنَا يَزِيدُ بن زُرَيْعِ ثَنَا عَمَارَةُ بن اَبِي حَفْصَةَ ثَنَا عِكْرَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عَلِيٌّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُوْبِيْنَ قَطْرِيْنِ عَلِيْطِيْنِ فَكَانَ اِذَا قَعَدَ فَعَرِقَ ثَقْلًا عَلَيْهِ فَقَدِمَ بَرٌّ مِنَ الشَّامِ لِفَلَانِ الْيَهُودِيِّ فَقُلْتُ لَوْ بَعْتُ اِلَيْهِ فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ ثُوْبِيْنَ اِلَى الْمَيْسَرَةِ فَاَرْسَلْتُ اِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ مَا يَرِيْدُ اِنَّمَا يَرِيْدُ اَنْ يَّذْهَبَ بِمَالِيْ اَوْ بِدَرَاهِمِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبَ قَدْ عَلِمَ اَنِّيْ مِنْ اَتْفَاهُمْ وَاَدَاهُمْ لِلْاَمَانَةِ

باب ۸۲۱۔ کسی چیز کی قیمت معینہ مدت تک ادھار کرنا جائز ہے۔

۱۰۸۳۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے جسم مبارک پر قطر کے بنے ہوئے دو غلیظ کپڑے تھے چنانچہ جب آپ ﷺ بیٹھتے اور پسینہ آتا تو یہ آپ ﷺ کی طبیعت پر گراں گزرتے اسی اثناء میں شام سے فلاں یہودی کا کپڑا آیا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ ﷺ کسی کو بھیجیں کہ وہ آپ کے لیے اس سے دو کپڑے خرید لائے۔ جب ہمیں سہولت ہوگی ہم ان کی قیمت ادا کر دیں گے۔ آپ ﷺ نے ایک شخص کو بھیجا تو اس نے جواب دیا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ ﷺ چاہتے ہیں کہ میرا کپڑا اور پیسے دونوں چیزوں پر قبضہ کر لیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ جھوٹا ہے کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ میں ان سب سے زیادہ پرہیزگار بھی ہوں اور امانت دار بھی۔

اس باب میں حضرت ابن عباسؓ، انسؓ اور اسماء بنت یزیدؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ شعبہ بھی یہ حدیث عمارہ بن ابی حفصہ سے نقل کرتے ہیں۔ محمد بن فراس بصری، ابوداؤد طیالسی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ شعبہ سے کسی نے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو کہنے لگے میں یہ حدیث اس وقت بیان نہیں کروں گا جب تک تم کھڑے ہو کر حرمی کے سر کا بوسہ نہیں لو گے اور وہ اس وقت وہاں موجود تھے۔ (اس سے مراد حرمی کی تعظیم ہے کیونکہ شعبہ نے یہ حدیث انہی سے سنی ہے)۔

۱۰۸۴۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ جب فوت ہوئے تو آپ ﷺ کی زرہ میں صاع غلے کے عوض گروی رکھی ہوئی تھی جو آپ ﷺ نے اپنے گھر والوں کے لیے قرض لیا تھا۔

۱۰۸۴۔ حدثنا محمد بن بشار ابن ابی عدی و عثمان بن ابی عمر عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس قال توفى النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بعشرين صاعاً من طعام أخذة لأهله

یہ حدیث صحیح ہے۔

۱۰۸۵۔ حضرت ابوقتادہؓ، حضرت انسؓ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں جو ایک یہودی کے پاس میں صاع غلے کے عوض گروی رکھی ہوئی تھی جو آپ ﷺ نے اپنے گھر والوں کے لیے لیا تھا۔ حضرت انسؓ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ شام تک آل محمد (ﷺ) کے پاس غلے یا کھجور میں سے ایک صاع بھی باقی نہ رہا۔ جب کہ آپ ﷺ کے پاس اس وقت نو بیویاں تھیں۔

۱۰۸۵۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا ابن ابی عدی نا هشام الدستوائی عن قتادة عن انس ح قال محمد واخبرنا معاذ بن هشام قال نبي أبي عن أبي قتادة عن انس قال مشيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير واهالة سنخة ولقد رهن له درع مع يهودي بعشرين صاعاً من طعام أخذة لأهله ولقد سمعته ذات يوم يقول ما أمسى عند آل محمد صاع تمر ولا صاع حب وإن عنده يومئذ لتسع نسوة

یہ حدیث صحیح ہے۔

باب ۸۲۲۔ شروط بیع کی کتابت۔

باب ۸۲۲۔ ما جاء في كتابه الشروط

۱۰۸۶۔ محمد بن بشار، عباد بن لیث (کپڑے بیچنے والے) سے اور وہ عبدالمجید بن وہب سے نقل کرتے ہیں کہ عذاء بن خالد بن ہوذہ نے ان سے کہا کیا میں تمہیں ایسی تحریر نہ پڑھاؤں جو آنحضرت ﷺ نے میرے لیے تحریر کرائی تھی۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں! اس پر انہوں نے ایک تحریر نکالی اس میں لکھا تھا۔ یہ اقرار نامہ ہے کہ عذاء بن خالد بن ہوذہ نے محمد رسول اللہ ﷺ سے خریداری کی چنانچہ انہوں نے آنحضرت ﷺ سے غلام یا باندی (یعنی راوی کو شک ہے کہ غلام تھا یا باندی) اس

۱۰۸۶۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا عباد بن ليث صاحب القرايش ثنا عبد المجيد بن وهب قال قال لي العذاء بن خالد بن هوذة ألا أقرئك كتاباً كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت بلى فأخرج كتاباً هذا ما اشتري العذاء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري منه عبداً أو أمة لا ذاء ولا عائلة ولا حبة بيع

المُسْلِمِ الْمُسْلِمِ

شرط پر خریدی ہے کہ اس میں کوئی بیماری نہ ہو اور نہ ہی وہ چوری کی یا حرام کی ہو۔ یہ مسلمان کی مسلمان سے بیع ہے۔

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف عباد بن لیث کی حدیث سے جانتے ہیں ان سے یہ حدیث کئی محدثین نقل کرتے ہیں۔

باب ۸۲۳۔ ناپ تول کے متعلق۔

باب ۸۲۳۔ مَا جَاءَ فِي الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ

۱۰۸۷۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ناپ تول کرنے والوں سے فرمایا: تمہیں ایسے دو کاموں کی ولایت ملی ہے کہ جس میں کمی بیشی کی وجہ سے سابقہ امتیں ہلاک ہو گئیں (اس میں قوم شعیبؓ کی طرف اشارہ ہے)۔

۱۰۸۷۔ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالِقَانِيُّ ثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان إنكم قد وليتم أمرين هلكت فيهما الأمم السالفة قبلكم

اس حدیث کو ہم صرف حسین بن قیس کی روایت سے مرفوع جانتے ہیں۔ حسین بن قیس ضعیف ہیں۔ اور یہی حدیث حضرت ابن

عباسؓ سے موقوفاً بھی اسی سند سے منقول ہے۔

باب ۸۲۴۔ نیلام کے ذریعے خرید و فروخت کے متعلق۔

باب ۸۲۴۔ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ مَنْ يَزِيدُ

۱۰۸۸۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ایک چادر اور ایک پیالہ بیچنے کا ارادہ کیا تو فرمایا: یہ چادر اور پیالہ کون خریدے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا۔ میں انہیں ایک درہم میں خریدتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ایک درہم سے زیادہ کون دے گا۔ (دوسرے فرمایا) تو ایک شخص نے دو درہم دے دیے اس طرح آپ ﷺ نے یہ دونوں چیزیں اسے دو درہم کے عوض دے دیں۔

۱۰۸۸۔ حَدَّثَنَا حميد بن مسعدة ثنا عبيد الله بن شميظ بن عجلان ثنا الاخضر بن عجلان عن عبد الله الحنفى عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم باع جلسا و قدحا وقال من يشتري هذا المجلس والقدح فقال رجل احدثهما بذرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم من يزيد على درهم فاعطاه رجل درهمين فباعهما منه

یہ حدیث حسن ہے۔ ہم اسے صرف اخضر بن عجلان کی روایت سے جانتے ہیں۔ عبد اللہ حنفی جو یہ حدیث انسؓ سے نقل کرتے ہیں وہ ابوبکر حنفی ہیں۔ علماء اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غنیمت اور وراثت کے مال کو نیلام کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ یہ حدیث معتمر بن سلیمان اور کئی راوی بھی اخضر بن عجلان سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۸۲۵۔ مدبر کی بیع سے متعلق۔

باب ۸۲۵۔ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْمُدَبِّرِ

۱۰۸۹۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری نے اپنے غلام سے کہا کہ تو میری موت کے بعد آزاد ہے (اسی کو مدبر کہتے ہیں) پھر وہ فوت ہو گیا اور اس غلام کے علاوہ تر کے میں کچھ نہیں چھوڑا۔ لہذا اسے آنحضرت ﷺ نے نعیم بن نحام کے ہاتھوں بیچ دیا۔ جابرؓ کہتے ہیں کہ وہ

۱۰۸۹۔ حَدَّثَنَا ابن ابی عمر ثنا سفیان بن عیینة عن عمرو بن دينار عن جابر ان رجلا من الأنصار دبر غلاما له فمات ولم يترك مالا غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه نعيم بن النحام قال

جَابِرٌ عَبْدًا قَبُطِيًّا مَاتَ عَامَ الْاَوَّلِ فِي اِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَبْلِي تَحَاوَرِ ابْنِ زُبَيْرٍ كِي اِمَارَتِ كِي پهلے سال ميں فوت هوا۔

يہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے حضرت جابرؓ ہی سے منقول ہے بعض علماء کا اسی پر عمل ہے کہ مدبر کے بیچنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ شافعی، احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں جب کہ سفیان ثوری، مالک، اوزاعی اور بعض علماء اسے بیچنے کی ممانعت کے قائل ہیں۔

باب ۸۲۶۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ تَلْقَى الْبُيُوعِ

باب ۸۲۶۔ بیچنے والوں کے استقبال کی ممانعت۔

۱۰۹۰۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ثَنَا سَلِيمَانَ التَّمِيمِيِّ عَنِ ابْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ تَلْقَى الْبُيُوعِ

۱۰۹۰۔ حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے غلہ بیچنے والے قافلوں سے شہر سے باہر خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا: جب تک وہ شہر کے اندر آ کر خود نہ بیچیں۔

اس باب میں حضرت علیؓ، ابن عباسؓ، ابو ہریرہؓ، ابو سعیدؓ، ابن عمرؓ اور ایک اور صحابی بھی حدیثیں نقل کرتے ہیں۔

۱۰۹۱۔ حَدَّثَنَا سَلْمَةُ بْنُ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ الرَّقِيِّ ثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو الرَّقِيِّ عَنِ ابْنِ يُوَيْبِ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُتْلَقَى الْحَلَبُ فَإِنْ تَلَقَّاهُ إِنْسَانٌ فَابْتِاعَهُ فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ فِيهَا بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَ السُّوقَ

۱۰۹۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کسی غلہ وغیرہ بیچنے والے قافلے سے شہر سے باہر جا کر ملنے سے منع فرمایا: اور اگر کوئی شخص ان سے کچھ خریدے تو شہر میں داخل ہونے کے بعد غلے والوں کو اختیار ہے۔

یہ حدیث ایوب کی روایت سے حسن غریب ہے۔ اور ابن مسعودؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض علماء قافلے والوں کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے ان سے خرید و فروخت کرنے سے منع کرتے ہیں۔ شافعی اور ہمارے اصحاب کا بھی یہی قول ہے یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ بھی دھوکے کی ایک قسم ہے۔

توضیح: اس ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ لوگ شہر سے باہر جا کر قافلے سے سستا مال خرید لیتے ہیں اور جب وہ بازار میں آتے ہیں تو پچھتاتے ہیں جب کہ وہی چیز وہ لوگ یہاں آ کر مہنگی فروخت کرتے ہیں اس سے شہر والوں پر بھی بوجھ پڑتا ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۸۲۷۔ مَا جَاءَ لَا يَبِيعُ حَاضِرًا لِيَادِ

باب ۸۲۷۔ کوئی شہر کارہنے والا گاؤں والے کی چیز فروخت نہ کرے۔

۱۰۹۲۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَاحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَا ثَنَا سَفِيَانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قُتَيْبَةُ يُبْلَغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ حَاضِرًا لِيَادِ

۱۰۹۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمہارے کہتے ہیں کہ وہ بھی یہ حدیث جانتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی شہر میں رہنے والا گاؤں والے کی کوئی چیز نہ بیچے۔

اس باب میں حضرت طلحہؓ، انسؓ، جابرؓ، ابن عباسؓ اور حکیم بن ابی زیدؓ (اپنے والد سے)، کثیر بن عبد اللہ کے دادا عمر و بن عوف مزنی اور ایک اور صحابی سے بھی احادیث منقول ہیں۔

توضیح: اس ممانعت کی وجہ (واللہ اعلم) یہ ہے کہ گاؤں سے لوگ غلہ وغیرہ شہر میں لا کر سستا بیچ جاتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی ان کا مال اپنے پاس رکھے اور آہستہ آہستہ بیچے تو قیمت چڑھ جاتی ہے جس سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے۔ (مترجم)

۱۰۹۳۔ حدثنا نصر بن علی واحمد بن منيع قالوا ثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض

۱۰۹۳۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی شہر والا گاؤں والے کے لیے نہ بیچے لوگوں کو چھوڑ دو تاکہ اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے رزق دیتا ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے حضرت جابرؓ کی حدیث بھی حسن صحیح ہے۔ بعض علماء صحابہ وغیرہ کا اسی پر عمل ہے کہ شہری، دیہاتی کی چیزیں فروخت نہ کرے۔ جب کہ بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ دیہاتی سے مال خرید لے۔ شافعی کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے کہ کوئی شہری، دیہاتی کی اشیاء فروخت کرے لیکن اگر ایسا کیا تو بیع جائز ہے۔

باب ۸۲۸۔ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمَزَابِنَةِ

باب ۸۲۸۔ محاقلہ اور مزابنہ کی ممانعت۔

۱۰۹۴۔ حدثنا قتيبة ثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة

۱۰۹۴۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے محاقلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا۔ (۱)

اس باب میں ابن عمرؓ، ابن عباسؓ، زید بن ثابتؓ، سعدؓ، جابرؓ، رافع بن خدیجؓ اور ابو سعیدؓ سے بھی حدیثیں منقول ہیں اسی پر علماء کا عمل ہے کہ محاقلہ اور مزابنہ حرام ہے۔

۱۰۹۵۔ حدثنا قتيبة ثنا مالك بن انس عن عبد الله بن يزيد ان زيدا ابا عياش سأل سعدا عن البيضاء بالسلت فقال ايهما افضل قال البيضاء فنهي عن ذلك وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسئل عن اشتراء التمر بالرطب فقال لمن حوله ايتقص الرطب اذا بيس قالوا نعم فنهي عن ذلك

۱۰۹۵۔ حضرت عبد اللہ بن یزید کہتے ہیں کہ زید ابو عیاش نے سعد سے گےہوں کو جو کے عوض خریدنے کے متعلق پوچھا۔ سعد نے کہا ان دونوں میں سے افضل کون سی چیز ہے؟ زید نے کہا: گندم۔ چنانچہ انہوں نے منع کر دیا کہ یہ جائز نہیں۔ اور فرمایا: میں نے کسی کو رسول اللہ ﷺ سے سوال کرتے ہوئے سنا کہ کھجوروں کو کچی کھجوروں کے عوض خریدنے کا کیا حکم ہے؟ آپ ﷺ نے اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھا کہ جب کچی کھجوریں پکتی ہیں تو کیا وزن میں کم ہو جاتی ہیں؟ عرض کیا

گیا: جی ہاں چنانچہ آپ ﷺ نے منع فرمادیا۔ (۲)

ہنا، مالک سے وہ عبد اللہ بن یزید سے اور وہ زید ابو عیاش سے نقل کرتے ہیں کہ ہم نے سعد سے پوچھا..... الخ (اسی حدیث کی مانند) یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ شافعی اور ہمارے فقہاء کا بھی یہی قول ہے۔

باب ۸۲۹۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ التَّمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحَهَا

باب ۸۲۹۔ پھل پکنے شروع ہونے سے پہلے بیچنا صحیح نہیں۔

(۱) محاقلہ: کوئی شخص اگر کسی کھیت کو گےہوں کے عوض بیچے مثلاً کہے کہ پچاس من گےہوں لے لو اور اس کھیت کی پیداوار میرے ہاتھ بیچ دو۔ یہ دھوکے کا سودا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ اس میں سے کتنا غلہ نکلے گا۔ (مترجم)

(۲) درخت پر لگی ہوئی کھجوروں کی درخت سے اتاری ہوئی کھجوروں سے بیع کو مزابنہ کہتے ہیں یہ بھی جائز نہیں علت یہی ہے جو اوپر مذکور ہے۔ (مترجم)

۱۰۹۶۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کھجوروں کو خوں رنگ ہونے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا: اسی سند سے یہ بھی منقول۔ کہ آپ ﷺ نے گہوں کو سفید ہونے اور آفت وغیرہ سے محفوظ ہونے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا: خریدنے والے کو بھی اور بیچنے والے کو بھی۔

۱۰۹۶۔ حدثنا احمد بن منيع بن اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النحل حتى يزهو وبهذا الإسناد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويا من العاهة نهى البائع والمشتري

اس باب میں حضرت انسؓ، عائشہؓ، ابو ہریرہؓ، ابن عباسؓ، جابرؓ، ابوسعید اور زید بن ثابتؓ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن ہے علماء صحابہ وغیرہ کا اسی پر عمل ہے کہ پھلوں کو پکنے سے پہلے بیچنا منع ہے۔ شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

۱۰۹۷۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے انگور کے ہونے اور تمام دانوں یا غلوں کے سخت ہونے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا:

۱۰۹۷۔ حدثنا حسن بن علي الخلال ثنا ابو الوليد وعفان وسليمان بن حرب قالوا ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود و من بيع الحب حتى يشتد

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور صرف حماد بن سلمہ ہی کی روایت سے موقوف ہے۔

باب ۸۳۰۔ اونٹنی کے حمل کے بچے کو بیچنے کی ممانعت۔  
۱۰۹۸۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اونٹنی کے حمل کے بچے کو بیچنے سے منع کیا۔

باب ۸۳۰۔ ماجاء في النهي عن بيع حبل الحبلۃ  
۱۰۹۸۔ حدثنا قتيبة ثنا حماد بن زيد عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلۃ

اس باب میں عبد اللہ بن عباسؓ اور ابوسعید خدریؓ سے بھی حدیثیں منقول ہیں۔ حضرت ابن عمرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر اہل علم کا عمل ہے اور حبل الحبلۃ سے مراد اونٹنی کے بچے کا بچہ ہے۔ اس کا بیچنا اہل علم کے نزدیک باطل ہے۔ اس لئے کہ وہ دھوکے کی بیوع میں سے ہے۔ شعبہ یہ حدیث ایوب سے وہ سعید بن جبیر سے، وہ نافع سے، وہ ابن عمر سے اور وہ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں اور یہ زیادہ صحیح ہے۔

باب ۸۳۱۔ دھوکے کی بیع حرام ہے۔

باب ۸۳۱۔ ماجاء في كراهية بيع الغرر

۱۰۹۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے دھوکے اور کنکریاں مارنے کی بیع سے منع فرمایا۔

۱۰۹۹۔ حدثنا ابو كريب ثنا ابو اسامة عن عبيد الله ابن عمر عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصاة

اس باب میں حضرت ابن عمرؓ، ابن عباسؓ، ابوسعیدؓ اور انسؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور علماء کا اسی پر عمل ہے کہ دھوکے والی بیع حرام ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ بیع غرر (دھوکے والی) میں یہ چیزیں داخل ہیں۔ مچھلی کا پانی میں ہوتے ہوئے فروخت کرنا، مفروز غلام کا بیچنا اور پرندے کا اڑتے ہوئے فروخت کرنا اور اسی طرح کی دوسری بیوع بھی اسی ضمن میں آتی ہیں کنکری مارنے کی بیع یعنی بیع المصاة کے معنی یہ ہیں کہ بیچنے والا خریدنے والے سے یہ کہے کہ جب میں تیری طرف کنکری پھینکوں تو میرے اور تیرے درمیان بیع واجب ہوگی۔ یہ بیع منابذہ ہی سے مشابہ ہے یہ سب زمانہ جاہلیت کی بیوع ہیں۔

باب ۸۳۲۔ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

۱۱۰۰۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ ثَنَا عَبْدِ بَنِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

باب ۸۳۲۔ ایک بیع میں دو بیع کرنے کی ممانعت۔

۱۱۰۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک بیع میں دو بیع کرنے سے منع فرمایا۔

اس باب میں عبد اللہ بن عمرؓ، ابن مسعود اور ابن عمرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اور اسی پر علماء کا عمل ہے بعض علماء اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ کوئی شخص دوسرے سے کہے کہ میں تمہیں یہ کپڑا نقد دس روپے میں اور ادھار تیس روپے میں فروخت کرتا ہوں بشرطیکہ وہ دونوں میں سے کسی چیز پر متفق ہونے سے پہلے جدا ہو جائیں۔ چنانچہ اگر نقد یا ادھار کسی ایک چیز پر متفق ہو گئے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ ایک بیع میں دو بیع کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی سے کہے کہ میں تمہیں اپنا گھرا تنی قیمت میں بیچتا ہوں بشرطیکہ تم اپنا غلام مجھے اتنی قیمت میں بیجو۔ لہذا جب تمہارا غلام میری ملکیت میں آ گیا تو میرا گھر تمہاری ملکیت میں آ گیا۔ یہ بیع اس لیے ناجائز ہے کہ اس بیع میں قیمتیں تعین کیے بغیر واقع ہوئی ہیں اور وہ دونوں نہیں جانتے کہ اس کی بیع کس پر واقع ہوئی۔

باب ۸۳۳۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ مَالَيْسٍ عِنْدَكَ

۱۱۰۱۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا هَشِيْمٌ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَالِكٍ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَالَيْسٍ عِنْدِي أَبْتَاْعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أْبَيْعُهُ قَالَ لَا تَبِعْ مَالَيْسٍ عِنْدَكَ

باب ۸۳۳۔ جو چیز بیچنے والے کے پاس نہ ہو اس کی فروخت ممنوع ہے۔

۱۱۰۱۔ حضرت حکیم بن حزامؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ لوگ میرے پاس آ کر ایسی چیز طلب کرتے ہیں جو میرے پاس نہیں ہوتی کیا میں بازار سے خرید کر انہیں بیچ سکتا ہوں آپ ﷺ نے فرمایا: جو چیز تمہارے اپنے پاس نہ ہو اسے فروخت نہ کرو۔

باب ۱۱۰۲۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهِكٍ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ نَهَا نِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبِيعَ مَالَيْسٍ عِنْدِي

۱۱۰۲۔ حضرت حکیم بن حزامؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے مجھے ایسی چیز فروخت کرنے سے منع فرمایا: جو میرے پاس نہ ہوں۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اس باب میں عبد اللہ بن عمرؓ سے بھی روایت ہے۔ احمد بن منیع، اسماعیل بن ابراہیم سے، وہ ایوب سے وہ عمرو بن شعیب سے وہ اپنے والد سے اور وہ عمرو کے دادا سے یہاں تک کہ عبد اللہ بن عمرو سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "لا یحل سلف و بیع ولا شرطان فی بیع ولا ربح مالم یضمن ولا بیع مالیس عندک" کہ سلف اور بیع حلال نہیں۔ نہ ہی ایک بیع میں دو شرطیں جائز ہیں پھر جس کا وہ ضامن نہ ہو اس کا نفع بھی حلال نہیں اور اسی طرح جو چیز پاس نہ ہو اس کا فروخت کرنا بھی جائز نہیں (دو شرطیں جائز ہیں پھر جس کا وہ ضامن نہ ہو اس کا نفع بھی حلال نہیں اور اسی طرح جو چیز پاس نہ ہو اس کا فروخت کرنا بھی جائز نہیں)

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسحاق بن منصور کہتے ہیں کہ میں نے احمد سے پوچھا کہ سلف اور بیع کی ممانعت سے کیا مراد تو فرمایا: اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو قرض دے اور پھر کوئی چیز اسے قیمت سے زیادہ کی فروخت کر دے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ اس کے معنی یہ ہوں کہ کوئی شخص کسی چیز کی قیمت بطور قرض چھوڑ دے اور اس سے یہ کہے کہ اگر تم یہ قیمت ادا نہ کر سکتے تو یہ چیز میرے ہاتھ فروخت ہوگئی۔ اسحاق کہتے ہیں پھر میں نے احمد سے اس کا معنی پوچھا کہ (جس کا ضامن نہ ہو اس کا منافع بھی حلال نہیں) تو فرمایا: میرے نزدیک یہ صرف غلے وغیرہ میں ہی ہے۔ یعنی جب تک اس پر قبضہ نہ ہو جائے۔ اسحاق کہتے ہیں جو چیزیں تولی یا ناپی جاتی ہیں ان کا حکم بھی اسی طرح ہے۔ یعنی قبضے سے پہلے اس کی بیع جائز نہیں۔ احمد کہتے ہیں: اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے یہ کپڑا تمہارے ہاتھ اس شرط پر فروخت کیا کہ سلائی اور دھلائی میرے ذمے ہے تو یہ ایک بیع میں دو شرطوں کی طرح ہے لیکن اگر یہ کہے کہ میں تمہیں یہ کپڑا فروخت کرتا ہوں اس کی سلائی بھی مجھ پر ہی ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اسی طرح اگر صرف دھلائی کی شرط ہو تو بھی جائز ہے اس لیے کہ ایک ہی شرط ہے۔ اسحاق نے اسی طرح کچھ کہا ہے۔ (یعنی امام ترمذی مضطرب ہیں) حکیم بن حزام کی حدیث حسن ہے اور انہی سے کئی سندوں سے منقول ہے یہ حدیث ایوب سختیانی اور ابوالبشر بھی یوسف بن ماہک سے اور وہ حکیم بن حزام سے نقل کرتے ہیں۔ پھر عوف اور ہشام بن حسان ابن سیرین سے اور وہ حکیم بن حزام سے مرسل نقل کرتے ہیں۔ ابن سیرین، ایوب سختیانی سے وہ یوسف بن ماہک سے اور وہ حکیم بن حزام سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ ہم سے حسن بن علی خلال، عبدہ بن عبد اللہ اور کئی راوی یہ حدیث عبد الصمد بن عبد الوارث سے وہ یزید بن ابراہیم سے وہ ابن سیرین سے وہ ایوب سے وہ یوسف بن ماہک سے اور وہ حکیم سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے وہ چیز فروخت کرنے سے منع فرمایا جو میرے پاس نہ ہو۔ کعب یہی حدیث یزید بن ابراہیم سے وہ ابن سیرین سے وہ ایوب سے اور وہ حکیم بن حزام سے نقل کرتے ہوئے یوسف بن ماہک کا ذکر نہیں کرتے۔ عبد الصمد کی حدیث زیادہ صحیح ہے۔ یحییٰ بن ابی کثیر بھی یہی حدیث یعلیٰ بن حکیم سے وہ یوسف بن ماہک سے وہ عبد اللہ بن عاصم سے وہ حکیم بن حزام سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ اکثر علماء اسی پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو چیز پاس نہ ہو اس کا فروخت کرنا حرام ہے۔

باب ۸۳۴ - ولاء (۱) کا بیچنا یا بہ کرنا صحیح نہیں۔

باب ۸۳۴ - مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْوَلَاءِ وَهَيْتِهِ

۱۱۰۳ - حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ولاء کے بیچنے یا اسے بہہ کرنے سے منع فرمایا۔

۱۱۰۳ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثنا عبد الرحمن بن

مهدی ثنا سفیان وشعبة عن عبد الله بن دينار عن

ابن عمر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ

الْوَلَاءِ وَعَنْ هَيْتِهِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے ہم اسے صرف عبد اللہ بن دینار کی ابن عمر سے روایت سے جانتے ہیں۔ علماء اسی پر عمل کرتے ہیں یحییٰ بن سلیم یہ حدیث عبید اللہ بن عمر سے وہ نافع سے وہ ابن عمر سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ اس حدیث میں وہ ہم سے یحییٰ بن سلیم اس میں وہم کرتے ہیں۔ عبد الوہاب ثقفی، عبد اللہ بن نمیر اور کئی راوی یہ حدیث عبد اللہ بن عمر سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں یہ حدیث یحییٰ بن سلیم کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔

(۱) ولاء وہ حق ہے جو مالک کو غلام آزاد کرنے کی وجہ سے ملتا ہے۔ جب غلام فوت ہو جائے تو اس کا کوئی نسب سے وارث نہ ہو تو اس کا ترکہ اسے آزاد کرنے والے کو دیا جاتا ہے۔ (مترجم)

باب ۸۳۵- مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

باب ۸۳۵- جانور کے عوض جانور بطور قرض فروخت کرنا صحیح نہیں۔

۱۱۰۴- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو مُوسَى ثَنَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

۱۱۰۴- حضرت سمرة فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حیوان کے بدلے حیوان بطور قرض فروخت کرنے سے منع فرمایا۔

اس باب میں ابن عباسؓ، جابرؓ اور ابن عمرؓ سے بھی روایت ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے حسن کا سرہ سے سماع ثابت ہے علی بن مدینی بھی یہی کہتے ہیں اکثر علماء صحابہ وغیرہ کا اسی پر عمل ہے اور یہی سفیان ثوری، اہل کوفہ اور امام احمد کا قول ہے جب کہ بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں شافعی اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔

۱۱۰۵- حَدَّثَنَا أَبُو عَمَارٍ الْحَسِينُ بْنُ الْحَرِيثِ ثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْحَجَّاجِ وَهُوَ ابْنُ ارطَاةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَيَوَانِ أَتَيْنِ بِوَاحِدَةٍ لَا يُضْلِحُ نَسِيئًا وَلَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ

۱۱۰۵- حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک جانور کے بدلے دو جانور قرض بیچنا جائز نہیں لیکن نقد بیچنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

یہ حدیث حسن ہے۔

باب ۸۳۶- مَا جَاءَ فِي شِرَاءِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ

باب ۸۳۶- ایک غلام دو غلاموں کے بدلے میں خریدنا۔

۱۱۰۶- حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهَجْرَةِ وَلَا يَشْعُرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيْنِهِ فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ثُمَّ لَمْ يَبَايِعْ أَحَدًا بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى يُسْأَلَ أَعْبَدُ هُوَ

۱۱۰۶- حضرت جابر فرماتے ہیں ایک غلام آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہجرت کی بیعت کی آپ ﷺ کو علم نہیں تھا کہ یہ غلام ہے۔ جب اس کا مالک اسے لے جانے کے لیے آگیا تو آنحضرت ﷺ نے اس سے فرمایا: کہ اسے میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اسے دو سیاہ فام غلاموں کے عوض خریدا۔ اس کے بعد آنحضرت ﷺ کسی سے اس وقت تک بیعت نہ کرتے جب تک اس سے پوچھ نہ لیتے کہ وہ غلام تو نہیں۔

اس باب میں انسؓ سے بھی حدیث منقول ہے حضرت جابرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر علماء کا عمل ہے کہ دو غلام دے کر ایک غلام خریدنے میں کوئی مضائقہ نہیں بشرطیکہ ہاتھوں ہاتھ ہو۔ جب کہ قرض میں اختلاف ہے۔

باب ۸۳۷- مَا جَاءَ أَنَّ الْحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلِ وَكَرَاهِيَةَ التَّفَاضُلِ فِيهِ

باب ۸۳۷- گیہوں کے بدلے گیہوں برابر بیچنے کا جواز اور کمی بیشی کا عدم جواز۔

۱۱۰۷۔ حضرت عبادہ بن صامتؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سونے کے بدلے سونا برابر برابر بیچو اور اسی طرح چاندی ہی کے عوض چاندی، کھجور کے بدلے کھجور، گےہوں کے مقابلے میں گےہوں، نمک کے بدلے نمک اور جو کے عوض جو برابر فروخت کرو۔ جس نے زیادہ لیا یا دیا اس نے سود کا معاملہ کیا۔ پھر سونا چاندی کے عوض، گےہوں کھجور کے عوض اور جو کھجور جس طرح چاہو خرید و فروخت کرو بشرطیکہ نقد و نقد ہو۔ (ادھار جائز نہیں۔ وزن میں کمی بیشی جائز ہے)۔

۱۱۰۷۔ حدثنا سويد بن نصر ثنا ابن المبارك ثنا سفیان عن خالد الحذاء عن ابی قلابہ عن ابی الاشعث عن عبادۃ بن الصّامیت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الذّهبُ بالذّهبِ مثلاً بِمِثْلِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلِ وَالبُرُّ بِالبُرِّ مِثْلًا بِمِثْلِ وَ الْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ وَ الشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلًا بِمِثْلِ فَمَنْ رَادَ اَوْازُ دَادَ فَقَدْ اُرْبِي بِيُعُو الذّهبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ وَيَبْعُو البُرَّ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ وَيَبْعُو الشَّعِيرَ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ

اس باب میں ابوسعیدؓ، ابو ہریرہؓ اور بلالؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں حضرت عبادہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض راوی یہ حدیث اسی سند سے خالد سے بھی روایت کرتے ہیں اس میں یہ الفاظ بھی ہیں ”بیعو البر بالشعیر کیف شئتم یدایدا“ یعنی گےہوں کے بدلے جو کو جس طرح چاہو فروخت کرو۔ لیکن نقد و نقد ہونا شرط ہے۔ بعض یہ حدیث خالد سے وہ ابو قلابہ سے وہ ابو الاشعث سے وہ عبادہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہوئے یہ الفاظ زیادہ کرتے ہیں کہ خالد ابو قلابہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ گےہوں جو کے عوض جس طرح فروخت کر سکتے ہو..... الخ علماء اسی پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گےہوں کو گےہوں کے عوض برابر برابر ہی بیچا جاسکتا ہے اور اسی طرح جو کے عوض جو بھی برابر فروخت کی جاسکتی ہے۔ یعنی اگر اصناف مختلف ہو جائیں تو کمی یا زیادتی میں کوئی مضائقہ نہیں بشرطیکہ نقد و نقد ہو (مثال کے طور سوا سیر گےہوں دو سیر جو کے بدلے) اکثر علماء صحابہ وغیرہ کا یہی قول ہے۔ سفیان ثوری، شافعی، احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔ شافعی کہتے ہیں کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جو کے عوض گےہوں جس طرح چاہو فروخت کرو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نقد و نقد ہو۔ علماء کی ایک جماعت یہ بھی کہتی ہے کہ گےہوں جو کے عوض بھی برابر ہی فروخت کیا جائے گا۔ یعنی اس میں کمی زیادتی صحیح نہیں یہ مالک بن انس کا قول ہے۔ جب کہ پہلا قول ہی صحیح ہے۔

توضیح: یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ افادۃ عامہ کے لیے ربا کی تعریف، اس کی قسمیں اور اس کے متعلق قاعدہ کلیہ بیان کر دیا جائے تاکہ اس باب سے متعلق احکام و مسائل سمجھنے میں آسانی ہو۔ واللہ ولی التوفیق۔ ربا کی اصطلاح میں تعریف یہ ہے کہ یہ ایسی زیادتی کو کہتے ہیں جو کسی مالی معاوضے کے بغیر حاصل ہو۔ یہ سود سے زیادہ عام اور وسیع مفہوم کا حامل ہے اور سود اس کی ایک قسم ہے۔ ربا کو عام طور پر پانچ چیزوں پر تقسیم کیا جاتا ہے۔

(۱) ربا قرض (۲) ربا ہرہن (۳) ربا شراکت (۴) ربا نسبیہ (۵) ربا فضل۔ ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

(۱) ربا ہرہن سے مراد وہ نفع ہے جو گروہی رکھنے والے کو گروہی رکھوانے والے (راہن) یا گروہی رکھی جانے والی چیز سے بغیر کسی مالی معاوضے کے حاصل ہو۔ مثلاً کوئی شخص اپنا مکان گروہی رکھ کر کسی سے قرض لیتا ہے تو وہ اس مکان کو کرائے پر چڑھا دے۔ یا یوں کرے کہ گروہی رکھنے والے سے سود وصول کرے۔ یہ دونوں صورتیں حرام ہیں۔

(۳) رباء شراکت یہ ہے کہ کسی مشترک کاروبار میں ایک شریک دوسرے شریک کا منافع متعین کر دے اور باقی تمام منافع اور نقصان کا استحقاق صرف اسی کو حاصل ہو۔ یہ بھی حرام ہے۔

(۴) رباء نسبیہ سے مراد یہ ہے کہ دو چیزوں کے باہم لین دین یا خرید و فروخت میں ادھار کرنا خواہ اس میں اہل مال پر زیادتی وصول کی جائے یا نہیں۔ مثلاً کوئی شخص کسی دوسرے کو ایک من گندم دے اور دوسرا بھی اسے ایک من ہی گندم دے لیکن کچھ عرصے بعد دے، دست بدست نہ دے۔

(۵) رباء فضل کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزوں میں باہم لین دین کی پیشی کے ساتھ ہو اور دست بدست ہو۔ مثلاً کوئی شخص کسی دوسرے کو ایک سیر گیہوں کے بدلے سوا سیر گیہوں اسی وقت دے۔

رباء فضل اور نسبیہ کا حکم بیان کرنے سے پہلے چند چیزوں کا بیان کرنا نہایت ضروری ہے چنانچہ لین دین اور تجارت کا تعلق تین قسم کی چیزوں سے ہوتا ہے یا تو وہ وزن کی جاتی ہیں یا کسی برتن وغیرہ سے ناپی جاتی ہیں یا عدد انگنی جاتی ہیں۔ چنانچہ وزن کی جانی والی چیزوں کو ”موزون“ اور ناپی جانے والی چیزوں کو ”کمیل“ کہتے ہیں اور کسی چیز کے موزون یا کمیل ہونے کی صفت کو فقہی اصطلاح میں ”قدر“ کہا جاتا ہے۔ پھر ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے مثلاً گیہوں گیہوں ہے اور چاندی چاندی ہے۔

جن چیزوں کا باہم لین دین ہوتا ہے یا تجارت میں استعمال ہوتی ہیں وہ چار قسم کی ہیں۔ اگر مندرجہ ذیل قاعدہ ذہن نشین کر لیا جائے تو مسائل سمجھنے نہایت آسان ہو جاتے ہیں۔

(۱) متحد القدر و الجلس۔ یعنی دونوں کی قدر اور جنس ایک ہی ہو مثلاً جو کا جو کے عوض لین دین۔ اس میں برابری اور دست بدست یعنی نقد و نقد ہونا ضروری ہے نہ ایک کی زیادتی جائز ہے اور نہ ہی ایک کی ادائیگی کے بعد دوسرے کی ادائیگی میں تاخیر چنانچہ ایک کلو جو کے بدلے ایک ہی کلو جو دینا پڑے گا اور اسی وقت دینا پڑے گا یعنی ان چیزوں میں رباء فضل اور نسبیہ دونوں حرام ہیں۔

(۲) متحد القدر غیر متحد الجلس۔ یعنی دونوں کی قدر تو ایک ہی ہو، لیکن جنس مختلف ہو۔ اس صورت میں برابری تو ضروری ہے۔ لیکن دست بدست ہونا واجب نہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ایک کلو گیہوں دے اور دوسرا اس کے عوض سوا کلو چنے دے۔ لیکن اس تبادلے میں ادھار جائز نہیں ہوگا۔ یعنی اس صورت میں رباء فضل تو جائز ہے لیکن نسبیہ یعنی ادھار حرام ہے۔

(۳) متحد الجلس غیر متحد القدر یعنی دونوں کی جنس تو ایک ہی ہے لیکن قدر الگ الگ ہے۔ اس کا بھی حکم متحد القدر غیر متحد الجلس والا ہی ہے مثال کے طور پر بکریوں کا تبادلہ ایک شخص ایک بکری کے عوض دو بکریاں لے سکتا ہے لیکن دست بدست ادھار جائز نہیں یہ غیر متحد القدر اس لیے ہے کہ بکری نہ مکمل ہے اور نہ موزون یعنی اس صورت میں بھی رباء فضل جائز اور رباء نسبیہ حرام ہے۔

(۴) غیر متحد الجلس والقدر یعنی دونوں کی جنس بھی مختلف ہو اور قدر بھی۔ ایسی چیزوں کے لین دین میں کمی بیشی بھی جائز ہے اور ادھار بھی مثلاً روپے کے بدلے کپڑا خریدنا۔ یا غلہ خریدنا وغیرہ کوئی شخص اگر ایک روپیہ دے کر ایک کلو غلہ خریدتا ہے تو بھی جائز ہے اور اگر دو کلو غلہ خریدتا ہے تو بھی جائز ہے اس لیے کہ روپے اور غلہ دونوں کی نہ جنس ایک ہے اور نہ ہی قدر۔ پھر اس صورت میں ادھار لین دین بھی جائز ہے یعنی اس میں رباء فضل بھی جائز ہے اور رباء نسبیہ بھی۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۸۳۸۔ قیمت کی ادائیگی میں سکے کی تبدیلی سے متعلق۔

باب ۸۳۸۔ مَا جَاءَ فِي الصَّرْفِ

۱۱۰۸۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ میں اور ابن عمرؓ حضرت ابو سعیدؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ میں اپنے ان دونوں

۱۱۰۸۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثنا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى  
ابن أَبِي كَثِيرٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ إِلَى

أَبِي سَعِيدٍ فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُهُ أَدْنَاهَى هَاتَيْنِ يَقُولُ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا يُشَفَّ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ

کانوں سے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ سونا سونے کے اور چاندی، چاندی کے عوض برابر بیچو نہ کم نہ زیادہ۔ پھر دونوں کی ادائیگی کی دست بدست کرو یعنی دونوں فریق ایک ہی وقت میں ادائیگی کریں کوئی اس میں تاخیر نہ کرے۔

اس باب میں حضرت ابو بکر، عثمان، ابو ہریرہ، ہشام بن عامر، براء، زید بن ارقم، فضالہ بن عبید، ابوبکرہ، ابن عمر، ابو درداء اور بلال سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء صحابہ وغیرہ کا اسی پر عمل ہے لیکن حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ سونے کے بدلے سونے اور چاندی کے بدلے چاندی کے لین دین میں کمی زیادتی جائز ہے بشرطیکہ دست بدست ہو ان کا کہنا ہے کہ یہ ربا تو اسی صورت میں ہے کہ یہ معاملہ قرض کی صورت میں ہو۔ پھر ان کے بعض دوستوں سے بھی اسی طرح منقول ہے لیکن ابن عباسؓ نے جب یہ حدیث حضرت ابوسعید خدریؓ سے سنی تو اپنے قول سے رجوع کر لیا تھا۔ لہذا پہلا قول ہی صحیح ہے اور اسی پر اہل علم کا عمل ہے۔ سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

۱۱۰۹۔ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَالُ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سَمَاقِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ أبيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأبيعُ بِالذَّنَا نِيرَ فَأَحْضِدُ مَكَانَهَا الْوَرِقَ وَأبيعُ بِالْوَرِقِ فَأَحْضِدُ مَكَانَهَا الدَّنَّ نَانِيرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُهُ خَارِجًا مِنْ بَيْتِ حَفْصَةَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ بِالْقِيمَةِ

۱۱۰۹۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں بقیع کے بازار میں دیناروں کے عوض اونٹ فروخت کیا کرتا تھا چنانچہ دیناروں کے عوض بیچنے پر درہم میں بھی قیمت وصول کر لیتا اور اسی طرح درہم کے عوض بیچنے میں دیناروں میں بھی۔ پھر میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ ﷺ حفصہ کے گھر سے نکل رہے تھے میں نے آپ ﷺ سے اس مسئلے کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا: قیمت طے کر لینے کی صورت میں کوئی حرج نہیں۔

اس حدیث کو ہم صرف سماک بن حرب کی روایت سے مرفوع جانتے ہیں وہ سعید بن جبیر سے اور وہ ابن عمرؓ سے نقل کرتے ہیں۔ داؤد ابو ہند بھی حدیث سعید بن جبیر سے اور وہ ابن عمرؓ سے موقوفاً نقل کرتے ہیں۔ بعض علماء اسی پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سونے اور چاندی کے لین دین میں کوئی حرج نہیں۔ احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے جب کہ بعض علماء اسے صحیح نہیں سمجھتے۔

۱۱۱۰۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ أَقُولُ مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَرِنَا ذَهَبَكَ ثُمَّ أَتِنَا إِذَا جَاءَ خَادٍ مَنَا نُعْطِيكَ وَرَقًا فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَلَّا وَاللَّهِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرَقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَرِقَ بِالذَّهَبِ رَبُّوهُ إِلَّا هَاءَ وَ هَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبُّوهُ إِلَّا هَاءَ وَ هَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ

۱۱۱۰۔ حضرت مالک بن اوس بن حدثان کہتے ہیں میں بازار میں یہ پوچھتا ہوا داخل ہوا کہ دیناروں کے بدلے میں مجھے کون درہم دے سکتا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ جو حضرت عمرؓ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے۔ اپنا سونا ہمیں دکھاؤ اور پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ واپس آ جانا جب تک ہمارا خادم چاندی لے کر آجائے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: اللہ کی قسم یہ ممکن نہیں۔ یا تو تم انہیں اپنے درہم دکھاؤ یا ان کا سونا واپس کر دو۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سونے کے بدلے چاندی اگر دست بدست نہ ہو تو سود ہے اور اسی طرح گہوں، گہوں کے عوض، جو جو کے

رَبُّوْا اِلَّا هَآءَ وَهَآءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبُّوْا اِلَّا هَآءَ وَهَآءَ  
عوض اور کھجور کھجور کے عوض رہا ہے۔ اِلا یہ کہ دست بدست ہو۔  
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اہل علم اسی پر عمل پیرا ہیں۔ ”ہاء و ہاء“ کے معنی دست بدست ہو۔

باب ۸۳۹۔ مَا حَآءَ فِي اِتِّبَاعِ النَّخْلِ بَعْدَ التَّابِيْرِ  
وَالْعَبْدِ وَلَهُ مَالٌ  
باب ۸۳۹۔ مالدار غلام اور کھجور کی بیوند کاری کے بعد فروخت سے متعلق۔

۱۱۱۱۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا اللِّيْثُ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ  
عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ اِتَّبَعَ نَخْلًا نَخْلًا بَعْدَ اَنْ تُوْبَرَ فَمَمْرُهَا  
لِلَّذِيْ بَاعَهَا اِلَّا اَنْ يَشْتَرِطَ الْمُتَّبَاعُ وَمَنْ اِتَّبَعَ عَبْدًا  
وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِيْ بَاعَهُ اِلَّا اَنْ يَشْتَرِطَ الْمُتَّبَاعُ  
۱۱۱۱۔ حضرت سالم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اگر کسی نے کھجور کی بیوند کاری کے بعد درخت خریدے تو پھل بیچنے والے کا ہوگا۔ البتہ اگر کوئی پھل کی بھی شرط لگا چکا ہو تو کوئی حرج نہیں اسی طرح اگر کوئی مالدار غلام کو فروخت کرتا ہے تو اگر خریدنے والے نے مال کی بھی شرط نہ لگائی ہوگی تو وہ بیچنے والے ہی کا ہے۔

اس باب میں جاہل بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور زہری سے بھی بحوالہ سالمؓ کی سندوں سے اسی طرح منقول ہے۔ سالم، ابن عمرؓ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر کسی نے کھجور کا درخت بیوند کاری کے بعد خرید تو پھل فروخت کرنے والے کا ہوگا بشرطیکہ خریدنے والے نے خریدتے وقت اس کی بھی شرط نہ لگائی ہو۔ پھر اگر کوئی شخص غلام فروخت کرے گا تو غلام کا مال بیچنے والا ہوگی ملکیت ہوگا بشرطیکہ خریدنے والے نے اس کی بھی شرط نہ لگائی ہو۔ حضرت نافع ابن عمرؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ بیوند کاری کے بعد فروخت کی جانے والی کھجوروں (کے درختوں) کا پھل بیچنے والے کا ہوگا بشرطیکہ خریدنے والا اس کی شرط نہ لگا چکا ہو۔ پھر اسی سند سے حضرت عمرؓ سے بھی نقل ہے کہ جس شخص نے غلام کو فروخت کیا۔ اور خریدنے والے نے مال کی شرط نہ لگائی تو مال فروخت کرنے والے ہی کا ہے۔ عبید اللہ بن عمرؓ بھی نافع سے دونوں حدیثیں اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ بعض راوی یہ حدیث بحوالہ ابن عمرؓ، نافع سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔ پھر عمرؓ بن خالد بھی حضرت ابن عمرؓ سے حضرت سالم ہی کی حدیث کے مثل نقل کرتے ہیں۔ بعض اہل علم اسی پر عمل کرتے ہیں جن میں شافعی، احمد اور اسحاق بھی شامل ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں زہری کی سالم سے اور ان کی اپنے والد سے منقول حدیث اصح ہے۔

باب ۸۴۰۔ مَا حَآءَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَالًا يَتَفَرَّقَا  
باب ۸۴۰۔ بیع میں افتراق فریقین کے اختیار سے متعلق۔

۱۱۱۲۔ حَدَّثَنَا وَاصلُ بْنُ عَبْدِ اَلْعَلِيِّ الْكُوفِيُّ ثَنَا  
مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيْلِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ  
اِبْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَالًا يَتَفَرَّقَا اَوْ يَخْتَارَا  
قَالَ فَكَانَ اِبْنُ عُمَرَ اِذَا اِتَّبَعَ بَيْعًا وَهُوَ قَاعِدٌ قَامَ  
لِيَجِبَ لَهُ  
۱۱۱۲۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: فروخت کرنے والے اور خریدنے والے دونوں کو افتراق سے پہلے تک اختیار ہے (کہ بیع کو باقی رکھیں یا فسخ کر لیں)۔ یا پھر یہ کہ اختیار کی بھی شرط لگائیں یعنی اس صورت میں افتراق کے بعد بھی اختیار باقی رہے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ ابن عمرؓ جب کوئی چیز خرید کرتے اور بیٹھے ہوتے تو اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تاکہ وہ بیع واجب ہو جائے

۱۱۱۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ  
عَنْ شُعْبَةَ ثَنِي قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ ابْنِ النُّخْلِيِّ عَنْ  
عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ قَالَ  
۱۱۱۳۔ حضرت حکیم بن حزامؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: فروخت کرنے والے اور خریدنے والے کو جدا ہونے تک اختیار ہے۔ چنانچہ اگر ان لوگوں میں سچائی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا تو ان کی بیع میں

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ  
 مَا لَمْ يَتَّفِقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي تَبِعِيهِمَا وَ  
 بَرَكَتِ دَعْوَىٰ لَيْكِنَ إِنْ أَرَادُوا مَجْعُودًا فَالْبَيْعُ  
 مَالَهُمَا مَجْعُودًا وَكَلِمَاتُهُمَا مَجْعُودَةٌ  
 بَرَكَتِ اِضْمَالُهَا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ اور ابن عباس سے بھی احادیث نقل کی گئی ہیں۔ حضرت بن عمر کی حدیث بھی حسن صحیح ہے بعض علماء وغیرہ کا اسی پر عمل ہے۔ شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے کہ جدائی سے مراد جسموں کی جدائی ہے نہ کہ بات کی جب کہ بعض علماء اسے کلام کے اختتام پر محمول کرتے ہیں لیکن پہلا قول ہی صحیح ہے اس لیے کہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرنے والے راوی وہ خود ہیں اور وہ اپنی نقل کی ہوئی حدیث کو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں ان سے منقول ہے کہ وہ بیع کا ارادہ کرتے تو اٹھ کر چل دیتے تاکہ اختیار باقی نہ رہے حضرت ابو ہریرہ اسلمی سے بھی اسی طرح منقول ہے کہ ان کے پاس دو شخص ایک گھوڑے کی خرید فروخت کے متعلق فیصلہ کرانے کے لیے حاضر ہوئے جس کی بیع کشتی میں ہوئی تھی۔ تو ابو ہریرہ نے فرمایا: تمہیں اختیار ہے اس لیے کہ کشتی میں سفر کرنے والے جدا نہیں ہو سکتے اور آنحضرت ﷺ نے جدائی کو اختیار کے ساتھ شرط کیا ہے لیکن بعض علماء کا مسلک یہی ہے کہ اس سے مراد افتراق بالکلام ہے۔ اہل کوفہ، ثوری اور امام مالک کا بھی یہی قول ہے۔ جب کہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ جسموں کے افتراق کا مذہب زیادہ قوی ہے کیونکہ اس میں آنحضرت ﷺ سے صحیح حدیث منقول ہے۔ حضور ﷺ کے ارشاد ”الابیع بالخیار“ کے معنی یہ ہیں کہ فروخت کرنے والا خریدنے والے کو اختیار دے لیکن اگر اس اختیار دینے کے بعد خریدنے والے نے بیع کو اختیار کر لیا تو پھر خریدنے والے کا اختیار ختم ہو گیا۔ خواہ جدا ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں۔ شافعی اور کئی علماء حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث کی یہی تفسیر کرتے ہیں کہ اس سے مراد بدنوں کا افتراق ہے۔

۱۱۱۴۔ حَدَّثَنَا بَلَلُ بْنُ قَتِيْبَةَ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ  
 ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ  
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ  
 بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَّفِقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفَقَةً بِيْعًا وَلَا  
 يَجُزُّ لَكَ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يُسْتَفْتَلَهُ  
 ۱۱۱۳۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل  
 کرتے ہیں کہ جدائی تک بیچنے اور خریدنے والے کو اختیار ہے۔ لیکن  
 اگر بیع میں خیار کی شرط لگائی گئی ہو تو بعد میں بھی اختیار باقی رہتا ہے پھر  
 ان میں سے کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ دوسرے سے اس لیے جلدی  
 مفارقت اختیار کرے کہ کہیں وہ بیع کو ختم نہ کر دے۔

یہ حدیث حسن ہے۔ اس کے معنی بھی بدنوں کے افتراق ہی کے ہیں کیونکہ اگر اس سے مراد افتراق کلام لیا جاتا تو اس حدیث کے  
 کوئی معنی نہ بنتے۔ جب کہ آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ کوئی اس ڈر سے جدائی کی راہ نہ اختیار کرے کہ کہیں بیع ختم نہ ہو جائے۔

باب ۸۴۱۔ بلائمنوان

باب ۸۴۱۔

۱۱۱۵۔ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ثَنَا يَحْيَى  
 ابْنُ أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ  
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
 لَا يَتَّفِقَانِ عَنْ بَيْعٍ إِلَّا عَنْ قَرَأَتَيْنِ  
 ۱۱۱۵۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: فروخت  
 کرنے اور خریدنے والا اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک آپس میں  
 راضی نہ ہوں۔

۱۱۱۶۔ حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ ثَنَا ابْنُ  
 ۱۱۱۶۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دیہاتی کو بیع

وہب عن ابن جریج عن ابی الزبیر عن جابر أن  
النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر آخراینا بعد البیع  
یہ حدیث حسن غریب ہے۔

مسئلہ: بیع میں فریقین کے انتراق سے پہلے اور عقد کے اختتام کے بعد جو اختیار باقی رہتا ہے اسے خیار مجلس کہتے ہیں۔ اس میں امام ابوحنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ عقد کے مکمل ہونے کے بعد یعنی ایجاب و قبول کے بعد خیار مجلس ختم ہو جاتا ہے اگرچہ فریقین مجلس ہی میں ہوں اور جدانہ ہوئے ہوں۔ ان کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے کہ "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ" (ترجمہ: ایک دوسرے کا مال ناحق مت کھاؤ۔ لیکن آپس کی رضامندی سے تجارت کرتے ہوئے اس کی اجازت ہے) تجارت کی لغت اور اصطلاح میں تعریف یہی ہے کہ یہ ایجاب و قبول ہے نہ کہ بدلوں کا انتراق یا اجتماع۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضامندی کے ساتھ تجارت کرنے والے کے مال کو جائز قرار دیا اگر خیار مجلس سے اس جواز کو ختم کر دیا جائے تو یہ آیت کی تخصیص ہے جس کی کوئی دلیل نہیں۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" (ترجمہ: اے ایمان والو! اپنے عہدوں کو راکرو)۔ یہاں ایجاب و قبول کے بعد عقد کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب کہ خیار مجلس کی صورت میں اس کی نفی ہوتی ہے۔ پھر ابو داؤد نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "خریدنے یا فروخت کرنے والے دونوں میں سے کسی کے لیے بھی جائز نہیں کہ اپنے ساتھی کو بیع کے ڈر سے تہا چھوڑ دے"۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایجاب و قبول سے بیع مکمل ہو گئی۔ خیار مجلس نہیں رہا۔ پھر اگر خیار مجلس کو جائز قرار دیا جائے تو اس صورت میں عقد کے مکمل ہو جانے اور فریقین میں سے ہر ایک کی ملکیت ثابت ہو جانے کے بعد ایک کو دوسرے کی رضامندی کے خلاف بیع کا حق دینا لازم آئے گا جو جائز نہیں۔ واللہ اعلم (مترجم)

ب ۸۴۲۔ مَا جَاءَ فِي مَنْ يُخَذُّ فِي الْبَيْعِ  
باب ۸۴۲۔ جو شخص بیع میں دھوکا کھا جائے۔  
۱۱۱۔ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَمَّادٍ الْبَصْرِيُّ ثنا  
۱۱۱۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اکثر خرید و فروخت کرتا اور  
الاعلیٰ بن عبدالاعلیٰ عن سعید عن قتادة عن  
اس میں دھوکا کھا جایا کرتا تھا۔ اس کے گھر والے آنحضرت ﷺ کی  
رَأَى رَجُلًا كَانَ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ وَكَانَ يَبِيعُ وَ  
خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اسے بیع سے روک دیں۔ آپ  
أَهْلَهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا  
نے اسے بلایا اور تجارت سے منع کیا تو اس نے عرض کیا یا رسول  
سُؤَلَ اللَّهُ أَحْمَرُ عَلَيْهِ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
اللہ! مجھے اس کے بغیر نہیں آتا آپ ﷺ نے فرمایا: اچھا اگر تم خرید و  
فروخت کرو تو اس طرح کہہ دیا کرو کہ برابر برابر کا لین دین ہے فریب  
فِي الْبَيْعِ فَقَالَ إِذَا تَابَعْتَ فَقُلْ هَاءَ وَهَاءَ وَلَا جَلَابَةَ  
اور دھوکہ نہیں۔

اس باب میں حضرت ابن عمرؓ بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت انسؓ کی حدیث حسن غریب ہے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حیف العقل ہو تو اسے بیع و شراء سے منع کر دیا جائے۔ اسحاق اور احمد کا بھی یہی قول ہے۔ جب کہ بعض علماء کے نزدیک آزاد اور بالغ آدمی کو بیع و شراء (خرید و فروخت) سے روکنا جائز نہیں۔

مسئلہ: آخر الذکر قول احناف کا ہے کہ بالغ اور آزاد شخص جو ضعیف العقل بھی ہو اسے بیع و شراء سے منع کر دینا جائز نہیں۔ اس لیے کہ آنحضرت ﷺ نے اسے منع نہیں کیا۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۸۴۳۔ فی الْمُصْرَاءِ

باب ۸۴۳۔ دودھ روکے ہوئے جانور سے متعلق۔

۱۱۱۸۔ حدثنا ابو کریب ثنا و کعب عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى مِصْرَاءَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ اِذَا حَلَبَهَا اِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

۱۱۱۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کسی شخص نے ایسا دودھ دینے والا جانور خریدا جس کا دودھ اس کے مالک نے کئی روز سے روکا ہوا تھا تو اسے دودھ دو بنے کے بعد لوٹانے کا اختیار ہے چنانچہ اگر وہ واپس کرنا چاہے تو واپس کر سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک صاع کھجور بھی دے۔

اس باب میں حضرت انسؓ اور ایک اور صحابی سے بھی حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔

۱۱۱۹۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا ابو عامر ثنا قرة بن خالد عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى مِصْرَاءَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ فَاِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ مَعْنَى لَا سَمْرَاءَ لَا بَرَّ

۱۱۱۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو ایسا جانور خریدے جس کا دودھ روکا ہوا ہو اسے تین دن تک اسے لوٹانے کا اختیار ہے۔ واپس کرتے ہوئے وہ ایک صاع غلہ بھی ادا کرے لیکن گھوں نہ ہو۔ یعنی گھوں کے علاوہ کوئی چیز۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر شافعی، احمد اور اسحاق وغیرہ عمل کرتے ہیں۔

باب ۸۴۴۔ مَا جَاءَ فِي اشْتِرَاطِ ظَهْرِ الدَّائِبَةِ عِنْدَ الْبَيْعِ

۱۱۲۰۔ حدثنا ابن ابی عمر ثنا و کعب عن زكريا عن الشعبي عن جابر بن عبد الله انه باع من النبي صلى الله عليه وسلم بَعِيرًا وَاشْتَرَطَ ظَهْرَهُ اِلَى اَهْلِهِ

باب ۸۴۴۔ بیع کے وقت جانور پر سواری کی شرط لگانا۔

۱۱۲۰۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ کو ایک اونٹ فروخت کیا اور اس پر گھر تک سواری کرنے کی شرط لگائی۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے حضرت جابرؓ سے منقول ہے بعض صحابہ اسی پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیع میں ایک شرط جائز ہے۔ احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔ جب کہ بعض علماء کے نزدیک اگر بیع میں شرط لگادی جائے تو وہ بیع ہی صحیح نہیں۔

باب ۸۴۵۔ الْاِئْتِفَاعُ بِالرَّهْنِ

باب ۸۴۵۔ گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ حاصل کرنا۔

۱۱۲۱۔ حدثنا ابو کریب و يوسف بن عيسى قالا ثنا و کعب عن زكريا عن عامر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظَّهْرُ يُرَكَّبُ اِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَلَكِنْ الدَّرُّ يُشْرَبُ اِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَعَلَى الَّذِي يُرَكَّبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ

۱۱۲۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: گروی رکھے جانے والے جانور کو سواری کے لیے استعمال کرنا یا اس کا دودھ استعمال کرنا جائز ہے لیکن سوار ہونے اور دودھ استعمال کرنے والے پر اس کا نفقہ وغیرہ بھی واجب ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے ہم اسے صرف ابو شعبی کی حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت سے مرفوع جانتے ہیں۔ کئی راوی یہ حدیث اعمش سے وہ ابوصالح سے اور وہ حضرت ابو ہریرہؓ سے موقوفاً نقل کرتے ہیں بعض علماء کا اسی پر عمل ہے۔ احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں جب کہ بعض علماء کے نزدیک گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانا بالکل جائز نہیں۔

باب ۸۴۶۔ مَا جَاءَ فِي شِرَاءِ الْفِلَادَةِ وَفِيهَا ذَهَبٌ وَحَرَزٌ  
 ۱۱۲۲۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي شَجَاعٍ  
 سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ حَنْشِ  
 الصُّنْعَانِيِّ عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُيَيْدٍ قَالَ اشْتَرَيْتُ يَوْمَ  
 حَيْبَرَ قِلَادَةً بِأَثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَحَرَزٌ  
 فَفَضَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ أَثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا  
 فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا  
 تَبَاغُ حَتَّى تُفْصَلَ

قیمہ، ابن مبارک سے وہ ابوشجاع اور وہ سعید بن یزید سے اسی سند سے اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے  
 بعض علماء صحابہ وغیرہ کا اسی پر عمل ہے کہ کسی ایسی تلوار یا کمر بند وغیرہ جس میں چاندی لگی ہوئی ہو اس کا ان چیزوں سے الگ کیے بغیر  
 فروخت کرنا جائز نہیں۔ تاکہ دونوں چیزیں الگ الگ ہو جائیں۔ ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ جب کہ بعض  
 صحابہ وغیرہ اس کی اجازت بھی دیتے ہیں۔

مسئلہ: امام ابوحنیفہ کے نزدیک اگر علم یقین ہو کہ سونے یا چاندی سے مزین چیز کی قیمت اس میں لگے ہوئے سونے چاندی سے  
 زیادہ ہے تو اسے الگ کیے بغیر بھی بیع جائز ہوگی اس صورت میں رہائیں ہوگا۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۸۴۷۔ مَا جَاءَ فِي اشْتِرَاطِ الْوَلَاءِ وَالزَّجْرِ عَنْ ذَلِكَ  
 ۱۱۲۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ  
 مَهْدِيٍّ ثَنَا سَفِيانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ  
 عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَأَشْتَرَطُوا  
 الْوَلَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا  
 الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ أَوْ لِمَنْ وَلِيَ الثَّمَنَةَ

اس باب میں ابن عمرؓ سے بھی حدیث منقول ہے۔ حضرت عائشہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور علماء اسی پر عمل کرتے ہیں۔ امام ترمذی  
 کہتے ہیں: منصور بن معتمر کی کنیت ابوعماب ہے۔ ابوبکر عطاء بصری، علی بن مدینی سے اور وہ یحییٰ بن سعید کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جب  
 تمہیں منصور کے واسطے سے کوئی حدیث پہنچے تو سمجھ لو کہ تمہارے دونوں ہاتھ خیر سے بھر گئے اور اس کے بعد کسی اور کی ضرورت نہیں۔ یحییٰ  
 کہتے ہیں: ابراہیم نخعی اور مجاہد سے روایت کرنے والوں میں منصور سے اجنبت کوئی نہیں۔ امام بخاری عبد اللہ بن اسود سے اور وہ عبد الرحمن  
 بن مہدی سے نقل کرتے ہیں کہ منصور کوفہ کے تمام راویوں میں اجنبت ہیں۔

باب ۸۴۸۔ بلا عنوان

باب ۸۴۸۔

۱۱۲۴۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ  
 عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ  
 ۱۱۲۳۔ حضرت حکیم بن حزام فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے انہیں  
 ایک دینار کے عوض قربانی کے لیے جانور خریدنے کے لیے بھیجا انہوں

حَكِيمُ بْنُ حِرَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ حَكِيمَ بْنَ حِرَامٍ يَشْتَرِي لَهُ أُصْحِيَّةً بِدِينَارٍ فَاشْتَرَى أُصْحِيَّةً فَأَرْبَحَ فِيهَا دِينَارًا فَاشْتَرَى أُخْرَى مَكَانَهَا فَخَاءَ بِالْأُصْحِيَّةِ وَالِدِينَارٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَحَّ بِالشَّاةِ وَتَصَدَّقَ بِالدِّينَارِ

نے اس سے جانور خریدا اور اسے دو دینار میں فروخت کر دیا۔ پھر ایک اور جانور ایک دینار کے عوض خریدا کر آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ دینار بھی ساتھ ہی پیش کیا جو منافع ہوا تھا۔ آنحضرت ﷺ نے حکم دیا کہ جانور کو ذبح کرو اور دینار صدقے میں دے دو۔

۱۱۲۵۔ حدثنا احمد بن سعيد الدارمي ثنا حبان ثنا هارون بن موسى ثنا الزبير بن الجريت عن أبي ليلى عن عمرو الباري في قال دفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ديناراً لأشترى له شاة فاشترى له شاتين فبعت أحدهما بدينار وجهت بالشاة والدینار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما كان من أمره فقال بآرك الله في صفقة يمينك فكان بعد ذلك يخرج إلى كناسة الكوفة فربح الربح العظيم فكان من أكثر أهل الكوفة مالا

حکیم بن حرام کی یہ حدیث ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ ہمارے علم میں حبیب بن ابی ثابت کا حکم بن حرام سے سماع ثابت نہیں۔ ۱۱۲۵۔ حضرت عمرو باری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے ایک دینار دیا اور حکم دیا کہ ان کے لیے ایک بکری خرید لاؤں میں نے ایک دینار میں دو بکریاں خریدیں اور ان میں سے ایک ایک دینار کی فروخت کرنے کے بعد دوسری بکری اور ایک دینار لے کر آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پھر آپ ﷺ کے سامنے قصہ بیان کیا تو آپ ﷺ فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں برکت دے اور اسے نفع بخش کرے اس کے بعد وہ کوفہ میں کناسہ کے مقام پر تجارت کیا کرتے بہت زیادہ منافع کمایا کرتے چنانچہ وہ اہل کوفہ میں سب سے زیادہ مالدار تھے۔

احمد بن سعید، حبان سے وہ سعید بن زید سے وہ زبیر بن جریث سے اور ابولیلید سے اسی کے مانند حدیث نقل کرتے ہیں بعض علماء مسلک اسی کے مطابق ہے۔ احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں لیکن بعض علماء اس پر عمل نہیں کرتے۔ امام شافعی اور حماد بن زید کے یہ سعید بن زید بھی انہی میں شامل ہیں اور ابولیلید کا نام لہذا رہا ہے۔

باب ۸۴۹۔ ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدى

۱۱۲۶۔ حدثنا هارون بن عبد الله البرزلي ثنا يزيد بن هارون ثنا حماد سلمة عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عوق منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤدى المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبء

باب ۸۳۹۔ اس مکاتب (۱) سے متعلق جو بدل کتابت ادا کر سکتا ہے

۱۱۲۶۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر مکاتب کو دیت یا وراثت کا مال ملے تو وہ اتنے ہی مال کا مستحق ہوگا جتنا وہ آزاد ہو چکا ہے اور اگر اس کی دیت ادا کی جائے تو جتنا آزاد ہو چکا ہے اتنی آزاد شخص کی دیت اس کے وارثوں کو دی جائے اور غلام ہے اتنی غلام کی قیمت اس کے مالک کو بطور بدل کتابت ادا جائے۔

(۱) مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس سے اس کا مالک یہ کہوے کہ اگر تم اتنے پیسے ادا کرو تو آزاد ہو۔ (مترجم)

اس باب میں ام سلمہؓ سے بھی حدیث منقول ہے۔ حضرت ابن عباسؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ یحییٰ بن ابی کثیر بھی مکرمہ سے اور وہ ابن عباسؓ سے یہی حدیث اسی طرح مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔ جب کہ خالد حذافہ بھی مکرمہ سے اور وہ حضرت علیؓ سے انہی کا قول نقل کرتے ہیں۔ بعض علماء صحابہ وغیرہ کا اسی پر عمل ہے۔ اکثر علماء کہتے ہیں مکاتب کے اد پر اگر ایک درہم بھی باقی ہو تو وہ غلام ہی ہے۔ سفیان ثوری، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

۱۱۲۷۔ حدثنا قتیبہ ثنا عبدالوارث بن سعید عن یحییٰ بن ابی أنیسہ عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جدّه قال سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ مَنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَنَا هَا إِلَّا عَشْرَةَ أَوَاقٍ أَوْ قَالَ عَشْرَةَ الدَّرَاهِمِ ثُمَّ عَجَزَ فَهُوَ رَقِيقٌ

۱۱۲۷۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کسی نے اپنے غلام کو سو اوقیہ دینے کی شرط پر آزاد کرنے کا کہا لیکن غلام دس اواق ادا نہ کر سکا (یا فرمایا دس درہم) تو وہ غلام ہی ہے۔ (یعنی باقی قیمت تو ادا کر دی لیکن مذکورہ درہم وغیرہ ادا نہ کر سکا۔

یہ حدیث غریب ہے۔ اکثر علماء صحابہ و دیگر علماء کا یہی قول ہے کہ جب تک مکاتب پر تھوڑی سی رقم بھی باقی ہے اس کا حکم غلام ہی کا رہے گا۔ حجاج بن ارطاة بھی عمرو بن شعیب سے اسی کے مثل نقل کرتے ہیں۔

۱۱۲۸۔ حدثنا سعید بن عبدالرحمن المنزومی ثنا سفیان عن الزهري عن يَنُهَانَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبٍ إِحْدَاكُنْ مِائُوذِي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ

۱۱۲۸۔ حضرت ام سلمہؓ کہتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اگر تمہارے مکاتب کے پاس اتنی رقم ہو کہ وہ ادا کر سکے تو اس سے پردہ کرو۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس سے پردہ کرنا ازراہ تقویٰ ہے وگرنہ وہ اس وقت تک آزاد نہیں ہوتا۔ جب تک رقم ادا نہ کر دے۔

باب ۸۵۰۔ مَا جَاءَ إِذَا أَقْلَسَ لِلرَّجُلِ عَرِيَّتُهُ فَيَجِدُ عِنْدَهُ مَتَاعَهُ

۱۱۲۹۔ حدثنا قتیبہ ثنا الليث عن یحییٰ بن سعید عن ابی بکر بن حزم عن عمر بن عبدالعزیز عن ابی بکر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام عن أبی هريرة عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَقْلَسَ وَ وَجَدَ رَجُلًا سَلَعَتْهُ عِنْدَهُ بَعِيْنَهَا فَهُوَ أَوْلَىٰ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ

۱۱۲۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی شخص مفلس ہو گیا اور کسی شخص کا اسے دیا ہو مال بعیہ موجود ہو تو اس کا مالک اس کے علاوہ دوسرے قرض خواہوں سے اس چیز کا زیادہ حق دار ہے۔

اس باب میں سمرہؓ اور ابن عمرؓ سے بھی حدیثیں منقول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر اہل علم عمل کرتے ہیں۔ شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے جب کہ بعض علماء کا مسلک یہ ہے کہ وہ بھی سب قرض خواہوں ہی کی طرح شریک ہوگا۔ (یعنی جب مال قرض خواہوں پر برابر تقسیم کیا جائے گا۔) اہل کوفہ بھی اسی کے قائل ہیں۔

باب ۸۵۱۔ مسلمان کے لیے ذمی کے ذریعے شراب بیچنے کی ممانعت۔  
۱۱۳۰۔ حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک یتیم کی شراب تھی کہ سورۃ مائدہ کی شراب کی حرمت وانی آیت نازل ہوگئی میں نے آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا اور عرض کیا کہ وہ یتیم ہے۔ آپ ﷺ نے حکم دیا کہ اسے بہا دیا جائے۔

باب ۸۵۱۔ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ بِالْمُسْلِمِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الدِّمِيِّ الْخَمْرَ بِيَعْمَهَالَةَ  
۱۱۳۰۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَسْرَمٍ ثَنَا عِمْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ مَجَالِدٍ عَنْ أَبِي الرِّدَاكَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمَّائِ عِنْدَنَا خَمْرٌ لِيَتِيمٍ فَلَمَّا نَزَلَتْ الْمَائِدَةُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَقُلْتُ إِنَّهُ لِيَتِيمٍ قَالَ أَهْرَيْقُوهُ

اس باب میں انس بن مالک سے بھی حدیث منقول ہے۔ حضرت ابوسعید کی حدیث حسن ہے اور کئی سندوں سے اسی کے مثل منقول ہے۔ بعض علماء کا بھی یہی مسلک ہے کہ شراب کا سرکہ بنانا حرام ہے۔ شاید اس لیے کہ واللہ اعلم مسلمان شراب سے سرکہ بنانے کے لیے اپنے گھروں میں نہ رکھنے لگیں جب کہ بعض علماء خود خود سرکہ بن جانے والی شراب کو رکھنے کی اجازت دیتے ہیں۔

۱۱۳۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تمہارے پاس کوئی شخص امانت رکھے تو اسے ادا کرو۔ اور جو تمہارے ساتھ خیانت کرے اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔

۱۱۳۱۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ ثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَامٍ عَنْ شَرِيكَ وَقَسٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَانَةٌ إِلَى مَنْ اتَّمَنَكَ وَلَا تَحُنْ مِنْ خَائِنِكَ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ بعض علماء اسی پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو قرض دیا اور وہ ادا کیے بغیر چلا گیا۔ اور قرض خواہ کے پاس اپنی کوئی چیز چھوڑ گیا تو اس کے لیے جائز نہیں کہ اس کی چیز پر قبضہ کر لے۔

ثوری کہتے ہیں کہ اگر اس کے پاس اس کے درہم تھے اور قرض خواہ کے پاس اس کے دینار رکھے ہوئے تھے تو ان کو رکھنا جائز نہیں ہاں اگر درہم ہی ہوتے تو اپنے قرض کے برابر رکھ لینا درست تھا جب کہ بعض علماء تابعین اسے جائز کہتے ہیں۔

باب ۸۵۲۔ عاریۃ لی ہوئی چیز کو واپس کرنا ضروری ہے۔

باب ۸۵۲۔ مَا جَاءَ أَنَّ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ

۱۱۳۲۔ حضرت ابو امامہؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا: استعارۃ لی ہوئی چیز کی ادائیگی ضروری ہے۔ نیز ضمانت دینے والے کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور قرض واجب الاداء رہے گا۔

۱۱۳۲۔ حَدَّثَنَا هِنَادٌ وَعَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ قَالَا ثَنَا اسْمَعِيلُ بْنُ عِيَاشٍ عَنْ شَرْحِبِيلِ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ وَالذَّيْنُ مَقْضِيٌّ

اس باب میں صفوان بن امیہؓ، سمرہ اور انسؓ سے بھی حدیثیں نقل کی گئی ہیں یہ حدیث حسن ہے اور آنحضرت ﷺ سے بواسطہ ابو امامہ اور سندوں سے بھی منقول ہے۔

۱۱۳۳۔ حضرت سمرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہاتھ پر اس چیز کی ادائیگی واجب ہے جو اس نے لی یہاں تک کہ ادا کرے۔ قدادہ کہتے ہیں کہ پھر حسن بھول گئے اور کہنے لگے۔ وہ تمہارا امین ہے اور اس

۱۱۳۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ بَقَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتُ

حَتَّى تُؤَدِّيَ قَالَ قَتَادَةُ ثُمَّ نَسِيَ الْحَسَنَ فَقَالَ هُوَ دِي هُوَ حَيْزِ كَيْ ضَالِحِ هُونِ بِرِ جَرْمَانِ نِيْسِ هِے۔  
أَمِينُكَ لَا ضِمَانَ عَلَيْهِ يَعْني الْعَارِيَةَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض علماء صحابہ کا یہی مسلک ہے کہ چیز لینے والا ضامن ہوتا ہے۔ شافعی اور احمد کا بھی یہی قول ہے۔ لیکن بعض علماء صحابہ کے نزدیک اگر مانگ کر لی ہوئی چیز ضائع ہو جائے تو اس پر جرمانہ نہیں ہوگا۔ بشرطیکہ مالک کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرے۔ اگر اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرنے اور ضائع ہو جائے تو اس صورت میں اسے جرمانے کے طور پر ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اہل کوفہ اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔

باب ۸۵۳۔ مَا جَاءَ فِي الْإِحْتِكَارِ

باب ۸۵۳۔ غلے کی ذخیرہ اندوزی

۱۱۳۴۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُضَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ فَقُلْتُ لِسَعِيدِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ وَمَعْمَرٌ قَدْ كَانَ يَحْتَكِرُ وَإِنَّمَا رَوَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ إِنَّهُ كَانَ يَحْتَكِرُ الزَّيْتِ وَالْخَبْطِ وَنَحْوَ هَذَا

۱۱۳۴۔ حضرت معمر بن عبد اللہ بن فضالہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ذخیرہ اندوزی کر کے مہنگائی کا انتظار کرنے والا گنہگار ہے۔ راوی کہتے ہیں میں نے سعید سے کہا اے ابو محمد آپ بھی تو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں تو فرمایا: معمر بھی کرتے تھے اور سعید بن مسیب سے بھی منقول ہے کہ وہ تیل اور چاے کی ذخیرہ اندوزی کیا کرتے ہیں (یعنی غلے کے علاوہ ان چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کرتے تھے جو کھانے پینے میں استعمال نہیں ہوتیں۔

اس باب میں عمر، علی، ابو امامہ اور ابن عمر سے بھی حدیثیں نقل کی جاتی ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر اہل علم کا عمل ہے کہ غلے کی ذخیرہ اندوزی حرام ہے جب کہ بعض علماء غلے کے علاوہ دیگر اشیاء میں اس کی اجازت کے قائل ہیں۔ ابن مبارک کہتے ہیں کہ روٹی اور چڑے کی ذخیرہ اندوزی میں کوئی مضائقہ نہیں۔

باب ۸۵۴۔ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْمُحَفَّلَاتِ

باب ۸۵۴۔ دودھ روکے ہوئے جانور کو فروخت کرنا۔

۱۱۳۵۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ ثَنَا ابْنُ الْأَحْوَصِ عَنْ سَمَاقٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَسْتَقْبِلُوا السُّوقَ وَلَا تُحَفِّلُوا وَلَا يَنْفِقُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ

۱۱۳۵۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مال کے بازار میں بیچنے سے پہلے خریدنے میں عجلت نہ کرو، دودھ والے جانور کا دودھ خریدار کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے نہ روکو۔ اور جھوٹے خریدار بن کر کسی چیز کی قیمت نہ بڑھاؤ۔ (نیلام وغیرہ میں)

اس باب میں ابن مسعود اور ابو ہریرہ سے بھی حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔ حضرت ابن عباس کی حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دودھ روک کر جانور کو بیچنا حرام ہے۔ مسرۃ اور حنفیہ دونوں ایک ہی چیز ہیں یعنی کسی دودھ دینے والے جانور کا کئی دن تک دودھ نہ نکالا جائے تا کہ دودھ اس کے تھنوں میں جمع ہو جائے اور خریدار دھوکے میں پڑ کر اسے خرید لے یہ دھوکے اور فریب کی ایک ہی قسم ہے۔

باب ۸۵۵۔ مَا جَاءَ فِي الْيَمِينِ الْفَاجِرَةَ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالُ الْمُسْلِمِ

۱۱۳۶۔ حَدَّثَنَا هُنَادٌ ثَنَا أَبُو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن مسعدة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فقال الأشعث في والله لقد كان ذلك كما بنى وثمن رجل من اليهود أرض فحادثني فقلتني فقلتني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك بيته فقلت لا فقال لليهودي ائلف فقلت يا رسول الله اذن يحلف فيذهب بمالي فانزل الله عز وجل "إن الدين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا" الآية إلى آخرها

باب ۸۵۵۔ جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال غصب کرنا۔

۱۱۳۶۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی شخص کسی کا مال غصب کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھائے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس سے ہراس میں ہوں گے۔ اشعث کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد میرے حلق میں تھا میرے اور ایک یہودی کے درمیان ایک زمین میں شراکت تھی۔ لیکن وہ اس سے منکر گیا تو میں اسے لے کر آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تمہارے پاس گواہ ہیں؟ میں نے عرض کیا: نہیں۔ آپ ﷺ نے یہودی سے کہا کہ تم قسم کھاؤ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ تو قسم کھالے گا اور میرا مال لے جائے گا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ان الذين يشترون بعهد الله وایمانهم ثمنا قليلا اولئك لاخلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكهم ولهم عذاب الیم (ترجمہ: جو لوگ اللہ کے قرار اور اپنی قسموں کی تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں۔ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات کریں گے ان کی طرف دیکھیں گے اور ان کا تذکرہ کریں گے۔ بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے)۔

اس باب میں داکل بن حجر، ابو موسیٰ، ابوامامہ بن ثعلبہ انصاری اور عمران بن حسین سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حضرت ابن مسعود کی حدیث صحیح ہے۔

باب ۸۵۶۔ اگر خریدنے اور فروخت کرنے والے میں اختلاف ہو جائے۔

۱۱۳۷۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر فروخت کرنے والے اور خریدنے والے کے درمیان اختلاف ہو جائے تو بیچنے والے کے قول کا اعتبار ہوگا۔ جب کہ خریدنے والے کو اختیار دیا جائے گا چاہے تو لے دے اور نہ لے کر دے۔

باب ۸۵۶۔ مَا جَاءَ إِذَا اختلف البيعان

۱۱۳۷۔ حَدَّثَنَا قتيبة ثنا سفيان عن ابن عجلان عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار

یہ حدیث مرسل ہے اس لیے کہ عون بن عبد اللہ کی ابن مسعود سے ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر یہ حدیث قاسم بن عبد الرحمن بھی ابن مسعود سے مرسل نقل کرتے ہیں۔ ابن منصور نے احمد بن حنبل سے پوچھا کہ اگر بائع اور مشتری (بیچنے اور خریدنے والے) میں اختلاف ہو جائے اور کوئی گواہ نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ فرمایا: اس میں بائع کے قول کا اعتبار کیا جائے گا چنانچہ اگر مشتری راضی ہو تو خریدے ورنہ چھوڑ

دے جب کہ اسحاق کہتے ہیں کہ بائع کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہوگا۔ بعض تابعین سے بھی یہی منقول ہے جن میں شرح بھی شامل ہیں۔

مسئلہ: خنثیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر بائع اور مشتری کے درمیان قیمت یا کسی شرط وغیرہ کے معاملے میں اختلاف ہو جائے تو بائع

حلف اٹھائے۔ پھر مشتری کو اختیار دیا جائے کہ چاہے تو خرید لے ورنہ واپس کر دے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۸۵۷۔ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ

باب ۸۵۷۔ ضرورت سے زیادہ پانی کو فروخت کرنا۔

۱۱۳۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

۱۱۳۸۔ ایسا بن عبد مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے پانی بیچنے

الْعَطَارِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ

سے منع فرمایا:

إِيَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُزَنِيِّ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ.

اس باب میں جاہر، ابو ہریرہ، عائشہ، انس، عبداللہ بن عمر اور کبیرہ سے بھی احادیث نقل کی جاتی ہیں۔ حضرت ایسا کی حدیث حسن

صحیح ہے۔ اکثر علماء کا اسی پر عمل ہے کہ پانی بیچنا مکروہ ہے۔ ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے جب کہ حسن بصری اور

بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں۔

۱۱۳۹۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ

۱۱۳۹۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ اپنی

الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ضرورت سے زیادہ پانی سے کسی کو نہ روکا جائے کہ جس کی وجہ سے گھاس

وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُمْتَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْتَعَ بِهِ الْكَلَاءُ

چارہ وغیرہ میں رکاوٹ پیش آئے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۸۵۸۔ مَا جَاءَ فِي تَكْرَاهِيَةِ عَسْبِ الْفُحْلِ

باب ۸۵۸۔ زکوٰۃ پر چھوڑنے کی اجرت کی ممانعت

۱۱۴۰۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَأَبُو عِمْرَانَ قَالَا ثَنَا

۱۱۴۰۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے زکوٰۃ مادہ پر

إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيَّةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعِ بْنِ

چھوڑنے پر اجرت لینے سے منع فرمایا:

أَبِي عَمْرٍو قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

عَسْبِ الْفُحْلِ

اس باب میں ابو ہریرہ، انس اور ابوسعید سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے بعض اہل علم کا یہی مسلک ہے لیکن بعض

علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی اسے بطور انعام کچھ دے تو یہ جائز ہے۔

۱۱۴۱۔ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخِرَاعِيُّ الْبَصْرِيُّ ثَنَا

۱۱۴۱۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو کلاب کے ایک

يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَمِيدِ الرَّوَاسِيِّ عَنْ هِشَامِ

شخص نے آنحضرت ﷺ سے زکوٰۃ مادہ پر چھوڑنے کی اجرت کے متعلق

بْنِ عُرْوَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ

دریافت کیا تو آپ ﷺ نے منع کر دیا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ!

مَالِكِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

ہم جب زکوٰۃ چھوڑتے ہیں تو لوگ بطور انعام کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفُحْلِ فَتَهَاؤُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

چنانچہ آپ ﷺ نے اسے اس کی اجازت دی۔

إِنَّا نَطْرُقُ الْفَحْلَ فَنُكْرِمُ فَرَحَّصَ لَهُ فِي الْكِرَامَةِ

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف ابراہیم بن حمید کی ہشام بن عروہ سے روایت سے پہچانتے ہیں۔

باب ۸۵۹۔ مَا جَاءَ فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ

باب ۸۵۹۔ کتے کی قیمت سے متعلق۔

۱۱۴۲۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ ح

۱۱۴۲۔ حضرت ابوسعود انصاری فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے کتے

کی قیمت لینے، زنا کی اجرت لینے اور کاہن کو منٹھائی دینے سے منع

فرمایا۔

وَنَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيِّ وَغَيْرِ

وَاحِدٍ قَالُوا ثَنَا سَفِيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ

أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ

قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ

الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَيْعِيِّ وَخُلُوفِ الْكَاهِنِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۱۴۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ثَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ ثَنَا

۱۱۴۳۔ حضرت رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

پچھنے لگانے کی اجرت، زنا کی اجرت اور کتے کی قیمت حرام ہے۔

مُحَمَّدٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ ابْنِ كَثِيرٍ عَنْ

ابِرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِطٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ كَسَبُ الْحَجَّامِ حَبِيئٌ وَمَهْرُ الْبَيْعِيِّ

حَبِيئٌ وَثَمَنِ الْكَلْبِ حَبِيئٌ

اس باب میں عمر ابن مسعود، جابر، ابو ہریرہ، ابن عباس، ابن عمر اور عبد اللہ بن جعفر سے بھی حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔ یہ حدیث حسن

صحیح ہے۔ علماء کی اکثریت اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہتی ہے کہ کتے کی قیمت حرام ہے۔ شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

جب کہ بعض علماء شکاری کتے کی قیمت کو جائز کہتے ہیں۔

باب ۸۶۰۔ مَا جَاءَ فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ

باب ۸۶۰۔ پچھنے لگانے کی اجرت

۱۱۴۴۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ

۱۱۴۴۔ بنی حارثہ کے بھائی ابن مجہد اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ

انہوں نے آنحضرت ﷺ سے پچھنے لگانے پر اجرت لینے کی اجازت

چاہی تو آپ ﷺ نے منع فرمادیا۔ لیکن وہ بار بار پوچھتے رہے تو

آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اسے اپنے اونٹ کے چارے یا غلام کے

کھانے پینے کے لیے استعمال کرلو۔

شِهَابِ عَنِ ابْنِ مُجِيبَةَ أَخِي بَنِي حَارِثَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ

اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِجَارَةِ

الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهَا فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى

قَالَ اغْلِظْ نَاضِحَكَ وَأَطِعْمَهُ رَقِيقَكَ

اس باب میں رافع بن خدیج، ابو حنیفہ، جابر اور سائب سے بھی حدیثیں منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔ بعض علماء اس پر عمل کرتے

ہیں۔ امام احمد کہتے ہیں کہ اگر وہ مجھ سے اجرت طلب کرے گا تو میں اس دلیل کو حجت کے طور پر پیش کرتے ہوئے اسے اجرت نہیں دوں گا۔

باب ۸۶۱۔ مَا جَاءَ مِنَ الرُّحْصَةِ فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ  
 ۱۱۴۵۔ حَدَّثَنَا ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ  
 جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَأَلَ أَنَسٌ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ  
 فَقَالَ أَنَسٌ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 وَحَجَمَهُ أَبُو طَيِّبَةَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ  
 أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خِرَاجِهِ وَقَالَ إِنَّ أَمْثَلِ ذَوَائِكُمْ  
 الْحِجَامَةُ

باب ۸۶۱۔ حجام (پچھنے لگانے والے) کی اجرت کے جواز سے متعلق۔  
 ۱۱۴۵۔ حضرت حمید کہتے ہیں کہ انسؓ سے حجام کی اجرت کے متعلق پوچھا  
 گیا تو فرمایا: ابوطیبہ نے آنحضرت ﷺ کو پچھنے لگائے تو آپ ﷺ نے  
 انہیں دو صاع نلہ دینے کا حکم دیا اور ان کے مالکوں سے ان سے کم پیسے  
 (خراج) لینے کی سفارش کی اور فرمایا سب سے بہتر دو احجامت ہے یا  
 فرمایا: ”ان من امثل ذوائکم الحجامة“ راوی کا شک ہے۔  
 دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔

اس باب میں علیؓ، ابن عباسؓ اور ابن عمرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حضرت انسؓ کی حدیث حسن صحیح ہے چنانچہ بعض علماء حجامت  
 کی مزدوری لینے کی اجازت دیتے ہیں۔ شافعی کا بھی یہی قول ہے۔

باب ۸۶۲۔ مَا جَاءَ فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنُورِ

باب ۸۶۲۔ کتے اور بلی کی قیمت حرام ہے

۱۱۴۶۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا  
 ثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُوَيْبَانَ  
 عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنُورِ

۱۱۴۶۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کتے اور بلی کی  
 قیمت سے منع فرمایا۔

اس حدیث کی سند میں اضطراب ہے۔ اعمش بھی اپنے بعض ساتھیوں سے اور وہ حضرت جابرؓ سے نقل کرتے ہیں۔ اعمش کے یہ  
 حدیث روایت کرنے میں اضطراب ہے علماء کی ایک جماعت بلی کی قیمت کو مکروہ سمجھتی ہے۔ جب کہ بعض علماء اس کی اجازت دیتے  
 ہیں۔ احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ ابو فضیل، اعمش سے وہ ابو حازم سے وہ ابو ہریرہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اس سند کے علاوہ  
 بھی ایسے ہی نقل کرتے ہیں۔

۱۱۴۷۔ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْهَرِّ وَثَمَنِهِ  
 اس کی قیمت لینے سے منع فرمایا

یہ حدیث غریب ہے اور عمر بن زید کوئی بڑی شخصیت نہیں۔ ان سے عبدالرزاق کے علاوہ اور لوگ بھی نقل کرتے ہیں۔

۱۱۴۸۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ حَمَادِ  
 سَلْمَةَ عَنْ أَبِي الْمَهْزَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى عَنْ  
 ثَمَنِ الْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ الصَّيْدِ  
 اس کے علاوہ کتے کی قیمت لینے سے منع فرمایا:

یہ حدیث اس سند سے صحیح نہیں۔ ابو مہزم کا نام یزید بن سفیان ہے شعبہ بن حجاج ان میں کلام کرتے ہیں حضرت جابرؓ سے بھی اسی کی  
 مانند مروعا منقول ہے لیکن اس کی سند بھی صحیح نہیں۔

باب ۸۶۳۔ گانے والیوں کی فروخت حرام ہے۔

باب ۸۶۳۔ مَا جَاءَ فِي كِرَاهِيَةِ بَيْعِ الْمُغَنِّيَاتِ

۱۱۴۹۔ حضرت ابوامامہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: گانے والی عورتوں (باندیوں) کی خرید و فروخت نہ کیا کرو۔ اور نہ انہیں گانا سکھاؤ کیونکہ ان کی تجارت میں بہتری نہیں اور ان کی قیمت حرام ہے۔

۱۱۴۹۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا بَكْرُ بْنُ مِصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُجَيْوٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الْفَيَّانَ وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ وَلَا تَعْلَمُوهُنَّ وَلَا تَحْمِرَ فِي تِجَارَةٍ فِيهِنَّ وَتَمْنَهُنَّ حَرَامٌ فِي مِثْلِ هَذَا أَنْزَلْتُ هَذِهِ الْآيَةَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثُ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

یہ آیت اسی کے حعلق نازل ہوئی ہے۔ ”وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثُ“..... ایلح (ترجمہ: بعض لوگ ایسے ہیں جو کھیل کی باتوں کے خریدار ہیں تاکہ بغیر کچھ لوگوں کو گمراہ کریں اور اس کا مذاق اڑائیں ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اس باب میں حضرت عمر بن خطابؓ بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ ابوامامہؓ کی حدیث ہم اس طرح صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ بعض اہل علم علی بن یزید کو ضعیف کہتے ہیں یہ شام کے رہنے والے ہیں۔

باب ۸۶۳۔ ماں اور اس کے بچوں یا بھائیوں کو الگ الگ فروخت کرنا منع ہے۔

۱۱۵۰۔ حضرت ابویوبؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جو شخص کسی ماں اور اس کے بچوں کو جدا کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اس کے محبوب لوگوں سے جدا کر دیں گے۔

باب ۸۶۴۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْأَخْوَيْنِ أَوْ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ  
۱۱۵۰۔ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ ثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهَبٍ الْعَمْرِيُّ حُجِيٌّ بِنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۱۱۵۱۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے دو غلام دیے وہ دونوں آپس میں بھائی تھے میں نے ایک کو بیچ دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اسے واپس لے آؤ، واپس لے آؤ۔

۱۱۵۱۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَيْبٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ وَهَبَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْوَيْنِ فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ مَا فَعَلَ غَلَامُكَ فَأَخْبَرْتَهُ فَقَالَ رُدَّهُ رُدَّهُ

یہ حدیث حسن غریب ہے بعض علماء قرابت وارقیدیوں یا غلاموں کی فروخت کرتے ہوئے جدا کرنے کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ جب کہ بعض علماء ان لوگوں کو جدا جدا بیچنے کی اجازت دیتے ہیں جو دارالاسلام ہی میں پیدا ہوئے ہوں لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ ابراہیم سے منقول ہے کہ انہوں نے ماں بیٹے کو جدا کر دیا تو لوگوں نے ان پر اعتراض کیا اس پر انہوں نے کہا کہ میں نے اس کی والدہ سے پوچھ لیا تھا وہ اس پر رضامند تھی۔

باب ۸۶۵۔ مَا جَاءَ مَنْ يَشْتَرِي الْعَبْدَ وَيَسْتَفِلُّهُ ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَيْبًا

باب ۸۶۵۔ جو شخص غلام خریدے اور اس سے کچھ فائدہ حاصل کرنے کے بعد اس میں عیب پائے

۱۱۵۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَمْرٍو أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَفَافٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ

۱۱۵۲۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فیصلہ کیا کہ غلام خریدنے والے شخص کی ضمانتی تو حاصل شدہ منافع سے ہوگی۔

یہ حدیث حسن ہے اور کئی سندوں سے مشہور ہے۔ اہل علم اسی پر عمل کرتے ہیں۔ ابوسلمہ، یحییٰ بن خلف سے وہ عمر بن علی سے وہ ہشام بن عروہ سے وہ اپنے والد سے اور وہ حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر چیز کا نفع اسی کے لیے ہے جو اس کا ضامن ہو۔ یہ حدیث ہشام بن عروہ کی روایت سے صحیح غریب ہے۔ محمد بن اسماعیل بخاری اسے عمر بن علی کی روایت سے غریب سمجھتے ہیں۔ یہ حدیث مسلم بن خالد زنجی بھی ہشام بن عروہ سے روایت کرتے ہیں پھر جریر بھی ہشام سے نقل کرتے ہیں۔ لیکن اس میں تدلیس ہے اس لیے کہ جریر نے ہشام سے یہ حدیث نہیں سنی۔ اس حدیث کی تفسیر یہ ہے کہ ایک شخص نے غلام خریدا اور اس کے ذریعے مال کمایا بعد میں پتہ چلا کہ اس میں کوئی عیب ہے تو اسے واپس کر دیا اس صورت میں اس نے جو کچھ اس غلام کے ذریعے کمایا اسی کا ہوگا کیونکہ اگر وہ غلام اس اثناء میں مر جاتا تو خسارہ خریدنے والے ہی کا تھا۔ اس طرح کے تمام مسائل کا بھی حکم ہے کہ نفع اسی کا ہوگا جو ضامن ہوگا۔

باب ۸۶۶۔ مَا جَاءَ مِنَ الرَّحْمَةِ فِي أَكْلِ الْقَمَرَةِ لِلْمَازِيهَا

باب ۸۶۶۔ راہ گزرنے والے کے لیے راستے کے پھل کھانے کی اجازت۔

۱۱۵۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَّازِ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ نَاقِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَتَّخِذْ حُبْنَةً

۱۱۵۳۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی شخص کسی باغ میں داخل ہو تو اس کے لیے اس کے لیے پھل کھانا جائز ہے لیکن کپڑے وغیرہ میں جمع کرنا صحیح نہیں۔

اس باب میں عبد اللہ بن عمرو، عباد بن شریح، رافع بن عمر، ابوہریرہ کے مولیٰ عمیر اور ابو ہریرہ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر کی حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں لیکن بعض علماء بغیر قیمت ادا کیے کھانے کو مکروہ کہتے ہیں۔

۱۱۵۴۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الثَّمْرِ الْمُعْلَقِ فَقَالَ مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِي حَلْجَةٍ غَيْرِ مُتَّحِلٍ حُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

۱۱۵۴۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ سے دو خشقوں پر لگی ہوئی کھجوروں کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا: اگر کوئی ضرور متذمّم کیے بغیر کھالے تو کوئی بات نہیں۔

۱۱۵۵۔ حضرت رافع بن عمرو کہتے ہیں کہ میں انصار کے کھجوروں کے درختوں پر پتھر مار رہا تھا کہ انہوں نے مجھے پکڑ کر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ ﷺ نے پوچھا: رافع کیوں ان کے درختوں کو پتھر مار رہے تھے؟ میں نے عرض کیا۔ بھوک کی وجہ سے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: پتھر نہ مارا کرو۔ جو گری ہوئی ہوں وہ کھالیا کرو۔ اللہ تمہیں سیر کرے اور آسودہ کرے۔

۱۱۵۵۔ حَدَّثَنَا أَبُو عَمَارٍ الْحُسَيْنِيُّ بْنُ حَرْبٍ الْخَزَاعِيُّ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي جَبْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كُنْتُ أَرْمِي نَخْلَ الْأَنْصَارِ فَأَخَذُونِي فَذَهَبُوا بِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَافِعُ لِمَ تَرْمِي نَخْلَهُمْ قَالَ كُنْتُ يَا رَسُولَ الْجُوعِ قَالَ لَا تَرْمِ وَكُلْ مَا وَقَعَ أَشْبَعَكَ اللَّهُ وَارْوَاكَ

یہ حدیث حسن ہے۔

باب ۸۶۷۔ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الثُّبَيَّاءِ

۱۱۵۶۔ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ ثَنَا عِبَادُ الْعَوَامِ أَخْبَرَنِي سَفِيَّانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبِيدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَحَاقِلَةِ وَالْمُزَانِنَةِ وَالْمُخَايِرَةِ وَالثُّبَيَّاءِ إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ

باب ۸۶۷۔ بیع میں استثناء کرنے کی ممانعت

۱۱۵۶۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے محافلہ (۱) مزاننہ (۲) مخایرہ (۳) اور ثنبیا (۴) سے منع فرمایا۔ اے یہ کہ اس کی مقدار معلوم ہو۔

یہ حدیث اس سند سے صحیح غریب ہے یعنی یونس بن عطاء کی جابرؓ سے روایت ہے۔

باب ۸۶۸۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

۱۱۵۷۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسِ بْنِ أَبِي عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ابْتِئَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ

۱۱۵۷۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی شخص غلہ خریدے تو اسے اس وقت تک فروخت نہ کرے جب تک اس کے قبضے میں نہ آجائے۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں: میرے نزدیک ہر چیز کے متعلق یہی حکم ہے۔

(۱) محافلہ کے معنی ہیں کہ زمین کو غلے کے عوض کرائے پر دینا یا کھیتی کو اس کی جڑیں مضبوط ہونے سے پوشر فروخت کرنا۔ با تہائی یا چوتھائی پیداوار پر بنائی کرنا یا وہ گے ہوں جو ہالی میں ہو صاف گے ہوں کے عوض بیچنا۔ یہ سب اس لیے منع ہے کہ اس میں اجرت معین نہیں۔ (مترجم)

(۲) مزاننہ۔ یعنی درخت پر موجود پھل کو ایسے پھل کے عوض بیچ دے جو درخت سے اتر چکا ہو۔ یا اس لیے منع ہے کہ درخت پر لگے ہوئے پھلوں کا صحیح وزن معلوم نہیں۔ (مترجم)

(۳) مخایرہ بھی زمین کو تہائی یا چوتھائی حصے پیداوار کے عوض کرائے پر دینے کے معنی میں آتا ہے۔ (مترجم)

(۴) ثنبیا: اس سے مراد یہ ہے کہ فروخت کرتے وقت کسی غیر معین چیز کو مستثنیٰ کر دیا جائے کہ یہ اس میں داخل نہیں۔ واللہ اعلم (مترجم)

اس باب میں حضرت جابرؓ اور ابن عمرؓ سے بھی حدیثیں نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اکثر علماء اسی پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کسی چیز پر قبضہ کرنے سے پہلے اسے فروخت کرنا جائز نہیں جب کہ بعض علماء کا مسلک یہ ہے کہ جو چیزیں تولی یا وزن نہیں کی جاتیں اور نہ ہی کھانے پینے میں استعمال ہوتی ہیں ان کا ملکیت سے پہلے بیچنا جائز ہے۔ یعنی صرف غلے کے متعلق ہی سختی سے منع کیا گیا ہے احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔

باب ۸۶۹۔ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْبَيْعِ عَلَى بَيْعِ آخِيهِ  
 ۱۱۵۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ  
 عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ  
 بَعْضُكُمْ عَلَى حِطْبَةِ بَعْضٍ  
 باب ۸۶۹۔ کسی کی بیع پر بیع کی ممانعت  
 ۱۱۵۸۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کوئی شخص  
 دوسرے کی فروخت کی ہوئی چیز پر وہی چیز اس سے کم قیمت میں نہ بیچے  
 اور کسی عورت کے کسی کے ساتھ نکاح پر رضامندی ظاہر کرنے کے بعد  
 کوئی اسے پیغام نکاح نہ بھیجے۔

اس باب میں حضرت ابو ہریرہؓ اور سمرہؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ آنحضرت ﷺ سے یہ بھی مروی ہے۔  
 کہ فرمایا: کوئی شخص اپنے بھائی کی لگائی ہوئی قیمت پر قیمت نہ لگائے یعنی اگر دونوں میں بیع کا انعقاد قریب ہو اور مالک نیم رضامند ہو۔  
 بعض علماء حدیث باب کو بھی قیمت لگانے پر ہی محمول کرتے ہیں۔

باب ۸۷۰۔ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ وَالنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ  
 ۱۱۵۹۔ حَدَّثَنَا حَمِيدُ بْنُ مَسْعُودَةَ ثَنَا الْمُعْتَمِدُ بْنُ  
 سَلِيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ لَيْثًا يَحْدُثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِبَادٍ  
 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهُ إِنِّي  
 اشْتَرَيْتُ خَمْرًا لِأَيْتَامٍ فِي حَجْرِي قَالَ أَهْرِقِ الْخَمْرَ  
 وَاكْسِرِ الدِّنَارَ  
 باب ۸۷۰۔ شراب بیچنے کی ممانعت۔  
 ۱۱۵۹۔ حضرت ابو طلحہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے  
 رسول! میں نے ان یتیموں کے لیے شراب خریدی تھی جو میری کفالت  
 میں ہیں آپ ﷺ نے فرمایا: شراب کو بہا دو اور برتن کو توڑ ڈالو۔

اس باب میں جابرؓ، عائشہؓ، ابوسعیدؓ، ابن مسعودؓ، ابن عمرؓ اور انسؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہؓ کی حدیث ثوری، صدی  
 سے وہ یحییٰ بن عباد سے اور وہ انسؓ سے نقل کرتے ہیں کہ ابو طلحہؓ ان کے نزدیک تھے یہ حدیث لیث کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔

۱۱۶۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ  
 ثَنَا سَفِيَانُ عَنِ السَّدِيِّ عَنِ يَحْيَى بْنِ عِبَادٍ عَنْ أَنَسِ  
 بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 أَيَّتَخَذُ الْخَمْرُ خَلًّا قَالَ لَا  
 یہ حدیث حسن صحیح ہے۔  
 ۱۱۶۰۔ حضرت انسؓ بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ سے پوچھا  
 گیا کہ کیا شراب سے سرکہ بنا لیا جائے؟ فرمایا: نہیں۔

۱۱۶۱۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَنِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ  
 أَبَا عَاصِمٍ عَنِ شَيْبِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَعَنَ  
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ  
 حضرت انسؓ بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے  
 شراب سے متعلق دس آدمیوں پر لعنت بھیجی ہے۔ (۱) نکالنے والے  
 پر، (۲) نکلوانے والے پر، (۳) پینے والے پر، (۴) لے جانے

عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ  
إِلَيْهِ وَ سَاقِيَهَا وَ بَايِعَهَا وَ أَكَلَ ثَمَنِهَا وَ الْمُشْتَرَى لَهَا  
الْمُشْتَرَاةَ  
والے پر، (۵) جس کی طرف لے جائی جا رہی ہو اس پر، (۶)  
پلانے والے پر (۷) فروخت کرنے والے پر، (۸) اس کی قیمت  
کھانے والے پر، (۹) خریدنے والے پر اور (۱۰) جس کے لیے  
خریدی گئی ہو اس پر۔

یہ حدیث غریب ہے۔ حضرت عباسؓ اور ابن مسعودؓ سے بھی اسی کی مثل منقول ہے۔ یہ حضرات آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔  
مسئلہ: ابتدائے اسلام میں شراب سے کہ بنانے کی ممانعت تھی لیکن بعد میں اس کی اجازت دے دی گئی اور وہ احادیث  
منسوخ ہو گئیں چنانچہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: سرکہ تمہارے کھانوں میں سے بہترین سالن ہے۔ یہ حدیث مسلم نے نقل کی  
ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۸۷۱- مَا جَاءَ فِي احْتِلَابِ الْمَوَاشِي بِغَيْرِ اِذْنِ  
الْاَرْبَابِ  
باب ۸۷۱- جانوروں کا ان کے مالکوں کی اجازت کے بغیر دودھ  
نکالنا۔

۱۱۶۲- حَدَّثَنَا ابُو سَلْمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفِ ثَنَا  
عَبْدُالاعْلَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ  
بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَى  
أَحَدُكُمْ عَلِيٌّ مَاشِيَةً فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ  
فَإِنْ أَدِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَحَدٌ  
فَلْيَصَوِّتْ ثَلَاثًا فَإِنْ أَجَابَهُ أَحَدٌ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ فَإِنْ لَمْ يُجِبْهُ  
أَحَدٌ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلْ  
۱۱۶۲- حضرت سمرہ بن جندبؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر  
تم میں سے کوئی مویشیوں کے پاس جائے تو اگر مالک موجود ہو تو اس  
سے اجازت طلب کرے اگر وہ اجازت دے دے تو دودھ نکال کر پی  
لے اور اگر وہاں کوئی نہ ہو تو تین مرتبہ آواز لگائے اگر کوئی جواب دے تو  
اس سے اجازت لے ورنہ دودھ نکال کر پی لے لیکن ساتھ نہ لے  
جائے۔

اس باب میں ابن عمرؓ اور ابوسعیدؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حضرت سمرہؓ کی حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ بعض علماء اسحاق اور احمد  
اسی کے قائل ہیں۔ علی بن مدینی کہتے ہیں کہ سمرہؓ سے سماع ثابت ہے جب کہ بعض علماء حسن کی سمرہؓ سے منقول احادیث پر اعتراض  
کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کی کتاب سے حدیثیں نقل کی ہیں۔

توضیح: اکثر علماء اس قسم کی احادیث کو اضطراری حالت پر محمول کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی سفر میں ہو اور بھوکا ہو تو اس کے لیے راستے کے  
پھل کھا لینا جائز ہے۔ دودھ پی لینا جائز ہے وغیرہ وغیرہ لیکن یہ بھی بقدر ضرورت ہے یہ نہیں کہ ساتھ لے جائے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۸۷۲- مَا جَاءَ فِي بَيْعِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ  
۱۱۶۳- حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدِ بْنِ حَبِيبٍ  
عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ  
سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ  
وَهُوَ بِمَكَّةَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ  
وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

باب ۸۷۲- مُرْذَارِ جَانُورِوْنَ كِي كِهَالِ اَوْرِيُوْنَ كُو فَرْوَحْتِ كِرْنَا۔  
۱۱۶۳- حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے  
سال مکہ میں فرمایا: اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور  
بت بیچنے سے منع کیا ہے آپ ﷺ سے کہا گیا یا رسول اللہ! امر داری کی  
چربی کے متعلق کیا حکم ہے اس سے کشتیوں کو طلا کیا جاتا ہے، چمڑے  
چکنے کیے جاتے ہیں۔ لوگ اس سے چراغ جلاتے ہیں۔ فرمایا: نہیں

أَرَأَيْتَ شَحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهِ السُّفْنُ وَيُدَّهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ قَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنْ اللَّهُ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَأَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

وہ حرام ہے۔ پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: یہودیوں پر اللہ کی مار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر چربی حرام کی تو انہوں نے اس کو پگھلا کر بیچ دیا اور اس کی قیمت کھالی۔ (یعنی اسے حلال کرنے کا یہ بہانہ تلاش کیا کہ اسے پگھلا دیا۔ کیونکہ پگھلی ہوئی چربی کو ”شحم“ نہیں بلکہ ”ورک“ کہتے ہیں۔) (مترجم)

اس باب میں حضرت عمر اور ابن عباسؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اہل علم اسی پر عمل کرتے ہیں۔

باب ۸۷۳- مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الرُّجُوعِ مِنَ الْهَيْبَةِ

باب ۸۷۳- کوئی چیز ہبہ کرنے کے بعد واپس لینا۔

۱۱۶۴- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّبِيِّ ثَنَا

۱۱۶۴- حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ہمارے

عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ

لیے بری کہادت نہیں ہے کہ کوئی چیز ہبہ کرنے کے بعد واپس لینے والا

عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

ایسے کتے کی طرح ہے جو اپنی قے کو کھا جاتا ہے۔

لَيْسَ لَنَا مِثْلُ السُّوءِ الْعَائِدِ فِي هَيْبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ

فِي قَيْبِهِ

اس باب میں حضرت ابن عمرؓ، آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ کوئی چیز کسی کو دینے کے بعد

واپس لے ہاں باپ بیٹے سے واپس لے سکتا ہے۔ یہ حدیث محمد بن بشار، ابن ابی عدی سے وہ حسین معلم سے وہ عمرو بن شعیب سے وہ

طاؤس سے اور وہ ابن عمرؓ اور ابن عباسؓ سے نقل کرتے ہیں۔ یہ دونوں حضرات اس حدیث کو مرفوع نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ کی

حدیث حسن صحیح ہے۔ اسی پر بعض صحابہ و دیگر علماء کا عمل ہے کہ اگر کسی نے کوئی چیز اپنے کسی ذی رحم محرم کو دے دی تو اس سے واپس لینا صحیح

نہیں لیکن اگر غیر ذی رحم محرم کو دی ہو تو واپس لینا جائز ہے بشرطیکہ اس کے بدلے کوئی چیز نہ لے چکا ہو۔ اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

شافعی کہتے ہیں کہ والد کے علاوہ کسی کا کوئی چیز واپس لینا جائز نہیں وہ اپنے مسلک پر حجت کے طور پر حدیث باب ہی پیش کرتے

ہیں یعنی حضرت ابن عمرؓ کی حدیث۔

باب ۸۷۴- مَا جَاءَ فِي الْعَرَايَا وَالرُّحَصَةِ فِي ذَلِكَ

باب ۸۷۴- بیع عرایا اور اس کی اجازت۔ (۱)

۱۱۶۵- حَدَّثَنَا هَنَادُنَا ثَنَا عَبْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

۱۱۶۵- حضرت زید بن ثابتؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بیع محاقلہ

اسْلَحَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ

اور مزینہ سے منع فرمایا۔ لیکن اہل عرایا کے لیے اپنے درختوں کے

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ

پھلوں کو اترے ہوئے پھلوں کے عوض اندازے کے ساتھ بیچنے کی

الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ إِلَّا أَنَّهُ أَذِنَ لِأَهْلِ الْعَرَايَا أَنْ

اجازت دی۔ (۲)

يَبِيعُوهَا بِمِثْلِ حَرْصِهَا

(۱) ان الفاظ کی تفصیل 'باب فی النهی عن الشیاء' میں گزر چکی ہے۔ (مترجم)

(۲) اہل عرایا: ان محتاج لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہیں درختوں کے پھل عاریہ دیئے گئے ہوں۔ واللہ اعلم (مترجم)

اس باب میں ابو ہریرہؓ اور جابرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حضرت زید بن ثابت کی حدیث کو محمد بن اسحاق بھی ایسے ہی نقل کرتے ہیں۔ ایوب، عبد اللہ بن عمر اور مالک بن انس بھی نافع سے اور وہ ابن عمرؓ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے محافلہ اور مزبانہ سے منع فرمایا اسی سند سے حضرت ابن عمرؓ سے بحوالہ زید بن ثابتؓ مرفوعاً منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ نے عرایا کو پانچ وسق کی اجازت دی ہے۔ یہ محمد بن اسحاق کی حدیث زیادہ صحیح ہے۔

۱۱۶۶۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اہل عرایا کو پانچ وسق سے کم پھل اندازے سے بیچنے کی اجازت دی یا کچھ اسی طرح فرمایا۔

۱۱۶۷۔ حضرت مالک فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے عرایا کو پانچ وسق یا اس سے کم مقدار میں بیچنے کی اجازت دی۔

۱۱۶۸۔ حضرت زید بن ثابتؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے عرایا کو اندازے کے ساتھ بیچنے کی اجازت دی۔

۱۱۶۶۔ حدثنا ابو کریب ثنا زید بن حباب عن مالك عن داؤد ابن الحصين عن ابى سفیان مولى ابن ابى اَحمَدَ عَنْ ابى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَحَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي مَادُونَ خُمْسَةَ أَوْ سِقٍ أَوْ كَذَا

۱۱۶۷۔ حدثنا قتيبة عن مالك عن داؤد بن حصين نحوه وروى لهذا الحديث عن مالك أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَحَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خُمْسَةَ أَوْ سِقٍ أَوْ فِيمَا دُونَ خُمْسَةَ أَوْ سِقٍ

۱۱۶۸۔ حدثنا قتيبة ثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن زید بن ثابت أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَحَّصَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا

یہ اور حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض علماء، شافعی، احمد اور اسحاق اسی پر عمل کرتے ہیں ان حضرات کا کہنا ہے کہ عرایا محافلہ اور مزبانہ کی بیوع کی ممانعت سے مستثنیٰ ہیں ان کی دلیل حضرت زیدؓ اور ابو ہریرہؓ کی حدیثیں ہیں۔ شافعی، احمد اور اسحاق مزید کہتے ہیں کہ عرایا کے لیے پانچ وسق سے کم پھلوں کو بیچنا جائز ہے۔ بعض علماء اس کی یہ تفسیر کرتے ہیں کہ یہ آنحضرت ﷺ کی طرف سے ان کے لئے آسانی اور وسعت کے لیے تھا کیونکہ انہوں نے شکایت کی کہ ہم میں تازہ پھل خریدنے کی استطاعت نہیں ہے الا یہ کہ پرانی کھجوروں سے خریدیں تو آپ ﷺ نے انہیں پانچ وسق سے کم خریدنے کی اجازت دے دی تاکہ تازہ پھل کھا سکیں۔

۱۱۶۹۔ ولید بن کثیر، بنو حارثہ کے مولیٰ بشیر بن یسار سے نقل کرتے ہیں کہ رافع بن خدیج اور اہل بن ابی حمزہ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے بیع مزبانہ یعنی درختوں سے اترتی ہوئی کھجور کے عوض درختوں پر لگی ہوئی کھجور خریدنے سے منع فرمایا؛ لیکن اصحاب عرایا کو اجازت دی اور تازہ انگور کو خشک انگور کے عوض اور تمام پھلوں کو اندازے سے بیچنے سے منع فرمایا۔

۱۱۶۹۔ حدثنا الحسن بن علی الخلال ثنا ابواسامة عن الوليد بن كَثِيرٍ ثنا بشير بن يسار مولى بنى جارية أن رافع بن خديج وسهل ابن ابى حنيفة حدثناه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع المزبانية الثمر بالثمر إلا لأصحاب العرايا فإنه قد اذن لهم وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل تمر بخرصها

یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔

اس کی تفسیر یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے باغ میں سے ایک یا دو درخت کسی محتاج وغیرہ کو پھل کھانے کے لیے دے دیا کرتے تھے پیناچہ عرب کی یہ عادت تھی کہ اپنے اہل و عیال کو لے کر باغ میں جایا کرتے تھے اور ایسی صورت میں اس محتاج یا فقیر کی آمد ناگوار گزرتی اس لیے باغ کا مالک اسے اس درخت کے پھل کے بدلے میں اپنے پاس سے پھل دے کر رخصت کر دیا کرتے اور اس کا پھل اپنے پاس رکھ لیتے۔ آنحضرت ﷺ نے اس کی اجازت دی لیکن اس میں پانچ وقت سے کم ہونا ضروری ہے یہ قید اس لیے ہے کہ اس اجازت کا تعلق احتیاج کی وجہ سے ہے۔ اور احتیاج و ضرورت پانچ وقت سے کم ہی ہوتی ہے اور پانچ وقت چھبیس من کے برابر ہوتے ہیں۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۸۷۵۔ نجش حرام ہے۔ (۱)

باب ۸۷۵۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّجْشِ

۱۱۷۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: نجش نہ کرو۔ قہیہ کہتے ہیں کہ وہ اس حدیث کو پہنچاتے تھے۔

۱۱۷۰۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَا ثَنَا سَفِيَانُ

عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قُتَيْبَةُ

يُبْلَغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنَاجَشُوا

اس باب میں ابن عمرؓ اور انسؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اہل علم اسی پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نجش حرام ہے۔ نجش یہ ہے کہ کوئی کسی چیز کے متعلق خاص معلومات رکھنے والا شخص وہ چیز فروخت کرنے والے کے پاس جا کر اس کی قیمت اصل قیمت سے زیادہ دینے لگے۔ یہ معاملہ اس وقت ہو جب خریدار وہ ہیں موجود ہوتا کہ خریدار دھوکہ کھا کر اسے بازار کی قیمت سے زیادہ میں خرید لے۔ یعنی اس کی نیت محض خریدار کو دھوکا دینے کی ہو۔ یہ دھوکے اور فریب کی ایک قسم ہے۔

باب ۸۷۶۔ تولتے وقت جھکاؤ رکھنا۔

باب ۸۷۶۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجْحَانِ فِي الْوُزْنِ

۱۱۷۱۔ حضرت سوید بن قیس کہتے ہیں کہ میں اور مخرمہ عبدی ہجر کے مقام پر کپڑا لائے تو آپ تشریف لائے اور ایک پاجامے کا سودا کیا۔ میں نے اجرت پر ایک تولتے والا رکھا ہوا تھا۔ آپ ﷺ نے اسے حکم دیا کہ تولو اور جھکاؤ کے ساتھ تولو۔

۱۱۷۱۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ مَحْمُودٍ وَ مَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَا ثَنَا

وَكَيْعٌ عَنْ سَفِيَانَ عَنْ سَمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سُوَيْدِ

بْنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَيْتُ أَنَا وَمَخْرَمَةُ الْعَبْدِيُّ بَرًّا مِّنْ

هَجَرَ فَجَاءَ نَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَوْنَا

بِسَرَاوِيلٍ وَعِنْدِي وَزَانٌ يَزِينُ بِالْأَجْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْوَزَانِ زِينٌ وَأَرْجَحُ

اس باب میں جامہؓ اور ابو ہریرہؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت سوید کی حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء ترازو کے جھکاؤ کو مستحب

کہتے ہیں۔ شعبہ یہی حدیث سماک سے اور وہ ابو صفوان سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۸۷۷۔ تنگ دست کے لیے قرضے کی ادائیگی میں مہلت اور نرم روی۔

باب ۸۷۷۔ مَا جَاءَ فِي أَنْظَارِ الْمُعْسِرِ وَالرَّفْقِ بِهِ

۱۱۷۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص

۱۱۷۲۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ ثَنَا اسْحَقُ بْنُ سَلِيمَانَ

اپنے کسی تنگ دست مقرض کو مزید مہلت دے۔ اور اس کا کچھ قرضہ

الرازي عن داؤد بن قيس عن زيد بن اسلم عن

(۱) اس کی تفسیر آگے مذکور ہے۔ (مترجم)

بھی معاف کر دے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جس دن اس کے بلاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔

أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا وَوَضَعَ لَهُ أَظْلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ

اس باب میں ابویسر، ابوقادہ، حذیفہ، مسعود اور عبادہ بھی حدیثیں نقل کرتے ہیں یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔

۱۱۷۳۔ حضرت ابو مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم سے پہلی امتوں میں سے کسی شخص کا حساب کیا گیا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہ نکلی لیکن اتنا تھا کہ وہ شخص امیر تھا اور لوگوں سے لین دین کرتا رہتا تھا اور اپنے غلاموں کو حکم دے رکھا تھا کہ اگر کوئی مقروض تنگ دست ہو تو اسے معاف کر دیا کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: ہم اسے معاف کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں اسے چھوڑ دو۔

۱۱۷۳۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ أَبِي مَعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيبِ بْنِ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ رَجُلًا مُوسِرًا فَكَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ فَكَانَ يَأْتُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ تَجَاوَزُوا عَنْهُ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۸۷۸۔ مالدار شخص کا قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرنا ظلم ہے۔  
۱۱۷۴۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: امیر آدمی کی طرف سے ادائیگی قرض میں تاخیر ظلم ہے اور کسی شخص کو کسی مالدار شخص کی طرف تحویل کر دیا جائے تو اسے چاہئے کہ اس سے وصول کرے۔ (۱)

باب ۸۷۸۔ مَا جَاءَ فِي مَطْلِ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ  
۱۱۷۴۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثنا سَفِينٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ وَإِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

اس باب میں ابن عمر اور شریک بھی حدیثیں نقل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر کسی مالدار کی طرف حوالہ کیا جائے تو اس سے وصول کرے۔ بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس مالدار نے قبول کر لیا تو قرض دار بری ہو گیا وہ اس سے طلب نہیں کر سکتا۔ شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اگر محال علیہ (جس کی طرف حوالہ کیا گیا) مفلس ہو جائے اور قرض خواہ کا مال ضائع ہو جائے تو اس صورت میں وہ دوبارہ پہلے قرض دار سے رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے۔ کیونکہ حضرت عثمانؓ سے منقول ہے کہ ”مسلمان کا مال ضائع نہیں ہو سکتا“۔ اطلاق بھی اس قول کے یہی معنی بیان کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو کسی دوسرے کی طرف حوالہ کر دیا جائے اور وہ بظاہر غنی معلوم ہوتا ہے لیکن درحقیقت مفلس ہو تو اس صورت میں قرض خواہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پہلے قرض دار سے رجوع کرے۔

مسئلہ: اس مسئلے میں حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی مقروض کسی شخص کی طرف تحویل کرے تو حوالہ ہو جاتا ہے لیکن وہ محال علیہ (جس کی طرف حوالہ کیا گیا ہے) کی زندگی میں پہلے قرض دار کی طرف رجوع نہیں کر سکتا اگرچہ وہ مفلس ہی ہو جائے۔ البتہ اگر وہ اپنے مال کے اس سے ملنے سے مایوس ہو جائے تو اس کے لیے پہلے قرض دار سے رجوع کرنا جائز ہے اور اس کی دو صورتیں ہیں۔ اول یہ کہ محال علیہ حوالہ کا انکار کر دے اور کوئی گواہ نہ ہو۔ دوم یہ کہ محال علیہ فوت ہو جائے اور اس کے مال وراثت میں بھی اتنا مال نہ ہو کہ اس کا قرض ادا کیا جاسکے۔ واللہ اعلم (مترجم)

(۱) تحویل حوالہ سے ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص اپنے قرض خواہ سے کہے کہ میرے اوپر جتنا تمہارا قرض ہے تم فلاں شخص سے وصول کر لو تو اسے اس سے وصول کرنا چاہئے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۸۷۹۔ مَا جَاءَ فِي الْمُنَابَذَةِ وَالْمَلَامَسَةِ

باب ۸۷۹۔ بیع منابذہ اور ملامتہ

۱۱۷۵۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ مَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَا  
ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سَفِيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ  
أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
عَنْ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمَلَامَسَةِ

۱۱۷۵۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بیع منابذہ  
اور ملامتہ سے منع فرمایا۔

اس باب میں ابوسعید اور ابن عمرؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بیع منابذہ یہ ہے کہ ایک شخص  
دوسرے سے کہے کہ جب میں تمہاری طرف کوئی چیز پھینکوں گا تو ہمارے درمیان بیع واجب ہوگی اور بیع ملامتہ یہ ہے کہ اگر میں نے کوئی  
چیز چھو لی تو بیع واجب ہوگی اگرچہ اس نے کچھ بھی نہ دیکھا ہو۔ مثلاً وہ چیز کسی تھیلے وغیرہ میں ہو یہ اہل جاہلیت کی بیوع ہیں جن سے  
آنحضرت ﷺ نے منع فرمایا۔

باب ۸۸۰۔ مَا جَاءَ فِي السَّلْفِ فِي الطَّعَامِ وَالتَّمْرِ

باب ۸۸۰۔ غلہ وغیرہ کی قیمت پیشگی ادا کرنا۔

۱۱۷۶۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ ابْنِ أَبِي  
نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنِ ابْنِ  
عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمْرِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ  
فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

۱۱۷۶۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب مدینہ  
متورہ تشریف لائے تو وہ لوگ کھجوروں کی قیمت پیشگی ادا کر دیا کرتے  
تھے۔ آنحضرت ﷺ نے حکم دیا کہ اگر کوئی شخص پیشگی قیمت وصول  
کرے تو وزن اور کیل کا مقدار کرنا اور جتنی مدت بعد چیز دینی ہو اس کا  
تعیین کرنا ضروری ہے۔ (۱)

اس باب میں ابن ابی اوفی اور عبدالرحمن بن ابی بکرؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اور علماء  
اسی پر عمل کرتے ہوئے غلے یا کپڑے اور ان چیزوں کی پیشگی قیمت ادا کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں جن کی حد اور صفت معلوم ہو۔ لیکن  
جانوروں کی قیمت کی پیشگی ادائیگی میں اختلاف ہے۔ شافعی، احمد اور اسحاق اسے جائز کہتے ہیں جب کہ بعض صحابہ، سفیان ثوری اور اہل  
کوفہ جانوروں کی قیمت پیشگی ادا کرنے کو جائز کہتے ہیں۔

باب ۸۸۱۔ مَا جَاءَ فِي أَرْضِ الْمُشْتَرِكِ يُرِيدُ بَعْضُهُمْ

باب ۸۸۱۔ مشترکہ زمین میں سے اگر کوئی حصہ دار اپنا حصہ  
بیچنا چاہے۔

۱۱۷۷۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ ثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ  
عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَلِيمَانَ الْيَشْكُرِيِّ عَنْ  
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي حَاطِطٍ فَلَا يَبِيعُ نَصِيبَهُ مِنْ  
ذَلِكَ حَتَّى يَعْضُضَهُ عَلَى شَرِيكِهِ

۱۱۷۷۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:  
اگر کسی شخص کا کسی باغ میں حصہ ہو تو وہ اپنا حصہ اپنے دوسرے شریک کو  
بتائے بغیر فروخت نہ کرے۔

(۱) کیل۔ ناپ کو کہتے ہیں یعنی وزن اور ناپ مقرر ہو کہ اتنے کلو ہوں گے یا اتنے صاع وغیرہ۔ (مترجم)

اس حدیث کی سند متصل نہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ سلیمان یشکری کی وفات حضرت جابر بن عبد اللہ کی زندگی ہی میں ہوئی۔  
 قتادہ اور ابو بشر نے ان سے کوئی حدیث نہیں سنی (یعنی سلیمان یشکری سے) مزید کہتے ہیں کہ مجھے علم نہیں کہ سلیمان یشکری سے عمرو بن  
 دینار کے علاوہ کسی اور کا سماع ہوا۔ انہوں نے بھی شاید حضرت جابرؓ کی زندگی ہی میں ان سے احادیث سنی ہوں۔ اور قتادہ، سلیمان یشکری  
 کی کتاب سے احادیث نقل کرتے ہیں جس میں انہوں نے جابر بن عبد اللہ سے منقول احادیث لکھی ہوئی تھیں۔ علی بن مدینی، یحییٰ بن  
 سعید سے نقل کرتے ہیں کہ سلیمان تمیمی کہتے ہیں کہ ہم جابر بن عبد اللہ کی کتاب حسن بصری کے پاس لے گئے تو انہوں نے اسے رکھ لیا یا  
 فرمایا کہ اس سے احادیث نقل کیں پھر لوگ اسے قتادہ کے پاس لے گئے تو انہوں نے اس سے روایت کی پھر میرے پاس لائے لیکن میں  
 نے اس سے روایت نہیں کی ہمیں یہ باتیں ابو بکر عطاء نے علی بن مدینی کے حوالے سے بتائیں۔

باب ۸۸۲۔ مَا جَاءَ فِي الْمُخَابِرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ

باب ۸۸۲۔ بیع مخابره اور معاومہ۔

۱۱۷۸۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب  
 الثقفی ثنا ایوب عن أبي الزبير عن جابر أن النبي  
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن المحاقلة والمزابنة  
 والمخابرة والمُعَاوَمَةِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا  
 یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۱۷۸۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بیع محاقله،  
 مزابنہ، مخابره (۱) اور معاومہ (۲) کی ممانعت کی لیکن عرایا میں ان کی  
 اجازت دی۔

۱۱۷۹۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا الحجاج بن  
 منهال ثنا حماد بن سلمة عن قتادة و ثابت و  
 حميد عن أنس قال غلّا السعير على عهد رسول  
 الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ سَعِيرُ  
 لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسْعِيرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَاقُ  
 وَإِنِّي لَأَرَجُوا أَنْ أَلْفَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي  
 بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ  
 یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۱۷۹۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے زمانے میں  
 مہنگائی ہوئی تو ہم نے عرض کیا کہ قیمتیں مقرر کر دیجئے۔ فرمایا: قیمتیں  
 مقرر کرنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو روکنے والا بھی ہے  
 دینے والا اور کشادگی کرنے والا بھی اور وہی رازق ہے (یعنی رزق میں  
 تنگی اور کشادگی اسی کے حکم سے آتی ہے)۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے  
 رب سے اس حال میں ملوں کہ کوئی شخص مجھ سے اپنے خون یا مال میں  
 ظلم کا مطالبہ کرنے والا نہ ہو۔

باب ۸۸۳۔ بیوع میں ملاوٹ کرنا حرام ہے۔

باب ۸۸۳۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْعَشِّ فِي الْبُيُوعِ

۱۱۸۰۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ غلے کے ایک  
 ڈھیر کے پاس سے گزرے تو اپنا ہاتھ اس میں داخل کیا۔ آپ ﷺ  
 نے اس میں نمی محسوس کی تو فرمایا: یہ کیا ہے؟ غلہ بیچنے والے نے  
 عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ بارش کی وجہ سے گیلا ہو گیا ہے۔ آپ ﷺ

۱۱۸۰۔ حدثنا علي بن حجر ثنا اسمعيل بن جعفر  
 عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن  
 رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرَّ على صُبْرَةٍ مِنْ  
 طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ يَا

(۱) محاقله، مزابنہ اور مخابره کے معنی باب "ما جاء في النهي عن النيبا" میں گزر چکی ہیں۔

(۲) معاومہ: یہ ہے کہ بھلوں کو پیداوار سے پہلے ہی ایک یا دو سال کے لیے بیچ دیا جائے۔ یہ بھی بیع غرر میں شامل ہے کیونکہ پیداوار مجہول ہے۔ (مترجم)

صَاحِبِ الطَّعَامِ مَا هَذَا قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَقْلًا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ قَالَ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا

نے فرمایا: تم نے اس بھیگے ہوئے مال کو اوپر کیوں نہیں رکھ دیا تاکہ لوگ دیکھ سکیں۔ پھر فرمایا: جو ملاوٹ یا فریب کرے گا۔ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔

اس باب میں حضرت ابن عمرؓ، ابو حمراءؓ، ابن عباسؓ، بریدہؓ، ابو بردہ بن نیارؓ، اور حذیفہ بن یمانؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے غشی یعنی دھوکے بازی اور ملاوٹ کو حرام کہتے ہیں۔

باب ۸۸۴۔ مَا حَاءَ فِي اسْتِقْرَاضِ الْبُعْبُعِ أَوْ الشُّبِيِّ - باب ۸۸۴۔ اونٹ یا کوئی جانور قرض لینا۔

مِنَ الْحَيَوَانِ

۱۱۸۱۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ عَنْ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًا فَأَعْطَى سِنًا خَيْرًا مِنْ سِنِهِ وَقَالَ خَيْرًا كُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً

۱۱۸۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ایک جوان اونٹ بطور قرض لیا اور ادائیگی کے وقت اس سے بہتر اونٹ دیا۔ پھر فرمایا: تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں۔ جو بہترین طریقے سے قرض ادا کرتے ہیں۔

اس باب میں ابورافعؓ بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اسے شعبہ اور سفیان، سلمہ سے نقل کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض علماء کے نزدیک اونٹ بطور قرض لینے میں کوئی مضا لقتہ نہیں۔ شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ جب کہ بعض علماء اسے مکروہ کہتے ہیں۔

۱۱۸۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا وَقَالَ اشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَطَلَبُوهُ فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا سِنًا أَفْضَلَ مِنْ سِنِهِ فَقَالَ اشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً

۱۱۸۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت ﷺ سے قرض کا تقاضا کیا اور کچھ بدتیزی سے پیش آیا۔ صحابہؓ نے اسے جواب دینے کا ارادہ کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اسے چھوڑ دو۔ اگر کسی کا کسی پر حق ہوتا ہے تو وہ اسی طرح بات کرتا ہے۔ اس کے لیے ایک اونٹ خریدو اور اسے دے دو۔ صحابہ نے تلاش کیا تو اس کے اونٹ سے بہتر اونٹ ملا اس جیسا نہ مل سکا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اسے خرید کر اسے دے دو۔ تم میں سے بہتر وہی ہے جو قرض ادا کرتے وقت اچھی چیز دے۔

محمد بن بشار، محمد بن جعفر سے وہ شعبہ سے اور وہ سلمہ بن کھیل سے اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۱۸۳۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ ثَنَا رُوحُ بْنُ عِبَادَةَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا

۱۱۸۳۔ آنحضرت ﷺ کے آزاد کردہ غلام ابورافعؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ایک جوان اونٹ بطور قرض لیا۔ پھر جب آپ ﷺ کے پاس زکوٰۃ کے اونٹ آئے تو مجھے حکم دیا کہ اس شخص کو اونٹ دے دوں میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! ان میں سے کوئی جوان اونٹ

نہیں ہے ہاں اس سے بہتر چار دانت والا ضرور ہے آپ ﷺ نے فرمایا:  
وہی دے دو کیونکہ بہترین لوگ وہ ہیں جو بہترین چیز سے قرض ادا  
کرتے ہیں۔

فَجَاءَ تَهْ اِبْلٍ مِّنَ الصَّدَقَةِ قَالَ أَبُو رَافِعٍ فَاَمَرَنِي رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَةَ  
فَقُلْتُ لَا أَجِدُ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رُبَاعِيًا  
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ  
خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً  
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۱۸۴۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ  
نرم روی کے ساتھ خرید و فروخت کرنے اور نرمی ہی کے ساتھ قرض ادا  
کرنے کو پسند کرتے ہیں۔

۱۱۸۴۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ ثَنَا اسْحَقُ بْنُ سَلِيمَانَ  
عَنْ مَغْبِرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي  
هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ  
اللَّهَ يُحِبُّ سَمْعَ الْبَيْعِ سَمْعَ الشِّرَاءِ سَمْعَ الْقَضَاءِ

اس باب میں حضرت جابرؓ سے بھی حدیث منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث غریب ہے۔ بعض راوی اسے یونس سے وہ سعید  
مقبوری سے اور وہ ابو ہریرہؓ سے نقل کرتے ہیں۔

۱۱۸۵۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے  
تم سے پہلے ایک شخص کی اس لیے بخشش کر دی کہ وہ جب کوئی چیز  
فروخت کرتا تو آسانی اور نرمی کے ساتھ، جب خریدتا تو اسی طرح اور  
جب کبھی قرض کا تقاضا کرتا تو بھی سہولت اور نرمی کو ملحوظ رکھتا۔

۱۱۸۵۔ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ثَنَا عَبْدِ الْوَهَّابِ  
بْنِ عَطَاءٍ ثَنَا اسْرَائِيلُ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَطَاءٍ بِنِ السَّائِبِ عَنْ  
مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَبِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَفَرَ اللَّهُ لِرَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ سَهْلًا إِذَا  
بَاعَ سَهْلًا إِذَا اشْتَرَى سَهْلًا إِذَا اقْتَضَى  
یہ حدیث اس سند سے غریب صحیح ہے۔

باب ۸۸۵۔ مسجد میں خرید و فروخت کی ممانعت  
۱۱۸۶۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اگر تم کسی  
کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے دیکھو تو کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تجارت  
کو نفع بخش نہ بنائے اور اگر کوئی مسجد میں کسی چیز کے گم ہو جانے کا  
اعلان کرے تو کہو کہ اللہ تمہاری چیز نہ لوٹائے۔

باب ۸۸۵۔ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ  
۱۱۸۶۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ثَنَا عَارِمُ  
ثَنَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ  
خَصِيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ  
أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَا  
أَرْبَعَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ وَ إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً  
فَقُولُوا لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ

حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن غریب ہے اور بعض اہل علم اسی پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسجد میں خرید و فروخت حرام ہے احمد  
اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے جب کہ بعض علماء مسجد میں خرید و فروخت کی اجازت دیتے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَبْوَابُ الْاَحْكَامِ عَنْ

رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۸۸۶- مَا جَاءَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَاضِي

۱۱۸۷- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَلْعَلِيِّ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سَلِيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدِ الْمَلِكِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ اَنَّ عُمَانَ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ اذْهَبْ فَاَقْضِ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ اَوْ تَعَاْفِنِي يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ فَمَا تَكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ كَانَ اَبُوكَ يَقْضِي قَالَ اِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْعَدْلِ فَبِالْحَرِيِّ اَنْ يَنْقَلِبَ مِنْهُ كَفَافًا فَمَا اَرْجُوْا بَعْدَ ذَلِكَ وَفِي الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رسول اللہ ﷺ سے حکومت اور قضاء وغیرہ کے متعلق

منقول احادیث کے ابواب

باب ۸۸۶- قاضی کے متعلق آنحضرت ﷺ سے منقول احادیث۔

۱۱۸۷- حضرت عبداللہ بن مہوب کہتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ نے ابن عمرؓ سے فرمایا: جاؤ اور لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرو۔ انہوں نے کہا: اب امیر المؤمنین! آپ مجھے اس کام سے معاف کیجئے۔ حضرت عثمانؓ نے پوچھا کہ تم اسے کیوں اچھا نہیں۔ سمجھتے حالانکہ تمہارے والد تو فیصلے کیا کرتے تھے۔ ابن عمرؓ نے عرض کیا میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ ”جس نے قاضی بن کر لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلے کیے تو امید ہے کہ وہ برابر برابر چھوٹ جائے۔“ اس کے بعد بھی کیا میں اس کی امید رکھوں؟ اس حدیث میں ایک قصہ بھی ہے۔

اس باب میں ابو ہریرہؓ سے بھی حدیث منقول ہے۔ حضرت ابن عمرؓ کی حدیث غریب ہے۔ میرے نزدیک اس کی سند متصل نہیں۔

عبدالملک جو معتمر سے نقل کرتے ہیں وہ ابو جلیلہ کے بیٹے ہیں۔

۱۱۸۸- حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی شخص منصب قضاء طلب کرتا ہے تو اسے اس کو سوپ دیا جاتا ہے (اور اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں کی جاتی) اور جس شخص پر جبراً یہ عہدہ مسلط کیا جاتا ہے اس کی مدد اور غلط راستے پر جانے سے روکنے کے لیے ایک فرشتہ اترتا ہے۔

۱۱۸۸- حَدَّثَنَا هِنَادُ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ عَبْدِ اَلْعَلِيِّ عَنْ بِلَالِ بْنِ اَبِيْ مُوسَى عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَالَ الْقَضَاءَ وَوَكَّلَ اِلَى نَفْسِهِ مِنْ جُبْرِ عَلَيْهِ يَنْزِلُ عَلَيْهِ مَلَكٌ فَيَسِدُّهُ

۱۱۸۹- خیشمہ بصری، حضرت انسؓ سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جو قضاء کے عہدے پر فائز ہونا چاہتا ہے اور اس کے لیے سفارشیں کرتا ہے اسے اس کے نفس پر چھوڑ دیا جاتا ہے یعنی نبی مدد نہیں ہوتی اور جسے زبردستی اس منصب پر فائز کیا جاتا ہے اس کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اتارتے ہیں۔

۱۱۸۹- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ حَمَادٍ عَنْ اَبِيْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ اَلْعَلِيِّ الثُّعْلَبِيِّ عَنْ بِلَالِ بْنِ مَرْدَسِ الْفَزَارِيِّ عَنْ خَيْثَمَةَ وَهُوَ الْبَصْرِيُّ عَنْ اَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اِتَّبَعِيَ الْقَضَاءَ وَسَالَ فِيْهِ شُفْعَاءَ وَوَكَّلَ اِلَى نَفْسِهِ وَمَنْ اُكْرِهَ عَلَيْهِ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ مَلَكًا يُسِدُّهُ

یہ حدیث حسن غریب ہے اور اسرائیل کی ابوالاعلیٰ سے منقول حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔

۱۱۹۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص قضاء کے منصب پر فائز ہو یا فرمایا جسے لوگوں کا قاضی مقرر کیا گیا گویا کہ وہ بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔

۱۱۹۰۔ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثنا الفضيل بن سليمان عن عمرو بن عمرو بن ابى عمرو عن سعيد المُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ أَوْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ

یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے اور اس کے علاوہ اور سند سے بھی حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً منقول ہے۔

باب ۸۸۷۔ قاضی کا اجتہاد صحیح بھی ہوتا ہے اور کبھی اس سے خطا بھی ہو جاتی ہے۔

باب ۸۸۷۔ مَا جَاءَ فِي الْقَاضِي يُصِيبُ وَيُخْطِئُ

۱۱۹۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی حاکم حکم کرتے ہوئے اصابت حق کی کوشش کرتا ہے تو اگر وہ اس میں کامیاب ہو جائے تو اس کے لیے دوا اجر ہیں۔ (یعنی ایک حق دار کو حق دلوانے کا اور دوسرا کوشش یعنی اجتہاد کرنے کا) اور اگر کامیاب نہ ہو تو اس کے لیے ایک اجر ہے۔

۱۱۹۱۔ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ ثنا عبد الرزاق عن معمر عن سفیان الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابى بكر من محمد بن بن عمر بن حزم عن ابى سلمة ابى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطَا فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ

اس باب میں عمرو بن عاصؓ اور عقبہ بن عامرؓ سے بھی احادیث نقل کی گئی ہیں۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ ہم اسے سفیان ثوری کی یحییٰ بن سعید سے روایت کے متعلق عبدالرزاق کی سند کے علاوہ کسی اور سند سے نہیں جانتے وہ معمر سے اور وہ سفیان ثوری سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۸۸۸۔ قاضی کس طرح فیصلے کرے

باب ۸۸۸۔ مَا جَاءَ فِي الْقَاضِي كَيْفَ يَقْضِي

۱۱۹۲۔ حضرت معاذؓ سے منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ نے انہیں یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو پوچھا تم کس طرح فیصلے کرو گے۔ عرض کیا: اللہ کی کتاب قرآن مجید کے حکم کے مطابق آپ ﷺ نے فرمایا اگر قرآن میں وہ حکم نہ ملا تو؟ عرض کیا: اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق۔ فرمایا: اگر سنت میں بھی نہ ملے تو؟ عرض کیا: تو اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے اللہ کے رسول کے رسول کو توفیق بخشی۔

۱۱۹۲۔ حَدَّثَنَا هِنَادُنَا وَكَيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ابى عون عن الحارث بن عمرو عن رجال من اصحاب مُعَاذٍ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْفَ تَقْضِي فَقَالَ أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجْتَهْدُ رَأْيِي قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَى

محمد بن یسار، محمد بن جعفر اور عبد الرحمن بن مہدی سے وہ دونوں شعبہ سے وہ ابو عون سے وہ حارث سے وہ کئی اہل حمص راویوں سے اور وہ حضرت معاویہ سے اسی کی مانند حدیث مروی نقل کرتے ہیں ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں اور یہ سند متصل نہیں۔ ابو عون ثقفی کا نام محمد بن عبید اللہ ہے۔

باب ۸۸۹۔ عادل امام کے متعلق۔

باب ۸۸۹۔ مَا جَاءَ فِي الْإِمَامِ الْعَادِلِ

۱۱۹۳۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن اللہ کا سب سے زیادہ محبوب اور اس کے سب سے زیادہ نزدیک بیٹھنے والا شخص عادل حاکم ہوگا۔ اور سب سے زیادہ زیر غضب اور سب سے دور بیٹھنے والا ظالم ہوگا۔

۱۱۹۳۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْكَدِرِ الْكُوفِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ فَضِيلِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ وَ أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ اللَّهُ وَ أَبْعَدُهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ جَائِرٌ

اس باب میں ابن ابی اوفی سے بھی حدیث منقول ہے۔ حضرت ابو سعید کی حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

۱۱۹۴۔ حضرت ابن ابی اوفی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قاضی کے ساتھ اللہ کی مدد اور تائید اس وقت تک رہتی ہے جب تک وہ ظلم نہیں کرتا۔ لہذا جب وہ ظلم کرتا ہے تو اللہ کی مدد کنارہ کشی اختیار کر لیتی ہے اور شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔

۱۱۹۴۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو بَكْرٍ الْعَطَّارُ ثنا عاصم بن عمر بن عاصم ثنا عمران القطان عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القاضى ما لم يجز فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان

یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف عمران بن قطان کی حدیث سے جانتے ہیں۔

باب ۸۹۰۔ قاضی اس وقت تک فیصلہ نہ کرے جب تک فریقین کے بیانات نہ سن لے۔

باب ۸۹۰۔ مَا جَاءَ فِي الْقَاضِي لَا يَقْضِي بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَهُمَا

۱۱۹۵۔ حضرت علیؑ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ اگر تمہارے پاس دو شخص کوئی مقدمہ پیش کریں تو پہلے کا بیان سننے کے بعد کبھی فیصلہ نہ کرو۔ جب تک دوسرے کا بھی بیان نہ سن لو۔ اس طرح تمہیں معلوم ہو جائے۔ کہ کیا فیصلہ کرنا چاہئے حضرت علیؑ کہتے ہیں: اس کے بعد میں ہمیشہ فیصلہ کرتا رہا۔

۱۱۹۵۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سَمَّاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ حَنْشِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الأَخْرِ فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي قَالَ عَلِيٌّ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ

یہ حدیث حسن ہے۔

باب ۸۹۱۔ رعایا کے حاکم سے متعلق۔

باب ۸۹۱۔ مَا جَاءَ فِي إِمَامِ الرَّعِيَّةِ

۱۱۹۶۔ حضرت عمرو بن مرہ نے معاویہؓ سے کہا کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا کہ اگر کوئی حاکم اپنی رعایا کے حاجت مندوں محتاجوں اور مسکینوں کے لیے اپنے دروازے بند کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجات، ضروریات اور فقر کو دور کرنے سے پہلے آسمانوں کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اس پر معاویہؓ نے اسی وقت ایک شخص کو لوگوں کی ضروریات سے مطلع کرنے کے لیے مقرر کر دیا۔

۱۱۹۶۔ حدثنا احمد بن منيع ثنا اسمعيل ابن ابراهيم قال ثني على بن الحكم ثني ابو الحسن قال قال عمرو بن مرّة انه قال لمعاوية اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امام يعلق بابه ذون ذوى الحاجة والخلة والمسكنة الا اغلق الله ابواب السماء ذون خلتهم وحاجتهم و مسكنتهم فعمل معاوية رجلا على حوائج الناس

اس باب میں ابن عمرؓ بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت عمرو بن مرہ کی حدیث غریب ہے اور ایک اور سند سے بھی منقول ہے۔ عمرو بن مرہ چھٹی کی کنیت ابو مریم ہے۔ علی بن حجر، یحییٰ بن حمزہ سے وہ یزید بن ابی مریم سے وہ قاسم بن مغیرہ سے اور وہ ابو مریمؓ (جو صحابی ہیں) اس کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں۔

باب ۸۹۲۔ قاضی غصہ کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔  
۱۱۹۷۔ حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرؓ کہتے ہیں کہ میرے والد نے عبید اللہ بن ابی بکرؓ (جو قاضی تھے) کو لکھا کہ دو آدمیوں کے درمیان غصہ کی حالت میں کبھی فیصلہ نہ کرنا کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ کوئی حاکم غصہ کی حالت میں کبھی فیصلہ نہ کرے۔

باب ۸۹۲۔ مَا جَاءَ لَا يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضَبًا  
۱۱۹۷۔ حدثنا قتيبة ثنا ابو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن ابي بكر قال كتب ابي الى عبيد الله ابن ابي بكر وهو قاض ان لا تحكم بين اثنين وانت غضبان فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابو بکرؓ کا نام نفع ہے۔

باب ۸۹۳۔ امراء کو تجھے تحائف دینا۔  
۱۱۹۸۔ حضرت معاذ بن جبلؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے مجھے یمن بھیجا تو میں روانہ ہو گیا۔ آپ ﷺ نے میری رواگی کے بعد کسی شخص کو مجھے بلانے کے لیے بھیجا۔ میں واپس آیا تو فرمایا: جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا؟ (یہ کہنے کیلئے کہ) میری اجازت کے بغیر کبھی کسی سے کوئی چیز نہ لینا۔ اس لیے کہ یہ خیانت ہے۔ اور جو شخص کسی چیز میں خیانت کرے گا وہ اسے لے کر قیامت کے دن حاضر ہوگا۔ میں نے یہی کہنے کے لیے تمہیں بلایا تھا۔ اب جاؤ۔

باب ۸۹۳۔ مَا جَاءَ فِي هَذَا يَا الْأَمْرَاءِ  
۱۱۹۸۔ حدثنا ابو كريب ثنا ابو اسامة عن داود بن يزيد الاودي عن المغيرة بن شبيب عن قيس بن ابي حازم عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن فلما سرت ارسل في اترى فرددت فقال اتدرى لم بعثت اليك لا نصيبن شيئا بغير اذني فانه علول ومن يغلل يات بما غل يوم القيامة لهذا دعوتك وامض لعملك

اس باب میں عدی بن عیسرہ، بریدہ، مستورد بن شداد، ابو حمید اور ابن عمرؓ بھی حدیثیں نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف ابو اسامہ کی روایت والی سند سے جانتے ہیں۔ وہ داؤد اودی سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۸۹۴۔ مَا جَاءَ فِي الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ

باب ۸۹۴۔ مقدمات میں رشوت لینے اور دینے والے کے متعلق۔

۱۱۹۹۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا ابُو عَوَانَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي

۱۱۹۹۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مقدمات میں

سَلْمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ

رشوت لینے اور دینے والے دونوں پر لعنت بھیجی۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ

اس باب میں عبد اللہ بن عمرو، عائشہ، ابن ابی حدیدہ اور ام سلمہ سے بھی حدیثیں منقول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث حسن ہے اور

ابو سلمہ سے بھی منقول ہے وہ اپنے والد سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں لیکن یہ روایت صحیح نہیں۔ میں نے عبد اللہ بن عبد الرحمن

سے سنا کہ حضرت ابو سلمہ کی عبد اللہ بن عمرو کے حوالے سے آنحضرت ﷺ سے منقول حدیث اس باب کی سب سے زیادہ صحیح حدیث ہے۔

ابو موسیٰ محمد بن ثنی، ابو عامر عقدی سے وہ ابن ابی ذئب سے وہ خالد حارث بن عبد الرحمن سے وہ ابو سلمہ سے اور وہ عبد اللہ بن عمرو سے نقل

کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے رشوت لینے اور دینے والے دونوں پر لعنت بھیجی ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۸۹۵۔ مَا جَاءَ فِي قُبُولِ الْهُدْيَةِ وَاجَابَةِ الدَّعْوَةِ

باب ۸۹۵۔ دعوت اور ہدیہ قبول کرنا۔

۱۲۰۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيْعٍ ثَنَا بَشْرُ

۱۲۰۰۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر

بْنِ الْمُفَضَّلِ ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

مجھے بکری کا ایک کھر بھی ہدیے میں دیا جائے۔ تو میں قبول کر لوں اور اگر

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَهْدَيْتَنِي

اس پر دعوت دی جائے تو ضرور جاؤں۔

إِلَى كُرَاعٍ لَقَبَيْتُكَ وَلَوْ دُعِيتُ عَلَيْهِ لَأَجَبْتُ

باب ۸۹۶۔ اگر حاکم کا فیصلہ ایسے شخص کے حق میں ہو جائے جو

باب ۸۹۶۔ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ عَلَى مَنْ يُفْضَى لَهُ

درحقیقت مالک نہ ہو اس کے متعلق وعید

بِشَيْءٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ

۱۲۰۱۔ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ اسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ ثَنَا

۱۲۰۱۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم لوگ اپنے

عَبْدَةَ بْنِ سَلِيمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

تنازعات لے کر میرے پاس آتے ہوتا کہ میں تمہارے درمیان فیصلہ

زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ

کروں میں بھی ایک انسان ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَ

دوسرے کے مقابلہ میں اپنا دعویٰ اور دلیل پیش کرنے کی زیادہ

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنَ بِحُجَّتِهِ

استطاعت رکھتا ہو۔ لہذا اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ میں کسی کا حق کسی

مِنْ بَعْضٍ فَإِنْ فَضَيْتُ لِأَخِيهِ فَمِنْكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ

دوسرے کو دے دوں تو گویا کہ میں اسے دوزخ کی آگ کا ایک ٹکڑا

أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا

دے رہا ہوں۔ اسے چاہئے کہ اس میں سے بالکل نہ لے۔

اس باب میں ابو ہریرہ اور عائشہ سے بھی حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔ حضرت ام سلمہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۸۹۷۔ مَا جَاءَ مِنَ الْبَيْتَةِ عَلَى الْمُدْعَى وَالْمُجِبِّ

باب ۸۹۷۔ دعویٰ کے لیے گواہ اور مدعا علیہ کے لیے قسم کے متعلق۔

عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ

۱۲۰۲۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا ابُو الْاِحْوَصِ عَنْ سَمَاقِ بْنِ

۱۲۰۲۔ حضرت علقمہ بن وائل اپنے والد سے نقل کرتے ہیں۔ کہ

حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ

حضرت موت اور کندہ سے ایک ایک شخص آنحضرت ﷺ کی خدمت

میں حاضر ہوا۔ حضرمی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ کندی نے عرض کیا: وہ میری زمین ہے میرے ہاتھ میں ہے کسی کا اس پر کوئی حق نہیں۔ آنحضرت ﷺ نے حضرمی سے پوچھا: کیا تمہارے پاس گواہ ہیں؟ کہنے لگا: نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: پھر تم اس سے قسم لے سکتے ہو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ تو فاجر آدمی ہے قسم اٹھالے گا۔ پھر اس میں پرہیزگاری بھی نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم اس سے قسم کے علاوہ کچھ نہیں لے سکتے۔ چنانچہ اس نے قسم کھائی اور جانے کے لیے مڑا تو آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر اس نے اس کا مال ظلم کے ساتھ کھانے کے لیے قسم کھائی ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت اللہ رب العزت اس سے منہ پھیر لیں گے۔

مَنْ حَضَرَ مَوْتَ وَرَجُلٍ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِيَ أَرْضِي وَفِي يَدِي لَيْسَ لَهَا فِيهَا حَقٌّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ أَلَيْسَ بِبَيِّنَةٍ قَالَ لَا قَالَ فَلَمْ يَمِينْهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ قَالَ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ لِيُحْلِفَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَدْبَرَ لَيْنُ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لِيَلْفِيَنَّ اللَّهُ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ

اس باب میں حضرت عمرؓ، ابن عباسؓ اور اشعث بن قیسؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت وائل بن حجرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۲۰۳۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: مدعی کے لیے گواہ پیش کرنا اور مدعا علیہ کے لیے قسم کھانا ضروری ہے۔

۱۲۰۳۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَسْهَرٍ وَغَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدْعَى وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ

اس کی سند میں کلام ہے۔ محمد بن عبید اللہ عزرمی حافظ کی وجہ سے ضعیف ہیں۔ انہیں ابن مبارک وغیرہ ضعیف کہتے ہیں۔

۱۲۰۴۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فیصلہ کیا کہ مدعا علیہ قسم کھائے۔

۱۲۰۴۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ بْنُ عَسْكَرٍ الْبَغْدَادِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَوْسُفَ ثَنَا نَافِعُ بْنُ عَمْرِو الْجَمْحِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَلِيكَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اہل علم صحابہ وغیرہ اسی پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں مدعی کو گواہ پیش کرنا ضروری ہے لیکن اگر گواہ نہ ہوں تو مدعا علیہ قسم کھائے گا۔

باب ۸۹۸۔ اگر ایک گواہ ہو تو مدعی قسم کھائے گا۔

باب ۸۹۸۔ مَا جَاءَ فِي الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

۱۲۰۵۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک گواہ اور مدعی کی قسم پر فیصلہ کیا۔ ربیعہ کہتے ہیں کہ سعد بن عبادہ کے ایک بیٹے

۱۲۰۵۔ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الدُّورَقِيُّ ثَنَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَى رُبَيْعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ

نے مجھے بتایا کہ ہم نے سعد کی کتاب میں پڑھا کہ آنحضرت ﷺ نے ایک گواہ اور مدعی کی قسم پر فیصلہ کیا۔

عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ قَالَ رَبِيعَةُ وَ أَخْبَرَنِي ابْنُ لِسْعَدِ بْنِ عُنَادَةَ قَالَ وَجَدْنَا فِي كِتَابِ سَعْدِ بْنِ أَبِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

اس باب میں علیؓ، جابرؓ، ابن عباسؓ اور سرقؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن غریب ہے۔

۱۲۰۶۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کیا۔

۱۲۰۶۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نُوَيْرَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

۱۲۰۷۔ حضرت جعفر بن محمد اپنے والد سے نقل کرتے ہیں۔ کہ آنحضرت ﷺ نے ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کیا پھر علیؓ نے بھی تمہارے درمیان اسی پر فیصلہ کیا۔

۱۲۰۷۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَقَضَى بِهَا عَلِيُّ بْنُكُمْ

یہ حدیث سب سے زیادہ صحیح ہے۔ سفیان ثوری بھی جعفر بن محمد سے وہ اپنے والد سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے مرسلہ اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ عبدالعزیز بن ابی سلمہ اور یحییٰ بن سلیم بھی یہ حدیث جعفر بن محمد سے وہ اپنے والد سے اور وہ حضرت علیؓ سے مروی نقل کرتے ہیں۔ بعض علماء صحابہ وغیرہ اسی پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر مدعی کے پاس ایک ہی گواہ ہو تو دوسرے گواہ کے بدلے اس سے قسم لی جائے۔ یہ حقوق و اموال میں جائز ہے۔ امام مالک کا بھی یہی قول ہے۔ امام شافعی، احمد اور اسحاق بھی ایک گواہ اور قسم پر حقوق و اموال میں فیصلہ کرنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ جب کہ بعض اہل کوفہ کہتے ہیں کہ ایک گواہ کے بدلے مدعی سے قسم لے کر فیصلہ کرنا جائز نہیں۔

توضیح: احناف (اہل کوفہ) کا یہ مسلک صرف اموال میں ہے۔ یعنی اگر مدعی کے پاس ایک ہی گواہ ہو تو اس سے قسم لے کر فیصلہ کرنا جائز نہیں بلکہ مدعی کے لیے دو گواہوں کا پیش کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: "وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَان لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٍ وَامْرَأَتَانِ" یعنی دو آدمیوں کو بطور گواہ پیش کرو اور اگر دو آدمی نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہی دیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے: "وَاشْهَدُوا ذُوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ" یعنی دو مرد گواہ پیش کرو جو عادل بھی ہوں۔ ان آیات قرآنیہ کے علاوہ آنحضرت ﷺ سے بھی منقول ہے کہ فرمایا: "مدعی گواہ پیش کرے ورنہ مدعا علیہ کی قسم پر فیصلہ کیا جائے گا۔" اس حدیث کے متعلق امام نووی کہتے ہیں کہ یہ شریعت کے قواعد میں سے قاعدہ کلیہ ہے چنانچہ مذکورہ بالا دلائل کے مقابلے میں خبر واحد قابل استدلال نہیں اور اس خبر واحد سے قرآن کی آیت کو منسوخ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۸۹۹۔ اگر ایک غلام دو آدمیوں کے درمیان مشترک ہو اور ایک اسے آزاد کرے۔

باب ۸۹۹۔ مَا جَاءَ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَيُعْتَقُ أَحَدُهُمَا نَصِيْبُهُ

۱۲۰۸۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے کسی

۱۲۰۸۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ

مشترک غلام کے اپنے حصے کو آزاد کیا۔ اور اس آزاد کرنے والے کے پاس اتنا مال ہے کہ اس غلام کی بازار کی قیمت کے برابر پہنچتا ہے تو وہ غلام آزاد ہو گیا۔ وگرنہ وہ اتنا ہی آزاد ہوا جتنا اس کا حصہ تھا۔ کبھی نافع اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے یعنی کا لفظ بڑھا دیا کرتے تھے ”یعنی اتنا ہی آزاد ہوا..... الخ“ راوی کو شک ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ”نصیباً فرمایا یا شقصاً یا شرکاً“ یہ تمام الفاظ ایک ہی معنی میں آتے ہیں۔

ابراہیم عن أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ قَالَ شَقِصًا أَوْ قَالَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيَمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ قَالَ أَيُّوبُ وَ رَبِّمَا قَالَ نَافِعٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ يُعْنَى فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ

حضرت ابن عمرؓ کی حدیث حسن ہے۔ سالم نے یہ حدیث اپنے والد سے اور انہوں نے آنحضرت ﷺ سے نقل کی ہے۔

۱۲۰۹۔ حضرت سالم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے کسی مشترک غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کیا تو اگر آزاد کرنے والے کے پاس اتنا مال ہے کہ غلام کی قیمت پوری ہو جاتی ہے تو وہ غلام آزاد ہے یعنی اسے چاہئے کہ تمام شریکوں کو ان کے حصے کی قیمت ادا کر کے غلام کو مکمل آزاد کر دے۔

۱۲۰۹۔ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ الْحَمْسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَهُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۲۱۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے کسی مشترک غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کیا تو اگر وہ مالدار ہے تو اسے پورا آزاد کرانے اور اگر غریب ہے تو غلام کی بازار کے مطابق صحیح قیمت مقرر کی جائے اور پھر جو حصہ آزاد نہیں ہوا اس کے مطابق سہی کرائی جائے لیکن اس پر بار نہ ڈالا جائے۔ (۱)

۱۲۱۰۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ ثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ بَشِيرِ بْنِ نَهْيَلٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ قَالَ شَقِصًا فِي مَمْلُوكٍ فَخَلَّاهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فُؤَمَ قِيَمَةِ عَدْلِ ثُمَّ يُسْتَسْلَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتَقَ غَيْرَ مَشْفُوقٍ عَلَيْهِ

اس باب میں عبد اللہ بن عمروؓ بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ محمد بن بشار، یحییٰ بن سعید سے اور وہ سعید بن ابی عروبہ سے اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس میں ”شقصاً“ کا لفظ ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابان بن یزید بھی قتادہ سے اور وہ سعید بن ابی عروبہ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ شعبہ یہ حدیث قتادہ سے نقل کرتے ہوئے غلام سے سہی کرانے کا ذکر نہیں کرتے اس میں علماء کا اختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ اس غلام سے سہی کرائی جائے۔ سفیان ثوری، اہل کوفہ اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔ جب کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی غلام دو شخصوں کے درمیان مشترک ہو اور ایک اپنا حصہ آزاد کر دے تو اگر وہ مالدار ہے تو اپنے شریک کے حصے کا بھی ضامن ہوگا۔ ورنہ جتنا وہ آزاد ہوا ہے اس سے سہی کرانے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ ابن عمرؓ آنحضرت ﷺ سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ اہل مدینہ، مالک، شافعی اور احمد کا بھی یہی قول ہے۔

(۱) اس کے معنی آزادی حاصل کرنے کے لیے کام کرنے کے ہیں۔ (مترجم)

باب ۹۰۰۔ مَا جَاءَ فِي الْعُمَرَى

باب ۹۰۰۔ عمری کے متعلق (۱)

۱۲۱۱۔ حدثنا محمد بن المنثري ثنا ابن ابى عدى عن سعيد عن قتادة سمرة أنّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمَرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا أَوْ مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا

۱۲۱۲۔ حضرت سمرةؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی گھر کسی کو پوری عمر رہنے کے لیے دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ گھر تمہارے لیے ہے اور تمہارے وارثوں کے لیے ہے۔ تو وہ اسی کارہے گا جسے دیا گیا ہے اور جس نے اسے دیا ہے دوبارہ اس کا نہیں ہوگا اس لیے کہ اس نے ایسی چیز دی جس میں وارثوں کا حق ہو گیا۔

۱۲۱۱۔ حدثنا الانصاري ثنا معن ثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن حابر بن عبد الله أنّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيَّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمَرَى لَهُ وَلَعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لَا تَرْجِعُ إِلَيَّ الْوَالِدِي أَعْطَاهَا لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ السُّوَارِيثُ

اس باب میں زید بن ثابتؓ، جابرؓ، ابو ہریرہؓ، عائشہؓ، ابن زبیرؓ اور معاویہؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔

۱۲۱۲۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی گھر کسی کو پوری عمر رہنے کے لیے دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ گھر تمہارے لیے ہے اور تمہارے وارثوں کے لیے ہے۔ تو وہ اسی کارہے گا جسے دیا گیا ہے اور جس نے اسے دیا ہے دوبارہ اس کا نہیں ہوگا اس لیے کہ اس نے ایسی چیز دی جس میں وارثوں کا حق ہو گیا۔

۱۲۱۲۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی گھر کسی کو پوری عمر رہنے کے لیے دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ گھر تمہارے لیے ہے اور تمہارے وارثوں کے لیے ہے۔ تو وہ اسی کارہے گا جسے دیا گیا ہے اور جس نے اسے دیا ہے دوبارہ اس کا نہیں ہوگا اس لیے کہ اس نے ایسی چیز دی جس میں وارثوں کا حق ہو گیا۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسے معمر اور کئی راوی بھی زہری سے مالک ہی کی حدیث کے مثل نقل کرتے ہیں۔ بعض زہری سے نقل کرتے ہوئے لفظ 'ولعقبہ' محذوف کر دیتے ہیں۔ بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ یہ گھر تمہاری زندگی تک تمہارے اور تمہارے وارثوں کے لیے ہے تو وہ اسی کا ہو جائے گا اسے واپس نہیں ملے گا اور اگر وارثوں کا ذکر نہ کیا گیا تو اس شخص کی وفات کے بعد مالک کو واپس کر دیا جائے گا۔ مالک اور شافعی کا یہی قول ہے۔ آنحضرت ﷺ سے کئی سندوں سے منقول ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: عمری اس کا ہے جسے دیا گیا چنانچہ بعض علماء اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عمری اسی کا ہوگا جسے دیا گیا اور اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث اس کے حق دار ہوں گے خواہ دیتے وقت وارثوں کا ذکر کیا گیا ہو یا نہیں یہ سفیان ثوری، احمد اور اسحاق کا قول ہے۔ عمری کی تین صورتیں ہیں۔

(۱) کوئی شخص اپنا مکان کسی کو دے اور یہ کہے کہ میں نے اپنا یہ مکان تمہاری زندگی تک تمہیں دے دیا ہے اور تمہارے مرنے کے بعد تمہارے وارث اس کے مالک ہوں گے۔ اس صورت میں علماء کا اتفاق ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثاء اس مکان کے مالک ہوں گے اور پہلے شخص کی ملکیت میں واپس نہیں آئے گا۔

(۲) کوئی شخص یہ کہے کہ یہ مکان تمہاری زندگی تک تمہاری ملکیت ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک اس کا حکم بھی پہلی صورت والا ہی ہے

(۳) کوئی شخص یہ کہے کہ یہ مکان تمہاری زندگی تک تمہارا ہے اور تمہارے مرنے کے بعد میری اور میرے وارثوں کی ملکیت ہو جائے گا۔ اس صورت میں بھی وہی حکم ہے جو پہلی صورت میں ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۹۰۱۔ تَمَتُّي کے متعلق۔

باب ۹۰۱۔ مَا جَاءَ فِي الرَّقِيْبِي

۱۲۱۳۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عمری جائز

۱۲۱۳۔ حدثنا احمد بن منيع ثنا هشيم عن داؤد

(۱) عمری اسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو کوئی گھر دے اور کہے کہ تم اس میں سہاری عمرہ کر سکتے ہو۔ (مترجم)

ہے اور وہ اسی کا ہو جاتا ہے جس کو دیا جاتا ہے۔ اسی طرح رقی بھی جائز  
اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمَرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا  
وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا

یہ حدیث حسن ہے۔ بعض راوی یہ حدیث ابو زبیر سے اور وہ جاہل سے موقوفاً نقل کرتے ہیں علماء صحابہ وغیرہ کا مسلک یہ ہے کہ رقی،  
عمری ہی کی طرح جائز ہے احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ بعض علماء کوفہ وغیرہ رقی اور عمری میں تفریق کرتے ہیں چنانچہ عمری کو جائز اور  
رقی کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ رقی یہ ہے کہ کوئی شخص کسی سے یہ کہے کہ جب تک تم زندہ ہو یہ چیز تمہاری ہے۔ لہذا اگر تم مجھ سے پہلے مر گئے  
تو یہ چیز دوبارہ میری ملکیت ہو جائے گی۔ احمد اور اسحاق کے نزدیک رقی بھی عمری ہی کی طرح ہے۔ یہ بھی اسی کا ہو جاتا ہے جسے دیا جاتا  
ہے۔ دوبارہ دینے والے کی ملکیت میں نہیں آتا۔

باب ۹۰۲۔ مَا ذَكَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ فِي الصُّلْحِ بَيْنَ النَّاسِ

۱۲۱۴۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ثنا أَبُو عَامِرٍ  
الْعَقْدِيُّ ثنا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَوْفِ  
الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا  
صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى  
شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرُطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا

باب ۹۰۳۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَضَعُ عَلَى حَاطِطِ  
جَارِهِ حَشَبًا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۲۱۵۔ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثنا سَفِينُ بْنُ  
عَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَ  
أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرَزَ حَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعُهُ  
فَلَمَّا حَدَّثَ أَبُو هُرَيْرَةَ طَاطُثُوا رُءُوسَهُمْ فَقَالَ مَالِي  
أَرَأَيْتُمْ عَنْهَا بَيْنَ أَكْتَابِنَا

اس باب میں حضرت ابن عباس اور مجمع بن جار یہ بھی احادیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور علماء کا اسی پر عمل ہے شافعی کا  
بھی یہی قول ہے جب کہ بعض علماء سے منقول ہے کہ پڑوسی کو اپنی دیوار پر لکڑی وغیرہ رکھنے سے منع کرنا جائز ہے۔ امام مالک کا بھی یہی  
قول ہے لیکن پہلا قول صحیح ہے۔

باب ۹۰۲۔ لوگوں کے درمیان صلح کے متعلق رسول اللہ ﷺ سے منقول  
احادیث۔

۱۲۱۴۔ حضرت کثیر بن عبد اللہ بن عمرو بن عوف مزی نے اپنے والد سے اور  
وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:  
مسلمانوں کے درمیان صلح جائز ہے۔ البتہ وہ صلح جس میں حرام کو حلال  
یا حلال کو حرام کیا گیا ہو جائز نہیں۔ مسلمانوں کو اپنی شروط پوری کرنی  
چاہئیں لیکن ایسی شرطیں جو حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرتی ہوں وہ  
حرام ہیں۔

باب ۹۰۳۔ ہمسائے کے دیوار پر لکڑی رکھنا۔

۱۲۱۵۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم میں  
سے کوئی اپنے پڑوسی سے اس کی دیوار پر لکڑی (چھت کا شہتیر وغیرہ)  
رکھنے کی اجازت مانگے تو وہ اسے منع نہ کرے۔ جب حضرت ابو ہریرہ  
نے یہ حدیث بیان کی تو لوگوں نے اپنے سر جھکا لیے۔ فرمایا: کیا بات  
ہے تم لوگ اس سے اعراض کیوں کر رہے ہو۔ اللہ کی قسم میں یہ حدیث  
تمہارے کندھوں پر ماروں گا یعنی اس پر عمل کروا کے رہوں گا۔

باب ۹۰۴۔ قسم دلانے والے کی تصدیق پر ہی قسم صحیح ہوتی ہے۔  
 ۱۲۱۶۔ حدثنا قتيبة و احمد بن منيع المعنى واحد  
 قالنا ثنا هشيم عن عبد الله بن ابي صالح عن ابيه عن  
 ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
 اليمين على ما يصدقك به صاحبك

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف تیسیم کی روایت سے جانتے ہیں وہ سہیل بن ابی صالح کے بھائی عبد اللہ بن ابی صالح سے نقل کرتے ہیں۔ بعض علماء اسی پر عمل کرتے ہیں۔ احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ ابراہیم نخعی سے منقول ہے کہ اگر قسم کھلانے والا ظالم ہو تو قسم کھانے والے کی نیت معتبر ہوگی اور اگر قسم کھلانے والا مظلوم ہے تو اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا۔

باب ۹۰۵۔ ماجاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل  
 باب ۹۰۵۔ اگر راستے کے متعلق اختلاف ہو جائے تو کتنی چوڑائی مقرر کی جائے۔

۱۲۱۷۔ حدثنا ابو كريب ثنا وكيع عن المثنى  
 بن سعيد الضبعي عن قتادة عن بشير بن نهيك  
 عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه  
 وسلم اجعلوا الطريق سبعة اذرع

۱۲۱۸۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد  
 ثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن بشير بن كعب  
 العَدَوِيُّ عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى  
 الله عليه وسلم إذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوا  
 سبعة اذرع

یہ حدیث وکیع کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ اس باب میں ابن عباس سے بھی حدیث منقول ہے۔ بشیر بن کعب کی حضرت ابو ہریرہ سے منقول حدیث حسن صحیح ہے اسے بعض محدثین قتادہ سے وہ بشیر بن نہیک سے اور وہ ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں یہ حدیث غیر محفوظ ہے۔

باب ۹۰۶۔ والدین کی جدائی کے وقت بچے کو اختیار دیا جائے۔  
 إذا افترقا

۱۲۱۹۔ حدثنا نصر بن علي ثنا سفیان عن زياد بن  
 سعد عن هلال بن ابي ميمونة الثعلبي عن ابي  
 ميمونة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم  
 خير غلاما بين ابيه وامه

۱۲۱۹۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک بچے کو اختیار دیا کہ چاہے تو باپ کے ساتھ رہے اور چاہے تو ماں کے پاس۔

اس باب میں عبد اللہ بن عمر اور عبد الحمید بن جعفر کے دادا بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابو یوسف کا نام سلیم ہے بعض علماء صحابہ کا یہی مسلک ہے کہ بچے کو اختیار دیا جائے کہ چاہے تو ماں کے ساتھ رہے ورنہ باپ کے ساتھ یعنی جب ماں باپ میں کوئی جھگڑا وغیرہ ہو جائے۔ احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ یہ حضرات مزید کہتے ہیں کہ جب تک بچہ چھوٹا ہے اس کی ماں زیادہ مستحق ہے اور جب اس کی عمر سات سال ہو جائے تو اسے اختیار دیا جائے کہ جس کے پاس چاہے رہے۔ بلال بن ابی موسیٰ، علی بن اسماء کے بیٹے اور مدنی ہیں۔ ان سے یحییٰ بن ابی کثیر، مالک بن انس اور فتح بن سلیمان احادیث نقل کرتے ہیں۔

باب ۹۰۷۔ مَا جَاءَ أَنَّ الْوَالِدَيْنِ اخُذَ مِنْ مَالٍ وَلَدِهِ  
 ۱۲۲۰۔ حدثنا احمد بن منيع ثنا يحيى بن زكريا  
 بن ابي زائدة ثنا الاعمش عن عمارة بن عمير عن  
 عَمِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ  
 باب ۹۰۷۔ باپ اپنے بیٹے کے مال سے جو چاہے لے سکتا ہے۔  
 ۱۲۲۰۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سب سے  
 بہترین مال وہ ہے جو تم اپنی کمائی سے کھاتے ہو اور تمہاری اولاد بھی  
 تمہاری کمائی ہی میں داخل ہے۔

اس باب میں جابر اور عبد اللہ بن عمر سے بھی احادیث نقل کی گئی ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے اور بعض راوی اسے عمارہ بن عمیر سے، و اپنی والدہ سے اور وہ حضرت عائشہ سے نقل کرتی ہیں جب کہ اکثر راوی کہتے ہیں کہ ان کی پھوپھی سے روایت ہے اور وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں بعض علماء صحابہ و دیگر علماء کا اسی پر عمل ہے کہ والد کو بیٹے کے مال پر پورا حق ہے جتنا چاہے لے سکتا ہے۔ جب کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ بوقت ضرورت لے سکتا ہے۔

باب ۹۰۸۔ اِذَا كَسَبَ مِنْ مَالٍ فَهُوَ لِلْوَالِدِ  
 ۱۲۲۱۔ حدثنا محمود بن غيلان ثنا ابو داود  
 الحفري عن سفيان عن حميد عن انس قال اهدت  
 بعض اَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّبِيِّ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فِي قَصْعَةٍ فَضَرَبَتْ  
 عَائِشَةُ الْقَصْعَةَ بِيَدِهَا فَالْقَتُ مَا فِيهَا فَقَالَ النَّبِيُّ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامٌ بِطَعَامٍ وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ  
 باب ۹۰۸۔ اگر کسی سے کوئی چیز ٹوٹ جائے اس کے بدلے میں جو  
 دینے سے متعلق۔  
 ۱۲۲۱۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ازواجِ مطہرات میں سے کسی نے آہ  
 کی خدمت میں کچھ کھانا ایک پیالے میں ڈال کر بطور ہدیہ بھیج  
 حضرت عائشہ نے اس پر اپنا ہاتھ مارا تو وہ گر گیا۔ آنحضرت ﷺ  
 فرمایا کھانے کے بدلے کھانا اور پیالے کے بدلے پیالہ دینا چاہئے۔

یہ حدیث صحیح ہے۔  
 ۱۲۲۲۔ حدثنا علي بن حجر ثنا سويد بن  
 عبدالعزيز عن حميد عن انس أن النبي صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ قَصْعَةً فَضَاعَتْ فَضَمِنَهَا لَهُمْ  
 ۱۲۲۲۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک پیالہ کم  
 سے مستعار لیا تو وہ گم ہو گیا چنانچہ آپ ﷺ نے اس کے عوض ایک پیالہ  
 انہیں دیا۔

یہ حدیث غیر محفوظ ہے میرے نزدیک سويد ہی حدیثیں مراد لیتے ہیں جو سفیان ثوری نقل کرتے ہیں اور ثوری کی حدیث زیادہ۔  
 باب ۹۰۹۔ مَا جَاءَ فِي حَدِّ بُلُوغِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ  
 ۹۰۹۔ مرد و عورت کی بلوغت سے متعلق۔

۱۲۲۳۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ ایک لشکر میں مجھے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پیش کیا گیا اس وقت میری عمر چودہ سال تھی۔ آپ ﷺ نے مجھے اجازت نہیں دی۔ پھر آئندہ سال دوبارہ ایک لشکر کی تیاری کے موقع پر پیش کیا گیا۔ جب کہ میری عمر پندرہ سال تھی۔ اس مرتبہ آپ ﷺ نے مجھے اجازت دے دی۔ بائع کہتے ہیں میں نے یہ حدیث عمر بن عبدالعزیز کے سامنے بیان کی تو انہوں نے فرمایا: یہ بائع اور نابائع کے درمیان حد ہے پھر اپنے عاقلوں کو لکھا کہ پندرہ سال کی عمر والوں کو مال قیمت میں سے حصہ دیا جائے۔

۱۲۲۳۔ حدثنا محمد بن وزير الواسطي ثنا اسحق بن يوسف الازرق عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حبش وانا ابن أربع عشرة فلم يقبلني فعرضت عليه من قابل في حبش وانا ابن خمس عشرة فقبلني قال نافع فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير ثم كتب أن يفرض لمن بلغ خمس عشرة

ابن ابی عمر، سفیان بن عیینہ سے وہ عبید اللہ بن عمر سے وہ نافع سے وہ عبداللہ بن عمر سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں۔ لیکن اس حدیث میں عمر بن عبدالعزیز کے اپنے عاقلوں کو حکم دینے کا تذکرہ نہیں۔ ابن عیینہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث عمر بن عبدالعزیز کے سامنے بیان کی تو انہوں نے فرمایا یہ جہاد میں لڑنے والوں اور بچوں کے درمیان حد ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ شافعی، ثوری، ابن مبارک، ماہد اور اسحاق بھی یہی کہتے ہیں کہ جب لڑکا پندرہ سال کا ہو جائے تو اس کا حکم جو ان مردوں کا ہوگا۔ اور اگر پندرہ برس سے پہلے ہی بائع ہو جائے تو اس کا حکم بھی مردوں ہی کا ہوگا۔ احمد اور اسحاق کہتے ہیں کہ بلوغ کی تین علامات ہیں۔ (۱) احتلام ہونا۔ (۲) زیر ناف بال نکلتا (۳) پانچ پندرہ سال کا ہو جانا۔

باب ۹۱۰۔ جو شخص اپنے والد کی بیوی سے نکاح کرے۔  
۱۲۲۳۔ حضرت براء کہتے ہیں کہ میرے ماموں ابو بردہ بن نیار میرے پاس سے گزرے تو ان کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے مجھے ایک ایسے آدمی کا سر لانے کا حکم دیا ہے جس نے اپنے باپ کی بیوی سے شادی کر لی ہے۔

باب ۹۱۰۔ مَا جَاءَ فِي مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَبِيهِ  
۱۲۲۴۔ حدثنا ابوسعيد الأشج ثنا حفص بن غياث عن اشعث بن عدي بن ثابت عن البراء قال مررت على أبي بردة بن نيار ومعه يوزة فقلت أين تريد فقال بعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن يبرأ به

اس باب میں قرہ بھی حدیث نقل کرتے ہیں حضرت براء کی حدیث حسن غریب ہے۔ عمر بن اسحاق بھی یہ حدیث عدی بن ثابت سے اور وہ براء سے نقل کرتے ہیں۔ پھر اشعث بھی عدی سے وہ یزید بن براء سے اور وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اشعث، عدی سے وہ یزید بن براء سے اور وہ اپنے ماموں سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔

باب ۹۱۱۔ دو شخصوں کے اپنے کھنوں کو پانی دینے سے حلق جن میں سے ایک کا کھیت اونچا اور دوسرے کا نیچا ہو۔

باب ۹۱۱۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ أَحَدُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْأُخْرَى فِي الْمَاءِ

۱۲۲۵۔ حضرت عروہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر نے انہیں بتایا کہ ایک انصاری اور حضرت زبیرؓ کے درمیان پانی کی نالیوں پر جھگڑا ہو گیا۔ ان نالیوں سے وہ اپنے گھور کے درختوں کو پانی دیا کرتے۔ انصاری نے کہا

۱۲۲۵۔ حدثنا قتيبة ثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أنه حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلاً من الأنصار خصم الزبير عند رسول الله صلى الله

پانی کو چلتا چھوڑ دیا کرو۔ زبیرؓ نے انکار کر دیا تو وہ دونوں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پیش ہوئے حضور ﷺ نے حکم دیا کہ: اے زبیر! تم اپنے کھیتوں کو پانی پلا کر اپنے پڑوسی کے کھیتوں میں چھوڑ دیا کرو۔ اسی پر انصاری غصے میں آگئے اور کہنے لگے: یہ آپ ﷺ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں نا اس لیے آپ ﷺ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ اس پر آنحضرت ﷺ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا پھر فرمایا: اے زبیر! تم اپنے کھیتوں کو پانی دے کر پانی روک لو۔ یہاں تک کہ منڈیر تک واپس چلا جائے۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں: اللہ کی قسم یہ آیت اسی مسئلے میں نازل ہوئی "فَلَا وَرَيْكَ لَا يَوْمُنُونَ....." (ترجمہ: تمہارے رب کی قسم ان لوگوں کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک یہ آپ ﷺ کے فیصلے کو تہ دل سے قبول نہ کر لیں اور ان کے دلوں میں اس فیصلے کے متعلق ذرا سی بھی کدورت باقی نہ رہے)۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ شَرَحَ الْمَاءَ يَمْرُ قَابِي عَلَيْهِ فَأَحْتَضَمُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسَلَ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ أَنْ كَانَ ابْنُ عَمَّتِكَ فَتَلَوْنَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ أَحْبَسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْحَدَرِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ فَلَا وَرَيْكَ لَا يَوْمُنُونَ حَتَّى يُحْكَمُوا فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الْآيَةَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسے شعیب بن ابی حمزہ، زہری سے وہ عمرو بن زبیر سے اور وہ عبداللہ بن زبیر سے نقل کرتے ہوئے عبداللہ بن زبیر کا تذکرہ نہیں کرتے۔ عبداللہ بن وہب بھی لیث سے وہ یونس سے وہ زہری سے وہ عمرو بن زبیر سے اور وہ عبداللہ بن زبیر سے اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں۔

توضیح: حضور اکرم ﷺ نے زبیرؓ کو پہلے اپنے کھیتوں کو پانی دینے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ ان کے کھیت اونچائی پر تھے اور انصاری کے ان سے نیچے تھے پھر پانی بھی حضرت زبیر کے کھیتوں ہی سے قریب تھا۔ یہ آنحضرت ﷺ کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ واللہ اعلم۔ (مترجم)

باب ۹۱۲۔ مَا جَاءَ فِي مَنْ يُعْتَقُ مَمَالِكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَكَانَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ

۹۱۲۔ جو شخص موت کے وقت اپنے غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کر دے اور ان کے علاوہ اس کے پاس کوئی مال نہ ہو۔

۱۲۲۶۔ حضرت عمران بن حصینؓ کہتے ہیں کہ ایک انصاری نے اپنی موت کے وقت اپنے چھ غلاموں کو آزاد کر دیا جب کہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی مال نہیں تھا۔ یہ خبر جب آنحضرت ﷺ تک پہنچی تو ان کے متعلق سخت الفاظ کہے اور پھر غلاموں کو بلا کر انہیں حصوں میں تقسیم کر کے سب کے درمیان قرعہ ڈالا اس کے بعد دو کو آزاد کر دیا اور چار کو غلام رہنے دیا۔

۱۲۲۶۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبِدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ وَكَانَ يَكُنُّ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا قَالَ ثُمَّ دَعَاهُمْ فَحَزَّ أَهُمْ ثُمَّ أقرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَارَقَّ أَرْبَعَةً

اس باب میں ابو ہریرہؓ بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت عمران بن حصینؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور انہی سے کئی سندوں سے منقول ہے۔ بعض علماء کا اسی پر عمل ہے۔ مالک، شافعی، احمد اور اسحاق بھی ایسے معاملات میں قرعہ ڈالنے کو جائز کہتے ہیں۔ لیکن بعض علماء کو وہ وغیرہ کا کہنا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ ایسی صورت میں ہر غلام کا تہائی حصہ آزاد ہو جاتا ہے۔ لہذا وہ اپنی اپنی قیمت کی دو تہائی کے لیے کام وغیرہ کر کے پوری کر لے۔ ابو مہلب کا نام عبدالرحمن بن عمرو ہے انہیں معاویہ بن عمرو بھی کہتے ہیں۔

باب ۹۱۳۔ مَا جَاءَ فِي مَنْ مَلَكَ ذَا مَحْرَمٍ  
 ۱۲۲۷۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعَاوِيَةَ الْحَمَّحِيُّ ثَنَا  
 حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن بن سمره عن  
 رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا  
 محرم فهو حر

باب ۹۱۳۔ اگر کسی شخص کا کوئی رشتہ دار اس کی ملکیت میں آجائے۔  
 ۱۲۲۷۔ حضرت سمرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی شخص  
 اپنے کسی ذی محرم (۱) کا مالک ہو جائے (یعنی وہ کسی صورت میں اس  
 کی غلامی میں آجائے) تو وہ غلام آزاد ہو جاتا ہے۔

اس حدیث کو ہم صرف حماد بن سلمہ ہی کی روایت سے جانتے ہیں۔ بعض راوی یہ حدیث قتادہ سے وہ حسن سے اور وہ عمر سے اسی  
 طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ عقبہ بن مکرمی عمی البصری اور کنی راوی محمد بن بکر برسائی سے وہ حماد بن سلمہ سے وہ قتادہ سے اور عاصم  
 احوال سے وہ حسن سے (وہ سمرہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ جو کسی رشتہ دار کا محرم ہو اس کا وہ غلام آزاد ہو گیا)۔ اسے  
 ضمیرہ بن ربیعہ بھی سفیان ثوری سے وہ عبد اللہ بن دینار سے اور وہ عمر سے نقل کرتے ہیں۔ ضمیرہ بن ربیعہ کی اس حدیث کا کوئی متابع  
 نہیں۔ محدثین کے نزدیک یہ حدیث غلط ہے۔

توضیح: اس کی مثال یہ ہے کہ مثلاً کوئی باپ اپنے بیٹے کو اس کے مالک سے خرید لیتا ہے تو وہ فی الفور آزاد ہو جاتا ہے (مترجم)

باب ۹۱۴۔ مَا جَاءَ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضٍ قَوْمٍ بغيرِ  
 اذْنِهِمْ  
 ۱۲۲۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا شَرِيْكَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّحْعِيُّ  
 عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ أَنَّ  
 النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضٍ  
 قَوْمٍ بغيرِ اذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ

باب ۹۱۴۔ اگر کوئی شخص کسی کی زمین میں بغیر اجازت زراعت کرنے  
 لگے۔

۱۲۲۸۔ حضرت رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کسی  
 نے کسی دوسرے کی زمین میں اس کی اجازت کے بغیر کسی چیز کی کاشت کی  
 تو اس کے لیے اس بھتی میں سے کچھ نہیں۔ ہاں بونے والا اپنا خرچہ جو اس  
 نے اس پر کیا ہے وہ لے سکتا ہے۔ لیکن بھتی زمین والے ہی کی ہوگی۔

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے ابواسحاق کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں وہ شریک بن عبد اللہ سے نقل کرتے  
 ہیں۔ بعض علماء اسی پر عمل کرتے ہیں۔ احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں  
 نے فرمایا: یہ حدیث حسن ہے میں اسے شریک بن عبد اللہ کی روایت سے جانتا ہوں۔ محفل بن مالک بصری ہم سے بیان کرتے ہیں کہ  
 انہوں نے یہ حدیث عقبہ بن اصم سے انہوں نے عطاء سے انہوں نے رافع بن خدیج سے اور انہوں نے آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند  
 سنی ہے۔

مسئلہ: اگر کوئی شخص کسی کی زمین میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی فصل بوڈے تو اکثر علماء (جن میں احناف بھی شامل ہیں) سمے  
 نزدیک اس شخص پر زمین کی اجرت وغیرہ واجب الاداء ہوگی لیکن فصل کاشت کرنے والے ہی کی ہوگی۔ اس پر کئی احادیث و آثار دلالت  
 کرتے ہیں جس کی وجہ سے جمہور نے حدیث باب کو ترک کر کے ان پر عمل کیا ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۹۱۵۔ مَا جَاءَ فِي النَّحْلِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْوَالِدِ  
 ۱۲۲۸۔ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ  
 باب ۹۱۵۔ بہہ کرنا اور اولاد کے درمیان برابری قائم رکھنا۔  
 ۱۲۲۹۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ ان کے والد نے اپنے ایک

(۱) ذی محرم وہ قرابتدار ہیں جن کی قرابت کا سبب ولادت ہو مثلاً باپ، بھائی، چچا، بیٹا وغیرہ وغیرہ۔ (مترجم)

المخزومی المعنى واحد قالوا ثنا سفین عن الزهری  
عن حمید بن عبدالرحمن و عن محمد بن النعمان  
بن بشیر یحدثان عن النعمان بن بشیر أن أباه نَحَلَ  
أَبْنَاهُ عَلَامًا قَاتِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يُشْهِدُهُ فَقَالَ أَكْمَلْ وَلَدِكَ قَدْ نَحَلْتَهُ مِثْلَ مَا نَحَلْتُ  
هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَارْتَوَهُ

بیٹے کو ایک غلام دیا اور آنحضرت ﷺ کو گواہ بنانے کے لیے حاضر  
ہوئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا، کیا تم نے اپنے بیٹے کو اسی طرح غلام دیا  
ہے جس طرح اسے دیا ہے تو عرض کیا: نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: پھر  
اس کو بھی واپس کرلو۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور نعمان بن بشیر سے کئی سندوں سے منقول ہے۔ بعض علماء اولاد کے درمیان برابری کو مستحب کہتے ہیں۔  
بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یوسوں میں بھی برابری کرنی چاہیے۔ جب کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اور عطیہ میں بیٹوں، بیٹیوں سب کو  
برابر برابر دینا چاہیے۔ لیکن بعض علماء کے نزدیک لڑکوں کو ڈنار اور لڑکیوں کو ایک گنا ڈنار برابری ہے جیسے کہ میراث کی تقسیم میں کیا جاتا ہے  
احمد اور اسحاق کا یہی قول ہے۔

باب ۹۱۶۔ مَا جَاءَ فِي الشُّفْعَةِ

باب ۹۱۶۔ شفیعہ کے متعلق۔ (۱)

۱۲۳۰۔ حدثنا علي بن حجر ثنا اسمعيل بن عليه عن  
سعيد عن قتادة عن الحسين عن سمره قال قال رسول  
الله صلى الله عليه وسلم حاز الثار أحق بالثار

۱۲۳۰۔ حضرت سمرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پڑوسی مکان  
زیادہ حقدار ہے۔

اس باب میں شریعہ، اور ارفاق اور انس بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسے یحییٰ بن یونس، سعید بن ابی عمرو  
سے روئے اس سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں۔ پھر سعید بن ابی عمرو، قتادہ سے بھی وہ سمرہ سے روئے۔  
اور وہ نبی اکرم ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ علماء کے نزدیک صحیح حدیث حسن کی سمرہ سے منقول حدیث ہی ہے۔ قتادہ کی حدیث کے انس سے  
منقول ہونے کا ہمیں یحییٰ بن یونس کی روایت کے علاوہ علم نہیں۔ حضرت عمرو بن شریہ کی اس باب میں منقول حدیث حسن ہے وہ اہل  
والد سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ ابراہیم بن ہبیرہ بھی عمرو بن شریہ سے اور وہ اور ارفاق سے بھی یہ حدیث مروی نقل کر۔  
ہیں۔ امام بخاری کے نزدیک یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔

باب ۹۱۷۔ مَا جَاءَ فِي الشُّفْعَةِ لِلغَائِبِ

باب ۹۱۷۔ اگر شفیعہ کے وقت غائب ہو۔

۱۲۳۱۔ حدثنا قتيبة ثنا خالد بن عبد الله الواسطي  
عن عبد الملك بن ابى سليمان عن عطاء عن جابر  
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحار  
أحق بشفيعته يتخطر به وإن كان غائبا إذا كان  
طريقهما واحدا

۱۲۳۱۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسایہ۔  
شفیعہ کا مستحق ہے لہذا اگر وہ غائب ہو تو اس کا انتظار کیا جائے۔ بشرط  
دونوں کے آنے جانے کا راستہ ایک ہی ہو۔

(۱) شفیعہ: فقہاء اس کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ کسی پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کے اپنا مکان فروخت کرنے وقت یا کسی شریک کو دوسرے شریک کے اپنے حصے کو فروخت  
کرنے وقت شریہ نے کو ایک مخصوص حق حاصل ہوتا ہے جو مکان یا زمین کے ساتھ مخصوص ہے جسے یہ حق حاصل ہوتا ہے اسے شفیعہ اور اس حق کا نام شفیعہ ہے۔ (مترجم)

یہ حدیث حسن فریب ہے۔ ہم اسے عبد الملک بن ابی سلیمان کی سند کے علاوہ نہیں جانتے وہ یہ حدیث عطاء سے اور وہ چارے سے نقل کرتے ہیں۔ شعبہ اس حدیث کی وجہ سے عبد الملک میں کلام کرتے ہیں لیکن وہ محدثین کے نزدیک اتقا اور مامون ہیں۔ شعبہ کے علاوہ کسی کے ان پر اعتراض کرنے کا ہمیں علم نہیں۔ کتب بھی شعبہ سے اور وہ عبد الملک سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں۔ ابن مبارک سے منقول ہے کہ سفیان ثوری کہا کرتے تھے کہ عبد الملک بن ابی سلیمان علم کے ترازو ہیں یعنی حق و باطل اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ علماء اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی غائب ہو تب بھی وہ اپنے شعبہ کا مستحق ہے لہذا وہ آنے کے بعد اسے طلب کر سکتا ہے اگرچہ طویل مدت ہی کیوں نہ گزر چکی ہو۔

باب ۹۱۸۔ إِذَا حَدَّثَ الْمُحَدِّثُ وَوَقَعَتِ السِّهَامُ فَلَا شَفْعَةَ  
باب ۹۱۸۔ جب حدود مقرر ہو جائیں اور راستے الگ الگ ہو جائیں تو شفعہ نہیں۔

۱۲۲۲۔ حَدَّثَنَا عِدْ بِنُ حَمِيدٌ ثَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ ثَنَا  
عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن ابی سلمة بن  
عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَتِ الْمُحَدِّثُ  
وَصَرَفَتِ الطَّرِيقُ فَلَا شَفْعَةَ

۱۲۲۲۔ حضرت چارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب حدود مقرر ہو جائیں اور ہر حصے کا الگ الگ راستہ ہو جائے تو پھر شفعہ باقی نہیں رہتا۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض راوی اسے ابوسلمہ سے مرسل بھی نقل کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب، عثمان بن عفان اور بعض صحابہ اسی پر عمل کرتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز، یحییٰ بن سعید انصاری، ربیعہ بن ابی عبدالرحمن، مالک بن انس، شافعی، احمد، اسحاق اور بعض تابعین و فقہاء مدینہ کا بھی یہی قول ہے۔ کہ شفعہ صرف شریک کے لیے ہے۔ لہذا ان کے نزدیک ہمسائے کے لیے شفعہ نہیں۔ لیکن بعض علماء صحابہ، ثوری، ابن مبارک اور اہل کوفہ کا مسلک یہ ہے کہ پڑوسی کے لیے بھی شفعہ ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”پڑوسی اپنے پڑوسی کے گھر کا زیادہ حقدار ہے“۔ دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا: ”ہمسایہ نزدیک ہونے کی وجہ سے شفعہ کا زیادہ مستحق ہے“۔

۱۲۲۳۔ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عِيسَى ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ  
موسى عن ابی حمزة السكری عن عبدالعزیز بن  
رَفِيعٍ عَنْ ابْنِ أَبِي بَلِيكَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّرِيكُ شَفِيعٌ  
وَالشَّفِيعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ

۱۲۲۳۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر شریک شفیع ہے اور شفعہ ہر چیز میں ہے۔

ہمیں نہیں معلوم کہ ابو حمزہ سکری کے علاوہ کسی اور نے اسی کے مثل حدیث نقل کی ہو۔ کئی راوی یہ حدیث عبدالعزیز بن رفیع سے وہ ابن ابی ملیکہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے مرسل نقل کرتے ہیں۔ یہ زیادہ صحیح ہے۔ ہنادی ابو بکر بن عیاش سے وہ عبدالعزیز بن رفیع سے وہ ابن ابی ملیکہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے مرسل نقل کرتے ہیں۔ یہ زیادہ صحیح ہے۔ ہنادی ابو بکر بن عیاش سے وہ عبدالعزیز بن رفیع سے وہ ابن ابی ملیکہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں لیکن ابن عباس کا تذکرہ نہیں کرتے۔ اسی طرح کئی راویوں نے بھی یہ حدیث عبدالعزیز بن رفیع سے نقل کی ہے اس میں بھی ابن عباس کا تذکرہ نہیں۔ یہ ابو حمزہ کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔

ابوحزہ ثقہ ہیں ممکن ہے کہ اس میں کسی اور سے خطا ہوئی ہو۔ ہناد، ابوالاحوص سے بھی۔ وہ عبدالعزیز بن رفیع سے وہ ابن ابی ملیکہ سے اور وہ آنحضرت سے مرسل نقل کرتے ہیں۔ یہ زیادہ صحیح ہے۔ ہناد بھی ابوبکر بن عیاش سے وہ عبدالعزیز بن رفیع سے وہ ابن ابی ملیکہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ یعنی ابوبکر بن عیاش کی حدیث کے مثل۔ اکثر علماء کا مسلک یہی ہے کہ شفعہ صرف مکان اور زمین میں ہوتا ہے ہر چیز میں نہیں۔ لیکن بعض کے نزدیک ہر چیز میں ہوتا ہے۔ جب کہ پہلا قول صحیح ہے۔

باب ۹۱۹۔ مَا جَاءَ فِي اللَّفْظَةِ وَضَالَةَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ

۱۲۳۴۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَمِيرٍ عَنْ سَفِيَانَ بْنِ سَلْمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَوَجَدْتُ سَوَاطِئَ قَالَ ابْنُ نَمِيرٍ فِي حَدِيثِهِ فَالْتَقَطْتُ سَوَاطِئًا فَأَخَذْتُهَا قَالَا دَعُهُ فَقُلْتُ لَا أَدَعُهُ تَأْكُلُهُ السِّبَاعُ لَا أُخَذْنَهُ فَلَا سَتَمِعَنَّ بِهِ فَقَدِمْتُ عَلَى أَبِي بَنِي كَعْبٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَحَدَّثَنِي الْحَدِيثُ فَقَالَ أَسْتُ وَجَدْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُرَّةً فِيهَا مِائَةٌ دِينَارٍ قَالَ فَاتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ لِي عَرَّفْتَهَا حَوْلًا حَوْلًا فَمَا أَجِدُ مَنْ يَعْرِفُهَا ثُمَّ اتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ عَرَّفْتَهَا حَوْلًا آخَرَ فَعَرَّفْتَهَا حَوْلًا ثُمَّ اتَيْتُهُ فَقَالَ عَرَّفْتَهَا حَوْلًا آخَرَ وَقَالَ أَحْصِ عِدَّتَهَا وَوَعَائَهَا وَوَكَائَهَا فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهَا فَأَخْبِرْكَ بِعِدَّتِهَا وَوَعَائِهَا وَوَكَائِهَا فَادْفَعُهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا

۱۲۳۵۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدِ بْنِ مَوْلَى الْمُعْتَبِرِ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْخَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّفْظَةِ فَقَالَ عَرَّفْتَهَا سَنَةً ثُمَّ أَعْرَفَ وَوَكَائِهَا وَوَعَائِهَا وَعِفَاصُهَا ثُمَّ

۱۲۳۳۔ حضرت سوید بن غفلہ کہتے ہیں کہ میں زید بن صوحان اور سلمان بن ربیعہ کے ساتھ سفر میں نکلا تو ایک کوڑا پڑا ہوا پایا۔ ابن نمیر اپنی حدیث میں کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک کوڑا گرا ہوا پایا تو اسے اٹھالیا۔ ساتھیوں نے کہا رہنے دو نہ اٹھاؤ میں نے کہا نہیں۔ میں اسے درندوں کی خوراک بننے کے لیے نہیں چھوڑوں گا اپنے کام میں لاؤں گا۔ پھر میں (سوید) ابی بن کعب کے پاس آیا اور ان سے قصہ بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا: تم نے اچھا کیا۔ مجھے بھی آنحضرت ﷺ کے زمانے میں سو دینار کی ایک تھیلی ملی تھی تو آپ ﷺ نے حکم دیا کہ میں ایک سال تک اس کا اعلان اور تشہیر کروں۔ میں نے اسی طرح کیا لیکن کوئی نہیں آیا پھر میں دوبارہ حاضر ہوا۔ آپ ﷺ نے پھر فرمایا: ایک سال اور اسی طرح کرو میں پھر ایک سال تک اعلان کرتا رہا۔ لیکن کسی نے بھی اپنی ملکیت ظاہر نہیں کی پھر تیسری مرتبہ بھی آپ ﷺ نے یہی حکم دیا اور فرمایا کہ اس کے بعد ان کو گن لو اور تھیلی اور باندھنے والی رسی کو ذہن نشین رکھو پھر اگر تم سے کوئی نہیں طلب کرنے کے لیے آئے اور نشانیاں بتادے تو اسے دو، ورنہ استعمال کرو۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۲۳۵۔ حضرت زید بن خالد جہنیؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت ﷺ سے لفظ کا حکم پوچھا تو فرمایا: ایک سال کو ذہن نشین کر کے خرچ کرلو۔ اس کے بعد اگر اس کا مالک آجائے تو اسے دے دو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر کسی کی گم شدہ بکری ملے تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا: اسے پکڑلو۔ وہ تمہاری ہے یا تمہارے بھائی کی ورنہ اسے کوئی

(۱) لفظ اس چیز کو کہتے ہیں جو راستے میں گری ہوئی پائی جائے اور اس کے مالک کا علم نہ ہو۔ (مترجم)

بھیڑیا کھا جائے گا۔ اس نے عرض کیا: اگر کسی کا گم ہوا ہوا اونٹ کسی کو مل جائے تو؟ اس پر آنحضرت ﷺ غصے میں آگئے یہاں تک کہ آپ ﷺ کے رخسار مبارک سرخ ہو گئے یا آپ ﷺ کا چہرہ سرخ ہو گیا پھر فرمایا: تمہارا اس سے کیا کام اس کے پاس چلنے کے لیے پاؤں بھی ہیں اور ساتھ میں پانی کا ذخیرہ بھی یہاں تک اس کا مالک اسے پالے (۱)

اَسْتَفِقُ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَةٌ الْعَنَمِ فَقَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لَا حَيْكُكَ أَوْ لِلذَّنْبِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَةٌ الْإِبِلِ فَقَالَ فَغَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَحَنَّتْهُ أَوْ احْمَرَّتْ وَجْهَهُ فَقَالَ مَالِكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاءُهَا وَسِقَائُهَا حَتَّى يَلْفَى رَبُّهَا

اس باب میں ابی بن کعب، عبداللہ بن عمر، جارود بن معلی، عیاض بن حمار اور جریر بن عبداللہ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت زید بن خالد کی حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے منقول ہے۔ منبعث کے مولیٰ زید کی حدیث جو وہ زید بن خالد سے نقل کرتے ہیں وہ بھی حسن صحیح ہے۔ وہ یہ بھی کئی سندوں سے انہی سے منقول ہے۔ بعض علماء وغیرہ اسی پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گری ہوئی چیز کی ایک سال تک تشہیر کرنے کے بعد اسے استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک سال تک تشہیر پر بھی اگر اس کا مالک نہ پہنچے تو اسے صدقہ کر دے سفیان ثوری، ابن مالک اور اہل کوفہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر وہ غنی ہو تو اس کا ایسی چیز کو استعمال کرنا جائز نہیں۔ امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ وہ اگر غنی ہی ہو اسے استعمال کر سکتا ہے۔ ان کی دلیل گزشتہ حدیث ہے یعنی ابی بن کعب کی حدیث۔ لہذا اگر لفظ صرف اسی کے لیے حلال ہوتا ہے جس کے لیے صدقہ حلال ہے تو حضرت علی بن ابی طالب بھی اسے استعمال نہ کرتے کیونکہ انہیں بھی ایک مرتبہ ایک دینار ملا تھا۔ انہوں نے اس کا اعلان کیا اور جب اس کا مالک نہ آیا تو آنحضرت ﷺ نے انہیں استعمال کر لینے کا حکم دیا۔ حالانکہ حضرت علیؑ کے لیے صدقہ حلال نہیں تھا۔ اگر لفظ کوئی چھوٹی موٹی چیز ہو تو بعض علماء اسے اعلان کیے بغیر استعمال کی بھی اجازت دیتے ہیں پھر بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک دینار سے کم ہو تو اس کی ایک جمعے تک تشہیر کرے۔ اسحاق بن ابراہیم کا یہی قول ہے۔

۱۲۳۶۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا ابو بکر الحنفی ثنا الضحاک بن عثمان ثنا سالم ابو النصر عن يسر بن سعيد عن زید بن خالد الجهنی ان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن اعترفت فأدِّها وإلا فأعرف عفاصها ووكتائها وعددتم كلَّها فإن جاء صاحبها فأدِّها

۱۲۳۶۔ حضرت زید بن خالد جہنیؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے لقطہ کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا: ایک سال تک اس کی تشہیر کرو اگر کوئی پہچان لے تو اسے دے دو، ورنہ اس کی تعداد، تھیلی اور رسی وغیرہ کو ذہن نشین کر کے اسے استعمال کر لو تا کہ اگر اس کا مالک آجائے تو اسے دے سکو۔

یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں اس باب میں سب سے زیادہ صحیح یہی حدیث ہے۔ بعض علماء صحابہ وغیرہ اسی پر عمل کرتے ہوئے ایک سال تک تشہیر کرنے کے بعد لقطہ کے استعمال کی اجازت دیتے ہیں۔ شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

(۱) اس سے مراد یہ ہے کہ اونٹ کو پانی کی کافی دن تک ضرورت نہیں ہوتی پھر وہ درندوں سے بھی بچنے کی صلاحیت رکھتا ہے لہذا اسے پکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ واللہ اعلم۔ (مترجم)

باب ۹۲۰۔ مَا جَاءَ فِي الْوَقْفِ

باب ۹۲۰۔ وقف کے متعلق۔

۱۲۳۷۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ ثَنَا اسْمَعِيلُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَصَابَ عُمَرَ اَرْضًا بِخَيْبَرَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَصَبْتُ مَالًا بِخَيْبَرَ لَمْ اَصِبْ مَالًا قَطُّ اَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرْنِي قَالَ اِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ اَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ اِنَّهَا لَا يَأْتِيَا اَصْلَهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ تَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لِاجْنَاخِ عَلِيٍّ مَنْ وَلِيَهَا اَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ اَوْ يُطْعِمَ صَدِيْقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ فِيْهِ قَالَ فَذَكَرْتُهُ لِمُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِئِنْ فَقَالَ غَيْرُ مُتَأْتِلٍ مَالًا قَالَ ابْنُ عَوْفٍ فَحَدَّثَنِي بِهِ رَجُلٌ اٰخَرُ اَنَّهُ قَرَأَهَا فِي قِطْعَةٍ اَدْبَمِ اَحْمَرَ غَيْرِ مُتَأْتِلٍ مَالًا

۱۲۳۷۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کو خیبر میں کچھ زمین ملی تو عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے خیبر میں ایسا مال ملا ہے کہ اس سے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں ملی اس کے متعلق آپ ﷺ کیا حکم دیتے ہیں۔ فرمایا: اگر چاہو تو اس کی اصل اپنے پاس رہنے دو، اور اس کے منافع کو صدقہ کر دو چنانچہ حضرت عمرؓ نے وہ زمین صدقہ کر دی اس طرح کہ نہ وہ بیچی جاسکتی تھی، نہ بہہ کی جاسکتی اور نہ ہی وراثت میں دی جاسکتی تھی۔ اس سے فقراء، اقرباء، غلاموں کو آزاد کرنے، اللہ کی راہ اور مہمانوں وغیرہ کو بھی کھلا سکتا تھا۔ راوی کہتے ہیں میں نے یہ حدیث ابن سیرین کے سامنے بیان کی تو انہوں نے ”غیر متمول فیہ“ کی جگہ ”غیر متائل مالا“ کہا یعنی مال کو جمع نہ کرے۔ ابن عون کہتے ہیں پھر ایک اور شخص نے بھی مجھ سے یہ حدیث بیان کی جس نے وہ وقف نامہ خود پڑھا تھا جو ایک سرخ چمڑے پر تحریر تھا اس میں بھی ”غیر متائل مالا“ کے الفاظ ہی تھے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسماعیل کہتے ہیں میں نے بھی اس وقف نامے کو عبد اللہ بن عمر سے لے کر پڑھا تھا اس میں بھی ”غیر متائل مالا“ ہی تھا۔ علماء صحابہ وغیرہ اسی پر عمل کرتے ہیں۔ ہمیں علم نہیں کہ متقدمین حضرات میں وقف کے جواز کے متعلق کوئی اختلاف رہا ہو۔

۱۲۳۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب کوئی شخص مرجاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ بجز تین عملوں کے صدقہ جاریہ، علم کہ اس سے نفع حاصل ہو رہا ہو اور نیک اولاد جو اس کے دعا کرتی رہے۔

۱۲۳۸۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ ثَنَا اسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اَنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْهُ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۹۲۱۔ مَا جَاءَ فِي الْعَجْمَاءِ اَنْ جُرْحَهَا جُبَارٌ

باب ۹۲۱۔ حیوان اگر کسی کو زخمی کر دے تو اس کا قصاص نہیں۔

۱۲۳۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی جانور کسی کو زخمی کر دے تو اس کا کوئی قصاص نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی کتوں کھودتے ہوئے یا کسی کان وغیرہ میں مرجائے تو بھی کوئی قصاص نہیں اور مدفون خزانے پر پانچواں حصہ زکوٰۃ ہے۔

۱۲۳۹۔ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا سَفِيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَ الْبَيْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّسَالِ الْخُمْسُ

اس باب میں جابر، عمرو بن عوف مزنی اور عبادہ بن صامتؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔  
تفسیر، لیث سے وہ ابن شہاب سے وہ سعید بن مسیب اور ابوسلمہ بن عبدالرحمن سے وہ ابو ہریرہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے مثل  
حدیث نقل کرتے ہیں۔ انصاری، معن سے اور وہ مالک سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد کے معنی یہ ہیں کہ اگر کوئی جانور  
کسی کو زخمی کر دے یا مار ڈالے تو وہ ہدر ہے اس میں کوئی دیت نہیں جب کہ بعض علماء اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ عجماء اس جانور کو کہتے ہیں  
جو مالک سے بھاگ گیا ہو۔ اگر ایسا جانور اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچا دے تو اس کے مالک پر جرمانہ نہیں کیا جائے گا۔

”المعدن جبار“ کے معنی یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص کان کھدوائے اور اس میں کوئی شخص گر جائے تو کھدوانے والے کے ذمہ کوئی تاوان  
نہیں ہوگا اسی طرح کنوئیں کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر کوئی شخص راہ گیروں کے لیے کنواں کھدوائے اور اس میں کوئی شخص گر جائے تو اس پر کوئی  
جرمانہ نہیں۔ اور ”رکاز“ زمانہ جاہلیت کے دن شدہ خزانے کو کہتے ہیں۔ اگر کسی کو ایسا خزانہ مل جائے تو وہ پانچواں حصہ بیت المال میں جمع  
کرائے اور باقی خود رکھے۔

باب ۹۲۲۔ نجر زمین کو آباد کرنا۔

باب ۹۲۲۔ مَا ذُكِرَ فِي أَحْيَاءِ أَرْضِ الْمَوَاتِ

۱۲۴۰۔ حضرت سعید بن زیدؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس  
نے نجر زمین آباد کی وہ اسی کی ملکیت ہوگی۔ اور ظالم کے درخت  
بودینے سے اس کا حق ثابت نہیں ہوتا (یعنی کسی کی زمین میں)۔

۱۲۴۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثنا عبد الوهاب ثنا  
ايوب عن هشام بن عروة عن سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ  
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً  
فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعَرَقِ ظَالِمٍ حَقٌّ

۱۲۴۱۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:  
جس شخص نے نجر زمین کو آباد کر دیا وہ اس کی ملکیت ہوگی۔

۱۲۴۱۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثنا عبد الوهاب  
الثقفی عن ايوب عن هشام بن عروة عن وَهْبِ ابْنِ  
كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض راوی یہ حدیث ہشام بن عروہ سے وہ اپنے والد سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے مرسل نقل کرتے ہیں۔  
بعض علماء صحابہ و دیگر علماء اسی پر عمل کرتے ہیں۔ احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں یعنی نجر زمین کو آباد کرنے کے لیے حاکم کی اجازت  
ضروری نہیں جب کہ بعض کے نزدیک حاکم کی اجازت لینا ضروری ہے لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ اس باب میں جابر، کثیر کے دادا عمرو  
بن عوف مزنی اور سرہ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ ابوموسیٰ محمد بن شعیبہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو لید طیاہی سے ”لیس لعرق ظالم حق“  
کا معنی پوچھا تو کہنے لگے اس سے مراد کسی کی زمین غصب کرنے والا ہے۔ ابوموسیٰ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو کسی  
دوسرے کی زمین میں کاشت کرتا ہے تو فرمایا: ہاں وہی ہے۔

توضیح: ”موات“ وہ زمین ہے جس میں کوئی کھیتی یا مکان نہ ہو اور وہ ناقابل انتفاع ہو یعنی اس میں زراعت نہ ہو سکتی ہو۔ اسے آباد  
کرنے کی کئی صورتیں ہیں مثلاً اس پر مکان بنانا، زراعت کرنا، باغات لگانا وغیرہ وغیرہ۔ اس کو آباد کرنے پر یہ حکم ہے کہ وہ زمین آباد کرنے  
والے کی ملکیت ہو جائے گی لیکن بشرطیکہ وہ پہلے سے کسی کی ملکیت میں نہ ہو۔ (مترجم)

باب ۹۲۳۔ نجر زمین کو آباد کرنا۔ جاگیر دینے سے متعلق۔

باب ۹۲۳۔ مَا جَاءَ فِي الْقَطَائِعِ

۱۲۴۲۔ حضرت ابیض بن حمال آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ انہیں نمک کی کان جاگیر کے طور پر دی جائے۔ آپ ﷺ نے انہیں کان عطا کر دی۔ جب وہ جانے کے لیے مڑے تو ایک شخص نے عرض کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے ان کو کیا دیا ہے آپ ﷺ نے انہیں جاگیر میں تیار پانی دے دیا ہے جو کبھی موقوف نہیں ہوتا۔ یعنی اس سے بہت زیادہ نمک نکلتا ہے۔ راوی کہتے ہیں۔ اس پر آنحضرت ﷺ نے ان سے وہ کان واپس لے لی۔ پھر انہوں نے آپ ﷺ سے پوچھا کہ پیلو کے درختوں کی کون سی زمین گھیری جاسکتی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ زمین جہاں اونٹوں کے پاؤں نہ پہنچیں۔ (۱) امام ترمذی کہتے ہیں۔ جب میں نے یہ حدیث تہیہ کو سنائی تو انہوں نے اقرار کیا۔ اور کہا: ہاں۔

محمد بن یحییٰ بن ابی عمر، محمد بن یحییٰ بن قیس ماری سے اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس باب میں وائل اور اسماء بنت ابی بکر سے بھی احادیث منقول ہیں۔ ابیض کی حدیث حسن غریب ہے۔ بعض علماء صحابہ وغیرہ اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے امام کے کسی کو جاگیر دینے کو جائز کہتے ہیں۔

۱۲۴۳۔ حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں حضرت موت میں زمین کا ایک ٹکڑا بطور جاگیر عطا کیا۔

۱۲۴۳۔ حدثنا محمود بن غیلان ثنا ابوداؤد الطیالسی ثنا شعبہ عن سماک قال سمعت علقمة بن وائل بن حجر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقطعہ ارضا بحضر موت

محمود یہ حدیث نصر سے اور وہ شعبہ سے نقل کرتے ہوئے یہ الفاظ زیادہ بیان کرتے ہیں ”وبعث معہ معاویۃ ليقطعہا ایاہ“۔ یعنی آپ ﷺ نے ان کے ساتھ معاویہ کو بھیجا تا کہ وہ زمین ناپ کر انہیں دے دیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۹۲۴۔ درخت لگانے کی فضیلت

باب ۹۲۴۔ ماجاء فی فضل الغرس

۱۲۴۴۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی مسلمان کوئی پودہ لگاتا ہے یا کاشتکاری کرتا ہے۔ اور اس سے کوئی انسان یا چند پرند کھا جاتے ہیں تو اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔

۱۲۴۴۔ حدثنا قتیبہ ثنا ابو عوانہ عن قتادة عن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم ینرس غرسا أو ینزرع زرعاً فیاکل منه انسان أو طیر أو بهیمة إلا كانت له صدقة

اس باب میں ابویوبؓ، ام بشرؓ، جابرؓ اور زید بن خالدؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں حضرت انسؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۹۲۵۔ مزارعت کے متعلق۔

باب ۹۲۵۔ ذکر فی المزارعة

(۱) یعنی ایسی جگہ جو چراگاہ وغیرہ سے دور ہو۔ (مترجم)

۱۲۴۵۔ حدثنا اسحاق بن منصور ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع ابن عمر أنّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زُرْعٍ

۱۲۳۵۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اہل خیبر کو اس اقرار پر زمین دی کہ اس کی پیداوار میں سے آدھا آپ ﷺ کو ادا کریں خواہ وہ پھل ہو یا کوئی اور چیز۔

اس باب میں انسؓ، ابن عباسؓ، زید بن ثابتؓ اور جاہلی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض علماء صحابہ وغیرہ اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زمین کو مزارعت پر دینے میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی نصف، ٹکٹ یا ربح وغیرہ کی شرط پر زمین دینا جائز ہے پھر بعض علماء کا کہنا ہے کہ ایسی صورت میں بیج زمین کے مالک کی طرف سے ہوگا۔ احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ لیکن بعض علماء مزارعت کو مکروہ سمجھتے ہیں لیکن ان کے نزدیک کھجوروں کو ٹکٹ یا ربح پیداوار کی شرط پر پانی دینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ مالک بن انس اور شافعی بھی اسی کے قائل ہیں۔ علماء کا ایک فریق اس مسلک پر بھی عمل پیرا ہے کہ مزارعت کی کوئی صورت جائز نہیں۔ البتہ یہ جائز ہے کہ زمین کا کرایہ پیسوں کی صورت میں مقرر کر لیا جائے۔

۱۲۴۶۔ حدثنا هناد ثنا ابو بكر بن عياش عن ابي حصين عن مُجَاهِدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرِ كَان لَنَا نَافِعًا إِذَا كَانَتْ لِأَحَدِنَا أَرْضٌ أَنْ يُعْطِيَهَا بَعْضُ خَرَاجِهَا أَوْ يَدْرَاهِمَ وَقَالَ إِذَا كَانَتْ لِأَحَدِكُمْ أَرْضٌ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيُزْرَعْهَا

۱۲۳۶۔ حضرت رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ہمیں ایک نفع بخش کام سے منع فرمایا۔ وہ یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس زمین ہوتی تھی تو وہ اسے خراج کے کچھ حصے یا دراہم کے عوض دے دیتا آپ ﷺ نے فرمایا: اگر کسی کے پاس زمین ہو تو اسے اپنے بھائی کو زراعت کے لیے مفت دینی چاہئے ورنہ وہ خود زراعت کرے۔

۱۲۴۷۔ حدثنا محمود بن غيلان ثنا الفضل بن موسى الشيباني ثنا شريك عن شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أنّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحْرِمِ الْمَزَارَعَةَ وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ

۱۲۳۷۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مزارعت سے منع نہیں کیا بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا حکم دیا۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اس باب میں زید بن ثابتؓ سے بھی حدیث منقول ہے۔ حضرت رافع کی حدیث میں اضطراب ہے۔ یہ حدیث رافع بن خدیج اپنے چچاؤں سے بھی نقل کرتے ہیں اور اپنے ایک چچا ظہیر بن رافع سے بھی نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث انہی سے کئی سندوں سے منقول ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

أَبْوَابُ الدِّيَاتِ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دیات کے متعلق آنحضرت ﷺ سے

منقول احادیث کے ابواب

باب ۹۲۶۔ دیت میں کتنے اونٹ دیئے جائیں۔

۱۲۴۸۔ حشف بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے ابن مسعود سے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے قتلِ خطاء کی دیت میں بیس بنت مخاض ہیں، بنی مخاض مذکر اونٹ، بیس بنت لبون، بیس جذع اور بیس حقدہ دینے کا حکم دیا۔

باب ۹۲۶۔ مَا جَاءَ فِي الدِّيَةِ كَمْ هِيَ مِنَ الْإِبِلِ

۱۲۴۸۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ ثنا ابن ابی زائدة عن الحجاج عن زيد بن جُبَيْرٍ عَنْ حِشْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِيَةِ الْخَطَاةِ عَشْرِينَ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَعَشْرِينَ بَنِي مَخَاضٍ ذَكَوْرًا وَعَشْرِينَ بَنَاتٍ لَبُونٍ وَعَشْرِينَ جَذَعَةً وَعَشْرِينَ حِقَّةً

ابن ہشام رفاعی، ابن ابی زائدہ سے وہ ابو خالد احمر سے اور وہ حجاج بن ارطاة سے اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں اس باب میں عبداللہ بن عمرو سے بھی حدیث منقول ہے۔ حضرت ابن مسعود کی حدیث کو ہم صرف اسی سند سے مرفوع جانتے ہیں۔ پھر یہ انہی سے موقوفاً بھی منقول ہے۔ بعض علماء کا یہی مسلک ہے۔ احمد اور اسحاق کا بھی قول ہے تمام علماء کا اسی پر اجماع ہے کہ دیت تین سال میں وصول کی جائے یعنی ہر سال ٹکٹ دیت ادا کرے۔ ان کا کہنا ہے کہ دیت عاقلہ ادا کرے گی۔ مالک اور شافعی کا بھی یہی قول ہے جب کہ بعض کے نزدیک دیت صرف مردوں پر ہے عورتوں اور بچوں پر نہیں اگرچہ وہ عصبات ہی ہوں (عاقلہ مرد کے والد کی طرف سے عزیز و اقارت کو کہتے ہیں) پھر ان میں سے ہر شخص ربح دینا ادا کرے جب کہ بعض کہتے ہیں کہ نصف دینا ادا کرے۔ چنانچہ اگر پوری ہو جائے تو ٹھیک ورنہ ان کے قریبی قبائل میں سے قریبی ترین قبیلے پر لازم کی جائے۔

توضیح: ”دیات“ ”دیت“ کی جمع ہے۔ یہ فقہی اصطلاح میں اس مال کو کہتے ہیں جو کسی کو قتل کر دینے یا کسی عضو کو ضائع کر دینے کے عوض دیا جاتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) دیت مغلظہ۔ اس میں سواونٹیاں ہوتی ہیں جو چار اقسام پر مشتمل ہوتی ہیں: ۱: پچیس بنت مخاض (۱)، ۲: پچیس بنت لبون

(۲): ۳: پچیس حقدہ (۳)، ۴: پچیس جذعہ (۴)

دیت مغلظہ قتلِ شبہ عمدہ کے ارتکاب پر واجب ہوتی ہے۔

(۱) بنت مخاض۔ وہ اونٹنی جو ایک سال کی ہو کر دوسرے سال میں لگی ہو۔ (مترجم)

(۲) بنت لبون۔ وہ اونٹنی جو دو سال کی ہو کر تیسرے سال میں لگی ہو۔ (مترجم)

(۳) حقدہ۔ وہ اونٹنی جو تین سال کی ہو کر چوتھے سال میں لگی ہو۔ (مترجم)

(۴) جزعہ۔ وہ اونٹنی جو چار سال کی ہو کر پانچویں سال میں لگی ہو۔ (مترجم)

(۲) دیت مخففہ۔ اگر یہ سونے سے ادا کی جائے تو ایک ہزار شرفیاں (دینار) اور چاندی سے دی جائے، دس ہزار درہم دیئے جائیں گے۔ پھر اگر اونٹوں کی صورت میں دی جائے پانچ طرح کے سوانٹ دیئے ہوں گے۔ بیس ابن مخاض (۱)، بیس بنت مخاض، بیس بنت لبون، بیس حقہ اور بیس جذعہ۔ یہ دیت قتل خطاء کے مرتکب پر واجب ہوتی ہے۔ (مترجم)

۱۲۴۹۔ حدثنا احمد بن سعيد الدارمي ثنا حبان ثنا محمد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل مؤمنا متعمدا دفع الى اولياء المقتول فان شاء واقتلوا وان شاء واخذوا الدية وهي ثلثون حقة ثلثون جذعة واربعون خلفة وما صالحوا عليه فهو لهم و ذلك لتشد يد العقل

۱۲۴۹۔ حضرت عمرو بن شعيب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کسی شخص نے کسی کو عمدتاً قتل کیا۔ تو اسے مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دیا جائے اگر وہ چاہیں تو اسے قتل کر دیں اور اگر چاہیں تو دیت لے لیں۔ اور دیت میں انہیں تیس جزعہ، تیس حقہ اور چالیس خلفہ (۲) دینی پڑیں گی۔ ساتھ ہی وہ کچھ بھی ادا کرنا ہوگا جس پر رثاء نے صلح کی ہو۔ اور یہ دیت عاقلہ پر سخت ہے۔

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۹۲۷۔ ماجاء في الدية كم هي من الدراهم

۱۲۵۰۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا معاذ بن هاني عن محمد بن مسلم هو الطائفي عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جعل الدية اثنا عشر الفا

باب ۹۲۷۔ دیت کتنے درہم سے ادا کی جائے۔

۱۲۵۰۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بارہ ہزار درہم دیت مقرر کی۔

سعيد بن عبد الرحمن مخزومي، سفیان بن عیینہ سے وہ عمرو بن دینار سے وہ عکرمہ سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس میں ابن عیینہ کی حدیث میں اس سے زیادہ الفاظ ہیں۔ محمد بن مسلم کے علاوہ کسی اور نے ابن عباسؓ سے یہ حدیث نقل نہیں کی۔ بعض علماء اسی حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ جب کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ دیت دس ہزار درہم ہے۔ سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا بھی یہی قول ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں۔ دیت صرف اونٹوں سے دی جاتی ہے اور ان کی تعداد سو ہوتی ہے۔

باب ۹۲۸۔ ماجاء في الموضحة

۱۲۵۱۔ حدثنا حميد بن مسعدة ثنا يزيد بن زريع ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضح خمس خمس

باب ۹۲۸۔ ایسے زخموں کی دیت جن میں ہڈی ظاہر ہو جائے۔

۱۲۵۱۔ حضرت عمرو بن شعيب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایسے زخم جن میں ہڈی ظاہر ہو جائے پانچ پانچ اونٹ دیت کے طور پر دیئے جائیں گے۔

(۵) ابن مخاض وہ اونٹ جو ایک سال کا ہو کہ دوسرے سال میں لگا ہو۔ (مترجم)

(۱) خلفہ: اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو حاملہ ہو۔ (مترجم)

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء کا اسی پر عمل ہے۔ سفیان ثوری، شافعی، احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں کہ ایسے زخموں کی دیت جن میں ہڈی ظاہر ہو جائے پانچ اونٹ ہے۔

باب ۹۲۹۔ مَا جَاءَ فِي دِيَةِ الْأَصَابِعِ

باب ۹۲۹۔ انگلیوں کی دیت۔

۱۲۵۲۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کی دیت برابر ہے یعنی ہر انگلی کی دیت دس اونٹ ہے۔

۱۲۵۲۔ حَدَّثَنَا أَبُو عَمَارٍ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ يَزِيدِ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ عَشْرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ لِكُلِّ أُصْبَعٍ

اس باب میں ابو موسیٰ اور عبداللہ بن عمر سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ بعض علماء اسی پر عمل پیرا ہیں۔ ثوری، شافعی، احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔

۱۲۵۳۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: انگوٹھا اور سب سے چھوٹی انگلی دیت میں برابر ہیں۔

۱۲۵۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

توضیح: بطور خاص چھنگلیا اور انگوٹھے کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ انگوٹھے میں دو اور چھنگلیا میں تین پورے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کی زیادتی کا اعتبار نہیں دونوں میں دس دس اونٹ ہوں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انگوٹھے میں چونکہ دو پورے ہوتے ہیں اس لیے اس کے ایک پورے کی دیت پانچ اونٹ ہوگی واللہ اعلم (مترجم)

باب ۹۳۰۔ مَا جَاءَ فِي الْعَفْوِ

باب ۹۳۰۔ معاف کر دینے سے متعلق۔

۱۲۵۴۔ ابوسفر کہتے ہیں کہ قریش کے ایک شخص نے ایک انصاری کا دانت توڑ دیا۔ اس نے حضرت معاویہؓ کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا اور کہا کہ اے امیر المؤمنین اس نے میرا دانت اکھاڑ دیا ہے۔ حضرت معاویہؓ نے فرمایا: ہم تمہیں راضی کر دیں گے۔ اس پر دوسرے شخص نے منت سماجت شروع کر دی۔ یہاں تک کہ معاویہؓ تنگ آ گئے۔ حضرت معاویہؓ نے فرمایا: تم جانو تمہارا ساتھی جانے۔ ابو درداءؓ بھی اس وقت بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ سنا کہ اگر کسی شخص کو اس کے جسم میں کوئی زخم وغیرہ آجائے اور وہ زخم دینے والے کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کا ایک درجہ

۱۲۵۴۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْلَاقٍ ثَنَا أَبِي السَّفَرِ قَالَ دَقَّ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ سِنَّ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ لِمُعَاوِيَةَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ هَذَا دَقَّ سِنِّي فَقَالَ مُعَاوِيَةُ إِنَّا سَنَرَضِيكَ وَالْحَقُّ الْأَخْرُ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَأَبْرَمَهُ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ شَانِكَ بِصَاحِبِكَ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ جَالِسٌ عِنْدَهُ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ فِي جَسَدِهِ

بلند کرتے ہیں اور ایک گناہ بخش دیتے ہیں۔ انصاری نے کہا: کیا آپ نے یہ رسول اللہ ﷺ سے سنا؟ فرمایا: ہاں میرے ان کانوں نے سنا اور دل نے محفوظ کر لیا۔ انصاری نے کہا: تو میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ حضرت معاویہؓ نے فرمایا: اب کوئی مضائقہ نہیں لیکن میں تمہیں محروم نہیں رکھوں گا۔ پھر اسے مال دینے کا حکم دیا۔

فَيَتَصَدَّقُ بِهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةً فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتَهُ أَذُنَايَ وَوَعَاةَ قَلْبِي قَالَ فَانْبِيَّ أَذْرَهَا لَهُ قَالَ مُعَاوِيَةُ لَا جَرَمَ لَا أُخَيِّبُكَ فَأَمَرَ لَهُ بِمَالٍ

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ ہمیں ابوسفرد کے ابودرداء سے سماع کا علم نہیں۔ ابوسفرد کا نام سعید بن احمد ہے انہیں ابن حمید ثوری بھی کہتے ہیں۔

باب ۹۳۱۔ مَا جَاءَ فِي مَنْ رُضِخَ رَأْسُهُ بِصَخْرَةٍ

باب ۹۳۱۔ جس کا سر پتھر سے کچل دیا گیا ہو۔

۱۲۵۵۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ ثنا يزيد بن هارون ثنا همام عن قتادة عن أنس قال خرجت جارية عليها أوصاخ فأخذها يهودي فرسخ رأسها وأخذ ما عليها من الحلبي قال فأدر كت وبها رمق فأتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال من قتلك أفلاؤ فقلت برأسها لا قال أفلاؤ حتى سمى اليهودي فقلت برأسها نعم قال فأخذ فأعترف فأمر به رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرسخ رأسه بين حجرين

۱۲۵۵۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک لڑکی کہیں جانے کے لیے نکلی۔ اس نے چاندی کا زیور پہنا ہوا تھا۔ ایک یہودی نے اسے پکڑ لیا اور اس کا سر پتھر سے کچل کر اس کا زیور وغیرہ لے لیا۔ انسؓ کہتے ہیں کہ ابھی اس میں تھوڑی سی جان باقی تھی کہ لوگ پہنچ گئے اور اسے آنحضرت ﷺ کے پاس لے آئے۔ آپ ﷺ نے پوچھا تمہیں کس نے قتل کیا؟ فلاں نے؟ اس نے اشارہ کیا کہ نہیں۔ یہاں تک کہ آپ ﷺ نے اس یہودی کا نام لیا تو اس نے اپنے سر سے اشارہ کر دیا کہ ہاں۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ پھر وہ یہودی پکڑا گیا اور اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اس کا سر پتھر سے کچلنے کا حکم دیا۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض علماء اسی پر عمل کرتے ہیں احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے جب کہ بعض علماء کا مسلک یہ ہے کہ قصاص صرف تلوار ہی سے لیا جائے۔

احناف کا مسلک یہ ہے کہ قصاص لیتے ہوئے صرف تلوار ہی سے قصاص لیا جائے کیونکہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”قصاص صرف تلوار ہی سے ہوتا ہے۔“

یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قتل کی اقسام ذکر کی جائیں۔ قتل کی پانچ اقسام ہیں۔

(۱) قتل عمد۔ مقتول کو اس طرح قتل کیا جائے کہ اس کا کوئی عضو الگ ہو جائے یا جسم کے اجزاء پھٹ جائیں خواہ وہ کسی ہتھیار سے ہو یا کسی دھار والی چیز سے۔ جب کہ امام ابو یوسف اور امام محمد اس قسم کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ مقتول کو بارادہ قتل کسی ایسی چیز سے قتل کیا جائے جس سے عموماً ہلاک کیا جاتا ہے۔ اس میں قصاص ہے البتہ اگر در ثاء معاف کر دیں یا دیت لینے پر راضی ہو جائیں تو اس کی جان معاف ہو جاتی ہے۔ لیکن اس صورت میں کفارہ واجب نہیں ہوتا۔

(۲) قتل شبہ عمد۔ یہ ہے کہ کسی ہتھیار یا دھار والی چیز کے علاوہ کسی اور چیز سے قصداً ضرب لگائی گئی ہو۔ اس صورت میں قصاص نہیں ہوتا بلکہ قاتل کی برادری پر دیت مغلظہ واجب کر دی جاتی ہے۔

(۳) قتلِ خطاء۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ خطا کا تعلق قصد سے ہو مثلاً کوئی شخص کسی چیز کو شکار سمجھ کر یا کسی کو حربی کا فر سمجھ کر نشانہ باندھے اور تیر یا گولی چلا دے۔ لیکن وہ فی الحقیقت انسان تھا اور دوسری صورت میں مسلمان تھا۔ دوسرے یہ کہ خطا کا تعلق فعل سے ہو۔ مثلاً کسی خاص چیز پر تیر یا گولی چلائی گئی لیکن وہ کسی انسان کو لگ گئی۔

(۴) قتلِ جاری مجری خطا۔ مثلاً کوئی شخص سوتے ہوئے کسی شخص پر جا پڑا اور اس سے دوسرا ہلاک ہو گیا۔ قتلِ خطاء اور جاری مجری خطاء میں کفارے کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے اور عاقلہ (قاتل کی برادری) پر دیت واجب الاداء ہو جاتی ہے

(۵) قتلِ سبب۔ مثلاً کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کی زمین میں کھدوایا یا کوئی پتھر وغیرہ رکھ دیا۔ جس میں گر کر یا ٹھوکر کھا کر کوئی شخص مر گیا۔ اس صورت میں عاقلہ پر دیت واجب ہوگی لیکن کفارہ لازم نہیں آئے گا۔

قتل کی پہلی چار قسموں میں اگر قاتل مقول کا وارث ہو تو میراث سے محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن پانچویں قسم میں نہیں۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۹۳۲۔ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ

۱۲۵۶۔ حَدَّثَنَا أَبُو سَلْمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ وَ مُحَمَّدٌ  
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَا ثنا ابنُ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ  
يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ  
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَزَوَالِ الدُّنْيَا أَهْوَى  
عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ

محمد بن بشار، محمد بن جعفر سے وہ محمد بن شعبہ سے وہ یعلیٰ بن عطاء سے وہ اپنے والد سے اور وہ عبد اللہ بن عمرو سے اسی کے مانند حدیث نقل کرتے ہیں لیکن وہ غیر مرفوع اور ابن ابی عدی کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ اس باب میں سعد، ابن عباس، ابوسعید، ابو ہریرہ، عقبہ بن عامر اور بریدہ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ سفیان ثوری، یعلیٰ بن عطاء سے عبد اللہ بن عمرو بن عاص کی حدیث اسی طرح موقوفاً نقل کرتے ہیں اور یہ مرفوعاً حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔

باب ۹۳۳۔ الْقَحْكَمُ فِي الدِّمَاءِ

۱۲۵۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ ثنا وَهْبُ بْنُ  
حَرِيرٍ ثنا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ  
عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ  
أَوَّلَ مَا يُحْكَمُ بَيْنَ الْعِبَادِ فِي الدِّمَاءِ

حضرت عبد اللہ کی حدیث حسن صحیح ہے کئی راوی اسی طرح اعمش سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں جب کہ بعض غیر مرفوع بھی نقل کرتے ہیں۔ ابو کریب، کعب سے وہ اعمش سے وہ ابو وائل سے اور وہ عبد اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بندوں کے خون کا فیصلہ کریں گے۔ پھر ابو کریب، کعب سے وہ اعمش سے وہ ابو وائل سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ ہوگا وہ خون ہے۔ (یعنی ایک حدیث میں ”یحکم“ اور دوسری میں ”يقضی“ کے الفاظ ہیں۔)

۱۲۵۸۔ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَرِيْثِ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ  
يَزِيْدَ الرَّقَاشِيُّ، أَبُو الْحَكَمِ بَجَلِيٌّ سَعْلَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ

ابو ہریرہؓ آنحضرت ﷺ کا یہ فرمان ذکر کر رہے تھے کہ اگر اہل زمین آسمان بھی ایک مؤمن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں دھکیل دیں گے۔

موسىٰ عن الحسين بن واقد عن يزيد الرقاشي ثنا أبو الحكم الجحلي قال سمعتُ أبا سعيدٍ الخدريّ وأبا هريرةَ يدكران عن رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي مُؤْمِنٍ لَأَكْبَهُمُ اللهُ فِي النَّارِ  
یہ حدیث غریب ہے۔

باب ۹۳۳۔ اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو اس سے قصاص لیا جائے یا نہیں۔

باب ۹۳۴۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ يَقَادُ مِنْهُ أُمَّ لَا

۱۲۵۹۔ حضرت سراقہ بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ باپ پر بیٹے کے قتل میں قصاص نہیں دلویا کرتے تھے جب کہ بیٹے سے باپ کے قتل میں قصاص دلواتے تھے۔

۱۲۵۹۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ ثَنَا اسْمَعِيلُ عَنْ عِيَّاشِ ثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شَعِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ سُرَّاقَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيدُ الْأَبَ مِنْ ابْنِهِ وَلَا يُقِيدُ الْإِبْنَ مِنْ أَبِيهِ

اس حدیث کو ہم سراقہ کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں اور یہ سند صحیح نہیں چنانچہ اسماعیل بن عیاش، مثنیٰ بن صباح سے نقل کرتے ہیں جو ضعیف ہیں۔ پھر یہ حدیث ابو خالد احمر سے بھی منقول ہے وہ حجاج سے وہ عمرو بن شعیب سے وہ اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے وہ عمر سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ یہی حدیث عمرو بن شعیب سے مرسل بھی منقول ہے لیکن اس میں اضطراب ہے۔ علماء اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو وہ قصاص میں قتل نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح باپ اگر بیٹے پر زنا کی تہمت لگائے تو اس پر حد قذف جاری نہ کی جائے۔

۱۲۶۰۔ حضرت عمر بن خطابؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ باپ بیٹے کے قتل کے جرم میں قتل نہ کیا جائے۔

۱۲۶۰۔ حَدَّثَنَا ابُو سَعِيدِ الْأَشْجِ ثَنَا ابُو خَالِدِ الْأَحْمَرِ عَنْ حِجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شَعِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُولُ لَا يَقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَالِدِ

۱۲۶۱۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حدود مسجدوں میں قائم کی جائیں اور باپ کو بیٹے کے قتل کی سزا میں قتل نہ کیا جائے۔

۱۲۶۱۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدَى عَنْ اسْمَعِيلِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسِ بْنِ أَبِي عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَالِدِ

اس حدیث کو ہم صرف اسماعیل بن مسلم کی روایت سے مرفوع جانتے ہیں۔ یہ سبکی ہیں بعض علماء ان کے حافظے پر اعتراض کرتے ہیں۔

باب ۹۳۵۔ مَا جَاءَ لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدِي ثَلَاثٍ

باب ۹۳۵۔ مسلمان کا خون صرف تین چیزوں سے حلال ہوتا ہے۔

۱۲۶۲۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ أَبِي مَعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرَّةٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدِي ثَلَاثٍ الثَّيْبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِذِيئِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

۱۲۶۲۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جو مسلمان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اس کا خون صرف تین جرموں کے ارتکاب کی وجہ سے حلال ہوتا ہے۔ (۱) شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرنے، (۲) کسی کو قتل کرنے، (۳) اپنے دین کو چھوڑنے کی وجہ سے (یعنی مرتد)

اس باب میں عثمان، عائشہ اور ابن عباسؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۹۳۶۔ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَقْتُلُ نَفْسًا مَعَاهِدًا

باب ۹۳۶۔ معاہدہ کو قتل کرنے کی ممانعت۔ (۱)

۱۲۶۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ سَلِيمَانَ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مَعَاهِدَةً لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَقَدْ أَخْفَرَ بِذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا يَرُوحُ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنْ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ خَرِيفًا

۱۲۶۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے کسی معاہدہ کو قتل کر دیا جسے اللہ اور اس کے رسول نے پناہ دی تھی تو اس نے اللہ کی پناہ کو توڑ ڈالا۔ ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا جو ستر برس کی مسافت سے آتی ہے۔

اس باب میں ابوبکرؓ سے بھی حدیث منقول ہے حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور انہی سے کئی سندوں سے مرفوعاً منقول ہے۔

۱۲۶۴۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنِ ابْنِ بَكْرِ بْنِ عِيَّاشٍ عَنِ ابْنِ سَعْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَى الْعَامِرِيِّينَ بِدِيَةِ الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ لَهُمَا عَهْدٌ مِّنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۱۲۶۴۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے قبیلہ بنو عامر کے دو شخصوں کی جن کے ساتھ آپ ﷺ کو عہد تھا۔ دو مسلمانوں سے دیت دلوائی (یعنی ان کے قتل کی وجہ سے)۔

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ ابوسعید بقال کا نام سعید بن مرزبان ہے۔

باب ۹۳۷۔ مَا جَاءَ فِي حُكْمِ وَلِيِّ الْقَتِيلِ فِي الْقِصَاصِ وَالْعَفْوِ

باب ۹۳۷۔ مقتول کے ولی کو اختیار ہے کہ چاہے تو قصاص لے ورنہ معاف کر دے۔

۱۲۶۵۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَا ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ثَنَا

۱۲۶۵۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فتح مکہ کے موقع پر لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثناء بیان کی اور فرمایا:

(۱) معاہدہ اس کافر کو کہتے ہیں جس نے حاکم کے ساتھ جنگ و جدل نہ کرنے کا معاہدہ کیا ہو۔ (مترجم)

اگر کسی شخص کا کوئی شخص قتل کر دیا گیا تو اس شخص کو دو چیزوں کا اختیار ہے  
یا معاف کر دے یا اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کرے۔

یحییٰ بن ابی کثیر قال حدثنی أَبُو سَلَمَةَ قَالَ نَبِيُّ  
أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيَّ رَسُولَهُ مَكَّةَ قَامَ فِي  
النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَتَنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ  
قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُعْفُوَ وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ

اس باب میں واکل بن حجر، انس، ابو شریح اور خولید بن عمرو سے بھی احادیث منقول ہیں۔

۱۲۶۶۔ حضرت ابو شریح کعبی کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: اللہ  
نے مکہ کو حرمت کی جگہ ٹھہرایا ہے لوگوں نے نہیں۔ پس جو شخص اللہ اور  
قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ یہاں کسی کا خون نہ بہائے اور نہ  
ہی اس میں سے کوئی درخت اکھاڑے اور اگر کوئی میرے مکہ کو فتح  
کرنے کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہوئے اپنے لیے رخصت کی راہ  
ٹکا لے (تو اس سے کہہ دیا جائے کہ) کہ اللہ تعالیٰ نے اسے میرے  
لیے حلال کیا ہے لوگوں کے لئے نہیں۔ اور پھر میرے لیے بھی اس کی  
حرمت کو دن کے ایک مخصوص حصے میں حلال کیا گیا اور اس کے بعد  
قیامت تک کے لیے حرام کر دیا گیا۔ اسے قبیلہ بنو خزاعہ تم نے بنو ہذیل  
کے فلاں شخص کو قتل کر دیا ہے میں اس کی دیت دلوانے کا اعلان کرتا  
ہوں۔ آج کے بعد اگر کسی شخص کا کوئی (قریبی) قتل کر دیا گیا تو اس  
کے اہل و عیال کو اختیار دیا جائے گا اگر وہ چاہیں تو قاتل کو قتل کریں ورنہ  
دیت لے لیں۔

۱۲۶۶۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد  
ثنا ابن ابي ذئب قال ثنى سعيد بن ابي سعيد  
المقبري عن ابي شريح الكعبي ان رسول الله صلى  
الله عليه وسلم قال ان الله حرم مكة ولم يحرمها  
الناس من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن  
فيها دما ولا يعصدن فيها شجرا فان ترخص  
مترخص فقال احلت لرسول الله صلى الله عليه  
وسلم فان الله احلها لي ولم يحلها للناس و انما  
احلت لي ساعة من نهار ثم هي حرام الي يوم  
القيامة ثم انكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من  
هذيل و اتى عاقله فممن قتل له قتيل بعد اليوم فاهله  
بين خيرتين اما ان يقتلوا او ياخذوا العقل

حضرت ابو ہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ شیبان بھی یحییٰ بن کثیر سے اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں۔ ابو شریح رسول اللہ  
ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”مقتول کے درمیان کو اختیار ہے کہ چاہیں تو قاتل کو قتل کریں یا معاف کر دیں دیت دیں بعض  
علماء کا بھی یہی مسلک ہے۔

۱۲۶۷۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کے زمانے  
میں ایک شخص نے کسی کو قتل کر دیا تو اسے مقتول کے ولی کے سپرد کر دیا  
گیا۔ قاتل نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اللہ کی قسم میں نے قصداً اسے  
قتل نہیں کیا۔ آنحضرت ﷺ نے مقتول کے ولی سے فرمایا: جان لو  
اگر یہ سچا ہے اور تم نے اس کو قصاص کے طور پر قتل کر دیا تو تم جہنم میں  
جاؤ گے۔ اس پر اس نے اسے معاف کر دیا۔ چنانچہ اس کے ہاتھ  
پچھے بندھے ہوئے تھے اور وہ انہیں کھینچتا ہوا وہاں سے نکلا۔ اس

۱۲۶۷۔ حدثنا ابو كريب ثنا ابو معاوية عن  
الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قتل  
رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم  
فدفع القاتل الي وليه فقال القاتل يا رسول الله والله  
صلى الله عليه وسلم والله ما اردت قتله فقال  
رسول الله اما انه ان كان صادقا فقتلته دخلت  
النار فحلاة الرجل وكان مكثوفا بنسعة قال فخرج

يَجْرُسَعْتَهُ فَكَانَ يُسَمَّى ذَا النَّسْعَةِ

کے بعد اس کا نام ذالمنعۃ پڑ گیا۔ یعنی ”تسے والا“ کیونکہ اس کے ہاتھ تسے سے بندھے ہوئے تھے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۹۳۸۔ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُثَلَّةِ

باب ۹۳۸۔ مثلہ کی ممانعت۔ (۱)

۱۲۶۸۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن بن مهدى ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميراً على جيش أو صاه في خاصة نفسه يتقوى الله و من معه من المسلمين خيراً فقال اغزوا باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا وفي الحديث قصة

۱۲۶۸۔ سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ جب کسی شخص کو کسی لشکر کا سردار مقرر کرتے تو اسے اس کے اپنے متعلق وصیت کرتے کہ تم اللہ سے ڈرنا۔ اور اس کے ساتھ جانے والوں کو بھلائی کی وصیت کرتے پھر فرماتے جہاد کرو اللہ کے نام سے اسی کے راستے میں اس سے جو اللہ کا انکار کرتا ہے۔ جہاد کرو اور مال غنیمت میں خیانت نہ کرو، عہد شکنی نہ کرو، مثلہ نہ کرو اور کسی بچے کو قتل نہ کرو۔ اس حدیث میں طویل قصہ ہے۔

اس باب میں ابن مسعود، شداد بن اوس، مغیرہ، علی بن مرہ اور ابویوب بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء بھی مثلہ کو حرام کہتے ہیں۔

۱۲۶۹۔ حدثنا احمد بن منيع ثنا هشيم ثنا خالد عن ابى قلابه عن ابى الاشعث الصنعاني عن شداد بن اوس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة و اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليجد احدكم شفرته وليريح ذبيحته

۱۲۶۹۔ حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ بھلائی کرنا فرض کر دیا ہے۔ لہذا اگر قتل کرو تو بہتر طریقے سے، ذبح کرو۔ تو آسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے (۲) چنانچہ تم میں سے جو شخص ذبح کرے وہ اپنی چھری کو تیز کر لے تاکہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابوالاشعث کا نام شرمیل بن آدہ ہے۔

باب ۹۳۹۔ مَا جَاءَ فِي دِيَةِ الْحَيَيْنِ

باب ۹۳۹۔ حمل ضائع کر دینے کی دیت۔

۱۲۷۰۔ حدثنا الحسن بن علي الخلال ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن منصور عن ابراهيم عن عبيد بن نفل عن المغيرة بن شعبة ان امرأتين كانتا ضرتين فرممت إحداهما الأخرى بحجر أو عمود

۱۲۷۰۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ دو عورتوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا تو ایک نے دوسری کو پتھر یا خمیہ کی کوئی میخ وغیرہ مار دی جس سے اس کا حمل ضائع ہو گیا۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے دیت کے طور پر ایک غلام یا باندی دینے کا حکم دیا۔ اور اسے قاتل عورت کے اقرباء پر

(۱) مثلہ: جسم کے کسی عضو کو کاٹنے کو کہتے ہیں۔ (مترجم)

(۱) جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرنا اور ایک جانور کی موجودگی میں دوسرے جانور کو ذبح نہ کرنا مستحب ہے اور اسی قبیل سے ہے۔ (مترجم)

فُسْطَاطٍ فَالْقَتُ جَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ غُرَّةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ وَجَعَلَهُ عَلَى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ

لازم کیا۔

یہ حدیث حسن زید بن حباب سے وہ سفیان سے اور وہ منصور سے بھی نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۲۷۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے جنین (محل گرانے والی) میں غلام یا باندی دینے کا فیصلہ دیا تو جس کے متعلق فیصلہ کیا تھا اس نے کہا۔ کیا ہم سے اس کی دیت دلواری ہے ہیں جس نے نہ کھایا نہ پیا اور نہ چیخا۔ ایسی چیز کا خون تو رازبگیاں ہوتا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: یہ تو شاعروں کی طرح باتیں کرتا ہے۔ ہاں اس میں ایک غلام یا باندی بطور دیت دینی ہوگی۔

۱۲۷۱۔ حدثنا علي بن سعيد الكندي ثنا ابن ابي زائدة عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بقرّة عبد أو أمة فقال الذي قضى عليه أنعطى من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهمل فمئل ذلك يطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا ليقول بقول الشاعر يلقى فيه غرة عبد أو أمة

اس باب میں حمید بن مالک بن ثابتہ سے بھی حدیث منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء اسی پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں غلام، لونڈی یا پانچ سو درہم ادا کیے جائیں گے جب کہ بعض کہتے ہیں کہ گھوڑا یا خچر بھی دیا جاسکتا ہے۔

باب ۹۴۰۔ مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔

باب ۹۴۰۔ مَا جَاءَ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

۱۲۷۲۔ حسی، ابو حنیفہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علیؓ سے کہا۔ اے امیر المؤمنین کیا آپ کے پاس کوئی ایسی چیز بھی مکتوب ہے جو قرآن میں نہیں؟ فرمایا: اس ذات کی قسم جس نے بیچ کو اگایا اور روح کو وجود بخشا۔ مجھے علم نہیں کہ کوئی ایسی چیز ہو جو قرآن میں نہ ہو۔ ہاں البتہ ہمیں قرآن کی وہ سمجھ ضروری گئی ہے۔ جو کسی انسان کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ پھر کچھ چیزیں ہمارے پاس مکتوب بھی ہیں۔ میں نے عرض کیا وہ کیا ہیں؟ فرمایا: دیت قیدیوں کی رہائی اور یہ کہ مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔

۱۲۷۲۔ حدثنا احمد بن منيع ثنا هشيم ثنا مطرف بن عن الشعبي ثنا ابو جحيفة قال قلت لعلي يا امير المؤمنين هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب الله قال والذي فلق الحبة وبر النسمه ما علمته الا فهما يعطيه الله رجلا في القران وما في الصحيفة قال قلت وما في الصحيفة قال فيها العقل وفكاك الاسير وان لا يقتل مؤمن بكافر

اس باب میں عبداللہ بن عمرؓ سے بھی حدیث منقول ہے۔ حضرت علیؓ کی حدیث حسن صحیح ہے بعض علماء اسی پر عمل کرتے ہیں۔ شافعی، سفیان ثوری، مالک، احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں کہ مؤمن کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ جب کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ معاہدہ کو قتل کرنے پر مسلمان کو بطور قصاص قتل کیا جائے۔ لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔

۱۲۷۳۔ عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے اسی سند سے یہ بھی منقول ہے کہ کافر کی دیت مسلمان سے آدھی ہے۔

۱۲۷۳۔ حدثنا عيسى بن احمد ثنا ابن وهب عن اسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدّه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل

مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ دِيَةٌ عَقْلِ الْكَافِرِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ

حضرت عبداللہ بن عمرو کی اس باب میں منقول حدیث حسن ہے۔ علماء کا یہود و نصاریٰ کی دیت میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کا مسلک اسی حدیث کے مطابق ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ یہودی اور نصرانی کی دیت مسلمان سے آدھی ہے۔ امام احمد بھی اسی کے قائل ہیں۔ حضرت عمر بن خطابؓ سے منقول ہے کہ ان کی دیت چار ہزار درہم اور مجوسی کی آٹھ سو درہم ہے۔ امام مالک، شافعی اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں لیکن سفیان ثوری اور اہل کوفہ کے نزدیک یہودی اور نصرانی کی دیت بھی مسلمان کے برابر ہے۔

مسئلہ: اس مسئلے میں احناف کا مسلک یہ ہے کہ ذمی کافر کے بدلے مسلمان قتل کیا جائے گا کیونکہ آپ ﷺ سے منقول ہے کہ ”آپ ﷺ نے ایک معاہدہ کافر کو قتل کرتے پر اس کے مسلمان قاتل کے قتل کا حکم دیا اور فرمایا: میں اس کے عہد کو پورا کرنے کا زیادہ حقدار ہوں“ اس قسم کی احادیث مختلف طرق سے منقول ہے۔ مزید یہ کہ ایسا کافر مسلمانوں کے ساتھ دارالاسلام کا باشندہ ہوتا ہے۔ اور حکومت پر اس کی جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لہذا وہ مسلمانوں کے ساتھ معصوم الدم ہونے میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ لہذا ایک کے بدلے میں دوسرے سے قصاص لیا جائے گا۔

جہاں تک مذکورہ بالا حدیث کا تعلق ہے کہ مسلمان کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔ یہ حربی کافر پر محمول ہے چنانچہ احناف دونوں حدیثوں پر عمل کرتے ہیں۔

یہاں دوسرا مسئلہ ذمی کافر اور مسلمان کی دیت کی مقدار کا ہے چنانچہ احناف کے نزدیک دونوں کی دیت برابر ہے اس لیے کہ حضرت ربیعہ بن ابی عبدالرحمن سے منقول ہے کہ ذمی کی دیت آنحضرت ﷺ کے زمانے میں مسلمان کے برابر ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح حضرت ابوبکر عثمانؓ اور عمرؓ کے دور میں بھی یہی معمول تھا۔ عبدالرزاق بھی حضرت ابن مسعودؓ سے نقل کرتے ہیں کہ ہر ذمی کی دیت مسلمان کی دیت کے برابر ہے پھر مسلمان کی طرح ذمی بھی معصوم الدم ہے۔ جیسے کہ اوپر ذکر کیا گیا لہذا اس کی دیت بھی پوری ہوگی۔ ان دلائل کے علاوہ قرآن کریم میں بھی جہاں دیت کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے وہاں بھی دیت کے مکمل دینے کا حکم ہے مسلمان اور ذمی میں کوئی تفریق نہیں کی چنانچہ ارشاد ہے ”وان كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله“ یعنی اگر تمہارے اور کسی دوسری قوم کے درمیان معاہدہ ہو تو مقتول کے ورثاء کو پوری دیت ادا کی جائے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۹۴۱۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَبْدَهُ  
باب ۹۴۱۔ اگر کوئی شخص اپنے غلام کو قتل کر دے۔  
۱۲۷۴۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ  
۱۲۷۴۔ حضرت سمرہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اگر کسی نے  
الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
اپنے غلام کو قتل کیا تو ہم اس کے بدلے اسے قتل کریں گے اور جس نے  
وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ  
اپنے غلام کی ناک کاٹ دی ہم بھی اس کی ناک کاٹ دیں گے۔

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ بعض علماء تابعین اور ابراہیم نخعی کا یہی مذہب ہے جب کہ بعض کے نزدیک سید کے اپنے غلام کو قتل کرنے میں قصاص نہیں۔ لیکن اگر غلام کسی اور کا ہو تو اس کے بدلے آزاد کو بھی قتل کیا جائے گا۔ یہ سفیان ثوری کا بھی قول ہے۔ بعض علماء مطلقاً آزاد اور غلام کے درمیان قصاص کو صحیح نہیں کہتے چاہے وہ جان کا ہو یا اس سے کم۔ امام احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔

باب ۹۴۲۔ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تَرْتُّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا  
باب ۹۴۲۔ بیوی کو اس کے شوہر کی دیت میں سے ترکہ ملے گا۔

۱۲۷۵۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ فرمایا کرتے تھے کہ دیت عاقلہ پر واجب ہوتی ہے اور عورت کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا یہاں تک کہ ضحاک بن سفیان کلابی نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں لکھا کہ اشیم ضبابی کی بیوی کو ان کے شوہر کی دیت میں سے ورثہ دو۔

۱۲۷۵۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ وَ ابُو عَمَارٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا ثَنَا سَفِيْنُ بِنِ عِيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ الدِّيَةُ عَلٰى الْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَرْءَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتّٰى اَخْبِرَهُ الصَّحَّاکُ بِنِ سَفِيَّانِ الْكِلَابِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اِلَيْهِ اَبُو وَرِثٍ اِمْرَاةً اَشِيْمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر علماء کا عمل ہے۔

باب ۹۴۳۔ قصاص کے متعلق۔

باب ۹۴۳۔ مَا جَاءَ فِي الْقِصَاصِ

۱۲۷۶۔ حضرت عمران بن حصینؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کے ہاتھ پر دانٹوں سے کاٹ دیا۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تو اس کے دو دانت گر گئے۔ پھر وہ دونوں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پیش ہوئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اپنے بھائی کو اونٹ کی طرح کاٹتے ہیں۔ جاؤ تمہارے لیے کوئی دیت نہیں پھر یہ آیت نازل ہوئی ”وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ“ زخموں کا بدلہ بھی دیا جائے۔

۱۲۷۶۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ زُرَّارَةَ بِنَ اَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ يَدَهُ فَوَقَعَتْ نَيْتَاهُ فَاخْتَصَمُوا اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَعْضُّ اَحَدُكُمْ اَحَاهُ كَمَا يَعْضُّ لَا دِيَةَ لَكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ

اس باب میں یعلیٰ بن امیہؓ اور سلمہ بن امیہؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں اور یہ دونوں آپس میں بھائی ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۹۴۴۔ طرم کو قید کرنا۔

باب ۹۴۴۔ مَا جَاءَ فِي الْحَبْسِ فِي التُّهْمَةِ

۱۲۷۷۔ حضرت بہز بن حکیم اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ایک شخص کو کسی تہمت کی وجہ سے قید کیا تھا پھر بعد میں اسے چھوڑ دیا۔

۱۲۷۷۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ سَعِيْدِ الْكِنْدِيِّ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تُّهْمَةٍ ثُمَّ خَلَّى عَنْهُ

اس باب میں حضرت ابو ہریرہؓ بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ بہز بن حکیم کی حدیث حسن ہے اور اسلعل بن ابراہیمؓ بھی بہز بن حکیم سے اس سے طویل حدیث نقل کرتے ہیں۔

باب ۹۴۵۔ جو اپنے مال کے لیے مارا جائے وہ شہید ہے۔

باب ۹۴۵۔ مَا جَاءَ فِيْمَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

۱۲۷۸۔ سعید بن زید، عمرو بن نفیل سے نقل کرتے ہیں۔ کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: جو اپنے مال کے لیے قتل کیا گیا وہ شہید ہے۔

۱۲۷۸۔ حَدَّثَنَا سَلْمَةُ بِنُ شَيْبِيبٍ وَحَاتِمُ بْنُ سِيَاهِ الْمُرُوْزِيِّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا ثَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَوْفٍ عَنِ

عبدالرحمن بن عمرو بن سَهْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ  
عَمْرٍو بْنِ نُفَيْلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمد بن بشار، ابو عامر عقدی سے وہ عبدالعزیز بن عبدالمطلب سے وہ عبداللہ بن حسن سے وہ ابراہیم بن محمد بن طلحہ سے وہ عبداللہ بن عمرو سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: جو اپنے مال کے لیے قتل کیا گیا وہ شہید ہے۔ اس باب میں علی، سعید بن زید اور ابو ہریرہ، ابن عمر، ابن عباس اور جابرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو کی حدیث حسن ہے اور انہی سے کئی سندوں سے منقول ہے۔ علماء اپنی جان و مال کے دفاع کے لئے لڑنے کی اجازت دیتے ہیں ابن مبارک کہتے ہیں کہ خواہ وہ دو درہم ہی ہوں۔

۱۲۷۹۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا ابو عامر العقدی  
ثنا عبدالعزیز بن المطلب عن عبداللہ بن الحسن  
عن ابراهيم بن مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ  
أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ

۱۲۷۹۔ حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:  
اگر کسی سے اس کا مال ناحق چھیننے کی کوشش کی گئی اور وہ دفاع کرتے  
ہوئے مارا گیا تو وہ شہید ہے۔

یہ حدیث صحیح ہے اور محمد بن بشار سے عبدالرحمن بن مہدی سے وہ سفیان سے وہ عبداللہ بن حسن سے وہ ابراہیم بن محمد بن طلحہ سے وہ عبداللہ بن عمرو سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے مثل نقل کرتے ہیں۔

۱۲۸۰۔ حدثنا عبد بن حميد قال اخبرني يعقوب  
بن ابراهيم بن سعد ثنا ابى عن ابيه عن ابى عبيدة  
بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله  
بن عوفٍ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ  
شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ  
دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

۱۲۸۰۔ حضرت سعید بن زید کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو  
فرماتے ہوئے سنا کہ جو اپنے مال کے لیے مارا جائے وہ شہید ہے۔ جو  
اپنی جان بچاتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے اور جو اپنا دین بچاتے  
ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے اور جو اپنے گھر والوں کی جان بچاتے  
ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسے کئی راوی ابراہیم بن سعد سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ اور یعقوب بن یعقوب بن ابراہیم بن سعد بن  
ابراہیم بن عبدالرحمن بن عوف زہری ہیں۔

باب ۹۴۶۔ مَا جَاءَ فِي الْقَسَامَةِ

باب ۹۴۶۔ قسامت کے متعلق۔ (۱)

(۱) قسامت: اس کی تعریف یہ ہے کہ اگر کسی محلے یا آبادی میں یا اس کے قرب و جوار میں کوئی مقتول پایا جائے اور قاتل کا پتہ نہ چلے تو حکومت تحقیق کرے اور  
اگر پھر بھی قاتل کا پتہ نہ چلے تو وہاں کے باشندوں میں سے پچاس آدمیوں سے حلف لیا جائے کہ نہ اس نے خود اسے قتل کیا ہے اور نہ ہی اسے قاتل کا علم ہے اس  
میں صرف دیت واجب ہوتی ہے۔ (مترجم)

۱۲۸۱۔ حضرت رافع بن خدیج اور سہل بن ابی حمزہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سہل بن زید اور حبیصہ بن مسعود بن زید سفر میں ایک ساتھ روانہ ہوئے لیکن خیبر میں وہ دونوں الگ ہو گئے۔ پھر حبیصہ نے عبداللہ بن سہل کو مقتول پایا اور آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کے ساتھ حبیصہ بن مسعود اور عبدالرحمن بن سہل بھی تھے جو سب سے چھوٹے تھے۔ عبدالرحمن نے اپنے ساتھی سے پہلے گفتگو شروع کرنے کا ارادہ کیا تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا: برے کا ادب ملحوظ رکھو چنانچہ وہ خاموش ہو گئے۔ اور ان کے دونوں ساتھیوں نے بات شروع کی۔ پھر عبدالرحمن بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اس طرح انہوں نے آنحضرت ﷺ کے سامنے عبداللہ بن سہل کے قتل کا قصہ بیان کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم پچاس قسمیں کھا سکتے ہو کہ انہیں فلاں نے قتل کیا ہے۔ تاکہ تم اپنے ساتھی کی دیت یا قصاص لینے کے مستحق ہو جاؤ (یا فرمایا اپنے مقتول کی) انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! ہم نے دیکھا نہیں تو کیسے قسم کھالیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: پھر یہودی پچاس قسمیں کھا کر بری ہو جائیں گے۔ عرض کیا یا رسول اللہ! ہم کیسے کافر قوم کی قسموں کا اعتبار کر لیں۔ چنانچہ جب آپ ﷺ نے یہ معاملہ دیکھا تو اس کی دیت ادا کر دی۔

۱۲۸۱۔ حدثنا قتيبة ثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن ابى حشمة قال قال يحيى وحسبُ عن رافع بن خديج وسهل بن ابى حشمة انهما قالا قال خرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ بْنُ زَيْدٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ حَتَّى إِذَا كَانَ بِخَيْبَرَ تَفَرَّقَا فَبُعِضَ مَا هُنَاكَ ثُمَّ إِنَّ مُحَيِّصَةَ وَجَدَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيلًا فَقَتَلَ فَأَقْبَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَخُوَيْصَةَ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ ذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ قَبْلَ صَاحِبِهِ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبِيرُ الْكُبَرَى قَصَمْتَ وَتَكَلَّمْتَ صَاحِبَاهُ ثُمَّ تَكَلَّمْتَ مَعَهُمَا فَذَكَرُوا الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتَلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ فَقَالَ لَهُمْ اتَّخَلَفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا فَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ أَوْ قَاتِلَكُمْ قَالُوا كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ قَالَ فَتَبَرُّنَاكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا قَالُوا وَكَيْفَ نَقْبُلُ أَيْمَانَ قَوْمِ كُفَّارٍ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى عَقْلَهُ

علی بن خلال بھی زید بن ہارون سے وہ یحییٰ بن سعید سے وہ بشیر بن یسار سے وہ سہل بن ابی حمزہ اور رافع بن خدیج سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض فقہائے مدینہ قسامت میں قصاص کو بھی جائز قرار دیتے ہیں لیکن اہل کوفہ کے نزدیک قسامت میں صرف دیت ہی ہوتی ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حدود کے متعلق رسول اکرم ﷺ سے

منقول احادیث کے ابواب

باب ۹۴۷۔ جن پر حدود واجب نہیں ہوتی۔

۱۲۸۲۔ حضرت علیؑ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تین شخص شرع کے احکام کے مکلف نہیں۔ ۱۔ سوما ہوا شخص جب تک جاگ نہ جائے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَبْوَابُ الْحُدُودِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۹۴۷۔ مَا جَاءَ فِيمَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ

۱۲۸۲۔ حدثنا محمد بن يحيى القطعي ثنا بن عمرو ثنا همام عن قتادة عن الحسن البصري عن

عَلَيْهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ زُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَبْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشَبَّ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْفَلَ

۲: بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے۔ ۳: پاگل یہاں تک کہ اس کی عقل لوٹ آئے۔

اس باب میں حضرت عائشہؓ سے بھی حدیث منقول ہے حضرت علیؓ کی حدیث اس سند سے حسن غریب ہے اور انہی سے کئی سندوں سے منقول ہے بعض راوی اس میں یہ الفاظ نقل کرتے ہیں "وَعَنِ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ" یعنی لڑکے پر بالغ ہونے تک کوئی تکلیف نہیں۔ ہمیں علم نہیں کہ حسن نے علیؓ سے کچھ سنا ہو۔ یہ حدیث عطاء بن سائب سے بھی منقول ہے وہ ابوظبیاں سے اور وہ حضرت علیؓ سے اسی کے مثل مرفوعاً نقل کرتے ہیں پھر اعش بھی یہی حدیث ابوظبیاں سے وہ ابن عباسؓ سے اور وہ حضرت علیؓ سے نقل کرتے ہیں یہ موقوف ہے۔ بعض علماء اسی پر عمل کرتے ہیں۔ ابوظبیاں کا نام حصین بن جندب ہے۔

باب ۹۴۸۔ مَا جَاءَ فِي ذُرِّ الْحُدُودِ

باب ۹۴۸۔ حدود کو فروغ کرنے سے متعلق۔

۱۲۸۳۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ وَابُو عَمْرٍو الْبَصْرِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رِبْعَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الدَّمَشَقِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْرَأُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّ كَأَن لَّهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُحْطِيَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُحْطِيَ فِي الْعُقُوبَةِ

۱۲۸۳۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسلمانوں سے بقدر استطاعت حدود کو دور کرو۔ (یعنی جہاں تک ہو سکے) پھر اگر اس کی رہائی کی کوئی صورت نظر آئے تو اسے رہا کر دو کیونکہ امام کا معاف کرنے میں غلطی کرنا اس سے بہتر ہے کہ سزا دینے میں غلطی کرے۔

ہناد، وکیع سے وہ یزید بن زیاد سے اور وہ محمد بن ربیعہ سے اسی کے مثل نقل کرتے ہیں لیکن یہ غیر مرفوع ہے۔ اس باب میں ابو ہریرہؓ اور عبد اللہ بن عمروؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حضرت عائشہؓ کی حدیث کو ہم صرف محمد بن ربیعہ کی سند سے مرفوع جانتے ہیں۔ وہ یزید بن زیاد دمشقی سے نقل کرتے ہیں۔ وہ زہری سے وہ عروہ سے وہ حضرت عائشہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتی ہیں۔ پھر وکیع بھی یزید بن زیاد سے اسی طرح کی حدیث غیر مرفوعاً نقل کرتے ہیں اور یہ زیاد صحیح ہے۔ کئی صحابیوں سے اسی کے مثل منقول ہے۔ یزید بن زیاد دمشقی ضعیف ہیں۔ اور یزید بن ابوزیاد کوئی ان سے اجنب اور اقدم ہیں۔

باب ۹۴۹۔ مَا جَاءَ فِي السِّتْرِ عَلَى الْمُسْلِمِ

باب ۹۴۹۔ مسلمان کے عیوب کی پردہ پوشی۔

۱۲۸۴۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ ثَنَا ابُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنِ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنَ كُرْبِ الْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتْرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

۱۲۸۴۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کسی نے کسی مسلمان کی دنیا کی ایک مصیبت دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی مصیبت اس سے دور کر دیں گے اور جس نے مسلمان کی پردہ پوشی کی۔ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت میں پردہ پوشی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔

اس باب میں عقبہ بن عامر اور ابن عمرؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث کو کئی راوی اعمش سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ اعمش، ابوصالح سے وہ ابو ہریرہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے ابو عوانہ ہی کی حدیث کی طرح نقل کرتے ہیں۔ پھر اسباط بن محمد، اعمش سے وہ ابوصالح سے وہ ابو ہریرہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ ہم سے یہ حدیث عبید بن اسباط اپنے والد کے واسطے سے اعمش سے نقل کرتے ہیں۔

۱۲۸۵۔ حضرت سالم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسلمان، مسلمان کا بھائی ہے لہذا اسے چاہئے کہ وہ اس پر ظلم نہ کرے اور اسے ہلاکت میں نہ ڈالے جس نے اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کی اللہ اس کی حاجت پوری کریں گے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی کسی مصیبت کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت دور کر دیں گے۔ اسی طرح جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب کو پوشیدہ رکھیں گے۔

۱۲۸۵۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلِ بْنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

یہ حدیث ابن عمرؓ کی روایت سے حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۹۵۰۔ حدود میں تلقین سے متعلق۔

باب ۹۵۰۔ مَا جَاءَ فِي التَّلْقِينِ فِي الْحَدِّ

۱۲۸۶۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ماعز سے فرمایا: کیا تمہاری جوخیر ہم تک پہنچی ہے وہ صحیح ہے؟ عرض کیا: کیا؟ فرمایا: مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے فلاں قبیلے کی لڑکی کے ساتھ زنا کیا ہے۔ عرض کیا جی ہاں۔ پھر ماعز نے چار مرتبہ اقرار کیا اور آپ ﷺ نے ان کے رجم کا حکم دیا۔

۱۲۸۶۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَمَاقِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ أَحَقُّ مَا بَلَغْنِي عَنْكَ قَالَ مَا بَلَغَكَ عَنِّي قَالَ بَلَغْنِي أَنَّكَ وَقَعْتَ عَلَيَّ جَارِيَةَ الْفُلَانِ قَالَ نَعَمْ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ

اس باب میں سائب بن یزید بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ کی حدیث حسن ہے۔ شعبہ یہ حدیث سماک بن حرب سے اور وہ سعید بن جبیر سے مرسل نقل کرتے ہیں۔ ابن عباسؓ کا ذکر نہیں کرتے۔

باب ۹۵۱۔ اگر مقترف اپنے اقرار سے رجوع کر لے تو حد ساقط ہو جاتی ہے۔

باب ۹۵۱۔ مَا جَاءَ فِي دَرْءِ الْحَدِّ عَنِ الْمُعْتَرِفِ

۱۲۸۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ماعز اسلمی آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ انہوں نے زنا کیا ہے آپ ﷺ نے ان سے منہ پھیر لیا۔ وہ دوسری طرف سے حاضر ہوئے اور پھر عرض کیا کہ میں نے زنا کیا ہے۔ آپ ﷺ نے پھر منہ پھیر لیا۔ وہ پھر اس

۱۲۸۷۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ ثَنَا عَبْدِ بَنِ سَلِيمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ مَاعِزُ الْأَسْلَمِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ

مِنَ الشَّقِ الْأَخْرِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ مِنَ الشَّقِ الْأَخْرِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ زَنَى فَأَمَرِي بِهِ فِي الرَّابِعَةِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْحَرَّةِ فَرُجِمَ بِالْحِجَارَةِ فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ فَرِيشتَدُّ حَتَّى مَرَّ بِرَجُلٍ مَعَهُ لَحْيٌ جَمَلٍ فَضْرَبَهُ بِهِ وَضْرَبَهُ النَّاسُ حَتَّى مَاتَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَرَّ حَيْنٌ وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ وَمَسَّ الْمَوْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَّا تَرَ كُتْمُوهُ

طرف آئے اور اسی طرح عرض کیا پھر آپ ﷺ نے چوتھی مرتبہ ان کے رجم کا حکم دیا تو انہیں حرہ کے مقام کی طرف لے جایا گیا اور پتھروں سے سنگسار کرنا شروع کیا۔ جب پتھر لگے تو بھاگ کھڑے ہوئے یہاں تک کہ ایک شخص کے قریب پہنچے تو اس کے ہاتھ میں اونٹ کی داڑھی کی ہڈی تھی اس نے انہیں اس ہڈی سے مارا اور پھر لوگوں نے بھی مارا یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے۔ جب یہ قصہ آنحضرت ﷺ کے سامنے بیان کیا گیا کہ پتھر پڑتے اور موت کا مزہ چکھتے ہی، ماعز بھاگ کھڑے ہوئے تھے تو آپ ﷺ نے فرمایا: تم لوگوں نے انہیں چھوڑ کیوں نہیں دیا۔

یہ حدیث حسن ہے اور ابو ہریرہؓ سے کئی سندوں سے منقول ہے ابو سلمہ بھی یہ حدیث جابر بن عبد اللہؓ سے مرفوعاً اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ توضیح: آپ ﷺ کے اس فرمان سے معلوم ہوا کہ اگر معترف بھاگ جائے تو یہ اس کا رجوع سمجھا جائے گا اور اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن یہ صرف اقرار کرنے والے سے متعلق ہے۔ اگر کسی پر گواہی کے ذریعے تہمت ثابت ہوئی تو اسے نہیں چھوڑا جائے گا۔ (مترجم)

۱۲۸۸۔ حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله ان رجلاً من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع شهادات فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون قال لا قال أحصنت قال نعم فأمر به فرجم في المصلى فلما أذلقته الحجارة فرأى فأدرك فرجم حتى مات فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيراً ولم يصل عليه

۱۲۸۸۔ حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص قبیلہ بنی اسلم کا آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور زنا کا اعتراف کیا۔ آپ ﷺ نے اس سے منہ پھیر لیا۔ یہاں تک کہ اس نے چار مرتبہ اقرار کیا پھر آپ ﷺ نے اس سے پوچھا کیا تم پاگل ہو؟ عرض کیا: نہیں۔ فرمایا: کیا تم شادی شدہ ہو؟ عرض کیا: جی ہاں۔ پھر آپ ﷺ نے حکم دیا اور اسے عید گاہ میں سنگسار کیا گیا لیکن جب اسے پتھر لگے تو بھاگ کھڑا ہوا اور پھر لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور سنگسار کر دیا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو آپ ﷺ نے اس کے حق میں کلمہ خیر فرمایا: لیکن نماز جنازہ نہیں پڑھی۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض علماء اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اقرار کرنے والے کے لیے چار اقرار کرنا ضروری ہے۔ پھر اس پر حد جاری کی جائے۔ احمد اور اسحاق بھی اس کے قائل ہیں۔ بعض علماء کا مسلک یہ ہے کہ ایک مرتبہ اقرار کرنے پر ہی حد جاری کر دی جائے۔ مالک اور شافعی کا بھی یہی قول ہے۔ انہی کی دلیل حضرت ابو ہریرہؓ اور زید بن خالد کی حدیث ہے کہ وہ شخص آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک نے عرض کیا کہ میرے بیٹے نے اس کی بیوی سے زنا کیا ہے یہ حدیث طویل ہے پھر آپ ﷺ نے حضرت انیسؓ کو حکم دیا کہ صبح اس کی بیوی کے پاس جاؤ اگر وہ اقرار کر لے تو اسے سنگسار کر دو۔ چنانچہ آپ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر چار بار اقرار کرے تو سنگسار کرنا۔

باب ۹۵۲۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُشْفَعَ فِي الْحَدِّ

۱۲۸۹۔ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّتْهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَحْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَشْفَعُ فِي حَدِّ مَنْ حُدِّدَ اللَّهُ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَ أَيْمَ اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَفَطَعْتُ يَدَهَا

باب ۹۵۲۔ حدود میں سفارش کی ممانعت

۱۲۸۹۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ قریش قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت کے چوری کرنے پر رنجیدہ ہوئے اور کہنے لگے: کون رسول اللہ ﷺ سے اس کی سفارش کر سکتا ہے؟ کہا گیا کہ اسامہ بن زید کے علاوہ کوئی اس کی جرات نہیں کر سکتا۔ آنحضرت ﷺ سے بات کی تو آپ ﷺ نے فرمایا: تم اللہ کی حدود میں سفارش کرتے ہو۔ پھر کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا اس میں فرمایا: تم لوگوں سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے کہ اگر ان میں سے کوئی شریف چوری کرتا تو اسے معاف کر دیا جاتا اور اگر کوئی ضعیف چوری کرتا تو اس پر حد جاری کر دی جاتی۔ اللہ رب العزت کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔

اس باب میں مسعود بن عجماء بھی حدیث نقل کرتے ہیں انہیں ابن اعمم بھی کہتے ہیں۔ پھر ابن عمرؓ اور جابرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حضرت عائشہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۹۵۳۔ مَا جَاءَ فِي تَحْفِيفِ الرَّجْمِ

۱۲۹۰۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عْتَبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ وَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَ كَانَ فِيهَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ رَجَمْنَا بَعْدَهُ وَ إِنِّي خَائِفٌ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ فَيَقُولَ قَائِلٌ لَا نَحْدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيُضَلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةِ أَنْزَلَهَا اللَّهُ الْآ وَ إِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَيَّ مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصِنَ وَ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ حَمْلٌ أَوْ الْأَعْتِرَافُ

باب ۹۵۳۔ رجم کی تحقیق۔

۱۲۹۰۔ حضرت عمر بن خطابؓ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کو حق کے ساتھ بھیجا اور آپ ﷺ پر کتاب نازل فرمائی اس کتاب میں رجم کی آیت بھی تھی۔ پھر آپ ﷺ نے رجم کیا اور ہم نے بھی آپ ﷺ کے بعد ایسا ہی کیا۔ مجھے ڈر ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کوئی یہ نہ کہنے لگے کہ قرآن مجید میں رجم کا ذکر نہیں اور وہ لوگ ایک فرض چیز کو چھوڑ دینے کی وجہ سے گمراہ نہ ہو جائیں جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ جان لو کہ اگر کوئی شخص شادی شدہ ہو اور زنا کرے تو اس پر رجم کی حد جاری کرنا ضروری ہے۔ بشرطیکہ گواہ موجود ہوں یا وہ خود اعتراف کرے یا حمل کی صورت میں ظاہر ہو۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۲۹۱۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا اسْحَقُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْرَقِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

۱۲۹۱۔ حضرت عمر بن خطابؓ نے فرمایا: آنحضرت ﷺ نے رجم کیا پھر ان کے بعد ابو بکرؓ نے رجم کیا اور ان کے بعد میں نے رجم کیا۔ اور اگر میں قرآن میں زیادتی کو مکر وہ نہ سمجھتا ہوتا تو مصحف میں لکھوادیتا۔ اس

لیے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ بعد میں کچھ ایسے لوگ نہ آجائیں جو رجم کو قرآن کریم میں نہ پا کر اس کا انکار نہ کر دیں۔

وَسَلَّمَ وَرَجَمَ أَبُو بَكْرٍ وَرَجِمَتْ وَلَوْ لَا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَزِيدَ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَكَبَيْتُهُ فِي الْمُصْحَفِ فَإِنِّي قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَجِيءَ أَقْوَامٌ فَلَا يَجِدُونَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَكْفُرُونَ بِهِ

اس باب میں حضرت علیؓ بھی حدیث نقل کرتے ہیں حضرت عمرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور انہی سے کئی سندوں سے منقول ہے۔

باب ۹۵۴۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجْمِ عَلَى النَّبِيِّ

باب ۹۵۴۔ رجم صرف شادی شدہ پر ہے

۱۲۹۲۔ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا ثَابِتُ بْنُ سَفِيَانَ بْنِ عَيِّنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فَمَامَ إِلَيْهِ أَحَدُهُمَا فَقَالَ أَنشُدْكَ اللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَقْفَهُ مِنْهُ أَجَلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَذَنْ لِي فَاتَكَلَّمْ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَيَّ هَذَا فَرَزَنِي بِأَمْرَاتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلِيَّ ابْنَ الرَّجْمِ فَقَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ ثُمَّ لَقَيْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَرَعَمُوا أَنَّ عَلِيَّ ابْنِي جِلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ مِائَةَ شَاةٍ وَالْخَادِمِ رَدًّا عَلَيْكَ. وَعَلَى ابْنِكَ جِلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَأَعْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمَهَا فَعَلَى عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَارْجَمَهَا

۱۲۹۲۔ حدیثنا نصر بن علی وغیر واحد قالوا ثابت بن سفیان بن عیینة عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله سمعته من أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان فمام إليه أحدهما فقال أنشدك الله يا رسول الله لِمَا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَقْفَهُ مِنْهُ أَجَلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَذَنْ لِي فَاتَكَلَّمْ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَيَّ هَذَا فَرَزَنِي بِأَمْرَاتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلِيَّ ابْنَ الرَّجْمِ فَقَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ ثُمَّ لَقَيْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَرَعَمُوا أَنَّ عَلِيَّ ابْنِي جِلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ مِائَةَ شَاةٍ وَالْخَادِمِ رَدًّا عَلَيْكَ. وَعَلَى ابْنِكَ جِلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَأَعْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمَهَا فَعَلَى عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَارْجَمَهَا

۱۲۹۲۔ حضرت عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہؓ، زید بن خالدؓ اور شبلیؓ سے سنا کہ وہ آنحضرت ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ دو شخص جھگڑا کرتے ہوئے حاضر خدمت ہوئے ان میں سے ایک آپ ﷺ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور عرض کیا: میں آپ ﷺ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ ﷺ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ فرمائیں اس پر اس کا حریف بھی بول اٹھا جو اس سے زیادہ سمجھ دار تھا کہ جی ہاں یا رسول اللہ! ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرمائیے اور مجھے اجازت دیجئے کہ میں عرض کروں میرا بیٹا اس کے پاس مزدوری کرتا تھا اس نے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کر لیا۔ مجھے بتایا گیا کہ میرے بیٹے پر رجم ہے تو میں نے سو بکریاں فدیے کے طور پر دیں اور ایک غلام آزاد کیا۔ پھر میری چند علماء سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے پر سو کوڑے اور ایک سال جلا وطنی کی سزا ہے اور اس کی بیوی پر رجم ہے۔ آپ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق ہی فیصلہ کروں گا۔ وہ سو بکریاں اور غلام واپس لے لو۔ تمہارے بیٹے پر سو کوڑے اور ایک سال جلا وطنی کا حکم لاگو ہوگا۔ اور اے انیس کل صبح اس کی بیوی کے پاس جاؤ۔ اگر وہ اقرار کر لے تو اسے رجم کر دو۔ وہ دوسرے دن گئے تو اس نے اعتراف کر لیا اس پر انہوں نے اسے سنگسار کیا۔

اسحق بن موسیٰ انصاری بھی معن سے وہ مالک سے وہ ابن شہاب سے وہ عبید اللہ بن عبد اللہ سے اور وہ حضرت ابو ہریرہؓ اور زید بن خالد جہنی سے مرفوعاً اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ تنبیہ بھی لیٹ سے اور وہ ابن شہاب سے اسی سند سے مالک کی حدیث کے مثل نقل کرتے ہیں۔ اس باب میں ابو بکرؓ، عبادہ بن صامتؓ، ابو ہریرہؓ، ابوسعیدؓ، ابن عباسؓ، جابر بن سمرہؓ، ہزالؓ، بریدہؓ، سلمہ بن محبتؓ، ابو ہریرہؓ اور عمران بن حصینؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ اور زید بن خالد کی حدیث حسن صحیح ہے۔ مالک بن انسؓ، معمر اور کئی راوی بھی یہ حدیث زہری سے وہ عبید اللہ بن عبد اللہ سے وہ ابو ہریرہؓ اور زید بن خالد سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی طرح یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ اسی سند سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: کہ اگر باندی زنا کرے تو اسے سو کوڑے مارو اگر چار مرتبہ زنا کرے تو چوتھی مرتبہ اسے

بیچ ڈالو خواہ بالوں کی رسی کے عوض ہی بیچو۔ سفیان بن عیینہ بھی زہری سے وہ عبید اللہ سے اور وہ حضرت ابو ہریرہؓ، زید بن خالد اور شبلؓ سے نقل کرتے ہیں کہ ہم آنحضرت ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ..... الخ ابن عیینہ نے دونوں حدیثیں ان تینوں حضرات سے نقل کی ہیں اور اس میں وہم ہے اور وہ یہ کہ سفیان بن عیینہ نے ایک حدیث کے الفاظ دوسری میں داخل کر دیئے ہیں۔ صحیح حدیث وہی ہے جو زبیدی یونس بن زید اور زہری کے بیچتے ان سے، وہ عبید اللہ سے وہ ابو ہریرہؓ اور زید بن خالدؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ اگر باندی زنا کرے تو..... الخ زہری جو حدیث عبید اللہ سے وہ شبل بن خالد سے وہ عبید اللہ بن مالک اوسی سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ کہ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی باندی زنا کرے تو..... الخ یہ حدیث محدثین کے نزدیک صحیح ہے۔ شبل بن خالد صحابی نہیں ہیں۔ وہ عبید اللہ بن مالک اوسی کے واسطے سے آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ ابن عیینہ کی حدیث غیر محفوظ ہے ان سے منقول ہے کہ فرمایا: شبل بن حامد جب کہ صحیح شبل بن خالد صحابی نہیں ہیں۔ وہ عبید اللہ بن مالک اوسی کے واسطے سے آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ ابن عیینہ کی حدیث غیر محفوظ ہے ان سے منقول ہے کہ فرمایا: شبل بن حامد جب کہ صحیح شبل بن خالد ہے انہیں شبل بن خلید بھی کہا جاتا ہے۔

۱۲۹۳۔ حدثنا قتيبة ثنا هشيم عن منصور بن زاذان عن الحسن بن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة ثم الرحم ونفي سنة

۱۲۹۳۔ حضرت عباده بن صامتؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھ سے یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے لیے راستہ نکال دیا ہے۔ چنانچہ اگر زانی شادی شدہ ہوں تو انہیں سو کوڑے مارنے کے بعد سنگسار کر دیا جائے اور اگر غیر شادی شدہ ہوں تو سو کوڑے اور ایک سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا۔

یہ حدیث صحیح ہے۔ بعض علماء صحابہ اسی پر عمل پیرا ہیں۔ علی بن ابی طالبؓ، ابی بن کعبؓ اور عبید اللہ بن مسعودؓ بھی انہی میں شامل ہیں ان کا کہنا ہے کہ حصن (شادی شدہ) کو پہلے کوڑے مارے جائیں پھر سنگسار کیا جائے۔ بعض علماء اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ جب کہ بعض علماء صحابہ، ابو بکرؓ اور عمرؓ وغیرہ کا مسلک یہ ہے کہ حصن کو صرف سنگسار کیا جائے کوڑے نہ مارے جائیں کیونکہ آپ ﷺ سے کئی احادیث میں منقول ہے کہ صرف رجم کا حکم دیا کوڑے مارنے کا حکم نہ دیا جیسے کہ معاذ کا قصہ وغیرہ۔ بعض علماء شافعی، ثوری، ابن مبارک اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

باب ۹۵۵۔ اسی سے متعلق۔

باب ۹۵۵۔ مِنْهُ

۱۲۹۴۔ حضرت عمران بن حصینؓ فرماتے ہیں کہ ایک جہنی عورت نے آنحضرت ﷺ کے سامنے زنا کا اعتراف کیا اور بتایا کہ وہ حمل سے ہے آپ ﷺ نے اس کے ولی کو بلایا اور حکم دیا کہ اسے اچھی طرح رکھو اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر آپ ﷺ نے حکم دیا تو اس کے کپڑے اس کے بدن کے ساتھ باندھ دیئے گئے (تاکہ بے پردگی نہ ہو) اور آپ ﷺ نے اسے سنگسار کرنے کا حکم دیا اس طرح اسے رجم کیا گیا پھر آپ نے اسے رجم کیا اور پھر اس پر نماز بھی پڑھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اہل

۱۲۹۴۔ حدثنا الحسن بن علي ثنا عبدالرزاق ثنا معمر عن يحيى بن ابي كثير عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن عمران بن حصين ان امرأة من جهينة اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا وقالت انا حبلتي فدعى النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال احسن اليها فاذا وضعت حملها فاخبرني ففعل فامر بها فشدت عليها ثيابها ثم امر برجمها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر بن

الْحَطَّابِ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَحِمْتَهَا ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ  
لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قَسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ  
الْمَدِينَةِ وَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَحَدَّثَ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْ أَنْ  
حَادَثَ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ

مدینہ میں ستر اشخاص پر تقسیم کر دی جائے تو ان کیلئے بھی کافی ہے پھر کیا  
اس سے بہتر بھی کوئی چیز تمہاری نظر میں ہے کہ اس نے اپنی جان اللہ  
کیلئے خرچ کر دی۔

یہ حدیث صحیح ہے جمہور علماء کا یہی مسلک ہے کہ رجم کیے جانے والے پر نماز جنازہ پڑھی جائے۔

باب ۹۵۶۔ اہل کتاب کے رجم سے متعلق۔

باب ۹۵۶۔ مَا جَاءَ فِي رَجْمِ أَهْلِ الْكِتَابِ

۱۲۹۵۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک یہودی  
اور یہودیہ کو رجم کیا۔

۱۲۹۵۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْانْصَارِيُّ ثَنَا  
مَعْنُ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنْسَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ  
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً

اس حدیث میں ایک قصہ ہے اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ہناد، شریک سے وہ سماک بن حرب سے اور وہ جابر بن سمرہ سے نقل کرتے  
ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ایک یہودی مرد اور عورت کو رجم کیا۔ اس باب میں عمر، جابر، براء، ابن ابی اوفی، عبداللہ بن حارث بن جزاء اور  
ابن عباس سے بھی احادیث منقول ہیں۔ ان احادیث میں سے جابر کی حدیث ان کی سند سے حسن غریب ہے۔ اکثر علماء اسی پر عمل کرتے  
ہوئے کہتے ہیں کہ اگر یہود و نصاریٰ اپنے مقدمات مسلمانوں کی عدالتوں میں دائر کریں تو ان کا فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق کیا جائے۔  
احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں جب کہ بعض کے نزدیک ان پر زنا کی حد قائم نہ کی جائے۔ لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔

باب ۹۵۷۔ زانی کی جلا وطنی سے متعلق۔

باب ۹۵۷۔ مَا جَاءَ فِي النَّفْيِ

۱۲۹۶۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کوڑے بھی  
مارے اور جلا وطن بھی کیا اسی طرح ابو بکر و عمر نے بھی کوڑے اور جلا وطنی  
کی سزا دی۔

۱۲۹۶۔ حَدَّثَنَا ابُو كَرِيْبٍ وَيَحْيَى ابْنِ اَكْثَمٍ قَالَا ثَنَا  
عَبْدُ اللَّهِ بن ادریس عن عبید اللہ عن نافع عن ابن  
عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وعرب و  
ان ابا بكر ضرب وعرب و ان عمر ضرب وعرب

اس باب میں ابو ہریرہ، زید بن خالد اور عبادہ بن صامت بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ ابن عمر کی حدیث غریب ہے اسے کئی راوی  
عبداللہ بن ادریس سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔ بعض راوی یہ حدیث عبداللہ بن ادریس سے وہ عبید اللہ سے وہ نافع سے اور وہ ابن عمر سے  
نقل کرتے ہیں کہ ابو بکر نے غیر شادی شدہ زانی کو سو کوڑے مارے اور جلا وطن کیا۔ اسی طرح عمر نے بھی ایسے ہی کیا۔ ہم سے یہ حدیث  
ابو سعید اشج نے بحوالہ عبداللہ بن ادریس نقل کی ہے۔ پھر یہ حدیث ان کے علاوہ بھی اسی طرح منقول ہے محمد بن اسحاق بھی نافع سے اور وہ  
ابن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ ابو بکر نے کوڑے بھی مارے اور جلا وطن بھی کیا۔ عمر نے بھی کوڑے اور جلا وطنی کی سزا ایک ساتھ دی لیکن اس  
میں آنحضرت ﷺ کے کوڑے مارنے اور جلا وطن کرنے کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن یہ آنحضرت ﷺ سے ثابت ہے۔ اسے ابو ہریرہ، زید بن خالد  
اور عبادہ بن صامت نقل کرتے ہیں۔ علماء صحابہ، ابو بکر، عمر، علی، ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود اور ابو ذر وغیرہ اسی پر عمل کرتے ہیں۔ کئی  
فقہاء تابعین، سفیان ثوری، مالک، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

باب ۹۵۸۔ حدود جن پر جاری کی جائیں ان کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں۔

باب ۹۵۸۔ مَا جَاءَ أَنَّ الْحُدُودَ كَفَّارَةٌ لِأَهْلِهَا

۱۲۹۷۔ حضرت عبادہ بن صامتؓ کہتے ہیں کہ ہم حضور اکرم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ فرمایا: مجھ سے بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کر دو گے، زنا نہیں کرو گے پھر اسی سے متعلق آیت پڑھی اور فرمایا: جس نے اپنے اس عہد کو پورا کیا اس کا اجر اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اور جو اس میں سے کسی گناہ کا مرتکب ہو اور اسے سزا دے دی گئی تو یہ اس کے لیے کفارے کی طرح ہوگا۔ اور اگر کوئی ایسے گناہ کا مرتکب ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو پوشیدہ رکھا تو وہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو معاف کر دے۔

اس باب میں علی، جریر بن عبد اللہ اور خزیمہ بن ثابت بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامتؓ کی حدیث حسن صحیح ہے امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث سے بہتر اس باب میں کوئی حدیث نہیں دیکھی۔ کہ حدود اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں مزید کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو پوشیدہ رکھے تو اسے خود بھی چاہئے کہ وہ اسے ظاہر نہ کرے بلکہ اللہ سے توبہ کرے اس طرح کہ اس کے اور رب ہی کے درمیان ہو۔ ابو بکرؓ و عمرؓ سے بھی اسی طرح منقول ہے کہ اپنے عیب چھپائے جائیں۔

باب ۹۵۹۔ باندیوں پر حدود قائم کرنا۔

۱۲۹۸۔ حضرت عبد الرحمن سلمیٰ کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: اے لوگو! اپنے غلاموں وغیرہ پر حدود جاری کرو خواہ وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ۔ ایک مرتبہ حضور ﷺ کی ایک باندی نے زنا کیا تو مجھے حکم دیا کہ اسے کوڑے ماروں جب میں اس کے پاس گیا تو پتہ چلا کہ اسے ابھی نفاس کا خون آیا ہے۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ میں اسے کوڑے ماروں تو یہ مر جائے یا فرمایا کہ میں قتل نہ کروں۔ میں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتایا تو فرمایا: تم نے اچھا کیا۔

۱۲۹۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم میں سے کسی کی باندی زنا کرے تو وہ اسے تین مرتبہ اللہ کی کتاب کے مطابق کوڑے مارے اور اگر چوتھی مرتبہ پھر زنا کرے تو اسے سچ دے خواہ بالوں کی ایک رسی کے عوض بیچے۔

۱۲۹۷۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ سَفِيَّانَ بْنِ عَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابِي اَدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَبَايَعُونِي عَلَيَّ اَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللّٰهِ وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا فَرَأَعَلَيْهِمْ الْاَيَةَ فَمَنْ وَفِيَ مِنْكُمْ فَاجْرُهُ عَلَيَّ وَاللّٰهُ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهِ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتْرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَهُوَ اِلَيَّ اللهُ اِنْ شَاءَ عَذْبَةٌ وَاِنْ شَاءَ غَفْرَةٌ

باب ۹۵۹۔ مَا جَاءَ فِيْ اِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيَّ الْاِمَاءِ

۱۲۹۸۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ثنا زَائِدَةُ عَنِ السَّدِيِّ عَنِ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ خَطَبَ عَلِيُّ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَيَّ إِرْقَائِكُمْ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ وَإِنْ أَمَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَنَتْ فَأَمْرِي أَنْ أُجْلِدَهَا فَاتَيْتُهَا فَإِذَا هِيَ حَدِيثَةٌ عَهْدٌ بِنَفْسٍ فَخَشِيْتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا أَوْ قَالَ تَمُوتُ فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَحْسَنْتَ

یہ حدیث صحیح ہے۔

۱۲۹۹۔ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجَعِيُّ ثنا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِيُّ ثنا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَنَّتْ أَمَةٌ أَحَدِكُمْ فَلْيُجْلِدْهَا ثَلَاثًا بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ عَادَ فَلْيَبْعُهَا

وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعْرٍ

اس باب زید بن خالد اور شبل بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ شبل، عبداللہ بن مالک اسی سے نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے اور انہی سے کئی سندوں سے منقول ہے۔ بعض علماء صحابہ وغیرہ اسی پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنے غلام یا باندی پر حد جاری کرنے کے لیے حاکم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے جب کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اسے حاکم کے سپرد کر دے خود حد نہ مارے لیکن پہلا قول صحیح ہے۔

باب ۹۶۰۔ مَا جَاءَ فِي حَدِّ السُّكْرَانِ

۱۳۰۰۔ حَدَّثَنَا سَفِيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ ثَنَا أَبِي عَنْ مَسْعَرٍ عَنْ زَيْدِ الْعَمِيِّ عَنْ أَبِي الصَّدِّيقِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ الْحَدَّ بِنَعْلَيْهِ ارْبَعِينَ قَالَ مَسْعَرٌ أَظُنُّهُ فِي الْخَمْرِ

اس باب میں علیؓ، عبدالرحمن بن ازہر، ابو ہریرہ، سائب بن عباس اور عقبہ بن حارث سے بھی احادیث منقول ہیں حضرت ابوسعید کی حدیث حسن ہے اور ابوصدیق ناجی کا نام بکر بن عمرو ہے۔

۱۳۰۱۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَضْرَبَهُ بِحَرِيذَتَيْنِ نَحْوِ الْأَرْبَعِينَ وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ كَأَخْفِ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر علماء صحابہ وغیرہ کا عمل ہے کہ نشہ کرنے والے کی حد اسی کوڑے ہے۔

باب ۹۶۱۔ مَا جَاءَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ

۱۳۰۲۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ

اس باب میں ابو ہریرہ، شریذ، شریذ بن اوس، جریر، ابورمد بلوی اور عبداللہ بن عمر بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث ثوری بھی عاصم سے وہ ابوصالح سے وہ معاویہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ ابن جریر اور معمر بھی سمیل بن ابوصالح سے وہ اپنے والد سے وہ ابو ہریرہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں امام بخاری کے نزدیک ابوصالح کی معاویہ کے حوالے سے منقول

باب ۹۶۰۔ نشہ کرنے پر حد جاری کرنا۔

۱۳۰۰۔ حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے چالیس جوتے مارنے کی حد مقرر کی۔ مسعر کہتے ہیں: میرا خیال ہے کہ وہ شراب پر تھی۔

۱۳۰۱۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے پاس ایک شخص کو لایا گیا اس نے شراب پی لی تھی۔ تو آپ ﷺ نے اسے کھجور کی دو چھڑیاں چالیس کے قریب ماریں۔ ابو بکرؓ نے بھی اسی پر عمل کیا۔ پھر حضرت عمرؓ نے لوگوں سے مشورہ کیا تو عبدالرحمن بن عوفؓ نے فرمایا: سب سے بلکنی حد اسی کوڑے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے اسی کا حکم دے دیا۔

باب ۹۶۱۔ اگر کوئی شراب پیئے تو اسے کوڑے مارو اور اگر چار مرتبہ ایسا ہی کرے تو اسے قتل کر دو۔

۱۳۰۲۔ حضرت معاویہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی شخص شراب پیئے تو اسے کوڑے مارو اور اگر چوتھی مرتبہ بھی پیئے تو اسے قتل کر دو۔

حدیث بواسطہ ابو ہریرہ منقول حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ یہ حکم اسلام کے ابتدائی زمانے میں تھا پھر منسوخ ہو گیا محمد بن اسحاق بھی ابن منکدر سے وہ جابر بن عبد اللہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: جو شخص شراب پئے اسے کوڑے مارو اور چوتھی مرتبہ اسے قتل کر دو۔ جابر کہتے ہیں کہ پھر ایک شخص کو آپ ﷺ کے پاس لایا گیا جس نے چوتھی مرتبہ شراب پی تھی تو آپ ﷺ نے اسے کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ قتل نہیں کیا۔ زہری بھی قبیصہ بن ذویب سے اور وہ حضور ﷺ سے اسی طرح نقل کرتے ہیں یعنی اس طرح قتل کا حکم اٹھایا گیا جس کی پہلے اجازت تھی۔

تمام علماء اس مسئلے میں متفق ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ اس مذہب کی تائید یہ حدیث بھی کرتی ہے کہ ”کسی مسلمان کا خون تین چیزوں کے علاوہ حلال نہیں۔ بشرطیکہ وہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ تین چیزیں یہ ہیں۔ قصاص، شادی شدہ زانی اور مرتد۔“

باب ۹۶۲۔ مَا جَاءَ فِي كَيْفِ يَفْطَعُ السَّارِقُ  
۱۳۰۳۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ ثَنَا سَفِيَانُ بْنُ عَيِّنَةَ  
عن الزهري اخبرته عُمَرَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

باب ۹۶۲۔ کتنی قیمت کی چیز چوری کرنے پر ہاتھ کاٹا جائے۔

۱۳۰۳۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ کے عوض ہاتھ کاٹا کرتے تھے۔

یہ حدیث حسن ہے اور عمرو سے کئی سندوں سے منقول ہے وہ اسے بعض مرتبہ حضرت عائشہ سے مروفا اور بعض مرتبہ موثقا نقل کرتے ہیں۔

۱۳۰۴۔ حَدَّثَنَا قَبِيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي  
عُمَرَ قَالَ فَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي  
مَحَنٍ فَيَمْتُهُ ثَلَاثَةَ دِرَاهِمٍ

۱۳۰۴۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کا ہاتھ ایک ڈھال چرانے کے جرم میں کاٹا جس کی قیمت تین درہم تھی۔

اس باب میں سعد، عبد اللہ بن عمر، ابن عباس، ابو ہریرہ اور ام ایمن سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حضرت ابن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اور اسی پر بعض علماء صحابہ وغیرہ کا عمل ہے۔ ابو بکر صدیقؓ نے پانچ درہم کی چوری پر ہاتھ کاٹا۔ ابو ہریرہؓ اور ابو سعیدؓ سے بھی منقول ہے کہ پانچ درہم کے عوض ہاتھ کاٹا جائے۔ بعض فقہاء تابعین، مالک، شافعی، احمد اور اسحاق بھی کہتے ہیں کہ چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ کی چیز چوری کرنے پر ہاتھ کاٹا جائے لیکن ابن مسعودؓ سے منقول ہے کہ ایک دینار یا دس درہم سے کم کی چیز میں ہاتھ کاٹا جائے۔ یہ حدیث مرسل ہے اسے قاسم بن عبد الرحمن ابن مسعودؓ سے نقل کرتے ہیں۔ لیکن قاسم کا ابن مسعودؓ سے سماع نہیں۔ بعض علماء، سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا بھی یہی قول ہے۔

باب ۹۶۳۔ چور کا ہاتھ کاٹ کر گلے میں لٹکانا۔

۱۳۰۵۔ حضرت عبد الرحمن بن عیمر یہ کہتے ہیں کہ میں نے فضالہ بن عبید سے چور کی گردن میں ہاتھ لٹکانے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ رسول اکرم ﷺ کے پاس ایک چور کو لایا گیا۔ اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ آپ ﷺ نے حکم دیا کہ یہ ہاتھ اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے۔

باب ۹۶۳۔ مَا جَاءَ فِي تَعْلِيْقِ يَدِ السَّارِقِ

۱۳۰۵۔ حَدَّثَنَا قَبِيْبَةُ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَقْدُمِيُّ ثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُخَيَّرٍ قَالَ سَأَلْتُ فَضَالَهَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ تَعْلِيْقِ الْيَدِ فِي عُنُقِ السَّارِقِ أَمِنْ السُّنَّةِ هُوَ قَالَ أَمِنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ فَقَطَعَتْ يَدُهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَعُلِقَتْ

فِي عُنُقِهِ

یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے صرف عمر بن علی مقدمی کی حدیث سے ہی پہچانتے ہیں۔ وہ حجاج بن ارطاة سے نقل کرتے ہیں۔  
عبدالرحمن بن محرز، عبداللہ بن محرز شامی کے بھائی ہیں۔

باب ۹۶۴۔ مَا جَاءَ فِي الْخَائِنِ وَالْمُخْتَلِسِ وَالْمُنْتَهَبِ  
باب ۹۶۳۔ خَائِنٌ، اِطْعَمَ اَوْرُذَاكُو كَ مَتَلَقٍ۔  
۱۳۰۶۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ  
عَنْ ابْنِ جَرِيحٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا  
مُنْتَهَبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ

یہ حدیث حسن صحیح ہے بعض علماء اسی پر عمل کرتے ہیں۔ مغیرہ بن مسلم، ابو زبیر سے وہ جابر سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے ابن جریج ہی کی حدیث کی طرح نقل کرتے ہیں۔ مغیرہ بن مسلم بصری، علی بن مدینی کے قول کے مطابق عبدالعزیز ثمالی کے بھائی ہیں۔

باب ۹۶۵۔ مَا جَاءَ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ  
باب ۹۶۵۔ پھلوں اور کھجور کے خوشوں کی وجہ سے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔  
۱۳۰۷۔ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ  
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ  
حَبَانَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ

بعض راوی یحییٰ بن سعید سے وہ محمد بن حبان سے وہ اپنے چچا واسع بن حبان سے وہ رافع سے اور وہ حضور ﷺ سے اسی حدیث کے مثل نقل کرتے ہیں۔ مالک اور کئی راوی بھی یہ حدیث یحییٰ بن سعید سے وہ محمد بن یحییٰ بن حبان سے وہ رافع بن خدیج سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں اور اس میں واسع بن حبان کا ذکر نہیں کرتے۔

باب ۹۶۶۔ مَا جَاءَ أَنْ لَا يُقَطَّعَ الْأَيْدِيُّ فِي الْغَزْوِ  
باب ۹۶۶۔ جہاد کے دوران چور کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔  
۱۳۰۸۔ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ ثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ عِيَّاشِ بْنِ  
عَبَّاسٍ عَنْ شَيْمِ بْنِ بِنِيَانٍ عَنْ حَنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ  
بُسَيْرِ بْنِ أَبِي رِطَابَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُقَطَّعُ الْأَيْدِيُّ فِي الْغَزْوِ

یہ حدیث غریب ہے اسے ابن لہیعہ کے علاوہ اور راوی بھی اسی سند سے نقل کرتے ہیں۔ لیکن وہ بشر بن ارطاة بھی کہتے ہیں۔ بعض علماء اور اوزاعی اسی پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دشمن سے مقابلے کے وقت حدود قائم نہ کی جائیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ دشمن کے ساتھ جاٹے۔ ہاں جب دارالحراب سے دارالاسلام واپس آئیں تو جس پر حد جاری کرنی ہو جاری کریں۔

باب ۹۶۷۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَفْعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ  
باب ۹۶۷۔ جو شخص اپنی بیوی کی باندی سے زنا کرے۔

۱۳۰۹۔ حدثنا علي بن حجر ثنا هشيم بن سعيد بن ابي عروبة وايوب بن مسكين عن قتادة عن حبيب بن سليم قال رفع الي النعمان ابن بشير رجل وقع على حارية امرأته فقال لأفضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن كانت أحتلتها له لا جلدته مائة وإن لم تكن أحتلتها له رحمته

۱۳۰۹۔ حبیب بن سالم کہتے ہیں کہ نعمان بن بشیر کے سامنے ایک شخص کو پیش کیا گیا جس نے اپنی بیوی کی باندی سے زنا کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا: میں تمہارے درمیان آنحضرت ﷺ کے فیصلے کے مطابق فیصد کروں گا اگر اس کی بیوی نے اس کے لیے یہ باندی حلال کر دی تھی تو اسے سو کوڑے مارے جائیں اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو اس کو رجم (سنگسار) کیا جائے۔

علی بن حجر، بشیم سے وہ ابو بشر سے وہ حبیب بن سالم سے اور وہ نعمان بن بشیر سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ اس باب میں سلمہ بن محقق سے بھی حدیث منقول ہے۔ نعمان کی حدیث میں اضطراب ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ قتادہ اور ابو بشر دونوں نے یہ حدیث حبیب بن سالم سے نہیں سنی بلکہ خالد بن عرفطہ سے سنی ہے۔ علماء کا ایسے شخص کے حکم میں اختلاف ہے جو اپنی بیوی کی باندی سے صحبت کرے۔ کئی صحابہ علیؑ اور ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ اسے رجم کیا جائے۔ لیکن ابن مسعودؓ کے نزدیک اس پر حد نہیں تعزیر ہے۔ احمد اور اسحاق کا عمل نعمان بن بشیر کی حدیث پر ہے۔

باب ۹۶۸۔ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا اسْتَكْرَهَتْ عَلَى الزَّانَا

۱۳۱۰۔ حدثنا علي بن حجر ثنا معمر بن سلمان الرقي عن الحجاج بن أوطاة عن عبد الجبار بن وإيل بن حجر عن أبيه قال استكرهت امرأة علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهراً

باب ۹۶۸۔ اگر کسی عورت سے زنا بالجبر کیا جائے۔

۱۳۱۰۔ عبد الجبار بن وائل بن حجر اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضور ﷺ کے زمانے میں ایک عورت کے ساتھ زبردستی زنا کیا گیا۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اس سے حد رفع کر دی اور اس شخص پر جاری کی جس نے اس سے زنا کیا تھا۔ راوی نے ذکر نہیں کیا کہ آپ ﷺ نے اس کے لیے مہر وغیرہ مقرر کیا ہو۔

یہ حدیث غریب ہے اس کی سند متصل نہیں۔ لیکن اور سند سے بھی منقول ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ عبد الجبار نے نہ اپنے والد سے ملاقات کی ہے اور نہ ہی ان سے کچھ سنا ہے بلکہ بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ اپنے والد کی وفات کے کئی ماہ بعد پیدا ہوئے۔ علماء صحابہ وغیرہ اسی پر عمل کرتے ہیں کہ زنا بالجبر میں حد نہیں۔

۱۳۱۱۔ حدثنا محمد بن يحيى ثنا محمد بن يوسف عن اسراييل ثنا سماك بن حرب عن علقمة بن وإيل الكندي عن أبيه أن امرأة خرجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد الصلوة فتلقها رجل فتجملها فقصى حاجته منها فصاحت فابتلقت ومربها رجل فقالت إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا ومرت بعصاة من المهاجرين فقالت

۱۳۱۱۔ علقمہ بن وائل کندی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے زمانے میں ایک عورت نماز کے لیے نکلی تو راستے میں ایک شخص نے اسے پکڑ لیا اور اپنی حاجت پوری کر کے چل دیا۔ وہ چیختی رہ گئی۔ پھر اس کے پاس سے ایک اور شخص گزرا تو اس نے اسے بتایا کہ اس شخص نے اس کے ساتھ اس طرح کیا ہے پھر مہاجرین کی ایک جماعت وہاں سے گزری تو انہیں بھی بتایا۔ وہ لوگ دوڑے اور اس شخص کو پکڑ لیا جس کے متعلق اس عورت کا خیال تھا کہ اس نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے

جب اسے اس کے سامنے لائے تو اس نے کہا ہاں یہی ہے چنانچہ اسے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور آپ ﷺ نے اس کے رجم کا حکم صادر فرمایا۔ اسی وقت ایک اور شخص کھڑا ہوا جس نے درحقیقت اس عورت کے ساتھ زنا کیا تھا اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! میں نے اس کے ساتھ زنا کیا تھا (اس نے نہیں) آپ ﷺ نے اس عورت سے فرمایا: تم جاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور جس شخص کو مہاجرین کی جماعت پکڑ کر لائی تھی اسے تسلی دی۔ پھر اصل زانی کے رجم کا حکم دیا اور فرمایا: اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اہل مدینہ کے سب ایسی توبہ کریں تو بخش دیئے جائیں۔

باب ۹۶۹۔ جو شخص جانور سے بدکاری کرے۔

۱۳۱۲۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم ایسا شخص دیکھو جس نے جانور کے ساتھ بدکاری کی ہے تو اسے قتل کر دو اور ساتھ ہی جانور کو بھی۔ ابن عباسؓ سے کہا گیا: جانور کو کیوں قتل کیا جائے؟ انہوں نے فرمایا: اس کے متعلق میں نے آنحضرت ﷺ سے کچھ نہیں سنا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ آنحضرت ﷺ نے بہتر نہیں سمجھا کہ جس جانور کے ساتھ ایسا فعل کیا گیا ہو اس کا گوشت کھایا جائے یا اس سے کوئی فائدہ حاصل کیا جائے۔

إِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذًّا وَكَذًّا فَانْطَلَقُوا فَآخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَنْتُ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا فَاتَوْهَا فَقَالَتْ نَعَمْ هُوَ هَذَا فَاتَوْا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ لِيُرْجَمَ قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُهَا فَقَالَ أَذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لِكَ وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلًا حَسَنًا وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا ارْجُمُوهُ وَقَالَ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَ بِهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقَبِلَ مِنْهُمْ

باب ۹۶۹۔ مَا جَاءَ فِي مَنْ يَقَعُ عَلَى الْبَيْهِيَةِ

۱۳۱۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ ثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن ابى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ثموم وقع على البهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة فقبل لابن عباس ماشاء البهيمة فقال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئاً ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهه أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل

اس حدیث کو ہم صرف عمرو بن عمرو کی روایت سے جانتے ہیں وہ عکرمہ سے وہ ابن عباس سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ سفیان ثوری، عاصم سے وہ ابن رزین سے اور وہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: کہ جانور کے ساتھ بدکاری کرنے والے پر حد نہیں۔ ہم سے یہ حدیث محمد بن بشار نے بیان کی ہے وہ عبد الرحمن بن مہدی سے اور وہ سفیان ثوری سے نقل کرتے ہیں۔ یہ پہلی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ علماء اسی پر عمل کرتے ہیں احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

باب ۹۷۰۔ لواطت کرنے والے کی سزا۔

۱۳۱۳۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم کسی کو قوم لوط کا فعل یعنی لواطت کرتے ہوئے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔

باب ۹۷۰۔ مَا جَاءَ فِي حَدِّ اللَّوْطِيِّ

۱۳۱۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ ثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو بن ابى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ثموم يقع على البهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة فقبل لابن عباس ماشاء البهيمة فقال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئاً ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهه أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل

عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ بِهِ

اس باب میں جابرؓ اور ابو ہریرہؓ سے بھی احادیث کو ہم ابن عباسؓ کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ محمد بن اسحاق یہ حدیث عمرو بن ابی عمرو سے نقل کرتے ہوئے یہ الفاظ زیادہ کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جو شخص قوم لوط والا فعل کرے وہ ملعون ہے۔ اس میں قتل کا ذکر نہیں۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ جو چوپائے سے جماع کرے وہ بھی ملعون ہے۔ عاصم بن عمرو بھی سہیل بن ابی صالح سے وہ اپنے والد سے اور وہ ابو ہریرہؓ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ، یعنی فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو لیکن اس کی سند میں کلام ہے ہمیں نہیں معلوم کہ عاصم بن عمر العمری کے علاوہ کوئی اور بھی اسے سہیل بن ابی صالح سے نقل کرتا ہے اور عاصم ضعیف ہیں۔ پھر اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف ہے۔ یعنی لوطی کی سزا میں بعض حضرات کہتے ہیں کہ اسے رجم کیا جائے خواہ وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ۔ امام مالکؒ، شافعیؒ، احمدؒ اور اسحاقؒ کا بھی یہی قول ہے۔ بعض علماء و فقہاء تابعین، حسن بصریؒ، ابراہیم نخعیؒ اور عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں کہ لواطت کے مرتکب پر زنا ہی کی طرح حد جاری کی جائے ثوری اور اہل کوفہ بھی اسی کے قائل ہیں۔

۱۳۱۴۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ

۱۳۱۴۔ حضرت عبداللہ بن محمد بن عقیل کہتے ہیں کہ انہوں نے جابر سے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس چیز کے متعلق میں اپنی امت کے بتلا ہونے سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ قوم لوط کا فعل ہے۔

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

باب ۹۷۱۔ مرد کے متعلق۔

باب ۹۷۱۔ مَا جَاءَ فِي الْمَرْثَةِ

۱۳۱۵۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الضَّبِيِّ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرَمَةَ أَنَّ عَلِيًّا حَرَّقَ قَوْمًا ارْتَدَوْا عَنِ الْإِسْلَامِ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتُهُمْ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ وَلَمْ أَكُنْ لِأَحْرَقَهُمْ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَقَالَ صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ

۱۳۱۵۔ حضرت عکرمہؓ فرماتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے بعض مردوں کو جلا دیا۔ یہ خبر جب ابن عباسؓ کو پہنچی تو فرمایا: اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو میں انہیں قتل کرتا (یعنی مردین کو) کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو اپنا دین تبدیل کر لے اسے قتل کر دو۔ چنانچہ میں انہیں آگ میں نہ جلاتا اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم اللہ کے خاص عذاب کی طرح عذاب نہ دو۔ جب یہ حضرت علیؓ کو بتایا گیا تو فرمایا: ابن عباسؓ نے سچ کہا۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے علماء اسی پر عمل کرتے ہیں کہ مرد کو قتل کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی عورت مرتد ہو جائے تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ چنانچہ اوزاعی، احمد، اسی پر عمل کرتے ہیں کہ مرد کو قتل کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی عورت مرتد ہو جائے تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ چنانچہ اوزاعی، احمد، اسحاق اور علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اسے بھی قتل کیا جائے۔ جب کہ سفیان ثوری اور اہل کوفہ اور علماء کی ایک جماعت کا مسلک یہ ہے کہ اسے قید کیا جائے قتل نہ کیا جائے۔

باب ۹۷۲۔ جو شخص مسلمانوں پر ہتھیار نکالے۔

باب ۹۷۲۔ مَا جَاءَ فِي مَنْ شَهَّرَ السَّلَاحَ

۱۳۱۶۔ حضرت ابو موسیٰؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص ہم

۱۳۱۶۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ وَابُو السَّائِبِ قَالَا ثَنَا

ابو اسامة عن بريد بن عبد الله بن ابي بردة عن جده  
ابى بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه  
وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا

اس باب میں ابن عمر، ابن زبیر، ابو ہریرہ اور سلمہ بن اکوع بھی احادیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۹۷۳۔ ماجاء في حد الساجر

۱۳۱۷۔ حدثنا احمد بن منيع ثنا ابو معاوية عن

۱۳۱۷۔ حضرت جناب کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جادو گر کی

سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے۔

اسماعيل بن مسلم عن الحسن بن جندب قال  
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساجر  
ضربة بالسيف

اس حدیث کو ہم صرف اسماعیل بن مکی کی سند سے مرفوع جانتے ہیں اور وہ حافظہ کی وجہ سے ضعیف ہیں اسماعیل بن مسلم عبد بصری کو  
دیکھ لکھتے ہیں۔ یہ روایت حسن سے بھی منقول ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث جناب سے موقوفاً منقول ہے۔ بعض صحابہ اور دوسرے  
علماء اسی پر عمل کرتے ہیں۔ امام مالک کا بھی یہی قول ہے۔ شافعی کہتے ہیں کہ جادو گر اگر ایسا جادو کرے کہ کفر تک پہنچتا ہو تو اس صورت میں  
اسے قتل کیا جائے ورنہ نہیں۔

باب ۹۷۴۔ ج شخص غنیمت کا مال چرائے۔

۱۳۱۸۔ حدثنا محمد بن عمرو ثنا عبدالعزيز بن

۱۳۱۸۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم کسی شخص کو

غنیمت کا مال چوری کرتے ہوئے دیکھو تو اس کا سامان جلا دو۔ صالح

کہتے ہیں کہ میں مسلم کے پاس گیا تو ان کے ساتھ سالم بن عبد اللہ بھی

تھے۔ انہوں نے ایک شخص کو مال غنیمت میں چوری کا مرتکب پایا تو یہ

حدیث بیان کی اس پر مسلم نے اس شخص کا سامان جلانے کا حکم دیا۔ اس

کے سامان میں سے ایک قرآن مجید نکالا تو سالم نے فرمایا: اسے سچ کر

اس کی قیمت صدقہ کر دو۔

محمد بن صالح بن محمد بن زائدة عن سالم بن

عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنّ رسول الله

صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه غلّ في

سبيل الله فأحرقوا متاعه قال صالح قد خلت على

مسلمة ومعه سالم بن عبد الله فوجد رجلاً قد غلّ

فحدّث سالم بهذا الحديث فأمر به فأحرق متاعه

مصحف فقال سالم بع هذا ونصدّق بتمنه

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں بعض علماء اسی پر عمل کرتے ہیں۔ ادوزاعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول

ہے۔ میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو فرمایا: ہم سے یہ حدیث ابو داؤد لیشی صالح بن محمد بن زبیر نے بیان کی ہے

اور وہ منکر الحدیث ہیں۔ مزید کہتے ہیں کہ کئی احادیث اس ضمن میں منقول ہیں لیکن کسی میں بھی اس کے سامان کو جلانے کا حکم نہیں۔ یہ

حدیث غریب ہے۔

باب ۹۷۵۔ ج شخص کسی کو خنث کہہ کر پکارے

۱۳۱۹۔ ماجاء فيمن يقول للاخر يا مخنث

۱۳۱۹۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کسی

۱۳۱۹۔ حدثنا محمد بن رافع ثنا ابن ابي فديك

شخص نے دوسرے کو یہودی یا مجنحٹ کہہ کر پکارا اسے بیس کوڑے لگاؤ اور جو شخص کسی محرم عورت سے زنا کرے اسے قتل کر دو۔

عن ابراهيم بن اسمعيل بن ابى حبيبة عن داؤد بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال للرجل يا يهودي فاضربوه عشرين وإذا قال يا مجنحٹ فاضربوه عشرين ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه

اس حدیث کو ہم صرف ابراہیم بن اسماعیل کی سند سے جانتے ہیں اور وہ ضعیف ہیں۔ براء بن عازب، قرہ بن ایاس مزنئی سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کیا تو نبی اکرم ﷺ نے اس کے قتل کا حکم دیا یہ حدیث کئی سندوں سے منقول ہے ہمارے اصحاب اسی پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو شخص جانتے ہوئے کسی محرم عورت سے صحبت کرے اسے قتل کر دیا جائے۔

باب ۹۷۶۔ تعزیر کے متعلق۔

باب ۹۷۶۔ ماجاء فی التعزیر

۱۳۲۰۔ حضرت ابو بردہ بن نیار کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حدود کے علاوہ دس کوڑوں سے زیادہ نہ مارے جائیں۔

۱۳۲۰۔ حدثنا قتيبة ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن سليمان بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق عشرين جلديات الا في حد من حدود الله

یہ حدیث ابن لہیعہ، بکیر سے نقل کرتے ہوئے غلطی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عبدالرحمن بن جابر بن عبداللہ سے روایت ہے اور وہ اپنے والد سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں۔ صحیح حدیث وہی ہے جو لیث بن سعد سے منقول ہے یعنی عبدالرحمن بن جابر بن عبداللہ، ابو بردہ بن نیار سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث بھی غریب ہے ہم اسے صرف بکیر بن اشج کی روایت سے جانتے ہیں۔ علماء کا تعزیر کے متعلق اختلاف ہے اور اس باب میں منقول احادیث میں سب سے بہتر یہی حدیث ہے۔

توضیح: تعزیر اس سزا کو کہا جاتا ہے جو قاضی یا حکومت کسی شخص کو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین نہیں ہوتی جیسے کہ حدود اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہیں ان میں کوئی تصرف و تبدل جائز نہیں۔ پھر قابل تعزیر مجرم کو کسی مصلحت کی وجہ سے معاف بھی کیا جاسکتا ہے۔ جب کہ حد میں ایسا ممکن نہیں۔ واللہ اعلم۔ (مترجم)

شکار کے متعلق آنحضرت ﷺ سے

أَبْوَابُ الصَّيْدِ عَنْ

منقول احادیث کے ابواب

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۹۷۷۔ کتے کے شکار میں سے کیا کھانا جائز ہے اور کیا ناجائز

باب ۹۷۷۔ ماجاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل

۱۳۲۱۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ!

۱۳۲۱۔ حدثنا محمود بن غيلان ثنا قبيصة ثنا

(ﷺ) ہم اپنے سکھائے ہوئے شکاری کتوں کو شکار کے لیے بھیجتے ہیں۔

سفيان عن منصور عن ابراهيم عن همام بن

فرمایا: وہ جس شکار کو پکڑ لیں تم سے کھا سکتے ہو میں نے عرض کیا اگر وہ اسے مار ڈالے تب بھی؟ فرمایا: ہاں بشرطیکہ کوئی دوسرا کتا اس کے ساتھ شریک نہ ہو۔ پھر میں نے عرض کیا: ہم معراض (۱) سے بھی شکار کو مارتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جو نوک سے پھٹ جائے اسے کھالو اور جو اس کی چوٹ لگنے سے مرے اسے نہ کھاؤ۔

الْحَارِثُ عَنْ عَبْدِ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُرْسِلُ كِلَابًا لَنَا مُعَلَّمَةٌ قَالَ كُلُّ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ قَتَلَنَ قَالَ وَإِنْ قَتَلَنَ مَا لَمْ يَشْرُكْهَا كَلْبٌ مِنْ غَيْرِهَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ قَالَ مَا خَرَقَ فَكُلْ وَمَا أَصَابَ بِعَرَضِهِ فَلَا تَأْكُلْ

محمد بن یحییٰ، محمد بن یوسف سے وہ سفیان ثوری سے اور وہ منصور سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں لیکن اس میں یہ الفاظ ہیں ”وسئل عن المعراض“ یعنی آپ ﷺ سے معراض کے متعلق سوال کیا گیا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۳۲۲۔ حدثنا احمد بن منيع ثنا يزيد بن هارون ثنا الحجاج عن مكحول عن ابى ثعلبة والحجاج عن الوليد ابن ابى مالك عن عائذ الله بن عبد الله انه سمع ابا ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اهل صيد فقال اذا ارسلت كلبك و ذكرت اسم الله عليه فامسك عليك فكل قلت و ان قتل قال و ان قتل قلت انا اهل رمي قال ما ردت عليك قوسك فكل قال قلت انا اهل سفر نمر باليهود والنصارى والمجوس فلا نجد غير ايتهم قال فان لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا

۱۳۲۲۔ حدثنا احمد بن منيع ثنا يزيد بن هارون ثنا الحجاج عن مكحول عن ابى ثعلبة والحجاج عن الوليد ابن ابى مالك عن عائذ الله بن عبد الله انه سمع ابا ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اهل صيد فقال اذا ارسلت كلبك و ذكرت اسم الله عليه فامسك عليك فكل قلت و ان قتل قال و ان قتل قلت انا اهل رمي قال ما ردت عليك قوسك فكل قال قلت انا اهل سفر نمر باليهود والنصارى والمجوس فلا نجد غير ايتهم قال فان لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا

اس باب میں عدی بن حاتم بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور عائذ اللہ ابو ادریس خولانی ہیں۔

باب ۹۷۸۔ مجوسی کے کتے سے شکار کرنا۔

باب ۹۷۸۔ ماجاء في صيد الكلب المجوسی

۱۳۲۳۔ حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں مجوسی کے کتے کے شکار سے منع کیا گیا۔

۱۳۲۳۔ حدثنا يوسف بن عيسى ثنا وكيع ثنا شريك عن الحجاج عن القاسم بن برزة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله قال نهينا عن صيد المجوسی

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں اکثر علماء اسی پر عمل کرتے ہوئے کلب مجوسی سے شکار کی اجازت نہیں دیتے۔ قاسم بن ابو برزہ: قاسم بن نافع مکی ہیں۔

(۱) اس کے معنی باب نمبر ۹۸۲ کے حاشیے پر ملاحظہ کریں۔ (مترجم)

باب ۹۷۹- فِي صَيْدِ الْبَرَاةِ

باب ۹۷۹- باز کے شکار کے متعلق

۱۳۲۴- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَهْنَادُو أَبُو عِمَارٍ قَالُوا  
ثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ مَجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ  
عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْبَارِزِيِّ فَقَالَ مَا أَمْسَنْتُ عَلَيْكَ فَكُلْ

۱۳۲۳- حضرت عدی بن حاتمؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے باز کے شکار کے متعلق پوچھا تو فرمایا: جو چیز وہ تمہارے لیے پکڑے اسے کھا سکتے ہو۔

اس حدیث کو ہم صرف مجالد کی روایت سے جانتے ہیں اور وہ شعبی سے نقل کرتے ہیں علماء اسی پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ باز اور صفور کے شکار ہیں کوئی مضا لقمہ نہیں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ: بزاة وہ پرندہ ہے جو شکار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ آیت کریمہ میں مذکور جو ارح میں شامل ہے "ما علمتم من الجوارح" یعنی اس جو ارح سے مراد وہ کتے اور پرندے ہیں جن سے شکار کیا جاتا ہے۔ علماء باز سے شکار کی اجازت دیتے ہیں۔ اگر چہ وہ اس میں سے کھا بھی جائے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس کی تعلیم صرف یہی ہے کہ وہ حکم کی تعمیل کریں جب کہ حضرات اسے مکروہ کہتے ہیں۔ لیکن اکثر علماء کے نزدیک اگر وہ اس میں سے کھا بھی جائے۔ تب بھی اس کے شکار میں سے کھانا جائز ہے۔

باب ۹۸۰- فِي الرَّجُلِ يُرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنْهُ

باب ۹۸۰- کوئی شخص شکار پر تیر چلائے اور شکار غائب ہو جائے۔

۱۳۲۵- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا  
شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بَشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جَبْرِ  
يُحَدِّثُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ  
أَرْمِي الصَّيْدَ فَأَجِدُ فِيهِ مِنَ الْغَدِ سَهْمِي قَالَ إِذَا  
عَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ وَلَمْ تَرَ فِيهِ أَثَرَ سَبِعْ فَكُلْ

۱۳۲۵- حضرت عدی بن حاتمؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں تیر چلاتا ہوں لیکن شکار دوسرے دن ملتا ہے اور اس میں میرا تیر پیوست ہوتا ہے آپ ﷺ نے فرمایا: اگر تمہیں یقین ہو کہ وہ تمہارے تیر ہی سے ہلاک ہوا ہے کسی درندے نے اسے ہلاک نہیں کیا تو تم اسے کھا سکتے ہو۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے علماء اسی پر عمل کرتے ہیں۔ شعبہ یہی حدیث ابو بشیر اور عبد الملک بن میسرہ سے وہ سعید بن جبیر سے اور وہ عدی بن حاتم سے نقل کرتے ہیں۔ یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ اس باب میں ابو ثعلبہ خثی سے بھی حدیث منقول ہے۔

باب ۹۸۱- مَا جَاءَ فِي مَنْ يُرْمِي الصَّيْدَ فَيَجِدُهُ مَيْتًا فِي الْمَاءِ

باب ۹۸۱- جو شخص تیر لگنے کے بعد شکار کو پانی میں پائے۔

۱۳۲۶- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ  
أَخْبَرَنِي عَاصِمُ الْأَحْوَلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ  
حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
عَنْ صَيْدٍ فَقَالَ إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَأَذْكَرَ اسْمَ اللَّهِ  
فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قُتِلَ فَكُلْ إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي  
مَاءٍ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي الْمَاءَ  
قَتَلَهُ أَوْ سَهْمَكَ

۱۳۲۶- حضرت عدی بن حاتمؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے شکار کے متعلق سوال کیا تو فرمایا: جب تم تیر چلاؤ تو بسم اللہ پڑھو پھر اگر شکار اس سے مر جائے تو اسے کھاؤ لیکن اگر وہ شکار پانی میں مردہ حالت میں پاؤ تو نہ کھاؤ کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ تمہارے تیر سے ہلاک ہوا یا پانی میں گرنے کی وجہ سے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۳۲۷- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍا ثَنَا سَفِيَّانُ عَنْ مَجَالِدِ

۱۳۲۷- حضرت عدی بن حاتمؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ

ﷺ سے سکھائے ہوئے شکار کتے کے شکار کا حکم پوچھا تو فرمایا: اگر تم نے اپنا سکھایا ہوا کتا بھیجا اور بھیجتے وقت بسم اللہ پڑھی تو اس صورت میں اگر اس نے شکار کو تمہارے لیے پکڑا ہے تو تم اسے کھا سکتے ہو لیکن اگر وہ خود اس میں سے کھانے لگے تو مت کھاؤ کیونکہ اس نے شکار اپنے لیے پکڑا ہے۔ میں نے عرض کیا: اگر ہمارے کتے کے ساتھ کچھ اور کتے بھی شامل ہو جائیں تو کیا کیا جائے؟ فرمایا: تم نے اپنے کتے کو بھیجتے وقت بسم اللہ پڑھی تھی دوسرے کتوں پر نہیں۔ سفیان کہتے ہیں کہ اس شکار کا کھانا صحیح نہیں۔

عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ الْمُعْلَمِ قَالَ إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ الْمُعْلَمُ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ خَالَطَتْ كِلَابًا بَنَى كِلَابٌ أُخْرَى قَالَ إِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْ عَلَى غَيْرِهِ قَالَ سُفْيَانٌ كَرِهَ لَهُ الْكُلَّةُ

بعض صحابہ وغیرہ شکار اور ذبح وغیرہ کے احکام میں اسی پر عمل کرتے ہیں اگر جانور پانی میں گر جائے تو اسے کھانا صحیح نہیں۔ لیکن بعض علماء کا کہنا ہے کہ اگر ذبح کئے جانے والے جانور کا حلقوم کٹ جانے کے بعد وہ پانی میں گر کر مرے تو اس کا کھانا جائز ہے۔ ابن مبارک کا بھی یہی قول ہے۔ ہاں کتے کے شکار میں علماء کا اختلاف ہے کہ اگر وہ خود اس میں سے کھانے لگے تو کیا حکم ہے؟ اکثر علماء سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا قول یہی ہے کہ اس شکار کا کھانا صحیح نہیں جب کہ بعض صحابہ اور بعض دوسرے علماء اس کی اجازت دیتے ہیں۔

باب ۹۸۲۔ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْمُعْرَاضِ

باب ۹۸۲۔ معراض سے شکار کا حکم۔ (۱)

۱۳۲۸۔ حضرت عدی بن حاتمؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے معراض سے شکار کا حکم پوچھا تو فرمایا: اگر شکار اس کی نوک سے مرے تو اسے کھا سکتے ہو اور اس کی چوٹ سے مرے تو وہ جائز نہیں۔

۱۳۲۸۔ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَمِيصَةَ ثَنَا وَكَيْعُ ثَنَا زَكْرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمُعْرَاضِ فَقَالَ مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَمَا أَصَبْتَ بِعَرَضِهِ فَهُوَ وَفِيْدُ

ابن ابی عمر، سفیان سے وہ زکریا سے وہ شععی سے وہ عدی بن حاتم سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی طرح نقل کرتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے اور علماء اسی پر عمل پیرا ہیں۔

باب ۹۸۳۔ فِي الدِّيْحِ بِالْمَرْوَةِ

باب ۹۸۳۔ پتھر سے ذبح کرنے کا حکم۔

۱۳۲۹۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ ان کی قوم کے ایک شخص نے ایک یا دو خرگوشوں کا شکار کیا اور انہیں پتھر سے ذبح کیا اور انہیں لڑکا دیا یہاں تک کہ آنحضرت ﷺ سے ملاقات ہوئی تو آپ ﷺ سے اس کا حکم پوچھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اسے کھا سکتے ہو۔

۱۳۲۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدِ الْعَلِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ قَتَادَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ صَادَ أَرْنَبًا أَوْ ائْتَيْنِ فَدَبَحَهُمَا بِمَرْوَةٍ فَتَعَلَّقَهُمَا حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِمَا

(۱) معراض: اس لاشھی کو کہتے ہیں جو بھاری بھی ہو اور اس کے کنارے پر نوکدار لوہا بھی لگا ہوا ہو۔ اس کا حکم یہی ہے کہ اگر نوک لگنے سے جانور مر جائے یعنی اس کا خون بہہ جائے تو جائز ہے ورنہ نہیں۔ (مترجم)

اس باب میں محمد بن صفوان، رافع اور عدی بن حاتم بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ بعض علماء پتھر سے ذبح کرنے اور خرگوش کا گوشت کھانے کی اجازت دیتے ہیں اکثر علماء کا یہی قول ہے جب کہ بعض علماء خرگوش کے گوشت کو مکروہ کہتے ہیں اس حدیث کی روایت میں شععی کے ساتھیوں کا اختلاف ہے۔ داؤد بن ابی ہند، شععی سے بحوالہ محمد بن صفوان اور عاصم احوال بحوالہ صفوان بن محمد یا محمد بن صفوان نقل کرتے ہیں اور محمد بن صفوان زیادہ صحیح ہے۔ جابر جعفی بھی شععی سے وہ جابر بن عبد اللہ سے قنادہ ہی کی حدیث کی طرح نقل کرتے ہیں۔ احتمال ہے کہ شععی نے ان دونوں سے نقل کیا ہو۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ شععی کی جابر سے منقول حدیث غیر محفوظ ہے

باب ۹۸۴۔ مَا حَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَكْلِ الْمَضْبُورَةِ

باب ۹۸۴۔ بندھے ہوئے جانور پر تیر چلا کر ہلاک کرنے کے بعد اسے کھانا منع ہے۔

۱۳۳۰۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجسمہ کھانے سے منع فرمایا: مجسمہ وہ جانور ہے جسے باندھ کر تیر چلائے جائیں۔ یہاں تک کہ وہ مرجائے۔

۱۳۳۰۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيْبٍ ثَنَا عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ سَلِيْمَانَ عَنْ ابْنِ الْاَفْرِيقِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سَلِيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْمُجَمَّمَةِ وَهِيَ الَّتِي تُضَبَّرُ بِالنَّبْلِ

اس باب میں عرباض بن ساریہ، انس، ابن عمر، ابن عباس، جابر اور ابو ہریرہ بھی احادیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث غریب ہے۔

۱۳۳۱۔ وہب بن خالد کہتے ہیں کہ مجھے ام حبیبہ بنت عرباض بن ساریہ نے اپنے والد کے حوالے سے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے غزوة خیبر کے موقع پر ہر دانتوں والے درندے ہر بچوں والے پرندے، پالتو گدھوں، مجسمہ اور خلیسہ کے کھانے سے منع فرمایا۔ اور اس سے بھی منع فرمایا کہ حاملہ باندیوں کے ساتھ بچ پیدا ہونے سے پہلے جماع کیا جائے۔ محمد بن یحییٰ کہتے ہیں کہ اس سے مراد غیر حاملہ عورتوں کے ساتھ حیض سے پہلے جماع نہ کیا جانا بھی ہے۔ پھر ابو عاصم سے سوال کیا گیا۔ مجسمہ کیا ہے تو فرمایا: مجسمہ یہ ہے کہ کسی چیز یا پرندے وغیرہ کو سامنے باندھ کر تیر چلائے جائیں پھر ان سے خلیسہ کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا: خلیسہ وہ جانور ہے جسے کوئی شخص کسی بھیڑیے یا درندے وغیرہ سے چھین لے اور وہ اس کے ذبح کرنے سے پہلے ہی مرجائے۔

۱۳۳۱۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أُمُّ حَبِيْبَةَ بِنْتُ الْعَرِيَاضِ بِنِ سَارِيَةَ عَنْ أَبِيهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنْ الْمُجَمَّمَةِ وَعَنْ الْخَلِيْسَةِ وَأَنَّ تَوَطُّأَ الْجِبَالِي حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى هُوَ الْقَطْعَى سُئِلَ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ الْمُجَمَّمَةِ فَقَالَ أَنَّ يُضَبَّبَ الطَّيْرُ أَوْ الشَّيْءُ فَيُرْمَى وَ سُئِلَ عَنِ الْخَلِيْسَةِ فَقَالَ الذُّبُّ أَوْ السَّبْعُ يُدْرِكُهُ الرَّجُلُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ فَيَمُوتُ فِي يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يُدَكِّيَهَا

۱۳۳۲۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کسی جاندار چیز کو نشانہ بازی کے لیے منتخب کرنے سے منع فرمایا۔

۱۳۳۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَالِي ثَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنِ سَمَّاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَّخَذَ شَيْءٌ فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۹۸۵۔ فی ذکوة الجنین

۱۳۳۳۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد عن مجالد ح وثنا محمد بن عبد الاعلى ثنا حفص بن عياث عن مجالد عن ابي وذاك عن ابي سعيد عني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكوة الجنين ذكاة امه

باب ۹۸۵۔ جنین کو ذبح کرنا۔

۱۳۳۳۔ حضرت ابو سعیدؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ماں کے ذبح کرنے سے اس کے پیٹ کا بچہ (جنین) بھی حلال ہو جاتا ہے۔

اس باب میں جابر، ابوامامہ، ابودرداء اور ابو ہریرہ سے بھی احادیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے ابو سعید سے منقول ہے علماء صحابہ وغیرہ اسی پر عمل کرتے ہیں۔ سفیان، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ ابوالود کا نام جبیر بن نوف ہے۔

باب ۹۸۶۔ ما جاء في كراهية كل ذي ناب ومخلب

۱۳۳۴۔ حدثنا احمد بن الحسن ثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن انس عن ابن شهاب عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ثعلبة الحشني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع

باب ۹۸۶۔ ذی ناب اور ذی مخلب کی حرمت

۱۳۳۴۔ حضرت ابو ثعلبہ حشنیؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہر ذی ناب و درندے کے کھانے سے منع فرمایا۔ (۱)

سعد بن عبدالرحمن اور کئی راوی سفیان سے اور وہ زہری سے اسی سند سے اسی کے مثل نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔ اور ابو سعید خولانی کا نام عائد بن عبداللہ ہے۔

۱۳۳۵۔ حدثنا محمود بن غيلان ثنا ابو النصر ثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن جابر قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم خيبر الخمر الانسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير

۱۳۳۵۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے غزوہ خیبر کے موقع پر پالتو گدھوں، خچروں کے گوشت، ذی ناب و درندوں اور بچے والے پرندوں (یعنی جو پرندے اپنے بچوں سے شکار کرتے ہیں مثلاً باز) کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔

اس باب میں ابو ہریرہ، عمر باض بن ساریہ اور ابن عباس سے بھی احادیث منقول ہیں حضرت جابرؓ کی حدیث حسن غریب ہے۔

۱۳۳۶۔ حدثنا قتيبة ثنا عبد العزيز بن محمد بن عمر عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع

۱۳۳۶۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ہر کچلی والا درندہ حرام کیا ہے مثلاً شیر اور کتا وغیرہ۔

(۱) ذی ناب سے مراد کچلی والا درندہ ہے جو اپنے شکار کو اپنے دانتوں سے پکڑتا ہے۔ (مترجم)

یہ حدیث حسن ہے اکثر علماء صحابہ اسی پر عمل کرتے ہیں ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

باب ۹۸۷۔ مَا جَاءَ مَا قُطِعَ مِنَ الْبَحْيِ فَهُوَ مَيْتٌ

۱۳۳۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَلِيِّ الصَّنَعَانِيُّ نَا  
سَلْمَةَ بْنِ رَجَاءَ ثَنَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ  
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَّارٍ عَنْ أَبِي وَاقِدِ  
الْبَلْبَاسِيِّ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ  
وَهُمْ يُحِبُّونَ أَسْنِمَةَ الْإِبِلِ وَيَقْطَعُونَ الْيَابِتِ الْعَنَمِ  
فَقَالَ مَا يُقْطَعُ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ

باب ۹۸۷۔ زندہ جانور سے کاٹا جانے والا مضمومہ کے حکم میں ہے۔  
۱۳۳۷۔ حضرت ابو واقد لیثی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب مدینہ  
تشریف لائے تو وہ لوگ اونٹوں کی کوبان اور ذنبوں کی چکیاں بغیر ذبح  
کیے کاٹ لیا کرتے تھے چنانچہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اگر کسی زندہ  
جانور کا کوئی حصہ کاٹ لیا تو وہ حصہ مردار کے حکم میں آجاتا ہے۔

ابراہیم بن یعقوب بھی ابوانصر سے اور وہ عبدالرحمن بن عبداللہ بن دینار سے اسی طرح نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے ہم  
اسے صرف زید بن اسلم کی روایت سے جانتے ہیں ابو واقد لیثی کا نام حارث بن عوف ہے۔

باب ۹۸۸۔ فِي الدُّكُوَّةِ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ

۱۳۳۸۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلَاءِ قَالَ ثَنَا  
وَكَيْعٌ عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلْمَةَ ح وَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَيْسَعٍ ثَنَا  
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ أَبِي الْعُشْرَاءِ  
عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَكُونُ الدُّكُوَّةُ إِلَّا  
فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ قَالَ لَوْ طَعَنْتُ فِي فِجْدِهَا لَأَجْرَاءُ  
عَنْكَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَيْسَعٍ قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ هَذَا  
فِي الضُّرُورَةِ

باب ۹۸۸۔ حلق اور لبہ سے ذبح کرنا چاہئے۔  
۱۳۳۸۔ ابو عشاء اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا۔  
یا رسول اللہ! جانوروں کو صرف حلق اور لبہ ہی سے ذبح کیا جاسکتا ہے۔  
آپ ﷺ نے فرمایا: اگر تم اس کی ران میں بھی نیزہ مار دو تو بھی کافی ہے  
احمد بن مہجوع، یزید بن ہارون کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ حکم ضرورت  
کے وقت کا ہے۔

اس باب میں رافع بن خدیج سے بھی حدیث غریب ہے ہم اسے صرف حماد بن سلمہ کی روایت سے جانتے ہیں۔ ابو عشاء کی اپنے  
والد سے اس کے علاوہ کوئی حدیث منقول نہیں۔ ان کے نام میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام اسامہ بن قحطم ہے جب کہ بعض  
یہاں بن بزر، بعض ابن بلز اور بعض عطارد کہتے ہیں۔

باب ۹۸۹۔ فِي قَتْلِ الْوَزَغِ

۱۳۳۹۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سَفِيَانَ عَنْ  
سَهِيلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً بِالضَّرْبَةِ  
الْأُولَى كَانَ لَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً فَإِنْ قَتَلَهَا فِي  
الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ كَانَ لَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً فَإِنْ قَتَلَهَا  
فِي الضَّرْبَةِ الثَّلَاثَةِ كَانَ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً

باب ۹۸۹۔ چھپکلی کو مارنا۔

۱۳۳۹۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس  
نے چھپکلی کو ایک ہی ضرب سے مار دیا اس کے اتنی نیکیاں ہیں۔ اور جس  
نے دوسری ضرب میں مارا اس کے لیے اتنا اجر ہے اور تیسری ضرب  
میں مارنے پر بھی اتنا اتنا ثواب ہے۔ یعنی دوسری چوٹ میں پہلی مرتبہ  
سے کم اور تیسری میں دوسری سے بھی کم)

اس باب میں ابن مسعود، سعد، عائشہ اور ام شریک سے بھی احادیث منقول ہیں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۹۹۰۔ فی قتل الحیات

باب ۹۹۰۔ سانپ کو قتل کرنا

۱۳۴۰۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ سَهَابٍ عَنْ  
سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَأَقْتُلُوا ذَا الطُّفَيْتَيْنِ  
وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْقُطَانِ الْحَبْلَ

۱۳۴۰۔ حضرت سالم بن عبد اللہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ  
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سانپوں کو قتل کرو۔ اس سانپ کو بھی مار ڈالو  
جس کی پشت پر سیاہ نقطے ہوتے ہیں اسی طرح چھوٹی دم والے سانپ کو  
بھی قتل کرو کیونکہ یہ دونوں مینائی کو زائل اور حمل کو گرا دیتے ہیں۔

اس باب میں ابن مسعود، عائشہ، ابو ہریرہ اور سہل بن سعد بھی احادیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے ابن عمر، ابوبہرہ سے نقل  
کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے پتلے پتلے سانپوں کو مارنے سے منع فرمایا جو گھروں میں رہتے ہیں۔ انہیں عوام کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن  
عمر اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ایسے سانپ کو قتل کرنا بھی مکروہ ہے جو پتلا اور چاندی کی طرح ہوتا ہے۔ وہ جب چلتا ہے تو سیدھا چلتا  
ہے۔ عبد اللہ بن مبارک سے بھی یہی منقول ہے۔

۱۳۴۱۔ حَدَّثَنَا هِنَادٌ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو  
عَنْ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِبُيُوتِكُمْ عُمَارًا فَحَرِّجُوا  
عَلَيْهِنَّ ثَلَاثًا فَإِنْ بَدَأَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَاقْتُلُوهُ

۱۳۴۱۔ حضرت ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:  
تمہارے گھروں میں گھریلو سانپ رہتے ہیں۔ انہیں تین مرتبہ متنبہ  
کر دو اور اگر اس کے بعد بھی نظر آئیں تو قتل کر دو۔

عبد اللہ بن عمر بھی صحابی سے اور وہ ابوسعید سے یہ حدیث اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ مالک بن انس بھی صحابی سے وہ ہشام بن زہرہ  
کے مولی ابوسائب سے اور وہ ابوسعید سے نقل کرتے ہیں اس حدیث میں ایک قصہ بھی نقل کیا گیا ہے۔ ہم سے یہ حدیث انصاری نے نقل  
کی ہے وہ معن سے اور وہ مالک سے نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث عبید اللہ بن عمرو کی حدیث زیادہ صحیح ہے، محمد بن عجلان بھی صحابی سے مالک کی  
حدیث کے مثل نقل کرتے ہیں۔

۱۳۴۲۔ حَدَّثَنَا هِنَادٌ ثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ثَنَا ابْنُ أَبِي  
لَيْلَى عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى  
قَالَ قَالَ أَبُو لَيْلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ إِذَا ظَهَرَتِ الْحَيَّةُ فِي الْمَسْكَنِ فَقُولُوا لَهَا إِنَّا  
نَسْتَلُكَ بِعَهْدِ نُوحٍ وَبِعَهْدِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَمْ لَا  
تُؤَدِّينَا فَإِنْ عَادَتْ فَاقْتُلُوهَا

۱۳۴۲۔ عبد الرحمن بن ابی لیلی، ابویلی سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت  
ﷺ نے فرمایا: اگر کسی کے گھر میں سانپ نظر آجائے تو اس سے کہو کہ ہم  
تجھ سے حضرت نوح اور داؤد کا واسطہ دے کر یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں  
اذیت نہ پہنچا۔ اگر وہ اس کے بعد بھی نظر آئے تو اسے قتل کر دو۔

یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے ثابت بنانی کی روایت سے صرف ابن ابی لیلی کی روایت سے جانتے ہیں۔

باب ۹۹۱۔ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْكِلَابِ

باب ۹۹۱۔ کتوں کو مارنا۔

۱۳۴۳۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا هَشِيمٌ ثَنَا مَنْصُورُ بْنُ

۱۳۴۳۔ حضرت عبد اللہ بن مغفل کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

زاذان ویونس عن الحسن عن عبد الله بن مفضل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لا ان الكلاب ائمة من الامم لامرت بقتلها فاقتلوا منها كل اسود بهيم

اگر کتے اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق نہ ہوتے تو میں ان سب کے قتل کا حکم دے دیتا۔ لیکن ہر کالے سیاہ کتے کو قتل کر دو۔

اس باب میں جابر، ابن عمر، ابو رافع اور ابو ایوب بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ کالے سیاہ رنگ کا کتا شیطان ہے یعنی جس میں بالکل سفیدی نہ ہو۔ علماء اس سے شکار کرنے کو مکروہ کہتے ہیں۔

باب ۹۹۲۔ مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا مَا يَنْقُصُ مِنْ آخِرِهِ

۱۳۴۴۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثنا اسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا أَوْ اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِضَاوِرٍ لَا كَلْبَ مَا شِئِبَةَ نَقِصَ مِنْ آخِرِهِ كُلِّ يَوْمٍ فَيُرَاطُ

۹۹۲۔ کتا پالنے والے کی نیکیاں کم ہوتی ہیں۔

۱۳۴۴۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے کتا پالا یا رکھا اس کے ثواب میں ہر روز دو قیراط کم کر دیے جاتے ہیں۔ بشرطیکہ وہ کتا شکار یا جانوروں کی حفاظت کے لیے نہ ہو۔

اس باب میں عبد اللہ بن مفضل، ابو ہریرہ اور سفیان بن ابوزبیر سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ آپ ﷺ سے یہ بھی منقول ہے کہ فرمایا: ”او کلب زرع“ یا کھیت کی حفاظت کے لیے ہو۔ یعنی اس کا پالنا بھی جائز ہے۔

۱۳۴۵۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَا شِئِبَةَ قَالَ قِيلَ لَهُ إِنَّ أَبَاهُ رِيَّةَ يَقُولُ أَوْ كَلْبَ زُرْعٍ فَقَالَ إِنَّ أَبَاهُ رِيَّةَ لَهُ زُرْعٌ

۱۳۴۵۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے شکاری کتوں اور جانوروں کی حفاظت کے لیے رکھے جانے والے کتوں کے علاوہ سب کتوں کو مارنے کا حکم دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ ابن عمرؓ سے کہا گیا کہ ابو ہریرہؓ کھیت کے کتے کی بھی استثناء کرتے ہیں تو فرمایا: ابو ہریرہؓ سے کھیت تھے۔

۱۳۴۶۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَغَيْرُ أَحَدٍ قَالُوا ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن ابى سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا إلا كلب ما شئبة أو صيد أو زرع انتقص من آخره كل يوم قيراط

۱۳۴۶۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص کتا پالتا ہے اس کے اجر میں سے روزانہ ایک قیراط کم ہو جاتا ہے بشرطیکہ وہ جانوروں یا زراعت کی حفاظت اور شکار کے لیے نہ ہو۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عطاء بن ابی رباح سے منقول ہے کہ انہوں نے اس شخص کو بھی کتا پالنے کی اجازت دی ہے جس کے پاس صرف ایک بکری ہو یہ حدیث اسحاق بن منصور، حجاج بن محمد سے وہ ابن جریج سے اور وہ عطاء سے نقل کرتے ہیں۔

۱۳۴۷۔ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْبَاطَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ ثنا ابى عن الاعمش عن اسماعيل بن مسلم عن

۱۳۴۷۔ حضرت عبد اللہ بن مفضلؓ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے آنحضرت ﷺ کے خطبہ دیتے وقت آپ ﷺ کے

چہرے سے درخت کی ٹہنیاں اٹھا رکھی تھیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر کتے اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق میں سے ایک مخلوق نہ ہوتے تو میں ان کے قتل کا حکم دیتا۔ لہذا کالے سیاہ کتے کو قتل کر دو۔ کوئی گھروالے ایسے تمہیں کہ وہ کتابا نہ دھ کر رکھیں اور ان کے اجر میں سے رواز نہ ایک قیراط کم نہ ہوتا ہو نہیں بھیتی اور جانوروں کی حفاظت یا شکاری کتا رکھنے کی اجازت ہے۔

الْحَسَنُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ قَالَ إِنِّي لَمَمَّنْ يَرْفَعُ أَعْصَانَ الشَّجَرَةِ عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ لَوْ لَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ اسْوَدَّ بَيْهِيمٍ وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْتَبِطُونَ كَلْبًا إِلَّا نُقِضَ مِنْ غَمْلِهِمْ كُلُّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبٌ صَبِيدٌ أَوْ كَلْبٌ خَرِبٌ أَوْ كَلْبٌ غَنَمٍ

یہ حدیث حسن ہے اور کئی سندوں سے حسن ہی سے منقول ہے وہ عبد اللہ بن مغفل سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۹۹۳۔ بانس وغیرہ سے ذبح کرنا۔

باب ۹۹۳۔ فِي الذِّكْوَةِ بِالْقَصَبِ وَغَيْرِهِ

۱۳۴۸۔ حضرت رافع بن خدیجؓ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم کل دشمن سے مقابلہ کریں گے اور ہمارے پاس چھری نہیں ہے (یعنی جانور ذبح کرنے کے لیے) آپ نے فرمایا: جس چیز سے خون بہہ جائے اور اللہ کے نام سے ذبح کی جائے اسے کھاؤ، بشرطیکہ وہ دانت یا ناخن نہ ہو۔ ان دونوں چیزوں کے بارے میں میں تمہیں بتاتا ہوں۔ جہاں تک دانت کا تعلق ہے تو یہ بڑی ہے اور ناخن جیشیوں کی چھری ہے۔

۱۳۴۸۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ ثَنَا ابُو الْاِحْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عُبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنَّا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مَذْيٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا مَا لَيْمَ يَكُنْ سِنَّ أَوْ طُفْرًا وَسَاحِدٌ تُكْمُ عَنْ ذَلِكَ أَمَا السِّنُّ فَعُظْمٌ وَأَمَا الطُّفْرُ فَمَذْيُ الْحَبِشَةِ

یہ حدیث محمد بن بشار، یحییٰ بن سعید سے وہ سفیان ثوری سے وہ اپنے والد سے وہ عبایہ بن رافع سے اور وہ رافع سے نقل کرتے ہیں علماء اسی پر عمل کرتے ہوئے دانت اور ناخن سے ذبح کرنے کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔

مسئلہ: یہاں یہ امر وضاحت طلب ہے کہ اگر ناخن اور دانت اپنی جگہ پر ہوں نکالے نہ گئے ہوں تو باجماع ان سے ذبح کرنا جائز نہیں لیکن جو منزوع یعنی نکالے ہوئے ہیں ان کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے چنانچہ حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ ان سے ذبح جائز ہے۔ کیونکہ آپ ﷺ نے فرمایا: ہر وہ چیز جس سے خون بہہ جائے اس سے ذبح کرنا جائز ہے۔ اور ان دونوں چیزوں سے یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے بشرطیکہ وہ انگلی اور منہ میں نہ لگے ہوئے ہوں۔ جہاں تک مذکورہ بالا حدیث باب کا تعلق ہے تو یہ حدیث اس دانت اور ناخن پر محمول ہے جو الگ نہ کیا گیا ہو۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ حنفیہ کے نزدیک ان دونوں چیزوں سے ذبح کرنا جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

۱۳۴۹۔ حضرت رافع فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ سفر میں تھے کہ ایک اونٹ بھاگ گیا۔ ہمارے پاس گھوڑے بھی نہیں تھے تاکہ اسے پکڑ سکیں چنانچہ ایک شخص نے تیر چلایا تو اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو روک دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ان چوپایوں میں سے بعض

۱۳۴۹۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ ثَنَا ابُو الْاِحْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عُبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَافِعٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَنَدَّ بَعِيرٌ مِنْ اِبْلِ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ

خَيْلٍ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَسَنَهُ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِهَذَا الْبَهَائِمِ أَوْابِدَ كَأَوْابِدِ الْوَحْشِ فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا فَأَفْعَلُوا بِهِ هَكَذَا إِجْرَ أَوْابِ الصَّيْدِ

وحشی جانوروں کی طرح بھگوڑے ہوتے ہیں اگر ان میں سے کوئی اس طرح کرے تو تم بھی اس کے ساتھ ایسے ہی کیا کرو۔

شکار کے ابواب اختتام پذیر ہوئے۔

محمود بن غیلان، کبج سے وہ سفیان سے وہ اپنے والد سے وہ عبایہ بن رفاع سے وہ اپنے دادا رافع بن خدیج سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے مثل نقل کرتے ہیں۔ لیکن اس میں عبایہ کی ان کے والد سے روایت کا ذکر نہیں کرتے یہی زیادہ صحیح ہے علماء اسی پر عمل پیرا ہیں شعبہ بھی یہ حدیث سعید بن مسروق سے اروہ سفیان سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔

قریبانیوں کے متعلق رسول اللہ ﷺ سے

أَبْوَابُ الْأَضَاحِيِّ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ

منقول احادیث کے ابواب

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۹۹۴۔ قربانی کی فضیلت

باب ۹۹۴۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْأَضْحِيَّةِ

۱۳۵۰۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یوم نحر (دس ذوالحجہ) کو اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں۔ (یعنی قربانی سے) وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت بارگاہِ خداوندی میں آئے گا۔ اس حالت میں کہ اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قبول کر لیا جائے گا۔ اس خوشخبری سے اپنے دلوں کو مطمئن کرو۔

۱۳۵۰۔ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو مُسْلِمُ بْنُ عَمْرٍو الْحَدَّادُ الْمَدِينِيُّ ثَنَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ نَافِعِ الصَّافِعِ عَنِ أَبِي الْمَثْنَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَمِلَ آدَمِيُّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ إِهْرَاقِ الدَّمِ إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقْعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقْعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطَيَّبُوا بِهَا نَفْسًا

اس باب میں عمران بن حصین اور زید بن ارقم سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے ہشام بن عروہ کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ ابوشی کا نام سلیمان بن یزید ہے ان سے ابونفیک روایت کرتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ سے یہ بھی منقول ہے کہ قربانی کرنے والے کو جانور کے ہر بال کے برابر ایک نیکی دی جاتی ہے۔ بعض روایات میں سینگوں کے متعلق بھی فرمایا گیا ہے۔

باب ۹۹۵۔ دو مینڈھوں کی قربانی۔

باب ۹۹۵۔ فِي الْأَضْحِيَّةِ بِكَيْشَيْنِ

۱۳۵۱۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے دو مینڈھوں کی قربانی کی جن کے سینگ تھے اور ان کا رنگ سفید و سیاہ تھا آپ ﷺ نے انہیں ذبح کرتے وقت بسم اللہ، اللہ اکبر پڑھا اور اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھا۔

۱۳۵۱۔ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَيْشَيْنِ أَقْرَبَيْنِ أَمْلَحَيْنِ دَبَّحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى كَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَا جِهَمَا

اس باب میں حضرت علیؓ، عائشہؓ، ابو ہریرہؓ، جابرؓ، ابو ایوبؓ، ابودرداءؓ، ابورافعؓ، ابن عمرؓ اور ابو بکرہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۳۵۲۔ حضرت علیؓ ہمیشہ دو مینڈھوں کی قربانی کیا کرتے تھے ایک آنحضرت ﷺ کی طرف سے اور ایک اپنی طرف سے۔ ان سے پوچھا گیا۔ کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو فرمایا: آنحضرت ﷺ نے مجھے اس کا حکم دیا۔ لہذا میں کبھی یہ عمل نہیں چھوڑوں گا۔

۱۳۵۲۔ حدثنا محمد بن عبيدالمحاربي الكوفي ثنا شريك عن ابن الحساء عن الحكم عن حنشل عن عليؓ انه كان يصحني بكبشيين أخذهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه فقيل له فقال أمرني به يعني النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدعه أبداً

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف شریک کی روایت سے جانتے ہیں بعض علماء میت کی طرف سے قربانی کی اجازت دیتے ہیں جب کہ بعض کے نزدیک یہ جائز نہیں۔ عبد اللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میرے نزدیک میت کی طرف سے صدقہ دینا افضل ہے قربانی نہ کرے اور کسی کی طرف سے کرے تو اس میں سے خود کچھ نہ کھائے بلکہ پورا گوشت صدقہ کر دے۔

باب ۹۹۶۔ جس جانور کی قربانی مستحب ہے۔

باب ۹۹۶۔ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَضَاحِي

۱۳۵۳۔ حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے سینگوں والے مینڈھے کی قربانی کی جوڑ تھا۔ اس کا منہ، چاروں پیر اور آنکھیں سیاہ تھیں۔

۱۳۵۳۔ حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه سعيد الخدري قال صحني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشيين أقرن فحياي يا كل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے ہم اسے صرف حفص بن غیاث کی روایت سے جانتے ہیں۔

باب ۹۹۷۔ جس جانور کی قربانی جائز نہیں

باب ۹۹۷۔ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الْأَضَاحِي

۱۳۵۴۔ حضرت براء بن عازبؓ مرفوعاً نقل کرتے ہیں کہ ایسے لنگڑے جانور کی قربانی نہ کی جائے جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو اور ایسے کانے جانور کی بھی قربانی نہ کی جائے جس کا کان اپن ظاہر ہو۔ اسی طرح مریض اور بالکل کمزور جانور کی بھی قربانی جائز نہیں جس کا مرض ظاہر ہو۔ یا دوسری صورت میں اس کی ہڈیوں میں گودانہ ہو۔

۱۳۵۴۔ حدثنا علي بن حجر ثنا جرير عن محمد بن اسحق عن يزيد بن ابى حبيب عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن قيس عن البراء بن عازب رفته قال لا يصحني بالعرجاء بين ظلعها ولا بالعوراء بين عورها ولا بالمرضة بين مرضها ولا بالحفاة الشرا لا تقضي

ہناد، ابو زائدہ سے وہ شعبہ سے وہ سلمان بن عبد الرحمن سے وہ عبید بن قیس سے وہ براء سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ہم اسے صرف عبید بن قیس کی روایت سے جانتے ہیں۔ علماء اسی حدیث پر عمل پیرا ہیں۔

باب ۹۹۸۔ مَابُكْرَةُ مِنَ الْأَضَاحِي

۱۳۵۵۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَوَانِيُّ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ شَرِيحِ بْنِ السَّعْمَانَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَمَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ وَأَنْ لَا تُضَاحِيَ بِمُقَابِلَةٍ وَلَا مُدَابِّرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ

باب ۹۹۸۔ جس جانور کی قربانی مکروہ ہے

۱۳۵۵۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ قربانی کے جانور کی آنکھ اور کان کو اچھی طرح دیکھ لیں تاکہ کوئی نقص نہ ہو۔ اور ہمیں منع فرمایا کہ کئے ہوئے کان والے جانور یا شرقاء یا خرقاء سے قربانی کریں۔

حسن بن علی، عبید اللہ بن موسیٰ سے وہ اسرائیل سے وہ اسحاق سے وہ شریح بن نعمان سے وہ علی سے اور وہ حضور اکرم ﷺ سے اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں لیکن اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ راوی نے کہا ”مقابلہ وہ جانور ہے جس کے کان کا ایک کنارہ کٹا ہوا ہو، مدابیرہ وہ جس کا کان کان ہی کی جانب سے کٹا ہوا ہو، شرقاء وہ ہے جس کا کان پرا ہوا ہو، اور خرقاء وہ جس کا کان چھدا ہوا ہو“۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شریح بن نعمان صاندی کوئی ہیں اور شریح بن حارث کندی بھی کوفہ ہی کے رہنے والے ہیں ان کی کنیت شریح بن امیہ ہے۔ شریح بن ہانی بھی کوئی ہیں اور یہ صحابی بھی اور یہ تینوں حضرت علیؓ کے اصحاب میں سے ہیں۔

باب ۹۹۹۔ چھ ماہ کی بھیر کی قربانی۔

باب ۹۹۹۔ فِي الْجَدْعِ مِنَ الضَّانِ هِيَ الْأَضَاحِي

۱۳۵۶۔ حضرت ابو کناشؓ کہتے ہیں کہ میں چھ چھ مہینے کے دو بے مدینہ منورہ قربانی کے موقع پر بیچنے کے لیے لے گیا۔ لیکن وہ بے پک سکے۔ اچانک میری ملاقات ابو ہریرہؓ سے ہو گئی تو میں نے ان سے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ: بہترین قربانی چھ ماہ کی بھیر کی ہے۔ اس پر لوگ جلدی جلدی سب خرید لے گئے۔ راوی کوشک ہے کہ ”نعم“ فرمایا، یا ”نعمت“ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔

۱۳۵۶۔ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَيْسَى ثَنَا وَكَيْعُ ثَنَا عَثْمَانُ بْنُ وَقَادٍ عَنْ كِدَامِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي كِبَاشٍ قَالَ جَلَبْتُ غَنَمًا جَدْعًا إِلَى الْمَدِينَةِ فَكَسَدَتْ عَلَيَّ فَلَقِيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نِعْمٌ أَوْ نِعْمَتٌ الْأَضْحِيَّةُ الْجَدْعُ مِنَ الضَّانِ قَالَ فَانْتَهَبَهُ النَّاسُ

اس باب میں ابن عباس، ام بلال بنت ہلال (یہ اپنے والد سے نقل کرتی ہیں) جابر، عقبہ بن عامر اور ایک اور صحابی سے بھی حدیث منقول ہے۔ یہ حدیث غریب ہے اور ابو ہریرہؓ ہی سے موقوفاً بھی منقول ہے۔ علماء صحابہ وغیرہ کے نزدیک چھ ماہ کی بھیر کی قربانی درست ہے۔

۱۳۵۷۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں بکریاں دیں تاکہ انہیں صحابہ میں قربانی کے لیے بانٹ دیں ان میں سے ایک بکری باقی رہ گئی جو عتود یا جدی تھی (یعنی یا ایک سال کی تھی یا چھ ماہ کا بچہ) میں نے آپ ﷺ سے اس کا ذکر کیا تو فرمایا: اس سے تم قربانی کر لو۔

۱۳۵۷۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْطَاهُ غَنَمًا يَفْسِمُهَا فِي أَصْحَابِهِ ضَحَايَا فَبَقِيَ عَتُودٌ أَوْ جَدِيٌّ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَحَّ بِهَ أَنْتَ

اس باب میں ابن عباس، ام بلال بنت ہلال (یہ اپنے والد سے نقل کرتی ہیں) جابر، عقبہ بنی عامر اور ایک اور صحابی سے بھی حدیث منقول ہے۔ یہ حدیث غریب ہے اور ابو ہریرہؓ ہی سے موقوفاً بھی منقول ہے۔ علماء صحابہ وغیرہ کے نزدیک چھ ماہ کی بھیڑ کی قربانی درست ہے۔

باب ۱۰۰۰۔ ماجاء فی الاشتراك فی الأضحیة

باب ۱۰۰۰۔ قربانی میں شراکت۔

۱۳۵۸۔ حدثنا ابو عمار والحسين بن حريث ثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن علباء ابن احمر عن عكرمة عن ابن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركتنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة

۱۳۵۸۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ہم آنحضرت ﷺ کے ساتھ سفر میں تھے کہ عید الاضحی آگئی چنانچہ ہم گائے میں سات اور اونٹ میں دس دس حصے دار بنے۔

اس باب میں ابویوبؓ اور ابوشامہؓ سلمیٰ بھی اپنے والد سے حدیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف فضل بن موسیٰ کی روایت سے جانتے ہیں۔

۱۳۵۹۔ حدثنا قتيبة ثنا مالك عن انس عن أبي الزبير عن جابر قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحدية البذنة عن سبعة والبقرة عن سبعة

۱۳۵۹۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ ہم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر آنحضرت ﷺ کے ساتھ قربانی کی تو گائے اونٹ دونوں میں سات سات آدمی شریک ہوئے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے علماء صحابہ وغیرہ اسی پر عمل پیرا ہیں۔ ابن مبارک، ثوری، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ اسحاق کے نزدیک اونٹ دس آدمیوں کے لیے بھی کافی ہے۔ ان کی دلیل حضرت ابن عباسؓ کی مذکورہ بالا حدیث ہے۔

۱۳۶۰۔ حدثنا علي بن حجر ثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن حنيفة بن عدي عن علي قال البقرة عن سبعة قلت فإن ولدت قال ادبج ولدها معها قلت فالعرجاء قال إذا بلغت المنسك قلت فمكسورة القرن قال لا بأس أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينين والأذنين

۱۳۶۰۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ گائے سات آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا۔ اگر وہ خریدنے کے بعد بچے جنے تو؟ فرمایا: اس کو بھی ساتھ ذبح کرو۔ میں نے عرض کیا: عرجاء یعنی لنگڑی کا کیا حکم ہے؟ فرمایا: اگر قربان گاہ تک پہنچ جائے تو جائز ہے۔ میں نے عرض کیا: اگر اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو تو فرمایا: اس میں کوئی مضائقہ نہیں اس لیے کہ ہمیں حکم دیا گیا۔ یا فرمایا ہمیں آنحضرت ﷺ نے حکم دیا کہ کانوں اور آنکھوں کو اچھی طرح دیکھ لیں۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور سفیان ثوری اسے سلمہ بن کہیل سے نقل کرتے ہیں۔

۱۳۶۱۔ حدثنا هناد ثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جري بن كليب النهدي عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى

۱۳۶۱۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ٹوٹے ہوئے سینگ اور کٹے ہوئے کان والے جانور کی قربانی سے منع فرمایا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب سے اس کا تذکرہ کیا تو فرمایا:

سینگ اگر آدھے تک ٹوٹا ہوا ہو تو اس کی ممانعت ہے ورنہ نہیں۔

بَاغَضِبِ الْقُرْنَ وَالْأُذُنَ قَالَ قَتَادَةُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ الْعَضْبُ مَا بَلَغَ النِّصْفَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۰۰۱۔ ایک بکری ایک گھر کے لیے کافی ہے۔

باب ۱۰۰۱۔ مَا جَاءَ أَنَّ الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ تُجْزَى عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ

۱۳۶۲۔ عطاء بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب سے آنحضرت ﷺ کے عہد مبارک میں قربانیوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا: کہ ایک آدمی ایک بکری اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کیا کرتا تھا۔ چنانچہ وہ لوگ خود بھی کھاتے اور لوگوں کو بھی کھلایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ لوگ فخر کرنے لگے اور اس طرح ہو گیا جس طرح تم آج کل دیکھ رہے ہو۔ کہ ایک گھر میں کئی قربانیاں کی جاتی ہیں۔

۱۳۶۲۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى ثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عَثْمَانَ قَالَ ثَنَى عِمَارَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ ..... عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ كَيْفَ كَانَتْ الصَّحَابِيَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ الرَّجُلُ يُضْحِي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعَمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عمارہ بن عبد اللہ مدینی ہیں ان سے مالک احادیث نقل کرتے ہیں۔ بعض علماء اسی پر عمل کرتے ہیں۔ احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ ان کی دلیل وہی حدیث ہے کہ آپ ﷺ نے ایک بھیڑ کی قربانی کی اور فرمایا: یہ میری امت میں سے ہر اس شخص کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی بعض علماء کا مسلک یہ ہے کہ ایک بکری ایک ہی آدمی کے لیے کافی ہے۔ ابن مبارک اور بعض دوسرے علماء کا بھی یہی قول ہے۔

۱۳۶۳۔ جلد بن حیم کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ابن عمرؓ سے قربانی کے متعلق پوچھا کہ واجب ہے یا نہیں؟ انہوں نے فرمایا: آنحضرت ﷺ اور مسلمانوں نے قربانی کی اس نے دوبارہ پوچھا کہ کیا یہ واجب ہے؟ فرمایا: تم سمجھتے نہیں کہ آنحضرت ﷺ اور مسلمانوں نے قربانی کی۔

۱۳۶۳۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا هُشَيْمٌ ثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْأَضْحِيَّةِ أَوْاجِبَةٌ هِيَ فَقَالَ ضَحِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ اتَّعَقِلْ ضَحِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ

یہ حدیث حسن ہے اور اسی پر علماء عمل کرتے ہیں۔ کہ قربانی واجب نہیں بلکہ سنت ہے اس کی ادائیگی مستحب ہے۔ سفیان ثوری اور ابن مبارک اسی کے قائل ہیں۔

۱۳۶۴۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ مدینہ منورہ میں دس سال رہے اور ہر سال قربانی کی۔

۱۳۶۴۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَهْنَادٌ قَالَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ يُضْحِي

یہ حدیث حسن ہے۔

باب ۱۰۰۲۔ فی الذَّبْحِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

۱۳۶۵۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ ثَنَا اسْمَعِيلُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اِبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ خَطَبْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ نَحَرَ فَقَالَ لَا يَذْبَحَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيَ قَالَ فَقَامَ خَالِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا يَوْمٌ أَلْلَحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ إِنِّي عَجِلْتُ نَسِيكَتِي لِأَطْعِمَ أَهْلِي وَأَهْلَ دَارِي أَوْ جِيرَانِي قَالَ فَأَعِذْ ذَبْحَكَ بِأَخْرٍ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي عَنَاقٌ لَبِنٌ خَيْرٌ مِنْ شَاتِي لَحْمٌ أَقَادُ بِحُحْهَا قَالَ نَعَمْ وَهُوَ خَيْرٌ نَسِيكَتِكَ وَلَا تَنْجِرِي جَذَعَةَ بَعْدَكَ

باب ۱۰۰۲۔ نماز کے بعد قربانی کرنا۔

۱۳۶۵۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے نحر کے دن خطبہ دیا اور فرمایا: تم میں سے کوئی نماز سے پہلے جانور ذبح نہ کرے۔ براء کہتے ہیں کہ میرے ماموں کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! یہ ایسا دن ہے کہ لوگ اس دن گوشت سے جلدی اکتا جاتے ہیں میں نے یہ سوچ کر اپنی قربانی جلدی کر لی کہ اپنے گھر والوں اور پڑوسیوں کو کھلا دوں۔ آپ ﷺ نے حکم دیا کہ تم دوبارہ قربانی کرو۔ انہوں نے عرض کیا: میرے پاس ایک بکری ہے جو دودھ بھی دیتی ہے۔ لیکن اس کی عمر ایک سال سے کم ہے اس کے باوجود وہ گوشت میں دو بکریوں سے بہتر ہے کیا میں اسے ذبح کر دوں؟ فرمایا: ہاں وہ تمہاری قربانیوں میں سے بہترین قربانی ہے اور تمہارے بعد کسی کے لیے جذع کافی نہیں (یعنی اس عمر کی بکری کی قربانی جائز نہیں)۔

اس باب میں جابر، جناب، عویر بن اشقر اور ابو زید انصاری بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے علماء اسی پر عمل کرتے ہیں کہ شہر میں عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے قربانی نہ کی جائے۔ جب کہ بعض علماء گاؤں میں رہنے والوں کو طلوع فجر کے بعد قربانی کی اجازت دیتے ہیں۔ ابن مبارک کا بھی یہی قول ہے۔ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ چھ مہینے کا صرف دنبہ قربانی میں ذبح کیا جاسکتا ہے بکری وغیرہ نہیں۔

باب ۱۰۰۳۔ تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانا مکروہ ہے۔

۱۳۶۶۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص اپنی قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ نہ کھائے۔

باب ۱۰۰۳۔ فِي كَرَاهِيَةِ أَكْلِ الْأَضْحِيَّةِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۱۳۶۶۔ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

اس باب میں انس اور عائشہ سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث حسن ہے لیکن یہ حکم ابتدائے اسلام میں تھا بعد میں اس کی اجازت دے دی گئی۔

باب ۱۰۰۴۔ تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت۔

۱۳۶۷۔ حضرت سلیمان بن بريدة اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے تمہیں قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ کھانے سے منع کیا تھا تا کہ استطاعت والے لوگ اپنے سے غریب لوگوں پر کثادگی کریں لیکن اب تم جس طرح چاہو کھا بھی سکتے

باب ۱۰۰۴۔ فِي الرُّخْصَةِ فِي أَكْلِهَا بَعْدَ ثَلَاثِ ۱۳۶۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ وَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالُوا ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ ثَنَا سَفِينٌ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ تَحْتَهُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ  
ثَلَاثِ لِسْتَبِيعَ ذُو الطَّوْلِ عَلَى مَنْ لَا طَوْلَ لَهُ فَكُلُوا مَا  
بَدَا لَكُمْ وَأَطْعَمُوا وَأَذْجَرُوا

اس باب میں ابن مسعود، عائشہ، ابو سعید، قتادہ بن اعمان، انس اور ام سلمہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ بریدہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء صحابہ اسی پر عمل پیرا ہیں۔

۱۳۶۸۔ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ ثَنَا ابُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي  
إِسْحَاقَ عَنْ عَائِشَةَ بِنِ رَبِيعَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِأُمِّ الْمُؤْمِنِينَ  
أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ  
لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ قَالَتْ وَلَكِنْ قُلْتُ مَنْ كَانَ يُضْحِي  
مِنَ النَّاسِ فَأَحَبُّ أَنْ يُطْعِمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ يُضْحِي  
فَلَقَدْ كُنَّا نَرْفَعُ الْكِرَاعَ فَمَا كَلَّمَهُ بَعْدَ عَشْرَةِ أَيَّامٍ

۱۳۶۸۔ حضرت عائشہ بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ ﷺ قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرماتے تھے؟ فرماتے لگیں۔ نہیں۔ لیکن اس وقت بہت کم لوگ قربانی کیا کرتے تھے۔ اس لیے آپ ﷺ نے چاہا کہ قربانی کرنے والے لوگ قربانی نہ کرنے والوں کو بھی کھلائیں۔ ہم لوگ تو ایک رات ان رکھ دیا کرتے تھے اور اسے دس دن بعد کھایا کرتے تھے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ام المؤمنین: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ حدیث ان سے کئی سندوں سے منقول ہے۔

باب ۱۰۰۵۔ فرح اور عمیرہ

باب ۱۰۰۵۔ فی الفَرَعِ وَالْعَمِيرَةِ

۱۳۶۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ ثَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ ثَنَا  
مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فَرَعٌ وَلَا  
عَمِيرَةٌ وَالْفَرَعُ أَوَّلُ التَّبَاجِ كَانَ يَتَّبَعُ لَهُمْ فَيْدٌ بِحَوْثَةٍ

۱۳۶۹۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اسلام میں نہ فرح ہے اور نہ عمیرہ، فرح: جانور کے پہلے بچے کو کہتے ہیں جسے کافر اپنے بتوں کے لیے ذبح کیا کرتے تھے۔

اس باب میں شیخ اور محض بن سلیم بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عمیرہ وہ جانور ہے جسے رجب کے مہینے میں اس کی تعظیم کے لیے ذبح کیا جاتا تھا کیونکہ اشہر حرام میں سے پہلا مہینہ ہے۔ اور اشہر حرام: رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں۔ نب کہ اشہر حج: شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے دن ہیں۔ بعض صحابہ اسی طرح بیان کرتے ہیں۔

باب ۱۰۰۶۔ فرح اور عمیرہ

اب ۱۰۰۶۔ مَا جَاءَ فِي الْعَمِيرَةِ

۱۳۷۰۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلْفَةَ ثَنَا بَشَرُ بْنُ  
لِمَفْضَلٍ ثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَنِيْفٍ عَنْ  
يُوسُفَ بْنِ مَاهِكٍ أَنَّهُمْ دَخَلُوا عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ  
عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَسَأَلُوا عَنِ الْعَمِيرَةِ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ  
عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ عَنِ الْعَلَامِ شَتَاتَانِ مُكَافَتَانِ وَعَنِ  
الْحَارِيَةِ شَاةً

۱۳۷۰۔ حضرت یوسف بن مایک کہتے ہیں کہ ہم حفصہ بنت عبدالرحمن کے ہاں داخل ہوئے اور عقیقہ کے متعلق پوچھا: انہوں نے فرمایا: کہ عائشہ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے عقیقہ میں لڑکے کی طرف سے ایسی دو ہکریاں ذبح کرنے کا حکم دیا جو عمر میں برابر ہوں اور لڑکی کے عقیقہ میں ایک بکری ذبح کرنے کا حکم دیا۔

اس باب میں علیؑ، ام کرزہؓ، بریدہؓ، سمرہؓ، عبد اللہ بن عمروؓ، ابو ہریرہؓ، سلمان بن عامرؓ، انسؓ اور ابن عباسؓ بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور یہ حصہ بھصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں۔

۱۳۷۱۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَلِ ثَنَا  
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ثَنَا ابْنُ حَرِيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي  
يَزِيدٍ عَنْ سِيَّاحِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ ثَابِتِ بْنِ  
سَبَّاحٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ كُرْزٍ أَتَتْهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَقِيْقَةِ فَقَالَ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ  
الْحَجَارِيَّةِ وَاحِدَةٌ لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانَا كُنَّ أُمَّ أَنَا ثَنَا  
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۳۷۲۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ثَنَا  
هَشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ  
الرَّبَابِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الصَّبِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةٌ فَأَمْرٌ يَقْوَا  
عَنْهُ دَعَا وَآمِطُوا عَنْهُ الْآذَى

حسن بھی عبدالرزاق سے وہ ابن عمیرہ سے وہ عامر بن سلیمان بن احوال سے وہ حصہ بنت سیرین سے وہ رباب وہ سلیمان بن عامر سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔

باب ۱۰۰۷۔ الْآذَانُ اذُنَ الْمَوْلُودِ  
۱۳۷۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بِحَدِيثِ بْنِ سَعِيدٍ  
وَعَبْدِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ قَالَا ثَنَا سَفِيْنُ عَنْ  
عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ  
قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَّنَ فِي  
اِذْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَكَذَلِكَ قَاطِمَةَ بِالصَّلَاةِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اسی پر عمل کیا جاتا ہے۔ آنحضرت ﷺ سے عقیقہ کے باب میں کئی سندوں سے مقول ہے۔ کہ لڑکے کی طرف سے دو اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری کاٹی ہے۔ یہ بھی مقول ہے کہ آپ ﷺ نے حسن بن علیؑ کا عقیقہ ایک بکری سے ہی کیا۔ بعض علماء اس حدیث پر بھی عمل کرتے ہیں۔

۱۳۷۴۔ حَدَّثَنَا سُلَيْمَةُ بْنُ شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةَ عَنْ  
عَفِيرِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِي أَمَانَةَ

۱۳۷۳۔ حضرت ابوامامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بہترین قربانی مینڈھے کی قربانی ہے اور بہترین کھن حله ہے (یعنی ایک تمیند

۱۳۷۱۔ حضرت ام کرزہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عقیقہ کے متعلق پوچھا تو فرمایا: لڑکے کے عقیقہ میں دو اور لڑکی کے عقیقہ میں ایک بکری ذبح کی جائے۔ خواہ وہ بکرے ہوں یا بکریاں۔

۱۳۷۲۔ حضرت سلیمان بن عامرؓ بھی کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ہر لڑکے کے لیے عقیقہ کا حکم ہے لہذا جاؤ روزِ جمعہ کے خون بہاؤ اور اسے ہر تکلیف کی چیز سے دور رکھو۔ یعنی بال وغیرہ مینڈھاؤ۔

باب ۱۰۰۷۔ بچے کے کان میں اذان دینا۔  
۱۳۷۳۔ حضرت عبید اللہ بن ابی رافع اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو حسن بن علیؑ کی ولادت کے وقت ان کے کان میں اذان دیتے ہوئے دیکھا۔ جس طرح نماز میں اذان دی جاتی ہے۔

لَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرٌ  
لَأَضْحِيَةِ الْكَيْشِ وَخَيْرُ الْكُفْرِ الْحُلَّةُ

یہ حدیث غریب ہے اس لیے کہ ضمیر بن معدان ضعیف ہیں۔

۱۳۷۵۔ حضرت جحف بن سلیم فرماتے ہیں کہ ہم نے عرفات میں  
آنحضرت ﷺ کے ساتھ وقوف کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے لوگو! ہر گھر  
والے پر ہر سال قربانی اور عتیرہ ہے کیا تم لوگ جانتے ہو کہ عتیرہ کیا  
ہوتا ہے؟ یہ وہی ہے جسے تم رجمہ کہتے ہو۔ (۱)

۱۳۷۵۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثنا روح بن عباد ثنا  
ابن عون ثنا أبو رُمَلةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلِيمٍ قَالَ كُنَّا  
وَقُوفًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ  
فَسَمِعْتَهُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي  
كُلِّ عَامٍ أَضْحِيَّةٌ وَعَتِيرَةٌ هَلْ تَذَرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ هِيَ  
الَّتِي تَسْمُونَهَا الرَّجْمِيَّةُ

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف ابن عون کی سند سے جانتے ہیں۔

۱۳۷۶۔ حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے  
حسن کا ایک بکری سے عقیدہ کیا اور فرمایا: اے قاطر اس کے سر کے بال  
منڈواؤ اور ان کے برابر چاندی تول کو صدقہ کرو چنانچہ انہوں نے تولاتو  
وہ ایک درہم کے برابر یا اس سے کچھ کم تھے۔

۱۳۷۶۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَطَعِيُّ ثنا  
عبدالاعلی عن محمد بن اسحاق عن عبد الله بن  
ابی بكر عن محمد بن علی بن الحُصَيْنِ عَنْ  
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ حَقَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ يَا قَاطِرَةَ اخْلُقِي رَأْسَهُ  
وَتَصَدَّقِي بِرِزْقِهِ شَعْرَهُ فِضَّةً فَوَزَنَتْهُ فَكَانَ وَزَنُهُ دِرْهَمًا

یہ حدیث حسن غریب ہے اس کی سند متصل نہیں۔ کیونکہ ابو جعفر محمد بن علی نے علی سے ملاقات نہیں کی۔

۱۳۷۷۔ حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرؓ نے رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ  
رسول اللہ ﷺ نے خطبہ دیا اور پھر منبر پر تشریف لاکر دو مینڈھے منگوائے  
اور انہیں ذبح کیا۔

۱۳۷۷۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ثنا ازهر بن  
سعد السمان عن ابن عون عن محمد بن سيرين  
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَطَبَ ثُمَّ نَزَلَ فَذَعَا بِكَيْشَيْنِ  
فَذَبَحَهُمَا

یہ حدیث صحیح ہے۔

۱۳۷۸۔ حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ میں عید الاضحیٰ کے موقع  
پر آنحضرت ﷺ کے ساتھ عید گاہ میں تھا۔ جب آپ ﷺ خطبے سے  
فارغ ہوئے تو منبر سے نیچے آ گئے۔ پھر ایک دنبہ لایا گیا اور آپ ﷺ  
نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور بسم اللہ سے آخر تک پڑھا یعنی یہ میری

۱۳۷۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثنا يعقوب بن عبدالرحمن  
عن عمرو بن ابی عمرو عن الْمُطَلِّبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ  
عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
الْأَضْحَى بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا قَضَى حُطْبَتَهُ نَزَلَ عَنْ

(۱) یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا تھا۔ (مترجم)

مِنْبَرِهِ فَأَتَى بِكَبْتَسٍ فَذَبَحَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَقَالَ بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ هَذَا عَنِّي  
وَعَمَّنْ لَمْ يُصْحَ مِنْ أُمَّتِي

یہ حدیث اس سند سے غریب ہے علماء اسی پر عمل پیرا ہیں کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے۔ ابن مبارک کا بھی یہی قول ہے کہا جاتا ہے کہ مطلب بن عبد اللہ بن حطب کا جاہل سے سماع ثابت نہیں۔

۱۳۷۹۔ حدثنا علي بن حجر ثنا علي بن مسهر  
عن اسمعيل بن مسلم عن الحسن بن سمره قال  
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام  
مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَ  
يُحْلَقُ رَأْسُهُ

حسن بن علی غلال، زید بن ہارون سے وہ سعید بن ابی عمرو سے وہ قتادہ سے وہ حسن سے وہ سمرہ بن جندب سے اور وہ نبی اکرم ﷺ سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے علماء اسی پر عمل کرتے ہوئے عقیقہ ساتویں دن کرنے کو مستحب کہتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے تو چودھویں دن اور اگر اس دن بھی میسر نہ ہو تو اکیسویں دن کیا جائے۔ عقیقہ میں بھی جانور کے لیے وہی شروط ہیں جو قربانی میں ہوتی ہیں۔

۱۳۸۰۔ حدثنا احمد بن الحكم البصرى ثنا  
محمد بن جعفر عن شعبة عن مالك ابن انس عن  
عمرو و عمر بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن  
أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من  
رأى هلال ذى الحجة و أراد أن يضحي فلا  
يأخذ من شعره ولا من أظفاره

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عمرو بن مسلم سے محمد بن عمرو بن علقمہ اور کئی راوی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث سعید بن مسیب، ام سلمہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اس حدیث کے علاوہ بھی اسی طرح نقل کرتی ہیں۔ بعض علماء کا یہی قول ہے۔ سعید بن مسیب بھی اسی کے قائل تھے۔ احمد اور اسحاق بھی اسی پر عمل کرتے ہیں۔ جب کہ بعض علماء بال منڈوانے اور ناخن تراشنے کی ان ایام میں بھی اجازت دیتے ہیں۔ امام شافعی کا بھی یہی قول ہے ان کی دلیل حضرت عائشہ سے منقول حدیث ہے کہ آنحضرت ﷺ اپنی قربانی مدینہ سے بھیجا کرتے تھے اور کسی ایسی چیز سے پرہیز نہیں کیا کرتے تھے جن سے محرم پرہیز کرتے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَبْوَابُ النَّذُوْرِ وَالْاِیْمَانِ عَنِ

رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۱۰۰۸۔ مَا جَاءَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ لَا نَذْرَ فِيْ مَعْصِيَةٍ

۱۳۸۱۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا اَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذْرَ فِيْ مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةٌ يَمِيْنٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نذروں اور قسموں کے متعلق آنحضرت ﷺ سے

منقول احادیث کے ابواب

باب ۱۰۰۸۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی صورت میں نذر ماننا صحیح نہیں۔

۱۳۸۱۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نذر ماننا صحیح نہیں اور اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے۔

اس باب میں ابن عمرؓ، جابرؓ اور عمران بن حصینؓ بھی احادیث بیان کرتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح نہیں اس لیے کہ ابوسلمہ سے زہری نے یہ حدیث نہیں سنی۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ حدیث کئی حضرات سے منقول ہے جن میں موسیٰ بن عقبہ اور ابن ابی عتیق بھی شامل ہیں۔ یہ زہری سے وہ سلیمان بن ارقم سے وہ یحییٰ بن ابی کثیر سے وہ ابوسلمہ سے وہ حضرت عائشہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا:..... الخ امام بخاری کہتے ہیں کہ حدیث تو یہی ہے۔ ابواسامیل محمد بن اسماعیل بن یوسف ترمذی ایوب بن سلیمان بن بلال سے وہ ابوبکر بن ادريس سے وہ سلمان بن بلال سے وہ موسیٰ بن عقبہ اور عبد اللہ بن ابی عتیق سے وہ زہری سے وہ سلیمان بن ارقم سے وہ یحییٰ بن ابی کثیر سے وہ ابوسلمہؓ سے وہ حضرت عائشہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث غریب ہے اور ابوصفوان کی یونس سے منقول حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ ابوصفوان: سنی ہیں اور ان کا نام عبد اللہ بن سعید ہے۔ ان سے حمید اور کئی بڑے محدثین احادیث نقل کرتے ہیں۔ بعض علماء صحابہ اور دیگر علماء کہتے ہیں کہ اس چیز کی نذر صحیح نہیں۔ جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو اور اس کا کفارہ قسم کے ہی کفارہ کی طرح ہے۔ احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے ان کی دلیل زہری کی ابوسلمہؓ سے منقول حدیث ہے جو وہ حضرت عائشہؓ سے نقل کرتے ہیں۔ جب کہ بعض علماء صحابہ اور دوسرے علماء کے نزدیک ایسی نذر بھی صحیح نہیں اور اس میں کوئی کفارہ بھی نہیں مالک اور شافعی کا بھی یہی قول ہے۔

۱۳۸۲۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نذرمانی اسے چاہئے کہ اسے پورا کرنے اور جو اللہ کی نافرمانی کے لیے نذر مانے وہ اس کی نافرمانی نہ کرے۔ (یعنی اسے پورا نہ کرے بلکہ کفارہ ادا کرے)۔

۱۳۸۲۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ بِنِ سَعِيْدٍ عَنِ مَالِكِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْاَيْلِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَذَرَ اَنْ يُطِيعَ اللّٰهُ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ اَنْ يَعْصِيَ اللّٰهُ فَلَا يَعْصِهْ

حسن بن علی خلیل، عبد اللہ بن نمیر سے وہ عبید اللہ بن عمر سے وہ طلحہ بن عبد الملک ایللی سے وہ قاسم بن محمد سے وہ حضرت عائشہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اسے یحییٰ بن ابی کثیر بھی قاسم بن محمد سے نقل کرتے ہیں۔ بعض علماء صحابہ اور دوسرے علماء کا یہی قول ہے مالک اور شافعی بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ لیکن اگر کوئی نافرمانی کی نذر مانتا ہے تو اس پر کفارہ لازم نہیں آتا۔

باب ۱۰۰۹۔ جو چیز آدمی کی ملکیت نہیں اس کی نذر ماننا صحیح نہیں۔  
۱۳۸۳۔ حضرت ثابت بن ضحاک کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو چیز انسان کی ملکیت میں نہ ہو اس کی نذر نہیں ہوتی۔

باب ۱۰۰۹۔ لَا تَنْذِرُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ  
۱۳۸۳۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا اسْحَقُ بْنُ يُوْسُفَ  
عَنْ هِشَامِ الدُّسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ  
أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

اس باب میں عبد اللہ بن عمرو اور عمران بن حصین بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۰۱۰۔ غیر معین نذر کا کفارہ  
۱۳۸۳۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں۔ کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:  
غیر معین نذر کا کفارہ بھی قسم کا کفارہ ہی ہے۔

باب ۱۰۱۰۔ فِي كَفَّارَةِ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ  
۱۳۸۴۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشَ  
قَالَ ثَنِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى الْمَغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ ثَنِي  
كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ  
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّارَةُ  
النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

توضیح: اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اگر میری یہ مراد پوری ہوگئی تو مجھ پر نذر ہے۔ (مترجم)

باب ۱۰۱۱۔ اگر کوئی شخص کسی کام کے کرنے کی قسم کھائے اور اس قسم کو توڑنے میں ہی بھلائی ہو تو اسے توڑ دے۔

باب ۱۰۱۱۔ فِي مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا  
خَيْرًا مِنْهَا

۱۳۸۵۔ حضرت عبدالرحمن بن سمرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:  
اے عبدالرحمن امارت بھی طلب نہ کرو اس لیے کہ اگر یہ تمہارے مانگنے  
سے عطا کی جائے گی تو تم تائید خداوندی سے محروم رہو گے اور اگر  
تمہارے طلب کیے بغیر عطا کی گئی ہوگی تو اس پر خدا کی طرف سے  
تمہاری مدد کی جائے گی۔ اور اگر تم کسی کام کے کرنے کی قسم کھاؤ اور پھر  
معلوم ہو کہ اس قسم کے توڑ دینے میں ہی بھلائی ہے تو اسے دو اور اپنی قسم  
کا کفارہ ادا کرو۔

۱۳۸۵۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ  
سَلِيمَانَ عَنْ يُونُسَ ثَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ  
سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا  
عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْإِمَارَةُ فَإِنَّكَ إِنْ أَتَيْتَ عَنْ  
مَسْئَلَةٍ وَكَلَّمْتَ إِلَيْهَا وَ إِنَّكَ إِنْ أَتَيْتَ مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ  
أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ وَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا  
مِنْهَا فَأَتِ الدِّيَّ هُوَ خَيْرٌ وَالتُّكْفِيرُ عَنْ يَمِينِكَ

اس باب میں عدی بن حاتم، ابو درداء، انس، عائشہ، عبد اللہ بن عمر، ابو ہریرہ، ام سلمہ اور ابو موسیٰ سے بھی احادیث منقول ہیں۔  
حضرت عبدالرحمن بن سمرہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۰۱۲۔ کفارہ قسم توڑنے سے پہلے دے۔

۱۳۸۶۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی  
شخص کسی کام کی قسم کھائے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام اسے بہتر نظر

باب ۱۰۱۲۔ فِي الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ  
۱۳۸۶۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ مَالِكٍ ابْنِ أَنَسٍ عَنْ سَهْلِ  
بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى  
غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَكْفُرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ

اس باب میں ام سلمہ بھی حدیث نقل کرتی ہیں۔ اکثر علماء صحابہ اور دیگر علماء اسی حدیث پر عمل کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ قسم توڑنے سے پہلے اس کا کفارہ ادا کر دینے سے کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ مالک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے جب کہ بعض علماء کے نزدیک قسم توڑنے سے پہلے کفارہ دینا جائز نہیں۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ اگر بعد میں دے تو میرے نزدیک مستحب ہے لیکن پہلے دینا بھی جائز ہے۔

باب ۱۰۱۳۔ فی الاستبثاء فی الیمین

باب ۱۰۱۳۔ قسم میں انشاء اللہ کہنا۔

۱۳۸۷۔ حدثنا محمود بن غیلان ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني ابي وحماد بن سلمة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال ان شاء الله فلا جناح عليه

۱۳۸۷۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص کسی چیز پر قسم کھائے اور ساتھ ہی انشاء اللہ بھی کہہ دے تو اس کی قسم منعقد نہیں ہوتی (لہذا اس کے خلاف عمل کر لینے سے کفارہ واجب نہیں ہوگا)۔

اس باب میں ابو ہریرہؓ بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ عبید اللہ بن عمرو وغیرہ تابع سے اور وہ ابن عمرؓ سے یہی حدیث موقوفاً نقل کرتے ہیں۔ سالم بھی اسی طرح موقوف ہی نقل کرتے ہیں۔ ہمیں علم نہیں کہ اسے ایوب سختیانی کے علاوہ کسی اور نے مرفوعاً نقل کیا ہے اسماعیل بن ابراہیم کہتے ہیں کہ ایوبؓ کبھی اس حدیث کو مرفوع اور کبھی غیر مرفوع نقل کیا کرتے تھے۔ اہل علم صحابہ وغیرہ اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انشاء اللہ کہنے پر قسم توڑ دینے سے کفارہ لازم نہیں آتا۔ (کیونکہ وہ قسم منعقد ہی نہیں ہوتی) سفیان ثوری، اوزاعی، مالک، عبد اللہ بن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

۱۳۸۸۔ حدثنا يحيى بن موسى ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال ان شاء الله لم يحنث

۱۳۸۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص قسم کھاتے ہوئے انشاء اللہ کہہ لے تو اس کی وہ قسم منعقد نہیں ہوتی۔

میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو فرمایا: اس حدیث میں عبد الرزاق نے غلطی کی ہے۔ وہ اسے معمر سے مختصر روایت کرتے ہیں وہ ابن طاووس سے وہ اپنے والد سے وہ ابو ہریرہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ: سلیمان بن داؤد نے فرمایا: آج کی رات میں ستر بیویوں سے جماع کروں گا۔ پھر ہر عورت ایک بیٹا جنے گی۔ پھر انہوں نے اپنی عورتوں کا طواف کیا لیکن ان میں سے ایک کے علاوہ کسی کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہوا اور وہ بھی نصف۔ پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اگر سلیمان علیہ السلام انشاء اللہ کہہ دیتے تو جیسے انہوں نے کہا تھا ویسے ہی ہو جاتا۔ عبد الرزاق بھی معمر سے وہ ابن طاووس سے اور وہ اپنے والد سے یہی طویل روایت نقل کرتے ہوئے اس میں ستر عورتوں کا ذکر کرتے ہیں یہ حدیث آپ ﷺ سے بواسطہ ابو ہریرہؓ کئی سندوں سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ سلیمان بن داؤد نے فرمایا: میں آج کی رات سو عورتوں پر طواف کروں گا..... الخ۔

باب ۱۰۱۴۔ فی کراهية الحلف بغير الله

باب ۱۰۱۴۔ غیر اللہ کی قسم کھانا حرام ہے۔

۱۳۸۹- حضرت سالم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آباء کی قسم کھانے سے منع فرماتا ہے۔ عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد کبھی اپنے باپ کی قسم نہیں کھائی نہ اپنی طرف سے اور نہ کسی دوسرے کی طرف سے۔

اس باب میں ثابت بن ضحاکؓ، ابن عباسؓ، ابو ہریرہؓ، قتیبہؓ اور عبدالرحمن بن سمرہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ ولا آتروا کا مطلب یہی ہے کہ میں نے کسی اور سے بھی باپ کی قسم نقل نہیں کی۔

۱۳۹۰- حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمرؓ کو ایک قافلے میں باپ کی قسم کھاتے ہوئے پایا تو فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آباء کی قسم کھانے سے منع فرماتا ہے اگر کوئی قسم کھانا چاہے تو اللہ ہی کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے۔

۱۳۹۱- سعد بن عبیدہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے ایک شخص کو کعبہ کی قسم کھاتے ہوئے سنا تو فرمایا: غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی چاہئے کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا جو غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے۔ بے شک وہ کفر یا شرک کرتا ہے۔

یہ حدیث حسن ہے بعض علماء اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ تغلیظ ہے۔ یعنی حضرت ابن عمرؓ کی حدیث اس باب میں حجت ہے اور اس حدیث میں کفر اور شرک کا ذکر تنبیہا کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول حدیث میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ جو شخص لات یا عزی کی قسم کھالے اسے چاہئے کہ لا الہ الا اللہ کہے یہ بھی اسی طرح ہے جیسے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ریا کاری شرک ہے۔ بعض علماء آیت کریمہ ”من کان یرجو اللقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا“ کی تفسیر میں بھی یہی کہتے ہیں کہ اس سے مراد ریا کاری ہے۔ یعنی یہ بھی تنبیہ کے طور پر فرمایا گیا ہے۔

باب ۱۰۱۵- جو شخص چلنے کی استطاعت نہ ہونے کے باوجود چلنے کی قسم کھالے۔

۱۳۹۲- حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے قسم کھائی کہ وہ بیت اللہ تک چل کر جائے گی۔ جب آپ ﷺ سے اس کا حکم پوچھا گیا تو فرمایا: اللہ تعالیٰ اس کے پیدل چلنے کا محتاج نہیں۔ اسے کہو کہ سوار ہو جائے۔

۱۳۸۹- حدثنا قتیبة ثنا سفیان عن الزُّهْرِيِّ عن سَالِمٍ عن أَبِيهِ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ وَأَبِي وَقَالَ أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تُحْلِفُوا آبَاءَكُمْ فَقَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ ذَاكِرًا وَلَا إِثْرًا

۱۳۹۰- حدثنا هناد ثنا عبدة عن عبدة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر وهو في ركب وهو يحلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم ليحلف خالف بالله أو ليسكت

۱۳۹۱- حدثنا قتیبة ثنا ابو خالد الاحمر عن الحسن بن عبید اللہ عن سعد بن عبیدة ان ابن عمر سمع رجلا يقول لا والكعبة فقال ابن عمر لا يحلف بغير الله فاتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف لغير الله فقد كفر أو أشرك

باب ۱۰۱۵- فِيمَنْ يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ وَلَا يَسْتَطِيعُ

۱۳۹۲- حدثنا عبدالقدوس بن معمر الغطار البصرى ثنا عمرو بن عاصم عن عمران القطان عن حميد عن انس قال نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك

فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ مَشْيِهَا مُرْوَاهَا فَلْتَرَ كَبُ

اس باب میں ابو ہریرہ، عقبہ بن عامر اور ابن عباس سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۱۳۹۳۔ حدثنا ابو موسیٰ محمد بن المثنیٰ ثنا  
 خالد بن الحارث ثنا حمید عن ثابت عن أنس قال  
 مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيخ كبير  
 يهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا قالوا نذر يارسول الله  
 ان يمشي قال ان الله لغني عن تعذيب هذا  
 نفسه قال فامر ان يركب

۳۹۳۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ کا ایک بوڑھے شخص پر  
 نذر ہوا جو اپنے دونوں بیٹوں کے سچ چل رہا تھا۔ آپ ﷺ نے اس  
 کے متعلق پوچھا تو بتایا گیا کہ اس نے چلنے کی نذر مانی ہے۔ آنحضرت  
 ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس کے اپنے نفس کو عذاب میں مبتلا کرنے سے  
 مستغنی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے اسے سوار ہو کر جانے کا  
 حکم دیا۔

محمد بن ثنی بھی ابوعدی سے وہ حمید سے اور وہ انس سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے بعض علماء اسی پر عمل  
 کرتے ہیں کہ اگر عورت پیدل جانے کی نذر مانے تو اسے چاہئے کہ ایک بکری ذبح کرے یعنی قربانی کرے اور سوار ہو کر جائے۔

باب ۱۰۱۶۔ فی کراهیۃ النذر

۱۳۹۴۔ حدثنا قتيبة ثنا عبدالعزيز بن محمد عن  
 العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال  
 رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنذروا في  
 النذر لا يغني من القدر وإنما يستخرج به من البخيل

۱۳۹۴۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نذر نہ  
 مانو کیونکہ اس سے تقدیر کی کوئی چیز دو نہیں ہو سکتی ہاں البتہ بخیل کا کچھ  
 مال ضرور خرچ ہو جاتا ہے۔

اس باب میں ابن عمر سے بھی حدیث منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے بعض اہل علم صحابہ وغیرہ اسی پر عمل کرتے  
 ہوئے نذر کو مکروہ کہتے ہیں۔ ابن مبارک کہتے ہیں کہ اس کی ممانعت کے معنی یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص اطاعت خداوندی میں نذر مانے اور  
 اسے پورا کرے تو اسے اس کا اجر ملے گا لیکن نذر ماننا مکروہ تھا۔

باب ۱۰۱۷۔ فی وفاء النذر

۱۳۹۵۔ حدثنا اسحاق بن منصور ثنا يحيى بن سعيد  
 القطان عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن  
 عمر قال يارسول الله اني كُنت نذرت ان اعتكف  
 ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية قال اوف بندرك

۱۳۹۵۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے  
 زمانہ جاہلیت میں نذر مانی تھی کہ مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف  
 کروں گا آپ ﷺ نے فرمایا: اپنی نذر پوری کرو۔

اس باب میں عبداللہ بن عمر اور ابن عباس سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حضرت عمر کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض اہل علم اسی حدیث  
 پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اسلام لائے اور اس پر اللہ کی اطاعت ہی میں کوئی نذر ہو تو وہ اسے پورا کرے۔ جب کہ بعض  
 علماء صحابہ اور دیگر علماء کہتے ہیں کہ اعتکاف کے ساتھ روزے رکھنا ضروری ہے لیکن بعض بغیر روزوں کے بھی اعتکاف کو جائز قرار دیتے  
 ہیں۔ الّا یہ کہ وہ خود اپنے اوپر واجب کر لے ان حضرات کی دلیل حضرت عمر کی مذکورہ بالا حدیث باب ہے۔ کہ آپ نے حضرت عمر کو  
 اعتکاف کرنے کا حکم دیا روزے کا نہیں۔ احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

باب ۱۰۱۸- کَیْفَ کَانَ یَمِیْنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۱۰۱۸- آنحضرت ﷺ کس طرح قسم کھایا کرتے تھے۔

۱۳۹۶- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ ثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي عُمَرَ قَالَ كَثِيرًا مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْلِفُ بِهَدْيِهِ الْيَمِينِ لَا وَمُقَلَّبِ الْقُلُوبِ  
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۳۹۶- حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اکثر ان الفاظ سے قسم کھایا کرتے تھے۔ ”لا ومقلب القلوب“۔ یعنی دلوں کے بدلنے والے کی قسم ہے۔

باب ۱۰۱۹- فِی ثَوَابِ مَنْ اعْتَقَ رَقَبَةً

باب ۱۰۱۹- غلام آزاد کرنے کا ثواب۔

۱۳۹۷- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً اعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ حَتَّى يُعْتَقَ فَرَجَهُ بِفَرَجِهِ

۱۳۹۷- حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی شخص کسی مؤمن غلام کو آزاد کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کے ہر عضو کو اس غلام (یا باندی وغیرہ کے ہر عضو کے بدلے میں دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیں گے یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ کو بھی اس کی شرمگاہ کے بدلے میں آزاد کر دیں گے۔

اس باب میں عائشہ، عمر بن عبداللہ، ابن عباس، واثلہ بن اسحق، ابوامامہ، کعب بن مرہ اور عقبہ بن عامر بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔ ابن ہاد کا نام یزید بن عبداللہ بن اسامہ ہاد مدنی ہے وہ ثقہ ہیں ان سے مالک بن انس اور کئی علماء احادیث نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۰۲۰- فِی الرَّجُلِ يَلْطَمُ خَادِمَهُ

باب ۱۰۲۰- جو شخص اپنے خادم کو طمانچہ مارے۔

۱۳۹۸- حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ ثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَصِينِ بْنِ هَلَالٍ بْنِ يَسَافٍ عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ مِقْرَانَ الْمُزَنِيِّ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا سَبَعَ إِخْوَةَ مَالِنَا خَادِمِ إِلَّا وَاجِدَةً فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَعْتَقَهَا

۱۳۹۸- حضرت سوید بن مقرن مزینی کہتے ہیں کہ ہم سات بھائی تھے اور ہمارا ایک ہی خادم تھا ہم میں سے ایک نے اسے طمانچہ مار دیا اس پر آنحضرت ﷺ نے ہمیں اس کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔

اس باب میں ابن عمر بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے یہی حدیث کئی راوی حسین بن عبدالرحمن سے بھی نقل کرتے ہیں لیکن اس میں باندی کو طمانچہ مارنے کا ذکر ہے۔

۱۳۹۹- حضرت ثابت بن ضحاک کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کی جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ اسی طرح ہو جاتا ہے۔

۱۳۹۹- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا اسْحَقُ بْنُ يَوْسُفَ الْإِزْرَقِ عَنْ هِشَامِ الدِّسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَلَفَ  
بِعِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی کسی دوسرے مذہب کی قسم کھائے اور یہ کہے کہ اگر اس نے قلاں  
کام کیا تو وہ یہودی یا نصرانی ہو جائے گا۔ اور بعد میں وہی کام کرنے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا لیکن اس پر کفارہ  
نہیں۔ ابو عبیدہ، مالک اور بعض علماء کا بھی یہی قول ہے جب کہ بعض صحابہ اور تابعین کے نزدیک اسے کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ سفیان ثوری،  
احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔

۱۴۰۰۔ حدثنا محمود بن غيلان ثنا وكيع عن  
سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن  
ابى سعيد الرعيني عن عبدالله بن مالك اليحصبي  
عن عقبه بن غامر قال قلت يا رسول الله ان اُخْتِي  
نَذَرْتُ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ  
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ  
بِشِقَاقٍ أُخْتِكَ فَلْتَرْكَبِ وَلْتَحْتَمِرِ وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

۱۴۰۰۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ!  
میری بہن نے نذر مانی تھی کہ بیت اللہ ننگے پاؤں اور بغیر چادر کے چل  
کر جائے گی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کو تمہاری بہن کی اس سختی کو  
جھیلنے کی ضرورت نہیں۔ لہذا اسے چاہئے کہ سوار ہو اور چادر اوڑھ کر  
جائے اور تین روزے رکھے۔

اس باب میں ابن عباس سے بھی حدیث منقول ہے یہ حدیث حسن ہے بعض علماء اسی پر عمل کرتے ہیں۔ احمد اور اسحاق کا بھی یہی  
قول ہے۔

۱۴۰۱۔ حدثنا اسحق بن منصور ثنا ابو المغيرة ثنا  
الاوزاعي ثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن  
ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
مَنْ خَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي خَلْفِهِ وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى  
فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ تَعَالَى أَقَامَكَ فَلْيَتَصَدَّقْ

۱۴۰۱۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی  
شخص لات اور عزی کی قسم کھائے تو اسے چاہئے کہ ”لا الہ  
الا اللہ“ کہے۔ اور اگر کوئی کسی سے کہے کہ آؤ جو اٹھیلین تو اسے  
صدقہ دینا چاہئے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابو نعیرہ: خولانی تمیمی ہیں ان کا نام عبد القدوس بن حجاج ہے۔

باب ۹۰۲۱۔ قَضَاءُ النَّذْرِ عَنِ الْمَيِّتِ

۱۴۰۲۔ حدثنا قتيبة ثنا الليث عن ابن شهاب عن  
عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس أنّ  
سَعْدَ بْنَ عِبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تَوَقَّيْتُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ  
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْضِهِ عَنْهَا

باب ۱۰۲۱۔ میت کی طرف سے نذر پوری کرنا  
۱۴۰۲۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سعد بن عبادہ نے آنحضرت  
ﷺ سے پوچھا کہ میری والدہ نے نذر مانی تھی اور وہ اسے پورا کرنے  
سے پہلے فوت ہو گئیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا تم ان کی طرف سے وہ نذر  
پوری کرو۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۰۲۲۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ اَعْتَقَ

۱۴۰۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَلْعَلِيِّ ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عِيْنَةَ وَهُوَ اَخُو سَفِيَانَ بْنِ عِيْنَةَ عَنْ حَصِيْنِ عَنْ سَالِمِ بْنِ الْجَعْدِ عَنْ اَبِيْ اَمَامَةَ وَغَيْرِهِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِكَاهُكَ مِنَ النَّارِ يُجْزِيْ كُلُّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنْهُ وَ اَيُّمَا امْرِئٍ ءِ مُسْلِمٍ اَعْتَقَ امْرَاَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فِكَاهُكَ مِنَ النَّارِ يُجْزِيْ كُلُّ عَضْوٍ مِنْهُمَا عَضْوًا مِنْهُ وَ اَيُّمَا امْرَاةٍ مُسْلِمَةٍ اَعْتَقَتْ امْرَاةً مُسْلِمَةً كَانَتْ فِكَاهُهَا مِنَ النَّارِ يُجْزِيْ كُلُّ عَضْوٍ مِنْهَا عَضْوًا مِنْهَا

یہ حدیث اسی سند سے حسن صحیح غریب ہے۔

أَبْوَابُ السَّيْرِ عَنْ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۱۰۲۳۔ مَا جَاءَ فِي الدَّعْوَةِ قَبْلَ الْقِتَالِ

۱۴۰۴۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا ابُو عَوَانَةَ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ الشَّيْبِ عَنْ اَبِي الْبَحْرِيِّ اَنَّ حَيْشًا مِنْ جُبُوشِ الْمُسْلِمِيْنَ كَانَ اَمِيْرُهُمْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ حَاضِرًا وَ اَقْصَرًا مِنْ قُصُوْرٍ فَارِسٍ فَقَالُوْا يَا اَبَا عَبْدِ اللهِ اَلَا نَنْهَدُ اِلَيْهِمْ قَالَ دَعُوْنِيْ اَدْعُوْهُمْ كَمَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوْهُمْ فَاتَاهُمْ سَلْمَانٌ فَقَالَ لَهُمْ اِنَّمَا اَنَا رَجُلٌ مِنْكُمْ فَارِسِيٌّ تَرَوْنَ الْعَرَبَ يُطْرِقُوْنِيْ فَاِنْ اَسْلَمْتُمْ فَلَكُمْ مِثْلُ الَّذِي لَنَا وَ عَلَيَّكُمْ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَا وَ اِنْ اَبَيْتُمْ اِلَّا دِيْنََكُمْ فَتَرَكْنَاكُمْ عَلَيْهِ وَ اعْطُوْنَا الْحِزْبِيَّةَ عَنْ يَدَيْكُمْ صَاغِرُوْنَ قَالَ وَرَطْنٌ اِلَيْهِمْ بِالْفَارِسِيَّةِ وَ اَنْتُمْ غَيْرُ مَحْمُوْدِيْنَ وَ اِنْ اَبَيْتُمْ نَالِدْكُمْ عَلَيَّ سَوَاءٌ قَالُوْا مَا نَحْنُ بِالْبَدِيْئِيْ يُعْطَى الْحِزْبِيَّةَ وَ لَكِنَّا نَقَاتِلُكُمْ فَقَالُوْا يَا اَبَا عَبْدِ اللهِ اَلَا

باب ۱۰۲۲۔ گردنیں آزاد کرنے کی فضیلت

۱۴۰۳۔ حضرت ابوامامہ اور بعض صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے گا اس کے بدلے اس آزاد کرنے والے کا ہر عضو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا جائے گا اور جو شخص دو مسلمان باندیوں کو آزاد کرے گا ان کے تمام اعضاء اس شخص کے ہر عضو کا دوزخ کی آگ سے فدیہ ہو جائیں گے اور کوئی عورت کسی مسلمان عورت کو آزاد کرے گی تو اس آزاد کی جانے والی عورت کا ہر عضو اس عورت کے ہر عضو کا دوزخ کی آگ سے فدیہ ہوگا۔

جہاد کے متعلق رسول اللہ ﷺ سے

منقول احادیث کے ابواب

باب ۱۰۲۳۔ جنگ سے پہلے اسلام کی دعوت دینا۔

۱۴۰۴۔ ابو بختری کہتے ہیں کہ سلمان فارسی کی قیادت میں ایک لشکر نے فارس کے ایک قلعے کا محاصرہ کیا تو لوگوں نے عرض کیا: اے ابوعبداللہ! ان پر دھاوا نہ بول دیں؟ فرمایا: مجھے ان کو دعوت دے لینے دو جیسے کہ رسول اللہ ﷺ دعوت دیا کرتے تھے۔ چنانچہ سلمان ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا: دیکھو میں بھی تمہاری لوگوں میں سے ہوں اور فارس ہی کا رہنے والا ہوں۔ تم دیکھ رہے ہو کہ عرب میری اطاعت کر رہے ہیں۔ لہذا اگر تم لوگ اسلام لے آؤ تو تمہارے لیے بھی وہی کچھ ہے جو ہمارے لیے ہے اور تم پر بھی وہی کچھ ہے جو ہم پر ہے۔ لیکن اگر تم لوگ اپنے دین پر ہی قائم رہنے پر مصر ہو تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں بشرطیکہ تم لوگ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ سلمان نے یہ تقریر فارسی میں کی اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر تم لوگ انکار کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ ہم تم لوگوں کو آگاہ کرنے کے بعد جنگ کریں گے۔ انہوں نے کہا: ہم ان لوگوں میں

سے نہیں جو تمہیں جزیہ دے دیں بلکہ ہم جنگ کریں گے لشکر والوں نے عرض کیا: اے ابو عبد اللہ! ان پر بلہ نہ بول دیں؟ فرمایا: نہیں پھر تین دن تک انہیں اسی طرح اسلام کی دعوت دیتے رہے اور اس کے بعد بلہ بولنے کا حکم دیا۔ ہم لوگوں نے حملہ کر دیا اور وہ قلعہ فتح کر لیا۔

تَنْهَدُ إِلَيْهِمْ قَالَ لَا قَالَ فَدَعَاهُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَىٰ مِثْلِ هَذَا ثُمَّ قَالَ أَنْهَدُوا إِلَيْهِمْ قَالَ فَهَنَدْنَا إِلَيْهِمْ فَفَتَحْنَا ذَلِكَ الْقَصْرَ

اس باب میں بریدہ، نعمان بن مقرن، ابن عمر بن عباسؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، ہم اسے صرف عطاء بن سائب کی روایت سے جانتے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ابو بکرؓ نے حضرت سلمانؓ کا زمانہ نہیں پایا کیونکہ حضرت علیؓ سے بھی ان کا سماع ثابت نہیں اور سلمانؓ علیؓ سے پہلے فوت ہو گئے تھے۔ بعض علماء اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے جنگ سے پہلے دعوت کا حکم دیتے ہیں اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر پہلے سے دعوت دی جائے تو اس سے اور زیادہ ہیبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں دعوت کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ امام احمد کہتے ہیں: مجھے علم نہیں کہ آج بھی کسی کو دعوت کی ضرورت ہے۔ امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ دعوت دینے سے پہلے جنگ نہ شروع کی جائے۔ ہاں اگر وہ خود مسلمانوں پر حملہ کر دیں تو پھر انہیں دعوت نہ دینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

۱۴۰۵۔ حضرت عصام مزی صحابی رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اگر کوئی چھوٹا یا بڑا لشکر روانہ کرتے تو فرماتے: اگر تم لوگ کسی جنگ مسجد و طیلو، یا اذان کی آواز سن لو تو وہاں کسی کو قتل نہ کرو۔

۱۴۰۵۔ حدثنا محمد بن يحيى العدنى المكي ويكنى بابي عبدالله الرجل الصالح هو ابن ابي عمر ثنا سفيان بن عيينة عن مساجق عن ابن عاصم المزيبي وكانت له صحبة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية يقول لهم إذا رأيتم مسلحاً أو سمعتم مؤذناً فلا تقتلوا أحداً

یہ حدیث حسن غریب ہے اور ابن عیینہ سے منقول ہے۔

باب ۱۰۲۳۔ شب خون مارنے اور حملہ کرنے کے متعلق۔

باب ۱۰۲۴۔ فی البیاتِ والغاراتِ

۱۴۰۶۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب غزوہ خیبر کے لیے نکلے تو وہاں رات کو پہنچے۔ آپ ﷺ کا معمول تھا کہ اگر کسی قوم کے پاس رات کو پہنچتے تو صبح ہونے سے پہلے حملہ نہیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو یہودی اپنے پھاڑے اور تھیلے وغیرہ لے کر آپ ﷺ کی آمد سے بے خبر کھیتی باڑی کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ لیکن جب آپ ﷺ کو دیکھا تو کہنے لگے محمد آگئے۔ خدا کی قسم محمد ﷺ لشکر لے کر آگئے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ اکبر! خیبر برباد ہو گیا۔ ہم لوگ جب کسی قوم کے میدان جنگ میں اترتے ہیں تو اس ڈرائی گئی قوم کی صبح بڑی بڑی ہوتی ہے۔

۱۴۰۶۔ حدثنا الانصاري ثنا معن ثني مالك بن انس عن حميد عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج الى خيبر اتاه ليلاً وكان إذا جاء قوماً بليل لم يعز عليهم حتى يصبح فلما أصبح خرجت يهود بمساجيهم ومكاتبهم فلما رأوه قالوا محمد وافق والله محمد بن الحميس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين

۱۴۰۷۔ حدثنا قتيبة و محمد بن بشار فالاننا معاذ بن معاذ عن سعيد بن ابى عروبة عن قتادة عن أنس عن ابى طلحة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا ظهر على قوم أقام بعرضتهم ثلاثاً

۱۳۰۷۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ کسی قوم پر فتح حاصل کر لیتے تو ان کے میدان جنگ میں تین دن تک قیام کرتے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور حضرت انس کی حدیث بھی حسن صحیح ہے۔ بعض علماء رات کو حملہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں جب کہ بعض اسے مکروہ کہتے ہیں۔ احمد اور اسحاق کہتے ہیں کہ دشمن پر شب خون مارنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ ”وافق محمد الخمیس“ کا مطلب یہ ہے کہ محمد کے ساتھ لشکر بھی ہے۔

باب ۱۰۲۵۔ فی التَّحْرِيقِ وَالتَّخْرِيبِ

باب ۱۰۲۵۔ کفار کے گھروں کو آگ لگانا اور برباد کرنا۔

۱۴۰۸۔ حدثنا قتيبة ثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بنى النضير وقطع وهى البؤيرة فانزل الله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فإذن الله ولي الحزب الفاسقين

۱۳۰۸۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے قبیلہ بنو نضیر کے کھجوروں کے درخت جلا اور کٹوادیئے۔ جو بویرا کے مقام پر تھے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ”ما قطعتم من لينة“..... الآية۔ ترجمہ: جو کھجور کے درخت آپ نے کاٹ ڈالے یا انہیں ان کی جڑوں پر چھوڑ دیا تو یہ اللہ کے حکم سے ہوا تاکہ منافرانوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کریں۔

اس باب میں ابن عباس سے بھی حدیث منقول ہے۔ حضرت ابن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے اور اہل علم کی ایک جماعت قلعوں کو برباد کرنے اور درختوں کو کاٹ ڈالنے کی اجازت دیتی ہے جبکہ بعض کے نزدیک ایسا کرنا مکروہ ہے اور زامی کا بھی یہی قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے پھل دار درخت کو کاٹنے اور گھروں کو برباد کرنے سے منع فرمایا چنانچہ ان کے بعد مسلمانوں نے اسی پر عمل کیا۔ امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ دشمن کے علاقے میں درخت و پھل کاٹنے اور آگ لگادینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ امام احمد کہتے ہیں کہ بوقت ضرورت ایسا کرنے کی اجازت ہے بلا ضرورت نہیں۔ اسحاق کا کہنا ہے کہ اگر کافراں سے ذلیل ہوں تو آگ لگانا سنت ہے۔

ب۔ ۱۰۲۶۔ مَا جَاءَ فِي الْغَيْمَةِ

باب ۱۰۲۶۔ مال غنیمت کے متعلق۔

۱۴۰۹۔ حدثنا محمد بن عبيد المحاربي ثنا اسباط بن محمد عن سليمان التيمي عن سيار عن ابى أمامة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال إن الله فضلى على الانبياء أو قال أمتى على الأمم وأحل لنا الغنائم

۱۳۰۹۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء پر فضیلت بخشی یا فرمایا میری امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی اور ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال کیا۔

اس باب میں علی، ابو ذر، عبد اللہ بن عمرو اور ابن عباس سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور یہ سار، بنی معاویہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ سلیمان تمیمی، عبد اللہ بن بکیر اور کئی راوی ان سے احادیث نقل کرتے ہیں۔

۱۴۱۰۔ حدثنا علي بن حجر ثنا اسمعيل بن جعفر

۱۳۱۰۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے انبیاء

پر چھ فضیلتیں عطا کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا۔  
دوسری یہ کہ مجھے رعب عطا کیا گیا تیسری یہ کہ مال غنیمت میرے لیے  
حلال کر دیا گیا چوتھی یہ کہ پوری زمین میرے لیے مسجد اور طہور (پاک  
کرنے والی) بنا دی گئی۔ پانچویں مجھے پوری مخلوق کے لیے بھیجا گیا اور  
چھٹی یہ کہ مجھ پر انبیاء کا خاتمہ کر دیا گیا۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ بہت کم اور معانی بہت زیادہ ہوں۔

باب ۱۰۲۷۔ گھوڑے کا مال غنیمت میں حصہ

۱۳۱۱۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مال غنیمت تقسیم  
کرتے وقت گھوڑے کو دو اور آدمی کو ایک حصہ دیا۔

محمد بن بشر بھی عبد الرحمن بن مہدی سے اور وہ سلیم بن اخضر سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ ابن عمر کی حدیث حسن صحیح  
ہے اکثر علماء اسی پر عمل پیرا ہیں۔ ثوری، اوزاعی، مالک، شافعی، ابن مبارک اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے کہ گھڑ سوار کو تین حصے دیئے  
جائیں ایک اس کا اور دو گھوڑے کے۔ جب کہ بیدل لڑنے والے کو ایک حصہ دیا جائے۔

باب ۱۰۲۸۔ لشکروں کے متعلق۔

۱۳۱۲۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بہترین  
صحابہ چار، بہترین لشکر چار سوار، بہترین فوج چار ہزار جوانوں کی ہے۔  
خبردار بارہ ہزار آدمی قلت کی وجہ سے شکست نہ کھائیں۔

باب ۱۰۲۸۔ مَا جَاءَ فِي السَّرَايَا

۱۴۱۲۔ حدثنا محمد بن يحيى الازدي البصري  
وابوعمار وغير واحد قالوا ثنا وهب بن جرير عن  
ابيه عن يونس بن يزيد عن عبد الله بن عتبة عن ابن  
عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير  
الصحابة اربعة وخير السرايا اربع مائة وخير الحيوش  
اربعة الاف ولا يغلب اثنا عشر الفا من قلة

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اسے جریر بن حازم کے علاوہ کسی بڑے محدث نے مرفوع نہیں کیا۔ زہری یہ حدیث آنحضرت ﷺ سے  
مرسلاً بھی نقل کرتے ہیں۔ جہان بن علی غزالی بھی یہ حدیث عقیل سے وہ زہری سے وہ عبید اللہ بن عبد اللہ سے وہ ابن عباس سے اور وہ آنحضرت  
ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ لیث بن سعد نے یہ حدیث بواسطہ عقیل آنحضرت ﷺ سے مرسلاً نقل کی ہے۔

باب ۱۰۲۹۔ فی کمال کے دیا جائے۔

باب ۱۰۲۹۔ مَنْ يُعْطَى الْقِيَاءُ

۱۳۱۳۔ یزید بن ہریر کہتے ہیں کہ جبہ حروری نے ابن عباس کو لکھا کہ کیا  
رسول اللہ ﷺ جہاد کے لیے عورتوں کو ساتھ لے جایا کرتے اور انہیں

۱۴۱۳۔ حدثنا قتيبة ثنا حاتم بن اسمعيل عن  
جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نحددة

مال غنیمت میں سے حصہ دیا کرتے تھے؟ تو ابن عباسؓ نے انہیں لکھا کہ تم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ کیا آنحضرت ﷺ عورتوں کو جہاد میں ساتھ رکھتے تھے، یا نہیں؟ ہاں رسول اللہ ﷺ انہیں ساتھ لے جا کرتے تھے اور یہ بیماروں کی مرہم پٹی اور علاج وغیرہ کیا کرتی تھیں اور انہیں مال غنیمت میں سے بطور انعام کچھ دے دیا جاتا تھا لیکن ان کے لیے کوئی خاص حصہ مقرر نہیں کیا گیا۔

الْحُرُورِيُّ كَتَبَ ابْنِي ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُوا بِالنِّسَاءِ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ كَتَبْتُ ابْنِي تَسْأَلُنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُوا بِالنِّسَاءِ وَكَانَ يَغْزُو بِيَهِنَّ قَيْدًا وَبِالنِّسَاءِ وَبِالْمَرْصُطِيِّ وَيُحْدِثُنَّ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَأَمَّا السَّهْمُ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ بِسَهْمٍ

اس باب میں انسؓ اور ام عطیہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اکثر علماء اسی حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ سفیان ثوری اور شافعی کا بھی یہی قول ہے۔ جب کہ انہیں علماء کے نزدیک عورت اور لڑکی کو بھی حصہ دیا جائے۔ اوزاعی بھی اسی کے قائل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خیبر میں بچوں کا بھی حصہ مقرر کیا اور ائمہ نے مسلمانوں کے ہر مولود کا حصہ مقرر کیا جو میدان جنگ میں پیدا ہوا۔ اسی طرح آنحضرت ﷺ نے خیبر میں عورتوں کا بھی حصہ مقرر کیا۔ چنانچہ مسلمانوں نے آپ ﷺ کی وفات کے بعد اسی پر عمل کیا۔ اوزاعی کا یہ قول علی بن خشرم، عیسیٰ بن یونس سے اور وہ اوزاعی سے نقل کرتے ہیں۔ ”یحدین من الغنیمۃ“ سے مراد یہ ہے کہ انہیں مال غنیمت میں سے بطور انعام کچھ دے دیا جاتا تھا۔

باب ۱۰۳۰۔ نَسَبُ سَهْمٍ لِلْعَبْدِ

باب ۱۰۳۰۔ کیا غلام کو بھی حصہ دیا جائے گا؟

۱۴۱۴۔ ابوم کے مولیٰ عمیر کہتے ہیں کہ میں خیبر میں اپنے آقاؤں کے ساتھ شریک تھا۔ انہوں نے آنحضرت ﷺ سے میرے متعلق بات کی اور بتایا کہ میں غلام ہوں۔ آپ ﷺ نے حکم دیا تو میرے بدن پر ایک تلوار لٹکا دی گئی۔ میں کوتاہ قامت ہونے کی وجہ سے اسے کھینچتا ہوا چلتا تھا۔ چنانچہ آپ ﷺ نے میرے لیے مال غنیمت میں سے کچھ گھریلو اشیاء دینے کا حکم دیا۔ پھر میں نے آنحضرت ﷺ کے سامنے ایک دم بیان کیا جو میں پاگل لوگوں پر پڑھ کر پھونکا کرتا تھا تو آپ ﷺ نے مجھے اس میں سے کچھ الفاظ چھوڑ دینے اور کچھ یاد رکھنے کا حکم دیا۔

۱۴۱۴۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا بَشْرُ بْنُ الْمَفْضَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى ابْنِي اللَّحْمِ قَالَ شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَتِي فَكَلَّمُونَا فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّمُونَهُ ابْنِي مَمْلُوكًا قَالَ فَأَمَرَنِي فَقَبَلْتُ السَّيْفَ فَإِذَا أَنَا أَحْرُهُ فَأَمَرَنِي بِشَيْءٍ مِنْ خُرَّتِي الْمَتَاعِ وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ رُقِيَّةً كُنْتُ أَرْفِي بِهَا الْمَحَانِيْنَ فَأَمَرَنِي بِطَرْحِ بَعْضِهَا وَحَبْسِ بَعْضِهَا

اس باب میں ابن عباسؓ سے بھی حدیث منقول ہے۔ مذکورہ بالا حدیث حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء اسی پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غلام کو بطور انعام کچھ دے دیا جائے۔ ثوری، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

باب ۱۰۳۱۔ ذِي اِغْرَمٍ اِذَا جَاءَ فِي اَهْلِ الدِّمَةِ يَغْزُونَ مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ هَلْ يُسَهَّمُ لَهُمْ

باب ۱۰۳۱۔ مَا جَاءَ فِي اَهْلِ الدِّمَةِ يَغْزُونَ مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ هَلْ يُسَهَّمُ لَهُمْ

۱۴۱۵۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جنگ بدر کے لیے

۱۴۱۵۔ حَدَّثَنَا الْانصَارِيُّ ثَنَا مَعْنُ ثَنَا مَالِكُ بْنُ

نکلے اور حرۃ الوبر کے مقام پر پہنچے تو ایک مشرک آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا جو دلیری میں مشہور تھا۔ آپ ﷺ نے اس سے پوچھا کیا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر جاؤ میں کسی مشرک سے مدد نہیں لینا چاہتا۔ اس حدیث میں اور بھی کلام ہے۔

انس عن الفضیل ابن ابی عبداللہ عن عبداللہ بن دینار الا سلمی عن عروۃ عن عائشۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الی بدر حتی اذا کان بحرۃ الوبر لحقہ رجل من المشرکین یدکر منہ جرأۃ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تؤمن باللہ ورسولہ قال لا قال فارجع فلن استعین بمشرک وفي الحدیث کلام اکثر من هذا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض علماء اسی پر عمل کرتے ہیں کہ مشرک اگر مسلمانوں کے ساتھ لڑائی میں شریک بھی ہو تو بھی مال غنیمت میں اس کا کوئی حصہ نہیں جب کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اسے حصہ دیا جائے۔ زہری سے منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یہودیوں کی ایک جماعت کو حصہ دیا جو آپ ﷺ کے ساتھ جنگ میں شریک تھے۔ یہ حدیث قمیمہ، عبدالوارث بن سعید سے وہ عروہ سے اور وہ زہری سے نقل کرتے ہیں۔

۱۴۱۶۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں خیبر کے اشعریوں کی جماعت کے ساتھ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ نے ہمارے لیے بھی خیبر فتح کرنے والوں کے ساتھ حصہ مقرر کیا۔

۱۴۱۶۔ حدثنا یوسف بن سعید الاشج ثنا حفص بن ابی یزید عن ابی موسیٰ قال قُدمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نفر من الأشعریین حبیبہ ما سہم لنا مع الذی افتتحوها

یہ حدیث سن صحیح غریب ہے۔ اہل علم اسی پر عمل کرتے ہیں۔ اوزاعی کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں سے غنائم کی تقسیم سے پہلے ملے۔ اسے بھی حصہ دیا جائے۔

باب ۱۰۳۲۔ مشرکوں کے برتن استعمال کرنا۔  
۱۴۱۷۔ حضرت ابو ثعلبہ خشعی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے مجوسیوں کی بانڈیوں کا حکم پوچھا گیا تو فرمایا: انہیں دھو کر صاف کر لو اور پھر ان میں پکارا۔ اور آپ ﷺ نے کچی والے درندوں کو کھانے سے منع فرمایا۔

باب ۱۰۳۲۔ ما جاء فی الانتفاع بانیۃ المشرکین  
۱۴۱۷۔ حدثنا زید بن احزم الطائی ثنا ابو قتیبہ سلم ابن قتیبہ ثنا شعبۃ عن ایوب عن ابی قلابہ عن ابی ثعلبۃ الخشنی قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قُدورِ المَجُوسِ قال انقُوها غسلاً واطبخوها فیہا ونہی عن کلِّ سبعِ ذی ناب

یہ حدیث ابو ثعلبہ سے اور بھی کئی سندوں سے منقول ہے۔ یہ حدیث ابودریس خولانی بھی ابو ثعلبہ سے نقل کرتے ہیں۔ ابو قلابہ کا ابو ثعلبہ سے سماع ثابت نہیں وہ اسے ابواسماء کے واسطے سے نقل کرتے ہیں۔

۱۴۱۸۔ حضرت ابودریس خولانی عائد اللہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ثعلبہ خشعی سے سنا کہ: میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! تم اہل کتاب کی زمین پر سے اور انہی کے برتنوں میں کھاتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر ان سے ملاو

۱۴۱۸۔ حدثنا ہناد ثنا ابن المبارک عن حیوۃ بن شریح قال سمعت ربیعۃ بن یزید الدمشقی یقول ان خبرنی ابو ادریس الخولانی عن عائذ اللہ بن عبید اللہ قال سمعت ابا ثعلبۃ الخشنی یقول اتیت رسول اللہ

اور برتن موجود ہوں تو ان میں نہ کھایا کرو۔ لیکن اگر اور برتن نہ ہوں تو انہیں دھو کر ان میں کھا سکتے ہو۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ رُومٍ هَلَّ الْكِتَابُ نَأْكُلُ فِي أَيْتِهِمْ قَالَ إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ أَيْتِهِمْ فَلَا تَأْكُلُوا فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاعْسِلُوا وَكُلُوا فِيهَا  
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۰۳۳۔ نفل کے متعلق۔

باب ۱۰۳۳۔ فی النفل

۱۴۱۹۔ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ابتداء جہاد میں چوتھائی مال غنیمت تقسیم کر دیا کرتے تھے اور تہائی حصہ لوٹنے وقت تقسیم کرتے۔

۱۴۱۹۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن بن مهدى ثنا سفين عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن أبي أمامة عن عبادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنْفِلُ فِي الْبِدَاةِ الرَّبْعَ وَفِي الْقُفُولِ الثَّلَاثَ

اس باب میں ابن عباسؓ، حبيب بن مسلمہؓ، معن بن یزیدؓ، ابن عمرؓ اور سلمہ بن اوعؓ سے بھی احادیث نقل کی گئی ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے اور ابو سلام سے بھی ایک صحابی کے واسطے سے آنحضرت ﷺ سے منقول ہے۔

۱۴۲۰۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے بدر کے موقع پر اپنی تلوار ذوالفقار نفل میں لی اور احد کے موقع پر اس کے متعلق خواب دیکھا۔

۱۴۲۰۔ حدثنا هناد ثنا ابن ابى الزناد عن ابيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَفَّلَ سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ الَّذِي رَأَى فِيهِ الرَّؤْيَا يَوْمَ أُحُدٍ

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف ابو زناد کی روایت سے جانتے ہیں۔ علماء کا نفس غنیمت میں سے نفل دینے میں اختلاف ہے۔ امام مالک کہتے ہیں: ہمیں یہ خبر نہیں پہنچی کہ آنحضرت ﷺ نے ہر جہاد میں نفل تقسیم کیا ہو۔ ہاں بعض غزوات میں ایسا ہوا۔ لہذا یہ امام کی رائے کی طرف تفویض کر دیا جائے گا کہ جس طرح مناسب سمجھے تقسیم کرے شروع میں یا آخر میں۔ منصور کہتے ہیں میں نے احمد سے پوچھا کہ کیا نبی کریم ﷺ نے جہاد میں نکلنے کے وقت خمس کے بعد چوتھائی تقسیم کیا اور لوٹنے وقت خمس کے بعد تہائی مال تقسیم کیا؟ فرمایا: آنحضرت ﷺ مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ نکال کر باقی میں سے ثلث تک تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ جب کہ سعید بن مسیب کا مسلک یہ ہے کہ نفل خمس میں داخل ہے۔ اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

توضیح: امام وقت کے لیے جائز ہے کہ وہ مال غنیمت میں سے کسی کو بوجہ مصلحت زیادہ دے دے چنانچہ آنحضرت ﷺ بھی بعض غزوات میں کوہان کے حصے سے زیادہ دیا کرتے تھے۔ علماء کا اس مال کی ادائیگی میں اختلاف ہے کہ کیا وہ اصل مال غنیمت میں سے دی جائے گی یا اس خمس سے جس کی تفصیل اوپر مذکور ہے جب کہ حدیث ۱۴۱۹ میں چوتھائی مال غنیمت تقسیم کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب جنگ کے شروع میں کوئی دستہ دشمنوں پر ٹوٹ پڑتا..... تو آپ ﷺ ان سے غنیمت کے چوتھائی حصے کا وعدہ فرماتے اور باقی تین حصے لشکر میں تقسیم کرتے۔ اور جب لشکر لوٹتا اور ایک گروہ دوبارہ اس کے مقابلے کے لیے جاتا تو اس کو مال غنیمت کا تیسرا حصہ دیتے اس لیے کہ ایک مرتبہ لڑائی کے بعد دوبارہ مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۱۰۳۴۔ مَا جَاءَ فِي مَنْ قُتِلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلْبُهُ  
 ۱۴۲۱۔ حدثنا الانصاری ثنا معن ثنا مالك بن  
 انس عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن افلح  
 عن ابى محمد مولى ابى قتادة عن ابى قتادة قال  
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا  
 له عليه بيعة فله سلبه وفي الحديث قصة

ابن عمر، سفیان سے وہ یحییٰ بن سعید سے اسی سند سے اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس باب میں عوف بن مالک، خالد بن ولید، انس اور سمرہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو محمد کا نام نافع ہے اور وہ ابو قتادہ کے مولیٰ ہیں۔ بعض علماء صحابہ وغیرہ اسی حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اوزاعی، شافعی اور احمد کا بھی یہی قول ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ امام سلب میں سے خنس نکالے ٹوری کہتے ہیں کہ تنقیل یہی ہے کہ امام کہدے جو کچھ بھی کافروں سے کوئی چھینے گا وہ اس میں سے خنس لے سکتا ہے جیسے کہ عمر نے کیا۔

باب ۱۰۳۵۔ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْمُغَانِمِ حَتَّى تُقَسَمَ  
 ۱۴۲۲۔ حدثنا هناد ثنا حاتم بن اسماعيل عن  
 جهضم بن عبدالله عن محمد بن ابراهيم عن  
 محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن ابى سعيد  
 الخدرى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم  
 عن شراء المغانم حتى تقسم

اس باب میں ابو ہریرہ سے بھی حدیث منقول ہے یہ حدیث غریب ہے۔  
 باب ۱۰۳۶۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ وَطِي الْحَبَالِي مِنَ  
 السَّبَايَا  
 ۱۴۲۳۔ حدثنا محمد بن يحيى النيسا بوري ثنا  
 ابو عاصم النبيل عن وهب بن ابى خالد قال  
 حدثتني ام حبيبة بنت عرناض بن سارية ان رسول  
 الله صلى الله عليه وسلم نهى ان توطأ السبايا حتى  
 يرضعن ما في بطونهن

اس باب میں رومثع بن ثابت بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ عرباض کی حدیث غریب ہے۔ اہل علم اسی پر عمل کرتے ہیں۔ اوزاعی کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب سے منقول ہے کہ اگر کوئی باندی خرید لیا جائے اور وہ حاملہ ہو تو اس سے بچہ پیدا ہونے سے پہلے صحت نہ کی جائے۔ مزید کہتے ہیں کہ آزاد عورتوں میں تو معروف ہے کہ وہ عدت پوری کریں۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث علی بن خشرم، عیسیٰ ابن یونس سے اور وہ اوزاعی سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۰۳۷۔ مَا جَاءَ فِي طَعَامِ الْمُشْرِكِينَ

۱۴۲۴۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اخْبَرْنِي سَمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ قَبِيصَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طَعَامِ النَّصَارَى فَقَالَ لَا يَتَخَلَّجَنَّ فِي صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعَتْ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةُ

باب ۱۰۳۷۔ مشرکین کے کھانے کا حکم۔

۱۳۲۳۔ حضرت قبیصہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے طعام نصاری کا حکم پوچھا تو فرمایا ایسا کھانا جس میں نصرانیت کی مشابہت ہو تمہارے سینے میں شک پیدا نہ کرے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمود اور عبید اللہ بن موسیٰ بھی اسراہیل سے وہ سماک سے وہ قبیصہ سے اور وہ اپنے والد سے اسی طرح کی حدیث مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔ پھر محمود اور وہب، شعبہ سے وہ سماک سے وہ مری بن قطری سے وہ عدی بن حاتم سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے اسی کے مثل روایت بیان کرتے ہیں۔ علماء اسی پر عمل کرتے ہوئے اہل کتاب کے طعام کو کھانے کی اجازت دیتے ہیں۔

باب ۱۰۳۸۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّبْيِ

۱۴۲۵۔ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ نَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهَبٍ اخْبَرْنِي حَسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُبَلِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَيْهِ وَوَلَدَيْهَا فَفَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

باب ۱۰۳۸۔ قیدیوں کے درمیان تفریق کرنا۔

۱۳۲۵۔ حضرت ابویوب کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے بیٹے اور ماں کے درمیان تفریق کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اور اس کے دوستوں کے درمیان تفریق کر دیں گے۔ (تفریق بمعنی جدائی)۔

اس باب میں علیؑ سے بھی حدیث منقول ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے اہل علم صحابہ اور دیگر علماء اسی پر عمل پیرا ہیں۔ ان حضرات کے نزدیک قیدیوں میں بیٹے اور ماں کے درمیان جدائی ڈالنا مکروہ ہے یہی کہیے، باپ اور بھائیوں کا بھی ہے۔ یعنی تقسیم اور بیچنے وقت۔

باب ۱۰۳۹۔ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْأَسَارَى وَالْفِدَاءِ

۱۴۲۶۔ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ وَاسِمَةُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ قَالَا ثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ جَبْرَيْلَ هَبَطَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ خَيْرُهُمْ يَعْنِي أَصْحَابَكَ فِي أُسَارَى بَدْرِ الْقَتْلُ أَوْ الْفِدَاءُ عَلَيَّ أَنْ يُقْتَلَ مِنْهُمْ قَابِلٌ مِثْلَهُمْ قَالُوا الْفِدَاءُ وَيُقْتَلُ مِنَّا

باب ۱۰۳۹۔ قیدیوں کو قتل کرنے اور فدیہ لینے سے متعلق

۱۳۲۶۔ حضرت علیؑ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ جبریلؑ آئے اور فرمایا کہ اپنے صحابہ کو بدر کے قیدیوں کے قتل اور فدیہ کے متعلق اختیار دے دیجئے۔ اگر یہ لوگ فدیہ اختیار کریں گے تو آئندہ سال ان میں سے ان قیدیوں کے برابر آدمی قتل ہو جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے فدیہ اختیار کیا اور یہ کہ ہم میں سے آئندہ سال قتل کیے جائیں۔

اس باب میں ابن مسعودؓ، انسؓ، ابوہریرہؓ اور جبر بن مطعمؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث ثوری کی روایت سے حسن غریب ہے ہم اسے صرف ابن ابی زائدہ کی روایت سے جانتے ہیں۔ ابواسامہ، ہشام سے وہ ابن سیرین سے وہ عبیدہ سے وہ علیؑ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ ابن عون بھی ابن سیرین سے وہ عبیدہ سے وہ علیؑ سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے مرسل نقل کرتے ہیں۔ ابوداؤد حضری کا نام عمر بن سعد ہے۔

۱۴۲۷۔ حدثنا ابن ابی عمر ثنا سفیان ثنا ایوب عن ابی قلابہ عن عمہ عن عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

۱۴۲۷۔ حضرت عمران بن حصینؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مشرک کے بدلے دو مسلمانوں کو قید سے آزاد کرایا۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے ابو قلابہ کے چچا کی کنیت ابوالمہلب اور ان کا نام عبدالرحمن بن عمرو ہے۔ انہیں معاویہ بن عمرو بھی کہتے ہیں ابو قلابہ کا نام عبداللہ بن زید جری ہے۔ اکثر علماء صحابہ اور دیگر علماء یہی کہتے ہیں کہ امام کو اختیار ہے کہ قیدیوں میں سے جسے چاہے قتل کرے، جسے چاہے مفت چھوڑ دے اور جسے چاہے کچھ مال لے کر چھوڑے۔ بعض علماء قتل ہی کو اختیار کرتے ہیں۔ اوزاعی کہتے ہیں کہ مجھے خبر ملی ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ ”فاما منا بعد واما فداء“ یعنی اس کی تاح قتال کا حکم دینے والی آیت ہے کہ ”فافتلواہم حیث ثقتموہم“ ہم سے اوزاعی کا یہ کلام ہنادنے ابن مبارک کے حوالے سے نقل کیا۔ اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے احمد سے کہا: جب قیدی قید میں ہوں تو کیا کیا جائے انہیں قتل کر دیا جائے یا فدیہ لے کر چھوڑے جائیں۔ انہوں نے فرمایا: اگر کفار فدیہ دینے پر قادر ہوں تو کوئی مضائقہ نہیں اور اگر قتل کر دیئے جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اسحاق کہتے ہیں کہ خون بہانا میرے نزدیک افضل ہے بشرطیکہ اکثر لوگوں کی رائے فدیہ لینے کی نہ ہو۔

باب ۱۰۴۰۔ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ

باب ۱۰۴۰۔ عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے کی ممانعت

۱۴۲۸۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ امْرَأَةً وَجِدَتْ فِي بَعْضِ مَعَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً فَانْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ

۱۴۲۸۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک عورت ایک مرتبہ جہاد میں مقتول پائی گئی۔ رسول اللہ ﷺ نے اسے پسند نہیں کیا اور بچوں و عورتوں کو قتل کرنے سے منع فرمادیا۔

اس باب میں بریدہؓ، رباحؓ (انہیں رباح بن ربیعہ کہتے ہیں)، اسود بن سرج، ابن عباس اور صعّب بن جثامہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء صحابہ و دیگر علماء اسی پر عمل کرتے ہوئے عورتوں اور بچوں کے قتل کو حرام قرار دیتے ہیں ثوری اور شافعی کا بھی یہی قول ہے۔ جب کہ بعض علماء شیخون میں ان کے قتل کی اجازت دیتے ہیں۔ احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔

۱۴۲۹۔ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا سَفِيَانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الصُّعْبُ بْنُ جَثَامَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ خِيلْنَا أَوْ طَلَعَتْ مِنْ نِسَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَأَوْلَادِهِمْ قَالَ هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ

۱۴۲۹۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ صعّب بن جثامہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارے گھوڑوں نے کفار کی عورتوں اور بچوں کو روند ڈالا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ اپنے باپ دادا ہی میں سے ہیں۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۴۳۰۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

۱۴۳۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں ایک

لشکر میں بھیجا اور حکم دیا کہ اگر قریش کے فلاں فلاں شخص کو پاؤ تو انہیں آگ سے جلا دو۔ پھر جب ہم لوگ نکلنے لگے تو فرمایا: میں نے تمہیں فلاں اور فلاں کو آگ میں جلانے کا حکم دیا تھا۔ لیکن آگ سے عذاب صرف اللہ تعالیٰ دیتے ہیں لہذا اگر تمہیں یہ آدمی مل جائیں تو انہیں قتل کر دینا۔

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَّارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْثٍ فَقَالَ إِنْ وَجَدْتُمْ فَلَانًا وَفَلَانًا لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ لِنَبِيٍّ كُنْتُ أَمْرُكُمْ أَنْ تَحْرِقُوا فَلَانًا وَفَلَانًا بِالنَّارِ وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا

اس باب میں ابن عباس اور حمزہ بن عمرو سلمی سے بھی حدیثیں منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء اسی پر عمل پیرا ہیں۔ محمد بن اسحاق اپنی حدیث میں سلمان بن یسار اور ابو ہریرہ کے درمیان ایک راوی کا اضافہ کرتے ہیں۔ اور کئی راوی لیث کی حدیث کے مثل نقل کرتے ہیں یہ اشبہ اور اصح ہے۔

باب ۱۰۴۱۔ غلول کے متعلق۔ (۱)

باب ۱۰۴۱۔ مَا جَاءَ فِي الْغُلُولِ

۱۳۳۱۔ حضرت ثوبانؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص تکبر، قرض اور غلول سے بری ہو کر فوت ہو وہ جنت میں داخل ہوا۔

۱۴۳۱۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنَ الْكِبْرِ وَالْغُلُولِ وَالذَّيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

اس باب میں ابو ہریرہ اور زید بن خالد جہنی سے بھی احادیث منقول ہیں۔

۱۳۳۲۔ حضرت ثوبانؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص کی روح اس کے جسم سے اس حالت میں جدا ہوئی کہ وہ تین چیزوں سے بری ہے۔ کتز (۲)، غلول اور قرض تو وہ جنت میں داخل ہوا۔ سعید "کتز" اور ابو عوانہ اپنی حدیث میں "الکبر" کا لفظ نقل کرتے ہیں اور اپنی روایت میں معدان کا ذکر نہیں کرتے۔ جب کہ سعید کی روایت زیادہ صحیح ہے۔

۱۴۳۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّازٍ ثنا ابن ابی عدی عن سعید عن قتادة عن سالم بن ابی الجعد عن معدان بن ابی طلحة عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الروح الحسد وهو برى من ثلث الكنز والغلول والدين دخل الجنة هكذا قال سعيد الكنز وقال ابو عوانة في حديثه الكبر ولم يذكر فيها عن معدان ورواية سعيد اصح

۱۴۳۳۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا عكرمة ابن عمار ثنا عكرمة ابن عمار ثنا سماك ابو زمبل الحنفى قال سمعت

۱۳۳۳۔ حضرت عمر بن خطابؓ فرماتے ہیں کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ فلاں شخص شہید ہو گیا۔ فرمایا: ہرگز نہیں میں نے اسے ایک مہا، کے مال غنیمت میں سے چرا لینے کے عوض جہنم میں دیکھا۔ پھر فرمایا: عمر!

(۱) غلول: مال غنیمت میں سے کوئی چیز چرانے کو کہتے ہیں۔ (مترجم)

(۱) کتز سے مراد وہ مال ہے جو نصاب کے بقدر ہونے کے باوجود اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ (مترجم)

عَبَّاسٍ يَقُولُ نَبِيُّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَبِلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ  
 إِنَّ فَلَانًا قَدِ اسْتَشْهَدَ قَالَ كَلَّا قَدْ رَأَيْتَهُ فِي النَّارِ  
 بَعِيَاءَ قَدْ غَلَّهَا قَالَ فَمَ يَا عُمَرُ فَنَادِ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ  
 الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ ثَلَاثًا  
 یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۰۴۲۔ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْحَرْبِ  
 ۱۴۳۴۔ حدثنا بشر بن هلال الصواف ثنا جعفر بن  
 سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس قال كان رسول الله  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُوا بِأَيِّ سَلِيمٍ وَنِسْوَةٍ مَعَهَا  
 مِنَ الْأَنْصَارِ لِيُسْقِيَنَّ الْمَاءَ وَيُدَا وَيُنَ الْحَرْحَى  
 باب ۱۰۴۳۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جہاد میں ام سلیم اور  
 بعض انصاری عورتوں کو ساتھ رکھا کرتے تھے تاکہ وہ پانی وغیرہ پلا سکیں  
 اور زخمیوں کا علاج کریں۔

اس باب میں ربیع بنت معوذ سے بھی حدیث منقول ہے۔ حضرت انسؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۰۴۳۔ فِي قَبُولِ هَدَايَا الْمُشْرِكِينَ  
 ۱۴۳۵۔ حدثنا علي بن سعيد الكندي ثنا  
 عبدالرحيم بن سليمان عن اسرائيل عن ثوير عن أبيه  
 عن علي بن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ كَسْرَى  
 أَهْدَى لَهُ فُقَيْلًا وَأَنَّ الْمُلُوكَ أَهْدَوْا إِلَيْهِ فُقَيْلًا مِنْهُمْ  
 باب ۱۰۴۳۔ مشرکین کے ہدایا قبول کرنا  
 ۱۳۳۵۔ حضرت علیؓ، رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ کسریٰ نے  
 آپ ﷺ کی خدمت میں ہدیہ بھیجا تو آپ ﷺ نے قبول کر لیا اسی طرح  
 ملوک جب ہدایا بھیجتے تو آپ ﷺ قبول کیا کرتے تھے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں جابر سے بھی حدیث منقول ہے۔ اور ثویر، ابوفاختہ کے بیٹے ہیں ان کا نام سعید بن علاقہ اور  
 کنیت ابو جہم ہے۔

۱۴۳۶۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا ابو داؤد عن  
 عمران القطان عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن  
 المشخبر عن عياض بن حمار أنه أهدى للنبي صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً لَهُ أَوْ نَاقَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْلَمْتَ فَقَالَ لَا فَقَالَ إِنِّي نَهَيْتُ عَنْ  
 زَيْدِ الْمُشْرِكِينَ  
 ۱۳۳۶۔ حضرت عیاض بن حمارؓ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ  
 کی خدمت میں کوئی ہدیہ یا اونٹ بطور ہدیہ بھیجا (راوی کو شک  
 ہے) تو آپ ﷺ نے پوچھا: کیا تم اسلام لائے ہو؟ (۱) عرض کیا نہیں۔  
 فرمایا: مجھے مشرکین سے ہدایا لینے سے منع کیا گیا ہے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ آنحضرت ﷺ سے منقول ہے کہ آپ ﷺ مشرکین کے ہدایا قبول کیا کرتے تھے اور یہ  
 بھی مذکور ہے کہ آپ ﷺ مکروہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ احتمال ہے کہ شروع میں قبول کر لیتے ہوں لیکن بعد میں منع کر دیا گیا ہو۔

(۱) یہ صحابی ہیں اور اس قصہ کے بعد اسلام لے آئے تھے۔ شاید ان کا ہدیہ قبول نہ کرنے کی وجہ انہیں اسلام کی طرف رغبت دلانا ہو۔ خطابی کہتے ہیں کہ شاید یہ  
 حدیث منسوخ ہے، اس لئے کہ آپ ﷺ کا مشرکین کا ہدایا قبول کرنا بہت سے احادیث میں وارد ہوا ہے۔ واللہ اعلم۔ (مترجم)

باب ۱۰۴۴۔ مَا جَاءَ فِي سَجْدَةِ الشُّكْرِ

باب ۱۰۴۳۔ سجدہ شکر

۱۴۳۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ثَنَا بَكَارُ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَاهُ أَمْرٌ فَسَرَّ بِهِ فَخَرَّ سَاجِدًا

۱۴۳۷۔ حضرت ابو بکرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کو ایک خوشخبری سنائی گئی تو آپ ﷺ خوش ہو گئے اور سجدے میں گر گئے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ اکثر علماء اسی پر عمل کرتے ہوئے سجدہ شکر کو مشروع قرار دیتے ہیں

باب ۱۰۴۵۔ فِي أَمَانِ الْمَرْأَةِ أَوْ الْعَبْدِ

باب ۱۰۴۵۔ عورت اور غلام کا امان دینا۔

۱۴۳۸۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمٍ ثَنَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَأْخُذَ لِلْقَوْمِ يَعْنِي تَجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

۱۴۳۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عورت کسی قوم کو پناہ دینے کا حق رکھتی ہے۔ یعنی مسلمان سے پناہ دلا سکتی ہے۔

یہ حدیث حسن غریب ہے اور اس باب میں ام ہانی سے بھی حدیث منقول ہے۔

۱۴۳۹۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ

۱۴۳۹۔ حضرت ام ہانیؓ فرماتی ہیں میں نے اپنے شوہر کے عزیزوں

مُسْلِمٌ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي مَرَّةٍ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أُمِّ هَانِيَةَ أَنَّهَا قَالَتْ أَجْرَتْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَحْمَائِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ آمَنَّا مِنْ أَمْنَتِ

میں سے دو شخصوں کو پناہ دلائی چنانچہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہم نے بھی اسے پناہ دی جسے تم نے پناہ دی۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے علماء اسی پر عمل کرتے ہوئے عورت کے پناہ دینے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ احمد اور اسحاق بھی عورت اور غلام دونوں کے امان کو جائز قرار دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطابؓ سے بھی یہی منقول ہے کہ انہوں نے غلام کے امان کو تسلیم کیا۔ ابو مرہ، عقیل بن ابی طالب کے مولیٰ ہیں انہیں ام ہانی کے مولیٰ بھی کہا جاتا ہے ان کا نام زید ہے۔ یہ حضرت علیؓ اور حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا مسلمانوں کا ذمہ ایک ہی ہے۔ جس کے ساتھ ہر آدمی شخص بھی چلتا ہے علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے جس کسی نے بھی کسی شخص کو امان دی تمام مسلمانوں کو اس کو امان دینا ضروری ہے۔

باب ۱۰۴۶۔ مَا جَاءَ فِي الْعَدْرِ

باب ۱۰۴۶۔ دھوکہ دہی سے متعلق

۱۴۴۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ انبَانَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَيْضِ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ أَهْلِ الرُّومِ عَهْدٌ وَكَانَ يَسِيرُ فِي بِلَادِهِمْ حَتَّى إِذَا انْقَضَى الْعَهْدُ أَغَارَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا رَجُلٌ عَلَى دَابَّةٍ أَوْ عَلَى فَرَسٍ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَفَاءٌ لِعَدْرِ فَإِذَا هُوَ عَمْرُؤُنْ عَبَسَةَ فَسَأَلَهُ

۱۴۴۰۔ سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ معاویہؓ اور اہل روم کے درمیان معاہدہ صلح تھا۔ اور معاویہؓ ان کے علاقے کی طرف اس ارادے سے پیش قدمی کرنے لگے کہ جیسے ہی صلح کی مدت پوری ہو ان پر حملہ کریں اسی اثنا میں ایک سواریا گھڑ سوار (رادی کو شک ہے) یہ کہتا ہوا آیا کہ: اللہ اکبر! تم لوگوں کو وفاء عہد کرنا ضروری ہے عہد شکنی نہیں دیکھا گیا تو وہ عمرو بن عبسہؓ تھے۔ چنانچہ معاویہؓ نے ان سے پوچھا تو فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو

فرماتے ہوئے سنا کہ جس کا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو تو وہ اس کی معینہ مدت تک نہ اسے توڑے اور نہ اس میں تبدیلی کرے یا پھر اس عہد کو ان کی طرف پھینک دے تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ ہمارے اور ان کے درمیان صلح نہیں رہی۔ اس پر حضرت معاویہؓ نے ہنسی اور پس لے گئے۔

مُعَاوِيَةُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَحِلُّنَّ عَهْدًا وَلَا يَشُدُّنَّهُ حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهُ أَوْ يُنْبَذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوْءٍ قَالَ فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ بِالنَّاسِ  
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۰۴۷۔ قیامت کے دن ہر عہد شکن کے لیے ایک جھنڈا ہوگا۔  
۱۲۴۱۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن ہر عہد شکن کے لیے جھنڈا گاڑا جائے گا۔  
(یہ کتنا ہے اس کی ذلت اور رسوائی سے)۔

باب ۱۰۴۷۔ مَا جَاءَ أَنْ لِكُلِّ عَادِرٍ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ  
۱۴۴۱۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثنا اسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ثَنِي صَخْرُ بْنُ جَوِيْرَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْعَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ

اس باب میں ابن مسعودؓ، ابوسعید خدریؓ اور انسؓ سے بھی احادیث نقل کی گئی ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۰۴۸۔ کسی حکم پر پورا اترنا۔

باب ۱۰۴۸۔ مَا جَاءَ فِي النُّزُولِ عَلَى الْحُكْمِ

۱۲۴۲۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر سعد بن معاذؓ کو تیر لگ گیا جس سے ان کی اکھل یا انجل کی رگ کٹ گئی چنانچہ آنحضرت ﷺ نے اسے آگ سے داغا تو ان کا ہاتھ سوج گیا۔ انہوں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو دعا کی کہ یا اللہ میری روح اس وقت تک نہ نکلے جب تک تو نبی قریظہ سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچا دے۔ یعنی ان کا فیصلہ دیکھ لوں۔ اس پر ان کی رگ سے خون بہنا بند ہو گیا اور ایک قطرہ بھی نہ ٹپکا۔ یہاں تک کہ ان لوگوں نے سعد بن معاذؓ کو حکم تسلیم کیا۔ یعنی (یہودیوں نے) آنحضرت ﷺ نے انہیں پیغام بھیجا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے مرد قتل کر دیئے جائیں اور عورتیں زندہ رکھی جائیں تاکہ مسلمان ان سے مدد حاصل کر سکیں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ان کے معاملے میں تمہارا فیصلہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہو گیا۔ وہ لوگ چار سو تھے۔ جب آنحضرت ﷺ ان کے قتل سے فارغ ہوئے تو سعدؓ کی رگ دوبارہ کھل گئی اور خون بہنے لگا یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے۔

۱۴۴۲۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ رُمِيَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَطَّعُوا أَكْحَلَهُ وَأَبْجَلَهُ فَحَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّارِ فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ فَتَرَكَهُ فَزَفَرَهُ الدَّمُ فَحَسَمَهُ أُخْرَى فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ اللَّهُمَّ لَا تَخْرُجْ نَفْسِي حَتَّى تُقَرَّ عَيْنِي مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ فَاسْتَمْسَكَ عِرْفُهُ فَمَا قَطَرَ قِطْرَةً حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَحَكَمَ أَنْ يُقْتَلَ رِجَالُهُمْ وَتُسْتَحَى نِسَاءُهُمْ يَسْتَعِينُ بِهِنَ الْمُسْلِمُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصِيبَتْ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ وَكَانُوا أَرْبَعِ مِائَةٍ فَلَمَّا فَرَّغَ مِنْ قَتْلِهِمْ انْفَتَقَ عِرْفُهُ فَمَاتَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں عطیہ قرظی سے بھی حدیث منقول ہے۔

۱۲۴۳۔ حضرت سمرہ بن جندبؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مشرکین کے بوڑھوں کو قتل کر دو اور ان کے نابالغ بچوں کو زندہ رکھو۔

۱۴۴۳۔ حَدَّثَنَا ابُو الْوَلِيدِ الدَّمَسْقِيُّ ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بِشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ

سَمْرَةَ بِنْتُ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقْتُلُوا شُبُوحَ الْمُشْرِكِينَ وَاسْتَحْبُوا شَرَحَهُمُ وَالشَّرِخُ الْعِلْمَانُ الَّذِينَ لَمْ يُنْبِتُوا

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ حجاج بن ارطاة بھی قادیہ سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔

۱۴۴۳۔ حضرت عطیہ قرظیؓ کہتے ہیں کہ ہم یوم قرظہ کے موقع پر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ حکم یہ تھا کہ جس کے زیر ناف بال اگ چکے ہوں اسے قتل کر دیا جائے اور جس کے ابھی ناگے ہوں اسے چھوڑ دیا جائے میں بھی ناگے والوں میں سے تھا لہذا چھوڑ دیا گیا۔

۱۴۴۴۔ حَدَّثَنَا هِنَادٌ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سَفِيَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَطِيَّةِ الْفَرَزِيِّ قَالَ عَرَضْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقَرِظَةِ فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قَتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خَلِيَ سَبِيلَهُ فَكُنْتُ فِي مَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخَلِيَ سَبِيلِي

یہ حدیث حسن صحیح ہے بعض علماء اسی پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زیر ناف بالوں کا نکلنا بلوغ کی علامت ہے اگرچہ اس کا حکم ہونا یا اس کی عمر کا علم نہ ہو۔ احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

باب ۱۰۴۹۔ حلف کے متعلق۔ (۱)

باب ۱۰۴۹۔ مَا جَاءَ فِي الْحَلْفِ

۱۴۴۵۔ عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: زمانہ جاہلیت کی قسمیں پوری کرو کیونکہ اسلام کو اس سے اور زیادہ تقویت ملے گی لیکن اب نئے حلف نہ کرو۔

۱۴۴۵۔ حَدَّثَنَا حَمِيدٌ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا حَسِينُ الْمُعَلَّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَزَّ وَجَدَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ أَوْفُوا بِحَلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُهُ يَعْنِي الْإِسْلَامَ إِلَّا شِدَّةً وَلَا تُحَدِّثُوا حِلْفًا فِي الْإِسْلَامِ

اس باب میں عبدالرحمن بن عوف، ام سلمہ، جبیر بن مطعم، ابو ہریرہ اور قیس بن عاصم سے بھی حدیثیں نقل کی جاتی ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۰۵۰۔ مجوسیوں سے جزیہ لینا۔

باب ۱۰۵۰۔ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوسِيِّ

۱۴۴۶۔ حضرت بجالہ بن عبدہ کہتے ہیں کہ میں جزاء بن معاویہ کا منازر کے مقام پر کاتب مقرر تھا۔ ہمیں حضرت عمرؓ کا ایک خط ملا۔ جس میں یہ مکتوب تھا کہ اپنے علاقے کے مجوس سے جزیہ وصول کرو۔ کیونکہ مجھے عبدالرحمن بن عوفؓ نے بتایا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہجر (ایک مقام) کے مجوس سے جزیہ وصول کیا تھا۔

۱۴۴۶۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا الْحِجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ كَاتِبًا لِحِزْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَلَى مَنَازِرٍ فَجَاءَ نَا كِتَابَ عُمَرَ أَنْظُرْ مَجُوسَ مِنْ قَبْلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ الْجِزْيَةَ فَإِنَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ

(۱) حلف: جاہلیت کے دور میں عرب ایک دوسرے سے لڑائی کے وقت مدد کرنے کا حلف لیتے تھے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ پچھلی قسموں کو پورا کرو کیونکہ اس میں اسلام کی مضبوطی اور نیک نامی ہے کہ مسلمان وقائع عہد کرتے ہیں۔ لیکن نئے حلف نہ لے جائیں۔ واللہ اعلم۔ (مترجم)

یہ حدیث حسن ہے۔

۱۳۴۷۔ حضرت بجالہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ مجوس سے جزیہ وصول نہیں کیا کرتے تھے یہاں تک کہ انہیں عبدالرحمن بن عوفؓ نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجوس بجز سے جزیہ وصول کیا۔ اس حدیث میں اور چیزوں کا بھی تذکرہ ہے۔

۱۴۴۷۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ سَفِينِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ عَنْ بَجَالَةَ أَنَّ عُمَرَ كَانَ لَا يَأْخُذُ الْجُزْيَةَ مِنَ الْمُجُوسِ حَتَّىٰ أَخْبَرَهُ عِنْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْجُزْيَةَ مِنَ الْمُجُوسِ هَجَرَ وَفِي الْحَدِيثِ كَلَامٌ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا  
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۰۵۱۔ ذمیوں کے مال میں سے کیا حلال ہے؟

۱۳۴۸۔ حضرت عقبہ بن عامرؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارا ایسی قوم پر گذر ہوتا ہے جو ہماری مہمان نوازی نہیں کرتے۔ اور ہمارا جوان پر حق ہے وہ ادا نہیں کرتے یعنی میزبانی نہیں کرتے۔ اور نہ ہی ہم ان سے کچھ لیتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر وہ لوگ انکار کریں تو زبردستی ان سے لے لیا کرو۔

باب ۱۰۵۱۔ مَا جَاءَ مَا يَجُلُّ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ  
۱۴۴۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَمُرُّ بِقَوْمٍ فَلَا هُمْ يُضْفِقُونَ وَلَا هُمْ يُؤَدُّونَ مَا لَنَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ وَلَا نَحْنُ نَأْخُذُ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبْوَابَ الْإِيمَانِ تَأْخُذُوا كَرَاهًا فَخُذُوا

یہ حدیث حسن ہے۔ یہ حدیث لیث بن سعد بھی یزید بن حبیب سے نقل کرتے ہیں۔ اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ صحابہ جہاد کے لیے نکلے تو ایسے لوگوں سے گزر ہوتا کہ جو کھانا بیچنے سے انکار کر دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت ﷺ نے حکم دیا کہ اگر وہ لوگ نہ قیمت سے دیں اور نہ ہی بغیر قیمت کے تو زبردستی لے لو۔ بعض احادیث میں یہی حدیث اس تفسیر کے ساتھ بھی منقول ہے۔ عمر بن خطابؓ سے بھی یہی منقول ہے کہ وہ بھی اسی طرح حکم دیا کرتے تھے کہ اگر کوئی قوم کھانا دینے سے انکار کر دے تو مجاہدان سے زبردستی لے لیں۔

باب ۱۰۵۲۔ ہجرت کے متعلق۔

باب ۱۰۵۲۔ مَا جَاءَ فِي الْهَجْرَةِ

۱۳۴۹۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا: اس فتح کے بعد ہجرت کے بعد ہجرت کا حکم ختم ہو گیا۔ لیکن جہاد اور نیت باقی رہ گئی۔ جب تمہیں جہاد کے لیے طلب کیا جائے تو نکل کھڑے ہو۔

۱۴۴۹۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّبِيِّ ثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ مَجَالِدِ بْنِ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لَا هَجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتَفِيرْتُمْ فَأَنْفِرُوا

اس باب میں ابوسعیدؓ، عبداللہ بن عمروؓ اور عبداللہ بن جہشؓ سے بھی احادیث نقل کی گئی ہیں۔

توضیح: یہ خطاب صرف اہل مکہ کے لیے تھا کہ مکہ اب دارالاسلام بن گیا ہے لہذا یہاں سے ہجرت کرنا فرض نہیں لیکن کسی بھی دارالحرب میں اگر آدمی مامون نہ ہو تو اس پر ہجرت واجب ہو جاتی ہے ورنہ مستحب ہے۔ واللہ اعلم۔ (مترجم)

باب ۱۰۵۳۔ مَا جَاءَ فِي بَيْعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۱۰۵۳۔ رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ پر بیعت۔

۱۴۵۰۔ حضرت جابر بن عبد اللہ ارشاد باری تعالیٰ "لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة" کے متعلق فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ پر راہ فرار اختیار نہ کرنے پر بیعت کی تھی موت کی نہیں۔

۱۴۵۰۔ حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الامرى ثنا عيسى ابن يونس عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله في قوله تعالى لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة قال جابر بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان لا نفر ولا نبايعه على الموت

آیت کا ترجمہ: اللہ تعالیٰ (اس وقت) مؤمنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ اس باب میں سلمہ بن اکوع، ابن عمر، عبادہ اور جریر بن عبد اللہ سے بھی احادیث نقل کی جاتی ہیں۔ یہ حدیث عیسیٰ بن یونس بھی اوزاعی سے وہ یحییٰ بن ابی کثیر سے اور وہ جابر بن عبد اللہ سے بلا واسطہ نقل کرتے ہیں۔ ابوسلمہ کا ذکر نہیں کرتے۔

۱۴۵۱۔ یزید بن ابی عبید کہتے ہیں کہ میں نے سلمہ بن اکوع سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر آنحضرت ﷺ سے کس چیز پر بیعت کی تھی؟ فرمایا: موت پر۔

۱۴۵۱۔ حدثنا قتيبة ثنا حاتم بن اسمعيل عن يزيد بن ابي عبيد قال قلت لسلمة بن الأكوع على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال على الموت

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۴۵۲۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ سے سنے اور اطاعت کرنے پر بیعت کیا کرتے تھے اور آپ ﷺ فرماتے۔ بقدر استطاعت۔

۱۴۵۲۔ حدثنا علي بن حجر ثنا اسمعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيقول لنا فيما استطعتم

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۴۵۳۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ سے موت پر بیعت نہیں کی تھی بلکہ اس پر کہ بھاگ نہ کھڑے ہوں۔

۱۴۵۳۔ حدثنا احمد بن منيع ثنا سفين بن عيينة عن ابي الزبير عن جابر قال لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت انما بايعناه على ان لا نفر

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور دونوں حدیثوں کے معنی صحیح ہیں۔ ایک جماعت نے موت پر بیعت کی تھی کہ ہم آپ ﷺ کے ساتھ موت تک لڑیں گے اور دوسری جماعت نے فرار نہ ہونے اور ثابت قدم رہنے پر بیعت کی تھی۔

باب ۱۰۵۲۔ بیعت توڑنے سے متعلق

باب ۱۰۵۴۔ فی نكث البيعة

۱۴۵۴۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں

۱۴۵۴۔ حدثنا ابو عمار ثنا وكيع عن الاعمش عن

مخصوصوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات کریں گے اور نہ انہیں پاک کریں گے بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے امام کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر اگر امام نے اس کو کچھ دیا تو اس کی اطاعت کی ورنہ نہیں۔

أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا فَإِنْ أَعْطَاهُ وَفِي لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ  
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۰۵۵۔ غلام کی بیعت۔

باب ۱۰۵۵۔ مَا جَاءَ فِي بَيْعَةِ الْعَبْدِ

۱۳۵۵۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ ایک غلام آیا اور رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ پر ہجرت کی بیعت کر لی۔ آپ ﷺ کو علم نہیں تھا کہ وہ غلام ہے پھر اس کا مالک بھی آ گیا۔ اس پر آپ ﷺ نے اسے کہا: کہ تم یہ غلام مجھے فروخت کر دو۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اسے دو سیاہ فام غلاموں کے بدلے میں خرید لیا۔ لیکن اس کے بعد کسی سے بیعت کرتے وقت اس سے پوچھ لیتے تھے کہ کیا وہ غلام ہے؟

۱۴۵۵۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهَجْرَةِ وَلَا يُشْعِرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنِيهِ فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ وَلَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ عَبْدٌ هُوَ

اس باب میں ابن عباسؓ بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت جابرؓ کی حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ ہم اسے صرف ابن زبیر کی روایت سے جانتے ہیں۔

باب ۱۰۵۶۔ عورتوں کی بیعت۔

باب ۱۰۵۶۔ مَا جَاءَ فِي بَيْعَةِ النِّسَاءِ

۱۳۵۶۔ حضرت امیرہ بنت رقیقہ کہتی ہیں میں نے کئی عورتوں کے ساتھ آپ ﷺ سے بیعت کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جتنی تمہاری استطاعت اور طاقت ہو۔ میں نے کہا: اللہ اور اللہ کے رسول ہماری جانوں پر ہم سے بھی زیادہ مہربان ہیں۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم سے بیعت لے لیجئے۔ سفیان نے کہا: اس کا مقصد مصافحہ ہے اس پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میرا سو عورتوں کو کہا جانے والا قول ایک عورت کو کہے جانے والا قول ہی کی طرح ہے۔ یعنی مصافحہ کی ضرورت نہیں قول ہی سے بیعت کافی ہے۔

۱۴۵۶۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا سَفِينٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ أُمَيْمَةَ بِنْتَ رُقَيْقَةَ تَقُولُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ فَقَالَ لَنَا فِي مَا اسْتَطَعْتُنَّ وَاطَّقْتُنَّ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايَعْنَا قَالَ سَفِيَانُ تَعْنِي صَافِحْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا قَوْلِي لِمَائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لَامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ

اس باب میں حضرت عائشہؓ، عبد اللہ بن عمرو اور اسماء بنت یزید سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے ہم اسے صرف محمد بن منکدر کی روایت سے جانتے ہیں۔ سفیان ثوری، مالک بن انس اور کئی راوی محمد بن منکدر سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۰۵۷۔ بدر میں لڑنے والوں کی تعداد۔

باب ۱۰۵۷۔ فِي عِدَّةِ أَصْحَابِ بَدْرِ

۱۳۵۷۔ حضرت براءؓ کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں شریک ہونے والوں کی تعداد طالوت کے ساتھیوں کے برابر تھی۔ یعنی تین سو تیرہ۔

۱۴۵۷۔ حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْكُوفِيُّ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا

تَتَحَدَّثُ أَنَّ أَصْحَابَ بَدْرِ لِعِدَّةِ أَصْحَابِ طَلُوتَ  
ثَلَاثَ مِائَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ابن عباسؓ سے بھی حدیث منقول ہے ثوری وغیرہ ابواسحاق سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۰۵۸۔ خمس کے متعلق

باب ۱۰۵۸۔ مَا جَاءَ فِي الْخُمْسِ

۱۳۵۸۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے عبدالقیس کے قاصدوں کو حکم دیا کہ غنیمت کا پانچواں حصہ ادا کریں۔

۱۴۵۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ ثَنَا عِبَادُ بْنُ عِبَادٍ الْمُهَلَّبِيُّ عَنْ  
أَبِي جَحْمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ لِيُوفِدِ عَبْدُ الْقَيْسِ أَمْرَكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا خُمْسَ  
مَا غَنِمْتُمْ

اس حدیث میں ایک قصہ ہے اور یہ حسن صحیح ہے قتیبہ بھی حماد بن زید سے وہ ابوہزہ سے اور وہ ابن عباس سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۰۵۹۔ تقسیم سے پہلے مال غنیمت میں سے کچھ لینا۔

باب ۱۰۵۹۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّهْيَةِ

۱۳۵۹۔ حضرت رافعؓ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ سفر میں تھے کہ تیز چلنے والے لوگ آگے بڑھ گئے اور مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس میں سے لے کر پکانا شروع کر دیا۔ جب کہ رسول اللہ ﷺ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ تھے۔ جب آپ ﷺ دیگوں پر سے گزرے تو انہیں آپ ﷺ کے حکم سے اٹھیل دیا گیا۔ پھر آپ ﷺ نے مال غنیمت تقسیم کیا اور ایک اونٹ کو دس بکریوں کے مقابلے میں تقسیم کیا۔

۱۴۵۹۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ  
مَسْرُوقٍ عَنْ عِبَادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ  
قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي  
سَفَرٍ فَتَقَدَّمَ سَرْعَانِ النَّاسِ فَتَعَجَّلُوا مِنَ الْغَنَائِمِ  
فَأَطْبَحُوا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي  
أُخْرَى النَّاسِ فَمَرَّ بِالْقُدُورِ فَأَمْرَبَهَا فَأَكْفَفَتْ ثُمَّ قَسَمَ  
بَيْنَهُمْ فَعَدَلَ بَعِيرًا بَعَشْرَ شِيَاءٍ

سفيان ثوری بھی اپنے والد سے وہ عبایہ سے اور وہ اپنے دادا رافع بن خدیج سے یہ حدیث نقل کرتے ہوئے ان کے والد کا ذکر نہیں کرتے۔ یہ حدیث محمود بن غیلان، کعب سے اور وہ سفيان سے نقل کرتے ہیں اور یہ زیادہ صحیح ہے۔ عبایہ بن رافع کا اپنے دادا رافع بن خدیج سے سماع ثابت ہے۔ اس باب میں ثعلبہ بن حکمؓ، انسؓ، ابوریحانہؓ، ابودرداءؓ عبدالرحمن بن سمرہؓ، زید بن خالدؓ، ابوہریرہؓ اور ابویوبؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔

۱۳۶۰۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس میں سے کچھ لے لیا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔

۱۴۶۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ  
عَنْ مَعْمَرِ بْنِ نَابِثٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا  
یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۰۶۰۔ اہل کتاب کو سلام کرنا۔

باب ۱۰۶۰۔ مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيمِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ

۱۳۶۱۔ حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہود و نصاریٰ کو سلام کہنے کی ابتداء نہ کرو اور اگر ان میں سے کسی سے سر راہ

۱۴۶۱۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ ثَنَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ  
سَهِيلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبْدُوا الْيَهُودَ  
وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ وَإِذَا لَقَيْتُمْ أَحَدَهُمْ فِي الطَّرِيقِ  
فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْبِقِهِ

اس باب میں ابن عمرؓ، انسؓ، ابوبصرہ غفاریؓ (صحابی) سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ تم خود ان سے سلام نہ کرو بلکہ جواب دو جیسا کہ آگے آرہا ہے۔ اس لیے کہ سلام میں ابتداء کرنا تعظیم کے لیے ہوتا ہے۔ اور مسلمانوں کو ان کی تذلیل کا حکم دیا گیا ہے اور اسی طرح اگر راستے میں وہ ملیں تو ان کے لیے راستہ خالی نہ کیا جائے کیونکہ اس میں بھی تعظیم ہے۔

۱۴۶۲۔ حدثنا علي بن حجر ثنا اسمعيل بن جعفر  
عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول  
الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلم عليكم  
أحدكم فإنما يقول السام عليك فقل عليك  
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۳۶۲۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہود جب تم لوگوں کو سلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں السام علیک لہذا تم جواب میں کہو علیک۔ (۱)

باب ۱۰۶۱۔ مشرکین میں رہائش پذیر ہونے کی کراہت

باب ۱۰۶۱۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْمُقَامِ بَيْنَ أَظْهَرِ  
الْمُشْرِكِينَ

۱۴۶۳۔ حدثنا هناد ثنا معاوية عن اسمعيل بن ابي  
خالد عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله ان  
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى  
خثعم فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل  
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم  
بنيصف العقلي وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم  
بين أظهر المشركين قالوا يا رسول الله ولِمَ قال  
لأترابا ناراها

۱۳۶۳۔ حضرت جریر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے قبیلہ بنو خثعم کی طرف ایک لشکر روانہ کیا وہاں چند لوگوں نے سجدہ کر کے پناہ مانگی تو مسلمانوں نے انہیں جلد ہی قتل کر دیا۔ جب یہ خبر آنحضرت ﷺ کو پہنچی تو ان کے لیے نصف دیت ادا کرنے کا حکم دیا اور فرمایا: میں ایسے ہر مسلمان سے بری الذمہ ہوں جو مشرکوں کے درمیان رہتا ہے عرض کیا گیا: کیوں یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے فرمایا: مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مشرک سے اتنی دور رہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کی آگ دکھائی نہ دے۔

ہناد، عبدہ سے وہ اسماعیل بن ابی خالد سے اور وہ قیس بن ابی حازم سے ابو معاویہ کی حدیث کے مثل نقل کرتے ہیں۔ اور اس میں جریر کا ذکر نہیں کرتے یہی زیادہ صحیح ہے۔ اس باب میں سمرہؓ سے بھی حدیث منقول ہے۔ اسماعیل کے اکثر اصحاب اسماعیل سے اور وہ قیس بن ابی حازم سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک لشکر بھیجا۔ اور اس میں جریر کا نام ذکر نہیں کیا، حماد، حجاج بن ارطاة سے وہ اسماعیل بن ابی خالد سے وہ قیس سے اور وہ جریر سے ابو معاویہ کی حدیث کی طرح نقل کرتے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ قیس کی آنحضرت ﷺ سے منقول مرسل حدیث صحیح ہے۔ سمرہ بن جندبؓ بھی رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ مشرکوں کے ساتھ مت رہو اور نہ ہی ان کے ساتھ اکٹھے ہو کیونکہ جو ان کے ساتھ رہے گا یا ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا۔ وہ انہی کی طرح ہو جائے گا۔

(۱) السام علیک کے معنی یہ ہیں کہ تجھ پر موت آئے۔ (مترجم)

باب ۱۰۶۲۔ مَا جَاءَ فِي إِخْرَاجِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

۱۴۶۴۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ثنا ابو عاصم و عبد الرزاق قالنا ثنا ابن جريح ثنا أبو الزبير أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ يَقُولُ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا أُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ فَلَا أَتْرُكُ فِيهَا إِلَّا مُسْلِمًا  
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۴۶۵۔ حَدَّثَنَا مُوسَى ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيُّ ثنا زيد بن حباب ثنا سفيان الثوري عن ابي الزبير عن جابر عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَنَّ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِأَخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ  
باب ۱۰۶۳۔ مَا جَاءَ فِي تَرْكَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۱۴۶۶۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثنا ابو الوليد ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ مَنْ يَرِيئُكَ قَالَ أَهْلِي وَوَلَدِي قَالَتْ فَمَا لِي لَا أَرِيئُ أَبِي فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُورَثُ وَلَكِنِّي أَعُولُ مَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُهُ وَانْفَقَ عَلَيَّ مَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْفِقُ عَلَيْهِ

باب ۱۰۶۲۔ یہود و نصاریٰ کو جزیرہ عرب سے نکال دینے کے متعلق

۱۳۶۳۔ حضرت جابرؓ، حضرت عمرؓ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں یہود و نصاریٰ کو جزیرہ عرب سے نکال دوں گا اور یہاں صرف مسلمان کو رہنے دوں گا۔

۱۳۶۵۔ حضرت عمر بن خطابؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر میں زندہ رہا تو انشاء اللہ یہود و نصاریٰ کو جزیرہ عرب سے نکال دوں گا۔

باب ۱۰۶۳۔ آنحضرت ﷺ کے ترکہ کے متعلق۔

۱۳۶۶۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہؓ، حضرت ابو بکر صدیقؓ کے پاس آئیں اور پوچھا کہ آپ کا وارث کون ہوگا؟ فرمایا: میرے گھر والے اور میری اولاد حضرت فاطمہؓ نے فرمایا: مجھے کیا ہے؟ میں کیوں اپنے والد کی وارث نہیں ہوں؟ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ”کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا“۔ لیکن رسول اللہ ﷺ جس کو روٹی کپڑا دیتے تھے میں بھی اسے دوں گا اور جس پر آپ ﷺ خرچ کیا کرتے تھے میں بھی اس پر خرچ کروں گا۔

اس باب میں عمرؓ، طلحہؓ، زبیرؓ، عبد الرحمن بن عوفؓ، سعد اور عائشہؓ سے بھی احادیث نقل کی گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ اسے اس سند سے صرف حماد بن سلمہ اور عبد الوہاب بن عطاء نے مرفوع کیا ہے۔ یہ دونوں محمد بن عمر سے وہ ابو سلمہ سے اور وہ ابو ہریرہؓ سے نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث کئی سندوں سے حضرت ابو بکر صدیقؓ سے منقول ہے وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔

۱۴۶۷۔ حضرت مالک بن انس عن ابن شہاب عن مالک بن اوس بن الحدثان قال دخلت على عمر بن الخطاب و دخل عليه عثمان بن عفان والزبير بن العوام و عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص بھی داخل ہوئے اتنے میں علی اور عباس بھی آپس میں تکرار کرتے ہوئے آگئے۔ حضرت عمر نے فرمایا: میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جن کے حکم سے آسمان وزمین قائم ہیں کیا تمہیں علم ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے ان سب نے فرمایا: ہاں۔ حضرت عمر نے فرمایا: جب آنحضرت ﷺ کی وفات ہوئی تو ابوبکر نے کہا کہ میں رسول اللہ ﷺ کا خلیفہ ہوں اس وقت آپ اور یہ (علی اور عباس) دونوں ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور آپ اپنے بھتیجے کی اور یہ اپنی بیوی کی میراث طلب کرنے لگے۔ اس پر ابوبکر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ”ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا ہم جو کچھ چھوڑ دیں وہ صدقہ ہے“ اور اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ سچے اور سچی کی راہ پر چلے اور حق کی اتباع کرنے والے تھے۔ اس حدیث میں طویل قصہ ہے۔

۱۴۶۷۔ حدثنا الحسن بن علي الخلال ثنا بشر بن عمر ثنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن مالك بن اوس بن الحدثان قال دخلت على عمر بن الخطاب و دخل عليه عثمان بن عفان والزبير بن العوام و عبد الرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص ثم جاء علي و العباس يختصمان فقال عمر لهم انشدكم بالله الذي ياذبه تقوم السماء و الارض اتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة قالوا نعم قال ابوبكر انا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمت انت و هذا الي ابي بكر تطلب انت ميراثك من ابن اخيك و يطلب هذا ميراث امرأته من ابن اخيك و يطلب هذا ميراث امرأته من ابيها فقال ابوبكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة و الله يعلم انه صادق بار راشد تابع للحق و في الحديث قصة طويلة

یہ حدیث حضرت مالک بن انس کی روایت سے حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۰۶۳۔ آنحضرت ﷺ کا فتح مکہ کے موقع پر فرمان کہ آج کے بعد مکہ میں جہاد نہیں کیا جائے گا۔

باب ۱۰۶۴۔ ما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ان هذه لا تغزى بعد اليوم

۱۴۶۸۔ حضرت حارث بن مالک بن برصاء فرماتے ہیں کہ میں نے فتح مکہ کے دن آنحضرت ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آج کے بعد قیامت تک اس پر چڑھائی نہیں کی جائے گی یعنی یہ کبھی دارالحرب اور دارالکفر نہیں ہوگا۔

۱۴۶۸۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا زكريا بن ابي زائدة عن الشعبي عن الحارث بن مالك بن برصاء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول لا تغزى هذه بعد اليوم الى يوم القيمة

اس باب میں ابن عباس، سلیمان بن صرد اور مطہر بھی احادیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

باب ۱۰۶۵۔ ما جاء في ساعة النبي تستحب فيها القتال

۱۳۶۹۔ حضرت نعمان بن مقرنؓ فرماتے ہیں کہ میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ غزوات میں شریک ہوا۔ آپ ﷺ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک لڑائی روک دیتے۔ پھر جب سورج نکل جاتا لڑائی شروع کرتے اور نصف النہار کے وقت پھر روک دیتے یہاں تک کہ آفتاب ڈھل جاتا۔ پھر زوال آفتاب سے عصر تک لڑتے اور پھر عصر کی نماز کے لیے ٹھہر جاتے اور پھر لڑائی شروع کر دیتے۔ اس وقت کے متعلق کہا جاتا تھا کہ مدد الہی کی ہوا چلتی ہے اور مؤمنین نمازوں میں اپنے لشکروں کیلئے دعا بھی کیا کرتے تھے۔

۱۴۶۹۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا معاذ بن هشام قال ثنی ابی عن قتادة عن النعمان بن مقرن قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قاتل فإذا انتصف النهار أمسك حتى تزول الشمس فإذا زالت الشمس قاتل حتى العصر ثم أمسك حتى يصلي العصر ثم يقابل وكان يقال عند ذلك تهيج رياح النصر ويدعو المؤمنون لحيوشهم في صلواتهم

یہ حدیث نعمان بن مقرنؓ سے بھی منقول ہے اور یہ سند زیادہ متصل ہے۔ نعمان کی وفات حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں ہوئی قادیان سے ان سے احادیث نہیں سنیں۔ حسن بن علی ظلال، عفان اور حجاج سے وہ حماد بن سلمہ سے وہ ابو عمران جونی سے وہ علقمہ سے اور (وہ معقل بن یسار سے نقل کرتے ہیں کہ عمرؓ نے نعمان بن مقرن ہرمزان کی طرف بھیجا اور پھر طویل حدیث نقل کی۔ نعمانؓ نے فرمایا: ”میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوا۔ آپ ﷺ اگر دن کے شروع میں لڑائی نہ کرتے تو زوال آفتاب، مدد کے نزول اور نصر الہی کی ہواؤں کا انتظار کرتے) یہ حدیث حسن صحیح ہے اور علقمہ بن عبد اللہ، بکر بن عبد اللہ مزنی کے بھائی ہیں۔

باب ۱۰۶۶۔ طیرہ کے متعلق۔

باب ۱۰۶۶۔ ما جاء في الطيرة

۱۳۷۰۔ حضرت عبد اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بدفالی شکر۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جسے بدفالی کا خیال نہ آتا ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ اسے توکل کی وجہ سے ختم کر دیتے ہیں۔

۱۴۷۰۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة من الشرك وما منا ولكن الله يذهب بالتوكل

امام ترمذی کہتے ہیں کہ امام بخاری، سلیمان بن حرب کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک ”وما منا“..... الخ قول عبد اللہ بن مسعودؓ کا ہے۔ اس باب میں سعد بن ابو ہریرہؓ، جابر بن عبد اللہ، عائشہؓ اور ابن عمرؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ہم اسے صرف سلمہ بن کہیل کی روایت سے جانتے ہیں۔ شعبہ بھی مسلم سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں۔

۱۳۷۱۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عدوی (یعنی متعدی بیماریاں) اور بدفالی (اسلام میں) نہیں اور میں فال کو پسند کرتا ہوں۔ پوچھا: یا رسول اللہ ﷺ فال کیا ہے؟ فرمایا: اچھی بات۔

۱۴۷۱۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا ابن أبي عدي عن هشام عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأعدوي ولا طيرة وأجب فقالوا يا رسول الله وما فال قال قال الكلمة الطيبة

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۳۷۲۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب اپنے کسی کام کے لیے نکلے تو یہ الفاظ سننا پسند کیا کرتے یا راشد (۱) یا سنج (۲)

۱۴۷۲۔ حدثنا محمد بن رافع ثنا ابو عامر العقدي عن حماد بن سلمة عن حُمَيْدِ عَنْ ..... أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ أَنْ يَسْمَعَ يَارَاشِدُ يَا سَنَجِحُ  
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۰۶۷۔ جنگ کے متعلق آنحضرت ﷺ کی وصیت۔

باب ۱۰۶۷۔ مَا جَاءَ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِتَالِ

۱۳۷۳۔ حضرت بریدہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی شخص کو کسی لشکر کا امیر مقرر کرتے تو اسے تقویٰ اور پرہیزگاری کی وصیت کرتے اور اس کے ساتھ جانے والے مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کا حکم دیتے اور فرماتے: اللہ کے نام سے اور اسی کے راستے میں جہاد کرو اور ان کے ساتھ جنگ کرو جو اللہ کے مگر ہیں، مال غنیمت میں چوری نہ کرو، عہد شکنی نہ کرو، مثلہ (ہاتھ پاؤں کاٹنا) نہ کرو اور بچوں کو قتل نہ کرو۔ پھر جب تمہارا دشمن کے ساتھ آنا سامنا ہو تو انہیں تین چیزوں کی دعوت دو اگر وہ لوگ اس میں سے ایک پر بھی راضی ہوں تو تم بھی اسے قبول کر لو اور ان سے جنگ نہ کرو چنانچہ انہیں اسلام کی دعوت دو اور کہو کہ وہ لوگ اپنے علاقے سے مہاجرین کے علاقے کی طرف ہجرت کریں اور انہیں بتادو اگر وہ لوگ ایسا کریں گے تو ان کے لیے بھی وہی کچھ ہے جو مہاجرین کے لیے ہے (یعنی دین کی نصرت و تائید) لیکن اگر وہ لوگ ہجرت سے انکار کریں تو وہ بھی دیہاتی مسلمانوں کی طرح ہوں گے اور ان پر بھی وہی احکام منطبق ہوں گے جو ان پر ہوتے ہیں یعنی غنیمت اور مال فنی میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ الایہ کہ وہ لوگ جہاد میں شریک ہوں لیکن اگر وہ لوگ اس سے بھی انکار کر دیں تو اللہ سے مدد مانگتے ہوئے ان سے جنگ کرو۔ پھر اگر کسی قلعے کا محاصرہ کرو اور قلعے والے اللہ اور رسول ﷺ کی پناہ مانگیں تو انہیں مت دو ہاں اپنی اور اپنے لشکر کی پناہ دے سکتے ہو۔ کیونکہ اگر بعد میں تم عہد شکنی کرو تو اپنے لشکر کی پناہ دے

۱۴۷۳۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميراً على جيش أو صاه في خاصه نفسه يتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً وقال اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تغفلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو حلال أيتها آجوبك فاقبل منهم وكف عنهم أذعهم إلى الإسلام والتحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فإن لهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين وإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أنهم يكتونوا كأعراب المسلمين يجرى عليهم ما يجرى على الأعراب ليس لهم في الغنيمه والفقير شيء إلا أن يجاهدوا فإن أبوا فاستعين بالله عليهم وقاتلهم وإذا أحاصرت حصناً فأرأوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه واجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك

(۱) راشد کے معنی ہدایت یافتہ کے ہیں۔ (مترجم)

(۲) سنج کے معنی صاحب رائے کے ہیں یعنی رائے رکھنے والا۔ آنحضرت ﷺ ان اسماء سے نیک فال مراد لیا کرتے تھے۔ (مترجم)

فَانْتَكُمْ اَنْ تُخْفِرُوْا ذِمَّتَكُمْ وَذِمَّةَ اَصْحَابِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ  
مِنْ اَنْ تُخْفِرُوْا ذِمَّةَ اللّٰهِ وَذِمَّةَ رَسُوْلِهِ وَاِذَا حَاصِرَتْ  
اَهْلَ حِصْنٍ فَاَرَادُوْكَ اَنْ تَنْزِلُوْهُمْ عَلٰى حُكْمِ اللّٰهِ فَلَا  
تَنْزِلُوْهُمْ وَلٰكِنْ اَنْزِلُوْهُمْ عَلٰى حُكْمِكَ فَاِنَّكَ لَا تَدْرِي  
اَتُصِيبُ حُكْمَ اللّٰهِ فِيْهِمْ اَمْ لَا اَوْ نَحْوَ ذٰلِكَ

سکتے ہو۔ کیونکہ اگر بعد میں تم عہد شکنی کرو تو اپنے عہد و پیمانہ کو توڑنا اللہ  
اور رسول ﷺ کے عہد و پیمانہ کو توڑنے سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ  
لوگ چاہیں کہ تم اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرو تو ایسا نہ کرنا بلکہ اپنے  
حکم پر فیصلہ کرنا کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اللہ کا کیا حکم ہے تم اس کے  
مطابق فیصلہ کر رہے ہو یا نہیں یا اسی طرح کچھ فرمایا۔

اس باب میں نعمان بن مقرنؓ بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت بریدہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ محمد بن بشار، ابواحمد سے وہ سفیان  
سے اور وہ علقمہ سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس حدیث میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ ”اگر وہ اسلام سے انکار کریں تو ان سے جزیہ  
وصول کرو اور اگر اس سے بھی انکار کریں تو اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے ان کے خلاف اعلان جنگ کر دو۔ کج و غیرہ بھی سفیان سے اسی  
طرح نقل کرتے ہیں۔ محمد بن بشار کے علاوہ اور لوگوں نے بھی عبدالرحمن بن مہدی سے یہی حدیث نقل کرتے ہوئے جزیہ کا ذکر کیا ہے۔

۱۴۷۴۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ثَنَا عَفَانٌ  
ثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ  
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُغَيِّرُ إِلَّا عِنْدَ  
صَلْوَةِ الْفَجْرِ فَإِنْ سَمِعَ آذَانًا أَمْسَكَ وَالْأَعْرَابَ  
وَأَسْتَمَعَ ذَاتَ يَوْمٍ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ  
أَكْبَرُ فَقَالَ عَلَى الْفِطْرَةِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
قَالَ خَرَجَتْ مِنَ النَّارِ

۱۴۷۴۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ صرف  
فجر کی نماز کے وقت حملہ کیا کرتے تھے۔ پھر اگر اذان سنتے تو رُک  
جاتے ورنہ جاری رکھتے۔ ایک مرتبہ آپ ﷺ نے اذان سنی جب  
مؤذن نے ”اللہ اکبر، اللہ اکبر“ کہا تو فرمایا: فطرت انسانی اسی پر ہے  
پھر جب اس نے یہ الفاظ کہے ”اشھدان لا الہ الا اللہ“ کہا تو آپ  
ﷺ نے فرمایا: تم دوزخ کی آگ سے نکل گئے۔

حسن ولید سے اور وہ حماد سے اسی سند سے اسی حدیث کے مثل نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

## فضیلت جہاد سے متعلق آنحضرت ﷺ سے

## أَبْوَابُ فَضَائِلِ الْجِهَادِ عَنِ

### منقول احادیث کے ابواب

### رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۱۰۶۸۔ جہاد کی فضیلت

باب ۱۰۶۸۔ فَضْلِ الْجِهَادِ

۱۴۷۵۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ ﷺ  
جہاد کے برابر کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا: تم لوگ اسکی استطاعت  
نہیں رکھتے۔ دو تین مرتبہ لوگوں نے اسی طرح پوچھا آپ ﷺ ہر مرتبہ  
یہی جواب دیتے کہ تم لوگ اسکی استطاعت نہیں رکھتے۔ تیسری مرتبہ  
آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال اس  
روزے دار اور نمازی کی سی ہے جو نماز و روزہ میں کوئی فتور (نقص)  
نہیں آنے دیتا۔ یہاں تک کہ مجاہد جہاد سے واپس آجائے۔

۱۴۷۵۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ  
سَهِيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ  
يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ قَالَ إِنَّكُمْ لَا  
تَسْتَطِيعُوْنَهُ فَرَدُّوْا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذٰلِكَ  
يَقُوْلُ إِنَّكُمْ لَا تَسْتَطِيعُوْنَهُ فَقَالَ فِي الثَّلَاثَةِ مَثَلُ  
الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ مِثْلُ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الَّذِي لَا  
يَقْتُرُ مِنْ صَلْوَةٍ وَلَا صِيَامٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي

## سَبِيلِ اللَّهِ

اس باب میں شفاء، عبداللہ بن حبشی، ابو موسیٰ، ابوسعیدؓ، ام مالک، بہزیر اور انس بن مالکؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور آنحضرت ﷺ سے بواسطہ ابو ہریرہؓ کی سندوں سے منقول ہے۔

۱۳۷۶۔ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ میری راہ میں جہاد کرنے والے کی ذمہ داری مجھ پر ہے اگر میں اس کی روح قبض کرتا ہوں تو اسے جنت کا وارث بناتا ہوں اور اگر اسے زندہ واپس بھیجتا ہوں تو مال غنیمت اور ثواب کے ساتھ۔

۱۴۷۶۔ حدثنا محمد بن عبد اللہ بن بزيع ثنا معتمر بن سليمان ثني مرزوق ابو بكر عن قتادة عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله المجاهد في سبيلي هو علي ضمان ان قبضته او رتبته الجنة وان رجعته رجعته باجر او غنيمه  
یہ حدیث اسی سند سے صحیح غریب ہے۔

باب ۱۰۶۹۔ جہاد میں چوکیداری کی فضیلت

۱۳۷۷۔ حضرت فضالہ بن عبیدؓ، رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ہر مرنے والے کی زندگی کے ساتھ ہی اس کے اعمال پر مہر لگادی جاتی ہے۔ لیکن اللہ کی راہ میں چوکیداری کے فرائض انجام دینے والے شخص کے اعمال قیامت تک بڑھتے رہتے ہیں۔ اور وہ فتنہ قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ نیز میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس میں مجاہدہ کرے یعنی اپنے نفس کی پیروی نہ کرے۔

باب ۱۰۶۹۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا  
۱۴۷۷۔ حدثنا احمد بن محمد ثنا عبد الله بن المبارك ثنا حيوة بن شريح قال اخبرني ابو هانئ الخولاني ان عمرو بن مالك الجنبی أخبره انه سمع فضالة بن عبيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كل ميت يحتم على عمله الا الذي مات مرابطا في سبيل الله فانه ينمى له عمله الى يوم القيمة ويا من فتنه القبر وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المجاهد من جاهد نفسه

اس باب میں عقبہ بن عامر اور جابرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۰۷۰۔ جہاد کے دوران روزہ رکھنے کی فضیلت۔

۱۳۷۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے جہاد کے دوران ایک روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ سے ستر برس کی مسافت تک دور کر دیں گے۔ ایک راوی ستر اور دوسرے چالیس برس کہتے ہیں۔

باب ۱۰۷۰۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّوْمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
۱۴۷۸۔ حدثنا قتيبة ثنا ابن لهيعة عن ابي الاسود عن عروة وسليمان بن يسار انهما جدنا عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله زحزحه الله عن النار سبعين خريفا احدهما يقول سبعين والاخر يقول اربعين

یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔ ابو الاسود کا نام محمد بن عبدالرحمن بن نوفل اسدی ہے یہ مدنی ہیں اس باب میں ابوسعیدؓ، انسؓ،

عقبہ بن عامر اور ابوامامہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔

۱۳۷۹۔ حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ستر برس کی مسافت تک آگ سے دور کر دیتے ہیں۔

۱۴۷۹۔ حدثنا سعيد بن عبد الرحمن ثنا عبد الله بن الوليد العدني عن سفیان الثوري ح ثنا محمود بن غيلان ثنا عبيد الله بن الزرقعي عن أبي سعيد بن الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم عبد يوما في سبيل الله باعد ذلك اليوم النار عن وجهه سبعين خريفا  
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۳۸۰۔ حضرت ابوامامہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے جہاد کے دوران ایک روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے اور روزہ کے درمیان ایسی خندق بنا دیتے ہیں جیسے کہ زمین و آسمان کے مابین قاصد ہے۔

۱۴۸۰۔ حدثنا زياد بن ايوب ثنا يزيد بن هارون ثنا الوليد بن جميل عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض  
یہ حدیث ابوامامہ کی روایت سے غریب ہے۔

باب ۱۰۷۱۔ جہاد میں مالی معاونت کی فضیلت

۱۳۸۱۔ حضرت خرم بن قانکؓ کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی شخص جہاد میں کچھ خرچ کرتا ہے تو ایک کے بدلے سات سو گنا لکھا جاتا ہے۔

باب ۱۰۷۱۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
۱۴۸۱۔ حدثنا ابو كريب ثنا حسين الجعفي عن زائدة عن الركين بن الربيع عن ابيه عن يسير بن عميلة عن خريم بن قانك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله كُتِبَتْ لَهُ سَبْعُ مِائَةِ ضِعْفٍ

اس باب میں ابویزیدؓ کی حدیث نقل کرتے ہیں مذکورہ بالا حدیث حسن ہے ہم اسے صرف رکیبن بن ربیع کی روایت سے جانتے ہیں۔

باب ۱۰۷۲۔ مجاہدین کی خدمت کرنے کی فضیلت

۱۳۸۲۔ حضرت عدی بن حاتم طائیؓ نے آنحضرت ﷺ سے پوچھا کہ کون سا صدقہ افضل ہے۔ فرمایا: اللہ کی راہ میں خادم دینا یا خیمے کا سایہ مہیا کرنا یا جوان نوثی اللہ کی راہ میں دینا۔

باب ۱۰۷۲۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْجِلْمَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
۱۴۸۲۔ حدثنا محمد بن رافع ثنا زيد بن حباب ثنا معاوية ابن صالح عن كثير بن الحارث عن القاسم ابى عبد الرحمن عن عدي بن حاتم الطائي انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل قال جلمة عبد في سبيل الله أو ظل قنطرة أو مطروقة فحل في سبيل الله

معاویہ بن صالح سے یہ حدیث مرسلہ منقول ہے اس سند میں زید کے متعلق اختلاف ہے۔ ولید بن جمیل یہ حدیث قاسم ابو عبد الرحمن سے وہ ابوامامہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہم سے زیاد بن ایوب، یزید بن ہارون کے واسطے سے وہ ولید بن جمیل سے وہ قاسم ابی عبد الرحمن سے وہ ابوامامہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ افضل ترین صدقہ جہاد میں خیمے کا سایہ مہیا کرنا، خادم دینا یا اونٹنی دینا ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور معاویہ بن ابی صالح کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔

باب ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ غازی کی تجہیز

باب ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ مَا جَاءَ فِيمَنْ جَهَّزَ غَازِيَا

۱۴۸۳۔ حضرت زید بن خالد جہنیؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اللہ کی راہ میں جانے والے غازی کا سامان تیار کرے گا وہ بھی جہاد کرنے والوں کے حکم میں شامل ہوگا اور جو شخص مجاہدین کے اہل و عیال کی نگہبانی کرے گا وہ بھی انہی کے حکم میں شامل ہوگا۔

۱۴۸۳۔ حَدَّثَنَا أَبُو زَكْرِيَا يَحْيَى بْنُ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ بَسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَى وَمَنْ خَلَّفَ غَازِيَا فِي أَهْلِهِ فَقَدْ غَزَى

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس سند کے علاوہ بھی کئی سندوں سے منقول ہے۔ ابن عمر، سفیان سے وہ ابن ابی لیلیٰ سے وہ عطاء سے اور وہ زید بن خالد جہنی سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث بھی حسن صحیح ہے۔ اسے محمد بن بشار، عبد الرحمن بن مہدی سے وہ حرب سے وہ یحییٰ بن ابی کثیر سے وہ ابی سلمہ سے وہ بسر بن سعید سے وہ زید بن خالد جہنی سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جس نے غازی کی تیاری کرائی گویا کہ اس نے جہاد کیا۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ پھر محمد بن بشار، یحییٰ بن سعید سے وہ عبد الملک سے وہ عطاء سے وہ زید بن خالد جہنی سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ جس شخص کے قدم جہاد میں گرد آلود ہوں۔

باب ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

۱۴۸۴۔ یزید بن ابومریم کہتے ہیں کہ عباہ بن رفاعہ بن رافع مجھے جمعہ کی نماز کے لیے جاتے ہوئے ملے تو فرمایا: خوشخبری سن لو تمہارے اللہ کی راہ میں اٹھنے والے یہ قدم میں نے ابوبہس سے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ جس کے قدم اللہ کی راہ میں گرد آلود ہوتے ہیں وہ آگ پر حرام ہو جاتے ہیں۔

۱۴۸۴۔ حَدَّثَنَا أَبُو عَمَارٍ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ لَحِقْنِي عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ وَ أَنَا مَاشٍ إِلَى الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَبَشِرْ فَإِنَّ خَطَاكَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَمِعْتُ أَبَا عَبْسٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهَمَّا حَرَامٌ عَلَى النَّارِ

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ ابوبہس کا نام عبد الرحمن بن جبیر ہے اس باب میں ابوبکرؓ، ایک صحابی اور یزید بن ابومریم سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ شامی ہیں۔ ولید بن مسلم، یحییٰ بن حمزہ اور کئی راوی ان سے احادیث نقل کرتے ہیں اور یزید بن ابومریم کوئی کے والد صحابی ہیں ان کا نام مالک بن ربیع ہے۔

باب ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ جہاد کے غبار کی فضیلت۔

باب ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْغُبَارِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

۱۴۸۵۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص

۱۴۸۵۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ أَبِي الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

بن عبد اللہ المسعودی عن محمد بن عبد الرحمن  
عن عیسیٰ بن طلحة عن ابی ہریرة قال قال رسول  
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یلج النار رجل بکی من  
خشية اللہ حتی یعود اللبن فی الضرع ولا یجتمع  
غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمد بن عبد الرحمن، آل طلحہ مدینی کے مولیٰ ہیں۔

باب ۱۰۷۶۔ جو شخص جہاد کرتے ہوئے بوڑھا ہو جائے۔

۱۳۸۶۔ حضرت سالم بن ابی جعد، شریح بن سمط سے نقل کرتے ہیں  
کہ کعب بن مرہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے  
فرمایا: جو شخص اسلام میں بوڑھا ہو گیا وہ اس کے لیے قیامت کے دن  
نور ہوگا۔ (یعنی جہاد کرتے ہوئے)۔

باب ۱۰۷۶۔ مَا جَاءَ مِنْ شَابٍ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
۱۴۸۶۔ حَدَّثَنَا هُنَادُ بْنُ أَبِي مَعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ  
عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ أَنَّ شُرْحَبِيلَ  
بْنَ السَّمِطِ (قَالَ يَا كَعْبُ بْنُ مُرَّةَ حَدَّثَنَا عَنْ رَسُولِ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحْذِرْ) قَالَ سَمِعْتُ  
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي  
الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اس باب میں فضالہ بن عبید اللہ بن عمر سے بھی حدیثیں نقل کی گئی ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ اعمش بھی عمرو بن مرہ سے اسی طرح نقل  
کرتے ہیں۔ پھر یہ حدیث منصور، سالم بن ابی جعد سے بواسطہ ایک شخص بھی نقل کرتے ہیں۔ کعب بن مرہ کو مرہ بن کعب بہزی بھی کہا جاتا  
ہے۔ اور یہی مشہور ہے۔ انہوں نے آنحضرت ﷺ سے بہت سی احادیث نقل کی ہیں۔

۱۳۸۷۔ عمرو بن عبسہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اللہ کی  
راہ میں جہاد کرتے ہوئے بوڑھا ہو گیا قیامت کے دن اس کے لیے نور  
ہوگا۔

۱۴۸۷۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا حَيْوَةَ بْنِ  
شَرِيحٍ عَنْ بَقِيَّةَ عَنْ بَحِيرِ بْنِ مَسْعُودَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ  
مَعْدَانَ عَنْ كَثِيرٍ عَنْ مُرَّةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ أَنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَابَ شَيْبَةً  
فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے اور حیوۃ بن شریح، یزید حمصی کے بیٹے ہیں۔

باب ۱۰۷۷۔ جہاد کی نیت سے گھوڑا رکھنے کی فضیلت

۱۳۸۸۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: گھوڑوں  
کی پیشانی میں قیامت تک خیر بندھی ہوئی ہے اور گھوڑے تین قسم کے  
ہیں۔ ایک تو آدمی کے لیے اجر کا باعث دوسرے پردہ پوشی کا باعث اور  
تیسرے آدمی کے لیے بار ہیں یعنی عذاب و گناہ کا باعث ہیں۔ جہاں

باب ۱۰۷۷۔ مَا جَاءَ مَنْ ارْتَبَطَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

۱۴۸۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ  
سَهْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْلُ مَعْقُودَةٌ فِي  
نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْخَيْلُ لِثَلَاثَةِ هِيَ

(۱) یعنی یہ ناممکن ہے۔ (مترجم)

تک پہلی قسم کا تعلق ہے تو وہ ایسے گھوڑے کے متعلق ہے کہ اس کا مالک اسے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے رکھے اور تیار کرے وہ اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ اس کے چارہ وغیرہ کھانے پر بھی اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ (۱)

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسے مالک، زید بن اسلم سے وہ ابوصالح سے اور وہ ابو ہریرہ سے اسی کے مثل نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۰۷۸۔ جہاد میں تیر اندازی کی فضیلت۔

۱۳۸۹۔ حضرت عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابی حسینؑ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ایک تیر کی وجہ سے تین اشخاص کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس کا ثواب کی نیت سے بنانے والا، تیر انداز اور اس کے لے تیروں کو اٹھا کر رکھنے اور اسے دینے والا پھر فرمایا: تیر اندازی اور سواری سیکھو اور تمہارا تیر پھینکنا میرے نزدیک سواری سے زیادہ بہتر ہے پھر ہر وہ کھیل جس سے مسلمان کھیلتا ہے باطل ہے سوائے تیر اندازی، اپنے گھوڑے کو ادب سکھانا اور اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا۔ یہ تینوں صحیح ہیں۔

باب ۱۰۷۸۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الرَّمِيِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
۱۴۸۹۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ  
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي  
حُسَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ  
اللَّهَ لَيَدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ مِنَ الْجَنَّةِ صَانِعَهُ  
يَحْتَسِبُ فِي صُنْعِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِيَ بِهِ وَالْمُمِدُّ بِهِ  
قَالَ ارْمُوا وَارْكَبُوا وَلَا تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ  
تُرْكَبُوا مَا يَلْهُوُ بِهِ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ إِلَّا رَمِيَهُ  
بِقَوْسٍ وَتَادِيئِهِ فَرَسَهُ وَمَلَاعِبَتَهُ أَهْلُهُ فَإِنَّهُمْ مِنَ الْحَقِّ

احمد بن منیع یزید بن ہارون سے وہ ہشام سے وہ یحییٰ بن ابی کثیر سے وہ ابوسلام سے وہ عبد اللہ بن ازرق سے وہ عقبہ بن عامر سے اور وہ نبی اکرم ﷺ سے اسی کے مثل نقل کرتے ہیں۔ اس باب میں کعب بن مرہ، عمرو بن عبسہ اور عبد اللہ بن عمرؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔

۱۳۹۰۔ ابونجیح سلمیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں تیر پھینکتا ہے تو اس کا ایک تیر پھینکنا ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔

۱۴۹۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مَعَاذُ بْنُ هِشَامٍ  
عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ  
مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي نَجِيحِ السَّلْمِيِّ قَالَ  
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ  
رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ لَهُ عِدْلُ مُحَرَّرٍ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابونجیح کا نام عمرو بن عبسہ سلمیٰ ہے جب کہ عبد اللہ بن ازرق، عبد اللہ بن زید ہیں۔

باب ۱۰۷۹۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْحُرِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

باب ۱۰۷۹۔ جہاد میں پہرہ دینے کی فضیلت

۱۴۹۱۔ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا بَشَرُ بْنُ

(۱) یہاں دوسری دو قسموں کا تذکرہ نہیں ہے جنہیں امام مسلم نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے چنانچہ دوسری قسم ان گھوڑوں کی ہے جنہیں اللہ کی راہ میں رکھا ہو اور اللہ تعالیٰ کا حق زبھو لے اور اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہتے ہوئے استعمال کرے جب کہ تیسری قسم اس گھوڑے کی ہے جو فخر اور ریا کاری کے لیے رکھا جائے چنانچہ وہ اسی پر بار ہوتا ہے (مترجم)

آنکھیں ایسی ہیں کہ انہیں آگ نہیں چھو سکتی۔ ایک وہ جو اللہ کے خوف سے روئی اور دوسری وہ جس نے اللہ کی راہ میں پہرہ دیتے ہوئے رات گزار دی۔

عمر ثنا شعيب بن زريق ابو شبة ثنا العطار الخراساني عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسها النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله

اس باب میں عثمان اور ابوریحانہ سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف شعیب بن زریق کی روایت سے جانتے ہیں۔

باب ۱۰۸۰۔ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ الشَّهِيدِ

باب ۱۰۸۰۔ شہید کے ثواب کے متعلق

۱۳۹۲۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: شہداء کی روحمیں سبز پرندوں میں جنت کے پھلوں میں سے کھاتی پھرتی ہیں۔ راوی کو شک ہے کہ ”درخت“ فرمایا ”پھل“

۱۴۹۲۔ حدثنا ابن ابی عمرو ثنا سفیان بن عینة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن ابن كعب بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ارواح الشهداء في طير خضر تعلق من نمر الجنة او شجر الجنة،  
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۳۹۳۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: میرے سامنے وہ تین شخص پیش کیے گئے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک شہید دوسرا حرام سے بچنے اور شہادت سے پرہیز کرنے والا اور تیسرا وہ بندہ جو اچھی طرح عبادت کرے اور اپنے مالک کی بھی اچھی طرح خدمت کرے۔

۱۴۹۳۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا عثمان بن عمر ثنا علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن عامر العقيلي عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي اول ثلاثة يدخلون الجنة شهيد و عفيف متعفف و عبد احسن عبادة الله و نصح لِمَوَالِيهِ

یہ حدیث حسن ہے

۱۳۹۴۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا ہر گناہ کا کفارہ ہے جبریل نے فرمایا: قرض کے علاوہ۔ چنانچہ آپ ﷺ نے بھی فرمایا: قرض کے علاوہ۔

۱۴۹۴۔ حدثنا يحيى بن طلحة الكوفي ثنا ابوبكر بن عياش عن حميد عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل في سبيل الله يكفر كل خطيئة فقال جبريل الا الدين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الدين

اس باب میں کعب بن عمر، ابو ہریرہ اور ابوقنادہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث غریب ہے ہم اسے ابوبکر کی روایت سے صرف اسی صحیح کی سند سے جانتے ہیں۔ امام بخاری بھی اسے نہیں پہچانتے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ امام بخاری کا اس حدیث کی طرف اشارہ ہو جو حمید انس سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: اہل جنت میں سے کوئی دینا کی طرف لوٹنا پسند نہیں کرے گا سوائے شہید کے۔ اس کی وجہ وہ اکرام ہوگا جو شہادت کی وجہ سے کیا جائے گا۔

۱۳۹۵۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی بندہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی موت کے بعد اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمائیں اور وہ دنیا میں واپس جانا پسند کرے اگرچہ اسے اس بھلائی (جنت) کے عوض دنیا و ما فیہا عطا کر دی جائے۔ ہاں البتہ شہید، شہادت کی فضیلت اور مرتبہ کی وجہ سے ضرور یہ خواہش کرے گا کہ دنیا میں جائے اور دوبارہ قتل کر دیا جائے۔

۱۴۹۵۔ حدثنا علی بن حجر ثنا اسمعيل بن جعفر عن حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا إِلَّا الشَّهِيدُ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى  
یہ حدیث صحیح ہے۔

باب ۱۰۸۱۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہداء کی فضیلت

۱۳۹۶۔ حضرت عمر بن خطابؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: شہداء کی چار قسمیں ہیں۔ پہلا وہ مؤمن جس کا ایمان مضبوط ہو، وہ دشمن سے مقابلہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے شہید کر دیا جائے۔ اس کے لیے ایسا مرتبہ ہے کہ قیامت کے دن لوگ اسے اس طرح دیکھیں گے۔ پھر آپ ﷺ نے ایسا سر بلند فرمایا یہاں تک کہ آپ ﷺ کی ٹوپی گر گئی۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے علم نہیں کہ ٹوپی آنحضرت ﷺ کی گری یا عمرؓ کی، دوسرا وہ مؤمن بندہ جو قوی الایمان ہو اور دشمن سے مقابلہ میں خوف کی وجہ سے گویا کہ اس کی جلد کو کانٹوں سے چھنی کر دیا گیا ہو (۱) پھر ایک تیر آئے اور اسے قتل کر دے۔ تیسرا وہ مؤمن جس کے نیک اور بد اعمال خلط ملط ہو گے ہوں اور دشمن سے ملاقات کے وقت اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے قتل کر دیا جائے یہ تیسرا درجہ ہے چوتھا وہ مؤمن جو گنہگار ہوتے ہوئے دشمن سے مقابلے کے وقت ذات باری تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے قتل کر دیا گیا اور یہ چوتھا درجہ ہے۔ (۲)

باب ۱۰۸۱۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الشَّهَادَةِ عِنْدَ اللَّهِ  
۱۴۹۶۔ حدثنا قتيبة ثنا ابولهيعة عن عطاء بن دينار عن ابى يزيد الخولاني انه سمع فضالة بن عبيد يقول سمعتُ عمر بن الخطاب يقول سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهداء أربعة رجل مؤمنٌ جَيدُ الإيمان لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذاك الذي يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيمة هكذا ورفع رأسه حتى وقعت فلتسوته فلا أدري فلتسوة عمر أراد أم فلتسوة النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجل مؤمنٌ جَيدُ الإيمان لقي العدو فكانت ضرب جلدته بشوكٍ طلع من الجنب آتاه سهمٌ عربٌ فقتله فهو في الدرجة الثانية ورجل مؤمنٌ خلطَ عملاً صالحاً و آخر سبباً لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة الثالثة ورجل مؤمنٌ أسرف على نفسه لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة الرابعة

یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے صرف عطاء بن دینار کی روایت سے جانتے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں: یہ حدیث سعید بن ابی ایوب بھی عطاء بن دینار سے اور وہ شیوخ خولانی سے نقل کرتے ہیں لیکن اس میں یزید کا ذکر نہیں کرتے اور عطاء بن دینار کی روایت میں کوئی حرج نہیں۔

(۱) یہاں خوف اور کپکپاہٹ طاری ہونا مراد ہے کہ اس کا رواں کھڑا ہو گیا۔ (مترجم)  
(۲) اس تقسیم کا ملخص یہ ہے کہ ایک مؤمن متقی اور شجاع، دوسرا متقی غیر شجاع، تیسرا شجاع غیر متقی اور چوتھا بھی شجاع غیر متقی لیکن اس کے گناہ پہلے والے سے زیادہ ہیں۔ پھر ان کے درجات بھی بالترتیب ہیں۔ واللہ اعلم (مترجم)

## باب ۱۰۸۲۔ مَا جَاءَ فِي غَزْوِ الْبَحْرِ

۱۴۹۷۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْانصَارِيُّ ثَنَا  
مَعْنُ ثَنَا مَالِكُ عَنْ اسْحَقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ  
عَنْ أَنَسِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَيَّ أُمَّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ  
فَتَطْعِمُهُ وَكَانَتْ أُمَّ حَرَامٍ تَحْتِ عِبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ  
فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا  
فَأَطْعَمْتُهُ وَحَبَسْتُهُ تَقْلِي رَأْسَهُ فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ  
فَقُلْتُ مَا يَضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَأْسٌ مِنْ أُمَّتِي  
عَرَضُوا عَلَيَّ غَزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَرْكَبُونَ نَبَجَ هَذَا  
الْبَحْرِ مُلُوكٌ عَلَى الْأَسِيرَةِ أَوْ مِثْلُ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِيرَةِ  
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَدَعَى  
لَهَا ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ  
فَقُلْتُ لَهُ مَا يَضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَأْسٌ مِنْ  
أُمَّتِي عَرَضُوا غَزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ نَحْوَمَا قَالَ فِي  
الْأَوَّلِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي  
مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ فَرَكِبْتِ أُمَّ حَرَامِ الْبَحْرِ  
فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَصَرَعَتْ عَنْ دَابَّتَيْهَا  
جِئْنَ نَحْرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ

## باب ۱۰۸۲۔ سمندر میں جہاد

۱۳۹۷۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ عبادہ بن صامت کی بیوی ام حرام بنت ملحان کے یہاں آنحضرتؐ جایا کرتے تھے اور وہ آپؐ کو کھانا کھلایا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ آنحضرتؐ ان کے ہاں داخل ہوئے تو انہوں نے آپؐ کو کھانا کھلایا اور آپؐ کے سر مبارک کی جوئیں دیکھنے کے لیے آپؐ کو روک لیا۔ آپؐ اسی اثناء میں سو گئے پھر جب جاگے تو ہنسنے لگے۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کس بات پر ہنس رہے ہیں؟ فرمایا: میری امت کے چند لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جو سمندر میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے سوار ہیں۔ گویا کہ وہ لوگ تختوں پر بادشاہ ہیں یا فرمایا: کہ بادشاہوں کی طرح تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ام حرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ! دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی انہی میں سے کر دیں۔ اس پر آپؐ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ پھر دوبارہ سر مبارک رکھا اور سو گئے اور اسی طرح ہنسنے ہوئے اٹھے۔ انہوں نے پھر عرض کیا کہ اب کس چیز پر ہنس رہے ہیں؟ فرمایا: میرے سامنے کچھ مجاہد پیش کیے گئے جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہیں۔ پھر اسی طرح فرمایا: جس طرح پہلی مرتبہ فرمایا تھا۔ انہوں نے دوبارہ دعا کے لیے درخواست کی۔ تو آپؐ نے فرمایا: تم ان لوگوں میں سے اولین میں سے ہو۔ پھر حضرت معاویہ بن ابوسفیانؓ کے زمانہ خلافت میں ام حرام سمندر میں سوار ہوئیں اور جب نکلیں تو اپنی سواری سے گر گئیں اور شہید ہو گئیں۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ام حرام بنت ملحان، ام سلیم کی بہن اور انس بن مالک کی خالہ ہیں۔

## باب ۱۰۸۳۔ جو شخص ریا کاری یا دنیا کے لیے جہاد کرے۔

## باب ۱۰۸۳۔ مَا جَاءَ مَنْ يُقَاتِلُ رِيَاءً أَوْ لِلدُّنْيَا

۱۴۹۸۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ ابْنِ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ  
شَقِيقٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شُجَاعَةً وَيُقَاتِلُ  
رِيَاءً فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَحْوُنِ  
كَلِمَةِ اللَّهِ هِيَ أَعْلَى فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

۱۳۹۸۔ حضرت ابو موسیٰؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہؐ سے اس شخص کے متعلق پوچھا گیا۔ جو ریا کاری، غیرت یا اظہار شجاعت کے لیے جہاد کرتا ہے کہ ان میں سے کون اللہ کی راہ میں ہے؟ فرمایا: جو شخص اعلیٰ کلمہ اللہ کے لیے جہاد کرے وہ اللہ کی راہ میں ہے۔

اس باب میں عمرؓ سے بھی حدیث منقول ہے حضرت ابوموسیٰؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۴۹۹۔ حدثنا محمد بن المثنی ثنا عبد الوہاب الثقفی عن یحیی بن سعید عن محمد بن ابراہیم عن علقمة بن وقاص الليثی عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنية وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله والى رسوله فهجرته الى الله والى رسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه

۱۳۹۹۔ حضرت عمر بن خطابؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو نیت کے مطابق ہی ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ جس نے اللہ اور رسول (ﷺ) کے لیے ہجرت کی اس نے اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کے لیے کی اور جس نے دنیا کے حصول یا کسی عورت سے شادی کی غرض سے ہجرت کی اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے کی ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسے مالک بن انس، سفیان ثوری اور کئی ائمہ حدیث یحییٰ بن سعید سے نقل کرتے ہیں ہم اسے صرف یحییٰ بن سعید ہی کی روایت سے جانتے ہیں۔

باب ۱۰۸۴۔ ماجاء في الغدوة والروح في سبيل الله  
۱۵۰۰۔ حدثنا علي بن حجر ثنا اسمعيل بن جعفر عن حميد عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله اوروحة خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس احدكم او موضع يده في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولو ان امرأة من نساء اهل الجنة اطلعت الى الارض لآضأت ما بينهما ولعلات ما بينهما ريحا ولتصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۰۸۲۔ جہاد میں صبح و شام چلنے کی ہدایت۔  
۱۵۰۰۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی راہ میں صبح یا شام کو چلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے اور ایک کمان یا ایک ہاتھ کے برابر جنت کی جگہ دینا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے۔ اگر جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت دنیا میں آجائے تو آسمان و زمین کے مابین پوری کائنات روشن اور خوشبو سے بھر جائے۔ یہاں تک کہ اس کے سر کی اوڑھنی بھی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔

۱۵۰۱۔ حدثنا قتيبة ثنا العظام بن خالد المنخزومي عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها

۱۵۰۱۔ حضرت اہل بن سعد ساعدیؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی راہ میں ایک صبح چلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر اور جنت میں ایک کوڑا رکھنے کے برابر جگہ دینا و ما فیہا سے بہتر ہے۔

اس باب میں ابو ہریرہؓ، ابن عباسؓ، ابویوبؓ اور انسؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۵۰۲۔ حدثنا ابو سعید الاشج ثنا ابو خالد الاحمر

۱۵۰۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ اور ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے

فرمایا: جہاد میں ایک صبح یا ایک شام چلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔

عن ابن عجلان عن أبي حازم عن أبي هريرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غدوة في سبيل الله أو راحة خير من الدنيا وما فيها

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ابو حازم، غرہ اشجیہ کے مولیٰ ہیں ان کا نام سلیمان ہے اور یہ کوئی ہیں۔

۱۵۰۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کا ایک گھائی پر گزر ہوا اس میں بیٹھے پانی کا ایک چھوٹا سا چشمہ تھا۔ یہ جگہ انہیں بے حد پسند آئی اور تمنا کی کہ کاش کہ میں لوگوں سے جدا ہو کر اس گھائی میں رہتا۔ لیکن میں آنحضرت ﷺ سے اجازت لیے بغیر کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ چنانچہ جب آپ ﷺ سے اس بات کا تذکرہ کیا تو فرمایا: ایسا نہ کرنا اس لیے کہ تم میں سے کسی کا ایک مرتبہ جہاد کے لیے کھڑے ہونا اس کے اپنے گھر میں ستر سال تک نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ کیا تم لوگ نہیں چاہتے کہ اللہ رب العزت تم لوگوں کی مغفرت فرمائیں اور تمہیں جنت میں داخل کریں لہذا اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ جس نے فواق ناذہ کے برابر بھی جہاد کیا اس پر جنت واجب ہوگی۔ (۱)

۱۵۰۳۔ حدثنا عبيد بن اسباط بن محمد ثنا ابى عن هشام بن سعد بن ابى هلال عن ابن ابي ذباب عن ابي هريرة قال مر رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشعب فيه عينته من ماء عذبة فاعجبته لطيبها فقال لواعتركت الناس فاقمت في هذا الشعب ولكن افعل حتى استاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل فان مقام احدكم في سبيل الله افضل من صلواته في بيته سبعين عاما الا تحبون ان يغير الله لكم ويدخلكم الجنة اغزوا في سبيل الله من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة

یہ حدیث حسن ہے۔

باب ۱۰۸۵۔ بہترین لوگ کون ہیں؟

۱۵۰۴۔ حضرت ابن عباسؓ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں بہترین آدمی کے متعلق نہ بتاؤں؟ بہترین شخص وہ ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی لگام پکڑتا ہے۔ اور کیا میں تمہیں اس کے بعد کے درجے والا شخص نہ بتاؤں؟ وہ وہ شخص ہے جو اپنی بکریاں لے کر مخلوق سے جدا ہو گیا ہے لیکن اس میں سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہے (۲) اور کیا میں تمہیں بدترین شخص کے متعلق نہ بتاؤں؟ بدترین شخص وہ ہے جو اللہ کے نام پر سوال کرتا ہے اور اسے نہیں عطا کیا جاتا۔

باب ۱۰۸۵۔ ماجاء أي الناس خير

۱۵۰۴۔ حدثنا قتيبة ثنا ابن لهيعة عن بكير بن الاشج عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم بخير الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله الا اخبركم بالذي يتلوه رجل معتزل في غيمة له يودى حق الله فيها الا اخبركم بشير الناس رجل يسئل بالله ولا يعطى به

(۱) فواق ناذہ: اونٹنی کا دو دو دو ہونے کے دوران ایک دھار سے دوسری کے درمیانی وقفے کو فواق ناذہ کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے۔ کہ تھن کو ایک مرتبہ ہاتھ سے

دبا کر چھوڑنے اور دوبارہ دبانے کے درمیانی وقفے کو کہتے ہیں۔ (مترجم)

(۲) یہاں صورت میں ہے کہ جہاد فرض کفایہ ہو۔ (مترجم)

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے ابن عباسؓ کے واسطے سے مرفوعاً منقول ہے۔

باب ۱۰۸۶۔ مَا جَاءَ فِيمَنْ سَأَلَ الشَّهَادَةَ

باب ۱۰۸۶۔ جو شخص شہادت کی دعا کرے

۱۵۰۵۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا رُوْحُ بْنُ عِبَادَةَ ثَنَا

۱۵۰۵۔ حضرت معاذ بن جبلؓ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ

ابن جریج عن سليمان بن موسى عن مالك بن

فرمایا: جس شخص نے خلوص دل کے ساتھ اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی

نحاس السكسكي عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ

دعا کی اللہ تعالیٰ اسے شہید کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْقَتْلَ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَ الشَّهِيدِ

یہ حدیث حسن ہے۔

۱۵۰۶۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ ثَنَا الْقَاسِمُ

۱۵۰۶۔ حضرت سہیل بن حنیفؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

بْنُ كَثِيرٍ ثَنَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ شَرِيحٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ

جو شخص صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے شہادت طلب کرے گا اللہ تعالیٰ

أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اسے شہید کے مراتب پر فائز فرمائیں گے خواہ وہ بستر پر ہی فوت ہو۔

وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ مِنْ قَلْبِهِ صَادِقًا بَلَّغَهُ

اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے اس سند سے صرف عبدالرحمن بن شریح کی روایت سے جانتے ہیں۔ عبداللہ بن صالح بھی یہ

حدیث عبدالرحمن بن شریح سے نقل کرتے ہیں۔ ان کی کنیت ابو شریح ہے اور یہ اسکندرانی ہیں اس باب میں معاذ بن جبلؓ سے بھی حدیث

منقول ہے۔

باب ۱۰۸۷۔ مَا جَاءَ فِي الْمُجَاهِدِ وَالْمُكَاتِبِ

باب ۱۰۸۷۔ مجاہد، مکاتب اور نکاح کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی

وَالنَّائِكِ وَعَوْنِ اللَّهِ إِيَّاهُمْ

مدد و نصرت۔

۱۵۰۷۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ

۱۵۰۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ

سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ الْمُقْبَرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

نے تین شخصوں کی معاونت اپنے ذمے لی ہے ایک مجاہد فی سبیل اللہ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ حَقَّ عَلَى اللَّهِ

دوسرا مکاتب جو ادائیگی قیمت کا ارادہ رکھتا ہو اور تیسرا وہ نکاح کرنے

عَوْنُهُمُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُكَاتِبُ الَّذِي

والا جو پرہیزگاری کی نیت سے نکاح کرے۔

يُرِيدُ الْآدَاءَ وَالنَّائِكُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَاةَ

یہ حدیث حسن ہے۔

۱۵۰۸۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا رُوْحُ بْنُ عِبَادَةَ بْنِ

۱۵۰۸۔ حضرت معاذ بن جبلؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

جَرِيحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مَالِكِ بْنِ يَخْضَمٍ

جس مسلمان نے فوائق ناقہ کے برابر بھی اللہ کی راہ میں جہاد کیا جنت

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس پر واجب ہوگی اور جس شخص کو جہاد کے دوران ایک زخم یا کوئی

چوٹ بھی لگ گئی وہ شخص قیامت کے دن بڑے سے بڑا زخم لے کر آئے گا اس کا رنگ زعفران کی طرح اور خوشبو مشک جیسی ہوگی۔

قَالَ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فُوقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْحَنَّةُ وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ نَكِبَ نَكْبَةً فَإِنَّهَا يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهَا كَانَتْ لَوْنَهَا الزُّعْفَرَانُ وَرِيحُهَا كَالْمِسْكِ

یہ حدیث حسن ہے۔

باب ۱۰۸۸۔ جہاد میں زخمی ہو جانے کی فضیلت۔

۱۵۰۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں میں سے زخمی ہونے والوں کو اچھی طرح جانتے ہیں اور کوئی زخمی مجاہد ایسا نہیں کہ قیامت کے دن خون کے رنگ اور مشک کی سی خوشبو کے ساتھ حاضر نہ ہو۔

باب ۱۰۸۸۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۱۵۰۹۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهِيلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِّ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے حضرت ابو ہریرہؓ ہی کے واسطے سے آنحضرت ﷺ سے منقول ہے۔

باب ۱۰۸۹۔ کون سا عمل افضل ہے۔

۱۵۱۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل اور بہتر ہے؟ فرمایا: اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لانا۔ عرض کیا گیا: پھر؟ فرمایا: جہاد افضل ترین عمل ہے عرض کیا گیا: اس کے بعد؟ فرمایا: حج مقبول۔

باب ۱۰۸۹۔ مَا جَاءَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ۱۵۱۰۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيْبٍ ثَنَا عَبْدِ عَندهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سِئَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ وَأَيُّ الْأَعْمَالِ خَيْرٌ فَقَالَ إِيْمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قِيْلَ ثُمَّ أَيُّ شَيْءٍ قَالَ الْجِهَادُ سِنَامُ الْعَمَلِ قِيْلَ ثُمَّ أَيُّ شَيْءٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُورٌ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور آنحضرت ﷺ سے کئی سندوں سے بواسطہ ابو ہریرہؓ منقول ہے۔

۱۵۱۱۔ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جنت کے دروازے تلواروں کے سائے تلے ہیں“۔ ایک شخص جو کہ مفلوک الحال تھا کہنے لگا کیا آپ نے خود یہ حدیث رسول اللہ ﷺ سے سنی ہے؟ فرمایا: ہاں۔ راوی کہتے ہیں: پھر وہ شخص اپنے دوستوں میں واپس گیا اور کہا: میں تمہیں سلام کرتا ہوں پھر اپنی تلوار کی میان توڑ ڈالی اور کافروں کو قتل کرنے لگا یہاں تک کہ قتل ہو گیا۔

۱۵۱۱۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَلِيْمَانَ الضَّبْعِيُّ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْحَوْنِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ رَبُّنَا الْهَيْئَةَ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ أَقْرَأْ عَلَيْكُمْ السَّلَامَ وَكَسَرَ حَقَنَ سَيْفِهِ فَضْرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف جعفر بن سلمان کی روایت سے جانتے ہیں۔ ابو عمران جوئی کا نام عبد الملک بن حبیب، اور ابو بکر بن موسیٰ کا نام بقول احمد بن حنبل ”عمریا عامر“ ہے۔

باب ۱۰۹۰۔ مَا جَاءَ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ

۱۰۱۲۔ حَدَّثَنَا أَبُو عَمَارٍ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ دَاخُدْرِيِّ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ قَالَ رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالُوا ثُمَّ مَنْ قَالَ مُؤْمِنٌ فِي شُعْبٍ مِنَ الشُّعَابِ يَتَّقِي رَبَّهُ وَيَدْعُ النَّاسَ مِنْ شِرَّةٍ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۰۱۳۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَنَا نَعِيمُ بْنُ حَمَادٍ ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْقَدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ حِصَالٍ يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ

یہ حدیث صحیح غریب ہے۔

۱۰۱۴۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مَعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ ثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَسْرُهُ أَنْ يَرْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا غَيْرَ الشَّهِيدِ فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا يَقُولُ حَتَّى أَقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِمَّا يَرَى مَا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الْكِرَامَةِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اسے محمد بن بشار نے محمد بن جعفر سے انہوں نے شعبہ سے انہوں نے قتادہ سے انہوں نے انس سے اور انہوں

نے آنحضرت ﷺ سے اسی کے ہم معنی بیان کیا ہے۔

۱۰۱۵۔ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي النُّضْرِ ثَنَا أَبُو النُّضْرِ

باب ۱۰۹۰۔ کون سا آدمی افضل ہے۔

۱۵۱۲۔ حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا کہ کون سا شخص افضل ہے؟ فرمایا: اللہ کی راہ کا مجاہد۔ عرض کیا گیا: پھر؟ فرمایا: وہ مؤمن جو گھائیوں میں سے کسی گھائی میں رہتا ہو۔ اپنے رب سے ڈرتا اور لوگوں کو اپنے شر سے دور رکھتا ہو۔

۱۵۱۳۔ حضرت مقدم بن معدیکربؓ کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: شہید کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس چھ انعامات ہیں۔ (۱) خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ (۲) اسے اس کا جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔

(۳) عذاب قبر سے محفوظ اور قیامت کے دن کی بھیانگ وحشت سے مامون کر دیا جاتا ہے۔

(۴) اس کے سر پر ایسے یا قوت سے جڑا ہوا دقار کا تاج رکھا جاتا ہے جو دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔

(۵) اور اس کی بہتر (۷۲) حوروں کے ساتھ شادی کر دی جاتی ہے اور (۶) ستر قرابت داروں کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔

۱۵۱۴۔ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: کوئی بھی جنتی دنیا میں واپس آنے کی خواہش نہیں کرے گا ہاں البتہ شہید ضرور اس بات کا خواہش مند ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں واپس جائے۔ چنانچہ وہ کہے گا کہ میں اللہ کی راہ میں دس مرتبہ قتل کر دیا جاؤں اور اس کی وجہ انعام و اکرام ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے۔

۱۵۱۵۔ حضرت اہل بن سعدؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حدود

کی ایک رات چوکیداری کرنا دینا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے پھر ایک صبح یا ایک شام اللہ کی راہ میں چلنا بھی دینا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ بھی دینا و ما فیہا سے بہتر ہے۔

ثنا عبدالرحمن بن عبداللہ بن دینار عن ابی حازم عن سہل بن سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا والروحة یروحہا العبد فی سبیل اللہ والغنوة خیر من الدنیا وما علیہا وموضع سوط أحدکم فی الجنة خیر من الدنیا وما علیہا  
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۵۱۶۔ محمد بن منکدر کہتے ہیں کہ سلمان فارسیؓ، شرمیل کے پاس سے گزرے وہ اپنے مرابط میں تھے جن میں رہنا ان کے لیے شاق گزر رہا تھا۔ سلمان نے فرمایا: اے شرمیل کیا میں تمہیں رسول اللہ ﷺ کی حدیث نہ سناؤں۔ کہنے لگے: کیوں نہیں۔ فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ اللہ کی راہ میں ایک دن پہرے داری کے فرائض انجام دینا ایک ماہ کے روزے رکھنے اور رات کو نمازیں پڑھنے سے افضل یا فرمایا بہتر ہے۔ اور جو ای دوران مر جائے اسے فتنہ قبر سے نجات دے دی جائے گی اور اس کے نیک اعمال قیامت تک بڑھتے رہیں گے۔

۱۵۱۶۔ حدثنا ابن ابی عمر ثنا سفیان ثنا ..... مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ مَرَّ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ بِشَرْحُبِيلِ بْنِ السَّمْطِ وَهُوَ فِي مَرَابِطٍ لَهُ وَقَدْ شَقَّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَصْحَابِهِ فَقَالَ إِلَّا أَحَدَيْتُكَ يَا بْنَ السَّمْطِ بِحَدِيثٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلَىٰ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ وَرُبَّمَا قَالَ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَمَنْ مَاتَ فِيهِ وَقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَنِمِيَ لَهُ عَمَلُهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ  
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۵۱۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہاد کے اثر کے بغیر ملاقات کرے گا گویا کہ وہ اپنے دین میں کمی کے ساتھ اللہ رب العزت سے ملاقات کرے گا۔

۱۵۱۷۔ حدثنا علی بن حجر ثنا الولید بن مسلم عن اسمعيل بن رافع عن سمي عن ابی صالح عن ابی هريرة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ لَقِيَ اللَّهَ بِغَيْرِ آثَرٍ مِنْ جِهَادٍ لَقِيَ اللَّهَ وَفِيهِ ثَلَمَةٌ  
یہ حدیث مسلم کی اسماعیل بن رافع کی روایت سے غریب ہے کیونکہ اسماعیل کو بعض محدثین ضعیف کہتے ہیں جب کہ امام بخاری انہیں ثقہ اور مقارب الحدیث کہتے ہیں۔ یہ حدیث ایک اور سند سے بھی حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً منقول ہے۔ سلمان فارسیؓ کی حدیث کی سند بھی متصل نہیں کیونکہ محمد بن منکدر کی سلمان فارسیؓ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ابو موسیٰؓ بھی یہ حدیث مکحول سے وہ شرمیل بن سمط سے وہ سلمان سے اور وہ آنحضرت ﷺ اسی کے مثل نقل کرتے ہیں۔

۱۵۱۸۔ حضرت عثمان بن عفانؓ کے مولیٰ ابو صالحؓ کہتے ہیں کہ میں نے عثمان کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ: میں نے تم لوگوں سے آنحضرت ﷺ کی ایک حدیث چھپائی ہوئی تھی تاکہ تم لوگ مجھ سے متنفر نہ ہو جاؤ۔

۱۵۱۸۔ حدثنا الحسن بن علی الخلال ثنا هشام بن عبد الملك ثنا الليث بن سعد ثنا ابو عقيل زهرة بن معبد عن ابی صالح مولى عثمان بن عفان قال

پھر میں نے سوچا کہ میں اسے بیان کر دوں اور جس کا جو جی چاہے کر لے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی راہ میں ایک دن کی چوکیداری (سرحدوں کی حفاظت) ایسے ایک ہزار دنوں سے بہتر ہے جو گھروں میں گزرے ہوں۔

سَمِعْتُ عُثْمَانَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنِّي كَتَمْتُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرَاهِيَةً تَفَرِّقُكُمْ عَنِّي ثُمَّ بَدَّلِي أَنْ أَحَدَيْتُكُمْوه لِيَخْتَارَ أَمْرًا لِنَفْسِهِ مَا بَدَّلَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِي مَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ

یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں: ابوصالح کا نام ترکان ہے۔

۱۵۱۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: شہید قتل کی صرف اتنی تکلیف محسوس کرتا ہے جتنی چیونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔

۱۵۱۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاحْمَدُ بْنُ نَصْرِالنِّيسَا بُورِي وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا ثنا صفوان بن عيسى ثنا محمد بن عجلان عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجذ الشهيد من مس القتل إلا كما يجذ أحدكم من مس القرصة

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۱۵۲۰۔ حضرت ابوامامہؓ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: اللہ کے نزدیک دو قطروں اور دو اثروں سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں۔ ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے آنسو بن کر نکلے اور دوسرا وہ خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں ہے۔ جہاں تک اثروں کا تعلق ہے تو ایک وہ اثر جو جہاد میں چوٹ وغیرہ لگنے سے ہو اور دوسرا وہ جو اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے کوئی فرض ادا کرتے ہوئے ہو۔

۱۵۲۰۔ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ جَمِيلٍ عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ اللَّهُ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ قَطْرَةٌ دَمُوعٌ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَقَطْرَةٌ دَمٌ تَهْرَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْأَثَرَانِ فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِنَ فَرَائِضِ اللَّهِ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

## آنحضرت ﷺ سے جہاد کے متعلق

### منقول احادیث کے ابواب

باب ۱۰۹۱۔ اہل عذر کو جہاد میں عدم شرکت کی اجازت

۱۵۳۱۔ حضرت براء بن عازبؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی بڑی یا تختی وغیرہ لاؤ۔ پھر آپ ﷺ نے حکم دیا کہ اس پر لکھا جائے

## أَبْوَابُ الْجِهَادِ عَنِ

### رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۱۰۹۱۔ فِي أَهْلِ الْعُذْرِ فِي الْقُعُودِ

۱۵۲۱۔ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ بْنُ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ

الْبِرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتْتُونِي بِالْكِتِفِ أَوِ اللَّوْحِ فَكَتَبَ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَعَمَرُو بَنُ أُمَّ مَكْتُومٍ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَقَالَ هَلْ لِي رُحْصَةٌ فَنَزَلَتْ عَيْرُ أُولَى الضَّرِّ

کہ ”لايستوى القاعدون من المؤمنين“ الایۃ یعنی جہاد میں شریک نہ ہونے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس وقت عمرو بن ام مکتوم آپ ﷺ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے عرض کیا: کیا میرے لیے اجازت ہے؟ چنانچہ ”غیر اولى الضرر“ الایۃ نازل کی گئی۔ یعنی اہل اعذار وغیرہ جن کے بدن میں کوئی نقص ہو۔ (عمرو بن ام مکتوم نابینا تھے۔ مترجم)

اس باب میں ابن عباسؓ، جابرؓ اور زید بن ثابتؓ سے بھی احادیث نقل کی گئی ہیں یہ حدیث سلیمان تمیمی کی ابو اسحاق سے نقل کی گئی روایت سے حسن صحیح غریب ہے۔ شعبہ اور ثوری بھی اسے ابو اسحاق سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۰۹۲۔ مَا جَاءَ فِيمَنْ خَرَجَ إِلَى الْعَزْوِ وَتَرَكَ أَبَوَيْهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ سَفْيَانَ وَشُعْبَةَ عَنِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ أَلَاكَ وَالِدَانِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ

باب ۱۰۹۲۔ جو شخص والدین کو چھوڑ کر جہاد میں جائے۔  
۱۵۲۲۔ حضرت عبداللہ بن عمروؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص آنحضرت ﷺ سے جہاد کی اجازت لینے کے لیے حاضر ہوا آپ ﷺ نے پوچھا کہ کیا تمہارے والدین ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں آپ ﷺ نے فرمایا: تو پھر انہی کی خدمت کرو۔

اس باب میں ابن عباسؓ بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ ابن عمروؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو عباسؓ: کئی شاعر ہیں جو نابینا تھے۔ ان کا نام ساجب بن فروخ ہے۔

باب ۱۰۹۳۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُبْعَثُ سَرِيَّةً وَحَدَهُ ۱۰۹۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي قَوْلِهِ: ”أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ“ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُدَافَةَ بْنُ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ السَّهْمِيُّ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً أَخْبَرَنِيهِ يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

باب ۱۰۹۳۔ ایک شخص کو بطور لشکر بھیجا۔  
۱۵۲۳۔ حجاج بن محمد کہتے ہیں کہ ابن جریجؓ نے ارشاد بانی: ”اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم“ کی تفسیر میں فرمایا: کہ عبداللہ بن حذافہ بن قیس بن عدیؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں بطور لشکر بھیجا (یعنی وہ چھوٹا لشکر جو لشکر میں سے الگ کر کے بھیجا جائے) یہ حدیث یعلیٰ بن مسلم، سعید بن جبیر سے اور وہ ابن عباسؓ سے بیان کرتے ہیں۔

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے ہم اسے صرف ابن جریجؓ کی روایت سے جانتے ہیں۔

باب ۱۰۹۴۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُسَافِرَ الرَّجُلُ وَحَدَهُ ۱۰۹۴۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الضَّيْبِيِّ الْبَصْرِيُّ ثَنَا سَفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ

باب ۱۰۹۴۔ اکیلے سفر کرنے کی کراہت  
۱۵۲۴۔ حضرت ابن عمرؓ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: اگر لوگ تمہاری کفالت کے متعلق وہ کچھ جانتے ہوتے جو میں جانتا ہوں تو کبھی کوئی اکیلا رات کو سفر نہ کرتا۔

النَّاسَ يَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ مِنَ الْوَحْدَةِ مَا سَارَ رَاكِبٌ  
بِلَيْلٍ يَعْنِي وَحْدَهُ

۱۵۲۵۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے  
نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رات کو ایک یا دو سفر کرنے  
والے شیطان ہیں اور تین لشکر (جماعت) کی مانند ہیں۔

۱۵۲۵۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْإِنصَارِيُّ ثَنَا  
مَعْنُ ثَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ  
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّكِيْبُ شَيْطَانٌ وَالرَّكِيْبَانِ  
شَيْطَانَانِ وَالثَّلَاثَةُ رَكِيْبٌ

یہ حدیث حسن صحیح ہے ہم اسے صرف اس سند سے جانتے ہیں۔ عاصم: عاصم بن محمد بن زید بن عبد اللہ بن عمر ہیں۔ حضرت ابن عمرؓ کی  
حدیث بھی حسن ہے۔

باب ۱۰۹۵۔ مَا جَاءَ فِي الرُّخَصَةِ فِي الْكَيْدِ  
وَالْخَدِيْعَةِ فِي الْحَرْبِ

باب ۱۰۹۵۔ جنگ میں جھوٹ اور فریب کی اجازت

۱۵۲۶۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:  
جنگ فریب کا نام ہے۔

۱۵۲۶۔ حَدَّثَنَا اِحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا  
ثَنَا سَفِيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ  
عَبْدِ اللَّهِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
الْحَرْبُ خُدْعَةٌ

اس باب میں علیؓ، زید بن ثابتؓ، عائشہؓ، ابن عباسؓ، ابو ہریرہؓ، اسماء بنت یزیدؓ، کعب بن مالکؓ اور انس بن مالکؓ بھی حدیث نقل  
کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۰۹۶۔ مَا جَاءَ فِي غَزَوَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۱۰۹۶۔ آنحضرت ﷺ کے غزوات کی تعداد

۱۵۲۷۔ حضرت ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں زید بن ارقمؓ کے ساتھ تھا کہ  
ان سے آنحضرت ﷺ کے غزوات کی تعداد پوچھی گئی۔ انہوں نے  
فرمایا: (۱۹) انیس جنگیں۔ میں نے عرض کیا آپ کتنی جنگوں میں  
آنحضرت ﷺ کے ساتھ شریک ہوئے؟ فرمایا: سترہ (۱۷) میں۔  
میں نے عرض کیا پہلی جنگ کون سی تھی؟ فرمایا: ذات العسیراء یا فرمایا  
ذات العسیراء۔

۱۵۲۷۔ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غِيْلَانَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ  
وَابُو دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي اسْحَقَ قَالَ كُنْتُ اِلَى  
جَنْبِ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمٍ فَقِيْلَ لَهُ كَمْ غَزَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةٍ قَالَ تِسْعَ عَشْرَةَ فَقُلْتُ كَمْ  
غَزَوْتَ اَنْتَ مَعَهُ قَالَ سَبْعَ عَشْرَةَ قُلْتُ مَا اَيْتَهُنَّ كَانَ  
اَوَّلُ قَالَ ذَاتُ الْعُسَيْرِ اَوْ الْعُسَيْرِ اَوْ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۰۹۷۔ مَا جَاءَ فِي الصَّفِّ وَالتَّعْبِيَةِ عِنْدَ الْقِتَالِ

باب ۱۰۹۷۔ جنگ میں صف بندی اور ترتیب کے متعلق

۱۵۲۸۔ حضرت عبد الرحمن بن عوفؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے

۱۵۲۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيْدِ الرَّازِي ثَنَا سَلْمَةُ

بن الفضل عن محمد بن اسحاق عن عكرمة عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال عبانا تھا۔  
غزوة بدر کے موقع پر ہمیں رات ہی سے مناسب مقامات پر کھڑا کر دیا  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَدْرِ لَيْلًا

اس باب میں ابویوب بھی حدیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ امام بخاری سے  
میں نے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اسے نہیں پہچانا۔ ان کا کہنا ہے کہ محمد بن اسحاق نے عکرمہ سے احادیث سنی ہیں۔ میں  
نے انہیں محمد بن حیدر رازی کو بہتر سمجھتے ہوئے دیکھا لیکن بعد میں وہ انہیں ضعیف کہنے لگے۔

باب ۱۰۹۸۔ جنگ کے وقت دعا کرنا

باب ۱۰۹۸۔ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الْقِتَالِ

۱۵۲۹۔ ابن ابی اوفی، آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ  
نے غزوة خندق کے موقع پر کفار کے لشکروں کے لیے بددعا کرتے  
ہوئے یہ الفاظ کہے: اللهم..... الخ یعنی اے اللہ، کتاب کو اتارنے  
والے اور جلد حساب کرنے والے ان لشکروں کو شکست دے اور ان  
کے قدم اکھاڑ دے۔

۱۵۲۹۔ حدثنا احمد بن منيع ثنا يزيد بن هارون  
ثنا اسمعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى قال  
سمِعْتُهُ يَقُولُ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو  
عَلَى الْأَحْزَابِ فَقَالَ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ  
الْحِسَابِ اهْزِمِ الْأَحْزَابِ اللَّهُمَّ احْزَمِهِمْ وَزَلْزِلْهُمْ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں ابن مسعود بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۰۹۹۔ جھنڈوں کے متعلق

باب ۱۰۹۹۔ مَا جَاءَ فِي الْأَلْوِيَةِ

۱۵۳۰۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب مکہ میں داخل  
ہوئے تھے تو آپ ﷺ کا جھنڈا سفید رنگ کا تھا۔

۱۵۳۰۔ حدثنا ابو كريب و محمد بن عمر بن  
الوليد الكندي و محمد بن رافع قالوا ثنا يحيى بن  
ادم عن شريك عن عمار هو الدهني عن ابي الزبير  
عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل  
مكة ولبواؤه ابيض

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف یحییٰ بن آدم کی شریک سے منقول حدیث سے جانتے ہیں میں نے امام بخاری سے پوچھا تو انہوں  
نے بھی اسے اس سند سے نہیں جانا۔ کئی راوی شریک سے وہ عمار سے وہ ابو زبیر سے اور وہ جابرؓ سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں کہ جب آنحضرت  
ﷺ مکہ میں داخل ہوئے تو آپ ﷺ کے سرمبارک پر کالے رنگ کی پگڑی تھی۔ امام بخاری نے فرمایا: حدیث یہی ہے وہ بن قبیله بجیلہ کا ایک  
بطن ہے اور عمار وہنی، معاویہ وہنی کے بیٹے ہیں ان کی کنیت ابو معاویہ ہے اور یہ کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ محدثین انہیں ثقہ کہتے ہیں۔

باب ۱۱۰۰۔ جھنڈوں کے متعلق (۱)

باب ۱۱۰۰۔ فِي الرِّيَاثِ

۱۵۳۱۔ محمد بن قاسم کے آزاد کردہ یونس بن عبید کہتے ہیں کہ مجھے محمد بن  
قاسم نے براء بن عازب کے پاس آنحضرت ﷺ کے جھنڈے کے  
متعلق پوچھنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے فرمایا: آنحضرت ﷺ کا جھنڈا

۱۵۳۱۔ حدثنا احمد بن منيع ثنا يحيى بن زكريا  
بن ابي زائدة ثنا ابو يعقوب الثقفي ثنا يونس بن  
عبيد مولى محمد بن القاسم قال بعنني محمد بن

(۱) رلیہ لشکر کے جھنڈے کو کہتے ہیں یہ لواء سے بڑا ہوتا ہے۔ (مترجم)

الْقَاسِمِ إِلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ رَأْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَأَنَّكَ سَوْدَاءٌ مُرْبَعَةٌ مِّنْ نَّمِرَةَ

سیاہ رنگ کا اور چوکور تھا اس پر لکیریں بنی ہوئی تھیں۔

اس باب میں علیؓ، حارث بن حسانؓ اور ابن عباسؓ سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف ابو زائدہ کی روایت سے جانتے ہیں۔ ابویوب ثقفی کا نام اسحاق بن موسیٰ ہے۔ ان سے عبید اللہ بن موسیٰ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔

۱۵۳۲۔ حدثنا محمد بن رافع ثنا يحيى بن اسحاق هو السالحناني ثنا يزيد عن حيان قال سمعت ابا مخرم لا حق بن حميد يحدث عن ابن عباس قال كانت راية النبي صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه ابيض

۱۵۳۲۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا بڑا جھنڈا کالا اور چھوٹا جھنڈا سفید تھا۔

یہ حدیث ابن عباسؓ کی روایت سے غریب ہے۔

باب ۱۱۰۱۔ شعار کے متعلق۔ (۱)

باب ۱۱۰۱۔ مَا جَاءَ فِي الشَّعَارِ

۱۵۳۳۔ مهلب بن صفره كسى ايسى شخص منقول کرتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ: اگر رات کے وقت تم لوگوں پر حملہ کر دیا جائے تو تمہارا شعار یہ ہے۔ ”حم لا ينصرون“

۱۵۳۳۔ حدثنا محمود بن غيلان ثنا وكيع ثنا سفيان عن أبي اسحق عن المهلب بن أبي صفرة عن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بيئكم العدو فقولوا حم لا ينصرون

اس باب میں سلمہ بن اکوعؓ بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ بعض راوی بھی ابواسحاق سے یہ حدیث ثوری کی حدیث کے مثل بیان کرتے ہیں جب کہ اس طرح بھی روایت کی گئی ہے کہ مہلب بن ابی صفرہ، آنحضرت ﷺ سے مرسل نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۱۰۲۔ مَا جَاءَ فِي صَفَةِ سَيْفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۱۱۰۲۔ آنحضرت ﷺ کی تلوار کی صفت

۱۵۳۴۔ حدثنا محمد بن شجاع البغدادي ثنا ابو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال صنعت سيفي على سيف سمره ورعتم سمره انه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيًا

۱۵۳۴۔ حضرت ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے اپنی تلوار سمرہ کی تلوار جیسی بنائی تھی اور آپ ﷺ کی تلوار بنو حنیف کی تلواروں کی طرح کی تھی۔

یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ یحییٰ بن سعید قطان، عثمان بن سعد کا تب کو حافظے کی وجہ سے ضعیف قرار دیتے ہیں۔

(۱) شعار سے مراد وہ الفاظ جو ایک دوسرے کو جاننے کیلئے آپس میں بولے جاتے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارا ہی آدمی ہے (مترجم)

باب ۱۱۰۳۔ فی الْفِطْرِ عِنْدَ الْقِتَالِ

۱۵۳۵۔ حدثنا احمد بن محمد بن موسى ثنا  
عبدالله بن المبارك ثنا سعيد بن عبدالعزيز عطية بن  
قيس عن قزعة عن ابي سعيد الخدري قال لما بلغ  
النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح مر الظهران  
فاذتنا بلفاء العدو فامرنا بالفطر فافطرننا اجمعين  
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۱۰۳۔ جنگ کے وقت افطار کرنا۔

۱۵۳۵۔ حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر جب  
رسول اللہ ﷺ مرظہران کے قریب پہنچے تو ہمیں دشمن کے ساتھ جنگ کا  
بتایا اور حکم دیا کہ ہم لوگ افطار کر لیں۔ چنانچہ ہم سب نے افطار کیا۔

باب ۱۱۰۴۔ ماجاء فی الخروج عند الفرع

۱۵۳۶۔ حدثنا محمود بن غيلان ثنا ابو داود  
الطيالسي ابانا شعبة عن قتادة ثنا انس بن مالك  
قال ركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لابي  
طلحة يقال له مندوب فقال ما كان من فرع وان  
وجدناه لبحرا

باب ۱۱۰۴۔ گھبراہٹ کے وقت نکلنا۔

۱۵۳۶۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ابو طلحہ  
کے گھوڑے پر سوار ہوئے جسے مندوب کہتے تھے۔ پھر فرمایا: اس  
میں کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ ہم نے اسے دریا کے پانی کی طرح  
سبک رفتار پایا۔

اس باب میں عمرو بن عاصؓ سے بھی حدیث منقول ہے۔ مذکورہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۵۳۷۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن  
جعفر و ابن ابي عدى و ابو داود قالوا ثنا شعبة عن  
قتادة عن انس قال كان فرع بالمدينة فاستعار  
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لنا يقال له  
مندوب فقال ما رأينا من فرع وان وجدناه لبحرا  
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۵۳۷۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں کچھ بے اطمینانی کی  
کیفیت پیدا ہوئی تو آنحضرت ﷺ نے ہمارا گھوڑا استعارہ لیا۔ جسے  
مندوب کہتے تھے پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ہم نے اسے دہشت زدہ  
ہوتے نہیں دیکھا۔ بلکہ اسے دریا کی مانند تیز رفتار پایا۔

باب ۱۱۰۵۔ فی الاستقامة عند القتال

۱۵۳۸۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد  
ثنا سفيان ثنا ابواسحق عن البراء بن عازب قال له  
رجل افررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا  
ابا عمارة قال لا والله ما ولي رسول الله صلى الله  
عليه وسلم ولكن ولي سرعان الناس تلقتهم هوازن  
بالنبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته  
وابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب اخذ

باب ۱۱۰۵۔ جنگ کے وقت ثابت قدم رہنا

۱۵۳۸۔ حضرت براء بن عازبؓ سے کسی شخص نے کہا۔ اے ابوعمار کیا تم  
لوگ آنحضرت ﷺ کے پاس سے فرار ہو گئے تھے۔ انہوں نے فرمایا:  
نہیں اللہ کی قسم صرف چند جلد باز لوگوں نے فرار کی راہ اختیار کی تھی  
آنحضرت ﷺ نے نہیں۔ اور جن لوگوں نے فرار کی راہ اختیار کی تھی ان  
سے ہوازن کے تیراندازوں نے مقابلہ کیا۔ آپ ﷺ اپنے خچر پر سوار  
تھے اور ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب اس کی لگام پکڑے ہوئے  
تھے۔ آپ ﷺ یہ اعلان فرما رہے تھے میں نبی ہوں اس میں کوئی

بِلِحَامِهَا وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ  
اَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

جھوٹ نہیں اور عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔

۱۵۳۹۔ حدثنا محمد بن عمر بن علی المقدمی  
ثنی ابی عن سفیان بن حسین عن عبید اللہ بن عمر  
عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ حُنَيْنٍ وَ اِنَّ  
الْفَيْتَيْنِ لَمُوَلِّيَتَانِ وَ مَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ  
وَ وَسَلَّمَ مِائَةٌ رَجُلٍ

۱۵۳۹۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ ہم نے غزوہ حنین کے موقع پر اپنی  
دونوں جماعتوں کو فرار کی راہ اختیار کرتے ہوئے دیکھا آپ ﷺ کے  
ساتھ صرف سو (۱۰۰) آدمی باقی رہ گئے۔

اس باب میں علیؓ اور ابن عمرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

توضیح: حضرت براء کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ لشکر کے امیر تھے۔ جب آپ ﷺ فرار نہیں ہوئے تو چند جلد باز  
لوگوں کے فرار ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ واللہ اعلم (مترجم)

۱۵۴۰۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ بہترین انسان، سخی  
ترین اور سب لوگوں سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک رات اہل مدینہ نے  
ایک آواز سنی تو خوف زدہ ہو گئے۔ آپ ﷺ ابو طلحہؓ کے گھوڑے پرنگی  
پیٹھ پر سوار ہوئے اور اپنی تلوار کو لڑکا کر لوگوں کو عدم خوف کی تلقین کرنے  
لگے۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: میں نے اس گھوڑے کو سمندر کے پانی کی  
طرح پایا۔

۱۵۴۰۔ حدثنا قتيبة ثنا حماد بن زيد عن ثابت عن  
انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن  
الناس و اجود الناس و اشجع الناس قال و لقد فرغ  
اهل المدينة ليلة سمعوا صوتا قال فتلفهم النبي صلى  
الله عليه وسلم على فرس لا يبي طلحة عري وهو  
مقلد سيفه فقال لم تراعوا لم تراعوا ثم قال رسول الله  
صلى الله عليه وسلم و حدثه بحرا يعني الفرس

یہ حدیث عبید اللہ کی روایت سے حسن صحیح غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

باب ۱۱۰۶۔ تلواریں اور ان کی زینت

باب ۱۱۰۶۔ مَا جَاءَ فِي السُّيُوفِ وَ حِلْيَتِهَا

۱۵۴۱۔ حضرت مزیدہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فتح مکہ کے روز مکہ  
داخل ہوئے تو آپ ﷺ کی تلوار پر سونا اور چاندی لگی ہوئی تھی۔ طالب  
کہتے ہیں میں نے ان سے چاندی کے متعلق پوچھا تو فرمایا: تلوار کا قبضہ  
چاندی کا تھا۔

۱۵۴۱۔ حدثنا محمد بن صدران ابو جعفر  
البصرى ثنا طالب بن حجر عن هود وهو ابن  
عبد الله بن سعد عن جده مزيدة قال دخل رسول الله  
صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه  
ذهب وفضة قال طالب فسألته عن الفضة فقال  
كانت قبضة السيف فضة

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہمام بھی قادی سے اور وہ انسؓ سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ بعض راوی قادی سے اور وہ سعید بن  
ابو حسنؓ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی تلوار کی مٹھی چاندی سے بنی ہوئی تھی۔

باب ۱۱۰۷۔ زرہ کے متعلق

باب ۱۱۰۷۔ مَا جَاءَ فِي الذَّرْعِ

۱۵۴۲۔ حضرت زبیر بن عوام فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر آپ ﷺ کے جسم مبارک پر دو زہریں تھیں۔ چنانچہ آپ ﷺ جب پتھر پر چڑھنے لگے تو نہ چڑھ سکے۔ پھر طلحہ کو بٹھایا اور اس طرح اس پتھر پر چڑھ کر سیدھے ہو گئے۔ پھر میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ طلحہ کے لیے اس عمل کی وجہ سے (شفاعت یا جنت) واجب ہوگی۔

۱۵۴۲۔ حدثنا ابو سعيد الاشج ثنا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن ابيه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم درعان يوم اُحُدِ فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فاقعد طلحة تحته فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخر فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو جب طلحة

اس باب میں صفوان بن امیہ اور سائب بن یزید بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے اور ہم اسے صرف محمد بن اسحاق کی روایت سے جانتے ہیں۔

باب ۱۱۰۸۔ خود کے متعلق

۱۵۴۳۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ فتح مکہ کے لیے داخل ہوئے تو آپ ﷺ کے سر مبارک پر خود تھا (جسے ضرب وغیرہ سے بچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے) آپ ﷺ سے کہا گیا کہ ابن نطل کعبہ کے پردوں میں لپٹا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا: اسے قتل کر دو۔

باب ۱۱۰۸۔ مَا جَاءَ فِي الْمَغْفِرِ

۱۵۴۳۔ حدثنا قتيبة ثنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وعلى رأسه المغفر فقبل له ابن خطيل متعلقًا باستار الكعبة قال اقتلوه

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ہم اسے مالک کی زہری سے روایت کے علاوہ کسی بڑے محدث کی روایت سے نہیں جانتے۔

باب ۱۱۰۹۔ گھوڑوں کی فضیلت۔

۱۵۴۴۔ حضرت عروہ بارتی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک خیر بندھی ہوئی ہے۔ اور وہ اجر اور نعمت ہے۔

باب ۱۱۰۹۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْخَيْلِ

۱۵۴۴۔ حدثنا هناد ثنا عبث بن القاسم عن حصين عن الشعبي عن عروة البارقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير موقوف في نواصي الخيل إلى يوم القيمة الأجر والمغنى

اس باب میں ابن عمر، الواسع، جریر، ابو ہریرہ، اسماء بنت یزید، مغیرہ بن شعبہ اور جابر سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور عروہ ابو جعد بارتی کے بیٹے ہیں۔ انہیں عروہ بن جعد بھی کہتے ہیں۔ امام احمد کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جہاد قیامت تک باقی رہے گا۔

باب ۱۱۱۰۔ بہتر گھوڑوں کے متعلق

۱۵۴۵۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: گھوڑوں میں سے سرخ رنگ کے گھوڑوں میں برکت ہے۔

باب ۱۱۱۰۔ مَا يَسْتَحَبُّ مِنَ الْخَيْلِ

۱۵۴۵۔ حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري ثنا يزيد بن هارون ثنا شيبان هو ابن عبد الرحمن ثنا عن أبيه عن ابن عباس قال قال

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمِّنُ الْخَيْلَ  
فِي الشُّقْرِ

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف شیبان کی روایت سے جانتے ہیں۔

۱۵۴۶۔ حدثنا احمد بن محمد ثنا عبد الله بن المبارك ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن علي بن رباح عن ابي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الخيل الادمهم الاقرح الازنم ثم الاقرح المحجل طلق اليمين فان لم يكن ادهم فكهبت على هذه

۱۵۴۶۔ حضرت ابو قتادہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بہترین گھوڑے وہ ہیں جو سیاہ رنگ کے ہیں جن کی پیشانی اور ناک کے قریب تھوڑی سی سفیدی ہو اور پھر وہ گھوڑے جن کے دونوں ہاتھ، پیر اور پیشانی سفید ہوں سوائے دائیں ہاتھ کے اور پھر اگر کالے رنگ کے نہ ہوں تو اسی صورت کا کیت یعنی جس میں سیاہی اور سرخی ملی ہوئی ہو، یا اس کے ایال (گردن کے نام اور دم سیاہ اور باقی سرخ ہو۔

محمد بن بشار، وہب سے وہ اپنے والد سے وہ یحییٰ بن ایوب سے اور وہ یزید بن حبیب سے اسی کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۱۱۱۔ گھوڑوں کی ناپسندیدہ قسم

باب ۱۱۱۱۔ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخَيْلِ

۱۵۴۷۔ حدثنا محمد بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا سفيان ثنا مسلم ابن عبد الرحمن عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كره الشكّال في الخيل

۱۵۴۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایسے گھوڑے کو پسند نہیں کرتے تھے جس کے دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں پر سفیدی ہو یا دائیں پاؤں اور بائیں ہاتھ پر سفیدی ہو۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے شعبہ یہ حدیث عبد اللہ سے وہ ابو زرعہ سے اور وہ ابو ہریرہؓ سے اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں۔ ابو زرعہ، عمرو بن جریر کے بیٹے ہیں اور ان کا نام ہرم ہے۔ محمد بن حمید رازی، جریر سے اور وہ عمارہ بن قحطاع سے نقل کرتے ہیں کہ ابراہیم نخعی نے مجھ سے کہا کہ جب تم مجھ سے حدیث بیان کرو تو ابو زرعہ کی حدیث بیان کیا کرو کیونکہ ان کا حافظ اتنا قوی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ان سے ایک حدیث سنی اور پھر کئی برس کے بعد دوبارہ پوچھی تو انہوں نے حرف بحرف سادی اس میں ایک حرف بھی نہیں چھوڑا۔

باب ۱۱۱۲۔ گھڑ دوڑ۔

باب ۱۱۱۲۔ مَا جَاءَ فِي الرَّهَانِ

۱۵۴۸۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مضمّر گھوڑوں کی حقیاء سے مٹیہ الوداع تک گھڑ دوڑ کروائی۔ جو تقریباً چھ میل کا فاصلہ ہے۔ اور غیر مضمّر گھوڑوں کے درمیان مٹیہ الوداع سے مسجد نبی زریق تک دوڑ کروائی یہ ایک میل کا فاصلہ ہے۔ میں بھی ان لوگوں میں شریک تھا چنانچہ میرا گھوڑا مجھے لے کر ایک دیوار پھلانگ گیا۔

۱۵۴۸۔ حدثنا محمد بن الوزير ثنا اسحاق بن يوسف الازرق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرى المضمّر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع وبينهما ستة أميال وما لم يضمّر من الخيل من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق وبينهما ميل وكنت فيمن أحرى فوثب بي فرسي جداراً

اس باب میں ابو ہریرہؓ، جابرؓ، انسؓ اور عائشہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث ثوری کی روایت سے حسن غریب ہے۔

۱۵۴۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: انعام کی شرط صرف تین چیزوں میں جائز ہے۔ تیراندازی، گھڑ دوڑ اور اونٹوں کی دوڑ۔ (یعنی ان میں سے جو پہلے پہنچ جائے اس کو انعام دینا جائز ہے)۔

باب ۱۱۱۳۔ گھوڑی پر گدھا چھوڑنے کی کراہت

۱۵۴۹۔ حدثنا ابو کریب ثنا وکیع عن ابن ابی ذئب عن نافع بن ابی نافع عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا سبق الا فی نضل او حفر او حافر

باب ۱۱۱۳۔ ماجاء فی کراہیۃ ان تنزی الحمر علی الخیل

۱۵۵۰۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ بندہ مامور تھے۔ آپ ﷺ نے ہمیں (اہل بیت کو) کسی چیز کے ساتھ مخصوص نہیں کیا۔ ہاں تین چیزوں کا ضرور حکم دیا ایک یہ کہ وضو اچھی طرح کریں دوسرے یہ کہ صدقہ نہ کھائیں اور تیسرے یہ کہ گھوڑی پر گدھا نہ چھوڑیں۔

۱۵۵۰۔ حدثنا ابو کریب ثنا اسمعیل بن ابراہیم ثنا موسی بن سالم ابو جہضم عن عبد اللہ بن عبد اللہ ابن عباس عن ابن عباس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدا ما موراً ما اخصنا دون الناس بشئ الا بثلث امرنا ان نسیغ الوضوء و ان لا ناکل الصدقة و ان لا ننزی حماراً علی فرس

اس باب میں علیؓ سے بھی حدیث منقول ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ثوری بھی جہضم سے وہ عبید اللہ بن عبد اللہ سے اور وہ ابن عباسؓ سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں ثوری کی حدیث غیر محفوظ ہے۔ اس میں ثوری نے وہم کیا ہے صحیح حدیث وہی ہے جو اسماعیل بن علیا اور عبد الوارث بن سعید، ابو جہضم سے وہ عبید اللہ بن عبد اللہ بن عباسؓ سے اور وہ ابن عباسؓ سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۱۱۴۔ فقراء مسلمین سے دعائے خیر کرانا

باب ۱۱۱۴۔ ماجاء فی الاستفتاح بصعائیک المسلمین

۱۵۵۱۔ حضرت ابو درداءؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے اپنے ضعیفوں میں تلاش کرو کیونکہ تم لوگوں کو رزق اور مدد و شفاء ہی کی وجہ سے ملتی ہے۔

۱۵۵۱۔ حدثنا احمد بن محمد ثنا ابن المبارک ثنا عبد الرحمن بن یزید بن جابر حدثنی زید بن ارطاة عن جبر بن نفیر عن ابی البدر دآء قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ابغونی فی ضعیفائکم فانما ترزقون و تنصرون بضعفاؤکم یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۱۱۵۔ گھوڑوں کے گلے میں گھنٹیاں لگانا۔

باب ۱۱۱۵۔ ماجاء فی الاجراس علی الخیل

۱۵۵۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: فرشتے

۱۵۵۲۔ حدثنا فتیبہ ثنا عبد العزیز بن محمد بن

(۱) اہل انعام کے معنی یہ بیان کیے گئے ہیں کہ پہلے گھوڑے کو خوب کھلا پلا کر طاقتور اور موٹا کر دیا جائے اور پھر اس کا کھانا بتدریج کم کیا جائے یہاں تک کہ وہ اہلی خوراک پر آجائے اور پھر اسے ایک بند باندھ رکھا جائے تاکہ پسینہ آئے۔ اس کے بعد وہ گھوڑا سبک رفتار ہو جاتا ہے۔ (مترجم)

ان رفقاء کے ساتھ نہیں ہوتے جن کے ساتھ کتابیا کھنٹی ہو۔

سهیل بن ابی صالح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةَ رُقُفَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ

اس باب میں عمر، عائشہ، ام حبیبہ اور ام سلمہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔

باب ۱۱۱۶۔ مَنْ يُسْتَعْمَلُ عَلَى الْحَرْبِ

باب ۱۱۱۶۔ جنگ کا امیر مقرر کرنا۔

۱۵۵۳۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ثنا الاحوص

۱۵۵۳۔ حضرت براہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے دو لشکر بھیجے

بن جواب ابوالجواب عن يونس بن ابى اسحق

ایک کا امیر علی بن ابی طالب کو اور دوسرے کا خالد بن ولید کو مقرر کیا

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اور فرمایا: جب لڑائی ہو تو علی امیر ہوں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ

وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشَيْنِ وَآمَرَ عَلِيَّ أَحَدَهُمَا عَلِيٌّ بِنَ

حضرت علی نے ایک قلعہ فتح کیا اور اس میں سے ایک باندی لے

أَبِي طَالِبٍ وَعَلَى الْآخَرَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَقَالَ إِذَا

لی۔ اس پر خالد نے میرے ہاتھ آنحضرت ﷺ کو بچھا بھیجا۔ جس

كَانَ الْقِتَالِ فَعَلِيٌّ قَالَ فَافْتَتَحَ عَلِيٌّ حِصْنًا فَأَخَذَ مِنْهُ

میں حضرت علی کے اس فعل کا تذکرہ کیا یعنی چغلی کی۔ جب میں

جَارِيَةً فَكَتَبَ مَعِيَ خَالِدٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

آنحضرت ﷺ کے پاس پہنچا تو آپ ﷺ نے خط پڑھا اور آپ ﷺ

وَسَلَّمَ يَشِي بِهِ فَقَدِمَتْ عَلِيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقَرَأَ الْكِتَابَ

کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا پھر فرمایا: تم اس شخص میں کیا دیکھتے ہو جس

فَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ ثُمَّ قَالَ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ يُحِبُّ اللَّهَ

سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور رسول

وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قُلْتُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ

سے محبت کرتا ہے؟ میں نے عرض کیا میں اللہ اور اس کے رسول کے

غَضَبِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنَّمَا أَنَا رَسُولٌ فَسَكَتَ

غصے سے اللہ کی پناہ کا طلبگار ہوں میں صرف پیغامبر ہوں۔ اس پر

آپ ﷺ خاموش رہے۔

اس باب میں ابن عمر سے بھی حدیث منقول ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف احوص بن جواب کی روایت سے

جاتے ہیں اور "یشی بہ" کے معنی چغلی خوری کے ہیں۔

باب ۱۱۱۷۔ مَا جَاءَ فِي الْإِمَامِ

باب ۱۱۱۷۔ امام کے متعلق۔

۱۵۵۴۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ

۱۵۵۴۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں

عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُتُّكُمْ

سے ہر ایک چرواہے کی مانند ہے اور ہر شخص اپنی رعیت کا مسئول ہے

رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى

چنانچہ لوگوں کا امیر اپنی رعیت کا چرواہا ہے اس سے اس کی رعیت کے

النَّاسِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى

بارے میں پوچھا جائے گا مرد اپنے گھر کا چرواہا ہے وہ ان کا مسئول

النَّاسِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى

ہے۔ عورت اپنے شوہر کے گھر میں اسے چرانے والی ہے وہ بھی مسئول

أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ

ہے اور اسی طرح غلام اپنے آقا کے مال کا چرواہا ہے وہ اس کا مسئول

بَعْلِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ

ہے۔ بے شک تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے اور ہر ایک سے اس کی

وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ

رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا۔

عَنْ رَعِيَّتِهِ

اس باب میں ابو ہریرہؓ، انسؓ اور ابو موسیٰؓ سے بھی احادیث نقل کی گئی ہیں۔ حضرت ابن عمرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے جب کہ ابو موسیٰؓ اور انسؓ کی احادیث غیر محفوظ ہیں۔ یہ حدیث ابراہیم بن بشار لومادی، سفیان سے وہ بریدہ سے وہ ابو بردہ سے وہ ابو موسیٰؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ مجھے یہ حدیث محمد بن ابراہیم بن بشار نے سنائی۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ کئی راوی سفیان سے اور وہ بریدہ بن ابو بردہ سے مرسل نقل کرتے ہیں۔ اور یہ زیادہ صحیح ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں: اسحاق بن ابراہیم، معاذ بن ہشام سے وہ اپنے والد سے وہ قتادہ سے وہ انسؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: اللہ تعالیٰ ہر چرواہے سے اس کے چرانے والی چیز کا حال پوچھے گا۔ امام بخاری کہتے ہیں یہ غیر محفوظ ہے۔ صحیح یہ ہے کہ معاذ بن ہشام اپنے والد سے وہ قتادہ سے اور وہ حسن سے مرسل نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۱۱۸۔ امام کی اطاعت

باب ۱۱۱۸۔ مَا جَاءَ فِي طَاعَةِ الْإِمَامِ

۱۵۵۵۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَوْسُفَ ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي اسْلَخَ عَنْ الْعِيزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ الْأَحْمَسِيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَعَلَيْهِ بَرْدٌ قَدِ انْعَطَفَ بِهِ مِنْ تَحْتِ إِبْطِهِ قَالَتْ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى عَضَلَةِ عَضُدِهِ تَرْتَجُّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ أَمَرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبِشِيٌّ مُجَدِّعٌ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا أَقَامَ لَكُمْ كِتَابَ اللَّهِ

۱۵۵۵۔ حضرت ام حصینہؓ کہتی ہیں میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر آنحضرت ﷺ کا خطبہ سنا۔ آپ ﷺ اپنی چادر کو اپنی بغل کے نیچے سے لپیٹے ہوئے تھے۔ کہتی ہیں: میں رسول اللہ ﷺ کے بازو کے گوشت کو دیکھ رہی تھی جو پھڑک رہا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے لوگو! اللہ سے ڈرو اور اگر کسی حبشی کو بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے جو اگرچہ کٹناہی کیوں نہ ہو تم لوگوں پر اس کی بات سننا اور اطاعت کرنا واجب ہے بشرطیکہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق احکام جاری کرے۔

اس باب میں ابو ہریرہؓ اور عمر باض بن ساریہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے ام حصین سے منقول ہے۔

باب ۱۱۱۹۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔

باب ۱۱۱۹۔ مَا جَاءَ لِاطَاعَةِ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

۱۵۵۶۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسلمان شخص پر سننا اور ماننا واجب ہے خواہ وہ اسے پسند کرے یا ناپسند۔ بشرطیکہ اسے اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے۔ اور اگر نافرمانی کا حکم دیا جائے تو نہ سننا واجب ہے اور نہ ہی اطاعت کرنا۔

۱۵۵۶۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ عَلَيْهِ وَلَا طَاعَةَ

اس باب میں علیؓ، عمران بن حصینؓ اور حکم بن عمروؓ کی بھی احادیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۱۲۰۔ مَا جَاءَ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَ النَّبِيِّ وَالْإِمَامِ

باب ۱۱۲۰۔ جانوروں کو لڑانا اور چہرہ داغنا۔

وَالْوَسْمُ فِي الْوَجْهِ

۱۵۵۷۔ حدثنا ابو كريب ثنا يحيى ابن ادم عن قطبة بن عبد العزيز عن الاعمش عن ابى يحيى عن مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

۱۵۵۷۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جانوروں کو لڑانے سے منع فرمایا۔

محمد بن ثنی بھی عبد الرحمن بن مہدی سے وہ سفیان سے وہ اعمش سے وہ ابویحییٰ سے اور وہ مجاہد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جانوروں کو لڑانے سے منع فرمایا۔ یہ زیادہ صحیح ہے۔ یہ حدیث شریک، اعمش سے وہ مجاہد سے وہ ابن عباس سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی طرح نقل کرتے ہیں اس باب میں طلحہ، جابر، ابوسعید اور عکراش بن ذویب سے بھی احادیث نقل کی گئی ہیں۔ ابو معاویہ بھی اعمش سے وہ مجاہد سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔

۱۵۵۸۔ حدثنا احمد بن منيع ثنا روح عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ وَالضَّرْبِ

۱۵۵۸۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے منہ پر داغنے اور مارنے سے منع فرمایا۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۱۲۱۔ مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ بُلُوغِ الرَّجُلِ وَمَتَى يُفْرَضُ لَهُ

باب ۱۱۲۱۔ بلوغ کی حد اور مال غنیمت میں حصہ دینا۔

۱۵۵۹۔ حدثنا محمد بن الوزير الواسطي ثنا اسحاق بن يوسف عن سفیان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال عُرِضَتْ عَلَيَّ رِسْوَالُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَيْشٍ وَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ فَلَمْ يَقْبَلْنِي ثُمَّ عُرِضَتْ عَلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ فِي جَيْشٍ وَأَنَا ابْنُ حَمْسِ عَشْرَةَ فَقَبِلْنِي قَالَ نَافِعٌ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ حَدَّثَنَا بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ثُمَّ كَتَبَ أَنْ يُفْرَضَ لِمَنْ تَلَعَ الْحَمْسَةَ عَشْرَةَ

۱۵۵۹۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے چودہ برس کی عمر میں ایک لشکر میں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ ﷺ قبول نہیں کیا۔ پھر آئندہ سال بھی اسی طرح ایک لشکر میں پیش کیا گیا۔ اس وقت میں پندرہ سال کا تھا اس مرتبہ آپ ﷺ نے مجھے اجازت دے دی۔ نافع کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ حدیث عمر بن عبد العزیز کو سنائی تو انہوں نے فرمایا: یہ چھوٹے اور بڑے کے درمیان حد فاصل ہے۔ پھر اپنے عمال کو لکھا کہ پندرہ سال کی عمر والوں کو مال غنیمت میں سے حصہ دیا جائے۔

یہ حدیث ابن عمر بھی سفیان بن عیینہ سے اور وہ عبید اللہ سے اسی کے ہم معنی نقل کرتے ہیں لیکن اس میں صرف اتنا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا: یہ لڑنے والوں اور نہ لڑنے والوں کے درمیان حد ہے اور اسحاق بن یوسف کی حدیث سفیان ثوری کی حدیث سے حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۱۲۲۔ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُسْتَشْهَدُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

باب ۱۱۲۲۔ شہید کے قرض کے متعلق

۱۵۶۰۔ حدثنا قتيبة ثنا الليث عن سعيد بن

۱۵۶۰۔ حضرت ابوقادہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے درمیان

کھڑے ہوئے اور فرمایا: جہاد اور ایمان باللہ افضل ترین اعمال ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! اگر میں جہاد میں قتل ہو جاؤں تو کیا میری خطائیں معاف کر دی جائیں گی؟ فرمایا: ہاں اگر تم جہاد میں شہید ہو جاؤ اور تم صابر، ثواب کے طلبگار، آگے بڑھنے والے اور پیچھے نہ رہنے والے ہو تو پھر فرمایا: تم نے کیا کہا تھا؟ اس نے دوبارہ عرض کیا کہ اگر میں جہاد میں شہید ہو جاؤں تو کیا میرے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں بشرطیکہ تم صابر، ثواب کی نیت رکھنے والے یعنی خلوص دل رکھنے والے، آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے نہ ہو۔ ہاں البتہ قرض معاف نہیں کیا جائے گا۔ جبرئیل نے مجھے یہ بات بتائی۔

ابن سعید عن عبد اللہ بن ابی قتادہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قام فيهم فذكر لهم ان الجهاد في سبيل الله والايمن بالله افضل الاعمال فقال رجل فقال يارسول الله ارايت ان قتلت في سبيل الله يكفر عني خطاياي فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم نعم ان قتلت في سبيل الله وانت صابر محتسب مقبل غير مدبر ثم قال رسول الله صلي الله عليه وسلم كيف قلت قال ارايت ان قتلت في سبيل الله يكفر عني خطاياي فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم نعم وانت صابر محتسب مقبل غير مدبر الا الدين فيا جبرئيل قال لي ذلك

اس باب میں انس، محمد بن جحش اور ابو ہریرہ سے بھی احادیث نقل کی گئی ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور بعض راوی اسے سعید مقبری سے اور وہ ابو ہریرہ سے اسی طرح مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔ یحییٰ بن سعید اور کئی راوی بھی سعید مقبری سے وہ عبد اللہ بن ابی قتادہ سے، وہ اپنے والد سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ یہ سعید مقبری کی ابو ہریرہ سے منقول حدیث زیادہ صحیح ہے۔

باب ۱۱۲۳۔ شہداء کی تدفین۔

۱۵۶۱۔ حضرت ہشام بن عامر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے غزوہ احد میں لگنے والے زخموں کی شکایت کی گئی۔ آپ ﷺ نے حکم دیا کہ قبر کھودو اور اسے کشادہ کرو اور اچھی طرح صاف کرو پھر دو دو تین تین کو ایک قبر میں دفن کرو اور جسے قرآن زیادہ یاد ہو اسے آگے رکھو۔ راوی کہتے ہیں میرے والد بھی فوت ہو گئے تو انہیں دو آدمیوں کے آگے دفن کیا گیا۔

باب ۱۱۲۳۔ مَا جَاءَ فِي دَفْنِ الشُّهَدَاءِ  
۱۵۶۱۔ حدثنا اذهر بن مروان البصرى ثنا عبد الوارث بن سعيد عن ايوب عن حميد بن هلال عن ابى الدهماء عن هشام بن عامر قال شكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجراحات يوم احد فقال احفروا واوسعوا واحسنوا وادفنوا الاثنيين والثلاثة في قبر واحد وقدموا اكثرهم قرانا فمات ابى فقدم بين يدي رحلين

اس باب میں خباب، جابر اور انس بھی حدیثیں بیان کرتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور سفیان وغیرہ اسے ایوب سے وہ حمید بن ہلال سے وہ ہشام بن عامر سے اور وہ ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں ان کا نام قرف بن ہمیس یا یہس ہے۔

باب ۱۱۲۴۔ مشورے کے متعلق۔

۱۵۶۲۔ حضرت عبد اللہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب قیدیوں کو لایا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: تم لوگ ان قیدیوں کے متعلق کیا کہتے ہو۔ اور پھر طویل قصہ ذکر کرتے ہیں۔

باب ۱۱۲۴۔ مَا جَاءَ فِي الْمَشُورَةِ

۱۵۶۲۔ حدثنا هناد ثنا ابو معاوية عن الاعمش عن عمر بن مرة عن ابى عبيدة عن عبد الله قال لما كان يوم بدر وجئى بالاسارى فقال رسول الله صلى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَقُولُونَ فِي هَوْلَاءِ الْأَسَارَى  
وَذَكَرَ قِصَّةَ طَوَيْلَةَ

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف حکم کی روایت سے جانتے ہیں، حجاج بن ارطاة بھی یہ حدیث حکم ہی سے نقل کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل ابن ابی لیل کی حدیث کو قابل احتجاج نہیں سمجھتے۔ امام بخاری ان کی توثیق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کی صحیح اور ستیم احادیث کے درمیان تفریق نہیں ہوتی اس لیے میں ان سے روایت نہیں کرتا۔ ابن ابی لیلیٰ فقیہ اور صدوق ہیں لیکن اسناد میں وہ ہم کر جاتے ہیں۔ نصر بن علی، عبداللہ بن داؤد سے اور وہ سفیان سے نقل کرتے ہیں کہ ہمارے فقہاء ابن ابی لیلیٰ اور عبداللہ بن شبرمہ ہیں

باب ۱۱۲۵۔ مَا جَاءَ لَا تُفَادَى جِيْفَةَ الْأَسِيرِ

۱۵۶۳۔ حدثنا محمود بن غيلان ثنا ابو احمد ثنا سفیان عن ابن ابی لیلی عن الحكم عن مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَرَادُوا أَنْ يَشْتَرُوا جَسَدَ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَبَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَهُمْ

باب ۱۱۲۶۔ مَا جَاءَ فِي الْفِرَارِ مِنَ الرَّحْفِ

۱۵۶۴۔ حدثنا ابن ابی عمر ثنا سفیان عن يزيد ابن ابی زياد عن عبدالرحمن بن ابی لیلی عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَبَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَحَاصَّ النَّاسُ حَيْصَةَ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَاخْتَبَانَا بِهَا وَقُلْنَا هَلَكْنَا ثُمَّ آتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْنُ الْفَرَارُونَ قَالَ بَلْ أَنْتُمْ الْعَكَارُونَ وَأَنَا فِتْنَتُكُمْ

باب ۱۱۲۶۔ جہاد سے فرار ہونا۔

۱۵۶۳۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں ایک لشکر میں بھیجا لیکن ہم لوگ میدان جنگ میں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور جب مدینہ واپس آئے تو شرم کے مارے چھپتے پھرتے اور کہتے کہ ہم ہلاک ہو گئے۔ پھر ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! ہم لوگ بھگوڑے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں بلکہ تم لوگ دوبارہ پلٹ کر حملہ کرنے والے ہو (یعنی اپنے سردار سے مدد لینے کے بعد) اور میں تم لوگوں کو مدد فراہم کرنے والا۔

یہ حدیث حسن ہے ہم اسے صرف یزید بن ابوزیاد کی روایت سے جانتے ہیں۔

۱۵۶۵۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن میری پھوپھی میرے والد کو ہمارے قبرستان میں دفن کرنے کے لیے لائیں۔ چنانچہ ایک شخص نے آنحضرت ﷺ کی طرف سے اعلان کیا کہ مقتولوں کو ان کی مقتل میں واپس لے جاؤ اور وہیں دفن کرو۔

باب ۱۱۲۷۔ سفر سے واپس آنے والے کا استقبال۔

۱۵۶۵۔ حدثنا محمود بن غيلان ثنا ابوداؤد ثنا شعبة عن الاسود بن قيس قال سمعت نبيحا العنزى يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمٌ أُحِدَ جَاءَتْ عَمَّتِي بِأَبِي لَتَدْفِنَهُ فِي مَقَابِرِنَا فَنَادَى مُنَادِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُدُّوا الْقَتْلَى إِلَى مَضَاجِعِهَا

باب ۱۱۲۷۔ مَا جَاءَ فِي تَلْفِي الْعَائِبِ إِذَا قَدِمَ

۱۵۶۶۔ حضرت سائب بن یزید فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ تنوک سے واپس تشریف لائے۔ تو لوگ آپ ﷺ کے استقبال کے لیے عقیقہ الوداع تک آئے میں اس وقت چھوٹا تھا اور لوگوں کے ساتھ ہی تھا۔

۱۵۶۶۔ حدثنا ابن عمر و سعید بن عبدالرحمن قالا ثنا سفیان عن الزهري عن السائب بن يزيد قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تنوك خرج الناس يتلقونه الى نبي الوداع قال السائب فخرجت مع الناس وانا غلام  
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۱۲۸۔ مال فی کے متعلق۔

۱۵۶۷۔ حضرت مالک بن اوس بن حدادان کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب کو فرماتے ہوئے سنا کہ بنو نضیر کے اموال مال فی کے حکم میں تھے۔ کیونکہ مسلمانوں نے اس کے لیے نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ یعنی بھیر جنگ کے حاصل ہوا تھا۔ چنانچہ وہ رسول اللہ ﷺ کے لیے خائن تھا۔ لہذا آپ ﷺ نے اس میں سے اپنے گمراہوں کے لیے سال بھر کا خرچ نکال لیا اور باقی گھوڑوں اور اسلحے وغیرہ پر خرچ کیا۔ یعنی جہاد کی تیاری کے لیے۔

باب ۱۱۲۸۔ ما جاء في الفداء  
۱۵۶۷۔ حدثنا ابن عمر ثنا سفیان عن عمر بن دينار عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدادان قال سمعت عمر بن الخطاب يقول كانت أموال بني النضير بما آفاه الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عذة في سبيل الله  
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

## لباس کے متعلق رسول اللہ ﷺ سے

منقول احادیث کے ابواب

باب ۱۱۲۹۔ ریشم اور سونے کے متعلق

۱۵۶۸۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری امت کے مردوں پر ریشم اور سونا پہننا حرام کر دیا گیا ہے ہاں البتہ عورتوں کے لیے جائز ہے۔

## أَبْوَابُ اللَّبَاسِ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۱۱۲۹۔ ما جاء في الحرير والذهب

۱۵۶۸۔ حدثنا اسحق بن منصور ثنا عبد الله بن نمير نا عبید الله بن عمر عن نافع عن سعید بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأجل لأنائهم

اس باب میں عمرؓ، علیؓ، عقبہ بن عامرؓ، ام ہانیؓ، انسؓ، حدیدہؓ، عبد اللہ بن عمرؓ، عمران بن حصینؓ، عبد اللہ بن زبیرؓ، جابرؓ، ابو ریحانؓ، ابن عمرؓ اور براءؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۵۶۱۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ  
نَبِيُّ أَبِي عَن قَتَادَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ  
عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ خَطَبَ بِالنَّجَافَةِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ أَصْبَعَيْنِ  
وَتَلَابِثٍ أَوْ أَرْبَعٍ  
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۵۶۹۔ حضرت عمرؓ نے نجاف کے مقام پر خطبہ دیا اور فرمایا: رسول اللہ  
ﷺ نے ریشم پہننے سے منع فرمایا۔ لیکن دو، تین یا چار انگلیوں کے برابر  
پہننے کی اجازت دی۔

باب ۱۱۲۰۔ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ  
۱۵۶۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ غِيلَانَ قَالَ ثَنَا  
عِدَالِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ ثَنَا هِشَامُ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ  
أَبِي أَسْمَاءَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ  
شَكَّيَا الْقَمَلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي  
عَزْوَاتٍ لَهُمَا فَرَحَّصَ لَهُمَا فِي قُمْصِ الْحَرِيرِ قَالَ  
وَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا  
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۱۳۰۔ جنگ میں ریشمی کپڑا پہننا۔  
۱۵۷۰۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ عبدالرحمن بن عوفؓ اور زبیر بن  
عوامؓ نے ایک جنگ کے دوران آنحضرت ﷺ سے جوڑوں کی شکایت  
کی۔ اس پر آنحضرت ﷺ نے انہیں ریشم کی قمیص پہننے کی اجازت دی  
اور میں نے ان کو پہنے ہوئے دیکھا۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۱۳۱۔ بلا عنوان

باب ۱۱۲۱۔ بلا عنوان  
۱۵۷۱۔ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى  
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو نَبِيِّ وَأَقْدَمُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ  
سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ قَدِمَ أَبُو مَالِكٍ فَاتَيْتُهُ فَقَالَ  
مَنْ أَنْتَ فَقُلْتُ أَنَا وَأَقْدَمُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ فَبِكَيْ وَ قَالَ  
إِنَّكَ لَشَيْئَةٌ بِسَعْدٍ وَإِنَّ سَعْدًا كَانَ مِنْ أَعْظَمِ  
النَّاسِ وَأَطْوَلَ وَإِنَّهُ بَعَثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ جُبَّةً مِنْ دِيْبَاجٍ مَسْنُوجٍ فِيهَا اللَّحَبُ  
فَلَيْسَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعِدَ  
الْمِجْبِرَ فَقَامَ أَوْ قَعَدَ فَحَقَلَ النَّاسُ يَلْمِسُونَهَا فَقَالُوا  
مَا رَأَيْنَا كَمَا لَيْسَ نَوْبًا قَطُّ فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا  
لَمَّا دَبِلَ سَعْدٌ فِي الْحَنَةِ خَيْرٌ مِمَّا تَرَوْنَ

۱۵۷۱۔ واقعہ بن عمرو بن سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ انس بن مالکؓ  
تشریف لائے تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے پوچھا: تم  
کون ہو؟ میں نے کہا: میں واقعہ بن عمرو ہوں حضرت انسؓ رونے لگے  
اور فرمایا: تمہاری شکل سعد سے ملتی ہے اور وہ بہت بڑے لوگوں میں  
سے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ کو ایک ریشمی جوبہ بھیجا  
جس پر سونے کا کام ہوا تھا جب آپ ﷺ نے اسے پہنا اور منبر پر چڑھ  
کر بیٹھے یا کھڑے ہوئے تو لوگوں نے اس کو چھو چھو کر دیکھنا شروع  
کر دیا اور کہنے لگے کہ ہم نے آج تک ایسا کپڑا نہیں دیکھا آپ ﷺ  
نے فرمایا: کیا تم لوگ اس پر حجب ہو۔ جنت میں سعد کے رومال اس  
سے بھی بہتر ہیں۔

اس باب میں اسماؤں کی حدیث نقل کرتی ہیں۔ حضرت انسؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۱۳۲۔ مَا جَاءَ فِي الرَّحْصَةِ فِي النَّوْبِ الْأَحْمَرِ  
باب ۱۱۳۲۔ سرخ کپڑا پہننے کی اجازت

۱۵۷۲۔ حدثنا محمود بن غيلان ثنا وكيع ثنا  
سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال ما رأيت من  
ذئ لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى  
الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين  
المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل

۱۵۷۲۔ حضرت براءؓ کہتے ہیں کہ میں نے کسی لمبے بالوں والے شخص کو  
سرخ جوڑا پہنے ہوئے آنحضرت ﷺ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔  
آپ ﷺ کے بال مبارک شانوں تک تھے اور شانے چوڑے تھے اور  
آپ ﷺ کا قد نہ چھوٹا تھا اور نہ لمبا۔

اس باب میں جابر بن سمرہ، ابورمہ اور ابو جحیفہ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۱۳۳۔ ماجاء في كراهية المعصفر للرجال  
۱۵۷۳۔ حدثنا قتيبة ثنا مالك بن انس عن نافع عن  
ابراهيم بن عبدالله بن حنين عن أبيه عن علي قال  
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس  
القسي والمعصفر

باب ۱۱۳۳۔ کسم کے رنگے ہوئے کپڑے کی مرد کے لیے کراہت  
۱۵۷۳۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کسم کے رنگے  
ہوئے کپڑے اور ریشمی کپڑے پہننے سے منع فرمایا:

اس باب میں انس اور عبداللہ بن عمر بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت علیؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۱۳۴۔ ماجاء في لبس الفراء

۱۵۷۴۔ حدثنا اسمعيل بن موسى الفزاري ثنا  
سيف بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي  
عثمان عن سلمان قال سئل رسول الله صلى الله  
عليه وسلم عن السمن والحجين والفراء فقال  
الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله  
في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه

باب ۱۱۳۴۔ پوستین پہننا۔ (۱)  
۱۵۷۴۔ حضرت سلمانؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے گھی پتیر اور  
پوستین کے متعلق پوچھا گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: حلال اور حرام وہی  
ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال یا حرام کیا ہے اور جس سے  
خاموشی اختیار کی گئی ہے وہ معاف ہے۔

اس باب میں مغیرہؓ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں سفیان وغیرہ بھی تمبی سے وہ  
ابو عثمان سے اور وہ سلمان سے موقوف نقل کرتے ہیں یعنی انہی کا قول زیادہ صحیح ہے۔

باب ۱۱۳۵۔ ماجاء في جلود الميتة إذا دُبغت

۱۵۷۵۔ حدثنا قتيبة ثنا الليث عن يزيد بن ابي  
حبيب عن عطاء بن ابي رباح قال سمعت ابن  
عباس يقول ماتت شاة فقال رسول الله صلى الله  
عليه وسلم لا هلهما الا نزعتم جلد هاتم دبغتموه  
فاستمتمتم به

باب ۱۱۳۵۔ و باغت کے بعد مردار جانور کی کھال کا حکم۔  
۱۵۷۵۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بکری مر گئی  
آنحضرت ﷺ نے بکری والوں سے کہا تم لوگوں نے اس کی کھال کیوں  
نہ اتاری تاکہ و باغت کے بعد اسے کسی کام میں لے سکتے۔

(۱) پوستین کھال کے کوٹ کو کہتے ہیں۔ (مترجم)

اس باب میں سلمہ بن محییٰ میمونہ اور عائشہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابن عباسؓ سے کئی سندوں سے مرفوعاً منقول ہے۔ اور پھر ابن عباسؓ، میمونہؓ کے واسطے سے بھی اور بلا واسطہ بھی نقل کرتے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ شاید ابن عباس نے دونوں طرح نقل کی ہو۔ اکثر اہل علم اسی پر عمل پیرا ہیں۔ سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔

۱۵۷۶۔ حدثنا قتيبة ثنا سفیان بن عيينة و عبد العزيز ابن محمد عن زيد بن اسلم عن عبد الرحمن بن و غلة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب ذبغ فقد طهر

۱۵۷۶۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو چمڑا دباغت کیا گیا وہ پاک ہو گیا۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اکثر اہل علم اسی پر عمل کرتے ہیں کہ مردار جانوروں کی کھالیں دباغت کے بعد پاک ہو جاتی ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ کتے اور سور کے علاوہ تمام کھالیں دباغت سے پاک ہو جاتی ہیں۔ بعض علماء درندوں کی کھالوں کو مکروہ اور اسے پہننے میں تشدید کا مذہب اختیار کرتے ہیں۔ اسحاق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ دباغت کے بعد کھالوں کے پاک ہوجانے سے حلال جانوروں کی کھال ہی مراد ہے۔ نصر بن شمیل بھی اس حدیث کی یہی تفسیر کرتے ہیں لیکن ابن مبارک، احمد، اسحاق اور حمیدی درندوں کی کھال پہن کر نماز پڑھنے کو مکروہ کہتے ہیں۔

۱۵۷۷۔ حدثنا محمد بن طريف الكوفي ثنا محمد بن فضيل عن الاعمش والشيباني عن الحكم عن عبد الرحمان بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تتفوهوا من الميتة باهاب ولا عصب

۱۵۷۷۔ حضرت عبد اللہ بن عکیمؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں لکھا کہ مردار کی کھال یا اس کے پٹھوں سے کوئی فائدہ حاصل نہ کیا جائے۔

یہ حدیث حسن ہے اور عبد اللہ بن عکیم سے کئی شیوخ کے واسطے سے منقول ہے۔ اکثر علماء اس حدیث پر عمل پیرا ہیں۔ یہ حدیث عبد اللہ بن عکیم سے اس طرح بھی منقول ہے کہ ہمیں آنحضرت ﷺ کی وفات سے دو ماہ قبل آپ ﷺ کا خط پہنچا..... الخ امام احمد اسی پر عمل کرتے ہوئے مردار جانوروں کی کھال کے استعمال کی ممانعت کرتے تھے اس لیے کہ اس میں مذکور ہے کہ آپ ﷺ نے یہ حکم وفات سے صرف دو ماہ پہلے دیا۔ لہذا یہ پہلے حکم کو منسوخ کر دیتا ہے۔ لیکن بعد میں انہوں نے اس حدیث میں اضطراب کی وجہ سے اسے ترک کر دیا۔ بعض راوی اسے عبد اللہ بن عکیم سے اور وہ جہینہ کے شیوخ سے روایت کرتے ہیں۔

باب ۱۱۳۶۔ کپڑا ٹخنوں سے نیچا رکھنے کی ممانعت۔

باب ۱۱۳۶۔ فی کراهية جحر الإزار

۱۵۷۸۔ حدثنا الانصاري ثنا معن ثنا مالك ح وثنا قتيبة عن مالك عن نافع و عبد الله بن دينار و زيد بن اسلم كلهم يخبر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرت نوبه خيلاء

۱۵۷۸۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس شخص کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں جو اپنے تہبند (یا شلوار وغیرہ) کو تکبیر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔

۱۵۷۸۔ حدثنا الانصاري ثنا معن ثنا مالك ح وثنا قتيبة عن مالك عن نافع و عبد الله بن دينار و زيد بن اسلم كلهم يخبر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرت نوبه خيلاء

اس باب میں حدیث ابو سعید، ابو ہریرہ، سمرہ، ابو ذر، عائشہ اور وہیب بن مغفل سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۱۳۷۔ مَا جَاءَ فِي ذُبُولِ النِّسَاءِ

باب ۱۱۳۷۔ عورتوں کے دامن کی لمبائی

۱۵۷۹۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ثنا

۱۵۷۹۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے

عبدالرزاق ثنا معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر

اپنا تہبند وغیرہ تکبر کرتے ہوئے ٹخنوں سے نیچے رکھا اللہ تعالیٰ قیامت

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ

کے دن اس کی طرف نظر بھی نہیں کریں گے۔ ام سلمہ نے عرض

ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمَّ

کیا عورتیں اپنے کپڑوں کا کیا کریں؟ فرمایا: وہ ایک بالشت لٹکا کر

سَلَمَةَ فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُبُولِهِنَّ قَالَ يُرَجِّعِينَ

رکھیں۔ انہوں نے عرض کیا: اس صورت میں بھی اس کے پاؤں

شِبْرًا فَقَالَتْ إِذَا تَنَكَّشِفُ أَقْدَا مُهْنٌ قَالَ فَيَرَّ حَيْنَهُ

منکشف ہونے کا احتمال ہے چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا تو پھر ایک ہاتھ

ذِرَاعًا لَا يَرُدُّكَ عَلَيْهِ

تک لٹکا سکتی ہیں اس سے زیادہ نہیں۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس میں عورتوں کو کپڑا لٹکانے کی اجازت ہے کیونکہ اس میں زیادہ پردہ ہے۔

۱۵۸۰۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ منصور ثنا عفان ثنا

۱۵۸۰۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فاطمہ کے لیے

حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أم الحسن أن

ایک بالشت نطاق انداز آئی۔

أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

شَبْرًا لِفَاطِمَةَ شِبْرًا مِنْ نَطَاقِهَا

بعض راوی یہ حدیث حماد بن سلمہ سے وہ علی بن زید سے وہ حسن سے وہ اپنی والدہ سے اور وہ ام سلمہ سے نقل کرتی ہیں۔

باب ۱۱۳۸۔ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الصُّوفِ

باب ۱۱۳۸۔ اون کے کپڑے پہننا

۱۵۸۱۔ حَدَّثَنَا احمد بن منيع ثنا اسمعيل بن

۱۵۸۱۔ حضرت ابو بردہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے ہمیں ایک صوف

ابراهيم ثنا ايوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة

کی موٹی چادر اور ایک موٹے کپڑے کا تہبند دکھایا اور فرمایا: کہ رسول

قَالَ أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاءً مَلْبَدًا أَوْ إِزَارًا

اکرم ﷺ نے انہی دو کپڑوں میں وفات پائی۔

عَلِيًّا فَقَالَتْ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِي هَذَيْنِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں علی اور ابن مسعود سے بھی احادیث منقول ہیں۔

۱۵۸۲۔ حَدَّثَنَا علي بن حجر ثنا خلف بن خليفة

۱۵۸۲۔ حضرت ابن مسعود آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ جس

عن حميد الاعرج عن عبد الله بن الحارث عن ابن

دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو شرف تکلم عطا کیا اس روز ان کے

مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ

جسم پر ایک اون کی چادر، ایک اون کا جبہ اور اسی کی شلوار تھی۔ اور ان

عَلِيٍّ مُوسَى يَوْمَ كَلَّمَهُ رَبُّهُ كِسَاءً صُوفٍ وَجُبَّةً

کے پاؤں کی جوتیاں مردہ گدھے کی کھال سے بنی ہوئی تھیں۔

صُوفٍ وَكُمَّةً صُوفٍ وَسَرَاوِيلَ صُوفٍ وَكَانَتْ

نَعْلَاهُ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ مَيِّتٍ

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف حمید اعرج کی روایت سے جانتے ہیں یہ علی اعرج کے بیٹے اور منکر الحدیث ہیں جب کہ حمید بن قیس اعرج کی جو مجاہد کے ساتھی ہیں ثقہ ہیں۔ ”الکلمہ“ چھوٹی ٹوپی کو کہتے ہیں۔

باب ۱۱۳۹۔ سیاہ عمامہ۔

باب ۱۱۳۹۔ مَا جَاءَ فِي الْعِمَامَةِ السُّودَاءِ

۱۵۸۳۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ فتح مکہ کے موقع پر

۱۵۸۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

مکہ میں داخل ہوئے تو آپ ﷺ سیاہ عمامہ لگائے ہوئے تھے۔

مَهْدِي عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ

قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ

الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ

اس باب میں عمرو بن حریش، ابن عباسؓ اور رکانہ بھی احادیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۵۸۴۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب عمامہ

۱۵۸۴۔ حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ اسْحَقَ الهمدانی ثَنَا

باندھتے تو عمامے کے شلے کو دونوں کندھوں کے درمیان لٹکایا کرتے

يُحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدِ

تھے۔ نافع کہتے ہیں میں نے ابن عمرؓ کو بھی اسی طرح کرتے ہوئے

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ

دیکھا اور عبید اللہ کا کہنا ہے کہ میں نے قاسم اور سالم کو بھی اسی طرح

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَمَّ سَدَلَ عِمَامَتَهُ

کرتے ہوئے دیکھا۔

بَيْنَ كَتِفَيْهِ قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْدُلُ عِمَامَتَهُ

بَيْنَ كَتِفَيْهِ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَرَأَيْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا

يَفْعَلَانِ ذَلِكَ

اس باب میں علیؓ سے بھی حدیث منقول ہے لیکن یہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں۔

باب ۱۱۴۰۔ سونے کی انگوٹھی کی ممانعت

باب ۱۱۴۰۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ خَاتَمِ الذَّهَبِ

۱۵۸۵۔ حضرت علی بن ابی طالبؓ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ

۱۵۸۵۔ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَيْبِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي

ﷺ نے سونے کی انگوٹھی، ریشم کے کپڑے پہننے، کسم کے رنگے ہوئے

الْخِلَالِ وَغَيْرِ وَاحِدٍ قَالُوا ثَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ ثَنَا مَعْمَرُ

کپڑے پہننے اور رکوع و سجود میں قرآن کی تلاوت کرنے سے منع فرمایا۔

عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ حُنَيْنٍ عَنْ

أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّخْتُمِ بِالذَّمْبِ وَعَنِ

لِبَاسِ الْقَسْبِيِّ وَعَنِ الْفِرَاءِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

وَعَنِ لُبْسِ الْمُعْضَفْرِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۵۸۶۔ حضرت عمران بن حصینؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے

۱۵۸۶۔ حَدَّثَنَا يَوْسُفُ بْنُ حَمَادِ الْمَعْنِيِّ الْبَصْرِيِّ ثَنَا

عبدالوارث بن سعید عن ابن التیاح ثنا حفص الليثی  
قَالَ أَشْهَدُ عَلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّخْتُمِ بِالذَّهَبِ

اس باب میں علیؑ، ابن عمرؓ، ابو ہریرہؓ اور معاویہؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابو التیاح کا نام یزید بن حمید ہے۔

باب ۱۱۴۱۔ ماجآء فی خاتم الفضة

۱۵۸۷۔ حدثنا قتيبة وغير واحد عن عبد الله بن  
وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس قال كان  
خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورق  
وكان فضة حبشياً

۱۵۸۷۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی انگوٹھی چاندی  
کی اور اس میں حبشی ٹکینہ جڑا ہوا تھا۔

یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے اور اس باب میں ابن عمرؓ اور بریدہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔

باب ۱۱۴۲۔ ماجآء ما يستحب من فص الخاتم

۱۵۸۸۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی انگوٹھی چاندی کی  
تھی اور اس کا گینہ بھی چاندی ہی کا تھا۔

۱۵۸۸۔ حدثنا محمود بن غيلان ثنا حفص بن  
عمر بن عبيد الله الطنافسي ثنا زهير ابو خيثمة عن  
حميد عن أنس قال كان خاتم رسول الله صلى  
الله عليه وسلم من فضة فضة منه

یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۱۴۳۔ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا

۱۵۸۹۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے سونے کی  
انگوٹھی بھرا کر دائیں ہاتھ میں پہنی اور پھر منبر پر تشریف فرما ہونے کے  
بعد فرمایا: میں نے یہ انگوٹھی اپنے داہنے میں پہنی تھی پھر آپ ﷺ نے  
اسے پھینک دیا۔ لہذا لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں۔

باب ۱۱۴۳۔ ماجآء فی لبس الخاتم فی اليمين

۱۵۸۹۔ حدثنا محمد بن عبيد المحاربي ثنا  
عبد العزيز بن ابي حازم عن موسى بن عقبة عن  
نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم  
صنع خاتماً من ذهب فتختتم به في يمينه ثم  
جلس على المنبر فقال اني كنت اتخذت هذا  
الخاتم في يميني ثم نبذته ونبذ الناس خواتيمهم

اس باب میں علیؑ، جابرؓ، عبد اللہ بن جعفرؓ، ابن عباسؓ، عائشہؓ اور انسؓ سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور نافع سے

بواسطہ ابن عمرؓ بھی اسی سند سے اسی طرح نقل کی گئی ہے لیکن اس میں داہنے ہاتھ میں پہننے کا ذکر نہیں۔

۱۵۹۰۔ حضرت صلت بن عبد اللہ بن نوفل فرماتے ہیں کہ میں نے ابن

عباسؓ کو داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھا میرے خیال میں انہوں  
نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے

۱۵۹۰۔ حدثنا محمد بن حميد الرزاي ثنا جرير عن

محمد بن اسحاق عن الصلت ابن عبد الله بن نوفل قال  
رايت ابن عباس يتختتم في يمينه ولا احواله الا قال رايت

ہوئے دیکھا ہے۔

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخْتَمُ فِي يَمِينِهِ

امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۵۹۱۔ حضرت جعفر بن محمد اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حسنؓ اور حسینؓ اپنے بائیں ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنا کرتے تھے۔

۱۵۹۱۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَتَخْتَمَانِ فِي يَسَارِهِمَا  
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۵۹۲۔ حضرت حماد بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی رافع کو دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھا تو ان سے پوچھا۔ انہوں نے فرمایا: میں نے عبداللہ بن جعفرؓ کو دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کے بعد یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ ﷺ اپنے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔

۱۵۹۲۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ يَتَخْتَمُونَ فِي يَمِينِهِ فَسَأَلْتُهُ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ يَتَخْتَمُ فِي يَمِينِهِ وَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخْتَمُ فِي يَمِينِهِ

امام بخاری کہتے ہیں: یہ حدیث اس باب میں سب سے زیادہ صحیح ہے۔

باب ۱۱۴۴۔ انگوٹھی پر کچھ نقش کرانا

باب ۱۱۴۴۔ مَا جَاءَ فِي نَقْشِ الْخَاتَمِ

۱۵۹۳۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی انگوٹھی پر تین سطریں نقش تھیں ایک میں ”محمد“ دوسری میں ”رسول“ اور تیسری میں ”اللہ“ لکھا ہوا تھا۔ محمد بن یحییٰ یہ حدیث نقل کرتے ہوئے تین سطروں کے الفاظ ذکر نہیں کرتے۔

۱۵۹۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ثَنَىٰ أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَصْطُرٍ مُحَمَّدٌ سَطْرٌ وَرَسُولٌ سَطْرٌ وَاللَّهُ سَطْرٌ وَلَمْ يَقُلْ مُحَمَّدٌ يَحْيَىٰ فِي حَدِيثِهِ ثَلَاثَةَ أَصْطُرٍ

اس باب میں ابن عمرؓ سے بھی حدیث منقول ہے۔ حضرت انسؓ کی حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۱۵۹۴۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ایک چاندی کی انگوٹھی بنوا کر اس میں ”محمد رسول اللہ“ کے الفاظ کندہ کرائے اور فرمایا: کوئی شخص اپنی انگوٹھی پر یہ الفاظ نقش نہ کرائے۔

۱۵۹۴۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ثَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ ثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ فَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ لَا تَنْقُشُوا عَلَيْهِ  
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۵۹۵۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب بیت الخلاء جاتے تو اپنی انگوٹھی اتار دیا کرتے تھے۔

۱۵۹۵۔ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ وَالْحِجَّاجُ بْنُ مَنْهَالٍ قَالَا ثَنَا هَمَامٌ عَنْ بَنِي جَرِيحٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْحَلَاءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۱۴۵۔ مَا جَاءَ فِي الصُّورَةِ

باب ۱۱۳۵۔ تصویر کے متعلق

۱۵۹۶۔ حدثنا احمد بن منيع ثنا روح بن عبادة ثنا

۱۵۹۶۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے گھروں میں

ابن جريح ثني أبو الزبير عن جابر قال نهى رسول الله

تصویر رکھنے اور اسے بنانے سے منع فرمایا۔

صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت

ونهى أن يصنع ذلك

اس باب میں علیؓ، ابو طلحہؓ، عائشہؓ، ابو ہریرہؓ اور ابو ایوبؓ سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۵۹۷۔ حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ کہتے ہیں کہ وہ ابو طلحہ

۱۵۹۷۔ حدثنا اسحق بن موسى الانصاري ثنا

انصاریؓ کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے تو ان کے پاس سہل بن حنیفؓ

معن ثنا مالك عن أبي النضر عن عبید الله بن

بھی موجود تھے۔ پھر ابو طلحہ نے ایک شخص کو بلایا اور کہا کہ میرے نیچے

عبد الله بن عببة انه دخل على أبي طلحة الأنصاري

سے چادر نکال لو۔ سہل نے پوچھا: کیوں؟ فرمایا: اس لیے کہ اس میں

يَعُوذُهُ فَوَجَدَ عِنْدَهُ سَهْلَ ابْنِ حَنِيفٍ قَالَ فَدَعَى

تصویریں ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے متعلق

أَبُو طَلْحَةَ إِنْسَانًا يَنْزِعُ نَمَطًا تَحْتَهُ فَقَالَ لَهُ سَهْلٌ لِمَ

کیا فرمایا ہے۔ سہل نے کہا: کیا آپ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا: کہ جو کپڑے

تَنْزِعُهُ قَالَ لِأَنَّ فِيهَا نَصَاوِيرَ وَقَالَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

میں رتھ ہوں ان کی اجازت ہے ابو طلحہ نے فرمایا: ہاں صحیح ہے لیکن

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ عَلِمْتُ قَالَ سَهْلٌ أَوْلَمَ يَقُلُ إِلَّا

میرے نزدیک یہ زیادہ بہتر ہے کہ عزیمت پر عمل کروں اور اجازت کو

مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنَّهُ أَطِيبَ لِنَفْسِي

ترک کروں۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۱۴۶۔ مَا جَاءَ فِي الْمُصَوِّرِينَ

باب ۱۱۳۶۔ مصوروں کے متعلق

۱۵۹۸۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص

۱۵۹۸۔ حدثنا قتيبة ثنا حماد بن زيد عن ايوب

تصویر بنائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اس وقت تک عذاب

عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

میں مبتلا رکھیں گے جب تک وہ اس میں روح نہیں ڈالے گا اور وہ اس

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَوْرَةٍ عَذَبَهُ اللَّهُ حَتَّىٰ

میں کبھی روح نہیں ڈال سکے گا۔ اور جو شخص کسی قوم کی باتیں چھپ

يَنْفُخُ فِيهَا يَعْنِي الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا وَمَنْ

کرنے گا اور وہ لوگ اسے پسند نہ کرتے ہوں گے تو قیامت کے دن

اسْتَمَعَ إِلَىٰ حَدِيثِ قَوْمٍ يَقْرُونَ مِنْهُ صُبَّ فِي أُذُنِهِ

اس کے کان میں گھملا ہو سیکے گا

الآنكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اس باب میں عبد اللہ بن مسعودؓ، ابو ہریرہؓ، ابو جحیفہؓ، عائشہؓ اور ابن عمرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۱۴۷۔ مَا جَاءَ فِي الْخِضَابِ

باب ۱۱۳۷۔ خضاب کے متعلق

۱۵۹۹۔ حدثنا قتيبة ثنا ابو عوانة عن عمر بن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود

۱۵۹۹۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بزخاب کی صورت تبدیل کرو (یعنی خضاب لگا کر سفید بالوں کی سفیدی کو تم کرو) اور یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔

اس باب میں زبیر، ابن عباس، جابر، ابو ذر، انس، ابو مرثد، جہدہ، ابو طفیل، جابر بن سمرہ، ابو حنیفہ اور ابن عمر سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابو ہریرہ ہی سے کئی سندوں سے مرفوعاً منقول ہے۔

۱۶۰۰۔ حدثنا سويد بن نصر ثنا ابن المبارك عن الاجلح عن عبد الله بن بريدة عن ابي الاسود عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احسن ما غير به الشيب الحناء والكنه

۱۶۰۰۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بزخاب کی مشابہت کرنے کی بہترین چیز مہندی اور مسکے پتے ہیں۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابو اسود و ابی ذر کا نام ظالم بن عمرو بن سفیان ہے۔

باب ۱۱۴۸۔ لے بال رنھا۔

باب ۱۱۴۸۔ ما جاء في الجمّة واتخاذ الشعر

۱۶۰۱۔ حدثنا حميد بن مسعدة ثنا عبد الوهاب عن حميد عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زينة ليس بالصويين ولا بالقصير حسن الجسم اسمر اللون وكان شعره ليس بجعد ولا سبط اذا مشى يتكفأ

۱۶۰۱۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ درمیان قدم کے تحت زیادہ لمبے اور نہ کوتاہ قد سداں جسم اور گندی رنگت سے متصف تھے۔ آپ ﷺ کے بال نہ گھٹھریا نہ تھے اور نہ سیدھے یعنی درمیان تھے اور جب آپ ﷺ چلتے تو گویا کہ بلندی سے پستی کی طرف اتر رہے ہیں۔

اس باب میں عائشہ، براء، ابو ہریرہ، ابن عباس، ابوسعید، وائل بن حجر، جابر اور ام ہانی سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حضرت انس ہی سے حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔

۱۶۰۲۔ حدثنا هناد ثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن هشام بن عروة عن ابيه عن غابشة قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من زناء واجد وكان له شعر فوق الجمّة ودون الذفرة

۱۶۰۲۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ ﷺ ایک تین برتن سے غسل کیا کرتے تھے آپ ﷺ کے بال مبارک کندھوں سے اوپر اور کانوں کے نو سے نیچے تک تھے۔

یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔ حضرت عائشہ سے کئی سندوں سے منقول ہے کہ میں اور آنحضرت ﷺ ایک برتن سے غسل کیا کرتے تھے لیکن ان حدیثوں میں بالوں کے متعلق یہ الفاظ مذکور نہیں ہیں۔ یہ الفاظ صرف عبدالرحمن بن ابی الزناد سے نقل کیے ہیں اور یہ ثقہ، حافظ ہیں۔

باب ۱۱۴۹۔ روزانہ کنگھی کرنے کی ممانعت

باب ۱۱۴۹۔ ما جاء في النهي عن الترجل الا غيبا

۱۶۰۳۔ حدثنا علي بن حشرم ثنا عيسى بن يونس عن هشام عن الحسن بن عبد الله بن مغفل قال نهى

۱۶۰۳۔ حضرت عبداللہ بن مغفل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے روزانہ کنگھی کرنے سے منع فرمایا ہے۔

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ الْإِغْنَاءِ

محمد بن بشر بھی یحییٰ بن سعید سے اور وہ ہشام سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں انس سے بھی حدیث منقول ہے۔

باب ۱۱۵۰۔ مَا جَاءَ فِي الْإِكْتِحَالِ

باب ۱۱۵۰۔ سرمہ لگانا

۱۶۰۴۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيدٍ ثَنَا ابُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ عِبَادِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اُكْتَحِلُوا بِالْإِيمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُوا الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ مَكْحَلَةٌ يَكْتَحِلُ بِهَا كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلَاثَةَ فِي هَذِهِ وَثَلَاثَةَ فِي هَذِهِ

۱۶۰۴۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اشہد (۱) کا سرمہ لگایا کرو اس سے بینائی تیز اور بال اگتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے پاس ایک سرمہ دانی تھی اور آپ ﷺ ہر رات اس سے سرمہ لگایا کرتے تھے۔ تین سلایاں ایک آنکھ میں اور تین دوسری آنکھ میں۔

علی بن حجر اور محمد بن یحییٰ بھی یزید بن ہارون سے اور وہ عباد بن منصور سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں اس باب میں جابر اور ابن عمر سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث حسن ہے ہم اسے اس لفظ سے صرف عباد بن منصور کی روایت سے جانتے ہیں اس کے علاوہ بھی کئی سندوں سے آنحضرت ﷺ سے منقول ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: تم لوگ ضرور اشہد کا سرمہ استعمال کیا کرو اس سے بینائی تیز ہوتی ہے اور پلکوں کے بال اگتے ہیں۔

باب ۱۱۵۱۔ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الصَّمَاءِ

باب ۱۱۵۱۔ صماء اور ایک کپڑے میں اعضاء کی ممانعت

وَالْإِحْتِيَاءِ بِالثُّوبِ الْوَاحِدِ

۱۶۰۵۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَهْمِيلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسَتَيْنِ الصَّمَاءِ وَ أَنَّ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ بِثَوْبِهِ لَيْسَ عَلَيَّ فَرَجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

۱۶۰۵۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے دو لباسوں سے منع فرمایا۔ ایک صماء (یعنی ایک چادر لے کر اسے کندھوں پر ڈالا جائے اور پھر دائیں کونے کو بائیں کندھے اور بائیں کونے کو دائیں کندھے پر ڈال دیا جائے اور دونوں ہاتھ بھی اسی میں لپٹے ہوئے ہوں) اور دوسرے یہ کہ کوئی اکثر دوں ہو کر اپنے کولہوں پر بیٹھے اور ایک ہی کپڑے کو گھٹنوں اور کمر پر لپیٹ لے بشرطیکہ اس کے ستر پر کوئی اور کپڑا نہ ہو۔

باب ۱۱۵۲۔ مَصْنُوعِي بَالٍ جَوْثَانًا

باب ۱۱۵۲۔ مَا جَاءَ فِي مُوَاصَلَةِ الشَّعْرِ

۱۶۰۶۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے بالوں کے ساتھ دوسرے بال لگانے والی ہلکوانے والی اور گودنے یا گروانے والی سب پر لعنت بھیجی ہے۔ نافع کہتے ہیں کہ گدوانا لاش میں ہوتا ہے۔

۱۶۰۶۔ حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْمُشْتَوِشِمَةَ وَالْمُشْتَوِشِمَةَ قَالَ نَافِعٌ

(۱) اشہد: ایک سرمے کا نام ہے جو صرف مکہ میں پایا جاتا ہے۔ (مترجم)

الْوَشْمُ فِي اللَّيْتَةِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اس باب میں ابن مسعود، عائشہ، اسماء بنت ابی بکر، معقل بن یسار، ابن عباس اور معاویہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔

باب ۱۱۵۳۔ ریشی زین پوشی کی ممانعت

باب ۱۱۵۳۔ مَا جَاءَ فِي رُكُوبِ الْمِيَابِرِ

۱۶۰۷۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے

۱۶۰۷۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَسْهَرٍ ثَنَا

(ریشی) زین پوشی پر سوار ہونے سے منع فرمایا۔ (۱)

ابو اسحق الشيباني عن اشعث بن ابي الشعثاء عن معاوية

بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال نهى

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب الميابر

اس باب میں علی اور معاویہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شعبہ بھی اشعث بن ابی شعشاء سے اسی طرح کی

حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس حدیث میں ایک قصہ بھی ہے۔

باب ۱۱۵۴۔ آنحضرت ﷺ کا ستر مبارک

باب ۱۱۵۴۔ مَا جَاءَ فِي فِرَاشِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۱۶۰۸۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ جس بستر پر سویا

۱۶۰۸۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَسْهَرٍ

کرتے تھے وہ چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کے درخت کی چھال بھری

عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت إنما

كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي

ينام عليه آدم حشوة ليف

یہ حدیث حسن صحیح ہے اس باب میں حفصہ اور جابر سے بھی حدیث منقول ہے۔

باب ۱۱۵۵۔ آنحضرت ﷺ کی قمیص کے متعلق

باب ۱۱۵۵۔ مَا جَاءَ فِي الْقَمِيصِ

۱۶۰۹۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ کو لباسوں میں سے

۱۶۰۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيدٍ الرَّازِيُّ ثَنَا

قمیص سب سے زیادہ پسند تھی۔

ابو تميلة والفضل بن موسى وزيد بن حباب عن

عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم

سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى

الله عليه وسلم القميص

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف عبد المؤمن بن خالد کی روایت سے جانتے ہیں وہ اسے نقل کرنے میں منفرد ہیں اور وہ

مروزی ہیں۔ جب کہ بعض حضرات اسے ابو تمیلہ سے وہ عبد المؤمن بن خالد سے وہ عبد اللہ بن بریدہ سے وہ اپنی والدہ سے اور وہ ام سلمہ

سے نقل کرتی ہیں (کہ آنحضرت ﷺ کرتے/قمیص) کو تمام لباسوں سے زیادہ پسند کرتے تھے) پھر علی بن حجر بھی فضل بن موسیٰ سے وہ

عبد المؤمن بن خالد سے وہ عبد اللہ بن بریدہ سے اور وہ ام سلمہ سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتی ہیں علی بن نصر بن علی الجعفی بھی

عبد الصمد سے وہ عبد الوارث سے وہ شعبہ سے وہ عمش سے وہ ابو صالح سے اور وہ ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ جب کرتا پہننے

تو دائی طرف سے شروع کرتے۔ کئی راوی یہ حدیث شعبہ سے اسی سند سے غیر مرفوع نقل کرتے ہیں جبکہ عبد الصمد کی حدیث مرفوع ہے۔

(۱) زین پوشی: اس کپڑے کو کہتے ہیں جو زین کے اوپر ڈالا جاتا ہے۔ (مترجم)

۱۶۱۰- عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ كَانَ كُمْ يَدْرُسُونَ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الرَّسْعِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۱۵۶- مَا يَقُولُ إِذَا لَبَسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

۱۶۱۱- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ ثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ الْجَرِيرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَحَدَّ ثَوْبًا سَمَاهُ بِاسْمِهِ عِمَامَةً أَوْ قَمِيصًا أَوْ رِدَاءً ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ

۱۶۱۰- حضرت اسماء بنت یزید السکنیہ انصاریہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی قمیص کے بازو گٹوں تک تھے۔

باب ۱۱۵۶- نئے کپڑے پہننے کی دعا۔

۱۶۱۱- حضرت ابوسعیدؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب کوئی نیا کپڑا پہنتے تو اس کا نام لیتے مثلاً عمامہ یا قمیص یا تہبند اور پھر اللہم سے آخر تک دعا پڑھتے۔ ترجمہ: اے اللہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ تو نے ہی مجھے یہ پہنایا ہے لہذا میں تجھ سے اس کی بھلائی اور جس بھلائی کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس کا طلبگار ہوں اور اس کے شر اور جس شر کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

اس باب میں ابن عمرؓ اور عمرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ ہشام بھی قاسم بن مالک مزنی سے اور وہ جریر سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔

باب ۱۱۵۷- مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْجَبَّةِ

۱۶۱۲- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي اسْحَقَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي اسْحَقَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَسَ جَبَّةً رُومِيَّةً ضَبِيقَةَ الْكُمَيْنِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۱۵۷- جبہ پہننا

۱۶۱۲- حضرت مغیرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے تنگ بازوؤں والا رومی جبہ پہنا۔

۱۶۱۳- حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ الْحَسَنِ

بْنِ عِيْنَانَ عَنِ ابْنِ اسْحَقَ هُوَ الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ أَهْدَى دِحْيَةَ الْكَلْبِيَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُقْفَيْنِ فَلَبَسَهُمَا وَقَالَ إِسْرَاءُ بِنْتُ عَنَابِرَ عَنْ عَامِرٍ وَجَنَّةٌ فَلَبَسَهُمَا حَتَّى تَحْرَقَا لَا يَنْدَرِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْكِيَّ هُمَا نَمْلَا

۱۶۱۳- حضرت مغیرہ بن شعبہؓ فرماتے ہیں کہ دحیہ کلبی نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں موزے پیش کیے اور آپ ﷺ نے انہیں پہننا امرائیل جابر سے اور وہ عامر سے نقل کرتے ہیں کہ موزوں کے ساتھ جبہ بھی تھا۔ آپ ﷺ نے یہ دونوں چیزیں زیب تن فرمائیں یہاں تک کہ وہ پھٹ گئیں۔ آپ ﷺ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کسی مذبح یا جانور کی ہیں یا غیر مذبح کی۔

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ابواسحاق جو اس حدیث کو شععی سے نقل کرتے ہیں۔ وہ ابواسحاق شیبانی ہیں ان کا نام سلیمان ہے۔ اور حسن بن عیاش، ابوبکر بن عیاش کے بھائی ہیں۔

باب ۱۱۵۸۔ مَا جَاءَ فِي شِدِّ الْأَسْنَانِ بِالذَّهَبِ

باب ۱۱۵۸۔ دانت پر سونا چڑھانا

۱۶۱۴۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ بْنِ

۱۶۱۴۔ حضرت عرفیہ بن اسعد فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں کلاب

الْبُرَيْدِ وَابُو سَعْدٍ الصَّنَعَانِيُّ عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ عَنْ

کی جنگ کے موقع پر میری ناک کٹ گئی۔ میں نے چاندی سے ایک

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرْفَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ ابْنِ أَسْعَدٍ قَالَ

ناک بنوایا لیکن اس میں سے بد بو آنے لگی چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے

أُصِيبَ أَنْفِي يَوْمَ الْكُلَّابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَّخَذْتُ

مجھے حکم دیا کہ سونے کی ناک بنواؤں۔

أَنْفًا مِنْ وَرَقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيَّ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ

علی بن حجر، ربیع بن بدر اور محمد بن یزید واسطی سے اور وہ ابوالاشہب سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے ہم اسے صرف عبد الرحمن بن طرفہ کی روایت سے جانتے ہیں۔ سلم بن زریر بھی عبد الرحمن بن طرفہ سے ابوالاشہب ہی کی حدیث کی طرح نقل کرتے ہیں۔ ابن مہدی انہیں سلم بن زریر کہتے ہیں۔ لیکن یہ وہم ہے اور صحیح زریر ہی ہے۔

باب ۱۱۵۹۔ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ جُلُودِ السَّبَاعِ

باب ۱۱۵۹۔ درندوں کی کھال کے استعمال کی ممانعت۔

۱۶۱۵۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ

۱۶۱۵۔ ابوبلیح اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے

بَشْرٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اسْمَعِيلَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ

درندوں کی کھال بچھانے سے منع فرمایا۔

قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جُلُودِ السَّبَاعِ أَنْ تُفْتَرَسَ

محمد بن بشر بھی یحییٰ بن سعید سے وہ سعید سے وہ قتادہ سے وہ ابوبلیح سے اور وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے درندوں کی کھال سے منع فرمایا۔ ہمیں علم نہیں کہ سعید بن ابی عروبہ کے علاوہ بھی کوئی راوی ابوبلیح کے والد کے ذریعے سے نقل کرتے ہوں۔ محمد بن بشر، محمد بن جعفر سے بھی وہ شعبہ سے وہ یزید رشک سے اور وہ ابوبلیح سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے درندوں کی کھال سے منع فرمایا (یعنی اس کے استعمال سے) اور یہ زیادہ صحیح ہے۔

باب ۱۱۶۰۔ مَا جَاءَ فِي نَعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۱۱۶۰۔ آنحضرت ﷺ کی چپل کے متعلق۔

۱۶۱۶۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا حِبَانُ بْنُ

۱۶۱۶۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے جوتے

هِلَالٌ ثَنَا هَمَامٌ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

تھے والے تھے۔

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ نَعْلَاهُ لَهْمًا قَبْلَ أَنْ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۱۶۱۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْمَشْيِ فِي

باب ۱۱۶۱۔ ایک چپل پن کر چلنے کی کراہت۔

النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ

۱۶۱۷۔ حدثنا قتيبة عن مالك ح وثنا الانصاري ثنا معن ثنا مالك عن ابى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْسِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيُنْعِلَهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُخْفِيَهُمَا جَمِيعًا

۱۶۱۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی ایک چپل پہن کر نہ چلے یا تو دونوں پاؤں پہنے یا ننگے پاؤں چلے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں جاہل سے بھی حدیث منقول ہے۔

۱۶۱۸۔ حدثنا أزهر بن مروان البصرى اخبرنا الحارث بن نبهان عن معمر عن عمار بن أبى عمار عن أبى هريرة قال نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ

۱۶۱۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کھڑے ہو کر جوتے پہننے سے منع فرمایا۔

یہ حدیث غریب ہے۔ عبید اللہ بن عمرو قی یہ حدیث معمر سے وہ قتادہ سے اور وہ انسؓ سے نقل کرتے ہیں لیکن محدثین کے نزدیک یہ دونوں حدیثیں صحیح نہیں۔ کیونکہ حارث بن نبهان ان کے نزدیک حافظ نہیں ہیں۔ جب کہ قتادہ کی انس سے منقول حدیث کی کوئی اصل نہیں۔ ابو جعفر سمعانی اسے سلیمان بن عبید اللہ ورتی سے وہ عبید اللہ بن عمرو سے وہ معمر سے وہ قتادہ سے اور وہ انسؓ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کھڑے کھڑے چپل پہننے سے منع فرمایا۔ یہ حدیث غریب ہے۔ امام بخاری ان دونوں حدیثوں کو صحیح نہیں سمجھتے۔

باب ۱۱۶۲۔ مَا جَاءَ فِي الرُّخَصَةِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ

۱۶۱۹۔ حدثنا القاسم بن دينار الكوفي اسحق بن منصور السلولي كوفي ثنا هريرم وهو ابن سفيان البجلي عن ليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت ربما مشى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ

باب ۱۱۶۲۔ ایک چپل پہن کر چلنے کی اجازت۔

۱۶۱۹۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ کبھی ایک چپل پہن کر بھی چلا کرتے تھے۔

احمد بن منيع، سفيان بن عيينه سے وہ عبد الرحمن بن قاسم سے وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ ایک چپل پہن کر چلیں۔ یہ زیادہ صحیح ہے۔ سفيان ثوري بھی اسے عبد الرحمن بن قاسم سے موقوفاً اسی طرح نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۱۶۳۔ مَا جَاءَ بِأَيِّ رَجُلٍ يَبْدَأُ إِذَا انْتَعَلَ

۱۶۲۰۔ حدثنا الانصاري ثنا معن ثنا مالك ح وثنا قتيبة عن مالك عن ابى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ

باب ۱۱۶۳۔ چپل کون سے پاؤں میں پہلے پہنی جائے۔

۱۶۲۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم میں سے کوئی چپل پہننے لگے تو دائیں پاؤں کو مقدم رکھے اور جب اتارے تو بائیں پاؤں سے پہلے اتارے یعنی دایاں پیر پہننے میں پہلے ہو اور اتارنے میں پیچھے۔

فَلْيَكُنَّ الْيَمِينُ أَوْ لَهَا تَنْعَلُ وَاجْرُهُمَا تَنْزَعُ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۱۶۴۔ مَاجَاءَ فِي تَرْقِيعِ الثَّوْبِ

۱۶۲۱۔ حدثنا يحيى بن موسى ثنا سعيد بن

محمد الوراق وابو يحيى الحماني قالنا ثنا صالح

بن حسان عن عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَرْدَتِ اللُّحُوقَ

بِي فَلَْيَكْفِكِ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاحِبِ وَإِيَّاكَ

وَمَجَالِسَةَ الْأَغْنِيَاءِ وَلَا تَسْتَخْلِقِي تَوْبًا حَتَّى تَرْقِيعِهِ

باب ۱۱۶۳۔ کپڑوں میں پیوند لگانا۔

۱۶۲۱۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: اگر

تم (آخرت میں) مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو تمہارے لیے دنیا تو شہ سفر

کے بقدر ہی کافی ہے اور ہاں امیر لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے پرہیز

کرنا اور کسی کپڑے کو اس وقت تک پہننا نہ چھوڑنا جب تک اس میں

پیوند نہ لگالو۔

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف صالح بن حسان کی روایت سے جانتے ہیں اور امام بخاری انہیں منکر الحدیث کہتے

ہیں۔ اور صالح بن ابی حسان جن سے ابن ابی ذئب احادیث نقل کرتے ہیں۔ وہ ثقہ ہیں۔ ”ایاک ومجالسة الاغنياء“ کا مفہوم

حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول اس حدیث کی طرح ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جو شخص اپنے سے بہتر صورت یا زیادہ مالدار کی

طرف دیکھے تو اسے اپنے سے کمتر آدمی کو دیکھنا چاہئے جس پر اسے فضیلت دی گئی۔ یقیناً اس سے اس کی نظر میں اللہ کی نعمت

حقیر نہیں ہوگی۔ عون بن عبد اللہ سے بھی منقول ہے کہ میں نے اغنیاء کی صحبت اختیار کی تو اپنے سے زیادہ عمکین کسی کو نہیں

دیکھا۔ کیونکہ ان کی سواری میری سواری سے بہتر اور ان کے کپڑے میرے کپڑوں سے بہتر ہوتے تھے۔ پھر جب میں نے

فقراء کی صحبت اختیار کی تو راحت حاصل ہوئی۔

۱۶۲۲۔ حضرت ام ہانئ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب مکہ مکرمہ میں

داخل ہوئے تو آپ ﷺ کی چار چوٹیاں تھیں۔

۱۶۲۲۔ حدثنا ابن ابی عمير ثنا سفیان بن عینة عن ابن

ابی نجيح عن مُجَاهِدٍ عَنْ أُمِّ هَانِيَةَ قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِنِّي مَكَّةَ وَلَهُ أَرْبَعُ عَدَائِرُ

یہ حدیث غریب ہے۔

باب ۱۶۲۳۔ حضرت ام ہانئ سے منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ مکہ میں

داخل ہوئے تو آپ ﷺ کی چار چوٹیاں تھیں۔

باب ۱۶۲۳۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن

بن مهدى ثنا ابراهيم بن نافع المكي عن ابن ابی

نجيح عن مُجَاهِدٍ عَنْ أُمِّ هَانِيَةَ قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِنِّي مَكَّةَ وَلَهُ أَرْبَعُ ضَفَائِرُ

یہ حدیث حسن ہے اور عبد اللہ بن ابی نوح کی ہیں۔ ابوحجج کا نام یسار ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ مجاہد کے ام ہانئ سے سماع کا مجھے علم نہیں۔

۱۶۲۴۔ حضرت عبد اللہ بسر کہتے ہیں کہ میں نے ابو کبشہ انمازی سے

سنا کہ رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کی ٹوپیاں کھلی اور سروں کے ساتھ ملی

۱۶۲۴۔ حدثنا حميد بن مسعدة ثنا محمد بن

حمران عن ابی سعيد وهو عبد الله بن بسر قال

سَمِعْتُ أَبَا كَثْبَةَ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ كَأَنَّكَ بِكَمَامٍ  
أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطْحًا

یہ حدیث منکر ہے۔ اور عبداللہ بن بسر بصری محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔ یحییٰ بن سعید وغیرہ انہیں ضعیف کہتے ہیں۔

۱۶۲۵۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا ابُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي  
اسْحَقَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ أَخَذَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ لِسَانِي  
أَوْ سَاقِيهِ وَقَالَ هَذَا مَوْضِعُ الْأَزَارِ فَإِنْ آيَيْتَ فَاسْفَلْ  
فَإِنْ آيَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْأَزَارِ فِي الْكُفَعِيِّينَ

۱۶۲۵۔ حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی پنڈلی یا  
میری پنڈلی پکڑ کر فرمایا: شلو اور غیرہ کی اصل جگہ یہاں تک ہے لیکن اگر  
دل نہ مانے تو اس سے تھوڑی نیچے کر لو اور اگر اب بھی دل نہ مانے تو  
ٹخنوں سے نیچے کرنے کا کوئی حق نہیں (یعنی ٹخنوں سے اوپر تک رکھنے کی  
اجازت ہے۔)

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شعبہ اور ثوری اسے ابواسحاق سے نقل کرتے ہیں۔

۱۶۲۶۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِي  
الْحَسَنِ الْعَسْقَلَانِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رُكَّانَةَ  
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رُكَّانَةَ صَارَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فَصَرَغَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُكَّانَةَ  
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ  
فَرْقَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلَابِيسِ

۱۶۲۶۔ حضرت ابو جعفر بن محمد بن رکانہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ  
رکانہ نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ کشتی کی تو آپ ﷺ نے انہیں پچھاڑ  
دیا۔ حضرت رکانہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا ﷺ کو فرماتے  
ہیں ہوئے سنا کہ ہمارے اور مشرکوں کے درمیان صرف ٹوپوں پر عمامہ  
لگانے کا فرق ہے۔

یہ حدیث غریب ہے۔ اس کی سند قوی نہیں۔ ابو الحسن عسقلانی اور ابن رکانہ کو ہم نہیں جانتے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین

بغیر ٹوپی کے عمامہ باندھتے ہیں اور ہم ٹوپی پر۔

باب ۱۱۶۵۔ لوہے کی انگوٹھی

باب ۱۱۶۵۔ فِي خَاتَمِ الْحَدِيدِ

۱۶۲۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيدٍ ثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَابٍ  
وَأَبُو تَمِيْلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ مَالِي أَرَى  
عَلَيْكَ جِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ ثُمَّ جَاءَهُ وَوَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ  
صُفْرِ فَقَالَ مَالِي أَحَدٌ مِنْكَ رِيحَ الْأَصْنَامِ ثُمَّ آتَاهُ وَ  
عَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ مَالِي أَرَى عَلَيْكَ جِلْيَةَ  
أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ آتَيْتَهُ قَالَ مِنْ وَرَقِ

۱۶۲۷۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ایک  
شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو اس کی انگی میں لوہے  
کی انگوٹھی تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا بات ہے میں تمہارے ہاتھوں  
میں اہل دوزخ کا زیور دیکھ رہا ہوں۔ جب وہ دوبارہ حاضر ہوا تو اس  
کے ہاتھ میں پیتل کی انگوٹھی تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا بات ہے میں تم  
سے بتوں کی بو پار ہا ہوں۔ چنانچہ جب وہ تیسری مرتبہ حاضر ہوا تو اس  
کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا بات ہے میں  
تمہارے جسم پر اہل جنت کا زیور دیکھ رہا ہوں۔ اس نے عرض کیا تو کس

(۱) کمام، کہہ کی جمع ہے اور اس صورت میں اس سے مراد ٹوپیاں ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ”کم“ کی جمع ہے اس صورت میں اس کے معنی یہ ہوں گے کہ

صحابہ کے کپڑوں کے بازو کھلے اور ڈھیلے تھے۔ واللہ اعلم (مترجم)

وَلَا تُتِمَّةٌ مِثْقَالًا

چیز کی انگوٹھی بنوادیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: چاندی کی اور وہ بھی ایک  
مثقال سے کم ہو۔

یہ حدیث غریب ہے۔ عبد اللہ بن مسلم: ابو طیبہ مروزی ہیں۔

باب ۱۶۲۸۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے مجھے ریشمی  
کپڑا پہننے، سرخ زین پوش پر سوار ہونے اور شہادت یا اس کے ساتھ  
والی انگلی میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا:

باب ۱۶۲۸۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ثَنَا سَفِيَانُ عَنْ  
عَاصِمِ بْنِ كَلِيبٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا  
يَقُولُ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ  
الْقَسْبِيِّ وَالْمَيْتِرَةِ الْحُمْرَاءِ وَأَنَّ أَلْبَسَ خَاتَمِي فِي  
هَذِهِ وَفِي هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى السَّبَابَةِ وَالْوَسْطَى

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابن ابی موسیٰ، ابو بردہ بن ابی موسیٰ ہیں ان کا نام عامر ہے۔

باب ۱۱۶۶۔ بلا عنوان

باب ۱۱۶۶۔

۱۶۲۹۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے نزدیک پسندیدہ  
ترین لباس دھاری دار چادر تھا۔

۱۶۲۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مَعَاذُ بْنُ هِشَامٍ  
ثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَيَّ  
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبِسُهَا الْحَبِيرَةَ

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کھانوں کے متعلق آنحضرت ﷺ سے نقل کی گئی

أَبْوَابُ الْأَطْعِمَةِ عَنْ

احادیث کے ابواب

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۱۱۶۷۔ آنحضرت ﷺ کس چیز پر کھانا کھایا کرتے تھے۔

باب ۱۱۶۷۔ مَا جَاءَ عَلِيٌّ مَا كَانَ يَأْكُلُ النَّبِيُّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۱۶۳۰۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے نہ کبھی خوان پر  
کھانا کھایا اور نہ ہی چھوٹی پلیٹوں میں اور نہ ہی آپ ﷺ کے لیے پتلی  
چپاتی پکائی گئی۔ میں نے قتادہ سے پوچھا کہ لوگ کس چیز پر کھانا کھایا  
کرتے تھے تو فرمایا: انہی دسترخوانوں پر۔

۱۶۳۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مَعَاذُ بْنُ هِشَامٍ  
ثَنِي أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا أَكَلَ  
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَوَانَ وَلَا سُكْرُجِيَّةَ  
وَلَا حَبِيرَةَ مَرَّقًا فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ فَعَلَى مَا كَانُوا يَأْكُلُونَ  
قَالَ عَلِيٌّ هَذِهِ السُّفْرُ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ محمد بن بشار کہتے ہیں کہ یونس جو یہاں مذکور ہیں وہ یونس اسکاف ہیں۔ عبدالوارث بھی سعید بن ابی  
عروبہ سے وہ قتادہ سے اور وہ انسؓ سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔

## باب ۱۱۶۸۔ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الْأَرْزَبِ

## باب ۱۱۶۸۔ خَرَّغُوشِ كَهَانَا

۱۶۳۱۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ أَنْفَجْنَا أَرْزَبًا بِمَرِّ الظُّهْرَانِ فَسَعَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهَا فَأَدْرَكْتُهَا فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا بِمَرْوَةٍ فَبَعَثَ مَعِيَ بِفَجِدْهَا أَوْ بِوَرَكِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَهُ فَقُلْتُ أَكَلَهُ قَالَ قَبْلَهُ

۱۶۳۱۔ حضرت ہشام بن زید کہتے ہیں کہ ہم نے مرظہ ان کے مقام پر ایک خرگوش کا پچھا کیا۔ چنانچہ جب صحابہ اس کے پیچھے دوڑے تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور ابو طلحہ کے پاس لے آیا۔ انہوں نے اسے پتھر سے ذبح کیا اور مجھے اس کی ران یا کوہے کا گوشت دے کر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں بھیجا۔ آپ ﷺ نے اسے کھالیا: میں نے پوچھا کیا آپ ﷺ نے اسے کھالیا؟ فرمایا: آپ ﷺ نے اسے قبول کر لیا۔

اس باب میں جابر، عمار، محمد بن صفوان اور محمد بن صفی بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اکثر اہل علم اسی پر عمل پیرا ہیں کہ خرگوش کھانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ جب کہ بعض حضرات اسے مکروہ کہتے ہیں کیونکہ اسے حیض آتا ہے۔

## باب ۱۱۶۹۔ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الضَّبِّ

## باب ۱۱۶۹۔ گوہ کھانا۔

۱۶۳۲۔ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ فَقَالَ لَا أَكُلُهُ وَلَا أُحْرِمُهُ

۱۶۳۲۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے گوہ کھانے کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا: میں نہ اسے کھاتا ہوں اور نہ ہی حرام کرتا ہوں۔

اس باب میں عمر، ابوسعید، ابن عباس، ثابت بن وہب، جابر اور عبدالرحمن بن حسنہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور گوہ کھانے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض اہل علم صحابہ اس کی اجازت دیتے ہیں جب کہ بعض حضرات اسے مکروہ کہتے ہیں۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ کے دسترخوان پر گوہ کھائی گئی لیکن آپ ﷺ نے نفرت طبعی کی وجہ سے اسے نہیں کھایا نہ کہ حرمت شرعی کی وجہ سے۔

## باب ۱۱۷۰۔ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الضَّبُعِ

## باب ۱۱۷۰۔ بچو کھانے کے متعلق

۱۶۳۳۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا ابْنُ جَرِيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِ الضَّبُعِ أَصِيدُ هِيَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَكَلْتُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ

۱۶۳۳۔ حضرت ابن ابی عمیر کہتے ہیں کہ میں نے جابر سے پوچھا کہ کیا بچو شکار کیے جانے والے جانوروں کے زمرے میں آتا ہے؟ تو فرمایا: ہاں۔ میں نے عرض کیا: کیا میں اسے کھالوں؟ فرمایا: ہاں میں نے عرض کیا: کیا آنحضرت ﷺ کا یہی حکم ہے؟ فرمایا: ہاں۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض علماء اسی پر عمل پیرا ہیں کہ چرخ کھانا جائز ہے احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں آنحضرت ﷺ سے اس کی کراہت میں بھی ایک حدیث منقول ہے لیکن اس کی سند قوی نہیں۔ لہذا بعض علماء اسے مکروہ کہتے ہیں۔ ابن مبارک کا بھی یہی قول ہے۔ یحییٰ بن سعید قطان کہتے ہیں کہ جریر بن حازم یہ حدیث عبداللہ بن عبید بن عمیر سے وہ ابن ابی عمیر سے وہ جابر سے اور وہ عمر سے انہی کا قول نقل کرتے ہیں۔ لیکن ابن جریر کی حدیث زیادہ صحیح ہے۔

۱۶۳۴۔ حضرت خزیمہ بن جزء فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے بچو کا حکم پوچھا تو فرمایا: کوئی ایسا بھی ہے جو بچو کھاتا ہو؟ پھر میں نے بھیڑیے کے متعلق پوچھا تو فرمایا کیا کوئی نیک آدمی بھی بھیڑیا کھا سکتا ہے؟

۱۶۳۴۔ حدثنا هناد ثنا ابو معاوية عن اسمعيل بن مسلم عن عبد الكريم ابى امية عن جيان بن جزء عن اخيه خزيمه بن جزء قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضبع قال أويأكل الضبع أحد وسألته عن أكل الذئب قال ويأكل الذئب أحد فيه خير

اس حدیث کی سند قوی نہیں۔ ہم اسے صرف اسماعیل بن مسلم کی عبدالکریم ابی امیہ کی روایت سے جانتے ہیں۔ اور بعض محدثین اسماعیل اور عبدالکریم کے متعلق کلام کرتے ہیں اور عبدالکریم: عبدالکریم بن قیس بن ابی مخارق ہیں۔ لیکن عبدالکریم جزری ثقہ ہیں۔

باب ۱۱۷۲۔ ماجاء فی أكل لحوم الخيل

۱۶۳۵۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں گھوڑے کا گوشت کھلایا اور گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔

۱۶۳۵۔ حدثنا قتيبة و نصر بن علي قالنا ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر قال أطمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر

اس باب میں اسماء بنت ابی بکر بھی حدیث نقل کرتی ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی راویوں سے اسی طرح منقول ہے۔ یہ حضرات عمرو بن دینار سے اور وہ جابر سے نقل کرتے ہیں۔ حماد بن زید بھی عمرو بن دینار سے وہ محمد بن علی سے اور وہ جابر سے نقل کرتے ہیں اور ابن عیینہ کی حدیث زیادہ صحیح ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ سفیان بن عیینہ، حماد بن زید سے زیادہ حافظ ہیں۔

باب ۱۱۷۳۔ ماجاء فی لحوم الحمر الأهلية

۱۶۳۶۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے غزوہ خیبر کے زمانے میں متعہ اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔

۱۶۳۶۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد الانصاري عن مالك بن انس عن الزهري ح وثنا ابن ابى عمر ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء زمن خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية

سعید بن عبدالرحمن، سفیان سے وہ زہری سے اور وہ عبداللہ اور حسن (یہ دونوں محمد بن علی کے بیٹے ہیں) سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ زہری کے نزدیک ان دونوں میں سے پسندیدہ ترین شخصیت حسن بن محمد ہیں۔ سعید کے علاوہ راوی، ابن عیینہ سے نقل کرتے ہیں کہ ان میں زیادہ بہتر عبداللہ بن محمد ہیں۔

۱۶۳۷۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے غزوہ خیبر کے موقع پر ہر چکلی والے درندے، وہ جانور جسے باندھ کر اس کو نشانہ بنایا

۱۶۳۷۔ حدثنا ابو كريب ثنا حسين بن علي عن زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ يَوْمَ حَبِيرٍ كُلَّ  
ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ الْمُحَنَّمَةِ وَالْحِمَارِ الْإِنْسِيَّ

اس باب میں علیؓ، جابرؓ، براءؓ، ابن ابی اوفیؓ، انسؓ، عرباض بن ساریہؓ، ابو ثعلبہؓ، ابن عمرؓ اور ابو سعیدؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عبدالعزیز بن محمد وغیرہ اسے محمد بن عمرو سے نقل کرتے ہوئے صرف کچلی والے درندوں کا حکم بیان کرتے ہیں۔

باب ۱۱۷۳۔ کفار کے برتنوں میں کھانا کھانا

۱۶۳۸۔ حضرت ابو ثعلبہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے مجوسیوں کی ہانڈیوں کا حکم پوچھا گیا تو فرمایا: ان کو دھو کر صاف کرنے کے بعد ان میں پکاؤ اور ہر کچلی والے درندے سے منع فرمایا۔

باب ۱۱۷۳۔ مَا جَاءَ فِي الْأَكْلِ فِي آيَةِ الْكُفَّارِ  
۱۶۳۸۔ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَحْزَمِ الطَّائِيُّ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ قَتِيْبَةَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قُدْوَرَ الْمُجُوسِ قَالَ أَنْفَوْهَا عَسَلًا وَأَطْبَحُوا فِيهَا وَنَهَى عَنْ كُلِّ سَبْعٍ ذِي نَابٍ

یہ حدیث ابو ثعلبہ کی روایت سے مشہور ہے اور ان سے کئی سندوں سے منقول ہے ان کا نام جرثوم ہے اور انہیں جرم اور ناشب بھی کہا جاتا ہے۔ پھر یہی حدیث ابو قلابہؓ بھی ابی اسماعیلؓ سے اور وہ ابو ثعلبہؓ سے نقل کرتے ہیں۔

۱۶۳۹۔ حضرت ابو قلابہؓ، ابو اسماعیلؓ جرجی سے اور وہ ابو ثعلبہؓ خثنی سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! ہم لوگ اہل کتاب کے علاقے میں رہتے ہیں۔ لہذا ان کی ہانڈیوں میں پکاتے اور ان کے برتنوں کو پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا: اگر اس کے علاوہ کوئی اور برتن نہ ہوں تو انہیں پانی سے دھولیا کر دو پھر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! وہاں شکار بھی بہت ہوتا ہے اسکے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا: اگر تم نے اپنا تربیت یافتہ کتا چھوڑا اور بسم اللہ پڑھی پھر کتے نے اسے مار دیا تو تم اسے کھا سکتے ہو اور اگر وہ غیر تربیت یافتہ تھا تو اس شکار کو ذبح کرنا ضروری ہے۔ اور اگر تم اپنا تیر چلاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لو اور اس سے شکار مر جائے تو اسے کھا سکتے ہو۔

۱۶۳۹۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيْسَى بْنِ يَزِيدَ الْبَغْدَادِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْقُرَشِيِّ ثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ أَيُّوبَ وَقَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحْبِيِّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُثَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ كِتَابٍ فَتَطْبُخُ فِي قُدُورِهِمْ وَتَشْرَبُ فِي أَيْتِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضٍ صَيْدٍ فَكَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ إِذَا أَرَسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُكَلَّبَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَقَتَلَ فَكُلْ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُكَلَّبٍ فَزَيِّجْهُ فَكُلْ وَإِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَقَتَلَ فَكُلْ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۱۷۴۔ اگر چوہا گھی میں گر کر مر جائے

۱۶۴۰۔ حضرت میمونہؓ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک چوہا گھی میں گر کر مر گیا تو آپ ﷺ سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا۔ آپ ﷺ نے

باب ۱۱۷۴۔ مَا جَاءَ فِي الْفَارَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ  
۱۶۴۰۔ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابُو عَمَّارٍ قَالَا ثَنَا سَفِيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ فَاةَ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَا تَتْ  
فَسْتَلَّ عَنْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْقَوُّهَا  
وَمَا حَوْلَهَا فَكَلُّوهُ

اس باب میں ابو ہریرہؓ سے بھی حدیث منقول ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور زہری اسے عبید اللہ سے وہ ابن عباس سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ سے کسی نے سوال کیا: یعنی اس میں میمونہ کا تذکرہ نہیں۔ جب کہ ابن عباس کی میمونہ سے نقل کردہ حدیث زیادہ صحیح ہے۔ معمر بھی زہری سے وہ سعید بن مسیب سے وہ ابو ہریرہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں لیکن یہ غیر محفوظ ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ اس میں خطا ہے اور صحیح حدیث وہی ہے جو زہری عبید اللہ سے وہ ابن عباس سے اور وہ میمونہ سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۱۷۵۔ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ  
بِالشَّمَالِ

۱۶۴۱۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ  
نَمِيرٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي  
بَكْرٍ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَأْكُلُ  
أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرِبُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ  
بِشِمَالِهِ وَيَشْرِبُ بِشِمَالِهِ

اس باب میں جابر، عمر بن ابی سلمہ، سلمہ بن اکوع، انس بن مالک اور حفصہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ مالک اور ابن عیینہ بھی اسے زہری سے وہ ابو بکر بن عبید اللہ سے اور وہ ابن عمرؓ سے نقل کرتے ہیں جب کہ معمر اور عقیل زہری سے وہ سالم سے اور وہ ابن عمرؓ سے نقل کرتے ہیں لیکن مالک اور ابن عیینہ کی حدیث زیادہ صحیح ہے۔

باب ۱۱۷۶۔ الْكَلْبَانِ بِإِثْنَانِ

۱۶۴۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي  
الشَّوَّارِبِ ثَنَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ سَهِيلِ بْنِ  
أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ  
أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّهِنَّ الْبَرَكَةُ

اس باب میں جابر، کعب بن مالک اور انسؓ سے بھی حدیث منقول ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

باب ۱۱۷۷۔ مَجَاءُ فِي اللَّقْمَةِ تَسْفُطُ

باب ۱۱۷۷۔ مَجَاءُ فِي اللَّقْمَةِ تَسْفُطُ

باب ۱۱۷۷۔ مَجَاءُ فِي اللَّقْمَةِ تَسْفُطُ

۱۶۴۳۔ حدثنا قتيبة نا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاماً فسقطت لقمته فليمط ما رآه منها ليطعمها ولا يدعها للشيطان

اس باب میں انسؓ سے بھی حدیث منقول ہے

۱۶۴۴۔ حدثنا الحسن بن علي الخلال ثنا عفان بن مسلم ثنا حماد بن سلمة ثنا ثابت عن أنس أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاماً لعق أصابعه الثلاث وقال إذا وقعت لقمه أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وأمرنا أن نسلك الصفحة وقال إنكم لا تدرؤن في آي طعامكم البركة

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۶۴۵۔ حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثنا المعلى بن راشد ابو اليمان قال حدثني جدتي أم عاصم وكانت أم ولد لسنان بن سلمة قالت دخل علينا نبیة الخیر ونحن نأكل فی قسعة فحدثنا أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل فی قسعة ثم لحسها استغفرت له القسعة

۱۶۴۵۔ حضرت ام عاصمؓ جو سنان بن سلمہ کی ام ولد ہیں فرماتی ہیں کہ نبیؐ خیر ہمارے ہاں داخل ہوئی تو ہم لوگ ایک پیالے میں کھانا کھا رہے تھے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص کسی پیالے میں کھانا کھانے کے بعد اسے چاٹ لے تو پیالہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔

یہ حدیث غریب ہے اسے ہم صرف معلیٰ بن راشد کی روایت سے جانتے ہیں۔ یزید بن ہارون اور کنیٰ الحدیث اسے معلیٰ بن راشد سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۱۷۸۔ ماجاء فی کراهية الأكل من وسط الطعام

۱۶۴۶۔ حدثنا ابورجاء ثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه

باب ۱۱۷۸۔ کھانے کے درمیان سے کھانا کھانے کی کراہت۔

۱۶۴۶۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: برکت کھانے کے درمیان میں ہوتی ہے لہذا کناروں سے کھانا کھاؤ۔ درمیان میں سے نہیں۔

یہ حدیث حسن ہے اور صرف عطاء بن سائب کی روایت سے معروف ہے۔ شعبہ اور ثوری بھی اسے عطاء بن سائب ہی سے نقل کرتے ہیں۔ اس باب میں ابن عمرؓ سے بھی حدیث منقول ہے۔

۱۶۴۳۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم میں سے کوئی کھانا کھائے اور اس دوران کوئی لقمہ گر جائے تو اسے چاہئے کہ اسے اٹھا کر اس میں سے مشکوک حصے کو الگ کر کے کھالے اور اسے شیطان کی خوراک بننے کے لیے نہ چھوڑے۔

۱۶۴۴۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ کھانا کھا لیتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹ لیتے اور فرماتے کہ اگر تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے صاف کر کے کھالے، اور شیطان کے لیے نہ چھوڑ دے۔ نیز آپ ﷺ نے حکم دیا کہ پیٹ کو بھی چاٹ لیا کرو کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے کس کھانے میں برکت ہے۔

۱۶۴۵۔ حضرت ام عاصمؓ جو سنان بن سلمہ کی ام ولد ہیں فرماتی ہیں کہ نبیؐ خیر ہمارے ہاں داخل ہوئی تو ہم لوگ ایک پیالے میں کھانا کھا رہے تھے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص کسی پیالے میں کھانا کھانے کے بعد اسے چاٹ لے تو پیالہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔

یہ حدیث غریب ہے اسے ہم صرف معلیٰ بن راشد کی روایت سے جانتے ہیں۔ یزید بن ہارون اور کنیٰ الحدیث اسے معلیٰ بن راشد سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۱۷۸۔ کھانے کے درمیان سے کھانا کھانے کی کراہت۔

۱۶۴۶۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: برکت کھانے کے درمیان میں ہوتی ہے لہذا کناروں سے کھانا کھاؤ۔ درمیان میں سے نہیں۔

یہ حدیث حسن ہے اور صرف عطاء بن سائب کی روایت سے معروف ہے۔ شعبہ اور ثوری بھی اسے عطاء بن سائب ہی سے نقل کرتے ہیں۔ اس باب میں ابن عمرؓ سے بھی حدیث منقول ہے۔

باب ۱۱۷۹۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَكْلِ الثُّومِ وَالْبَصْلِ  
 ۱۶۴۷۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ  
 سَعِيدِ الْقَطَّانِ عَنْ ابْنِ جَرِيحٍ ثَنَا عَطَاءُ عَنْ جَابِرِ  
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَ  
 مِنْ هَذِهِ قَالَ أَوْلَ مَرَّةٍ الثُّومِ ثُمَّ قَالَ الثُّومِ وَالْبَصْلِ  
 وَالْكَرَّاثِ فَلَا يَقْرَبُنَا فِي مَسَاجِدِنَا

باب ۱۱۷۹۔ لہسن اور پیاز کھانے کی کراہت۔

۱۶۴۷۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے لہسن کھایا۔ (پہلی مرتبہ راوی نے صرف لہسن کا اور دوسری مرتبہ لہسن، پیاز اور گند نے کا ذکر کیا) وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں عمرؓ، ابو ہریرہؓ، ابو ایوبؓ، ابو سعیدؓ، جابر بن سمرہؓ، قرہ اور ابن عمرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔

باب ۱۱۸۰۔ مَا جَاءَ فِي الرُّخَصَةِ فِي أَكْلِ الثُّومِ  
 مَطْبُوحًا

باب ۱۱۸۰۔ پکا ہوا لہسن کھانے کی اجازت

۱۶۴۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ ثَنَا ابوداؤد انبانا  
 شعبة عن سماك بن حرب سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمْرَةَ  
 يَقُولُ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى  
 أَبِي أَيُّوبَ وَكَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا بَعَثَ إِلَيْهِ بِفَضْلِهِ  
 فَبَعَثَ إِلَيْهِ يَوْمًا بِطَعَامٍ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا آتَى أَبُو أَيُّوبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ فِيهِ الثُّومُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْرَامٌ هُوَ قَالَ  
 لَا وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ  
 یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۶۴۸۔ حضرت جابر بن سمرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب ابو ایوبؓ کے ہاں ٹھہرے تو جب کھانا کھاتے تو جو بیچ جاتا اسے ابو ایوبؓ کے پاس بھیج دیا کرتے۔ ایک مرتبہ آپ ﷺ نے انہیں کھانا بھیجا جس میں سے آپ ﷺ نے نہیں کھایا تھا۔ چنانچہ جب ابو ایوبؓ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس بات کا تذکرہ کیا تو فرمایا، اس میں لہسن ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! کیا یہ حرام ہے؟ فرمایا: نہیں لیکن میں اس کی بو کی وجہ سے اسے مکروہ سمجھتا ہوں۔

۱۶۴۹۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ کچا ٹوم کھانے سے منع کیا گیا یعنی پکا ہوا کھانے کی اجازت ہے۔

۱۶۴۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَدْيُونَةَ ثَنَا مَسَدَدُ ثَنَا  
 الجراح بن مليح عن ابى اسحق عن شريك بن  
 حنبل عن علي قال نهى عن أكل الثوم إلا مطبوخًا

یہ حدیث علیؓ سے موقوفہ بھی منقول ہے۔ ہناد، کعب سے وہ اپنے والد سے وہ ابو اسحاق سے وہ شریک بن حنبل سے اور وہ حضرت علیؓ سے نقل کرتے ہیں کہ پکے ہوئے لہسن کے علاوہ لہسن کھانا مکروہ ہے۔ اس حدیث کی سند قوی نہیں۔ شریک بن حنبل اسے آنحضرت ﷺ سے مسلاً بھی نقل کرتے ہیں۔

۱۶۵۰۔ حضرت ام ایوبؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ان کے ہاں تشریف لائے تو ان لوگوں نے (یعنی ہجرت کے موقع پر) آپ ﷺ کے لیے بعض سبزیوں سے کھانا تیار کیا۔ آپ ﷺ نے صحابہ سے فرمایا:

۱۶۵۰۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبِزَارِيُّ ثَنَا سَفِيَانُ  
 بن عيينة عن عبد الله بن ابى يزيد عن ابيه عن أم  
 أيوب أخبرته أنّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ

عَلَيْهِمْ فَتَكَلَّفُوا لَهُ طَعَامًا فِيهِ مِنْ بَعْضِ هَذِهِ الْقُبُولِ  
فَكَرَهُ أَكَلَهُ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُّوهُ فَإِنِّي لَسْتُ  
كَأَحَدِكُمْ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُؤَذَى صَاحِبِي

تم لوگ اسے کھا لو کیونکہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں اور مجھے اندیشہ ہے  
کہ اس سے فرشتے کو تکلیف نہ پہنچے۔

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ ام ایوبؓ، حضرت ابویوبؓ کی بیوی ہیں۔ محمد بن حمید، زید بن حباب سے وہ ابوخلدہ سے اور وہ ابو  
عالیہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: بسن بھی ایک پاکیزہ رزق ہے۔ اور ابوخلدہ کا نام خالد بن دینار ہے۔ یہ ثقہ ہیں۔ ان کی انس  
بن مالک سے ملاقات ہے اور ان سے احادیث بھی سنی ہیں۔ ابو عالیہ کا نام رفیع ریاحی ہے۔ عبدالرحمن بن مہدی کہتے ہیں کہ ابوخلدہ  
بہترین مسلمان تھے۔

باب ۱۱۸۱۔ ماجاء فی تَحْمِيرِ الْإِنَاءِ وَأَطْفَاءِ  
السِّرَاجِ وَالنَّارِ عِنْدَ الْمَنَامِ

باب ۱۱۸۱۔ سوتے وقت برتنوں کو ڈھکنا اور چراغ و آگ بجھا کر سونا۔

۱۶۵۱۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ  
جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْلِقُوا  
الْبَابَ وَ أَوْكُوا السِّقَاءَ وَأَكْفُوا الْإِنَاءَ أَوْخَمِرُوا  
الْإِنَاءَ وَأَطْفِئُوا الْمِصْبَاحَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ غَلْقًا  
وَلَا يَحُلُّ وَكَاءً وَلَا يَكْشِفُ إِنِيَةً فَإِنَّ الْفَوَيْسِقَةَ  
تُضْرِمُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ

۱۶۵۱۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (سونے سے  
پہلے) دروازہ بند کرو۔ مشک باندھ دو، برتنوں کو ڈھک دو یا انہیں الٹا کر  
کے رکھو اور چراغ بجھا دو۔ اس لیے کہ شیطان بند دروازہ نہیں کھولتا اور  
نہ ہی بندھی ہوئی چیزوں کو کھولتا یا برتنوں کو سیدھا کرتا ہے اور اس لیے کہ  
چھوٹا فاسق (چوہا) لوگوں کے گھر جلا دیتا ہے۔ (۱)

اس باب میں ابن عمرؓ، ابو ہریرہؓ اور ابن عباسؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے جابرؓ سے منقول ہے۔

۱۶۵۲۔ حَدَّثَنَا ابْنُ ابِي عَمْرٍو وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا ثَنَا  
سَفِيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمٍ عَنِ أَبِيهِ قَالَ قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتْرَكُوا النَّارَ فِي  
بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ

۱۶۵۲۔ حضرت سالم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ  
ﷺ نے فرمایا: سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ نہ چھوڑو یعنی بجھا کر  
سوؤ۔

باب ۱۱۸۲۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْفَرَّانِ بَيْنَ التَّمْرَيْنِ

۱۶۵۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ ثَنَا ابُو أَحْمَدَ  
الزُّبَيْرِ وَعَبِيدُ اللَّهِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنِ جَبَلَةَ بْنِ سُوَيْبٍ عَنِ  
ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَنْ يَفْرَقَ بَيْنَ التَّمْرَيْنِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ صَاحِبَهُ

باب ۱۱۸۲۔ دو دو کھجوریں ایک ساتھ کھانے کی کراہت۔

۱۶۵۳۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے ساتھی  
سے اجازت لیے بغیر دو دو کھجوریں ایک ایک مرتبہ میں کھانے سے منع  
فرمایا۔

اس باب میں حضرت ابوبکرؓ کے مولیٰ سعدؓ بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۱۸۲۔ مَا جَاءَ فِي اسْتِحْبَابِ التَّمْرِ

باب ۱۱۸۳۔ کھجور کی فضیلت۔

(۱) چراغ بجھانے کا حکم اس لیے ہے کہ چوہا جلتے ہوئے چراغ کو کھینچ لیتا ہے جس سے آگ لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ (مترجم)

۱۶۵۴۔ حدثنا محمد بن سهل بن عسكرو  
عبدالله بن عبدالرحمن قالا ثنا يحيى بن حسان ثنا  
سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن  
عائشة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْتٌ لَا  
تَمْرَ فِيهِ جِنَاعٌ أَهْلُهُ

اس باب میں ابورافع کی بیوی سلمیٰ سے بھی حدیث منقول ہے یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ ہم اسے ہشام بن عروہ کی روایت سے اسی سند سے جانتے ہیں۔

باب ۱۱۸۴۔ ماجاء في الْحَمْدِ عَلَى الطَّعَامِ إِذَا فَرِغَ مِنْهُ  
۱۶۵۵۔ حدثنا هناد و محمود بن غيلان قالا ثنا  
ابو اسامة عن زكريا بن ابي زائدة عن سعيد بن أبي  
بردة عن أنس بن مالك أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ  
أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا

باب ۱۱۸۳۔ کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا۔  
۱۶۵۵۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:  
اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو ایک لقمہ کھائے یا ایک  
گھونٹ پانی پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے۔

اس باب میں عقبہ بن عامر، ابوسعید، عائشہ، ابویوب اور ابو ہریرہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ کئی راوی اسے ذکر یا بن ابی زائدہ سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

باب ۱۱۸۵۔ کوڑھی کے ساتھ کھانا کھانا۔  
۱۶۵۶۔ حدثنا احمد بن سعيد الاشقر و ابراهيم  
ابن يعقوب قالا ثنا يونس بن محمد ثنا المفضل  
بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن  
المنكدر عن جابر أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ مَجْدُومٍ فَأَدْخَلَهُ مَعَهُ فِي الْقُصْعَةِ ثُمَّ  
قَالَ كُلْ بِسْمِ اللَّهِ ثِقَةً بِاللَّهِ وَتَوَكُّلاً عَلَيْهِ

باب ۱۱۸۵۔ کوڑھی کے ساتھ کھانا کھانا۔  
۱۶۵۶۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک کوڑھی کو  
ہاتھ سے پکڑا اور اپنے پیالے میں شریک طعام کر لیا پھر فرمایا: اللہ کے  
نام کے ساتھ اس پر بھروسہ اور توکل کر کے کھاؤ۔

یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے یونس بن محمد کی مفضل بن فضالہ سے نقل کردہ حدیث سے جانتے ہیں اور یہ مفضل بن فضالہ بصری ہیں۔ جب کہ مفضل بن فضالہ مصری دوسرے شخص ہیں وہ ان سے زیادہ ثقہ اور مشہور ہیں۔ شعبہ یہ حدیث حبیب بن شہید سے اور وہ ابن بریدہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے ایک کوڑھی کے مریض کا ہاتھ پکڑا امیرے نزدیک شعبہ کی حدیث اشبہ اور زیادہ صحیح ہے۔

باب ۱۱۸۶۔ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے۔  
۱۶۵۷۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد  
ثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صَلَّى  
۱۱۸۶۔ ماجاء أنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مَعَى وَوَاحِدٍ

۱۶۵۷۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کافر سات  
آنتوں میں اور مومن ایک آنت میں کھاتا ہے۔

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءَ  
وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں ابو ہریرہؓ، ابوسعیدؓ، ابو نصرہؓ، ابوموسیٰؓ، جہاجہ الغفاریؓ، میمونؓ اور عبد اللہ بن عمروؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔

۱۶۵۸- حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک کافر آنحضرت ﷺ کے ہاں مہمان بن کر آیا۔ آپ ﷺ نے اس کے لیے ایک بکری کا دودھ نکالنے کا حکم دیا پھر دوسری کا دودھ نکالنے کا حکم دیا۔ چنانچہ دودھ نکالا گیا اور وہ پی گیا پھر اور بکری کا دودھ نکالا گیا۔ وہ اسے بھی پی گیا۔ یہاں تک کہ اس نے سات بکریوں کا دودھ پی لیا۔ دوسرے روز وہ اسلام لے آیا۔ آپ ﷺ نے اس کے لیے دودھ دوہنے کا حکم دیا۔ اس نے اس بکری کا دودھ پی لیا۔ پھر آپ ﷺ نے دوسری بکری کا دودھ نکالنے کا حکم دیا لیکن وہ اسے پورا نہ پی سکا۔ اس موقع پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مؤمن ایک آنت میں پیتا ہے، اور کافر سات آنتوں میں۔

۱۶۵۸- حدثنا اسحق بن موسى ثنا معن ثنا مالك عن سهيل بن ابى صالح عن ابيه عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صافه ضيف كافر فامرته رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب ثم اخري فحلبت فشربه ثم اخري فشربه حتى شرب حلاب سبع شياة ثم اصبح من الغد فاسلم فامرته رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم امرته باخري فلم يستمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في معى واحد والكافر يشرب في سبعة امعاء

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

اس حدیث میں مراد قلت و کثرت ہے یعنی مسلمان کم اور کافر زیادہ حرص رکھتا ہے اور یہ اغلب و کثرت کے اعتبار سے ہے۔ یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اس مخصوص شخص کی حالت بیان کرنا مراد ہو۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ کم کھانے والے سے مراد مؤمن کامل ہو اور زیادہ کھانے والے سے مراد کافر ہو۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۱۱۸۷- ایک شخص کا کھانا دو شخصوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔  
۱۶۵۹- حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دو آدمیوں کا کھانا تین آدمیوں کے لیے اور تین کا چار آدمیوں کے لیے کافی ہے۔

باب ۱۱۸۷- مَا جَاءَ فِي طَعَامِ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْإِثْنَيْنِ  
۱۶۵۹- حدثنا الانصاري ثنا معن ثنا مالك ح و ثنا قتيبة عن مالك عن ابى الزناد عن الاعرج عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الإثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة

اس باب میں ابن عمرؓ اور جابرؓ بھی حدیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت جابرؓ، آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی کا کھانا دو کے لیے اور چار کا آٹھ کے لیے کافی ہے۔ محمد بن بشارؓ یہ حدیث عبد الرحمن بن مہدیؓ سے وہ سفیانؓ سے وہ اعمشؓ سے وہ ابوسفیانؓ سے وہ جابرؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۱۸۸- بڑی کھانے کے متعلق

باب ۱۱۸۸- مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الْحَرَادِ

۱۶۶۰۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی کہتے ہیں کہ ان سے منڈی کھانے کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ چھ غزوات میں شرکت کی۔ اس دوران ہم منڈی کھاتے رہے۔

۱۶۶۰۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا سَفِينٌ عَنْ أَبِي يَعْقُوبَ الْعَدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَسْتِ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ

سفیان بخینہ، ابو یعفر سے یہی حدیث نقل کرتے ہوئے چھ غزوات کا اور سفیان ثوری بھی ابو یعفر ہی سے نقل کرتے ہوئے سات غزوات بیان کرتے ہیں۔ اس باب میں ابن عمر اور جابر بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابو یعفر کا نام واقد ہے۔ انہیں وقدان بھی کہتے ہیں۔ جب کہ دوسرے ابو یعفر کا نام عبدالرحمن بن عبید بن نطاس ہے۔ محمود بن غیلان یہ حدیث ابو احمد اور مول سے وہ سفیان سے وہ ابو یعفر سے اور وہ ابن ابی اوفی سے نقل کرتے ہیں کہ ہم نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ سات جہاد کیے..... الخ شعبہ بھی یہی حدیث ابو یعفر سے وہ ابن ابی اوفی سے اس طرح نقل کرتے ہیں کہ ہم نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ کئی جہاد کیے..... الخ ہم سے یہ حدیث محمد بن بشار، محمد بن جعفر سے اور وہ شعبہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۱۸۹۔ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْحَلَالَةِ وَالْبَانِيهَا

۱۶۶۱۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ ثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْحَلَالَةِ وَالْبَانِيهَا

باب ۱۱۸۹۔ جلالہ کے دودھ اور گوشت کا حکم۔ (۱)  
۱۶۶۱۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جلالہ کے دودھ اور گوشت کے استعمال سے منع فرمایا۔

اس باب میں عبداللہ بن عباس بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ابن ابی نجیح بھی مجاہد سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے مرسل یہی حدیث نقل کرتے ہیں۔

۱۶۶۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مَعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُجْتَمَةِ وَعَنْ لَبَنِ الْحَلَالَةِ وَعَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ

۱۶۶۲۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایسے جانور کا گوشت کھانے سے منع فرمایا جسے باندھ کر تیروں کا نشانہ بنایا جائے۔ نیز جلالہ کا دودھ پینے اور مشک کے منہ سے پانی پینے سے بھی منع فرمایا۔ (یعنی اس سے منہ لگا کر)

محمد بن بشار بھی ابن ابی عدی سے وہ سعید بن ابی عمرو سے وہ قتادہ سے وہ عکرمہ سے وہ ابن عباس سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں عبداللہ بن عمرو سے بھی حدیث منقول ہے۔

باب ۱۱۹۰۔ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الدَّجَاجِ

۱۶۶۳۔ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَحْزَمٍ ثَنَا أَبُو قَتَيْبَةَ عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُهْدَمٍ بِالْحَرَمِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُوَ يَأْكُلُ دَجَاجَةً فَقَالَ أَدُنْ فَكُلْ

باب ۱۱۹۰۔ مرغی کھانا  
۱۶۶۳۔ زہدم جرمی کہتے ہیں کہ میں ابو موسی کے ہاں گیا تو وہ مرغی کھا رہے تھے۔ فرمایا: قریب ہو جاؤ اور کھاؤ میں نے رسول اللہ ﷺ کو مرغی کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔

(۱) جلالہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کی خوراک کا اکثر حصہ نجاسات ہوں۔ (مترجم)

قَاتِنِي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُهُ

یہ حدیث حسن ہے اور کئی سندوں سے انہی سے منقول ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ ابوالعوام کا نام عمران قطان ہے۔

۱۶۶۴۔ حَدَّثَنَا هِنَادٌ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سَفْيَانَ بْنِ أَبِي

۱۶۶۳۔ حضرت ابوموسیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو مرغی کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔

عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ زُهَيْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ لَحْمَ دَجَاجٍ

اس حدیث میں تفصیل ہے اور یہ صحیح ہے۔ اسے ایوب سختیانی قاسم سے وہ ابوقلابہ سے اور زہدیم جری سے نقل کرتے ہیں۔

بَاب ۱۱۹۱۔ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الْخُبَّازِي

باب ۱۱۹۱۔ سرخاب کا گوشت کھانا۔

۱۶۶۵۔ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْأَعْرَجِيُّ الْبَغْدَادِيُّ

۱۶۶۵۔ حضرت ابراہیم بن عمر بن سفینہ اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سرخاب کا گوشت کھایا۔

ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَفِينَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَكَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ خُبَّازِي

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ ابراہیم بن عمر بن سفینہ، عمر بن ابی ندیک سے روایت کرتے ہیں۔

أَكْلُ رِيءِ بَنِي عَمْرِو بْنِ سَفِينَةَ يَكْتَبُ فِيهِ

بَاب ۱۱۹۲۔ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الشُّوَاءِ

باب ۱۱۹۲۔ بھنا ہوا گوشت کھانا۔

۱۶۶۶۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّعْفَرَانِيُّ ثَنَا

۱۶۶۶۔ حضرت ام سلمہ نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں بھنا ہوا بازو پیش کیا۔ چنانچہ آپ ﷺ اسے کھانے کے بعد نماز کے لیے تشریف لے گئے اور وضو نہیں کیا۔

حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني محمد بن يوسف ان عطاء بن يسار اخبره ان ام سلمة اخبرته انها قرئت الي رسول الله صلى الله عليه وسلم جنباً مشوياً فاكل منه ثم قام الي الصلوة وما توضعاً

اس باب میں عبداللہ بن حارث مغیرہ اور ابورافع سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث اس سند سے صحیح غریب ہے۔

باب ۱۱۹۳۔ تکیہ لگا کر کھانے کی کراہت

بَاب ۱۱۹۳۔ فِي كَرَاهِيَةِ الْأَكْلِ مُتَكِيًا

۱۶۶۷۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا شَرِيْكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ

۱۶۶۷۔ حضرت ابوجحیفہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں تکیہ لگا کر نہیں کھاتا۔

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَسَلَّمَ أَمَا أَنَا فَلَا أَكُلُ مُتَكِيًا

اس باب میں علیؓ، عبداللہ بن عمرو اور عبداللہ بن عباس بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ہم اسے صرف علی ابن اقرہ

کی روایت سے جانتے ہیں زکریا بن ابی زائدہ، سفیان بن سعید اور کئی راوی یہ حدیث علی بن اقرہ سے نقل کرتے ہیں۔ شعبہ بھی اسے ثوری سے اور وہ علی ابن اقرہ سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۱۹۴۔ مَا جَاءَ فِي حُبِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُلُوءَ وَالْعَسَلَ

۱۶۶۸۔ حدثنا سلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان واحمد بن ابراهيم الدورقي قالوا ثنا ابو اسامة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عاتمة قالت كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحُلُوءَ وَالْعَسَلَ

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ علی بن مسہر بھی اسے ہشام بن عروہ سے نقل کرتے ہیں اور اس میں تفصیل ہے۔

باب ۱۱۹۵۔ شور بازیاہ کرنا۔

باب ۱۱۹۵۔ مَا جَاءَ فِي إِكْتَارِ الْمَرْقَةِ

۱۶۶۹۔ حدثنا محمد بن عمر بن علي المقلمي ثنا مسلم بن ابراهيم ثنا محمد بن فضال ثنا ابي عن علقمة بن عبد الله المزني عن ابيه قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشترى أحدكم لحماً فليكثر مرقته فإن لم يجد لحماً أصاب مرقته وهو أحد اللحمين

۱۶۶۹۔ حضرت عبداللہ مرنی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم میں سے کوئی گوشت خریدے تو اس میں شور بازیاہ کر لے۔ اس لیے کہ اگر اسے گوشت نہ ملے تو شور باہی مل جائے۔ اور وہ بھی ایک قسم کا گوشت ہی ہے۔

اس باب میں ابو ذر بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف محمد بن فضال کی روایت سے اسی سند سے جانتے ہیں۔ محمد بن فضال تعبیر بتانے والے ہیں۔ سلیمان بن حرب ان پر اعتراض کرتے ہیں اور علقمہ، بکر بن عبداللہ مرنی کے بھائی ہیں۔

۱۶۷۰۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص کسی نیک کام کو حقیر نہ سمجھے اور اگر کوئی نیک کام نظر نہ آئے تو اپنے بھائی سے ہی خندہ پیشانی سے مل لیا کرو۔ اور جب گوشت خریدو یا ہڈیا پکاؤ تو شور بہ زیادہ کر لیا کرو اور اس میں سے کچھ پڑوسی کے ہاں بھی بھیج دیا کرو۔

۱۶۷۰۔ حدثنا الحسين بن علي بن الاسود البغدادي ثنا عمرو بن محمد بن العنقري ثنا اسراييل عن صالح بن رستم ابي عامر الخزاز عن ابي عمران الجوني عن عبد الله بن الصاميت عن ابي ذر قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَلْقُ أَخَاهُ بِوَجْهِ طَلِيقٍ وَإِذَا اشترَيْتَ لَحْمًا أَوْ طَبَخْتَ قَدْرًا فَكثِرْ مَرَقَتَهُ وَأَعْرِفْ لِجَارِكَ مِنْهُ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شعبان سے ابو عمران جونی سے نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔

باب ۱۱۹۶۔ خرید کی فضیلت

باب ۱۱۹۶۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّيْرِيدِ

۱۶۷۱۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مردوں میں سے بہت سے لوگ کامل گزرے ہیں لیکن عورتوں میں سے مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ اور عائشہ کے علاوہ کوئی کامل نہیں۔ اور

۱۶۷۱۔ حدثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن ابي موسى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

كَمَلُ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرِيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَاسِيَةُ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ

عائشہ کی تمام عورتوں پر اس طرح فضیلت ہے۔ جیسے ثرید کی تمام کھانوں پر

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں عائشہ اور انسؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔

باب ۱۱۹۷۔ مَا جَاءَ فِي نَهْشِ اللَّحْمِ  
 ۱۶۷۲۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثنا سَفِيَانُ بْنُ عِيْنَةَ  
 عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمِيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ  
 قَالَ زَوَّجَنِي أَبِي فَدَعَا أَنَسًا فِيهِمْ صَفْوَانُ بْنُ أُمِيَّةَ  
 فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
 أَنْهَشُوا اللَّحْمَ نَهْشًا فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ

باب ۱۱۹۷۔ گوشت نوح کرکھانا  
 ۱۶۷۲۔ حضرت عبد اللہ بن حارثؓ کہتے ہیں کہ میرے والد نے میری شادی کے موقع پر دعوت کا اہتمام کیا جس میں صفوان بن امیہؓ بھی شامل تھے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ گوشت دانٹوں سے نوح کرکھایا کرو کیونکہ یہ اس طرح کھانے سے زیادہ لذیذ اور زود ہضم ہوتا ہے۔

اس باب میں عائشہ اور ابو ہریرہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں اس حدیث کو ہم صرف عبد الکریم معلم کی روایت سے جانتے ہیں۔ بعض علماء ان کے حافظے پر اعتراض کرتے ہیں جن میں ایوب سختیانی بھی شامل ہیں۔

باب ۱۱۹۸۔ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 مِنَ الرُّخْصَةِ فِي قَطْعِ اللَّحْمِ بِالسِّنِّ كَيْفَ

باب ۱۱۹۸۔ چھری سے گوشت کاٹ کرکھانے کی اجازت

۱۶۷۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ثنا  
 مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أُمِيَّةَ الضَّمْرِيِّ  
 عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْتَرَمِينَ  
 كَيْفَ شَاءَ فَآكَلُ مِنْهَا ثُمَّ مَضَى إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

۱۶۷۳۔ حضرت عمرو بن امیہ ضمریؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو بکری کے شانے سے چھری کے ساتھ گوشت کاٹ کرکھاتے ہوئے دیکھا۔ پھر آپ ﷺ وضو کیے بغیر نماز کے لیے تشریف لے گئے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں مغیرہ بن شعبہؓ سے بھی حدیث منقول ہے۔

توضیح: جن روایات میں چھری سے کانٹے کی ممانعت آئی ہے وہ احادیث بلا ضرورت چھری کے استعمال پر محمول ہیں۔ چنانچہ ضرورت کے وقت اس کی اجازت ہے۔ (مترجم)

باب ۱۱۹۹۔ مَا جَاءَ أَيُّ اللَّحْمِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى  
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۱۱۹۹۔ آنحضرت ﷺ کو کون سا گوشت پسند تھا۔

۱۶۷۴۔ حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثنا مُحَمَّدُ بْنُ  
 الْفَضِيلِ عَنْ أَبِي حِيَانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ  
 عَمْرٍو بْنِ حَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُنْبِيَ النَّبِيُّ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَمِّ فَذَفَعَ إِلَيْهِ الدِّرَاعُ وَكَانَ  
 يُعْجِبُهُ فَنَهَشَ مِنْهَا

۱۶۷۴۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں گوشت پیش کیا گیا تو آپ کو دسی کا گوشت دیا گیا۔ جو آپ ﷺ کو بہت پسند تھا۔ لہذا آپ ﷺ نے اسے دانٹوں سے نوح کرکھایا۔

اس باب میں ابن مسعود، عائشہ، عبداللہ بن جعفر اور ابو عبیدہ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو جہان کا نام یحییٰ بن سعید جہان یحییٰ اور ابو زرعد بن عمرو بن جریر کا نام ہرم ہے۔

۱۶۷۵۔ حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانی ثنا يحيى بن عباد ابو عباد ثنا فليح بن سليمان عن عبد الوهاب بن يحيى من ولد عباد بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن عائشة الخ قَالَتْ مَا كَانَ الذَّرَاعُ أَحَبَّ اللَّحْمِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ كَانَ لَا يَجِدُ اللَّحْمَ إِلَّا غَيًّا فَكَانَ يُعَجِّلُ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ أَعَجَلَهَا نَضْجًا

۱۶۷۵۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ کو دہی کا گوشت زیادہ پسند نہیں تھا بلکہ بات یہ تھی کہ گوشت ایک دن کے ناغے کے ساتھ ملا کر تاکھا لہذا آپ ﷺ اسے کھانے میں جلدی کرتے تھے اور یہی حصہ جلدی گل سکتا ہے۔

اس حدیث کو ہم صرف اسی روایت سے جانتے ہیں۔

باب ۱۲۰۰۔ مَا جَاءَ فِي الْخَلِّ

باب ۱۲۰۰۔ سر کے کے متعلق  
۱۶۷۶۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سر کہ کتنا بہترین سالن ہے۔

۱۶۷۶۔ حدثنا الحسن بن عرفة ثنا مبارك بن سعيد اخو سفيان بن سعيد عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعْمَ الْأَذْمُ الْخَلِّ

عبدہ بن عبداللہ خزاعی بصری بھی معاویہ سے وہ سفیان سے وہ محارب بن دثار سے اور وہ جابر سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سر کہ کتنا اچھا سالن ہے۔ اس باب میں عائشہ اور ام ہانی سے بھی احادیث منقول ہیں۔ اور یہ مبارک بن سعید کی حدیث سے زیادہ صحیح ہیں۔ محمد بن سہل، یحییٰ بن حسان سے وہ سلمان سے وہ ہشام سے وہ اپنے والد سے اور وہ عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سر کہ بہترین سالن ہے۔ عبداللہ بن عبدالرحمن بھی یحییٰ سے اور وہ سلیمان سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ لیکن اس میں راوی کو ”ادام“ یا ”ادم“ کے الفاظ میں شک ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے اور ہشام بن عروہ کی سند سے صرف سلیمان بن بلال ہی کی روایت سے معروف ہے۔

۱۶۷۷۔ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ میرے ہاں تشریف لائے اور پوچھا: کیا کچھ ہے؟ عرض کیا نہیں۔ البتہ چند سوکھی روٹی کے ٹکڑے اور سر کہ ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: لاؤ۔ وہ گھر جس میں سر کہ ہو، سالن کا محتاج نہیں۔

۱۶۷۷۔ حدثنا ابو كريب ثنا ابو بكر بن عياش عن ابي حمزة الثمالي عن الشعبي عن أم هانئ بنت أبي طالب قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقُلْتُ لَا إِلَّا كِسْرًا يَا بَسَّةً وَخَلٌّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرِيبُهُ فَمَا أَقْرَبَيْتُ مِنْ أَدَمٍ فِيهِ خَلٌّ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ہم اسے ام ہانی کی نقل کردہ حدیث سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ ان کا انتقال حضرت علیؑ کے بعد ہوا۔

باب ۱۲۰۱۔ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الْبَطِيخِ بِالرُّطْبِ  
 ۱۶۷۸۔ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَزَاعِيُّ ثَنَا  
 معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عَنْ  
 أَبِي عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ  
 يَأْكُلُ الْبَطِيخَ بِالرُّطْبِ  
 باب ۱۲۰۱۔ تربوز کے ساتھ تر کھجوریں کھانا  
 ۱۶۷۸۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ تربوز کھجوروں کے  
 ساتھ کھایا کرتے تھے۔

اس باب میں انسؓ سے بھی حدیث منقول ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ بعض راوی اسے ہشام بن عروہ سے وہ اپنے والد سے  
 اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ یعنی حضرت عائشہؓ کا ذکر نہیں کرتے۔ پھر یزید بن رومان بھی یہ حدیث حضرت عائشہؓ سے نقل  
 کرتے ہیں۔

باب ۱۶۰۲۔ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الْقِنَاءِ بِالرُّطْبِ  
 ۱۲۷۹۔ حَدَّثَنَا اسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ ثَنَا  
 ابراهيم بن سعد عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ  
 كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الْقِنَاءَ بِالرُّطْبِ  
 یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف ابراہیم بن سعد کی روایت سے جانتے ہیں۔  
 باب ۱۶۰۲۔ گلزی تر کھجوروں کے ساتھ کھانا  
 ۱۲۷۹۔ حضرت عبد اللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ گلزی  
 کھجوروں کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔

باب ۱۲۰۳۔ مَا جَاءَ فِي شُرْبِ آبِ الْإِبِلِ  
 ۱۶۸۰۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ثَنَا  
 عفان ثنا حماد بن سلمة ثنا حميد وثابت و قتادة  
 عَنْ أَنَسِ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ  
 فَاجْتَوَوْهَا فَبَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَقَالَ اشْرَبُوا مِنْ الْبَائِنِهَا وَأَبْوَالِهَا  
 یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ پھر یہی حدیث انسؓ سے بھی کئی سندوں سے منقول ہے ان سے ابو قلابہ نقل کرتے ہیں۔ سعید بن ابی  
 عروبہ بھی قتادہ سے اور وہ انسؓ سے نقل کرتے ہیں۔  
 باب ۱۲۰۳۔ اونٹوں کا پیشاب پینے کے متعلق  
 ۱۶۸۰۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ عرینہ کے کچھ لوگ مدینہ آئے تو  
 وہاں کی آب و ہوا ان لوگوں کو موافق نہ آئی۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے  
 انہیں صدقے کے اونٹوں میں بھیج دیا اور فرمایا: اونٹوں کا دودھ اور  
 پیشاب پیو۔ (۱)

باب ۱۲۰۴۔ الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ  
 ۱۶۸۱۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى ثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
 نمير ثنا قيس بن الربيع ح وثنا قتيبة ثنا عبد الكريم  
 الحرجاني عن قيس بن الربيع المعنى واحد عن  
 ابى هشام عن زاذان عن سلمان قال قرأت في  
 باب ۱۲۰۴۔ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد وضو کرنا۔  
 ۱۶۸۱۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں: میں نے تو رات میں پرسھا کہ  
 کھانے کے بعد ہاتھ منہ دھونا طعام میں برکت کا باعث ہے۔ پھر میں  
 نے آنحضرت ﷺ سے اس کا تذکرہ کیا تو فرمایا: کھانے سے پہلے اور  
 بعد میں ہاتھ منہ دھونے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔

(۱) اس مسئلے کی تفصیل باب نمبر ۵۵۔ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے کے پیشاب کا حکم میں گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر ۶۳۔ (مترجم)

التَّورَاتِ أَلَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوُضُوءَ بَعْدَهُ فَذَكَرْتُ  
ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَرَأْتُ  
فِي التَّوْرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوُضُوءَ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءَ بَعْدَهُ

اس باب میں انسؓ اور ابو ہریرہؓ سے بھی حدیثیں منقول ہیں۔ اس حدیث کو ہم صرف قیس بن ربیع کی روایت سے جانتے ہیں اور وہ ضعیف ہیں۔ ابو ہاشم زمامی کا نام یحییٰ بن دینار ہے۔

باب ۱۲۰۵۔ فِی تَرْكِ الْوُضُوءِ قَبْلَ الطَّعَامِ

باب ۱۲۰۵۔ کھانے سے پہلے وضو نہ کرنا۔

۱۶۸۲۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا اسْمَعِيلُ بْنُ  
ابِرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ  
الْحَلَاءِ فَقَرَّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالُوا أَلَا نَأْتِيكَ بِوُضُوءٍ  
قَالَ إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ

۱۶۸۲۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک مرتبہ بیت الحلاء سے نکلے تو کھانا حاضر کر دیا گیا۔ لوگوں نے عرض کیا: کیا آپ ﷺ کے لیے وضو کا پانی لائیں؟ فرمایا: مجھے وضو کا حکم صرف نماز کے وقت دیا گیا ہے۔

یہ حدیث حسن ہے۔ عمرو بن دینار سے سعید بن حورث سے اور وہ ابن عباسؓ سے نقل کرتے ہیں۔ علی بن مدینی، یحییٰ بن سعید سے نقل کرتے ہیں کہ سفیان ثوری کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے اور پیالے کے نیچے روٹی رکھنا مکروہ سمجھتے تھے۔

باب ۱۲۰۶۔ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الدُّبَاءِ

باب ۱۲۰۶۔ کدو کھانے کے متعلق۔

۱۶۸۳۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مَعَاوِيَةَ بْنِ  
صَالِحٍ عَنْ أَبِي طَالُوتَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ  
مَالِكٍ وَهُوَ يَأْكُلُ الْفَرْعَ وَهُوَ يَقُولُ يَا لَكَ شَجَرَةً مَا  
أَحْبَبْتُ إِلَيَّ لِحَبِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكَ

۱۶۸۳۔ ابو طلحہؓ کہتے ہیں کہ میں انس بن مالکؓ کے ہاں پہنچا تو وہ کدو کھاتے ہوئے فرما رہے تھے کہ اے درخت میں تجھ سے کس قدر محبت کرتا ہوں اس لیے کہ حضور اکرم ﷺ تجھے پسند فرماتے تھے۔

اس باب میں حکیم بن جابر بھی اپنے والد سے حدیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔

۱۶۸۴۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونِ الْمَكِّيُّ ثَنَا سَفِينُ  
بْنِ عَيْيَنَةَ قَالَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ مَيْمُونِ عَنْ اسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّبِعُ فِي الصُّحُفَةِ يُعْنِي الدُّبَاءَ  
فَلَا أَرَأَى أَحَبَّهُ

۱۶۸۴۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو پیٹ میں کدو تلاش کرتے ہوئے دیکھا جب سے میں بھی اسے پسند کرتا ہوں۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے حضرت انسؓ سے منقول ہے۔

باب ۱۲۰۷۔ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الزَّيْتِ

باب ۱۲۰۷۔ تیل کھانا

۱۶۸۵۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:  
زیتون کا تیل لگاؤ اور کھاؤ۔ یہ مبارک درخت سے ہے۔

۱۶۸۵۔ حدثنا يحيى بن موسى ثنا عبد الله بن ابي عن  
معمر بن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر بن  
الخطّاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
كلوا الزيت وادّهوا به فإنه من شجرة مباركة

اس حدیث کو ہم صرف عبدالرزاق کی معمر سے روایت سے جانتے ہیں۔ اور عبدالرزاق اسے بیان کرنے میں منضبط تھے۔ اور بھی وہ  
حضرت عمرؓ کے واسطے سے نقل کرتے اور بھی کہتے کہ میرے خیال میں حضرت عمرؓ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں اور بھی زید بن اسلم  
سے بحوالہ ان کے والد مرسا نقل کرتے۔ ابو داؤد یہ حدیث معمر سے وہ زید بن اسلم سے وہ اپنے والد سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے ان کی  
طرح حدیث نقل کرتے ہیں اور اس میں عمر کا ذکر نہیں کرتے۔

۱۶۸۶۔ حضرت ابواسید کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: زیتون  
کھاؤ اور اس کا تیل لگاؤ۔ یہ مبارک درخت سے ہے۔

۱۶۸۶۔ حدثنا محمود بن غيلان ثنا انا احمد  
الزبيري و ابو نعيم قال ثنا سفيان بن عبد الله بن  
عيسى عن رجل يقال له عطاء من اهل الشام عن  
ابى اسيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كُنُوا  
مِنَ الزَّيْتِ وَاذْهَبُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ

یہ حدیث اس سند سے غریب ہے ہم اسے صرف عبداللہ بن مسعود کی روایت سے جانتے ہیں۔

باب ۱۲۰۸۔ باندی یا غلام کے ساتھ کھانا کھانا۔

باب ۱۲۰۸۔ مَا جَاءَ فِي الْأَكْلِ مَعَ الْمَمْلُوكِ

۱۶۸۷۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے  
فرمایا: جب تم میں سے کسی کا خادم اس کے لیے کھانا تیار کرتے ہوئے  
گرمی اور دھواں برداشت کرے تو اسے چاہئے کہ خادم کا ہاتھ پکڑ کر  
اسے اپنے ساتھ بٹھالے۔ اور اگر وہ انکار کرے تو نغمہ لے اور اسے  
کھلانے۔

۱۶۸۷۔ حدثنا نصر بن علي ثنا سفيان بن  
اسماعيل بن ابي خالد عن ابيه عن ابي هريرة  
يُخْبِرُهُمْ بِذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
إِذَا كَفَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ حَرًّا وَذَحَانَهُ  
فِيأْخُذْ بِيَدِهِ فَلْيَقْبِضْهُ مَعَهُ فَإِنَّ أَبِي فَلْيَأْخُذْ لِنَفْسِهِ  
فَلْيَضْمَعْمُهُ أَيَّاهَا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو خالد کا نام سعد ہے اور یہ اسامیل سے والد ہیں۔

باب ۱۲۰۹۔ کھانا کھلانے کی فضیلت

باب ۱۲۰۹۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الطَّعَامِ

۱۶۸۸۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سلام کو  
رواج دو لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور کافروں کو قتل کرو اس طرح تم لوگ جنت  
کے وارث ہو جاؤ گے۔

۱۶۸۸۔ حدثنا يوسف بن حماد ثنا عثمان بن  
عبد الرحمن الجمحي عن محمد بن زياد عن ابي  
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضوا  
السلام وأطعموا الضعفاء وأصروا الهام تؤرثوا الجنان

اس باب میں عبداللہ بن عمر، ابن عمر، انس، عبداللہ بن سلام، عبدالرحمن بن عائش اور شریح بن بانہ بھی اپنے والد سے احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث ابو ہریرہ کی سند سے حسن صحیح غریب ہے۔

۱۶۸۹۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رحمن کی عبادت کرو۔ اور سام کو رواج دو تاکہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔

۱۶۸۹۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ ثَنَا ابُو الْاِحْوَصِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْبُدُوا الرَّحْمَنَ وَأَطْعَمُوا الطَّعَامَ وَأَقْسُوا السَّلَامَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ  
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۱۰۔ رات کے کھانے کی فضیلت

۱۶۸۹۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رات کا کھانا ضرور کھایا کرو اگرچہ ایک منھی (انی) کھجور ہی سہی۔ اس لیے کہ رات کا کھانا ترک کرنا بڑھاپے کا موجب ہے۔

باب ۱۲۱۰۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْعِشَاءِ

۱۶۸۹۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ مُوسَى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى الْكُوفِيُّ ثَنَا عَنَسَةُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عِلَاقٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَشُّوا وَلَوْ بِكَفِّ مِنْ حَشْفٍ فَإِنَّ تَرَكَ الْعِشَاءَ مَهْرَمَةٌ

یہ حدیث منکر ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ اور عنبرہ ضعیف اور عبدالملک بن علق مجہول ہیں۔

باب ۱۲۱۱۔ کھانے کے وقت بسم اللہ کہنا۔

۱۶۹۰۔ حضرت عمرو بن ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول خدا ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ کے سامنے کھانا رکھا، وہ اٹھا آپ ﷺ نے فرمایا: بیٹے قریب ہو جاؤ۔ بسم اللہ پڑھو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آپ سے جاؤ۔

باب ۱۲۱۱۔ مَا جَاءَ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ

۱۶۹۰۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْهَاشِمِيُّ ثَنَا عَبْدِ الْعَالِيِّ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ طَعَامٌ قَالَ اذْءُ يَا بَنِيَّ فَتَسَمَّ اللَّهُ وَكُلْ بيمينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ

ہشام بن عروہ کے ساتھی اس حدیث کو نقل کرنے میں اختلاف کرتے ہیں اور ابو ہریرہ سعدی کا نام بڑید بن عبید سے ہے۔

۱۶۹۲۔ حضرت کراش بن ذویب فرماتے ہیں کہ مجھے نومہ بن عبید نے اپنی زکوٰۃ کا مال دیکر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں بھیجا، اب میں مدینہ پہنچا تو دیکھا کہ آنحضرت ﷺ مہاجرین اور انصار کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر رسول خدا ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑا اور ام سلمہ کے ہاں لے گئے اور فرمایا: کھانے کیلئے کچھ سے اپنا ٹیچہ ایک زاریاں لایا گیا جس میں بہت سا ترید اور بویاں تھیں ہم نے کھانا شروع کر دیا اور میں

۱۶۹۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي السُّوَيْبِ ابُو الْهَدَيْدِ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عِكْرَاتٍ عَنْ أَبِيهِ عِكْرَاتٍ بْنِ ذُوَيْبٍ قَالَ بَعَثَنِي بَنُو مُرَّةِ ابْنُ عُيَيْدٍ بِصَدَقَاتِ أَمْوَالِهِمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا بَيْنَ

اپنا ہاتھ کناروں میں مارنے لگا۔ جب کہ آپ ﷺ اپنے سامنے سے کھا رہے تھے۔ آپ ﷺ نے اپنے بائیں ہاتھ سے میرا دایاں ہاتھ پکڑا اور فرمایا: عکراش ایک جگہ سے کھاؤ پورا ایک ہی قسم کا کھانا ہے۔ پھر ایک ٹرے لائی گئی جس میں کھجور یا فرمایا تر کھجوروں کی کئی اقسام تھیں (عبید اللہ کو شک ہے) میں نے اپنے سامنے سے کھانا شروع کر دیا جب کہ آنحضرت ﷺ کا ہاتھ مبارک ٹرے میں گھومنے لگا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: عکراش جہاں سے جی چاہے کھاؤ اس لیے کہ یہ ایک قسم کی نہیں ہیں۔ پھر پانی لایا گیا اور آپ ﷺ نے اس سے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے۔ پھر گیلے ہاتھ چہرہ مبارک، بازوؤں اور سر پر مل لئے اور فرمایا: عکراش جو چیز آگ پر پکی ہوئی ہو اس سے اس طرح وضو کیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں ایک قصہ ہے

المُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَأَنْطَلَقَ بِي إِلَى بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ هَلْ مِنْ طَعَامٍ فَأَتَيْنَا بِحَفْنَةٍ كَثِيرَةٍ الثَّرِيدِ وَالْوَدْرِ فَأَقْبَلْنَا نَأْكُلُ مِنْهَا فَحَبَطَتْ بِيَدِي فِي نَوَاحِيهَا وَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَقَبَضَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى يَدِي الْيُمْنَى ثُمَّ قَالَ يَا عِكْرَاشُ كُلْ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَاحِدٌ ثُمَّ أَتَيْنَا بِطَبَقٍ فِيهِ أَلْوَانُ التَّمْرِ وَالرُّطَبِ شَكَّ عُبَيْدُ اللَّهِ فَجَعَلَتْ أَكُلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ وَحَالَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّبَقِ قَالَ يَا عِكْرَاشُ كُلْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ فَإِنَّهُ غَيْرُ لَوْنٍ وَاحِدٍ ثُمَّ أَتَيْنَا بِمَاءٍ فَغَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ وَمَسَحَ بِبَلَلٍ كَفَيْهِ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ وَقَالَ يَا عِكْرَاشُ هَذَا الْوَضُوءُ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ

۱۶۹۳۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم میں سے کوئی کھانے لگے تو بسم اللہ پڑھے اور اگر بھول جائے تو کہے: ”بسم اللہ فی اولہ و آخرہ“۔ اسی سند سے حضرت عائشہؓ سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک مرتبہ اپنے چھ صحابہؓ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ ایک دیہاتی آیا۔ اور پورا کھانا دو لقموں میں کھا گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر اس نے بسم اللہ پڑھی ہوتی تو یہ کھانا تم سب کے لیے کافی تھا۔

۱۶۹۳۔ حدثنا ابو بکر محمد بن ابان ثنا وكيع ثنا هشام الدستوائي عن بدیل بن ميسرة العُقَيْلِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَمِيرٍ عَنْ أُمِّ كَلْثُومٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلْتَ أَحَدَكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فَإِنْ نَسِيَ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ وَبِهَذَا السَّنَادِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ طَعَامًا فِي سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَكَلَ بِلِقْمَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهُ لَوْ سَمَى لَكَفَّاهُكُمْ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۱۲۔ ہاتھ میں چکنائی کی بو ہونے کے باوجود سوجانا۔  
۱۶۹۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: شیطان بہت حساس اور جلد ادراک کرنے والا ہے۔ لہذا اپنی جانوں کو اس سے

باب ۱۲۱۲۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْبَيْتُونَةِ وَفِي يَدِهِ رِيحٌ غَمِيرٌ  
۱۶۹۴۔ حدثنا احمد بن منيع ثنا يعقوب بن الوليد المديني عن ابن ابى ذئب عن المقبري عن أبي

بچا کر رکھا کرو۔ اور جو شخص ہاتھ سے چکنائی کی بوزائل کیے بغیر سو گیا اور پھر اسے کچھ ہو گیا تو اپنے نفس کے علاوہ کسی چیز کو ملامت نہ کرے۔

هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ حَسَّاسٌ لِحَاسٍ فَاحْذَرُوهُ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحٌ غَمْرٍ فَاصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ

یہ حدیث اس سند سے حسن ہے اور اسے سہیل بن ابی صالح اپنے والد سے وہ ابو ہریرہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ محمد بن اسحاق، ابو بکر بخدادی سے وہ محمد بن جعفر سے وہ منصور بن ابی اسود سے وہ اعمش سے وہ ابو صالح سے اور وہ ابو ہریرہؓ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ جو شخص چکنائی لگے ہاتھوں کے ساتھ سو جائے وہ اپنے نفس ہی کو ملامت کرے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے اعمش کی احادیث میں سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

کھانے کے ابواب ختم ہو گئے۔

### پینے کی اشیاء کے ابواب

### أَبْوَابُ الْأَشْرَبَةِ

باب ۱۲۱۳۔ شراب پینے والے کے متعلق

باب ۱۲۱۳۔ مَا جَاءَ فِي شَرَابِ الْخَمْرِ

۱۶۹۵۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے لہذا جو شخص دنیا میں شراب پئے گا اور اس کا عادی ہونے کی حالت میں مرے گا وہ آخرت میں شراب نہیں پی سکے گا۔ (یعنی جنت کی)

۱۶۹۵۔ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ابْنُ حَرَسَةَ أَبُو زَكَرِيَّا ثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي يُوْبَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ

اس باب میں ابو ہریرہؓ، ابوسعیدؓ، عبداللہ بن عمرؓ، عبادہؓ، ابومالکؓ اشعری اور ابن عباسؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابن عمرؓ ہی سے اسی سند سے کئی طرح منقول ہے۔ مالک بن انس اسے نافع سے اور وہ ابن عمرؓ سے موقوفاً نقل کرتے ہیں۔

۱۶۹۶۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے شراب پی اللہ تعالیٰ اس کی چالیس دن تک نماز قبول نہیں کریں گے۔ پھر اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے اور پھر اگر وہ دوبارہ پئے گا تو پھر چالیس روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ پھر اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے۔ اسی طرح آپ ﷺ نے چار مرتبہ فرمایا: اور چوتھی مرتبہ فرمایا کہ اب اگر وہ توبہ بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں فرمائیں گے اور اسے کچھڑکی نہر سے پلائیں گے۔ لوگوں نے کہا: ابو عبد الرحمنؓ (عبداللہ بن عمر) کچھڑکی نہر کیا ہے؟ فرمایا: دوزخیوں کی پیپ۔

۱۶۹۶۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَمِيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ لَمْ يُتَبَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَقَاهُ مِنْ

نَهْرُ الْحَمَانِ قَبْلَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَا نَهْرُ النَّحْبَانِ  
قَالَ نَهْرٌ مِثْلُ صَدِيدِ أَهْلِ النَّارِ

یہ حدیث حسن ہے۔ ابن عباسؓ اور ابن عمرؓ دونوں آنحضرت ﷺ سے اسی کے مثل احادیث بیان کرتے ہیں۔

باب ۱۲۱۳۔ ہرنشہ اور چیز حرام ہے۔

۱۶۹۷۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے شہد کی شراب کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا: ہر وہ پینے والی چیز جو نشہ کرتی ہے وہ حرام ہے۔

باب ۱۲۱۴۔ مَا جَاءَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ  
۱۶۹۸۔ حدیثنا اسحاق بن موسیٰ الانصاری ثنا  
معن ثنا مالک بن انس عن ابن شہاب عن ابی  
سلمة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم  
سئل عن البتبع فقال كل شراب اسكر فهو حرام  
۱۶۹۸۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو  
فرماتے ہوئے سنا کہ ہرنشہ اور چیز حرام ہے۔

۱۶۹۷۔ حدیثنا اسحاق بن موسیٰ الانصاری ثنا  
معن ثنا مالک بن انس عن ابن شہاب عن ابی  
سلمة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم  
سئل عن البتبع فقال كل شراب اسكر فهو حرام  
۱۶۹۸۔ حدیثنا عبید بن اسباط بن محمد القرشی  
وابو سعید الاشج قالانا ثنا عبد الله بن ادریس عن  
محمد بن عمرو عن ابی سلمة عن ابن عمر قال  
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل  
مسكر حرام

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں عمرؓ، علیؓ، ابن مسعودؓ، ابوسعیدؓ، ابوموسیٰؓ، شیخ عسریؓ، دیلمؓ، عائشہؓ، میمونہؓ، ابن عباسؓ، قیس بن سعدؓ، نعمان بن بشیرؓ، معاویہؓ، عبداللہ بن مغفلؓ، ام سلمہؓ، بریدہؓ، ابو ہریرہؓ، وائل بن حجرؓ اور قرہ مزنیؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابوسلمہؓ سے بھی ابواسطو ابو ہریرہؓ اسی طرح کی حدیث مروفاً منقول ہے۔

باب ۱۲۱۵۔ مَا جَاءَ مَا اسْكُرَ كَثِيرَةً فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ  
۱۶۹۹۔ جس چیز کی بہت سی مقدار نشہ دے اس کا تھوڑا سا استعمال  
بھی حرام ہے۔

باب ۱۲۱۶۔ حدیثنا قتیبة ثنا اسمعيل بن جعفر ح و ثنا  
علی بن حجر ثنا اسمعيل بن جعفر عن داؤد بن  
بکر بن ابی الفرات عن محمد بن المنکدر عن  
جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم  
قال ما اسكر كثيره فقليله حرام

۱۶۹۹۔ جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ دیتی ہے اس کی تھوڑی سی مقدار استعمال کرنا  
بھی حرام ہے۔

اس باب میں سعدؓ، عائشہؓ، عبداللہ بن عمروؓ، ابن عمرؓ اور نوات بن جبیرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث جابرؓ کی روایت سے

حسن غریب ہے۔

۱۷۰۰۔ حدیثنا محمد بن بشار ثنا عبد الاعلی بن  
عبد الاعلی عن هشام بن حسان عن مهدی بن

۱۷۰۰۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہرنشہ اور  
چیز حرام ہے خواہ ”فرق“ (ایک پیمانہ ہے اس سے مراد زیادہ پینے پر نشہ

میسون ح وثنا عبد اللہ بن معاویہ الجمحی حدثنا  
مهدی بن میمون المعنی واحد عن ابی عثمان  
الاصباری عن القاسم بن محمد عن غابسة قال  
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر  
حرام ما أسكر الفرق منه فملا الكف منه حرام

عبداللہ یا محمد میں سے کسی نے اپنی حدیث میں گھونٹ کے الفاظ نقل کیے ہیں یعنی ایک گھونٹ پینا بھی حرام ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ اسے لیث بن ابی سلیم اور ربیع بن صبیح، ابو عثمان انصاری سے مہدی کی حدیث کے مثل نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۲۱۶۔ مَا جَاءَ فِي نَبِيذِ الْجَرِّ

۱۷۰۱۔ حدثنا احمد بن منيع ثنا ابن عليه ويزيد  
بن هارون قال ثنا سليمان التيمي عن طاوس ان  
رجلا أتى ابن عمر فقال نهى رسول الله صلى الله  
عليه وسلم عن نبيذ الجر فقال نعم فقال طاوس  
والله اني سمعته منه

اس باب میں ابن ابی اوفیٰ، سعید، سوید، عائشہ، ابن زبیر اور ابن عباسؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔

باب ۱۲۱۷۔ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَاءِ وَالنَّقِيرِ  
وَالْحَتَمِ

۱۷۰۲۔ حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى ثنا  
ابوداؤد الطيالسي ثنا شعبة عن عمرو بن مرقال  
سمعت زاذان يقول سألت ابن عمر عن ما نهى  
عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوعية  
وأخبرناه بلغيتكم وفسره لنا بلغيتنا قال نهى رسول  
الله صلى الله عليه وسلم عن الحتمة وهي الجرّة  
ونهى عن الدباء وهي القرعة ونهى عن النقير وهي  
أصل النحل ينقر نقرًا أو ينسج نسجًا ونهى عن  
المزفت وهو المقير وأمر أن ينتبد في الأسقية

۱۷۰۲۔ حضرت عمرو بن مرہ، زاذان سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے  
ابن عمرؓ سے ان برتنوں کے متعلق پوچھا جن کے استعمال سے آنحضرت  
ﷺ نے منع فرمایا۔ اور کہا کہ ہمیں اپنی زبان میں ان برتنوں کے متعلق  
بتا کر ہماری زبان میں ان کی تفسیر کیجئے۔ ابن عمرؓ نے فرمایا: رسول اللہ  
ﷺ نے ”حتمہ“ یعنی مکے، ”دباء“ یعنی کدو کے تو بے، ”نقیر“ یعنی  
(لکڑی سے بنے ہوئے) دراصل جو گھوڑ کی جڑ سے بنا ہوا ہوتا ہے  
اسے اندر سے خراہ کر لیا جاتا ہے یا فرمایا اس کا چھلکا اتار کر اسے صاف  
کر لیا جاتا ہے اور ”مزفت“ یعنی لاکھی کے برتن میں نبیذ بنانے سے منع  
فرمایا اور حکم دیا کہ مشکوں میں نبیذ بنائی جائے۔

(۱) نبیذ شربت کی ایک قسم ہے جو گھوڑ یا انگوڑ کو پانی میں بھلو کر کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ اس میں بگلی سی تیزی اور تغیر پیدا ہو جائے۔ لیکن اگر اتنا  
ہو جائے کہ نشہ دینے لگے تو وہ حرام ہے۔ (مترجم)

اس باب میں عمرؓ علیؓ، ابن عباسؓ، ابوسعیدؓ، ابو ہریرہؓ، عبدالرحمن بن بکرؓ، انسؓ، عائشہؓ، عمران بن حصینؓ، عائد بن عمروؓ، حکم غفاریؓ اور میمونہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

توضیح: ان برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کی جلد سڑ جاتی ہے اور اس زمانے میں یہ برتن خاص طور پر شراب بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ اور مشکوں میں نبیذ بنانے کی اجازت کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس میں نشہ پیدا ہوگا تو مشک پھٹ جائے گی۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۱۲۱۸۔ مَا جَاءَ فِي الرَّخِصَةِ أَنْ يُتَّبَعَ فِي الطَّرُوفِ

۱۷۰۳۔ حدثنا محمد بن بشارو الحسن بن علي و محمود بن غيلان قالوا ثنا ابو عاصم ثنا سفيان عن علقمه بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن الطرُوف وإن ظرفاً لا يحل شيباً ولا يحرمه وكلُّ مسكرٍ حرامٌ

۱۷۰۳۔ حضرت بريدةؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے تمہیں (چند) برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع کیا تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ برتن کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کرتا۔ لہذا ہر وہ چیز ہی حرام ہے جس میں نشہ ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۷۰۴۔ حدثنا محمود بن غيلان ثنا ابو داود الحفري عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطرُوف فشكك إليه الأنصار فقالوا ليس لنا وعاء قال فلا إذا

۱۷۰۴۔ حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے (مخصوص) برتنوں (میں نبیذ بنانے) سے منع فرمایا۔ چنانچہ انصار نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے پاس اور برتن نہیں ہیں۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: تو پھر میں اس سے منع نہیں کرتا۔

اس باب میں ابن مسعودؓ، ابو ہریرہؓ، ابوسعیدؓ اور عبداللہ بن عمرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔  
توضیح: ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے باب میں چند برتنوں میں نبیذ بنانے کی ممانعت ان احادیث سے منسوخ ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۱۲۱۹۔ مَا جَاءَ فِي الْإِنْتِبَافِي السِّقَاءِ

۱۷۰۵۔ حدثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري عن أمه عن عائشة قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاءٍ يوكأ أعلاه له عزلاء نبيذُهُ غدوةً ويشربه عشاءً ونبيذُهُ عشاءً ويشربه غدوةً

۱۲۱۹۔ مشک میں نبیذ بنانا۔

۱۷۰۵۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ہم آنحضرت ﷺ کے لیے مشک میں نبیذ بنایا کرتے تھے۔ اور اس کا اوپر کا منہ باندھ دیتے تھے جب کہ اس کے نیچے بھی ایک چھوٹا منہ تھا۔ ہم اگر صبح بھگوتے تو آپ ﷺ کو بی لیتے اور اگر شام کو بھگوتی جاتی تو صبح پیا کرتے تھے۔

اس باب میں جاہل ابوسعیدؓ ابن عباسؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے یونس بن عبدیمکی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں پھر یہ حدیث حضرت عائشہؓ سے اور سند سے بھی منقول ہے۔

باب ۱۲۲۰۔ مَا جَاءَ فِي الْحُبُوبِ الَّتِي يَتَّخِذُ مِنْهَا الْخَمْرُ  
 ۱۷۰۶۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَوْسُفَ  
 ثنا اسرئیل ثنا ابراهیم بن مهاجر عن عامر الشعبي عن  
 النعمان بن بشير قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرًا وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا وَمِنَ  
 التمر خَمْرًا وَمِنَ الزَّبِيبِ خَمْرًا وَمِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا  
 باب ۱۲۲۰۔ ان اشیاء کے متعلق جن سے شراب بنتی تھی۔  
 ۱۷۰۶۔ حضرت نعمان بن بشیرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:  
 گیہوں، جو، کھجور، انگور اور شہد سب سے شراب بنتی ہے۔

اس باب میں ابو ہریرہؓ سے بھی حدیث منقول ہے۔ یہ حدیث غریب ہے اسے حسن بن علیؓ خلال، یحییٰ بن آدم سے اور وہ اسرئیل سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ ابو حیانؓ بھی یہ حدیث شععی سے وہ ابن عمرؓ سے اور وہ عمرؓ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: ”بے شک گیہوں سے شراب بنتی ہے“۔ پھر یہ حدیث ذکر کی۔ اسے ہم سے احمد بن منیع، عبد اللہ بن ادريس کے حوالے سے وہ ابو حیانؓ بھی سے وہ شععی سے وہ ابن عمرؓ سے اور وہ عمر بن خطابؓ سے نقل کرتے ہیں کہ شراب گیہوں سے ہی ہوتی ہے اور یہ ابراہیمؓ کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ علی بن مدینیؓ کہتے ہیں کہ ابراہیم بن مهاجر یحییٰ بن سعید کے نزدیک قوی نہیں۔

۱۷۰۷۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
 الْمُبَارَكِ ثنا الْأَوْزَاعِيُّ وَعِكْرَمَةُ بْنُ عَمَارٍ قَالَا ثنا  
 أَبُو كَثِيرٍ السُّحْمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاهُ رَوَى يَقُولُ  
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَمْرُ مِنْ  
 هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعَنَبَةِ  
 ۱۷۰۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: شراب  
 ان دو درختوں سے ہے یعنی کھجور اور انگور۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو کثیرؓ بھی غمری ہیں اور ان کا نام یزید بن عبدالرحمن بن غفیلہ ہے۔

باب ۱۲۲۱۔ مَا جَاءَ فِي حَلِيبِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ  
 ۱۷۰۸۔ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ  
 أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُتَبَدَّ الْبُسْرُ وَالرُّطْبُ جَمِيعًا  
 یہ حدیث صحیح ہے۔  
 باب ۱۲۲۱۔ گدرا اور تر کھجور کو ملا کر نبیذ بنانا۔  
 ۱۷۰۸۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کھجور  
 اور کھجوروں کو ملا کر نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔

۱۷۰۹۔ حَدَّثَنَا سَفِيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ ثنا جرير عن  
 سليمان التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن  
 نبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ أَنْ  
 ۱۷۰۹۔ حضرت ابوسعیدؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کھجور  
 اور کھجور کو ملا کر، کھجور اور انگور کو ملا کر نبیذ بنانے اور منکوں میں نبیذ تیار  
 کرنے سے منع فرمایا۔

يُخَلَطُ بَيْنَهُمَا وَنَهَى عَنِ الزَّبِيبِ وَالْتَمَرِ أَنْ يُخَلَطَ  
بَيْنَهُمَا وَنَهَى عَنِ الْجِرَارِ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهَا

اس باب میں انسؓ، جابرؓ، ابو قتادہؓ، ابن عباسؓ، ام سلمہؓ اور معبد بن نعبؓ سے بھی حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔ معبد اپنی والدہ سے نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۲۲۔ مَا جَاءَ فِي كِبَاهِيَةِ الشُّرْبِ فِي انْبِيَةِ  
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

۱۷۱۰۔ حَدَّثَنَا نُدَارٌ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ  
عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ أَنَّ  
حَدِيثَهُ اسْتَسْفَى فَاتَاهُ انْسَاءٌ بِلَانَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ  
فَالَ إِنِّي كُنْتُ قَدْ نَهَيْتُهُ فَأَبَى أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَّا رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي انْبِيَةِ  
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَابْسِ الْجَرِيرِ وَالذَّبِيحِ وَقَالَ هِيَ  
لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ

۱۷۱۰۔ حضرت حکم کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی لیلیٰ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ حدیفہؓ نے پانی مانگا تو ایک شخص چاندی کے برتن میں پانی لے کر حاضر ہوا۔ انہوں نے اسے پھینک دیا اور فرمایا: میں نے اس سے منع کیا تھا لیکن یہ باز نہیں آیا۔ جب کہ رسول اللہ ﷺ نے سونے اور چاندی کے برتنوں میں پینے سے منع فرمایا اور اسی طرح رشیم اور دیاج کا لباس پینے سے بھی منع کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تم لوگوں کیلئے آخرت میں ہے اور ان لوگوں کے لیے دنیا میں۔

اس باب میں ام سلمہؓ، براءؓ اور عائشہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۲۳۔ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الشُّرْبِ فَايْمًا

۱۷۱۱۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدَى  
عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ فَايْمًا فَقِيلَ  
الْأَكْلُ قَالَ ذَلِكَ أَشَدُّ

۱۷۱۱۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا تو پوچھا گیا کہ کھانے کا کیا حکم ہے؟ فرمایا: وہ تو اس سے بھی بُرا ہے۔

یہ حدیث صحیح ہے۔

۱۷۱۲۔ حَدَّثَنَا حَمِيدُ بْنُ مَسْعُودَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ

الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ ابْنِ مَسْلَمٍ  
الْحَدَّثَنِي عَنِ الْحَارِثِ وَابْنِ الْعَلَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فَايْمًا

اس باب میں ابوسعیدؓ، ابو ہریرہؓ اور انسؓ سے بھی حدیثیں منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اور اسے کئی راوی سعید سے وہ قتادہ سے وہ ابوسعید سے وہ جارود سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: کسی مسلمان کی گری ہوئی چیز اٹھالینا دوزخ میں جلتے کا سبب ہے۔ (بشرطیکہ اسے پہنچانے کی نیت نہ ہو) جارود بن معطلی کو ابن علاء بھی کہتے ہیں۔ صحیح ابن معطلی ہی ہے۔

باب ۱۲۲۴۔ مَا جَاءَ فِي الرُّغْصَةِ فِي الشُّرْبِ قَائِمًا  
 ۱۷۱۳۔ حدثنا ابو السائب سلم بن جنادة بن سلم  
 الكوفي ثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر  
 عن نافع عن ابن عمر قال كنا نأكل على عهد  
 رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي  
 ونشرب ونحن قيام

باب ۱۲۲۳۔ کھڑے ہو کر پینے کی اجازت  
 ۱۷۱۳۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے زمانے  
 میں چلتے پھرتے اور کھڑے کھایا پیا کرتے تھے۔

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے یعنی عبيد الله بن عمر کی نافع سے اور ان کی ابن عمر کی روایت سے عمران بن حدير بھی یہ حدیث ابو بزری  
 سے اور انہوں نے ابن عمر سے نقل کی ہے۔ اور ابو بزری کا نام یزید بن عطار ہے۔

۱۷۱۴۔ حدثنا احمد بن منيع ثنا هشيم ثنا عاصم  
 الاحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس ان النبي  
 صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم  
 اس باب میں علیؑ، سعدؓ، عبد اللہ بن عمرؓ اور عائشہؓ بھی احادیث نقل کرتی ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۷۱۵۔ حدثنا فتية ثنا محمد بن جعفر عن  
 حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن  
 جده قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم  
 يشرب قائما وقاعدا  
 یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

توضیح: ان احادیث میں سے بعض حضرات ممانعت والی احادیث کو کھڑے ہو کر پینے کی کراہت تہذیبی پر محمول کرتے ہیں۔ اور عدم  
 ممانعت والی احادیث کو اس کے جواز پر ملامت قاری فرماتے ہیں کہ ان میں اس طرح بھی توفیق ممکن ہے کہ کھڑے ہو کر پینا حرام کے پانی  
 کے ساتھ یا وضو سے بچے ہوئے پانی کے ساتھ مخصوص کر دیا جائے اور اس کے علاوہ بیٹھ کر پیا جائے۔ واللہ اعلم۔ (مترجم)

باب ۱۲۲۵۔ برتن میں پانی پیتے وقت سانس لینا۔  
 ۱۷۱۶۔ حدثنا فتية ويوسف بن حماد فالان ثنا  
 عبدالوارث بن سعيد عن أبي عصام عن انس بن  
 مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس  
 في الإناء لئلا تأو يقول هو أمرا وأروى

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہشام دستوالیٰ ا سے ابو عصام سے اور وہ انس سے نقل کرتے ہیں۔ عزرو بن ثابت بھی ہشام سے اور وہ انس  
 سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ پانی برتن میں پیتے وقت تین مرتبہ سانس لیا کرتے تھے۔ ہندار یہ حدیث عبد الرحمن بن مہدی سے وہ عزروہ سے  
 اور وہ ہشام بن انس سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ برتن میں پانی پیتے وقت تین مرتبہ سانس لیا کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

۱۷۱۵۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے  
 نقل کرتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر  
 پینے ہوئے دیکھا۔

۱۷۱۶۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ پانی پیتے  
 ہوئے تین مرتبہ سانس پیتے اور فرماتے یہ زیادہ میر کرنے والا اور  
 خوشگوار ہوتا ہے۔

۱۷۱۷۔ حدثنا ابو كريب ثنا وكيع عن يزيد بن سنان  
الجزري عن ابن العطاء بن ابي رباح عن ابيه عن ابن  
عباس قال قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
لَا تَشْرَبُوا وَاحِدًا كَشْرَبِ الْبَعِيرِ وَلَكِنْ اشْرَبُوا مَتْنِي  
وَتَلَاثَ وَسَمُوا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ وَاحْمَلُوا إِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ

یہ حدیث غریب اور یزید بن سنان جزری کی کنیت ابو فروہ راوی ہے۔

باب ۱۲۲۶۔ مَا جَاءَ فِي الشَّرْبِ بِنَفْسَيْنِ

۱۷۱۸۔ حدثنا علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس  
عن رشدين بن كريب عن ابيه عن ابن عباس ان النبي  
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا شَرِبَ يَتَنَفَّسُ مَرَّتَيْنِ

باب ۱۲۲۶۔ دو سانسوں میں پانی پینا  
۱۷۱۸۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب پانی پیتے  
تو دو مرتبہ سانس لیتے۔

یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف رشدین بن کربیب کی روایت سے جانتے ہیں امام ترمذی کہتے ہیں میں نے عبد اللہ بن عبد الرحمن سے رشدین بن کربیب کے متعلق پوچھا۔ میں نے کہا یہ زیادہ قوی ہیں یا محمد بن کربیب۔ انہوں نے فرمایا: دونوں قریب قریب ہیں لیکن رشدین میرے نزدیک زیادہ راجح ہیں۔ پھر میں نے امام بخاری سے پوچھا تو انہوں نے محمد کو رشدین پر ترجیح دی۔ جب کہ میرے نزدیک ابو محمد عبد اللہ بن عبد الرحمن کا قول زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ رشدین بڑے ہیں اور ابن عباس سے ملاقات کر چکے ہیں۔ مزید یہ کہ یہ دونوں بھائی ہیں اور ان کی منکر احادیث بھی ہیں۔

باب ۱۲۲۷۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ

۱۷۱۹۔ حدثنا علي بن خشرم ثنا عيسى بن يونس عن  
مالك بن انس عن ايوب وه ابن حبيب انه سمع ابا  
المثنى الجهني يذكر عن ابي سعيد بن الخدري ان النبي  
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ فَقَالَ  
رَجُلٌ الْقَلَاءَ اَرَاهَا فِي الْإِنَاءِ فَقَالَ اَهْرِقْهَا فَقَالَ فَتَيُّ  
لَا أُرَوِي مِنْ نَفْسٍ وَاحِدٍ قَالَ فَابْنِ الْقَدْحِ إِذَا عَنِ فَيْكَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۲۷۔ پینے کی چیز میں پھونکنے سے منع فرمایا۔  
۱۷۱۹۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے پینے کی  
چیز میں پیتے وقت پھونکنے سے منع فرمایا: ایک شخص نے عرض کیا:  
اگر اس میں کوئی کوڑا وغیرہ ہو تو؟ فرمایا: اسے گرا دو۔ اس نے عرض کیا:  
میں ایک سانس میں سیر نہیں ہوتا۔ فرمایا: تو جب سانس لو تو پیالہ اپنے  
منہ سے ہٹا دو۔

۱۷۲۰۔ حدثنا ابن ابي عمر ثنا سفيان عن

عبدالكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس ان  
النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ  
وَأَنْ يُنْفَخَ فِيهِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۷۲۰۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے برتن میں  
سانس لینے اور اس میں پھونکنے سے منع فرمایا۔

باب ۱۲۲۸۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ  
 ۱۷۲۱۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا عَبْدِ الصَّمَدِ  
 بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ ثَنَا هِشَامُ الدِّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ  
 أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ  
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَرِبَ  
 أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ  
 یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۲۹۔ مَا جَاءَ فِي اخْتِنَانِ الْأَسْقِيَةِ  
 ۱۷۲۲۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا سَفِيَانُ بْنُ الزَّهْرِيِّ عَنْ  
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَوَايَةً أَنَّهُ نَهَى  
 عَنْ اخْتِنَانِ الْأَسْقِيَةِ  
 اس باب میں جابر، ابن عباس اور ابو ہریرہ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۳۰۔ مَا جَاءَ فِي الرُّخَصَةِ فِي ذَلِكَ  
 ۱۷۲۳۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى ثَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ ثَنَا  
 عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَيْسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ  
 قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ إِلَى قُرْبَةِ  
 مُعَلَّقَةٍ فَخَنَنَهَا ثُمَّ شَرِبَ مِنْ فِيهَا  
 اس باب میں ام سلمہ بھی حدیث نقل کرتی ہیں لیکن اس کی سند صحیح نہیں اور عبد اللہ بن عمر حافظے کی وجہ سے ضعیف ہیں مجھے یہ بھی نہیں  
 معلوم کہ ان کا عیسیٰ سے سماع ہے یا نہیں۔

باب ۱۲۳۱۔ مَا جَاءَ أَنَّ الْأَيْمِينَ أَحَقُّ بِالشَّرْبِ  
 ۱۷۲۴۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍو ثَنَا سَفِيَانُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ  
 يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ  
 جَدِّتِهِ كَبْشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرِبَ مِنْ فِي قُرْبَةِ مُعَلَّقَةٍ قَائِمًا فَقُمْتُ  
 إِلَيْهَا فَقَطَعْتُهُ  
 یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ اور یزید بن یزید، عبد الرحمن بن یزید کے بھائی اور جابر کے بیٹے ہیں اور یزید، عبد الرحمن سے پہلے  
 فوت ہوئے۔

باب ۱۲۳۲۔ مَا جَاءَ فِي مَنَعِ الشَّرْبِ  
 ۱۷۲۵۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا عَبْدِ الصَّمَدِ  
 بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ ثَنَا هِشَامُ الدِّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ  
 أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ  
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَرِبَ  
 أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ  
 اس باب میں جابر، ابن عباس اور ابو ہریرہ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۳۳۔ مَا جَاءَ فِي مَنَعِ الشَّرْبِ  
 ۱۷۲۶۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا عَبْدِ الصَّمَدِ  
 بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ ثَنَا هِشَامُ الدِّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ  
 أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ  
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَرِبَ  
 أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ  
 اس باب میں جابر، ابن عباس اور ابو ہریرہ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۷۲۵۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پانی ملا ہوا دودھ پیش کیا گیا۔ آپ ﷺ کی وہی طرف ایک دیہاتی اور بائیں طرف ابوبکرؓ تھے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے خود پینے کے بعد دیہاتی کو دیا اور فرمایا: داہنے والا زیادہ مستحق ہے۔

باب ۱۲۳۲۔ پلانے والا خود آخر میں پئے۔

۱۷۲۶۔ حضرت ابوقحادہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پلانے والے کو سب سے آخر میں بیٹھا چاہئے۔

اس باب میں ابن ابی اوفی بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۳۳۔ مشروبات میں سے آنحضرت ﷺ کون سا مشروب زیادہ پسند کرتے تھے؟

۱۷۲۷۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میٹھی اور ٹھنڈی چیز آنحضرت ﷺ سے مشروبات میں سب سے زیادہ پسند کیا کرتے تھے۔

یہ حدیث کئی راوی ابن عیینہ سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ یعنی ابن عیینہ، زہری سے وہ عروہ سے اور وہ ام المؤمنین عائشہؓ سے لیکن صحیح وہی ہے جو زہری آنحضرت ﷺ سے مرسل نقل کرتے ہیں۔

۱۷۲۸۔ زہریؓ نبی اکرم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ کون سا مشروب سب سے عمدہ ہے۔ فرمایا: ٹھنڈا اور میٹھا۔

عبدالرزاق بن یحییٰ عمر سے اسی طرح نقل کرتے ہیں یعنی عمر، زہری سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اور یہ حدیث ابن عیینہ سے مرسل صحیح ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

والدین کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کے متعلق

آنحضرت ﷺ سے منقول احادیث کے ابواب

باب ۱۲۳۳۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک

۱۷۲۹۔ حضرت حکیم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا

۱۷۲۵۔ حدثنا الانصاری ثنا معن ثنا مالک عن ابن شہاب ح وثنا قتیبة عن مالک عن ابن شہاب عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی یسئ من شرب بیدہ وعن بئینہ اعرابی وعن یسارہ ابوبکر فشرب ثم اعطی الاعرابی وقال الایمن فالایمن

باب ۱۲۳۲۔ ماجاء ان ساقی القوم اجرهم شرباً

۱۷۲۶۔ حدثنا قتیبة ثنا حماد بن زید عن ثابت البنانی عن عبد اللہ بن رباح عن ابی قتادہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ساقی القوم اجرهم شرباً

باب ۱۲۳۳۔ ماجاء انی الشراب کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

۱۷۲۷۔ حدثنا ابن ابی عمر ثنا سفیان بن عیینة عن معمر عن الزہری عن عروہ عن عائشہ قلت کان احب الشراب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحلو البارد

۱۷۲۸۔ حدثنا احمد بن محمد ثنا عبد اللہ بن المبارک ثنا معمر بن یونس عن الأثری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئ من الشراب اطلب قال الخمر النماء

عبدالرزاق بن یحییٰ عمر سے اسی طرح نقل کرتے ہیں یعنی عمر، زہری سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اور یہ حدیث ابن عیینہ سے مرسل صحیح ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

أَبُو ابْنِ الْبَرِّ وَالصَّلَاةِ عَنْ

رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۱۲۳۴۔ ماجاء فی بر الوالدین

۱۷۲۹۔ حدثنا بندار ثنا یحییٰ بن سعید ثنا یهز بن

رسول اللہ ﷺ کون بھلائی (حسن سلوک) کا زیادہ مستحق ہے۔ فرمایا: تمہاری والدہ۔ میں نے عرض کیا پھر کون؟ فرمایا: تمہاری والدہ۔ عرض کیا: ان کے بعد؟ فرمایا: تمہاری والدہ۔ میں نے چوتھی مرتبہ عرض کیا۔ ان کے بعد کون زیادہ مستحق ہے تو اس مرتبہ آپ ﷺ نے فرمایا: تمہارے والد اور ان کے جد اقا، یا، میں سے بوسب سے زیادہ قریبی ہو اور اسی طرح درجہ بدرجہ۔

اس باب میں حضرت ابو ہریرہؓ، عبد اللہ بن عمروؓ، عائشہؓ، ابو برداءؓ اور ہزبن حکیم جو معاویہ بن عبد القیس کے بیٹے ہیں بھی حدیث نقل کرتے ہیں اور یہ حدیث سنن ہے اور شعبہ نے ہزبن حکیم کے بارے میں کلام کیا ہے۔ لیکن محمد شین کے نزدیک وہ ثقہ ہیں اور ان سے معمر، سفیان ثوری، حماد بن سلمہ اور بہت سے ائمہ روایت کرتے ہیں۔

باب -

باب منہ۔

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا یا بس میں نے دریافت کیا رسول اللہ کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا: نماز اپنے وقت پر۔ تو میں نے کہا، اس کے بعد یا رسول اللہ؟ فرمایا: والدین سے اچھا سلوک کرنا۔ پھر میں نے پوچھا، پھر کونسا یا رسول اللہ؟ فرمایا: جہاد فی سبیل اللہ۔ پھر آپ ﷺ خاموش ہو گئے اور ان میں زیادتی کرتا تو آپ ﷺ بھی مزید جواب دیتے۔

حدثنا احمد بن محمد ثنا عبد الله بن المبارك عن المسعودي - الوليد بن العيزار عن ابي عمرو الشيباني عن ابي مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ابي الاعمال افضل قال الصلوة لميقاتها قلت ثم ماذا يا رسول الله قال يرثك ولدك قال قلت ثم ماذا يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لترادوني

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسے شیبانی، شعبہ اور کئی راوی ولید بن عمیر سے نقل کرتے ہیں اور پھر کئی سندوں سے ابو عمر و شیبانی سے بھی بواسطہ ابن مسعود و نقول ہے۔ ابو عمر و شیبانی کا نام سعد بن ایاس ہے۔

باب ۱۲۳۵۔ مَا جَاءَ مِنَ الْفَضْلِ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ

۱۷۳۰۔ حدثنا ابن ابی عمر ثنا سفیان عن عطاء بن السائب عن ابی عبد الرحمن السنبلی عن ابی الدرداء قال قال رجل انا ففقال امی بی امرأة و ان امی تأمرنی بطلاقها فقال ابو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد من ابواب الجنة فان شئت فاصع ذلك الباب واحفظه و ربما قال ان امی و ربما قال ابی

باب ۱۲۳۵۔ والدین کے راضی ہونے کی فضیلت۔  
۱۷۳۰۔ حضرت ابو برداءؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری والدہ مجھے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیتی ہیں۔ ابو برداءؓ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا وہ فرماتے ہوئے سنا کہ والد جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے جہاں بیوی اور اس کی نکاحیت کے بعد اسے طلاق کر دوسفیان بھی والدہ کا ذکر کرتے ہیں اور بھی والدہ۔

یہ حدیث صحیح ہے اور عبد الرحمن سلمی کا نام عبد اللہ بن حبیب ہے۔

۱۷۳۶۔ حدثنا ابو حفص عمرو بن علي ثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدِ

۱۷۳۱۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی رضا والد کی خوشی میں اور اللہ کا غصہ والد کے غصے میں مضمر ہے۔

محمد بن یسار یہ حدیث محمد بن جعفر سے وہ شعبہ سے وہ یعلیٰ بن عطاء سے وہ اپنے والد سے اور وہ عبد اللہ بن عمروؓ سے غیر مرفوع نقل کرتے ہیں اور یہ زیادہ صحیح ہے۔ شعبہ اور ان کے ساتھی بھی اسے یعلیٰ بن عطاء سے وہ اپنے والد سے اور وہ عبد اللہ بن عمروؓ سے اسے موقوفاً ہی نقل کرتے ہیں اور ہمیں علم نہیں کہ خالد بن حارث کے علاوہ کسی اور نے اسے مرفوعاً نقل کیا ہو۔ اور یہ ثقہ اور مامون ہیں۔ محمد بن شیبہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوفہ میں عبد اللہ بن ادریس اور بصرہ میں خالد کے پایہ کا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ اس باب میں ابن مسعودؓ سے بھی حدیث منقول ہے۔

باب ۱۲۳۶۔ مَا جَاءَ فِي عَفْوِ الْوَالِدَيْنِ

باب ۱۲۳۶۔ والدین کی ناراضگی کے متعلق

۱۷۳۲۔ حدثنا حميد بن مسعدة ثنا بشر بن المفضل ثنا الحريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَحَدْتُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ قَالُوا بلى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعَفْوُ الْوَالِدَيْنِ قَالَ وَجَلَسَ وَكَانَ مِنْهَا قَالِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَوْ قَوْلُ الزُّورِ فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَ سَكَتَ

۱۷۳۲۔ حضرت ابو بکرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں کیا کبائر میں سے سب سے بڑے گناہ کبیرہ کے متعلق نہ بتاؤں؟ صحابہؓ نے عرض کیا: کیوں نہیں یا رسول اللہ ﷺ! آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور والدین کو ناراض کرنا راوی کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ ﷺ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے تک یہ لگائے بیٹھے تھے اور فرمایا: جھوٹی گواہی یا فرمایا جھوٹی بات (یعنی راوی کو شک ہے) پھر آپ ﷺ یہی فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم لوگ کہنے لگے کاش کہ رسول اللہ ﷺ خاموش ہو جائیں۔

اس باب میں ابو سعیدؓ بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ ابو بکرؓ کی حدیث حسن ہے اور ان کا نام تفہیح ہے۔

۱۷۳۳۔ حدثنا قتيبة ثنا الليث بن سعد عن ابن الهاد عن سعد بن ابراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكِبَائِرِ أَنْ يُشْتِمَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ يُشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ نَعَمْ يَنْسُبُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَنْسُبُ أَبَاهُ وَيُشْتِمُ أُمَّهُ فَيُشْتِمُ أُمَّهُ

۱۷۳۳۔ حضرت عبد اللہ بن عمروؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی اپنے والدین کو گالی دے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! کیا کوئی شخص اپنے والدین کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ فرمایا: ہاں جب کوئی شخص کسی دوسرے کے والد یا والدہ کو گالی دیتا ہے تو وہ بھی اس کے والدین کو گالی دیتا ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۳۷۔ مَا جَاءَ فِي إِكْرَامِ صَدِيقِ الْوَالِدِ

باب ۱۲۳۷۔ والد کے دوست کا اکرام کرنا۔

۱۷۳۴۔ حدثنا احمد بن محمد ثنا عبد الله بن المبارك ثنا حيوة بن شريح ثنا الوليد بن ابي الوليد عن عبد الله

۱۷۳۴۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بہترین یہی ہے کہ کوئی شخص اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک

بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ الْبِرِّ أَنْ يُصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ وَرِثَتَهُ

اس باب میں ابواسید بھی حدیث نقل کرتے ہیں ابن عمر کی حدیث کی سند صحیح ہے اور انہی سے کئی سندوں سے منقول ہے۔

باب ۱۲۳۸۔ مَا جَاءَ فِي بَرِّ الْخَالَةِ

۱۷۳۵۔ حَدَّثَنَا سَفِيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ ثَنَا أَبِي عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ وَثْنَانَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ وَهُوَ ابْنُ مَدْيُونَةَ ثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ وَاللَّفْظُ لِحَدِيثِ عُثَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي اسْحَقَ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الرَّأْيِ بْنِ عَزَابٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ

اس حدیث میں ایک طویل قصہ ہے اور یہ صحیح ہے۔

۱۷۳۶۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيْبٍ ثَنَا أَبُو مَعَاوِيَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْفَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ ابْنِ حَفْصٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا أَقْبَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصْبْتُ ذَنْبًا عَظِيمًا فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ أُمِّ قَالَ لَا قَالَ هَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَبَرِّهَا

اس باب میں علی اور براء بن عازب سے بھی احادیث منقول ہیں۔ ابن ابی عمر، سفیان بن عیینہ سے وہ محمد بن سوق سے وہ ابوبکر بن حفص سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ اور اس میں ابن عمر کا ذکر نہیں کرتے۔ یہ حدیث ابومحادیہ کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ ابوبکر بن حفص: ابن عمر بن سعد بن ابی وقاص ہیں۔

باب۔ باب مَا جَاءَ فِي دَعَاءِ الْوَالِدَيْنِ

۱۷۳۷۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامِ الدُّسْتَوَانِيِّ عَنْ دِحْيَةَ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ دَعَوَاتٌ مُسْتَحَابَاتٌ لِأَسَاكِنٍ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمَسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ

حجاج صواف: یہ حدیث یحییٰ بن ابی کثیر سے ہشام بن ابی کثیر سے بھی حدیث کی طرح نقل کرتے ہیں۔ اور ابوجعفر: ابوجعفر مؤذن ہیں ہمیں ان کے نام کا علم نہیں۔ ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے کئی احادیث نقل کی ہیں۔

باب ۱۲۳۹۔ مَا جَاءَ فِي حَقِّ الْوَالِدَيْنِ

۱۷۳۸۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى ثَنَا جَرِيرٌ

باب ۱۲۳۹۔ وَالِدَيْنِ كَاتِبٌ

۱۷۳۸۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی بیٹا

عن سهيل بن ابى صالح عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزى ولد والدا الا ان يجده مملوكا فيشتره فيعتقه

اپنے والد کا حق ادا نہیں کر سکتا ہاں البتہ یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ اگر وہ اپنے والد کو غلام پائے اور اسے خرید کر آزاد کر دے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اسے ہم صرف سہیل بن ابی صالح کی روایت سے جانتے ہیں۔ سفیان اور کئی راوی بھی سہیل سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۲۴۰۔ مَا جَاءَ فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ

باب ۱۲۴۰۔ قطع رحمی کرنا۔

۱۷۳۹۔ حدثنا ابن ابى عمرو وسعيد بن عبدالرحمن المنزومي قالوا ثنا سفیان بن عيينة عن الزهري عن ابى سلمة قال اشتكى ابوالدرداء فعاده عبدالرحمن بن عوف فقال خيرهم واوصلهم ما علمت ابو محمد فقال عبدالرحمن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى انا الله وانا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها يتنته

۱۷۳۹۔ حضرت عبدالرحمن، آنحضرت ﷺ سے حدیث قدسی نقل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ ”میں اللہ ہوں، میں رحمن ہوں میں نے ہی رحم کو پیدا کیا اور پھر اسے اپنے نام سے چیرا لہذا جو شخص صلہ رحمی کرے گا میں اسے ملاؤں گا اور جو قطع رحمی کرے گا۔ میں اسے کانٹوں گا۔“

اس باب میں ابوسعید، ابن ابی اوفی، عامر بن ربیع، ابو ہریرہ اور جبیر بن مطعم سے بھی احادیث منقول ہیں۔ سفیان کی زہری سے منقول حدیث صحیح ہے۔ اسے معمر، زہری سے وہ ابوسلمہ سے وہ زاذلیشی سے اور وہ عبدالرحمن بن عوف سے نقل کرتے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ معمر کی حدیث غلط ہے۔

باب ۱۲۴۱۔ مَا جَاءَ فِي صِلَةِ الرَّحِمِ

باب ۱۲۴۱۔ صلہ رحمی کی فضیلت۔

۱۷۴۰۔ حدثنا ابن ابى عمر ثنا سفیان ثنا بشير أبو اسمعيل وفضل بن خليفة عن مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْوَأَصِلُ بِالْمُكَافِي وَلَكِنَّ الْوَأَصِلَ الَّذِي إِذَا انْقَطَعَتْ رَحْمَةُ وَصَلَّهَا

۱۷۴۰۔ حضرت عبداللہ بن عمرو، آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو کسی قرابت دار کی نیکی کے بدلے نیکی کرے بلکہ وہ ہے جو قطع رحمی کے باوجود اسے ملائے اور صلہ رحمی کرے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں سلمان اور عائشہ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔

۱۷۴۱۔ حدثنا ابن ابى عمرو نصر بن على وسعيد بن عبدالرحمن المنزومي قالوا ثنا سفیان عن الزهري عن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابيه قال

۱۷۴۱۔ حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ابن ابی عمر بھی سفیان سے یہی نقل کرتے ہیں کہ اس سے مراد قطع رحم کرنے والا ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ سَفِيَانٌ يَعْنِي قَاطِعُ رَجِيمٍ  
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۴۲۔ مَا جَاءَ فِي حُبِّ الْوَالِدِ

۱۷۴۲۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ثَنَا سَفِيَانُ عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسِرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي سُوَيْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ زَعَمَتِ الْمَرَاةُ الصَّالِحَةُ ..... حَوْلَةَ بِنْتُ حَكِيمٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مُحْتَضِنٌ أَحَدَ ابْنَيْ ابْنَتِهِ هُوَ وَيَقُولُ إِنَّكُمْ لَتَبْخَلُونَ وَتُحِبُّونَ وَتُجْهَلُونَ وَإِنَّكُمْ لَمِنْ رِيحَانِ اللَّهِ

باب ۱۲۴۳۔ بیٹے کی محبت۔

۱۷۴۳۔ حضرت خولہ بنت حکیمؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک مرتبہ اپنے ایک نواسے کو گود میں لے کر نکلے اور فرمایا: بے شک تم لوگ (بچے) انسان کو بخیل کر دیتے ہو، بزدل کر دیتے ہو، جاہل کر دیتے ہو اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تم اللہ کے عطا کردہ خوشبودار پودوں میں سے ہو۔

اس باب میں ابن عمرؓ اور اشعث بن قیسؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ ابن عیینہ کی ابراہیم بن میسرہ سے منقول حدیث کو ہم صرف انہی کی سند سے جانتے ہیں۔ اور عمر بن عبدالعزیز کے خولہ سے سماع کا ہمیں علم نہیں۔

باب ۱۲۴۳۔ مَا جَاءَ فِي رَحْمَةِ الْوَالِدِ

۱۷۴۳۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا ثَنَا سَفِيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبْصَرَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُقْبَلُ الْحَسَنَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْحَسَيْنِ أَوْ الْحَسَنَ فَقَالَ إِنَّ لِي مِنَ الْوَالِدِ عَشْرَةَ مَا قَبَّلْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ

باب ۱۲۴۳۔ بچوں پر شفقت کرنا۔

۱۷۴۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ اقرع بن حابس نے رسول اللہ ﷺ کو حضرت حسن کا بوسہ لینے ہوئے دیکھا۔ ابن ابی عمیر اپنی بیان کردہ حدیث میں حسن یا حسین کا ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ اقرع نے کہا: میرے دس بیٹے ہیں میں نے کبھی ان کا بوسہ نہیں لیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔

اس باب میں انس اور عائشہؓ سے بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ اور ابوسلمہ بن عبدالرحمن کا نام عبداللہ ہے۔ یہ حدیث صحیح حسن ہے۔

باب ۱۲۴۴۔ لڑکیوں کی پرورش کی فضیلت۔

باب ۱۲۴۴۔ مَا جَاءَ فِي النِّفَقَاتِ عَلَيَّ الْبَنَاتِ

۱۷۴۴۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ثَنَا ابْنُ عَيْنَةَ عَنْ سَهِيلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ الْأَعْيَشِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ

۱۷۴۴۔ حضرت ابوسعد خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس کسی کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں یا دو بیٹیاں یا دو بہنیں تھیں۔ اور اس نے اچھی طرح ان کی پرورش کی۔ پھر اس دوران اللہ سے ڈرتا رہا اس کے لیے جنت ہے۔

أَخْوَابٍ أَوْ ابْتِنَانٍ أَوْ أَحْقَانٍ فَأَحْسَنَ صُحَّتَهُنَّ  
وَأَتَقَى اللَّهُ فِيهِنَّ قَلَّةَ الْحَنَّةِ

۱۷۴۵۔ روایت ہے ابی سعید خدری سے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:  
نہیں کسی کی تمن بٹیاں یا تمن بٹیں پھر احسان کرے ان پر مگر داخل ہوگا  
جنت میں۔

۱۷۴۵۔ حدثنا قتيبة ثنا عبد العزيز بن محمد عن  
سهيل بن ابي صالح عن سعيد بن عبد الرحمن عن  
أبي سعيد بن الخديري أن رسول الله صلى الله عليه  
وسلم قال لا يكون لأحدكم ثلاث بنات أو ثلاث  
أخوات فيحبس إليهن إلا دخل الجنة

۱۷۴۶۔ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ آنحضرت ﷺ  
نے فرمایا جو گرفتار ہو ان لڑکیوں کے بلا میں پھر صبر کرے ان کی پرورش  
کی مصیبتوں پر ہویں گی وہ اس کا پردہ دوزخ کی آگ سے۔

۱۷۴۶۔ حدثنا العلاء بن مسلمة ثنا عبد المجيد بن  
عبد العزيز عن معمر عن الزهري عن عروة عن  
عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
من ابتلى بشيء من البنات قصر عليهن كن له  
جحابا من النار

۱۷۴۷۔ روایت ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا  
انہوں نے کہ آئی میرے پاس ایک عورت کہ اس کے ساتھ دو لڑکیاں  
تھیں پھر سوال کیا اس نے سو نہ پایا اس نے پرے پاس سے کچھ سو  
ایک گھور کے پھر دے دی میں نے اس کو اور اس نے بانٹ دی اپنی  
دونوں لڑکیوں کو اور آپ نہ کھائی پھر اٹھ کر چلی گئی اور تشریف لائے  
میرے پاس نبی ﷺ اور خیر دی میں نے آپ کو سو فرمایا نبی ﷺ نے جو  
گرفتار ہو ان لڑکیوں میں یہ اس کے لیے دوزخ سے پردہ ہوں گی۔

۱۷۴۷۔ حدثنا احمد بن محمد ثنا عبد الله بن  
المبارك ثنا معمر عن ابن شهاب ثنا عبد الله بن ابي  
بكر بن حزم عن عروة عن عائشة قالت دخلت  
امرأة معها ابنتان لها فسالت فلم تجد عندي شيئا  
غير تمر فاعطيتها اياها فمستنها بين ابنتها ولم  
تأكل منها ثم قامت فخرجت ودخل النبي صلى  
الله عليه وسلم فأخبرته فقال النبي صلى الله عليه  
وسلم من ابتلى بشيء من هذه البنات كن له سترا  
من النار

۱۷۴۸۔ روایت ہے انس بن مالک سے کہ فرمایا رسول خدا ﷺ نے جو  
پالے دو لڑکیوں کو داخل ہوں گا میں اور وہ جنت میں مانند ان کی اور  
اشارہ کیا آپ ﷺ نے اپنی دو انگلیوں سے یعنی کلمہ اور بیچ کی انگلی سے۔

۱۷۴۸۔ حدثنا محمد بن وزير الواسطي ثنا محمد  
بن عبيد ثنا محمد بن عبد العزيز الراسبي عن ابي  
بكر بن عبد الله بن انس بن مالك  
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من  
عال جاريتين دخلت انا وهو الجنة معها نين  
ونشار باصبعيه

ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک عورت آئی دو لڑکیوں کو لے کر آپ نے اس کو تین کھجوریں عنایت کیں اور اس نے پہلے ایک ایک دونوں کو دی پھر ایک کو چیر کر دونوں پر تقسیم کر دیا، پھر آنحضرت ﷺ تشریف لائے اور فرمایا اچھا کام کیا اس نے داخل ہوگئی وہ بسبب اس حسنہ کے جنت میں اور عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے سنا آنحضرت ﷺ کو فرماتے تھے جس کی تین بیٹیاں ہوں وہ ان کی پرورش پر صبر کرے اور ان کو کھلاوے پلاوے اور پہناوے اپنے مقدر کے موافق اس کے لیے پردہ ہوں گی وہ دوزخ کی آگ سے قیامت کے دن اور ابن عباس سے مروی ہے کہ جس کی دو لڑکیاں ہوں پس اچھی طرح اس نے ان کا ساتھ دیا داخل کریں گی وہ اس کو جنت میں غرض فضائل بیٹیوں کی پرورش کے اس لیے زیادہ آئے ہیں کہ اس میں ماں باپ کو صبر کرنا پڑتا ہے اول پرورش میں بعد جوانی کے سودا مادوں کے غم و زیادتی پر اور بہر حال سوائے صبر و ثبات کے کچھ چارہ نہیں ہوتا اور سوائے بارے کسی طرح کی امید اعانت کی ان سے نہیں ہوتی۔

باب ۱۲۴۵۔ ماجآء فی رَحْمَةِ النَّبِيِّمْ وَكَفَالَتِهِ

باب ۱۲۴۵۔ ماجآء فی رَحْمَةِ النَّبِيِّمْ وَكَفَالَتِهِ

۱۷۴۹۔ حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني ثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت ابي يحدث عن حنش عن عكرمة عن ابي عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرض يتيما من بين المسلمين الى طعامه وشرابه اذخله الله الجنة البتة الا ان يعمل ذنبا لا يغفر

باب ۱۲۴۵۔ ماجآء فی رَحْمَةِ النَّبِيِّمْ وَكَفَالَتِهِ

اس باب میں مرہ فہریؓ، ابو ہریرہؓ، ابو امامہؓ اور سہل بن سعدؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ حنش کا نام حسین بن قیس اور کنیت ابو علی رجبی ہے۔ سلیمان بھی کہتے ہیں کہ حنش محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔

۱۷۵۰۔ حدثنا عبد الله بن عمران ابو القاسم المكي القرشي ثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سهيل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار ياصبعيه يعني السبابة والوسطى

۱۷۵۰۔ حدثنا عبد الله بن عمران ابو القاسم المكي القرشي ثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سهيل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار ياصبعيه يعني السبابة والوسطى

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

توضیح: اس طرح کی احادیث سے مراد اس شخص کی بلندی درجات ہے نہ یہ کہ وہ انبیاء و مرسلین کے مقام پر فائز ہو جائے گا۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۱۲۴۶۔ ماجآء فی رَحْمَةِ الصَّبِيَّانِ

باب ۱۲۴۶۔ ماجآء فی رَحْمَةِ الصَّبِيَّانِ

۱۷۵۱۔ حدثنا محمد بن مرزوق البصري ثنا عبيد بن واقد عن زريبي قال سمعت ..... انس بن مالك يقول جاء شيخ يُريدُ النبي صلى الله عليه وسلم فابطأ القوم

۱۷۵۱۔ حدثنا محمد بن مرزوق البصري ثنا عبيد بن واقد عن زريبي قال سمعت ..... انس بن مالك يقول جاء شيخ يُريدُ النبي صلى الله عليه وسلم فابطأ القوم

عَنْهُ أَنْ يُوسِعُوا لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفَقَاتٍ أَوْ بَرٍّ كَمَا حَرَّمَ لَكُمْ أَنْ تَكُونَ تَحْتَ يَدَيْهِمْ سِوَى ذَلِكَ فَكَيْفَ تَكُونُونَ لَكُمْ مِنْكُمْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُؤْفَرْ كَبِيرَنَا

اس باب میں عبد اللہ بن عمرؓ، ابو ہریرہؓ، ابن عباسؓ اور ابوامامہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث غریب ہے۔ اور زربلی کی حضرت انسؓ وغیرہ سے منکر حدیثیں ہیں۔ ابو بکر محمد بن ابان، محمد بن فضیل سے وہ محمد بن اسحاق سے وہ عمرو بن شعیب سے وہ اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم اور بڑے کا احترام نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ ابو بکر محمد بن ابان ہی یزید بن ہارون سے وہ شریک سے وہ لیث سے وہ عکرمہ سے اور وہ ابن عباسؓ سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جو ہمارے چھوٹوں پر رحم، بڑوں کا ادب، نیکی کا حکم اور برائی سے منع نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ حدیث حسن غریب اور عمرو بن شعیب کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اور عبد اللہ بن عمرو ہی سے اور سندوں سے بھی منقول ہے۔ بعض علماء ”وہ ہم میں سے نہیں“ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہماری سنت اور ادب کے خلاف ہے۔ علی بن مدینی، یحییٰ بن سعید سے نقل کرتے ہیں کہ سفیان ثوری اس تفسیر کو قبول نہیں کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہماری طرح نہیں ہے۔

باب۔ لوگوں پر رحم کرنے کے بارے میں۔

باب۔ ماجاء فی رحمة الناس۔

۱۷۵۲۔ حضرت جریر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو لوگوں پر رحم نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کریں گے۔

۱۷۵۲۔ حدثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد عن اسمعيل بن ابي خالد ثنا قيس بن ابي حازم ثنا جريير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يرحم الناس لا يرحمه الله

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں عبد الرحمن بن عوف، ابو سعید، ابن عمرؓ، ابو ہریرہؓ اور عبد اللہ بن عمروؓ سے بھی روایت ہے۔

۱۷۵۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے ابوقاسمؓ کو فرماتے ہوئے سنا کہ شقی القلب کو رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔

۱۷۵۳۔ حدثنا محمود بن غيلان ثنا ابو داود ثنا شعبة قال كتب به الى منصور وقراته عليه سمع ابا عثمان مولى المغيرة بن شعبة عن ابي هريرة قال سمعت ابا القاسم يقول لا تنزع الرحمة الا من شقي

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو عثمان کا نام مجھے نہیں معلوم۔ کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ بن ابوعثمان کے والد ہیں جن سے ابوزناد نقل کرتے ہیں۔ ابوزناد، موسیٰ بن ابوعثمان سے وہ اپنے والد سے اور آنحضرت ﷺ سے کئی احادیث نقل کرتے ہیں۔

۱۷۵۴۔ حضرت عبد اللہ بن عمروؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رحم کرنے والوں پر رحمن بھی رحم کرتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ رحم بھی رحمن کی شاخ ہے جس نے اس کو جوڑا اللہ تعالیٰ بھی اس سے رشتہ جوڑ لیں گے اور جو اسے قطع کرے گا۔ اللہ بھی اس سے قطع تعلق کر لیں گے۔

۱۷۵۴۔ حدثنا ابن ابي عمر ثنا سفیان عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء الرحم شحنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعته الله

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۴۷۔ ماجاء فی النَّصِيْحَةِ

باب ۱۲۴۷۔ نصیحت کے متعلق

۱۷۵۵۔ حدثنا بندار ثنا صفوان بن عيسى عن

۱۷۵۵۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے تین مرتبہ

محمد بن عجلان عن الفقعاق بن حكيم عن أبي

فرمایا: دین نصیحت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! کس کے

صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

لیے؟ فرمایا: اللہ، اس کی کتاب، مسلمان اہل اقتدار اور عام مسلمانوں

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ النَّصِيْحَةُ ثَلَاثٌ مَرَارًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ

کے لیے۔

لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلَايْمَةَ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ

یہ حدیث حسن ہے۔ اور اس باب میں ثوبان، ابن عمر، تمیم، جریر اور حکیم بن ابوزید سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حکیم اپنے والد سے

نقل کرتے ہیں۔

توضیح: نصیحت ایسا کلمہ ہے جو نصیحت کیے جانے والے شخص کو ارادہ خیر کے لئے کہا جاتا ہے۔ اللہ کے لیے نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ

اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح اعتقاد رکھا جائے صرف اسی کی عبادت کی جائے اس کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے۔ اور ہر عمل خالصہ ذات باری

تعالیٰ ہی کے لیے کیا جائے۔ اس کی کتاب کے ساتھ نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تصدیق کی جائے۔ اور اس پر عمل کیا جائے۔ ارباب

اقتدار کے لیے نصیحت سے مراد یہ ہے کہ حق چیزوں میں ان کی اطاعت کی جائے اور بغاوت نہ کی جائے۔ اور اس کے بعد عام مسلمانوں

کے لیے نصیحت کے معنی یہ ہیں کہ انہیں ان کے مصالح کے متعلق صحیح مشورے دیئے جائیں۔ واللہ اعلم (مترجم)

۱۷۵۶۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد عن

۱۷۵۶۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ

اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن

سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کو نصیحت کرنے پر

جرير بن عبد الله قال يا بعث النبي صلى الله عليه وسلم

بیعت کی۔

على اقام الصلوة وايتاء الزكوة والنصح لكل مسلم

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۴۸۔ ماجاء فی شَفَقَةِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ

باب ۱۲۴۸۔ مسلمان کا مسلمان پر شفقت کرنا۔

۱۷۵۷۔ حدثنا عبيد بن اسباط بن محمد القرشي

۱۷۵۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ثنا ابي عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن ابي

مسلمان، مسلمان کا بھائی ہے۔ لہذا وہ اس کے ساتھ خیانت کا معاملہ نہ

صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

کرے، جھوٹ نہ بولے اور اسے اپنی مدد و نصرت سے محروم نہ کرے۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَخُونُهُ وَلَا

ہر مسلمان کی دوسرے مسلمان پر عزت، مال اور خون حرام ہے۔ تقویٰ

يَكْذِبُهُ وَلَا يَحْدِلُهُ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ

یہاں ہے یعنی دل میں (آپ ﷺ نے اشارہ کیا) کسی شخص کے بُرے

عَرُضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ التَّقْوَى هُنَا بِحَسَبِ امْرِئٍ مِنْ

ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہے۔

الشَّرِّ أَنْ يَحْتَقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔



النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اس باب میں اسماء بنت یزید بھی حدیث نقل کرتی ہیں یہ حدیث حسن ہے۔

باب ۱۲۵۱۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْهَجْرِ لِلْمُسْلِمِ

۱۷۶۲۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ثَنَا سَفْيَانُ ثَنَا الزُّهْرِيُّ  
ح وَ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَنَا سَفْيَانُ عَنْ  
الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ  
الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
لَا يَجُزُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَحَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ ثَلَاثِ يَلْتَقِيَانِ  
فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ

باب ۱۲۵۱۔ ترک ملاقات کی ممانعت۔

۱۷۶۳۔ حضرت ابو ایوب انصاریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کسی مسلمان کے لیے اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ تین دن سے زیادہ بات نہ کرنا حلال نہیں اس حالت میں کہ وہ دونوں راستے میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں اور وہ ایک دوسرے سے اعراض کریں پھر ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔

اس باب میں عبداللہ بن مسعود، انس، ابو ہریرہ، ہشام بن عامر اور ابو ہند داری سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔

باب ۱۲۵۲۔ مَا جَاءَ فِي مُوَاَسَاةِ الْآخِ

۱۷۶۳۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا اسْمَعِيلُ بْنُ  
ابِرَاهِيمَ ثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَبْدُ  
الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ بِالْمَدِينَةِ أَخَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ لَهُ  
هَلْ مِمَّ أَقَا سِمَاكَ مَالِي نِصْفَيْنِ وَلِي أَمْرَاتَانِ فَأُطْلِقُ  
إِحْدَاهُمَا فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَرَوُجُهَا فَقَالَ بَارَكَ  
اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَا لَكَ ذُلُّو نَبِيَّ عَلَى السُّوقِ  
فَدَلُّوهُ عَلَى السُّوقِ فَمَا رَجَعَ يَوْمَئِذٍ إِلَّا وَمَعَهُ شَيْءٌ  
مِنْ أَقِطٍ وَ سَمِنٍ قَدْ اسْتَفْضَلَهُ فَرَأَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ وَضُرُّ صُفْرَةَ قَالَ  
مَهْمِمْ فَقَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ فَمَا .....  
أَصْدَقْتَهَا قَالَ نَوَاءٌ قَالَ حُمَيْدٌ أَوْ قَالَ وَزُنْ نَوَاءٌ مِنْ  
ذَهَبٍ فَقَالَ أَوْلِمُ وَلَوْ بِشَاةٍ

باب ۱۲۵۲۔ بھائی کے ساتھ مروت کے ساتھ پیش آنا۔

۱۷۶۳۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ جب عبدالرحمن بن عوفؓ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آنحضرت ﷺ نے انہیں سعد بن ربیعؓ کا بھائی بنا دیا۔ سعد نے کہا: آؤ میں اپنا مال دو حصوں میں تقسیم کر دوں میرے پاس وہ بیویاں بھی ہیں لہذا میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں۔ جب اس کی عدت پوری ہو جائے تو تم اس سے شادی کر لینا۔ عبدالرحمن نے کہا: اللہ تعالیٰ تمہارے اہل و مال میں برکت عطا فرمائے تم مجھے بازار کا راستہ بتا دو۔ انہیں بازار کا راستہ بتا دیا گیا۔ جب وہ اس روز بازار سے واپس آئے تو ان کے پاس اقط (ایک چیز کا نام) اور تھوڑا سا گھی تھا۔ جسے انہوں نے منافع کے طور پر کمایا تھا۔ پھر (تھوڑے دن بعد) آنحضرت ﷺ نے انہیں دیکھا تو ان پر زردی کا نشان تھا۔ آپ ﷺ نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ عرض کیا: میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کر لی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا مہر مقرر کیا ہے؟ عرض کیا: ایک گنٹھلی کے برابر سونا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ولیمہ کرو۔ اگرچہ ایک بکری سے ہی کرو۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ گنٹھلی بھر سونا: تین اور ٹکٹ درہم کے برابر ہوتا ہے۔ یعنی ۳۰۰ جب کہ اسحاق پانچ درہم کے برابر کہتے ہیں۔ مجھے احمد بن حنبل کا یہ قول اسحاق بن منصور نے اسحاق کے حوالے سے بتایا ہے۔

باب ۱۲۵۳۔ نیت کے متعلق

باب ۱۲۵۳۔ مَا جَاءَ فِي الْغَيْبَةِ

۱۷۶۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا: غیبت کیا ہے؟ فرمایا: تمہارا اپنے بھائی کو اس طرح یاد کرنا کہ وہ اسے پسند نہ کرتا ہو۔ عرض کیا: اگر وہ عیب واقعی اس میں موجود ہو تو؟ فرمایا: اگر تم اس عیب کا تذکرہ کرو۔ جو واقعی اس میں ہے تو یہ غیبت ہے ورنہ تو پہتان ہو جائے گا۔

اس باب میں ابو ہریرہؓ، ابو ہریرہؓ، ابن عمرؓ اور عبد اللہ بن عمروؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۵۳۔ حسد کے متعلق

۱۷۶۵۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ملنا جلتا ترک نہ کرو، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی نہ کرو۔ کسی سے بغض نہ رکھو اور کسی سے حسد نہ کرو۔ اور خالص اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بن جاؤ۔ کسی مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ تین دن سے زیادہ قطع کلامی جائز نہیں۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ابو بکر صدیقؓ، زبیر بن عوامؓ، ابن عمرؓ، ابن مسعودؓ اور ابو ہریرہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔

۱۷۶۶۔ روایت ہے سالم سے وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے کہ فرمایا آنحضرت ﷺ نے رشک نہ کرنا چاہیے مگر دو شخصوں پر ایک وہ مرد کہ دیا اللہ تعالیٰ نے اسے مال اور وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے رات کے وقتوں میں اور دن کے وقتوں میں اور دوسرا مرد کہ دیا اللہ نے اس کو قرآن اور وہ ادا کرتا ہے اس کے حق کورات کے وقتوں میں اور دن کے وقتوں میں۔

باب ۱۲۵۵۔ آپس میں بغض رکھنے کی برائی میں۔

۱۷۶۷۔ روایت ہے جابر سے کہ فرمایا رسول خدا ﷺ نے کہ شیطان مایوس ہو گیا اس سے کہ پوچھیں اسے نمازی لوگ، لیکن لڑائی جھگڑا ڈالے گا ان میں۔

باب ۱۲۵۶۔ آپس میں صلح کے بیان میں

۱۷۶۸۔ روایت ہے اسماء بنت یزید سے کہا کہ رسول خدا ﷺ فرمایا حلال نہیں ہے جھوٹ مگر تمہیں مقاموں میں ایک تو بات کرے آدمی اپنی

۱۷۶۴۔ حدثنا قتیبہ ثنا عبدالعزیز بن محمد عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله ما الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره قال أرايت إن كان فيه ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبتته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهتته

باب ۱۲۵۴۔ ما جاء في الحسد

۱۷۶۵۔ حدثنا عبد الجبار بن العلاء ابن عبد الجبار العطار وسعيد بن عبدالرحمن قالانا ثنا سفیان بن عيينة عن الزهري عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباعدوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث

۱۷۶۶۔ حدثنا ابن أبي عمر ثنا سفیان الزهري عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنين رجل اتاه الله مالا فهو ينفق منه اثناء الليل وانااء النهار ورجل اتاه الله القرآن فهو يقوم به اثناء الليل وانااء النهار

باب ۱۲۵۵۔ ما جاء في التباعد

۱۷۶۷۔ حدثنا هناد ثنا ابو معاوية عن الاعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبد المصلون ولكن في التحريش بينهم

باب ۱۲۵۶۔ ما جاء في إصلاح ذات البين

۱۷۶۸۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا ابو احمد ثنا سفیان ح وثنا محمود بن غيلان ثنا بشار بن

عورت سے تاکہ راضی کرے اس کو اور دوسرے جھوٹ بولنا لڑائی میں اور تیسرے جھوٹ بولنا تاکہ صلح کرے آدمیوں میں اور محمود نے اپنی روایت میں کہا درست نہیں جھوٹ مگر تین جگہ میں۔

السرى وابو احمد قالالا ثنا سفیان عن ابن خثیم  
عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت  
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل  
الكذب إلا في ثلاث يحدث الرجل امرأته  
ليرضيها والكذب في الحرب والكذب ليصلح  
بين الناس وقال محمود في حديثه لا يصلح  
الكذب إلا في ثلاث

اس حدیث کو نہیں پہچانتے ہم اسماء کی روایت سے مگر ابن عظیم کی سند سے اور روایت کی داؤد بن ابی ہند نے یہ حدیث شہر بن حوشب سے انہوں نے نبی ﷺ سے اور نہیں ذکر کیا اس میں اسماء کا خبر دی ہم کو اس کی ابو کریب نے انہوں نے روایت کی ابن ابی زائدہ سے انہوں نے داؤد بن ابی ہند سے اور اس باب میں ابو بکرؓ سے بھی روایت ہے۔

۱۷۶۹۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ: جو شخص لوگوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولے وہ جھوٹا نہیں بلکہ وہ نیک بات کہنے والا یا اچھائی کو فروغ دینے والا ہے۔

۱۷۶۹۔ حدثنا احمد بن منيع ثنا اسمعيل بن ابراهيم  
عن معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن  
أمه أم كلثوم بنت عقبة قالت سمعت رسول الله  
صلى الله عليه وسلم يقول ليس بالكاذب من أصلح  
بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا  
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۵۷۔ خیانت اور دھوکہ دہی کے متعلق۔

باب ۱۲۵۷۔ مَا جَاءَ فِي الْخِيَانَةِ وَالْغُشِّ

۱۷۷۰۔ حضرت ابو صرمدؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو کسی کو ضرر یا تکلیف پہنچائے گا اللہ بھی اسے ضرر اور تکلیف پہنچائے گا۔

۱۷۷۰۔ حدثنا قتيبة ثنا الليث عن يحيى بن سعيد  
عن محمد بن يحيى ابن جبان عن لؤلؤة عن أبي  
صُرْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ  
ضَارَّ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

یہ حدیث حسن غریب ہے اور اس باب میں ابو بکرؓ بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔

۱۷۷۱۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے کسی مؤمن کو ضرر پہنچایا، یا اس کے ساتھ فریب کیا وہ ملعون ہے۔

۱۷۷۱۔ حدثنا عبد بن حميد ثنا زيد بن  
حباب العكلى ثنا ابوسلمة الكندي ثنا  
فرقد السنجي عن مرة بن شراحيل الهمداني  
وهو الطيب عن أبي بكر بن الصديق قال قال  
رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من  
ضار مؤمنا أو مكر به

یہ حدیث غریب ہے۔

باب ۱۲۵۸۔ مَا جَاءَ فِي حَقِّ الْحَوَارِ

باب ۱۲۵۸۔ پڑوسی کا حق۔

۱۷۷۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَلِيِّ ثَنَا سَفِيَانُ  
عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورٍ وَبِشِيرِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُجَاهِدٍ  
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو دُبِحَتْ لَهُ شَاةٌ فِي أَهْلِهِ فَلَمَّا  
جَاءَ قَالَ أَهْدَيْتُمْ لِحَارِنَا الْيَهُودِيَّ أَهْدَيْتُمْ لِحَارِنَا  
الْيَهُودِيَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يَقُولُ مَا زَالَ جِبْرِئِيلُ يُوصِينِي بِالْحَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ  
أَنَّهُ سَيُورَنِي

۱۷۷۲۔ مجاہد کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن عمروؓ کے گھر میں ان کے لیے ایک  
بکری ذبح کی گئی۔ جب وہ آئے تو دو مرتبہ پوچھا: کیا تم لوگوں نے  
ہمارے یہودی پڑوسی کو گوشت وغیرہ بھیجا ہے۔ اس لیے کہ میں نے  
رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: جبریلؑ مجھے ہمیشہ پڑوسی کے ساتھ  
بھلائی اور احسان کی وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ میں سمجھا کہ وہ  
اسے وارث کر دیں گے۔

اس باب میں عائشہؓ، ابن عباسؓ، عقبہ بن عامرؓ، ابو ہریرہؓ، انسؓ، عبد اللہ بن عمروؓ، مقداد بن اسودؓ، ابو شریحؓ اور ابو امامہؓ سے بھی  
احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے اور مجاہد سے بھی ابو ہریرہؓ اور عائشہؓ کے واسطے سے منقول ہے۔

۱۷۷۳۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى  
بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو بِن  
حِزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا زَالَ جِبْرِئِيلُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ  
يُوصِينِي بِالْحَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَنِي

۱۷۷۳۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جبریلؑ  
ہمیشہ مجھے پڑوسی کے متعلق نصیحت کرتے رہے یہاں تک کہ میں گمان  
کرنے لگا کہ وہ اسے وارث بنا دیں گے۔

۱۷۷۴۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ  
الْمُبَارَكِ عَنْ حِيوَةَ بْنِ شَرِيْحٍ عَنْ شَرْحِبِيلِ بْنِ شَرِيْحٍ  
عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو  
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ  
الْحَيْرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِحَارِهِ

۱۷۷۴۔ حضرت عبد اللہ بن عمروؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:  
اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ساتھی وہ ہے۔ جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر  
ہے اور بہتر پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہے۔

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ابو عبد الرحمن حبلی کا نام عبد اللہ بن زید ہے۔

باب ۱۲۵۹۔ مَا جَاءَ فِي الْإِحْسَانِ إِلَى الْخَادِمِ

باب ۱۲۵۹۔ خادم پر احسان کرنے کے متعلق

۱۷۷۵۔ حَدَّثَنَا بِنْدَارٌ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا  
سَفِيْنٌ عَنْ وَاصِلٍ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ  
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْوَانُكُمْ  
جَعَلَهُمُ اللَّهُ فِتْيَةً تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ

۱۷۷۵۔ حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (یہ بھی)  
تمہارے بھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ہاتھوں کے نیچے جو ان  
کر دیا ہے۔ لہذا جس کے ماتحت اس کا بھائی (خادم) ہوا ہے چاہے  
کہ وہ اسے اپنے کھانے میں سے کھانا کھلائے اپنے لباس جیسا لباس

تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمَهُ مِنْ طَعَامِهِ وَلْيَلْبَسَهُ مِنْ لِبَاسِهِ  
وَلَا يَكْلِفُهُ مَا يُغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يُغْلِبُهُ فَلْيُعِنَهُ

اس باب میں علیؑ، ام سلمہؓ، ابن عمرؓ، ابو ہریرہؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۷۷۶۔ حدثنا احمد بن منيع ثنا يزيد بن هارون  
عن همام بن يحيى عن فرقد عن مرة عن أبي بكر  
ن الصَّيْتِيَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا  
يَدْخُلُ الْحَنَّةَ سَيِّءُ الْمَلَكََةِ

۱۷۷۶۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ، رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ  
آپ ﷺ نے فرمایا: بد اخلاق آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

یہ حدیث غریب ہے۔ ابواب سختیانی اور کئی راوی فرقد سبھی پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان کا حافظ قوی نہیں۔

باب ۱۲۶۰۔ النَّهْيُ عَنِ ضَرْبِ الْخُدَّامِ وَشْتَمِهِمْ  
۱۷۷۷۔ حدثنا احمد بن محمد ثنا عبد الله عن  
فضيل بن غزوان عن ابن ابي نعيم عن أبي هريرة قال  
قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم نبي التوبة من  
قدف مملوكه بريثا مما قال له أقام الله عليه الحد  
يوم القيامة إلا أن يكون كما قال

باب ۱۲۶۰۔ خادموں کو مارنے اور گالی دینے کی ممانعت۔

۱۷۷۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ تو بہ کی صفت سے متصف نبی  
ابو قاسم ﷺ نے فرمایا: جو اپنے غلام یا لونڈی پر زنا کی تہمت لگائے گا اور وہ  
اس سے بری ہوں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر حد جاری  
کریں گے۔ الایہ کہ اس کا الزام صحیح ہو۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اس باب میں سوید بن مقرنؓ اور عبد اللہ بن عمروؓ بھی حدیثیں نقل کرتے ہیں۔ اور ابن ابی نعم کا نام عبد الرحمن بن  
ابی نعم حلی اور کنیت ابوالحکم ہے۔

۱۷۷۸۔ حدثنا محمود بن غيلان ثناء مؤمل ثنا  
سفيان عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن أبيه عن  
أبي مسعود قال كنت أضرب مملوكا فسمعت  
قائلا من خلفي يقول أعلم أبا مسعود أعلم  
أبا مسعود قالت فت فإذا أنا برسول الله صلى الله  
عليه وسلم فقال لله أقدر عليك منك عليه قال  
أبو مسعود فما ضربت مملوكي بعد ذلك

۱۷۷۸۔ حضرت ابو مسعودؓ کہتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا کہ  
میرے پیچھے سے ایک آواز آئی۔ خبردار ابو مسعود جان لو ابو مسعود! میں  
نے مڑ کر دیکھا تو اچانک آپ ﷺ میرے سامنے کھڑے تھے۔ فرمایا:  
اللہ تعالیٰ تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ ابو مسعود ٹھراتے ہیں کہ  
اس کے بعد میں نے کبھی کسی خادم کو نہیں مارا۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابراہیم تمیمی، یزید بن شریک کے بیٹے ہیں۔

باب ۱۲۶۱۔ خادم کو ادب سکھانا

باب ۱۲۶۱۔ مَا جَاءَ فِي آدَبِ الْخَادِمِ

۱۷۷۹۔ حضرت ابو سعیدؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم میں  
سے کوئی اپنے خادم کو مار رہا ہو اور وہ اللہ کو یاد کرنے لگے تو اسے فوراً اپنا

۱۷۷۹۔ حدثنا احمد بن محمد ثنا عبد الله عن  
سفيان عن ابي هارون العبدی عن ابي سعيد قال

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضَرَبَ  
أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ فَأَرْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ

ابو ہارون عبدی: عمارہ بن جوین ہے۔ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ شعبہ نے ابو ہارون عبدی کو ضعیف قرار دیا ہے۔ یحییٰ مزید کہتے ہیں کہ ابن عون اپنے انتقال تک ابو ہارون سے احادیث نقل کرتے رہے۔

باب۔ ماجاء فی العفو عن الخادم۔

باب۔ غلام کو معاف کرنا۔

۱۷۸۰۔ حدثنا قتيبة ثنا راشد بن سعد عن ابي هاتمي  
الحولاني عن عباس بن جليل الحَجْرِي عن عَبْدِ اللَّهِ  
بْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمْ أَعْفُوا عَنِ الْخَادِمِ فَصَمَّتْ عَنْهُ  
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمْ أَعْفُوا  
عَنِ الْخَادِمِ قَالَ كُلُّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً

۱۷۸۰۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! کتنی مرتبہ اپنے خادم کو معاف کروں؟ آپ ﷺ چپ رہے۔ اس نے دوبارہ وہی سوال عرض کیا تو فرمایا: ہر دن ستر مرتبہ۔

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ عبد اللہ بن وہب اسے ابو ہانی خولانی سے اسی سند سے اسی طرح نقل کرتے ہیں اور بعض راوی اسی سند سے یہ حدیث نقل کرتے ہوئے عبد اللہ بن عمرو سے روایت کرتے ہیں۔

باب ۱۲۶۲۔ مَا جَاءَ فِي أَدَبِ الْوَالِدِ

باب ۱۲۶۲۔ اولاد کو ادب سکھانا

۱۷۸۱۔ حدثنا قتيبة ثنا يحيى بن يعلى عن ناصح  
عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يُؤَدَّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ  
مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ

۱۷۸۱۔ حضرت جابر بن سمرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کسی کا اپنے بیٹے کو ادب سکھانا ایک صاع (ایک پیانہ) صدقہ دینے سے بہتر ہے۔

یہ حدیث غریب ہے۔ ناصح بن علاء کوئی محدثین کے نزدیک قوی نہیں اور اسی سند سے معروف ہے جب کہ ناصح بصری ایک دوسرے محدث ہیں جو عمار بن ابی عمار وغیرہ سے نقل کرتے ہیں اور یہ ان سے اشبت ہیں۔

۱۷۸۲۔ حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثنا عامر  
بن أَبِي عَامِرٍ النَّخْرَازِيُّ ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ  
جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
مَا نَحَلَّ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلِ أَفْضَلٍ مِنْ أَدَبٍ حَسَنِ

۱۷۸۲۔ حضرت ایوب بن موسیٰ اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو حسن ادب سے بہتر انعام نہیں دیا۔

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں اور ایوب بن موسیٰ: ابن عمرو بن سعید بن عاص ہیں۔ یہ روایت مرسل ہے۔

باب ۱۲۶۳۔ مَا جَاءَ فِي قُبُولِ الْهَدِيَّةِ وَالْمُكَافَاةِ عَلَيْهَا

باب ۱۲۶۳۔ ہدیہ قبول کرنا اور اس کے بدلے میں کچھ دینا۔

۱۷۸۳۔ حدثنا يحيى بن اكنم وعلی بن خشرم

۱۷۸۳۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہدیہ قبول کرتے اور

قالا ثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها

اس باب میں جاہز، ابو ہریرہ، انسؓ اور ابن عمرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے، ہم اسے صرف عیسیٰ بن یونس کی روایت سے مرفوع جانتے ہیں۔

باب ۱۲۶۴۔ مَا جَاءَ فِي الشُّكْرِ لِمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ  
 ۱۷۸۴۔ حدثنا احمد بن محمد ثنا عبد الله بن المبارك ثنا الربيع بن مسلم ثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله  
 یہ حدیث صحیح ہے۔

باب ۱۲۶۳۔ احسان کرنے والے کا شکر یہ ادا کرنا۔  
 ۱۷۸۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص لوگوں کا شکر یہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرے گا۔

باب ۱۲۸۵۔ حدثنا هناد ثنا ابو معاوية عن ابن ابي ليلى ح وثنا سفيان بن وكيع ثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن ابن ابي ليلى عن عطيبة عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله

۱۷۸۵۔ حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔

اس باب میں ابو ہریرہؓ، اشعث بن قیسؓ اور نعمان بن بشیرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۶۵۔ مَا جَاءَ فِي صَنَائِعِ الْمَعْرُوفِ  
 ۱۷۸۶۔ حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري ثنا النضر بن محمد الجرشي اليمامي ثنا عكرمة بن عمار ثنا ابو زميل عن مالك بن مرثد عن ابيه عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ وَ أَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَ إِرْتَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الصَّلَاةِ لَكَ صَدَقَةٌ وَ بَصْرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِّيِّ الْبَصْرَ لَكَ صَدَقَةٌ وَ إِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَ الشُّوكَ وَ الْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ وَ أَفْرَاعُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ

باب ۱۲۶۵۔ نیک کاموں کے متعلق۔  
 ۱۷۸۶۔ حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا، اسے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا سب صدقہ ہے۔ پھر کسی بھولے بھٹکے کو راہ بتا دینا، نابینے کے ساتھ چلنا، راستے سے پتھر، کانٹا یا ہڈی وغیرہ ہٹا دینا اور اپنی بالٹی سے اپنے بھائی کی بالٹی میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہی کے زمرے میں آتا ہے۔

اس باب میں ابن مسعود، جابر، حدیفہ، عائشہ اور ابو ہریرہ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے اور ابو زریعہ کا نام سماک بن ولید حنفی اور نصر بن محمد جرشی، یمامی ہیں۔

باب ۱۲۶۶۔ مَا جَاءَ فِي الْمَيْبِخَةِ

باب ۱۲۶۶۔ مئیحہ کے متعلق۔ (۱)

۱۷۸۷۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ ثَنَا اِبْرَاهِيمَ بْنِ يُوْسُفَ بْنِ اَبِي اسْحَقَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي اسْحَقَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مَصْرُوفٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَنَحَ مَيْبِخَةَ لِبِنٍ أَوْ رِقٍ أَوْ هَدَى رُفَاقًا كَانَ لَهُ مِثْلُ عَتَقِ رَقَبَةٍ

۱۷۸۷۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے دودھ یا چاندی کا مئیحہ دیا۔ یا کسی بھولے بھٹکے کو راستہ بتایا اسے ایک غلام یا باندی آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ ابوالحق اسے طلحہ بن مصروف سے نقل کرتے ہیں اور ہم اسے اسی سند سے جانتے ہیں۔ پھر منصور بن معتمر اور شعبہ بھی طلحہ بن مصروف سے نقل کرتے ہیں۔ اس باب میں نعمان بن بشیر سے بھی حدیث منقول ہے۔

باب ۱۲۶۷۔ مَا جَاءَ فِي اِمَاطَةِ الْاَذَى عَنِ الطَّرِيقِ

باب ۱۲۶۷۔ راستہ میں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔

۱۷۸۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ سَمِيٍّ عَنْ اَبِي صَالِحٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي الطَّرِيقِ اِذْ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ فَاخْرَهَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ

۱۷۸۸۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ اگر کوئی شخص چلتے چلتے راستے میں سے کسی کانٹے دار ٹہنی کو بھی ایک طرف کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی جزا دیں گے اور اس کو بخش دیں گے۔

اس باب میں ابو ہریرہ، ابن عباس اور ابو ذر بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۶۸۔ مَا جَاءَ اَنَّ الْمَجَالِسَ بِالْاَمَانَةِ

باب ۱۲۶۸۔ مجالس میں امانت کی اہمیت

۱۷۸۹۔ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ ابْنِ اَبِي ذَنْبٍ قَالَ اخْبَرَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْحَدِيثَ ثُمَّ التَّقَمَتْ فَهِيَ اَمَانَةٌ

۱۷۸۹۔ حضرت جابر بن عبد اللہ، آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تم سے کوئی بات کر کے چلا جائے تو وہ تمہارے پاس امانت ہے۔

یہ حدیث حسن ہے اور صرف ابن ابی ذنب کی روایت سے معروف ہے۔

باب ۱۲۶۹۔ مَا جَاءَ فِي السَّخَاءِ

باب ۱۲۶۹۔ سخاوت کے متعلق۔

۱۷۹۰۔ حَدَّثَنَا اَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى

۱۷۹۰۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ!

(۱) مئیحہ: دودھ کا مئیحہ اسے کہتے ہیں کہ کسی کو اونٹنی یا بکری وغیرہ سے فائدہ حاصل کرنے کیلئے اس شرط پر دی جائے کہ وہ جب تک چاہے اسے استعمال کرے اور پھر مالک کو واپس کر دے۔ جب کہ چاندی کا مئیحہ یہ ہے کہ کسی کو بطور قرض پیسے دیئے جائیں۔ واللہ اعلم (مترجم)

میرے پاس جو کچھ بھی ہے زیر ہی کی کمائی سے ہے کیا میں اس میں سے صدقہ، خیرات دے سکتی ہوں۔ فرمایا: ہاں دے سکتی ہو بلکہ مال کو روک کے نہ رکھو ورنہ تم سے بھی روک لیا جائے گا۔

الحسانی البصری ثنا حاتم بن وردان ثنا ایوب عن ابن ابی مُلَیْکَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ فَأَعْطَى قَالَ نَعَمْ لَا تُؤَكِّدِي فَيُؤَكِّدِي عَلَيْكَ يَقُولُ لَا تَحْصِي فَيُحْصِي عَلَيْكَ

اس باب میں عائشہ اور ابو ہریرہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور بعض اسے اسی سند سے ابن ابی سلیمہ سے وہ عباد بن عبد اللہ سے اور وہ حضرت اسماء سے نقل کرتے ہیں جب کہ کئی راوی اسے ایوب سے نقل کرتے ہوئے عباد بن عبد اللہ بن زیر کو حذف کر دیتے ہیں۔

۱۷۹۱۔ حدثنا الحسن بن عرفة ثنا سعيد بن محمد الوراق عن يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النار والبخل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النار والجاهل السخي أحب إلى الله من عابد بخل

۱۷۹۱۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سخی اللہ سے بھی قریب ہوتا ہے، جنت سے بھی اور لوگوں سے بھی۔ جب کہ جہنم سے دور ہوتا ہے۔ البتہ بخیل اللہ تعالیٰ سے، جنت سے اور لوگوں سے دور اور جہنم سے قریب ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے نزدیک جاہل سخی، بخل عابد سے زیادہ محبوب ہے۔

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف یحییٰ بن سعید کی اعرج سے روایت سے پہچانتے ہیں۔ ابو ہریرہ سے یہ حدیث صرف سعید بن محمد کی سند سے منقول ہے۔ اس حدیث کی روایت میں اختلاف کیا گیا ہے کیونکہ سعید، یحییٰ بن سعید سے نقل کرتے ہیں اور وہ حضرت عائشہ سے کچھ احادیث مرسلہ بھی نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۲۷۰۔ بخل کے متعلق۔

باب ۱۲۷۰۔ مَا جَاءَ فِي الْبُخْلِ

۱۷۹۲۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دو خصالتیں ایسی ہیں کہ ایک مؤمن میں جمع نہیں ہو سکتیں۔ بخل اور بد اخلاقی۔

۱۷۹۲۔ حدثنا ابو حفص عمرو بن علي ثنا ابو داود ثنا صدقة بن موسى ثنا مالك بن دينار عن عبد الله بن غالب الخُدَري عن أبي سعيد الخُدَري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حصلتان لا تجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق

اس باب میں ابو ہریرہ سے بھی حدیث منقول ہے ہم اسے صدقہ بن موسیٰ کی روایت سے ہی جانتے ہیں اور یہ حدیث غریب ہے۔ ۱۷۹۳۔ حضرت ابو بکر صدیق، رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: قریب کرنے والا، بخیل اور احسان نہ کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔

۱۷۹۳۔ حدثنا احمد بن منيع ثنا يزيد بن هارون ثنا صدقة بن موسى عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر بن الصديق عن النبي صلى الله عليه

وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَبٌّ وَلَا بَحِيلٌ وَلَا مَنَّاؤٌ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۱۷۹۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مؤمن بھولا اور کریم ہوتا ہے جب کہ فاجر، فرستی اور بخیل ہوتا ہے۔

۱۷۹۴۔ حدثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن غير كريم والفاجر حَبٌّ لَيْئِمٌ  
ہم یہ حدیث صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

باب ۱۲۷۱۔ گھروالوں پر خرچ کرنا۔

۱۷۹۵۔ حضرت ابو مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کسی شخص کا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔

باب ۱۲۷۱۔ مَا جَاءَ فِي النَّفَقَةِ عَلَى الْاَهْلِ  
۱۷۹۵۔ حدثنا احمد بن محمد ثنا عبد الله بن المبارك عن شعبة عن عدی بن ثابت عن عبد الله بن زييد عن ابي مسعود الانصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفقة الرجل على اهله صدقة

اس باب میں عبد اللہ بن عمروؓ، عمرو بن امیہؓ اور ابو ہریرہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۷۹۶۔ حضرت ثوبانؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بہترین دینار وہ ہے جسے کوئی شخص اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے یا پھر وہ دینار جسے وہ جہاد میں جانے کے لیے اپنی سواری پر یا اپنے دوستوں پر فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہے۔ ابو قلابہؓ کہتے ہیں کہ راوی نے عیال کا شروع میں ذکر کیا اور پھر فرمایا: اور اس شخص سے زیادہ کسے ثواب مل سکتا ہے۔ جو اپنے چھوٹے بچوں پر خرچ کرتا ہے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے محنت و مشقت کرنے سے بچالیتا ہے اور انہیں مستثنیٰ کر دیتا ہے۔

۱۷۹۶۔ حدثنا قتيبة ثنا حماد بن زيد عن ابوب عن ابي قلابة عن ابي اسماء عن ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الدينار دينار ينفقه الرجل على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه الرجل على اصحابه في سبيل الله قال ابو قلابة نداء بالعيال ثم قال واتي رجل اعظم اجرا من رجل ينفق على عياله له صغار يعفهم الله به ويعفيهم الله به

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۷۲۔ مہمان کا اکرام۔

۱۷۹۷۔ حضرت ابو شریحؓ عدویٰ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے آنحضرت ﷺ کو دیکھا اور کانوں نے سنا کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہئے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے اور اسے ضیافت دے صحابہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ!

باب ۱۲۷۲۔ مَا جَاءَ فِي الضِّيَافَةِ وَغَايَةِ الضِّيَافَةِ كَمْ هُوَ  
۱۷۹۷۔ حدثنا قتيبة ثنا الليث بن سعد عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي شريح العدوي انه قال ابصرت عيناى رسول الله صلى الله عليه وسلم و سمعته اذ نأى حين تكلم به قال من كان

ضیافت کیا ہے؟ فرمایا: ایک دن اور رات پر تکلف ضیافت کرنا پھر فرمایا کہ ضیافت تین دن تک ہے اور اسکے بعد صدقہ ہے اور جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے اچھی بات ہی کہنی چاہئے۔ ورنہ خاموش رہنا چاہئے۔

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمُ صَبِيغَةَ جَارِزَتَهُ قَالُوا وَمَا جَارِزَتُهُ قَالَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ قَالَ وَالصِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْلَيْسَ كُنْتُ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۷۹۸۔ حضرت ابو شریح کعمیؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ضیافت تین دن تک اور پر تکلف ضیافت ایک دن و رات ہوتی ہے اس کے بعد جو کچھ مہمان پر خرچ کیا جائے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اس کے پاس زیادہ وقت تک ٹھہرا رہے یہاں تک کہ اسے حرج ہونے لگے۔ اس کے معنی یہی ہیں کہ مہمان، میزبان کے پاس اتنا طویل نہ کرے۔ کہ اس پر شاق گزرنے لگے اور حرج میں نہ ڈالنے سے مراد یہی ہے کہ اسے تنگ نہ کرے۔

۱۷۹۸۔ حدثنا ابن ابی عمر ثنا سفیان عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيافة ثلاثة أيام وجارزته يوم وليلة وما انفق عليه بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يتوى عنده حتى يخرجه ومعنى قوله لا يتوى عنده يعني الضيف لا يقيم عنده حتى يشتد على صاحب المنزل والخرج هو الضيف إنما قوله حتى يخرجه ويقول حتى يضيّق عليه

اس باب میں عائشہ اور ابو ہریرہؓ سے بھی احادیث نقل کی گئی ہیں۔ مالک بن انس اور لیث بن سعد بھی یہ حدیث سعید مقبری سے نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابو شریح خزاعی: کعمی عدوی ہیں۔ ان کا نام خویلہ بن عمرو ہے۔

باب ۱۲۷۳۔ تیسوں اور بیواؤں کے لیے کوشش کرنا۔  
۱۷۹۹۔ حضرت صفوان بن سلیم مروفاً نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ مسکین یا بیواؤں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوشش کرنے والا جہاد کرنے والے مجاہد کی طرح ہے یا پھر ایسے شخص کی طرح جو دن میں روزہ رکھتا اور رات کو نمازیں پڑھتا ہے۔

باب ۱۲۷۳۔ مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْيَتِيمِ ۱۷۹۹۔ حدثنا الانصاري ثنا معن ثنا مالك عن صفوان بن سليم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة واليتيم كالمجاهد في سبيل الله أو كالأذى يصوم النهار ويقوم الليل

انصاری، معن سے وہ مالک سے وہ ثور بن زید سے وہ ابو غیث سے اور وہ ابو ہریرہؓ سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے اور ابو غیث کا نام سالم ہے وہ عبد اللہ بن مطیع کے مولیٰ ہیں۔ پھر ثور بن زید: شامی اور ثور بن زید مدنی ہیں۔

باب ۱۲۷۴۔ کشادہ پیشانی اور بشاش چہرے کے ساتھ ملاقات کرنا۔  
۱۸۰۰۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر نیک کام صدقہ ہے۔ اور یہ بھی نیکیوں میں سے ہے کہ تم اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے (خوش ہو کر) ملو اور اپنی بالٹی میں سے پانی اس کی بالٹی

باب ۱۲۷۴۔ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الْوَجْهِ وَحَسَنِ الْبَشْرِ ۱۸۰۰۔ حدثنا قتيبة ثنا المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف

صَدَقَّةٌ وَإِنْ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَحَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ  
وَأَنْ تُفْرِعَ مِنْ دَلُوكَ فِي إِنْآءِ أَحِيكَ

اس باب میں ابو ذر سے بھی حدیث منقول ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۷۵۔ مَا جَاءَ فِي الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ

۱۸۰۱۔ حَدَّثَنَا هِنَادُنَا أَبُو معاوية عن الاعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً

اس باب میں ابو بکرؓ، عمرؓ، عبد اللہ بن شخیرؓ اور ابن عمرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۸۰۲۔ حَدَّثَنَا يحيى ابن موسى قال قلت لعبد الرحيم بن هارون الغساني حدثكم عبدالعزيز بن ابي رواد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلاً من نثن ما جاء به

یحییٰ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث عبد الرحیم بن ہارون سے بیان کی تو انہوں نے فرمایا: ہاں یہ حدیث حسن، جید اور غریب ہے۔ ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

باب ۱۲۷۶۔ مَا جَاءَ فِي الْفُحْشِ

۱۸۰۳۔ حَدَّثَنَا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني وغير واحد قالوا ثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه

اس باب میں حضرت عائشہؓ بھی حدیث نقل کرتی ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف عبد الرزاق کی روایت سے جانتے ہیں۔

باب ۱۲۷۵۔ سچ اور جھوٹ کے متعلق۔

۱۸۰۱۔ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ سچ کا دامن تھامے رہو کیونکہ سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے۔ اور یہ راستہ جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ سچ بولتا اور اسی کی تلاش میں رہتا ہے وہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ برائی کا راستہ دکھاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے جو شخص ہمیشہ جھوٹ بولتا اور اسی کو تلاش کرتا رہتا ہے وہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔

۱۸۰۲۔ حضرت ابن عمرؓ رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کی بدبو کی وجہ سے ایک میل دور ہو جاتا ہے۔

باب ۱۲۷۶۔ فحش گوئی کے متعلق

۱۸۰۳۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: فحش گوئی کسی چیز میں شامل ہو جائے تو اسے خراب کر دیتی ہے جب کہ حیا کسی چیز کی زینت کو دودھ بالا کر دیتی ہے۔

۱۸۰۴۔ حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کا اخلاق سب سے بہتر ہے اور آنحضرت ﷺ نے کبھی فحش گوئی کرتے اور نہ ہی یہ ان کی عادات میں سے تھا۔

۱۸۰۴۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ابْنَانَا شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يَحْدُثُ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَحْلَاقًا وَلَمْ يُكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا  
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۷۔ لعنت بھیجنے کے متعلق۔

باب ۱۲۷۷۔ مَا جَاءَ فِي اللَّعْنَةِ

۱۸۰۵۔ حضرت سرہ بن جندب کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آپس میں ایک دوسرے پر اللہ یا اس کے غصے کی لعنت نہ بھیجا کرو اور نہ ہی کسی سے اس طرح کہا کرو کہ تم جہنم میں جاؤ۔

۱۸۰۵۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا هِشَامُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بِنْتِ جُنْدُبٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلَا عَنُوتًا بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَلَا بَغْضَبِهِ وَلَا بِالنَّارِ

اس باب میں ابن عباسؓ، ابو ہریرہؓ، ابن عمرؓ اور عمران بن حصینؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۸۰۶۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: طعن کرنے والا، کسی پر لعنت بھیجنے والا، فحش گوئی کرنے والا اور بدتمیزی کرنے والا مؤمن نہیں ہے۔

۱۸۰۶۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ الْبَصْرِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ عَنْ اسْرَائِيلَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبِدِيِّ

یہ حدیث حسن غریب ہے اور عبداللہ بن مسعودؓ ہی سے کئی سندوں سے منقول ہے۔

۱۸۰۷۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول خدا ﷺ کے سامنے ہوا پر لعنت بھیجی آپ ﷺ نے فرمایا: ہوا پر لعنت نہ بھیجو یہ تو مامور ہے اور جو شخص کسی ایسی چیز پر لعنت بھیجتا ہے جو اس کی مستحق نہیں تو وہ لعنت اسی پر واپس آتی ہے۔

۱۸۰۷۔ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَحْزَمِ الطَّائِيُّ الْبَصْرِيُّ ثَنَا بَشْرُ بْنُ عَمْرِو ثَنَا ابَانُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا لَعَنَ الرِّيحَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَلْعَنُ الرِّيحَ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتْ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ

یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے صرف بشر بن عمر کی روایت سے مرفوع جانتے ہیں۔

باب ۱۲۷۸۔ نسب سیکھنے کے متعلق۔

باب ۱۲۷۸۔ مَا جَاءَ فِي تَعْلَمِ النَّسَبِ

۱۸۰۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: نسب

۱۸۰۸۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنُ

کے متعلق اتنا کچھ بیکھو کہ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کر سکو اس لیے کہ رشتے داروں سے حسن سلوک کرنا۔ اپنے گھر والوں میں محبت کا موجب، مال زیادتی اور موت میں تاخیر کا موجب ہے۔

باب ۱۲۷۹۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا۔

۱۸۰۹۔ حضرت عبداللہ بن عمروؓ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: غائب کی کسی غائب کے لیے دعا کے علاوہ کوئی دعا ایسی نہیں جو اس طرح جلدی قبول ہوتی ہو۔

المبارك عن عبدالمملك بن عيسى الثقفي عن يزيد بن مولى المنعبت عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في المال منساة في الأثر

باب ۱۲۷۹۔ مَا جَاءَ فِي دَعْوَةِ الْآخِ لِأَجْبِهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ  
۱۸۰۹۔ حدثنا عبد بن حميد ثنا قبيصة عن سفیان عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما دعوة أسرع إجابة من دعوة غائب لغائب

یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں اور افریقی کا نام عبدالرحمن بن زیاد بن انعم افریقی ہے۔ یہ ضعیف ہیں۔

باب ۱۲۸۰۔ گالی گلوچ کے متعلق۔

باب ۱۲۸۰۔ مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَمِ

۱۸۱۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دو گالی گلوچ کرنے والوں کا وبال ان دونوں میں سے شروع کرنے والے پر ہے الا یہ کہ مظلوم کی طرف سے زیادتی نہ ہو۔ (یعنی وہ اس سے بڑھ کر گالی گلوچ نہ کرے)۔

۱۸۱۰۔ حدثنا قتيبة ثنا عبدالعزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المستبان ما قالا فعلى البادي منهما مالم يعتد المظلوم

اس باب میں سعد، ابن مسعود اور عبداللہ بن مغفلؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۸۱۱۔ حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مرجانے والوں کو گالی نہ دیا کرو کیونکہ اس سے زندہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔

۱۸۱۱۔ حدثنا محمود بن غيلان ثنا ابو داود الحضري عن سفیان عن زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء

اس حدیث کو نقل کرنے میں سفیان کے ساتھیوں کا اختلاف ہے۔ بعض اسے حضرت کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں جب کہ بعض سفیان سے اور وہ زیاد بن علاقہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے مغیرہ بن شعبہ کے پاس ایک آدمی کو آنحضرت ﷺ سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہوئے سنا۔

۱۸۱۲۔ حضرت عبداللہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کسی مسلمان کو گالی دینا فسق اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ زبید کہتے ہیں کہ میں نے ابو وائل سے پوچھا: کیا آپ نے خود یہ حدیث عبداللہ سے سنی تو فرمایا: ہاں۔

۱۸۱۲۔ حدثنا محمود بن غيلان ثنا وكيع ثنا سفیان عن زبيد بن الحارث عن أبي وإيل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب المسلم فسوق وقتاله كفر قال زبيد قلت

لَا بِي وَآئِلٍ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ  
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۸۱۔ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ الْمَعْرُوفِ

۱۸۱۳۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَسْهَرٍ  
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ  
عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
إِنَّ فِي الْحَنَةِ عَرَفًا تَرَى ظُهُورَهَا مِنْ بُطُونِهَا  
وَبُطُونِهَا مِنْ ظُهُورِهَا فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ لِمَنْ هِيَ يَا  
رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ وَأَطَعَمَ الطَّعَامَ  
وَأَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف عبدالرحمن بن اسحاق کی روایت سے جانتے ہیں۔

باب ۱۲۸۲۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْمَمْلُوكِ الصَّالِحِ

۱۸۱۴۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍو ثَنَا سَفِيَانُ عَنِ  
الْإِعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعْمَ مَا لَأَحَدِهِمْ أَنْ  
يُطِيعَ اللَّهَ وَيُؤَدِّيَ حَقَّ سَيِّدِهِ يَعْنِي الْمَمْلُوكَ وَقَالَ  
كَعْبُ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

اس باب میں ابوموسیٰ اور ابن عمر بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۸۱۵۔ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنِ سَفِيَانِ عَنِ  
أَبِي الْيَقْظَانَ عَنْ زَادَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ عَلَى كُتُبَانِ الْمِسْكِ  
أَرَاهُ قَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوْلِيهِ  
وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ وَرَجُلٌ يُنَادِي  
بِالصَّلَاةِ التَّحْمُسِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف ابوسفیان کی روایت سے جانتے ہیں۔ ابوالیقظان کا نام عثمان بن قیس ہے۔

باب ۱۲۸۳۔ مَا جَاءَ فِي مُعَاشِرَةِ النَّاسِ

۱۸۱۶۔ حَدَّثَنَا بِنْدَارٌ ثَنَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا

باب ۱۲۸۲۔ معاشرت کے متعلق

۱۸۱۶۔ حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا:

باب ۱۲۸۱۔ قول معروف کے متعلق۔

۱۸۱۳۔ حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنت میں  
ایسے بالا خانے ہیں جن کا بیرونی اندر سے اور اندرونی منظر باہر سے  
صاف نظر آئے گا۔ ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور پوچھا: وہ کس کے لیے  
ہوں گے؟ یا رسول اللہ ﷺ فرمایا: جو اچھی طرح بات کرے گا، لوگوں کو  
کھانا کھلائے گا۔ اکثر روزے رکھے گا اور رات کے وقت جب لوگ  
سو جاتے ہیں وہ نماز میں مشغول رہے گا۔

باب ۱۲۸۲۔ نیک مملوک کی فضیلت

۱۸۱۴۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کتنا  
بہتر ہے وہ شخص جو اللہ کی بھی اطاعت کرے اور اپنے آقا کا بھی حق  
ادا کرے۔ یعنی غلام یا ندی۔ کعب کہتے ہیں: اللہ اور اس کے رسول ﷺ  
نے سچ کہا ہے۔

۱۸۱۵۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تین شخص  
مک کے نیلوں پر ہوں گے۔ ابن عمرؓ کہتے ہیں: میرا خیال ہے کہ  
”قیامت کے دن“ بھی فرمایا۔ ایک وہ شخص جو اللہ کا حق ادا کرنے کے  
ساتھ ساتھ اپنے مالک کا حق بھی ادا کرے گا۔ دوسرا وہ امام جس سے  
اس کے مقتدی راضی ہوں اور تیسرا وہ شخص جو پانچوں نمازوں کے لیے  
اذان دیتا ہے۔

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف ابوسفیان کی روایت سے جانتے ہیں۔ ابوالیقظان کا نام عثمان بن قیس ہے۔

باب ۱۲۸۳۔ معاشرت کے متعلق

۱۸۱۶۔ حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا:

جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو اور برائی کے بعد بھلائی کرو تا کہ وہ اسے  
مٹا دے اور لوگوں کے ساتھ خوش خلقی سے ملو۔

سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ميمون بن ابي  
شبيب عن ابي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله  
عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت واتبع السبقة  
الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن

اس باب میں ابو ہریرہؓ بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمود بن غنیان، ابوالاحمد اور ابو نعیم سے وہ سفیان سے اور  
وہ حبیب سے اسی سند سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ وکیع بھی سفیان سے وہ حبیب سے وہ میمون سے وہ معاذ بن جبل سے اور وہ  
آنحضرت ﷺ سے اسی کے مثل نقل کرتے ہیں۔ محمود کہتے ہیں کہ صحیح حدیث ابو ذرؓ کی ہے۔

باب ۱۲۸۳۔ بدگمانی کے متعلق۔

باب ۱۲۸۴۔ مَا جَاءَ فِي ظَنِّ السُّوءِ

۱۸۱۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ  
نے فرمایا: بدگمانی سے پرہیز کیونکہ یہ سب سے زیادہ چھوٹی بات ہے۔

۱۸۱۷۔ حدثنا ابن ابي عمر ثنا سفيان عن ابي  
الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله  
صلى الله عليه وسلم قال اياكم والظن فان الظن  
اكذب الحديث

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ میں نے عبد بن حمید کو سفیان کے بعض ساتھیوں سے نقل کرتے ہوئے سنا کہ سفیان کہا کرتے تھے: گمان دو  
قسم کا ہے ایک گناہ ہے اور دوسرا نہیں۔ گناہ یہ ہے کہ بدگمانی دل میں بھی کرے اور زبان پر بھی آئے۔ جب کہ صرف دل ہی میں بدگمانی  
کرنا گناہ نہیں۔

باب ۱۲۸۵۔ خوش طبعی کے متعلق۔

باب ۱۲۸۵۔ مَا جَاءَ فِي الْمِرَاحِ

۱۸۱۸۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ سے گھل مل جایا  
کرتے تھے۔ یہاں تک کہ میرے چھوٹے بھائی سے فرماتے۔ اے  
ابوعبیر: بغیر نے کیا کیا۔ (بغیر ایک پرندے کا نام ہے)۔

۱۸۱۸۔ حدثنا عبد الله بن الوضاح الكوفي ثنا  
عبد الله بن ادريس عن شعبة عن ابي التياح عن  
انس قال ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  
ليخالطنا حتى ان كان ليقول لآخ لي صغير يا ابا  
عمير ما فعل النغير

ہنا د بھی وکیع سے وہ شعبہ سے وہ ابو تیاح سے اور وہ حضرت انسؓ سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔  
اور ابو تیاح کا نام یزید بن حمید ہے۔

۱۸۱۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ  
! آپ ﷺ ہم سے خوش طبعی کرتے ہیں۔ فرمایا: میں سچ کے علاوہ  
کچھ نہیں کہتا۔

۱۸۱۹۔ حدثنا العباس بن محمد الدوري ثنا علي  
بن الحسن ثنا عبد الله بن المبارك عن اسامة بن زيد  
عن سعيد المقبري عن ابي هريرة قال قالوا يا  
رسول الله انك تداعبنا قال اني لا اقول الا حقا  
یہ حدیث حسن ہے اور تداعبنا سے مراد مذاق ہی ہے۔

۱۸۲۰۔ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں فرمایا: اے دوکان والے، محمود، اسامہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ حضرت انسؓ کا مقصد یہی تھا کہ آپ ﷺ نے مذاق کیا۔

۱۸۲۱۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے سواری مانگی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں تمہیں اونٹنی کے بچے پر سوار کروں گا۔ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا اونٹوں کو اونٹنیوں کے علاوہ بھی کوئی جتنا ہے۔ (یعنی تمام اونٹ اونٹنیوں ہی کے بچے ہیں)۔

باب ۱۲۸۶۔ تکرار کے متعلق

۱۸۲۲۔ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے ایسا جھوٹ تکرار چھوڑ دیا جو باطل تھا تو اس کے لیے جنت کے کنارے ایک مکان بنایا جائے گا۔ اور جس نے حق پر ہوتے ہوئے اسے چھوڑ دیا اس کے لیے جنت کے درمیان مکان بنایا جائے گا۔ پھر جو شخص اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے گا۔ اس کے لیے اونچی جگہ پر مکان بنایا جائے گا۔ (جنت ہی میں)۔

یہ حدیث حسن ہے، ہم اسے صرف سلمہ بن وردان کی روایت سے جانتے ہیں اور وہ انسؓ سے نقل کرتے ہیں۔

۱۸۲۳۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہمیشہ جھگڑتے رہنے کا گناہ ہی تمہارے لیے کافی ہے۔

۱۸۲۴۔ حضرت ابن عباسؓ، رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو، نہ اس سے مل لگی کرو اور نہ ہی ایسا وعدہ کرو۔ جسے تم پورا نہ کر سکو۔

۱۸۲۰۔ حدثنا محمود بن غيلان ثنا ابو أسامة عن شريك عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الأذنين قال محمود قال أبو أسامة إنما يعنى به أنه يمازحه

۱۸۲۱۔ حدثنا قتيبة ثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حميد عن أنس أن رجلاً استحمّل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني حاملك على ولد ناقة فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق

یہ حدیث صحیح غریب ہے۔

باب ۱۲۸۶۔ ما جاء في المرآة

۱۸۲۲۔ حدثنا عقبه بن مكرم العمى البصرى ثنا ابن ابى فديك قال اخبرنى سلمة بن وردان الليثى عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الكذب وهو باطل بُني له في رِيض الجنة ومن ترك المرآة وهو محق بُني له في وسطها ومن حسن خلقه بُني له في أعلاها

۱۸۲۳۔ حدثنا فضالة بن الفضل الكوفي ثنا

ابوبكر بن عياش عن ابن وهب بن منبه عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بك إثماً أن لا تزال مُحاصِماً

یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

۱۸۲۴۔ حدثنا زياد بن ايوب البغدادي ثنا المحاربي عن ليث وهو ابن ابى سليم عن عبد الملك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمار أخاك ولا تمارحه ولا تعدّه موعداً فتخلفه

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے پہچانتے ہیں۔

باب ۱۲۸۷۔ مَا جَاءَ فِي الْمُدَارَاةِ

۱۸۲۵۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ثَنَا سَفِيَانُ بْنُ عَيِّنَةَ عَنْ  
مَحْمُودِ بْنِ الْمُنْكَدَرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ  
قَالَتْ إِسْتَاذَنَ رَجُلٌ عَلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ بِنَسِّ ابْنِ الْعَشِيرَةِ  
أَوْ أَحْوَالَ الْعَشِيرَةِ ثُمَّ إِذْنٌ لَهُ فَالَانَ لَهُ الْقَوْلُ فَلَمَّا خَرَجَ  
قُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ لَهُ مَا قُلْتَ ثُمَّ أَلْتَّ لَهُ  
الْقَوْلَ قَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ  
النَّاسُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۸۸۔ فِي الْإِفْتِصَادِ فِي الْحُبِّ وَالْبُغْضِ

۱۸۲۶۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو  
الْكَلْبِيُّ عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلْمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ  
مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِيْنٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَرَاهُ رَفَعَهُ قَالَ  
أَحَبُّ حَبِيْبِكَ هُوْنَا مَا عَسَى أَنْ يَكُوْنَ بَغِيْضَكَ  
يَوْمًا مَا وَأَبْغَضُ بَغِيْضَكَ هُوْنَا مَا عَسَى أَنْ  
يَكُوْنَ حَبِيْبَكَ يَوْمًا مَا

باب ۱۲۸۷۔ حسن سلوک کے متعلق۔

۱۸۲۵۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ میں آپ ﷺ کے پاس تھی آپ ﷺ نے فرمایا: قبیلہ زادہ کتنا بُرا ہے؟ یا فرمایا: قبیلہ برادر۔ پھر اس شخص کو اجازت دے دی اور اس کے ساتھ نرم روی کے ساتھ باتیں کیں۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ پہلے تو آپ ﷺ نے اسے بُرا کہا اور پھر اس سے نرمی کے ساتھ بات کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: عائشہ! بدترین شخص وہ ہے۔ جسے اس کی فحش گوئی کی وجہ سے لوگوں نے چھوڑ دیا ہو۔

باب ۱۲۸۸۔ محبت اور بغض میں میانہ روی اختیار کرنا۔

۱۸۲۶۔ حضرت ابو ہریرہؓ شاید مرفوعاً نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اپنے دوست کے ساتھ میانہ روی کا معاملہ رکھو۔ شاید کسی دن وہ تمہارا دشمن بن جائے۔ اور دشمن کے ساتھ دشمنی میں بھی میانہ روی ہی رکھو کیونکہ ممکن ہے کہ کل وہی تمہارا دوست بن جائے۔

یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ پھر یہ حدیث ایوب سے بھی ایک اور سند سے منقول ہے۔ حسن بن ابی جعفر بھی اسے نقل کرتے ہیں یہ بھی ضعیف ہے۔ حسن بھی اپنی سند حضرت علیؓ کے حوالے سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی مؤتوف ہی ہے۔

باب ۱۲۸۹۔ مَا جَاءَ فِي الْكِبْرِ

۱۸۲۷۔ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الرَّفَاعِيُّ نَا أَبُو بَكْرٍ بِن  
عِيَاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ غُلَقَمَةَ عَنْ  
عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ  
خَرَدَلٍ مِنْ كِبَرٍ وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ  
مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ إِيْمَانٍ

باب ۱۲۸۹۔ تکبر کے متعلق۔

۱۸۲۷۔ حضرت عبداللہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص کے دل میں رائی کے ایک دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اور جس شخص کے دل میں دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔

اس باب میں ابو ہریرہؓ، ابن عباسؓ، سلمہ بن اکوعؓ اور ابوسعیدؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۸۲۸۔ حضرت عبداللہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا۔ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا۔ راوی کہتے ہیں: ایک شخص نے عرض کیا: میں پسند کرتا ہوں کہ میرے کپڑے اور جوتے اچھے ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں جب کہ تکبر یہ ہے کہ کوئی شخص حق کو رد اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔

۱۸۲۸۔ حدثنا محمد بن المثنیٰ وعبدالله بن عبدالرحمن قالنا ثنا يحيى بن حماد ثنا شعبة عن ابان بن تغلب عن فضيل بن عمرو عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان قال فقال رجل انه يعجبني ان يكون نوبى حسنا ونعلنى حسنا قال ان الله يحب الجمال ولكن الكبر من بطل الحق وعمص الناس

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۱۸۲۹۔ حضرت سلمہ بن اکوعؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اپنے نفس کو اس کے مرتبے سے اونچالے جاتا اور تکبر کرتا ہے تو وہ جہارین میں لکھ دیا جاتا ہے اور اسے بھی اسی عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے جس میں وہ مبتلا ہوتے ہیں۔

۱۸۲۹۔ حدثنا ابو كريب ثنا ابو معاوية عن عمرو بن راشد عن اياس بن سلمة بن الاكوع عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما اصابهم

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۱۸۳۰۔ حضرت جبیر بن مطعمؓ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھ میں تکبر ہے حالانکہ میں گدھے پر سوار ہوا۔ موئی چادر لباس کے طور پر استعمال کی اور بکری کا دودھ دوہا۔ اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے یہ کام کیے اس میں بالکل تکبر نہیں۔

۱۸۳۰۔ حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي ثنا شابة بن سوار عن القاسم بن عباس عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابيه قال يقولون لي في التيه وقد ركبت الحمار وكيست الشملة وقد حلبت الشاة وقد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل هذا فليس فيه من الكبر شيء

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۱۲۹۰۔ اچھے اخلاق کے متعلق۔

باب ۱۲۹۰۔ ماجاء في حُسن الخلق

۱۸۳۱۔ حضرت ابودرداءؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن مومن کے میزان میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی اس لیے کہ بے حیا اور فحش گوشخص سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتے ہیں۔

۱۸۳۱۔ حدثنا ابن ابی عمر ثنا سفیان ثنا عمرو بن دینار عن ابن ابی ملیکہ عن یعلیٰ بن مملک عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه

وَسَلَّمَ قَالَ مَا شِئْتُ أَنْقَلَ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقِي حَسَنٍ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَدِيَّ

اس باب میں عائشہؓ، ابو ہریرہؓ، انسؓ اور اسامہ بن شریکؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۸۳۲۔ حضرت ابو درداءؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا: اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں۔ یعنی قیامت کے دن حساب و کتاب کے وقت۔ اور اچھے اخلاق والا روزے رکھنے اور نمازیں پڑھنے والے کے درجے کو پہنچتا ہے۔

۱۸۳۲۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ ثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ مَطْرِفٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أُمِّ دَرْدَاءٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ شَيْءٍ يُوَضَّعُ فِي الْمِيزَانِ أَنْقَلَ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ

یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔

۱۸۳۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ سے پوچھا گیا کہ: کس عمل کی وجہ سے لوگ زیادہ جنت میں داخل ہوں گے۔ فرمایا: اللہ کے خوف اور حسن اخلاق سے۔ پھر پوچھا گیا کہ زیادہ تر لوگ جہنم میں کن اعمال کی وجہ سے جائیں گے۔ فرمایا: منہ اور شرمگاہ کی وجہ سے۔

۱۸۳۳۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اِدْرِيسَ ثَنِي أَبِي عَنْ جَدِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ قَالَ تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ قَالَ الْفُجْرُ وَالْفُرْجُ

یہ حدیث صحیح غریب ہے۔ عبداللہ بن ادریس، یزید بن عبدالرحمن اودی کے بیٹے ہیں۔

۱۸۳۴۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ حسن خلق یہ ہے کہ خندہ پیشانی سے ملے، بھلائی کے کاموں پر خرچ کرے اور تکلیف دینے والی چیز کو دور کرے۔

۱۸۳۴۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ نَا أَبُو وَهَبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ وَصَفَ حُسْنَ الْخُلُقِ فَقَالَ هُوَ بَسْطُ الْوَجْهِ وَبَذْلُ الْمَعْرُوفِ وَكَفُّ الْأَذَى

باب ۱۲۹۱۔ مَا جَاءَ فِي الْإِحْسَانِ وَالْعَفْوِ

۱۸۳۵۔ حَدَّثَنَا بَنْدَارٌ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَمَحْمُودُ بْنُ غِيلَانَ قَالُوا نَا أَبُو أَحْمَدَ عَنْ سَفِيَانَ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ أَمْرٌ بِهِ فَلَا يَفْرِيئِي وَلَا يُضَيِّقُنِي فَيَمْرُبِي أَفَأَجْزِيهِ قَالَ لَا أَفْرِهِ قَالَ وَرَأَيْتُ رَثَ الثِّيَابِ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ قَالَ قُلْتُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ أَعْطَانِي اللَّهُ مِنْ

۱۸۳۵۔ ابو احوص اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! اگر میں کسی شخص کے پاس جاؤں اور وہ میری میزبانی اور ضیافت نہ کرے اور پھر کسی وقت وہ میرے پاس آئے تو کیا میں بھی اس کے بدلے میں اسی طرح کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں بلکہ اس کی میزبانی کرو۔ آپ ﷺ نے مجھے میلے کھیلے کپڑوں میں دیکھا تو دریافت فرمایا: تمہارے پاس مال ہے؟ عرض کیا: ہر طرح کا ہے۔ اللہ

الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ قَالَ فَلْيُرِّ عَلَيْكَ

تعالیٰ نے مجھے اونٹ اور بکریاں عطا کی ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تو پھر تم پر اس کا اثر ظاہر ہونا چاہئے۔ (یعنی اچھے کپڑے پہنا کرو)۔

اس باب میں عائشہؓ، جابرؓ اور ابو ہریرہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور ابواحوص کا نام عوف بن مالک بن نعلہ جشمی ہے۔

۱۸۳۶۔ حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم لوگ ”امعہ“ نہ ہو جاؤ یعنی یہ کہنے لگو کہ اگر لوگ ہم پر احسان کریں گے تو ہم بھی احسان کریں گے اور اگر لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے۔ بلکہ اپنے نفسوں کو اس چیز کا عادی کرو کہ اگر لوگ احسان کریں تو بھی تم احسان کرو اور اگر برائی کریں تب بھی ظلم نہ کرو۔

۱۸۳۶۔ حدثنا ابو هشام الرفاعی ثنا محمد بن فضیل عن الولید بن عبد اللہ بن جمیع عن ابي الطیفیل عن حذیفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكُونُوا اِمْعَةً تَقُولُونَ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَحْسَنًا وَاِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا وَاِنْ ظَلَمُوا اَنْفُسَكُمْ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَنْ تَحْسِنُوا وَاِنْ اَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

باب ۱۲۹۲۔ بھائیوں سے ملاقات کرنا۔

باب ۱۲۹۲۔ مَا جَاءَ فِي زِيَارَةِ الْاِخْوَانِ

۱۸۳۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے کسی مریض کی عیادت کی یا اللہ کے لیے اپنے کسی بھائی سے ملاقات کی۔ اسے ایک اعلان کرنے والا بلائے گا اور کہے گا کہ تمہیں مبارک ہو تمہارا چلنا مبارک ہو۔ تم نے جنت میں اپنے ٹھہرنے کی جگہ بتالی۔

۱۸۳۷۔ حدثنا محمد بن بشار والحسين بن

ابو كيشة البصري قال ثنا يوسف بن يعقوب السدوسي نا ابوسنان القسملی عن عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُوْدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ أَخَاهُ فِي اللَّهِ نَادَاهُ مُنَادٌ أَنْ طَبَّتْ وَطَابَ مَمَشَاكَ وَتَبَوَّأَتْ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا

یہ حدیث غریب ہے۔ ابوسنان کا نام عیسیٰ بن سنان ہے۔ حماد بن سلمہ، ابورافع سے وہ ابو ہریرہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اس میں سے کچھ حصہ نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۲۹۳۔ حیاء کے متعلق

باب ۱۲۹۳۔ مَا جَاءَ فِي الْحَيَاءِ

۱۸۳۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حیاء ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا نتیجہ جنت ہے جب کہ بے حیائی ظلم ہے اور اس کا نتیجہ جہنم ہے۔

۱۸۳۸۔ حدثنا ابو كريب نا عبدة بن سليمان وعبدالرحيم و محمد بن بشر عن محمد بن عمرو نا اَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ فِي النَّارِ وَالْبَدَأُ مِنَ الْحَفَاءِ وَالْحَفَاءُ فِي النَّارِ

اس باب میں ابن عمرؓ، ابو بکرؓ اور ابوامامہؓ اور عمران بن حصینؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۹۴۔ آہستگی اور عجلت

باب ۱۲۹۴۔ مَا جَاءَ فِي التَّائِبِي وَالْعَجَلَةِ

۱۸۳۹۔ حضرت عبداللہ بن سرجس مزنیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اچھی خصلتیں، آہستہ آہستہ کام کرنا اور میانہ روی اختیار کرنا نبوت کے چوبیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔

۱۸۳۹۔ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ نَا نُوْحَ بْنَ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجَسِ الْمَزْنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْتُ الْحَسَنُ وَالْتَوَدُّ وَالْإِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءٍ مِنَ النَّبُوَّةِ

اس باب میں ابن عمرؓ، ابوبکرؓ، ابوامامہ اور عمران بن حصین بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے تفسیر اسے نوح بن قیس سے وہ عبداللہ بن عمران سے وہ عبداللہ بن سرجس سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے مانند نقل کرتے ہیں۔ اس سند میں عاصم کا ذکر نہیں۔ صحیح حدیث نصر بن علی ہی کی ہے جو اوپر مذکور ہے۔

۱۸۴۰۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے عبد قیس کے قاصد اشج سے فرمایا: تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ برد باری اور سوچ سمجھ کر کام کرنا۔

۱۸۴۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيْعٍ نَا بَشْرُ بْنُ الْمُفْضَلِ عَنْ قُرَّةِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمُ وَالْأَنَاءَةُ

اس باب میں اشج ثمری سے بھی حدیث منقول ہے۔

۱۸۴۱۔ حضرت سہل بن سعد ساعدیؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تامل (آہستگی) اللہ کی طرف سے اور عجلت شیطان کی طرف سے ہے۔

۱۸۴۱۔ حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الْمَدِينِيُّ نَا عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ بْنِ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنَاءَةُ مِنَ اللَّهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ

یہ حدیث غریب ہے۔ بعض علماء عبداللہ بن عباس کو قلت حافظہ کی وجہ سے ضعیف قرار دیتے ہیں۔

باب ۱۲۹۵۔ نرم ولی کے متعلق

باب ۱۲۹۵۔ مَا جَاءَ فِي الرَّفْقِ

۱۸۴۲۔ حضرت ابودرداءؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس کی قسمت میں نرم روی آئی اسے قسمت کا بہت اچھا حصہ ملا اور جو اس سے محروم رہا وہ اچھے نصیب سے محروم رہا۔

۱۸۴۲۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍو نَا سَفِيَانُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مَلِيكَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلُكٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرَّفْقِ فَقَدْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرَّفْقِ فَقَدْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ

اسی باب میں عائشہؓ، جریر بن عبداللہ اور ابو ہریرہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۹۶۔ مظلوم کی دعا۔

باب ۱۲۹۶۔ مَا جَاءَ فِي دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ

۱۸۴۳۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے معاذؓ کو یمن بھیجا تو فرمایا: مظلوم کی دعا سے ڈرنا کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔

۱۸۴۳۔ حدثنا ابو كريب ناوكيع عن زكريا بن اسحق عن يحيى بن عبدالله بن صيفي عن ابي معبد عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال اتق دعوة المظلوم فانه لیس بينها وبين الله حجاب

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو معبد کا نام نافذ ہے۔ اس باب میں انسؓ، ابو ہریرہؓ، عبداللہ بن عمرؓ اور ابوسعیدؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۲۹۷۔ مَا جَاءَ فِي خُلُقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۱۲۹۷۔ آنحضرت ﷺ کا اخلاق۔

۱۸۴۳۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے دس برس تک آنحضرت ﷺ کی خدمت کی آپ ﷺ نے مجھے کبھی ”اف“ تک نہیں کہا۔ نہ ہی میرے کسی کام کو کر لینے کے بعد فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ اور نہ آپ ﷺ نے میرے کسی کام کو چھوڑ دینے پر مجھ سے پوچھا کہ تم نے اسے کیوں چھوڑ دیا۔ اور آپ ﷺ لوگوں میں سے بہتر اخلاق والے تھے۔ میرے ہاتھوں نے کوئی کپڑا، ریشم یا کوئی بھی چیز آنحضرت ﷺ کے ہاتھوں سے زیادہ نرم نہیں چھوئی اور نہ ہی کوئی ایسا عطریا مشک سونگھا جس کی خوشبو آپ ﷺ کے پسینہ مبارک سے زیادہ ہو۔

۱۸۴۴۔ حدثنا قتيبة نا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن ابي اسحق قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي اف قط وما قال لشيء صنعته لم صنعته ولا لشيء تركته لم تركته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من احسن الناس خلقا وما مسست خزا قط ولا حريرا ولا شيئا كان الين من كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شمتت مسكا قط ولا عطرا كان اطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم

اس باب میں عائشہؓ اور براہ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۸۴۵۔ حضرت ابو عبداللہ جدلی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے آنحضرت ﷺ کے اخلاق کے متعلق پوچھا تو فرمایا: نہ کبھی فحش گوئی کرتے اور نہ ہی اس کی عادت تھی۔ آپ ﷺ بازاروں میں چیننے چلاتے نہیں تھے۔ اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دیا کرتے تھے بلکہ عفو اور درگزر سے کام لیتے تھے۔

۱۸۴۵۔ حدثنا محمود بن غيلان نا ابو داود انبانا شعبة عن ابي اسحق قال سمعت ابا عبد الله الجدلي يقول سألت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا ضحانا في الأسواق ولا يجزي بالسبيبة السيئة ولا يكن يعفو ويصفح

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو عبداللہ جدلی: عبد بن عبد بن انیس عبد الرحمن بن عبد بھی کہتے ہیں۔

باب ۱۲۹۸۔ اچھی طرح نبھانا۔

باب ۱۲۹۸۔ مَا جَاءَ فِي حُسْنِ الْعَهْدِ

۱۸۴۶۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کی کسی بیوی پر اتنا رشک نہیں کیا جتنا خدیجہؓ پر کیا۔ اگر میں ان کے زنا نے میں ہوتی تو میرا کیا حال ہوتا! اور یہ سب اس لیے تھا کہ آپ ﷺ انہیں بہت

۱۸۴۶۔ حدثنا ابو هشام الرفاعي نا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت ما عرت على احد من ارجاج النبي صلى الله عليه

وَسَلَّمَ مَا غُرْتُ عَلَىٰ خَدِيجَةَ وَمَا بِي أَنْ أَكُونَ  
أَدْرَكْتُهَا وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِكثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا وَإِنْ كَانَ لَيُدْبَحُ الشَّاةُ فَيَتَّبِعُ  
بِهَا صَدَائِقَ خَدِيجَةَ فَيَهْدِيهَا لَهُنَّ

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۲۹۹۔ مَا جَاءَ فِي مَعَالِي الْأَخْلَاقِ

۱۸۴۷۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشِ  
الْبَغْدَادِيِّ نَا حَبَانَ بْنَ هَلَالٍ نَا مِبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ ثَنِي  
عَبْدِ رَبِيعِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ  
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ  
أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
أَحَاسِنُكُمْ أَحْلَاقًا وَإِنْ مِنْ أَبْغَضِكُمْ إِلَيَّ وَأَبْغَدِكُمْ  
مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرَثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ  
وَالْمُتَفِيهِقُونَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا الثَّرَثَارِينَ  
وَالْمُتَشَدِّقِينَ فَمَا الْمُتَفِيهِقُونَ قَالَ الْمُتَكَبِّرُونَ

اس باب میں ابو ہریرہ سے بھی حدیث منقول ہے۔ یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۰۰۔ مَا جَاءَ فِي اللَّعْنِ وَالطَّعْنِ

۱۸۴۸۔ حَدَّثَنَا بَنْدَارُ نَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ  
عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ لَعَانًا

باب ۱۳۰۰۔ لعن و طعن کے متعلق

۱۸۴۸۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مؤمن  
لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔

اس باب میں ابن مسعودؓ بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ بعض راوی اسی سند سے نقل کرتے ہیں کہ  
آنحضرت ﷺ نے فرمایا: مؤمن کے لیے لائن نہیں کہ لعنت کرنے والا ہو۔

باب ۱۳۰۱۔ مَا جَاءَ فِي كَثْرَةِ الْغَضَبِ

۱۸۴۹۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ نَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عِيَاشٍ عَنِ  
أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ  
رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلِمَنِي  
شَيْئًا وَلَا تُكْتَبُ عَلَيَّ لَعْنَتِي أَعِيهِ فَقَالَ لَا تَغْضَبُ فَرَدَّدَ  
ذَلِكَ مِرَارًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا تَغْضَبُ

باب ۱۳۰۱۔ غصہ کی زیادتی۔

۱۸۴۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آنحضرت ﷺ کی  
خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے کوئی تھوڑی سی چیز سکھائیے  
شاید میں اسے یاد کر سکوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: غصہ نہ کیا کرو۔ اس  
نے کئی مرتبہ آنحضرت ﷺ سے اسی طرح پوچھا اور آپ ﷺ نے ہر  
مرتبہ یہی جواب دیا کہ غصہ نہ کیا کرو۔

باب ۱۲۹۹۔ اخلاق عالیہ کے متعلق۔

۱۸۴۷۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے  
دن میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے  
والے لوگ وہ ہیں جو بہترین اخلاق والے ہیں۔ اور سب سے زیادہ  
ناپسندیدہ اور دور رہنے والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے،  
بلا سوچے سمجھے اور بلا احتیاط بولنے والے اور متفہقون، لوگوں نے  
عرض کیا، یا رسول اللہ پہلے تو ہم سمجھ گئے اور ”متفہقون“ کیا ہے؟  
فرمایا: تکبر کے ساتھ باتیں کرنے والے۔

اس باب میں ابوسعیدؓ اور سلیمان بن صردؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے اور ابو حصین کا نام عثمان عاصم اسدی ہے۔

۱۸۵۰۔ حضرت معاذ بن انسؓ چنی آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جو شخص استطاعت کے باوجود اپنے غصے کو ضبط کر لے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے تمام خلائق کے سامنے بلا کر اختیار دیں گے کہ وہ جس حور کو چاہے پسند کر لے۔

۱۸۵۰۔ حدثنا العباس بن محمد الدوري وغير واحد قالوا نا عبد الله بن يزيد المقرئ نا سعيد بن ابى ايوب ثنى ابو مرحوم عبدالرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن انس الجهني عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم عيظا وهو يستطيع ان ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رءوس الخلائق حتى يخيره في ابي الحور شاء  
یہ حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۱۳۰۲۔ بڑوں کی تعظیم کرنا۔

۱۸۵۱۔ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی جوان شخص کسی بوڑھے کے بڑھاپے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کا اکرام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے میں اس کی تکریم کے لیے کسی شخص کو مقرر فرمادیں گے۔

باب ۱۳۰۲۔ مَا جَاءَ فِي إِجْلَالِ الْكَبِيرِ  
۱۸۵۱۔ حدثنا محمد بن المثنى نا يزيد بن بيان العقيلي ثنا ابوالرحال الأنصاري عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكرم شاب شيوخا ليسنه إلا قبض الله له من يكرمه عند سنه

یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف یزید بن بیان اور ابورجال انصاری کی روایت سے جانتے ہیں۔

باب ۱۳۰۳۔ ملاقات ترک کرنے والوں کے متعلق۔

۱۸۵۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور ان دنوں میں ان لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے جو شرک کے مرتکب نہیں ہوتے۔ البتہ ترک ملاقات کرنے والے شخصوں کے متعلق اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ انہیں واپس کر دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کریں۔

باب ۱۳۰۳۔ مَا جَاءَ فِي الْمُتَهَاجِرِينَ  
۱۸۵۲۔ حدثنا قتيبة نا عبدالعزيز بن محمد عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح ابواب الجنة يوم الإثنين والخميس فيغفر فيهما لمن لا يشرك بالله إلا المتهاجرين بقول رُدُّوا هَٰذَيْنِ حَتَّىٰ يَصْلِحَا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض روایات میں ”ذروا“ کا لفظ آیا ہے۔ اور متہاجرین سے مراد قطع تعلق کرنے والے ہیں۔ یہ حدیث اس حدیث کی طرح ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: کسی مسلمان کے لیے اپنے بھائی کے ساتھ تین دن سے زیادہ قطع تعلق کرنا حلال نہیں۔

باب ۱۳۰۴۔ صبر کے متعلق۔

۱۸۵۳۔ حضرت ابوسعیدؓ فرماتے ہیں کہ انصار کے کچھ لوگوں نے آنحضرت ﷺ سے کچھ مانگا۔ آپ ﷺ نے انہیں دے دیا۔ انہوں نے

باب ۱۳۰۴۔ مَا جَاءَ فِي الصَّبْرِ  
۱۸۵۳۔ حدثنا الانصاري نا معن نا مالك بن انس عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن ابي سعيد ان

نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوا فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ قَالَ مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّ خِرَةً عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعِنَ يُعْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَعِفَّ يُعْفِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ شَيْئًا هُوَ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ

پھر مانگا۔ آپ ﷺ نے پھر دیا اور فرمایا: اگر میرے پاس مال ہوتا ہے تو میں اسے تم لوگوں سے چھپا کر نہیں رکھتا۔ اور جو شخص مستغنی ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دیتے ہیں۔ جو شخص مانگنے سے اعراض کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سوال کرنے سے بچاتے ہیں اور جو صبر کا عادی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق عطا فرمادیتے ہیں۔ اور کسی کو صبر سے بہتر اور کشادہ چیز نہیں مل سکتی۔

اس باب میں انسؓ بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور مالک سے بھی ان الفاظ کے ساتھ منقول ہے۔ ”فلن ادخره اور فلم ادخره“۔

باب ۱۳۰۵۔ مَا جَاءَ فِي ذِي الْوَجْهَيْنِ

باب ۱۳۰۵۔ ہر ایک کے منہ پر اس کی طرف داری کرنے والا۔

۱۸۵۴۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ أَبِي معاوية عن الاعمش عن أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَا الْوَجْهَيْنِ

۱۸۵۴۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن بدترین شخص وہ ہے جو دو دشمنوں میں سے ہر ایک پر یہ ظاہر کرے کہ میں تمہارا دوست ہوں۔

اس باب میں عمارؓ اور انسؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۰۶۔ مَا جَاءَ فِي النَّمَامِ

باب ۱۳۰۶۔ چغل خوری کرنے والا۔

۱۸۵۵۔ حَدَّثَنَا ابْنُ عمرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال مر رجل على حذيفة بن اليمان فقيل له هذا يبلغ الأمراء الحديث عن الناس فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة فتات قال سفيان والفتات النمام

۱۸۵۵۔ حضرت ہمام بن حارثؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حذیفہ بن یمانؓ کے پاس سے گزرا تو انہیں بتایا گیا کہ یہ لوگوں کی باتیں امراء تک پہنچاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ ”فتات“ جنت میں نہیں جائے گا۔ سفیان کہتے ہیں کہ فتات چغل خور کو کہتے ہیں۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۰۷۔ مَا جَاءَ فِي الْعَبِيِّ

باب ۱۳۰۷۔ تامل کے متعلق۔

۱۸۵۶۔ حَدَّثَنَا احمد بن منيع بن يزيد بن هارون عن ابى غسان محمد بن مطرف عن حسان بن عطية عن ابى امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء والعبي شعبتان من الإيمان والبداء

۱۸۵۶۔ حضرت ابو امامہؓ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ حياء اور تامل (۱) ایمان کی دو شاخیں ہیں جب کہ نخش گوئی اور کثرت کلام نفاق کی دو شاخیں ہیں۔

(۱) تامل کے معنی قلت کلام کے ہیں۔

وَالْبَيَانَ شُعْبَتَانِ مِنَ النَّفَاقِ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف ابو عسان محمد بن مطرف کی روایت سے جانتے ہیں۔

باب ۱۳۰۸۔ مَا جَاءَ اَنَّ مِنَ الْبَيَانِ لِسِحْرًا

باب ۱۳۰۸۔ بعض بیان میں جادو ہے۔

۱۸۵۷۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

۱۸۵۷۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں

زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلَيْنِ قَدِمَا فِي زَمَانِ

دو شخص آئے اور دونوں نے لوگوں سے خطاب کیا جس سے لوگ حیرت

رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَا فَعَجِبَ

میں پڑ گئے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ ہم سے مخاطب ہوئے اور فرمایا:

النَّاسُ مِنْ كَلَامِهَا فَالْتَفَتْنَا لِنَبِيٍّ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

بعض لوگوں کا کسی چیز کو بیان کرنا جادو کی طرح ہوتا ہے۔ راوی کو شک

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا اَوْ اِنَّ بَعْضَ

ہے کہ بعض بیان فرمایا، یا من البیان فرمایا:

الْبَيَانِ سِحْرًا

اس باب میں عمار، ابن مسعود اور عبد اللہ بن شمرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۰۹۔ مَا جَاءَ فِي التَّوَاضُعِ

باب ۱۳۰۹۔ تواضع کے متعلق

۱۸۵۸۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

۱۸۵۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: صدقہ

الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ

کسی کے مال میں کمی نہیں کرتا، معاف کرنے والے کی عزت کے علاوہ

رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَقَصَتْ

کوئی چیز نہیں بڑھتی اور جو شخص اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ

صَدَقَةٌ مِّنْ مَّالٍ وَمَا زَادَ اللّٰهُ رَجُلًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزًّا وَمَا

اسے بلند کرتے ہیں۔

تَوَاضَعَ اَحَدٌ لِّلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ

اس باب میں ابن عباسؓ، عبدالرحمن بن عوفؓ اور ابو کبشہ انماری بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۱۰۔ مَا جَاءَ فِي الظُّلْمِ

باب ۱۳۱۰۔ ظلم کے متعلق۔

۱۸۵۹۔ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ ثَنَا ابُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ

۱۸۵۹۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، ظلم

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي سَلْمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ

قیامت کے دن کی تاریکیوں کا موجب ہے۔

بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اس باب میں عبد اللہ بن عمروؓ، ابو موسیٰؓ اور ابو ہریرہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۱۳۱۱۔ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الْعَيْبِ لِلنِّعْمَةِ

باب ۱۳۱۱۔ نعت میں عیب جوئی ترک کرنا۔

۱۸۶۰۔ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَاعِبُ اللّٰهِ بْنِ

۱۸۶۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کبھی کسی

الْمُبَارَكِ عَنْ سَفِيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِي حَازِمٍ عَنْ

کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اگر جی چاہتا تو کھا لیتے، ورنہ چھوڑ دیتے۔

اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا عَابَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ كَانَ اِذَا اشْتَهَاهُ اَكَلَهُ وَاِلَّا تَرَكَهُ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابوہذمہ انجلی کا نام مسلمان ہے اور وہ عزاۃ اشجعیہ کے مولیٰ ہیں۔

باب ۱۳۱۲۔ مؤمن کی تعظیم

باب ۱۳۱۲۔ مَا جَاءَ فِي تَعْظِيمِ الْمُؤْمِنِ

۱۸۶۱۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ منبر پر چڑھے اور بلند آواز سے فرمایا: اے لوگوں کے وہ گروہ جو صرف زبانوں سے اسلام لائے ہیں اور ایمان ان کے دلوں میں نہیں پہنچا مسلمانوں کو ازیت نہ دو انہیں عار نہ دلاؤ اور ان میں عیوب مت تلاش کرو۔ کیونکہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیب جوئی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی عیب گیری کرتے ہیں۔ اور جس کی عیب گیری اللہ تعالیٰ کرنے لگیں وہ ذلیل ہو جائے گا۔ اگر چہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر راوی کہتے ہیں کہ ایک دن ابن عمر نے بیت اللہ یا فرمایا کعبہ کی طرف نظر ڈالی اور فرمایا: تم کتنے عظیم ہو تمہاری حرمت بھی کتنی عظیم ہے۔ لیکن مؤمن کی حرمت اللہ کے نزدیک تم سے بھی زیادہ ہے۔

۱۸۶۱۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَكْثَمٍ وَالْحَارُودُ بْنُ مَعَاذٍ قَالَا نَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى نَا الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ اَوْفَى بْنِ دَلْهَمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ قَالَ يَا مَعْشَرَ مَنْ قَدْ اسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفِضِ الْاِيْمَانَ اِلَى قَلْبِهِ لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا تُعَيِّرُوْهُمْ وَلَا تُتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ فَاِنَّهُ مَنْ تَتَّبَعَ عَوْرَةَ اَخِيْهِ تَتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِيْ جَوْفِ رَحْلِهِ قَالَ وَنَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا اِلَى الْبَيْتِ اَوَّلِيْهِ الْكُعْبَةِ فَقَالَ مَا اعْظَمَكَ وَاَعْظَمَ حُرْمَتَكَ وَالْمُؤْمِنُ اعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْكَ

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف حسین بن واقد کی روایت سے جانتے ہیں۔ اسحاق بن ابراہیم سمرقندی بھی حسین بن واقد سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ پھر ابوہرزہ سلمیٰ بھی آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۳۱۳۔ تجربے کے متعلق۔

باب ۱۳۱۳۔ مَا جَاءَ فِي التَّجَارِبِ

۱۸۶۲۔ حضرت ابوسعیدؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی شخص اس وقت تک بردباری میں کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ ٹھوکر نہ کھائے۔ اسی طرح کوئی دانا بغیر تجربے کے دانائی میں کامل نہیں ہو سکتا۔ (۱)

۱۸۶۲۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ دِرَاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَلِيْمٌ اِلَّا دُوْ عَثْرَةٌ وَلَا حَكِيْمٌ اِلَّا دُوْ تَجْرِبَةٍ

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

باب ۱۳۱۴ [جو چیز اپنے پاس نہ ہو اس پر فخر کرنا۔

باب ۱۳۱۴۔ مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَشْعِ بِمَا لَمْ يُعْطَهُ

۱۸۶۳۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کسی شخص کو کوئی چیز دی گئی اور اس میں قدرت و استطاعت ہے تو اس کا بدلہ دے ورنہ اس کی تعریف کرے اس لیے کہ جس نے تعریف کی اس نے شکر ادا کیا۔ اور جس نے کسی نعمت کو چھپایا اس نے کفران نعمت کیا اور

۱۸۶۳۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنِ حَجْرِنَا اسْمَعِيْلُ بْنُ عِيَاشٍ عَنْ عَمَارَةَ بْنِ غَزِيَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُتِنِ فَإِنَّ مَنْ اَتْنَى

(۱) یعنی کوئی بردبار اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک اس سے خطا وغیرہ واقع نہ ہو اور وہ شرمندگی کے بعد لوگوں سے معافی کا خواستگار نہ ہو۔ چنانچہ جب وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی غلطیاں معاف کریں تو وہ بھی معاف کرتا ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

فَقَدْ شَكَرَ وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ وَمَنْ تَحَلَّى بِمَالِهِ  
جس شخص نے کسی ایسی چیز سے اپنے آپ کو آراستہ کیا جو اسے عطا نہیں  
يُعْطُهُ كَانَ كَلَابِيسَ ثَوْبِي زُورٍ  
کی گئی تو گویا کہ اس نے مکر کا لباس اوڑھ لیا۔ (۱)

اس باب میں اسماء بنت ابی بکر اور عائشہ بھی احادیث نقل کرتی ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۱۳۱۵۔ مَا جَاءَ فِي الثَّنَاءِ بِالْمَعْرُوفِ

۱۸۶۴۔ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ وَالْحُسَيْنُ  
بن الحسن المرزى بمكة فالانا الا حوص بن  
جواب عن سعير بن الخمس عن سليمان التيمي عن  
ابى عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال قال رسول  
الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال  
لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء

باب ۱۳۱۵۔ احسان کے بدلے تعریف کرنا

۱۸۶۴۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:  
جس کے ساتھ کسی نے احسان کیا اور اس نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ  
تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے تو اس نے اس کی پوری پوری تعریف  
کردی۔

یہ حدیث حسن جید غریب ہے۔ ہم اسے اسامہ بن زید کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

طب سے متعلق رسول اللہ ﷺ سے

أَبْوَابُ الطِّبِّ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ

منقول احادیث کے ابواب

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۱۳۱۶۔ پرہیز کے متعلق۔

باب ۱۳۱۶۔ فِي الْحَمِيَّةِ

۱۸۶۵۔ حضرت ام منذر کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ حضرت علیؑ کو ساتھ  
لے کر ہمارے یہاں تشریف لائے ہمارے ہاں ایک کھجور کی شاخ تنگی  
ہوئی تھی۔ آپ ﷺ اور حضرت علیؑ دونوں نے کھانا شروع کر دیا۔ آپ  
ﷺ نے فرمایا: علیؑ ٹھہر جاؤ تم تو ابھی بیماری سے اٹھے ہو۔ ام منذر کہتی  
ہیں: اس پر علیؑ بیٹھ گئے اور آپ ﷺ کھاتے رہے۔ پھر میں ان کے لیے  
چقندر اور جو تیار کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: علیؑ اس میں سے لو۔ یہ تمہاری  
طبیعت کے مطابق ہے۔

۱۸۶۵۔ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّوْرِيُّ نَا يُونُسَ  
بن محمد ثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن  
عبد الرحمن عن يعقوب بن ابي يعقوب عن أم  
المُنْذِرِ قَالَتْ دَخَلَ عَلِيٌّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلِيٌّ وَلَنَا دَوَالٍ مُعَلَّقَةٌ قَالَتْ فَجَعَلَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ وَمَعَهُ عَلِيٌّ  
يَأْكُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيِّ  
مَهْ مَهْ يَا عَلِيُّ فَإِنَّكَ نَاقَةٌ قَالَ فَجَلَسَ عَلِيٌّ وَالنَّبِيُّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ قَالَتْ فَجَعَلْتُ لَهُمْ  
سِلْقًا وَشَعِيرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا  
عَلِيُّ مِنْ هَذَا فَاصْبُ فَإِنَّهُ أَوْفَقُ لَكَ

(۱) مثلاً کوئی شخص طبیعت نہ ہوتے ہوئے اہل علم کا لبادہ اوڑھ کر اپنی اصلیت کو چھپانے کی کوشش کرے۔ (مترجم)

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف فتح بن سلیمان کی روایت سے جانتے ہیں وہ ایوب بن عبد الرحمن سے نقل کرتے ہیں محمد بن بشار بھی ابوعامر اور ابوداؤد سے یہ دونوں فتح سے وہ ایوب بن عبد الرحمن سے وہ یعقوب بن ابی یعقوب سے اور وہ ام منذر سے اسی کی مانند نقل کرتے ہوئے ان الفاظ کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے“ یعنی چھتہ اور جو، محمد بن بشار اپنی حدیث میں کہتے ہیں کہ مجھ سے اسے ایوب بن عبد الرحمن نے بیان کیا ہے۔ یہ حدیث جید غریب ہے۔

۱۸۶۶۔ حدثنا محمد بن يحيى نا اسحق بن محمد الفروي نا اسمعيل بن جعفر عن عمارة بن غزبية عن عاصم بن عمر بن قتادة عن مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا كَمَا يَبْطُلُ أَحَدُكُمْ يَحْمِي سَفِينَهُ الْمَاءِ

۱۸۶۶۔ حضرت قتادہ بن نعمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے دنیا سے اس طرح روکتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے روکتا ہے یعنی مرض استقاء وغیرہ میں۔

یہ حدیث حسن غریب ہے اور محمود بن لبید سے بھی منقول ہے وہ آنحضرت ﷺ سے مرسل نقل کرتے ہیں اس باب میں صہیبؓ بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ علی بن حجر بھی اسماعیل بن جعفر سے وہ عمرو بن ابی عمرو سے وہ عاصم بن عمر بن قتادہ سے اور وہ محمود بن لبید سے اسی کے مثل نقل کرتے ہوئے قتادہ بن نعمان کا ذکر نہیں کرتے۔ یہ قتادہ بن نعمان ظفری، ابوسعید خدری کے ماں شریک بھائی ہیں۔ محمود بن لبید نے بچپن میں آنحضرت ﷺ کی زیارت کی ہے۔

باب ۱۳۱۷۔ دو اور اس کی فضیلت۔

۱۸۶۷۔ حضرت اسامہ بن شریک کہتے ہیں کہ دیہاتوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ کیا ہم دو انہ کیا کریں؟ فرمایا: اللہ کے بندو، دو کیا کرو اللہ تعالیٰ نے کوئی مرض ایسا نہیں رکھا کہ اس کا علاج نہ ہو یا فرمایا دو انہ ہو۔ ہاں ایک مرض لاعلاج ہے۔ عرض کیا: وہ کیا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: بڑھاپا۔

باب ۱۳۱۷۔ مَا جَاءَ فِي الدَّوَاءِ وَالْحَبِّ عَلَيْهِ

۱۸۶۷۔ حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري نا ابو عوانة عن زياد بن علقمة عن أسامة بن شريك قَالَ قَالَتِ الْأَعْرَابُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَتَدَاوَى قَالَ نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً أَوْ قَالَ دَوَاءً إِلَّا دَاءً وَاحِدًا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُوَ قَالَ الْهَرَمُ

اس باب میں ابن مسعود، ابن عباس، ابو ہریرہ اور ابوخرامہؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں (ابوخرامہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں) یہ حدیث حسن صحیح ہے یعنی اسامہ کی۔

باب ۱۳۱۸۔ مریض کو کیا کھلایا جائے۔

۱۸۶۸۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اگر آنحضرت ﷺ کے گھر والوں میں سے کسی کو بخار ہو جاتا تو آپ ﷺ ہریرہ پینے کا حکم دیا کرتے اور پھر اس میں سے گھونٹ گھونٹ پینے کا حکم دیتے اور فرماتے یہ نمکین کے ذل کو تسکین دیتا اور اس کے دل سے بیماری کی تکلیف کو اس طرح دور

باب ۱۳۱۸۔ مَا جَاءَ مَا يُطْعَمُ الْمَرِيضَ

۱۸۶۸۔ حدثنا احمد بن منيع نا اسمعيل بن ابراهيم نا محمد بن السائب بن بركة عن أمه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء فصنع ثم أمرهم

فَحَسُوا مِنْهُ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّهُ لَيُرْتَوُّوْا ذَا الْحَزْبَيْنِ وَيَسْرُوْا عَنْ فَوَادِ السَّقِيْمِ كَمَا تَسْرُوْا اِحْدَاكُنَّ وَهُوَ يَتِيْ بِهٖ  
 وَالسُّخَّ بِالْمَاءِ عَنْ وَجْهَهَا  
 کر دیتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے چہرے کے میل کو پانی کے ساتھ  
 دھو دیتی ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ زہری بھی عروہ سے وہ عائشہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی مضمون کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ ہم سے  
 اسے جریری نے ابو اسحاق طالقانی کے حوالے سے انہوں نے ابن مبارک سے انہوں نے یونس سے انہوں نے زہری سے انہوں نے عروہ  
 سے انہوں نے عائشہؓ سے اور انہوں نے آنحضرت ﷺ سے نقل کی ہے ہمیں یہ بات ابو اسحاق نے بتائی۔

باب ۱۳۱۹۔ مَا جَاءَ لَا تُكْرَهُوا مَرَضًاكُمْ عَلَى  
 الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ  
 باب ۱۳۱۹۔ مریض کو کھانے پینے پر مجبور نہ کیا جائے۔

۱۸۶۹۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيْبٍ نَابِكْرُ بْنُ يُونُسَ بْنِ بَكِيْرٍ  
 عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ  
 الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا  
 تُكْرَهُوا مَرَضًاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ  
 وَتَعَالَى يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ  
 حضرت عقبہ بن عامر جہنیؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے  
 فرمایا: اپنے مریضوں کو کھانے پر مجبور نہ کیا کرو۔ کیونکہ اللہ تبارک و  
 تعالیٰ انہیں کھلاتے پلاتے ہیں۔

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

باب ۱۳۲۰۔ كَلُوْنِيْ كَمَا تَمْتَلِقُ

۱۸۷۰۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍ وَسَعِيْدُ بْنُ  
 عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَا نَا سَفِيَّانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ  
 عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحَبَّةِ السُّوْدَاءِ فَإِنَّ فِيهَا  
 شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ وَالسَّامُ الْمَوْتُ  
 حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس  
 کالے دانے کے متعلق جان لو کہ اس میں سام کے علاوہ ہر مرض کی شفا  
 ہے اور سام موت کو کہتے ہیں۔

باب ۱۳۲۱۔ اذْنُوْنَ كَا پِيْشَابِ پِيْنَةِ كَمَا تَمْتَلِقُ

۱۸۷۱۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزُّعْفَرَانِيِّ نَا  
 عِفَانُ نَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ نَا حَمِيْدُ وَثَابِتُ وَقْتَادَةُ  
 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ  
 فَاجْتَنَوْهَا فَبَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 فِيْ اِبْلِ الصَّنَفَةِ وَقَالَ اشْرَبُوا مِنْ اَلْبَانِيْهَا وَابْوَالِيْهَا  
 حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ عرینہ کے کچھ لوگ مدینہ آئے تو انہیں  
 مدینہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی۔ آپ ﷺ نے انہیں صدقے و زکوٰۃ  
 کے اذنوں میں بھیج دیا اور فرمایا ان کا دودھ اور پیشاب پیو۔

اس باب میں ابن عباسؓ سے بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ مذکورہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۲۲۔ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسَمٍّ أَوْ غَيْرِهِ

باب ۱۳۲۲۔ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسَمٍّ أَوْ غَيْرِهِ

جس نے زہر کھا کر خودکشی کی۔

۱۸۷۲- حدیثنا احمد بن منیع نا عبیدہ بن حمید عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرۃ اُراهُ رَفَعَهُ قَالَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا بَطْنَهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسَمِّ فُسْمَةٍ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا أَبَدًا

۱۸۷۳- حدیثنا محمود بن غیلان نا ابوداؤد عن شعبۃ عن الاعمش قال سمعتُ ابا صالح عن ابی ہریرۃ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسَمِّ فُسْمَةٍ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ ..... فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

۱۸۷۴- حدیثنا سوید بن نصر انا عبد اللہ بن المبارک عن یونس بن ابی اسحق عن مُجَاهِدٍ عَنْ ابی ہریرۃ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّوَاءِ الخَبِيثِ يَعْنِي السَّمَّ

۱۸۷۵- حدیثنا محمود بن غیلان نا ابوداؤد عن شعبۃ عن سماک انه سمع علقمۃ بن وائل عن ابیہ

۱۸۷۶- حدیثنا محمود بن غیلان نا ابوداؤد عن شعبۃ عن الاعمش قال سمعتُ ابا صالح عن ابی ہریرۃ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسَمِّ فُسْمَةٍ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ ..... فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

۱۸۷۷- حدیثنا محمود بن غیلان نا ابوداؤد عن شعبۃ عن الاعمش قال سمعتُ ابا صالح عن ابی ہریرۃ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسَمِّ فُسْمَةٍ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ ..... فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

۱۸۷۸- حدیثنا محمود بن غیلان نا ابوداؤد عن شعبۃ عن الاعمش قال سمعتُ ابا صالح عن ابی ہریرۃ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسَمِّ فُسْمَةٍ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ ..... فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

آپ ﷺ نے انہیں منع فرمادیا۔ انہوں نے عرض کیا۔ ہم اس سے ملانے کرتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ دو انہیں بلکہ مرض ہے۔

أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلَهُ سُؤْيِدُ بْنُ طَارِقٍ أَوْ طَارِقُ بْنُ سُؤْيِدٍ عَنِ الْخَمْرِ فَهَاهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّا لَتَتَادَوَىٰ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهَا دَاءٌ

محمود بھی نظر اور شبابہ سے اور وہ شعبہ سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ محمود کی روایت میں طارق بن سوید اور شبابہ کی سند میں سوید بن طارق ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۲۴۔ مَا جَاءَ فِي السَّعُوطِ وَغَيْرِهِ

باب ۱۳۲۳۔ ناک میں دوائی ڈالنے کے متعلق۔

۱۸۷۶۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمہاری دواؤں میں سے بہترین دوا سعوط (۱) لدود (۲) بچھے لگانا اور مشی (۳) ہے۔ پھر جب آپ ﷺ بیمار ہوئے تو صحابہ نے آپ ﷺ کے منہ میں دوا ڈالی جب وہ فارغ ہوئے تو آپ ﷺ نے فرمایا: ان سب کے منہ میں دوا ڈالو۔ چنانچہ سب حاضرین کے منہ میں دوا ڈالی گئی سوائے حضرت عباسؓ کے۔

۱۸۷۶۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَدْيُونَةَ نَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَادٍ نَا عَبَادَ بْنَ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ السَّعُوطُ وَاللَّدُودُ وَالْحِجَامَةُ وَالْمَشِيُّ فَلَمَّا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَدَّةً أَصْحَابُهُ فَلَمَّا فَرَعُوا قَالَ لُدُّوهُمْ قَالَ فَلَدُّوا كُلُّهُمْ غَيْرَ عَبَّاسٍ

۱۸۷۷۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمہاری دواؤں میں سے بہترین دوا نیک لدود، سعوط، بچھے لگانا اور مشی ہے۔ (ان کی تفصیل پچھلی حدیث میں گزر چکی) جب کہ بہترین سرمہ اشمہ ہے اس سے نظر تیز ہوتی ہے اور پلکوں کے بال اگتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے پاس ایک سرمہ دانی تھی جس سے آپ ﷺ سوتے وقت ہر آنکھ میں تین سلاخیاں سرمہ لگایا کرتے تھے۔

۱۸۷۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ نَا عَبَادَ بْنَ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ اللَّدُّودُ وَالسَّعُوطُ وَالْحِجَامَةُ وَالْمَشِيُّ وَخَيْرٌ مَا اسْتَحْلَمْتُمْ بِهِ الْأَيْمِدُ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَ يُنْبِتُ الشَّعْرَ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ مَكْحَلَةٌ يَكْتَحِلُ بِهَا عِنْدَ النَّوْمِ ثَلَاثًا فِي كُلِّ عَيْنٍ

یہ حدیث حسن ہے۔

باب ۱۳۲۵۔ داغنے کی کراہت۔

باب ۱۳۲۵۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْكَيْ

۱۸۷۸۔ حضرت عمران بن حصینؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے

۱۸۷۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ

(۱) سعوط وہ دوا ہے جو مریض کے ناک میں چڑھائی جاتی ہے۔ (مترجم)

(۲) لدود اس دوا کو کہتے ہیں جو منہ کے ایک جانب سے اندر ڈالی جاتی ہے۔ (مترجم)

(۳) مشی سے مراد وہ دوائیں ہیں جن سے اسہال ہوتا ہے۔ یعنی قضاے حاجت کا بکثرت ہونا۔ واللہ اعلم (مترجم)

نا شعبة عن قتادة عن الحسن بن عمران بن حصين  
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْكَيْ  
 قَالَ فَأَبْتَلِينَا فَأَكْتَوَيْنَا فَمَا أَفْلَحْنَا وَلَا أُنْجَحْنَا  
 یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۸۷۹۔ حدثنا عبدالقدوس بن محمد نا عمرو بن  
 عاصم نا همام عن قتادة عن الحسن بن عمران بن  
 حصين قَالَ نُهَيْنَا عَنِ الْكَيْ

اس باب میں ابن مسعود، عقبہ بن عامر اور ابن عباسؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۲۶۔ مَا جَاءَ فِي الرَّحْصَةِ فِي ذَلِكَ

باب ۱۳۲۶۔ داغنے کی اجازت۔

۱۸۸۰۔ حدثنا حميد بن مسعدة نا يزيد بن زريع نا  
 معمر عن الزهري عن أنس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ كَوَى سَعْدَ بْنَ زُرَّارَةَ مِنَ الشَّوْكَةِ

۱۸۸۰۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے سعد بن زرارہ کو  
 شوکہ کی بیماری میں داغ دیا۔

اس باب میں ابو ہریرہؓ اور جابرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

توضیح: داغنے کے متعلق مختلف روایات منقول ہیں۔ بعض اس کے جواز پر دلالت کرتی ہیں اور بعض میں ممانعت آئی ہے۔ ان  
 روایات میں ابن قیم نے اس طرح تطبیق کی ہے کہ اس کا فعل اس کے جواز پر دلالت کرتا ہے اور اسے پسند نہ کیا جانا اس کی ممانعت پر  
 دلالت نہیں کرتا۔ پھر اس کی ممانعت کی تعریف (جیسا کہ بعض روایات میں آتی ہے) اسکے ترک کرنے کو افضل قرار دیتی ہے جب کہ  
 ممانعت انسان کے اختیار پر محمول ہے۔ یا پھر ایسے داغ دینے پر جو مرض لاحق ہونے سے پہلے بطور احتیاط دیا جاتا ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۱۳۲۷۔ مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ

باب ۱۳۲۷۔ بچھنے لگانے کے متعلق

۱۸۸۱۔ حدثنا عبدالقدوس بن محمد نا عمرو بن  
 عاصم نا همام وجرير بن حازم قالنا قتادة عن  
 أنس قال كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ  
 فِي الْأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعِ عَشْرَةَ  
 وَتِسْعِ عَشْرَةَ وَاحِدَى وَعِشْرِينَ

۱۸۸۱۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے دونوں جانب کی  
 رگوں اور شانوں کے درمیان بچھنے لگایا کرتے تھے اور یہ عمل سترہ، انیس  
 یا اکیس تاریخ کو کیا کرتے تھے۔

اس باب میں ابن عباسؓ اور معقل بن یسارؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۱۸۸۲۔ حدثنا احمد بن يدیل بن قريش اليماني  
 الكوفي نا محمد بن فضيل نا عبدالرحمن بن  
 اسحق عن القاسم بن عبدالرحمن هو ابن عبد الله

۱۸۸۲۔ حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے شب  
 معراج کا قصہ سناتے ہوئے فرمایا: کہ آپ ﷺ فرشتوں کے کسی ایسے  
 گروہ کے پاس سے نہیں گزرے جس نے آپ ﷺ کو اپنی امت کو بچھنے

لگانے کا حکم دینے کا نہ کہا ہو۔

بن مسعود عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَةَ أُسْرِي بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَمْرَ عَلَى مَلَاءٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا أَمْرُوهُ أَنْ مَرَّتْ بِالْحِجَامَةِ .

یہ حدیث ابن مسعود کی روایت سے حسن غریب ہے۔

۱۸۸۳۔ حدثنا عبد بن حميد نا النضر بن شميل نا عباد بن منصور قال سمعت عكرمة قال كان لابن عباس غلظة ثلاثه حجامون فكان اثنان يغلان وواحد يحجمه ويحجم اهله قال وقال ابن عباس قال نبي الله نعم العبد الحجام يذهب بالدم ويخفف الصلب ويجلوا عن البصر وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عرج به مامر على ملاء من الملائكة الا قالوا عليك بالحجامة وقال ان خير ما تحجمون فيه يوم سبع عشرة و يوم تسع عشرة و يوم احدى وعشرين وقال ان خير ما تداويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشى وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لده العباس واصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لدني فكلهم امسكوا فقال لا يفي احد ممن في البيت الا لده غير عمه العباس قال النضر اللدود الوجور

۱۸۸۳۔ حضرت عکرمہ قمر ماتے ہیں کہ ابن عباسؓ کے پاس تین غلام تھے جو کچھنے لگاتے تھے۔ ان میں سے دو تواجرت پر کام کیا کرتے تھے اور ایک ان کی اور ان کے گھروالوں کی حجامت (کچھنے لگاتا تھا) کیا کرتا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ ابن عباسؓ، رسول اللہ ﷺ کا یہ قول نقل کرتے تھے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: حجامت کرنے والا غلام کتنا بہترین ہے۔ خون کو لے جاتا ہے، پیٹھ کو ہلکا کر دیتا ہے اور نظر کو صاف کر دیتا ہے۔ مزید فرمایا کہ جب رسول اللہ ﷺ معراج کے لیے تشریف لے گئے تو فرشتوں کے جس گروہ سے بھی گزر ہوا۔ انہوں نے یہی کہا کہ حجامت ضرور کیا کریں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کچھنے لگانے کے لیے بہترین دن سترہ، انیس اور اکیس تاریخ کے دن ہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ بہترین علاج سعوط، لدود، حجامت اور مشی ہے۔ آنحضرت ﷺ کے منہ میں عباسؓ اور دوسرے صحابہؓ نے دوا ڈالی تو فرمایا کہ ہر موجود شخص کے منہ میں (بطور قصاص) دوا ڈالی جائے (کیونکہ آپ ﷺ نے اس سے منع فرمایا تھا۔ لیکن صحابہؓ سمجھے کہ شاید آپؐ بیماری کی وجہ سے جیسے مریض دوائی سے منع کرتے ہیں اسی طرح منع کر رہے ہیں) چنانچہ آپ ﷺ کے چچا عباسؓ کے علاوہ سب حاضرین کے منہ میں دوا ڈالی گئی۔ نضر کہتے ہیں کہ لدود، وجولہ کو کہتے ہیں۔ ان الفاظ کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف عباد بن منصور کی روایت سے جانتے ہیں۔

باب ۱۳۲۸۔ مہندی سے دوا کرنا۔

باب ۱۳۲۸۔ ما جاء في التداوي بالحجاء

۱۸۸۴۔ حضرت علی بن عبید اللہ اپنی دادی سے جو آنحضرت ﷺ کی خدمت کیا کرتی تھیں۔ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا۔ آنحضرت ﷺ کو اگر کسی پتھر یا کانٹے وغیرہ سے زخم ہو جاتا تو مجھے اس زخم پر مہندی

۱۸۸۴۔ حدثنا احمد بن منيع نا حماد بن خالد الحياط نا فائد مولى لال ابي رافع عن علي بن عبید اللہ عن جدته وكانت تحضد النبي صلى الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ مَا كَانَ يَكُونُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرِحَةٌ وَلَا نَكْبَةً إِلَّا أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَضَعَ عَلَيْهِ الْجِنَاءَ

لگانے کا حکم دیا کرتے تھے۔

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف فائدہ کی روایت سے جانتے ہیں۔ بعض راوی یہ حدیث اس طرح فائدہ سے نقل کرتے ہیں کہ فائدہ عبید اللہ بن علی سے اور وہ اپنی دادی سلمیٰ سے نقل کرتے ہیں اور عبید اللہ بن علی زیادہ صحیح ہے۔ محمد بن علاء، زید بن حباب سے وہ عبید اللہ بن علی کے مولیٰ فائدہ سے وہ اپنے آقا سے وہ اپنی دادی سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۳۲۹۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الرُّقِيَّةِ

باب ۱۳۲۹۔ دعا پڑھ کر پھونکنے کی کراہت

۱۸۸۵۔ حَدَّثَنَا بَنْدَارٌ نَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ نَا سَفِيَانَ عَنِ مَنصُورٍ عَنِ مَجَاهِدٍ عَنِ عَقَّارِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اكْتَوَى أَوْ اسْتَرْقَى فَهُوَ بَرِيءٌ مِنَ التَّوَكُّلِ

۱۸۸۵۔ حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے داغ دلوایا، یا جھاڑ پھونک کی وہ اہل توکل کے زمرے سے نکل گیا۔

اس باب میں ابن مسعود، ابن عباس اور عمران بن حصین سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۳۰۔ مَا جَاءَ فِي الرُّحْصَةِ فِي ذَلِكَ

باب ۱۳۳۰۔ رقیہ (جھاڑ پھونک) کی اجازت۔

۱۸۸۶۔ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخِزَاعِيُّ نَا مَعْمُورَةَ بِنَ هِشَامٍ عَنِ سَفِيَانَ عَنِ عَاصِمِ بْنِ أَحْوَلٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الرُّقِيَّةِ مِنَ الْحَمَةِ وَالْعَيْنِ وَالنَّمْلَةِ

۱۸۸۶۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے زہریلے جانور کے ڈنگ مارنے، نظر لگنے اور پہلی میں دانے نکلنے پر دعا پڑھ کر پھونکنے کی اجازت دی۔

۱۸۸۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا يَحْيَى بْنِ أَدَمَ وَأَبُو نَعِيمٍ قَالَا ثَنَا سَفِيَانَ عَنِ عَاصِمِ بْنِ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الرُّقِيَّةِ مِنَ الْحَمَةِ وَالنَّمْلَةِ

۱۸۸۷۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بچھو کے کاٹنے اور دانے نکلنے پر رقیہ (جھاڑ پھونک) کی اجازت دی ہے۔

امام ترمذی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ حدیث پہلی حدیث سے زیادہ صحیح ہے اس باب میں بریدہ، عمران بن حصین، جابر، عائشہ، طلح بن علی، عمرو بن حزم اور ابو خزیمہ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔

۱۸۸۸۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍَا سَفِيَانَ عَنِ حُصَيْنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا رُقِيَّةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حَمَةٍ

۱۸۸۸۔ حضرت عمران بن حصین کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نظر بد اور بچھو کے کاٹنے کے علاوہ رقیہ نہیں۔

شعبہ یہ حدیث شعی سے وہ حصین سے اور وہ بریدہ سے نقل کرتے ہیں۔

توضیح: اس باب میں مختلف احادیث وارد ہوئی ہیں جو رقی کی تخصیص پر دلالت کرتی ہیں جب کہ پچھلے باب میں اس کی کراہت مذکور ہے۔ ان کے علاوہ بھی کئی احادیث ہیں جن میں سے بعض جواز اور بعض عدم جواز پر دلالت کرتی ہیں لیکن ان میں کوئی تعارض نہیں۔ چنانچہ جن احادیث میں اس کے ترک کا ذکر آیا ہے ان سے مراد وہ دم (رقیہ) ہے جو عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں ہیں۔ یا کلام کفار سے ہیں یا جن کے معنی معلوم نہیں۔ کیونکہ اس میں شرک کا احتمال ہے جب کہ دوسری احادیث میں اس کا جواز مذکور ہے ان سے مراد وہ رقی ہیں جو الفاظ قرآن اور اسماء الہی سے ماخوذ ہیں۔ یہ مسنون ہیں۔ بعض علماء قرآنی آیات سے دم کرنے کے جواز پر علماء کا اجماع نقل کرتے ہیں۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۱۳۳۱۔ مَا جَاءَ فِي الرَّقِيَّةِ بِالْمُعَوِّذَيْنِ

باب ۱۳۳۱۔ معوذتین پڑھ کر پھونکنا

۱۸۸۹۔ حدثنا هشام بن يونس الكوفي نا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نصرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْحَنَاتِ وَعَيْنِ الْإِنْسَانِ حَتَّى نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَتَانِ فَلَمَّا نَزَلْنَا أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا

۱۸۸۹۔ حضرت ابوسعیدؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ”قل اعوذ برب المفلک“ اور ”قل اعوذ برب الناس“ نازل ہوئیں جب یہ نازل ہوئیں تو آپ ﷺ نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ سب کچھ ترک کر دیا۔

یہ حدیث حسن غریب ہے اور اس باب میں انسؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔

باب ۱۳۳۲۔ مَا جَاءَ فِي الرَّقِيَّةِ مِنَ الْعَيْنِ

باب ۱۳۳۲۔ نظر لگ جانے پر دم کرنے کے متعلق۔

۱۸۹۰۔ حدثنا ابن ابی عمر نا سفیان عن عمرو بن دينار عن عروة وهو ابن عامر عن عبيد بن رفاعَةَ الزُّرِّيِّ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ وَلَدَكَ جَعْفَرَ تُسْرِعُ إِلَيْهِمُ الْعَيْنُ أَفَأَسْتَرْفِي لَهُمْ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدَرِ لَسَبَقْتَهُ الْعَيْنُ

اس باب میں عمران بن حصینؓ اور بریدہؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسے ایوب بھی عمرو بن دینار سے وہ عروہ سے وہ عبید بن رفاعہ سے وہ اسماء بنت عمیس سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتی ہیں۔ ہم سے اسے حسن بن علی خلیل نے عبدالرزاق کے حوالے سے انہوں نے معمر سے اور انہوں نے ایوب سے بیان کیا ہے۔

۱۸۹۱۔ حدثنا محمود بن غيلان نا عبدالرزاق

۱۸۹۱۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ حسنؓ اور حسینؓ

ويعلى عن سفیان عن منصور عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن

کے لیے ان الفاظ سے پناہ مانگا کرتے تھے اعید کما..... لامعة تک یعنی میں تم دونوں کے لیے اللہ کے تمام کلمات کے وسیلے سے ہر شیطان، ہر فکر میں ڈالنے والی چیز اور ہر نظر بد سے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر

وَالْحُسَيْنَ يَقُولُ أُعِيدُ كَمَا بَكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَ هَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَأَمَّةٍ وَيَقُولُ هَكَذَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يُعَوِّذُ إِسْحَقَ وَإِسْمَاعِيلَ

آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ ابراہیم بھی اسماعیل اور اسحاق پر اسی طرح دم کیا کرتے تھے۔

حسن بن علی خلال بھی یزید بن ہارون اور عبدالرزاق سے وہ سفیان سے اور وہ منصور سے اسی کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۳۳۔ مَا جَاءَ أَنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ وَالْغَسْلَ لَهَا  
 ۱۸۹۲۔ حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ نَا يَحْيَى  
 ۱۳۳۳۔ نَظَرَ لَكَ جَانِحٌ هُوَ أَوْ رَأْسُكَ لِيُغْسَلَ لَكَ عَيْنَكَ  
 ۱۸۹۲۔ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْعَنْبَرِيُّ نَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ  
 ۱۳۳۳۔ نَظَرَ لَكَ جَانِحٌ هُوَ أَوْ رَأْسُكَ لِيُغْسَلَ لَكَ عَيْنَكَ  
 ۱۸۹۲۔ حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ نَا يَحْيَى  
 ۱۳۳۳۔ نَظَرَ لَكَ جَانِحٌ هُوَ أَوْ رَأْسُكَ لِيُغْسَلَ لَكَ عَيْنَكَ

عن يحيى بن ابي كثير قال نئى حبة بن حابس التميمي نئى ابي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا شئ في الهام والعين حق

۱۸۹۳۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَرِشِ  
 الْبَغْدَادِيِّ نَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَقَ الْحَضْرَمِيِّ نَا وَهَيْبُ  
 ۱۸۹۳۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَرِشِ  
 الْبَغْدَادِيِّ نَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَقَ الْحَضْرَمِيِّ نَا وَهَيْبُ  
 ۱۸۹۳۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَرِشِ  
 الْبَغْدَادِيِّ نَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَقَ الْحَضْرَمِيِّ نَا وَهَيْبُ

اس باب میں عبداللہ بن عمرو سے بھی حدیث منقول ہے۔ مذکورہ بالا حدیث صحیح ہے اور اس سے پہلی حدیث غریب ہے اسے شعبان سبکی بن ابی کثیر سے وہ حید بن حابس سے وہ اپنے والد سے وہ ابو ہریرہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ علی بن مبارک اور حرب بن شداد اس سند میں ابو ہریرہ کا ذکر نہیں کرتے۔

مسئلہ: نظر بد کا اثر حق ہے بہت سی روایات اس پر دلالت کرتی ہیں اس پر امت کا اجماع بھی ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۱۳۳۴۔ مَا جَاءَ فِي أَخْذِ الْأَجْرِ عَلَى التَّعْوِذِ

۱۸۹۴۔ حَدَّثَنَا هِنَادُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ

جَعْفَرِ بْنِ أَيَّاسٍ عَنِ أَبِي نَضْرَةَ عَنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ

بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ

فَنَزَلْنَا بِقَوْمٍ فَسَأَلْنَا هُمْ الْقُرْآنَ فَلَمْ يَقْرؤُوا فَلَدَغَ

سَيْدُهُمْ فَأَتَوْنَا فَقَالُوا هَلْ فِيكُمْ مَنْ يَرْقِي مِنَ

الْعُقْرَبِ قُلْتُ نَعَمْ أَنَا وَلَكِنْ لَا أَرَوْهُ حَتَّى تُعْطُونَا

۱۸۹۴۔ حَدَّثَنَا هِنَادُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ

جَعْفَرِ بْنِ أَيَّاسٍ عَنِ أَبِي نَضْرَةَ عَنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ

بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ

فَنَزَلْنَا بِقَوْمٍ فَسَأَلْنَا هُمْ الْقُرْآنَ فَلَمْ يَقْرؤُوا فَلَدَغَ

سَيْدُهُمْ فَأَتَوْنَا فَقَالُوا هَلْ فِيكُمْ مَنْ يَرْقِي مِنَ

الْعُقْرَبِ قُلْتُ نَعَمْ أَنَا وَلَكِنْ لَا أَرَوْهُ حَتَّى تُعْطُونَا

(۱) ہم۔ اس چیز کو کہتے ہیں جو کفر و کفر میں ڈال دے جیسے کہ کوئی مرض یا مصیبت وغیرہ۔ (مترجم)

نے کہا ہم تمہیں تمیں بکریاں دیں گے۔ ہم نے قبول کر لیا اور پھر میں نے سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا اور ہم نے بکریاں لے لیں پھر ہمارے دل میں خیال آیا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ جلدی نہ کریں یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ نہ پوچھ لیں جب آپ ﷺ کے پاس پہنچے تو میں نے پورا قصہ سنایا: آپ ﷺ نے فرمایا: تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ سے دم کیا جاتا ہے۔ بکریاں رکھ لو اور میرا بھی حصہ دو۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور ابو نضرہ کا نام منذر بن مالک بن قطعہ ہے۔ امام شافعی اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے قرآن کی تعلیم دینے پر اجرت لینے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک اسے مقرر کرنا بھی جائز ہے شعبہ، ابو عوانہ اور کئی راوی یہ حدیث ابو متوکل سے اور وہ ابو سعید سے نقل کرتے ہیں۔

۱۸۹۵۔ حضرت ابو سعیدؓ فرماتے ہیں کہ صحابہؓ کی ایک جماعت کا ایک بستی سے گزر ہوا۔ اس بستی والوں نے ان کی میزبانی نہیں کی اور انہیں مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ اسی اثناء میں ان کا سردار بیمار ہو گیا تو وہ لوگ ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تمہارے پاس اس کا علاج ہے؟ ہم نے کہا: ہاں لیکن تم لوگوں نے ہمیں مہمان بنانے سے انکار کر دیا ہے اس لیے ہم اس وقت تک علاج نہیں کریں گے جب تک تم لوگ ہمارے لیے کوئی اجرت مقرر نہ کرو۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایک گاہ بکریاں اجرت میں دینا منظور کر لیا۔ پھر ہم میں سے ایک شخص نے اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونکی اور وہ ٹھیک ہو گیا پھر جب ہم آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ کے سامنے یہ قصہ بیان کیا۔ آپ ﷺ نے پوچھا: تمہیں کیسے علم ہوا کہ یہ سورہ رقیہ ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بکریاں لینے سے منع نہیں فرمایا: بلکہ فرمایا: کھاؤ اور میرا بھی حصہ کرو۔ (۱)

یہ حدیث صحیح ہے۔ اور اعمش کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ کئی راوی اسے ابو بکر جعفر بن ابو وحشیہ سے وہ ابو متوکل سے وہ ابو سعید سے نقل کرتے ہیں۔ جعفر بن ایاس، وہی جعفر بن ابی وحشیہ ہیں۔

باب ۱۳۳۵۔ دم اور ادویات کے متعلق

۱۸۹۶۔ حضرت ابو خزیمہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے

عَنَّمَا قَالُوا فَإِنَّا نُعْطِيكُمْ ثَلَاثِينَ شَاةً فَقَبِلْنَا فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ الْحَمْدَ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَبُرَّأ وَقَبَضْنَا الْغَنَمَ قَالَ فَعَرَضَ فِي أَنْفُسِنَا مِنْهَا شَيْءٌ فَقُلْنَا لَا تَعْمَلُوا حَتَّى تَأْتُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَيْهِ ذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي صَنَعْتُ قَالَ وَمَا عَلِمْتُ أَنَّهَا رُقِيَةٌ أَقْبِضُوا الْغَنَمَ وَأَضْرِبُوا إِلَيَّ مَعَكُمْ بِسْمِهِمْ

۱۸۹۵۔ حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث نا شعبة نا ابو بشر قال سَمِعْتُ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بِحَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُؤْهُمْ وَلَا يُضَيِّقُوهُمْ فَاشْتَكَى سَيِّدُهُمْ فَاتَوَّنَا فَقَالُوا هَلْ عِنْدَكُمْ دَوَاءٌ قُلْنَا نَعَمْ وَلَكِنْكُمْ لَمْ تَقْرُؤْنَا وَلَمْ تُضَيِّقُوا فَلَا نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا فَجَعَلُوا عَلَيَّ ذَلِكَ قَطِيعًا مِنْ غَنَمٍ فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنَّا يَقْرَأُ عَلَيْهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبُرَّأ فَلَمَّا أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ قَالَ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ وَلَمْ يَذْكَرْهَا مِنْهُ وَقَالَ كُلُّوا وَأَضْرِبُوا إِلَيَّ مَعَكُمْ بِسْمِهِمْ

باب ۱۳۳۵۔ مَا جَاءَ فِي الرُّقِيِّ وَالْأَدْوِيَةِ

۱۸۹۶۔ حدثنا ابن ابى عمر نا سفيان عن الزُّهْرِيِّ

(۱) اہل لغت کے نزدیک اس سے مراد دس سے لے کر چالیس تک کا عدد ہے جب کہ بعض پندرہ سے پچیس تک بھی کہتے ہیں۔ (مترجم)

رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ یہ رقیہ جس سے ہم دم وغیرہ کرتے ہیں اور یہ دوائیاں جنہیں ہم بطور علاج استعمال کرتے ہیں اور یہ پرہیز وغیرہ کیا تقدیر کو روک سکتی ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ خود اللہ کی تقدیر میں شامل ہیں۔ (یعنی فلاں بیماری فلاں کے دم سے اور فلاں فلاں دوائی وغیرہ سے دور ہوگی۔)

عَنْ أَبِي حَزَامَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رُقْيَى نَسْتَرَفِيهَا وَدَوَاءً تَتَدَاوَى بِهِ وَتَقَاةٌ تَنْقِيهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ شَيْئًا قَالَ هِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سعید بن عبد الرحمن اسے سفیان سے وہ زہری سے وہ ابن ابی خزیمہ سے وہ اپنے والد سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ ابن عیینہ سے یہ دونوں احادیث منقول ہیں۔ چنانچہ بعض ابن ابی خزیمہ اور بعض ابن خزیمہ کہتے ہیں ابن عیینہ کے علاوہ دوسرے راوی اسے زہری سے وہ ابن خزیمہ سے اور وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں۔ یہ زیادہ صحیح ہے اور ابو خزیمہ کی اس حدیث کے علاوہ کسی اور حدیث کا بھی علم نہیں۔

باب ۱۳۳۶۔ عجوہ (کھجور کی ایک قسم) اور کماۃ کے متعلق۔  
۱۸۹۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عجوہ جنت کے میوؤں میں سے ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے اور کماۃ من کی ایک قسم ہے (من وسلاوی وہ کھانے میں جو بنی اسرائیل پر اترتے تھے) اور اس کا عرق آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ (۱)

باب ۱۳۳۶۔ مَا جَاءَ فِي الْكَمَاءِ وَالْعَجْوَةِ  
۱۸۹۷۔ حَدَّثَنَا أَبُو عِيْنَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ وَمَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَا ثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَجْوَةُ مِنَ الْحَنَّةِ وَفِيهَا شِفَاءٌ مِنَ السَّمِّ وَالْكَمَاءُ مِنَ الْمَنِّْ وَمَاءٌ هَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ

اس باب میں سعید بن زید، ابو سعید اور جابر سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے، ہم اسے محمد بن عمر کی روایت سے صرف سعید بن عامر کی سند سے جانتے ہیں۔

۱۸۹۸۔ حضرت سعید بن زید، آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: کماۃ من، میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھوں کو شفا دیتا ہے۔

۱۸۹۸۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيْبٍ نَاعِمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمِيْرٍ ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمِيْرٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَمَاءُ مِنَ الْمَنِّْ وَمَاءٌ هَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۸۹۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ صحابہؓ نے کہا کہ ”کماۃ“ زمین کے چمک ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا: کماۃ من میں سے ہے اور اس

۱۸۹۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ نَاعِمُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا ابْنُ أَبِي عَتَاةٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي

(۱) کماۃ: پودوں کی ایک قسم ہے جو خود بخود گتے ہیں۔ اس کو من کی ایک قسم قرار دینے سے بھی مراد ہے کہ جیسے بنی اسرائیل کو من عطا کیا گیا تھا۔ اسی طرح تم لوگوں کے لیے کماۃ ہے جو بغیر محنت و مشقت اور بغیر بیج بوائے حاصل ہوتا ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

کے عرق میں آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ اور عجمہ جنت کے میووں میں سے ہے اس میں زہر سے شفا ہے۔

۱۹۰۰۔ حضرت قتادہ، حضرت ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے تین، پانچ یا سات کماۃ لیے اور ان کا عرق نخوڑ کر ایک شیشی میں رکھ لیا پھر اسے ایک لڑکی کی آنکھوں میں ڈالا تو وہ صحیح ہو گئی۔

۱۹۰۱۔ قتادہ، حضرت ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: شوئیز، موت کے علاوہ ہر مرض کی دوا ہے، قتادہ کہتے ہیں کہ روزانہ کلونجی کے اکیس دانے لے کر انہیں ایک کپڑے میں باندھ کر بھگودیتے اور پھر ایک دن اس کے دو قطرے دائیں طرف اور ایک قطرہ بائیں طرف ناک میں ڈالتے اور دوسرے دن دو بائیں طرف ایک دائیں طرف پھر تیسرے دن دوبارہ دو قطرے دائیں جانب اور ایک قطرہ بائیں ناک میں ڈالتے۔

باب ۱۳۳۷۔ کاہن (نبی امور کے علم کا دعویدار) کی اجرت کے متعلق۔

۱۹۰۲۔ حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کتے کی قیمت لینے، زنا کی اجرت لینے اور کاہن کی مٹھائی (یعنی اس کی مزدوری دینے سے منع فرمایا۔

باب ۱۳۳۸۔ گلے میں تعویذ وغیرہ لگانا۔

۱۹۰۳۔ حضرت عیسیٰ بن عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ کہتے ہیں کہ میں عبد اللہ بن عکیم ابو معبد جعنی کے پاس ان کی عیادت کے لیے گیا تو ان کے جسم پر مرض کی سرخی تھی۔ میں نے عرض کیا آپ کوئی تعویذ کیوں نہیں لگے ہیں ڈال لیتے۔ انہوں نے فرمایا: موت اس سے زیادہ قریب ہے اور آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جس نے کوئی چیز لگائی وہ اس کو سوئپ دیا

هُرَيْرَةَ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا الْكَمَاةُ جُدْرِي الْأَرْضِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَمَاةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاءُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجْوَةُ مِنَ الْحَنَةِ وَهِيَ شِفَاءٌ مِنَ السَّمِّ

۱۹۰۰۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا معاذ بن أبي عن قتادة قال حدثتني أبا هريرة قال أخذت ثلاثة أكموء أو خمسا أو سبعا فعضرتهن فجعلت ماء هن في قارورة فكحلت به جارية لي فبرأت

۱۹۰۱۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا معاذ بن هشام بن أبي عن قتادة قال حدثتني أبا هريرة قال الشونيز دواء من كل داء إلا السام قال قتادة يأخذ كل يوم إحدى وعشرين حبة فيجعلهن في حرقفة فينقعها فيستعط به كل يوم في منخره الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة والثاني في الأيسر قطرتين وفي الأيمن قطرة والثالث في الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة

باب ۱۳۳۷۔ مَا جَاءَ فِي أَجْرِ الْكَاهِنِ

۱۹۰۲۔ حدثنا قتيبة بن الليث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود قال نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ النِّعِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۳۸۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّعْلِيقِ

۱۹۰۳۔ حدثنا محمد بن مديونة نا عبيد الله عن ابن أبي ليلى عن عيسى وهو بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال دخلت على عبد الله بن عكيم أبي معبد الجعني أعوده وبه حمرة فقلت ألا تعلق شيئا قال الموت أقرب من ذلك قال النبي صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَلَعَّقَ شَيْئًا وَكَلَّ إِلَيْهِ  
جائے گا یعنی مدد نہیں رہے گی۔

ہم اس حدیث کو صرف ابن ابی لیلیٰ کی روایت سے جانتے ہیں۔ محمد بن بشر بھی سحیحی بن سعید سے اور وہ ابن ابی لیلیٰ سے اس کے ہم  
معنی حدیث بیان کرتے ہیں۔ اس باب میں عقبہ بن عامر سے بھی حدیث منقول ہے۔

مسئلہ: شاہ ولی اللہ صاحبؒ حجۃ اللہ البالغین لکھتے ہیں کہ جن احادیث میں تعویذ وغیرہ کی ممانعت آئی ہے وہ ان چیزوں پر محمول  
ہے جن میں شرک ہو۔ لہذا اسماء الہی وغیرہ لکھ کر گلے میں لٹکانا جائز ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمروؓ اپنے بالغ لڑکوں کو ان کلمات کی تعلیم  
دیا کرتے تھے "اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبه وعقابه وشر عبادہ و من همزات الشیاطین وان یحضرن" اور  
تا بالغ لڑکوں کے لیے لکھ کر ان کے گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے۔ (ابوداؤد) واللہ اعلم۔ (مترجم)

باب ۱۳۳۹۔ مَا جَاءَ فِي تَبْرِيدِ الْحُمَّى بِالْمَاءِ

باب ۱۳۳۹۔ پانی سے بخار کو ہلکا کرنا

۱۹۰۴۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ

۱۹۰۴۔ حضرت رافع بن خدیجؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: بخار جوشِ جنم سے ہے اسے پانی سے ٹھنڈا کیا کرو۔

مَسْرُوقٍ عَنْ عُبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ

خُدَيْجٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْحُمَّى  
قَوْرٌهَا مِنَ النَّارِ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ

اس باب میں اسماء بنت ابی بکرؓ، ابن عمرؓ، ابن عباسؓ، عائشہؓ اور حضرت زبیرؓ کی بیوی سے بھی احادیث منقول ہیں۔

۱۹۰۵۔ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ نَاعِبَةً

۱۹۰۵۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بخار جنم

کے جوش سے ہے اسے پانی سے ٹھنڈا کرو۔

بِنِ سَلِيمَانَ بْنِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْحُمَّى  
مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ

ہارون بن اسحاق، عبدہ سے وہ ہشام بن عروہ سے وہ فاطمہ بنت منذر سے وہ اسماء بنت ابی بکرؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی  
طرح نقل کرتے ہیں اسماء کی حدیث اس سے زیادہ طویل ہے اور وہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔

۱۹۰۶۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ

۱۹۰۶۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ صحابہؓ کو بخار

اور تمام درروں پر یہ دعائیں پڑھاتے تھے۔ "بسم اللہ۔ الخ میں اس مرض کا

دم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اور ہر پھڑکتی رگ ازراگ کی

گرمی سے اسی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو عظیم ہے۔

ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ

حُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الْحُمَّى وَمِنْ

الْأَوْجَاعِ كُلِّهَا أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ أَعُوذُ بِاللَّهِ  
الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَعَارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ

یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف ابراہیم بن اسماعیل بن ابی حنیبلہ کی روایت سے جانتے ہیں اور زانیہ تیسرا کتبہ جاتے ہیں۔ اس

حدیث میں "عرق یعار" کے الفاظ ہیں یعنی آواز کرنے والی رگ۔

باب ۱۳۴۰۔ مَا جَاءَ فِي الْغَيْلَةِ

۱۹۰۷۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ نَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ بِنْتِ وَهَبٍ وَهِيَ جُدَامَةٌ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَرَدْتُ أَنْ أَتْهِيَ عَنِ الْغَيْالِ فَإِذَا فَارِسُ وَالرُّومُ يَفْعَلُونَ وَلَا يَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ

باب ۱۳۳۰۔ بچے کو دودھ پلانے کی حالت میں بیوی سے جماع کرنا۔  
۱۹۰۷۔ حضرت جدامہ بنت وہب فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ تم لوگوں کو بچے کو دودھ پلانے والی بیوی سے صحبت کرنے سے منع کروں لیکن میں نے دیکھا کہ فارس اور روم والے ایسے کرتے ہیں اور ان کی اولاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔

اس باب میں اسماء بنت یزید سے بھی حدیث منقول ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور مالک اسے ابواسود سے وہ عروہ سے وہ عائشہ سے وہ جدامہ بنت وہب سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی مثل نقل کرتی ہیں۔ امام مالک کہتے ہیں کہ غیلہ اسے کہتے ہیں کہ آدمی اپنی بیوی سے دودھ پلانے کے زمانے میں صحبت کرے۔

باب ۱۳۴۱۔ مَا جَاءَ فِي دَوَاءِ ذَاتِ الْحَنْبِ

۱۹۰۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا مَعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْعَتُ الزَّيْتِ وَالْوَرْسَ مِنْ ذَاتِ الْحَنْبِ قَالَ قَتَادَةُ وَيُلْدُ مِنَ الْحَاظِبِ الَّذِي يَشْتَكِيهِ

باب ۱۳۳۱۔ ذات الحجب کے علاج کے متعلق  
۱۹۰۸۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ذات الحجب کے مرض میں تیل اور ورس کا علاج تجویز کیا کرتے تھے قنادہ کہتے ہیں کہ یہ دو امنہ کے اسی جانب سے اثر ملی جائے گی جس طرف شکایت ہو۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور ابو عبد اللہ کا نام میمون ہے یہ بصری بزرگ ہیں۔

۱۹۰۹۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں ذات الحجب کا علاج زیتون اور قسط بحر سے کرنے کا حکم دیا۔

۱۹۰۹۔ حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَدَوِيُّ الْبَصْرِيُّ نَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَزِينِ نَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدِ الْحِذَاءِ نَا مَيْمُونُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ قَالَ أَمَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَدَاوِيَ مِنْ ذَاتِ الْحَنْبِ بِالْقُسْطِ الْبَحْرِيِّ وَالزَّيْتِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے ہم اسے صرف میمون کی زید بن ارقم سے روایت سے پہچانتے ہیں۔ پھر میمون سے کئی علماء یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ ذات الحجب سے مراد سل کا مرض ہے۔

۱۹۱۰۔ حضرت عثمان بن ابی عاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ میرے ہاں تشریف لائے مجھے اس وقت اتنا شدید درد تھا کہ قریب تھا کہ میں اس سے ہلاک ہو جاؤں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اپنے سیدھے ہاتھ سے درد کی جگہ کو چھوؤ اور سات مرتبہ پڑھو "اعوذ سے اجد" تک میں اللہ اس

۱۹۱۰۔ باب حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْإِنصَارِيُّ نَا مَعْنُ نَا مَالِكُ عَنْ يَزِيدِ بْنِ خَصِيفَةَ عَنْ عَمْرُو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ السَّلْمِيِّ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جَبْرِ بْنِ مَطْعَمٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ

کی عزت و قدرت اور حکومت کے ساتھ ہر اس چیز کے شر سے جسے میں چاہتا ہوں۔ پناہ مانگتا ہوں۔ عثمان کہتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطاء فرمادی اب میں ہمیشہ اپنے گھر والوں اور دوسرے لوگوں کو یہ دعا بتاتا ہوں۔

آتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِي وَجَعٌ قَدْ كَادَ يُهْلِكُنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْسَحْ بِبِيمِينِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَقُلْ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ وَسُلْطَانِهِ مِنْ شَرِّمَا آجَدُ قَالَ فَفَعَلْتُ فَأَذْهَبَ اللَّهُ مَا كَانَ بِي فَلَمْ أَزَلْ أَمُرْ بِهِ أَهْلِي وَغَيْرَهُمْ  
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۴۲۔ سنا سے متعلق۔

باب ۱۳۴۲۔ مَا جَاءَ فِي السِّنَا

۱۹۱۱۔ حضرت اسماء بنت عمیسؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے سوال کیا کہ تم کس چیز کا مسہل لیتے ہو تو عرض کیا کہ شبرم کا۔ فرمایا: یہ تو بہت گرم اور ظالم ہے۔ کتنی ہیں پھر میں نے سنا کا مسہل لیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اگر موت سے کسی چیز میں شفا ہوتی تو اس میں ہوتی۔ (۱)

۱۹۱۱۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ ثَنَا عَبْدِالْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرِ ثَنِي عْتَبَةَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهَا بِمَا تَسْتَمْسِكِينَ قَالَتْ بِالشُّبْرُمِ قَالَ حَارٌّ حَارٌّ قَالَتْ ثُمَّ اسْتَمْسَكْتُ بِالسِّنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ شَيْئًا كَانَ فِيهِ شِفَاءٌ مِنَ الْمَوْتِ لَكَانَ فِي السِّنَا  
یہ حدیث غریب ہے۔

باب ۱۳۴۳۔ شہد کے متعلق۔

باب ۱۳۴۳۔ مَا جَاءَ فِي الْعَسَلِ

۱۹۱۲۔ حضرت ابوسعیدؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے بھائی کو دست لگے ہوئے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا: اسے شہد پلاؤ۔ وہ دوبارہ آیا اور عرض کیا کہ میں نے اسے شہد پلایا تو دست اور زیادہ ہو گئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اسے شہد پلاؤ اس نے پھر شہد دیا اور دوبارہ آپ ﷺ کے پاس آ کر عرض کیا کہ اس سے دست مزید بڑھ گئے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سچے ہیں اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ اسے پھر شہد پلاؤ۔ اس مرتبہ اس نے پلایا تو وہ صحت یاب ہو گیا۔

۱۹۱۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَحِيَّ اسْتَطَلَقَ بَطْنَهُ فَقَالَ اسْقِهِ عَسَلًا فَسَقَاهُ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ سَقَيْتُهُ عَسَلًا فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتَطَلَقَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْقِهِ عَسَلًا قَالَ فَسَقَاهُ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتَطَلَقَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَحِيكَ اسْقِهِ عَسَلًا فَسَقَاهُ فَبَرَأَ  
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(۱) شبرم: ایک چھوٹا درخت ہے جو قد آدم یا اس سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے۔ (مترجم)

۱۹۱۳۔ حضرت ابن عباسؓ، رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: کوئی مسلمان بندہ ایسا نہیں کہ وہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے اور سات بار یہ دعا پڑھے ”اسئلک“ سے ”یشفیک“ تک تو اللہ تعالیٰ اسے صحتیاب نہ کریں۔ بشرطیکہ مریض کی موت کا وقت نہ آچکا ہو۔ (ترجمہ، میں اللہ بزرگ و برتر سے جو عرش عظیم کا مالک ہے تیرے لیے شفا طلب کرتا ہوں)۔

۱۹۱۳۔ حدثنا محمد بن المثنی ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن يزيد بن خالد قال سمعت المنهال بن عمرو یحدث عن سعید بن جبیر عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال ما من عبد مسلم ینعوذ مریضاً لم یحضر اجله فیقول سبع مرات اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک الا عوفی

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف منہال بن عمر کی روایت سے جانتے ہیں۔

باب ۱۳۳۳

باب: ۱۳۴۴

۱۹۱۴۔ حضرت ثوبانؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بخاراگ کا ایک ٹکڑا ہے۔ اگر تم میں سے کسی کو بخار ہو جائے تو وہ اسے پانی سے بھائے اور بہتی نہر میں اتر کر جس طرف سے پانی آ رہا ہو اس طرف منہ کر کے یہ دعا پڑھے۔ ”بسم اللہ“ سے ”رسولک“ تک یعنی اللہ کے نام سے ابتداء کرتا ہوں۔ اے اللہ اپنے بندے کو شفا دے اور اپنے رسول کو سچا کر۔ اور فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے نہر میں اترے پھر اسے چاہیے کہ نہر میں تین غوطے لگائے اور تین دن تک یہ عمل کرے۔ اگر تین دن میں صحتیاب نہ ہو تو پانچ دن اور اگر اس میں بھی نہ ہو تو سات دن اور پھر اگر سات دنوں میں شفا نہ ہو تو نو دن تک یہ عمل کرے انشاء اللہ اس کا یہ مرض اس سے تجاوڑ نہیں کرے گا۔

۱۹۱۴۔ حدثنا احمد بن سعید الاشقر المرابطی ثنا روح عبادة ثنا مرزوق ابو عبد اللہ الشامی ثنا سعید رجل من اهل الشام ثنا ثوبان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اصاب احدکم الحمی فان الحمی قطعة من النار فلیطفئها عنه بالماء فلیستقیق فی نہر جار فلیستقبل جریته فیقول بسم اللہ اللهم اشف عبدک وصدق رسولک بعد صلوة الصبح وقبل طلوع الشمس ولیمس فیہ ثلاث غمسات ثلاثة ايام فان لم یبرأ فی ثلاث فخمس فان لم یبرأ فی خمس فسبع فان لم یبرأ فی سبع فتسع فانها لا تکاد تجاوز تسعا باذن اللہ

یہ حدیث غریب ہے۔

باب ۱۳۳۵۔ راکھ سے علاج۔

باب ۱۳۴۵۔ التداوی بالرماد

۱۹۱۵۔ حضرت ابو حازم کہتے ہیں کہ ہبل بن سعدؓ سے پوچھا گیا کہ آنحضرت ﷺ کے زخم کا کس طرح علاج کیا گیا۔ ہبل نے فرمایا: اس کا مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی باقی نہیں رہا۔ حضرت علیؓ اپنی سپر میں پانی لاتے اور فاطمہؓ زخم کو دھوتیں۔ میں یوریا جلاتا اور پھر اس کی راکھ آپ ﷺ کے زخم مبارک پر چھڑک دیتے۔

۱۹۱۵۔ حدثنا ابن ابی عمر ثنا سفیان عن ابی حازم قال سئل سهل بن سعد وانا اسمع بای شیء قودی جرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما بقی احد اعلم بہ منی کان علی ینائی بالماء فی ترسہ وفاطمة تغسل عنه وأحرق له حصیر فحشینی بہ جرحه امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۹۱۶۔ حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

۱۹۱۶۔ حدثنا عبد اللہ بن سعید الاشج ثنا عقبہ بن

خالد السكونی عن موسى بن محمد بن ابراهيم التيمي  
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ فَتَقَسُّوْا لَهُ  
فِي أَحْلِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَزِدُّ شَيْئًا وَيُطَيِّبُ نَفْسَهُ  
یہ حدیث غریب ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مال وراثت کی تقسیم سے متعلق آنحضرت ﷺ سے

أَبْوَابُ الْفَرَائِضِ عَنْ

منقول احادیث کے ابواب

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس باب کے بحث میں داخل ہونے سے پہلے اس میں استعمال ہونے والی اصلاحات اور ورثاء کے حصے سے واقفیت ضروری ہے۔  
جس کے پیش نظر ذیل میں مختصر ان اصطلاحات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جو اس باب میں استعمال ہوتی ہیں پھر ایک جدول بتایا گیا ہے جسے  
دیکھ کر باآسانی ہر وارث کا حصہ نکالا جاسکے۔ وباللہ التوفیق۔

### میراث کی اصطلاحات

۱۔ ذوی الفروض: ان ورثاء کو کہتے ہیں جن کا حصہ قرآن و سنت یا اجماع سے متعین ہے۔ ان کی تعداد بارہ ہے۔

چار مردوں میں سے ہیں۔ ۱۔ باپ۔ ۲۔ دادا۔ ۳۔ اخیانی بھائی۔ ۴۔ شوہر

جبکہ عورتوں میں سے آٹھ ذوی الفروض ہیں۔ ۱۔ بیٹی۔ ۲۔ پوتی۔ ۳۔ عینی بہن۔ ۴۔ علاقائی بہن۔ ۵۔ اخیانی بہن۔ ۶۔ بیوی۔

۷۔ ماں۔ ۸۔ جدہ صحیحہ۔

۲۔ عصبات: ذوی الفروض کے علاوہ باقی رشتہ داروں میں سے جو خود بھی مذکور ہوں اور میت کی طرف بھی بواسطہ مذکور منسوب ہوں

ان کا حصہ معین نہیں۔ ذوی الفروض کو دینے کے بعد بقیہ مال عصبہ کو دیا جائے گا۔ عصبات کو جدول میں ترتیب کے ساتھ لکھا گیا ہے۔

۳۔ ذوی الارحام: ذوی الفروض اور عصبات کے علاوہ باقی رشتہ داروں کو ذوی الارحام کہتے ہیں۔

۴۔ عینی بھائی، بہن۔ سگے، بہن بھائی۔

۵۔ علاقائی بھائی، بہن۔ دونوں کا باپ ایک اور مائیں الگ الگ ہوں۔

۶۔ اخیانی بھائی، بہن۔ جن کی ماں ایک اور باپ الگ الگ ہوں۔

۷۔ جد صحیح۔ اس سے مراد دادا ہے۔ بشرطیکہ میت کی طرف سے اس کی نسبت میں مؤنث کا واسطہ نہ ہو مثلاً باپ کا باپ باپ کے

باپ کا باپ۔

۸۔ جد فاسد۔ میت کی طرف اس کی نسبت میں مؤنث کا واسطہ ہو مثلاً ماں کا باپ (نانا) اور باپ کی ماں کا باپ۔

۹۔ جدہ صحیحہ: میت کی طرف اس کی نسبت میں جد فاسد کا واسطہ نہ ہو جیسے کہ باپ کی ماں (دادی) ماں کی ماں، دادی کی ماں اور داد

کی ماں وغیرہ۔ نیز ماں کی طرف سے صرف ایک ہی جدہ صحیحہ ہو سکتی ہے جب کہ باپ کی طرف سے زیادہ بھی ممکن ہیں۔

۱۰۔ جدہ فاسدہ۔ میت کی طرف اس کی نسبت میں جد فاسد کا واسطہ ہو مثلاً ماں کے باپ کی ماں، ماں کے باپ کی ماں کی ماں اور ماں کی ماں کے باپ کی ماں وغیرہ۔

۱۱۔ ترکہ: وہ تمام جائداد، نقد مال اور سامان وغیرہ جو میت اپنے مرنے کے وقت چھوڑے۔

۱۲۔ عول۔ ذوی القروض کے حصص کا مجموعہ مخرج سے بڑھ جائے۔

۶۔ مجموعہ ۷ ہو گیا جو مخرج یعنی ۶ سے بڑھ گیا۔

مثلاً	۱/۲ شوہر	۳
	۱/۲ بہن	۳
	۱/۶ ماں	۱

۱۳۔ رد۔ ذوی القروض کے حصص کا مجموعہ مخرج سے کم ہو جائے۔

۱۴۔ مناسخہ: ترکے کی تقسیم سے قبل کسی وارث کی موت کی وجہ سے اس کا حصہ اس کے ورثہ کو منتقل کرنا۔

۱۵۔ اولاد: بیٹا، بیٹی، بیٹے کی اولاد، بیٹے کے بیٹے کی اولاد وغیرہ۔

جدول سمجھنے کا طریقہ: جدول کے پہلے خانے میں میت سے رشتہ مع نمبر شمار دیا گیا ہے۔ جب کہ دوسرے خانے میں جو نمبر دیئے گئے ہیں ان سے مراد وہ رشتہ دار ہیں جو پہلے خانے میں مذکور رشتہ دار کی وجہ سے میراث سے محروم کر دیئے جائیں گے۔ مثلاً ۳ نمبر سے مراد بیٹا، ۶ نمبر سے مراد پوتا اور ۹ نمبر سے مراد باپ ہے اور پھر تیسرے خانے میں اس رشتے دار کا میراث سے حصہ دیا گیا ہے۔

میراث میں وارث کا حصہ	محروم	میت سے رشتہ اور ورثہ کی تعداد
۱/۴ اگر اولاد نہ ہو ورنہ ۱/۲	--	۱ شوہر۔ ایک
۱/۸ اگر اولاد نہ ہو ورنہ ۱/۴	--	۲ بیوی۔ ایک یا زیادہ
عصبہ	۳۰۵۱۴۰۸۵۶	۳ بیٹا
۲/۳ بشرطیکہ ۳ نہ ہو	۲۳۰۲۲۰۸۰۷	۴ بیٹیاں دو یا زیادہ
۱/۲ بشرطیکہ ۳ نہ ہو	۲۳۰۲۲	۵ بیٹی۔ ایک
عصبہ	۳۰۵۱۴	۶ پوتا۔ ایک یا زیادہ
۲/۳ بشرطیکہ بیٹی نہ ہو اور اگر بیٹی ہو تو ۱/۶	۲۳۰۲۲	۷ پوتیاں دو یا زیادہ
۱/۲ بشرطیکہ بیٹی نہ ہو اور اگر بیٹی ہو تو ۱/۶	۲۳۰۲۲	۸ پوتی ایک

۹	باپ	۳۰ تا ۱۴، ۱۴، ۱۱	عصبہ ۶+ / ابشر طیکہ ۳ یا ۶ نہ ہو اور اگر ۳ یا ۶ ہو تو ۱/۶
۱۰	ماں	۱۳، ۱۲	اگر اولاد یادو بھائی بہن ۶/۱۔ اگر ماں، باپ، شوہر یا بیوی ہوں تو باقی ۱/۳ اور اگر ایسی کوئی صورت نہ ہو تو کل مال کا ۱/۳
۱۱	دادا	۳۰ تا ۱۳	عصبہ ۶+ / ابشر طیکہ ۳ یا ۶ نہ ہو اور اگر ۳ یا ۶ ہو تو صرف ۱/۶
۱۲	دادی ایک یا زیادہ	--	۶/۱ سب میں برابر تقسیم ہوگا
۱۳	نانی ایک یا زیادہ	--	۶/۱ سب میں برابر تقسیم ہوگا
۱۴	یعنی بھائی دو یا زیادہ	۳۰ تا ۲۴، ۲۱ تا ۱۸	عصبہ
۱۵	یعنی بھائی ایک	۳۰ تا ۲۴، ۲۱ تا ۱۸	عصبہ
۱۶	یعنی بہن دو یا زیادہ	۲۱ تا ۲۰	عصبہ ۵، ۴ یا ۸ کے ساتھ عصبہ ہوگی، اگر ۵ اور ۸ نہ ہو تو ۲/۳
۱۷	یعنی بہن ایک	۲۱ تا ۲۰	عصبہ ۵، ۴ یا ۸ کے ساتھ عصبہ ہوگی، اگر ۵ اور ۸ نہ ہو تو ۱/۲
۱۸	علاقائی بھائی دو یا زیادہ	۳۰ تا ۲۴	عصبہ
۱۹	علاقائی بھائی ایک	۳۰ تا ۲۴	عصبہ
۲۰	علاقائی بہن دو یا زیادہ	۳۰ تا ۲۴	عصبہ ۵، ۴ یا ۸ کے ساتھ عصبہ اگر ۵، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴ اور اگر ۷، ۶، ۵، ۴ ہو تو ۱/۶
۲۱	علاقائی بہن ایک	۳۰ تا ۲۴	عصبہ ۵، ۴ یا ۸ کے ساتھ عصبہ اگر ۵، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴ اور اگر ۷، ۶، ۵، ۴ ہو تو ۱/۶
۲۲	اخینائی بھائی بہن دو یا زیادہ	۳۰ تا ۲۴	۳/۱ سب بہن بھائیوں میں برابر تقسیم ہوگا
۲۳	اخینائی بھائی بہن ایک	۳۰ تا ۲۴	۱/۶
۲۴	یعنی بھائی کا بیٹا ایک یا زیادہ	۳۰ تا ۲۵	عصبہ
۲۵	علاقائی بھائی کا بیٹا ایک یا زیادہ	۳۰ تا ۲۶	عصبہ
۲۶	یعنی چچا ایک یا زیادہ	۳۰ تا ۲۷	عصبہ
۲۷	علاقائی چچا ایک یا زیادہ	۳۰ تا ۲۸	عصبہ
۲۸	یعنی چچا کا بیٹا ایک یا زیادہ	۳۰ تا ۲۹	عصبہ
۲۹	علاقائی چچا کا بیٹا ایک یا زیادہ	۳۰	عصبہ
۳۰	زوی الارحام	۳۰	اس کی تفصیل آگے آئے گی۔

ذوی الارحام :- جب ذوی الفروض یا عصباء میں سے بیوی یا شوہر کے علاوہ کوئی بھی وارث نہ ہو تو بیوی یا شوہر کو ان کا حصہ دینے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ ذوی الارحام کو دیا جائے گا۔ ان کی چار قسمیں ہیں۔

(۱) جزء میت یعنی بیٹا یا پوتی کی اولاد اور اسی طرح ان سے نیچے۔

(۲) اصل میت جیسے اجداد اور جدات فاسدہ اور اسی طرح ان سے اوپر۔

(۳) باپ کا جزء جیسے یعنی علاقائی بھائیوں کی بیٹیاں، اخیانی بھائیوں اور سب بہنوں کی اولاد۔

(۴) دادا کا جزء جیسے یعنی علاقائی چچاؤں کی بیٹیاں، اخیانی چچا، پھوپھیوں، ماموں، خالائیں اور ان کی اولاد۔

ان کا حکم یہ ہے کہ ان میں سے جو منفرد ہو گا وہ پورے مال کا مستحق ہوگا۔ اور اگر چند لوگ ہوں گے تو دیکھا جائے گا کہ ان کی قربت متحد ہے یا نہیں۔ اگر متحد ہے (یعنی ایک ہی صنف سے ہوں تو زیادہ قریبی زیادہ حق دار ہوگا۔ اور اسی پر اجماع ہے) یعنی سگا (سو تیلے سے اولیٰ اور سو تیلہ اخیانی سے ادلیٰ ہوگا۔ خواہ مرد ہو یا عورت) اور اگر اس میں بھی برابر ہوں تو پھر ’ملد کر مشل حظ الاثمنین‘ یعنی مرد کے دو حصے اور عورت کا ایک حصہ لیکن اگر قربت مختلف ہے تو باپ کے قربت داروں کے لیے دو تہائیاں اور ماں کے قربت داروں کے لیے ایک تہائی ہوگی۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۱۳۳۶۔ مال وراثت کے حقدار وارث ہیں۔

باب ۱۳۴۶۔ مَا جَاءَ فِي مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلْيُورَثْهُ

۱۹۱۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے مال چھوڑا وہ اس کے وارثوں کا ہے اور جس نے عیال بال بچے (بے سہارا) چھوڑے ان کی نگہداشت و پرورش میرے ذمے ہے۔

۱۹۱۷۔ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ الْأُمَوِيِّ ثَنَا أَبِي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلْيَاهِلْهُ وَمَنْ تَرَكَ ضَيَاعًا فَلْيُ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ زہری اسے ابو سلمہؓ سے اور ابو ہریرہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں اور یہ طویل ہے۔ اس باب میں جابرؓ اور انسؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ اور ضیاعاً سے مراد وہ عیال ہے جن کی پرورش کے لیے میت نے کوئی مال وغیرہ نہ چھوڑا ہو۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں ان کی پرورش کا انتظام کروں گا۔

باب ۱۳۳۷۔ فرائض کی تعلیم کے متعلق

باب ۱۳۴۷۔ مَا جَاءَ فِي تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ

۱۹۱۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: فرائض اور قرآن خود بھی سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ۔ میں (عنقریب) وفات پانے والا ہوں۔

۱۹۱۸۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ بْنُ وَاصِلٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَسَدِيِّ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دَلْهَمِ ثَنَا عَوْفُ بْنُ شَهْرَبِنِ حَوْشَبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَالْقُرْآنَ وَعَلَّمُوا النَّاسَ فَإِنِّي مُقْبُوضٌ

اس حدیث میں اضطراب ہے۔ اسامہ سے عوف سے وہ سلمان بن جابر سے وہ ابن مسعود سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں ہم سے یہ حدیث حسین نے ابو اسامہ کے حوالے سے اسی کے ہم معنی بیان کی ہے۔

باب ۱۳۳۸۔ لڑکیوں کی میراث۔

باب ۱۳۴۸۔ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْبَنَاتِ

۱۹۱۹۔ حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ سعد بن ربیع کی بیوی سعد کی دو بیٹیوں کو لے کر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یہ دونوں سعد بن ربیع کی بیٹیاں ہیں۔ ان کے والد غزوہ احد کے موقع پر آپ ﷺ کے ساتھ تھے اور شہید ہو گئے۔ ان کے چچا نے ان کا سارا مال لے لیا اور ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ جب تک ان کے پاس مال نہ ہو ان کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس مسئلے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے۔ چنانچہ میراث کی آیت نازل ہوئی اور آپ ﷺ نے ان لڑکیوں کے چچا کو حکم بھیجا کہ سعد کی بیٹیوں کو دو ٹکٹ اور ان کی بیوی کو مال کا آٹھواں حصہ ادا کر کے باقی خود لے لیں۔

۱۹۱۹۔ حدثنا عبد بن حمید نا زکریا بن عدی نا عیبد اللہ بن عمرو عن عبد اللہ بن محمد بن عقیل عن جابر بن عبد اللہ قال جاءت امرأة سعد بن الربیع بائنتبہا من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربیع قتل أبوهما معك يوم أُحُدٍ شهيدًا وإنَّ عَمَّهُما أخذ ما لهُما فلم يدع لهُما مالًا ولا تُنكحان إلا ولهُما مال قال يقضي الله في ذلك فزلت آية الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عَمِّهِما فقال أعط بنتي سعد الثلثين وأعط أمَّهُما الثمن وما بقي فهو لك

یہ حدیث حسن صحیح ہے ہم اسے صرف عبد اللہ بن محمد بن عقیل کی روایت سے جانتے ہیں۔ شریک بھی اسے عبد اللہ بن محمد بن عقیل سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۳۳۹۔ بیٹی کے ساتھ پوتیوں کی میراث۔

۱۹۲۰۔ حضرت ہزیر بن شرجیل کہتے ہیں کہ ایک شخص ابو موسیٰ اور سلیمان بن ربیعہ کے پاس آیا اور ان سے بیٹی، پوتی اور سگی بہن کی میراث پوچھی۔ انہوں نے فرمایا: بیٹی کے لیے نصف مال اور بہن کے لیے جو باقی بچ جائے گا۔ پھر ان دونوں نے اسے کہا کہ عبد اللہ کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو وہ بھی یہی جواب دیں گے۔ وہ شخص حضرت عبد اللہ کے پاس آیا اور وہی پوچھا اور ان کے قول کے متعلق بھی بتایا۔ انہوں نے فرمایا: اگر میں یہی فیصلہ دوں تو میں گمراہ ہو گیا۔ اور ہدایت پانے والا نہ ہوں۔ لیکن میں اس میں وہ فیصلہ کروں گا جو رسول اللہ ﷺ نے کیا تھا کہ بیٹی کے لیے نصف مال اور پوتی کے لیے چھٹا حصہ تاکہ یہ دونوں مل کر ٹکٹ ہو جائیں۔ جب کہ بہن کے لیے جو بچ جائے۔

باب ۱۳۴۹۔ ما جاء في ميراث بنت الأبن مع بنت الصلب  
۱۹۲۰۔ حدثنا الحسن بن عرفة نا يزيد بن هارون عن سفیان الثوري عن ابي قيس الأودي عن هزير بن شرجيل قال جاء رجل إلى ابي موسى وسليمان بن ربيعة فسألَهُما عن ابنة وابنة ابن وأخت لاب وأم فقال لابنة النصف وللأخت من الأب والأم ما بقي وقال له انطلق إلى عبد الله فاسأله فإنه سينا بعنا فأتى عبد الله فذكر له ذلك وأخبره بما قال قال عبد الله قد ضلكت إذا وما أنا من المهتدين ولكني أقضي فيها كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنة النصف ولابنة الأبن الثلثين وللأخت ما بقي

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو قیس اودی کا نام عبد الرحمن بن ثروان ہے اور وہ کوئی ہیں۔ شعبہ بھی یہ حدیث ابو قیس سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۳۵۰۔ ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم

اس موقع پر سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی۔ (مترجم)

۱۹۲۱۔ حضرت علیؑ نے فرمایا کہ تم لوگ یہ آیت پڑھتے ہو "من بعد وصیة تو صون بہا وادین" جب کہ آنحضرت ﷺ نے قرض وصیت سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا۔ اور حکم دیا کہ سگے بھائی وارث ہوتے ہیں نہ کہ اخیانی (جن کے والد ایک اور ماں الگ الگ ہو) یعنی کوئی شخص اپنے بھائی کا اس صورت میں وارث نہ ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں ایک ماں اور ایک باپ سے ہوں نہ کہ دونوں کا صرف باپ ایک ہو اور ماں جدا جدا۔

بندار، یزید بن ہارون سے وہ زکریا بن ابی زائدہ سے وہ ابواسحاق سے وہ حارث سے وہ علیؑ سے وہ عروہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی طرح نقل کرتے ہیں۔ ابن ابی عمر، سفیان سے وہ ابواسحاق سے وہ حارث سے اور وہ حضرت علیؑ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اور اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس حدیث کو ہم صرف ابواسحاق کی سند سے جانتے ہیں بعض علماء حارث پر اعتراض کرتے ہیں لیکن علماء اسی حدیث پر عمل کرتے ہیں۔

توضیح: حضرت علیؑ کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ شاید تم لوگوں کو شبہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کو پہلے ذکر کیا ہے۔ اور قرض کو بعد میں جب کہ آپ ﷺ نے قرض کو وصیت پر مقدم کیا ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۱۳۵۱۔ بیٹوں اور بیٹیوں کی میراث

باب ۱۳۵۱۔ مِيرَاثُ الْبَنِيْنَ مَعَ الْبَنَاتِ

۱۹۲۲۔ حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ میری عیادت کے لیے تشریف لائے بنی سلمہ کے محلے میں مر بیض تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں اپنی اولاد میں مال کو کس طرح تقسیم کروں۔ آپ ﷺ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور یہ آیت نازل ہوئی۔ "يُوصِيكُمُ اللَّهُ..... (ترجمہ: اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے متعلق وصیت کرتا ہے کہ ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ سورہ نساء آیت ۱۱)

۱۹۲۲۔ حدثنا عبد بن حميد نا عبد الرحمن بن سعد نا عمرو بن ابی قيس عن محمد بن المنكبر عن جابر بن عبد الله قال جاء نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذني وأنا مريض في نبي سلمة فقلت ياتني الله كيف أقسم مالي بين ولدي فلم يرده علي شيئا فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآية

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابن عیینہ سے محمد بن منکدر سے اور وہ جابر سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۳۵۲

باب ۱۳۵۲۔ میراث الاخوان

۱۹۲۳۔ محمد بن منکدر کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبد اللہ سے سنا کہ میں بیمار ہوا تو آنحضرت ﷺ میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور مجھے بیہوش پایا۔ آپ ﷺ کے ساتھ ابو بکر تھے اور دونوں پیدل چل کر آئے تھے۔ پھر آپ ﷺ نے وضو کیا اور وضو کا پانی مجھ پر ڈال دیا۔ مجھے افتادہ ہوا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں اپنا مال کس طرح تقسیم کروں؟ یا عرض کیا کہ میں اپنے مال کا کیا کروں؟ آپ ﷺ خاموش رہے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ جابر کی نو

۱۹۲۳۔ حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي ثنا سفیان بن عیینة عن محمد بن المنكبر سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال مرصت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذني فوجدني قد أغشى علي فاتاني ومعه أبو بكر وهما ماشيان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي من وضوءه فافقت فقلت يا رسول الله كيف أقضي في

مَالِي أَوْ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي فَلَمْ يُجِبْنِي شَيْئًا وَكَانَ لَهُ يَسْعُ أَحْوَاتٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ الْآيَةَ قَالَ جَابِرٌ فِي نَزَلَتْ  
 بہنیں تھیں۔ یہاں تک کے میراث کی یہ آیت نازل ہوئی۔ ”یستفتونک..... الآیہ۔ جابر فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی۔ (۱)

یہ حدیث صحیح ہے۔

آیت کا ترجمہ: یہ آپ ﷺ سے حکم پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کا حکم بتاتے ہیں۔ (۲) اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کا کوئی بیٹا نہ ہو اور بہن ہو تو اسے مال کا آدھا حصہ دیا جائے گا۔ اور اگر (وہ بہن فوت ہو جائے اور) اس بہن کا کوئی بیٹا نہ ہو تو وہ بھائی اس کا وارث ہوگا پھر اگر وہ دو بہنیں ہوں تو انہیں دو تہائی مال دیا جائے گا۔ اور اگر کئی شخص ہوں کچھ مرد اور کچھ عورتیں (یعنی بھائی بہنیں) تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم گمراہ نہ رہو۔

باب ۱۳۵۳۔ عصبہ کی میراث کے متعلق۔

باب ۱۳۵۲۔ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْعُصْبَةِ

۱۹۲۴۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اہل فرائض کو ان کا حق ادا کرو اور جو باقی بچ جائے وہ اس مرد کے لیے ہے جو میت سے سب سے زیادہ قریب ہو۔

۱۹۲۴۔ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن نا مسلم نا ابراهيم ثنا وهيب ثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر

عبد بن حمید، عبد الرزاق سے وہ عمر سے وہ ابن طاووس سے وہ اپنے والد سے وہ ابن عباس سے اور وہ نبی اکرم ﷺ سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض راوی اسے ابن طاووس سے وہ اپنے والد سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے مرسل نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۳۵۴۔ دادا کی میراث۔

باب ۱۳۵۴۔ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْحَدِّ

۱۹۲۵۔ حضرت عمران بن حصین فرماتے ہیں کہ ایک شخص آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرا پوتا فوت ہو گیا ہے میرا اس کی میراث میں سے کیا حصہ ہے؟ آپ ﷺ نے اسے بلایا اور فرمایا: تمہارے لیے چھٹا حصہ ہوگا۔ پھر جب وہ جانے لگا تو آپ ﷺ نے اسے بلایا اور فرمایا: تمہارے لیے اور بھی چھٹا حصہ ہے۔ اور جب وہ مڑا تو دوبارہ بلایا اور فرمایا: یہ چھٹا حصہ عصبہ کی طرف سے ہے۔ مفروضہ نہیں۔

۱۹۲۵۔ حدثنا الحسن بن عرفة ثنا يزيد بن هارون عن همام بن يحيى عن قتادة عن الحسن بن عمران بن حصين قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابن ابني مات فمالي من ميراثه فقال لك السدس فلما ولي دعاه فقال لك سدس اخر فلما ولي دعاه فقال ان السدس الآخر لك طعمة

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں معقل بن یسار سے بھی روایت ہے۔

(۱) سورہ نساء آیت ۱۷۶۔ (مترجم)

(۲) کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کا نہ بیٹا ہو اور نہ باپ (مترجم)

باب ۱۳۵۵۔ مَا جَاءَ فِي مِيرَاتِ الْحَدَّةِ

باب ۱۳۵۵۔ دادی، ثانی کی میراث۔

۱۹۲۶۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ثَنَا سَفِيَانُ ثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ مَرَّةً قَالَ قَبِيصَةَ وَقَالَ مَرَّةً عَنْ رَجُلٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ قَالَ جَاءَتْ الْحَدَّةُ أُمُّ الْأُمِّ أَوْ أُمُّ الْأَبِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَ ابْنِي أَوْ إِنَّ ابْنَ ابْنَتِي مَاتَ وَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّ لِي فِي الْكِتَابِ حَقًّا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا أَجِدُكَ فِي الْكِتَابِ مِنْ حَقٍّ وَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى لَكَ بِشَيْءٍ؛ وَسَأَلْتُ النَّاسَ قَالَ فَسَأَلَ النَّاسَ فَشَهِدَ الْمُغِيرَةَ ابْنَ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ قَالَ وَمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ ثُمَّ جَاءَتْ الْحَدَّةُ الْأُخْرَى الَّتِي تَخَالَفُهَا إِلَى عُمَرَ قَالَ سَفِيَانُ وَزَادَنِي فِيهِ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ أَحْفَظْهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَكِنْ حَفِظْتَهُ مِنْ مَعْمَرٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ إِنْ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ لَكُمَا وَإِتَّكَمَا انْفَرَدَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا

۱۹۲۶۔ حضرت قبصہ بن ذویب کہتے ہیں کہ دادی یا ثانی ابو بکرؓ کے پاس آئی کہنے لگیں کہ میرا پوتا یا نواسہ فوت ہو گیا ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید میں میرا کچھ حق مذکور ہے۔ ابو بکرؓ نے فرمایا: کتاب اللہ میں تمہارے لیے کوئی حق نہیں اور نہ ہی میں نے رسول اللہ ﷺ کو تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ دیتے ہوئے سنا ہے۔ لیکن میں لوگوں سے پوچھوں گا چنانچہ جب انہوں نے لوگوں سے پوچھا تو مغیرہ نے گواہی دی کہ آنحضرت ﷺ نے اسے چھٹا حصہ دیا ہے۔ ابو بکرؓ نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کسی نے یہ حدیث سنی ہے فرمایا: مجھ بن مسلمہ نے۔ راوی کہتے ہیں: پھر حضرت ابو بکرؓ نے اس عورت کو چھٹا حصہ دیا۔ اس کے بعد دوسری جدہ (دادی یا ثانی) حضرت عمرؓ کے پاس آئی (یعنی اس ڈدی یا ثانی کی شریک) سفیان کہتے ہیں کہ معمر نے زہری کے حوالے سے یہ الفاظ زیادہ نقل کیے ہیں۔ میں نے انہیں زہری سے حفظ نہیں کیا بلکہ معمر سے کیا ہے۔ کہ عمرؓ نے فرمایا: اگر تم دونوں اکٹھی ہو جاؤ تو چھٹا حصہ ہی تم دونوں میں تقسیم ہوگا اور اگر تم دونوں میں سے ایک ہو تو وہ حصہ اسے مل جائے گا۔

انصاری بھی معن سے وہ مالک سے وہ ابن شہاب سے وہ عثمان بن اسحاق بن خرشہ سے اور وہ قبصہ بن ذویب سے نقل کرتے ہیں۔ کہ ایک جدہ حضرت ابو بکرؓ کے پاس آئی اور اپنی میراث طلب کی۔ انہوں نے فرمایا: تمہارے لیے قرآن کریم یا سنت نبوی میں کوئی حکم مذکور نہیں لیکن میں لوگوں سے پوچھوں گا۔ چنانچہ جب پوچھا تو مغیرہ بن شعبہؓ نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو جدہ کو چھٹا حصہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابو بکرؓ نے پوچھا: تمہارے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ اس پر محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے اور وہی کچھ بیان کیا جو مغیرہؓ نے کیا تھا۔ چنانچہ ابو بکرؓ نے پوچھا: تمہارے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ اس پر محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے اور وہی کچھ بیان کیا جو مغیرہؓ نے کیا تھا۔ چنانچہ ابو بکرؓ نے اس عورت کو چھٹا حصہ دے دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر ایک عورت حضرت عمرؓ کے پاس یہی مسئلہ لے کر حاضر ہوئی اور اپنی میراث طلب کی تو حضرت عمرؓ نے فرمایا: تمہارے لیے چھٹے حصے کے علاوہ کتاب میں مذکور نہیں۔ پھر اگر تم دونوں (دادی یا ثانی) جمع ہو جاؤ تو چھٹا حصہ ہے۔ اور اگر تم دونوں میں سے کوئی ایک اکیلی ہو تو وہ حصہ اس کو مل جائے گا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور ابن عیینہ کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ اس باب میں بریدہؓ بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۳۵۵۔ مَا جَاءَ فِي مِيرَاتِ الْحَدَّةِ مَعَ ابْنَيْهَا

باب ۱۳۵۵۔ باپ کی موجودگی میں دادی کی میراث۔

۱۹۲۷۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ

۱۹۲۷۔ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے دادی کے بیٹے کی موجودگی میں دادی کی میراث کے متعلق فرمایا: یہ پہلی جدہ (دادی) تھی جسے رسول اللہ

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ فِي الْحَدِيثِ مَعَ ابْنَيْهَا أَوْلَىٰ  
حَدِيثِ أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
سُدُسًا مَعَ ابْنَيْهَا وَابْنَهَا حَتَّىٰ

نے اس کے بیٹے کے ہوتے ہوئے چھٹا حصہ دیا جب کہ اس کا  
بیٹا زندہ تھا۔

اس حدیث کو ہم صرف اسی سند سے مرفوع جانتے ہیں۔ بعض صحابہ باپ کی موجودگی میں اسے (دادی کو) وارث کرتے ہیں اور  
بعض نہیں۔

باب ۱۳۵۶۔ ماموں کی میراث۔

۱۹۲۸۔ حضرت ابوامامہ بن اہل بن حنیف فرماتے ہیں کہ عمر بن خطابؓ  
نے میرے ہاتھ ابو عبیدہؓ کو لکھوا کر بھیجا کہ اللہ اور اس کا رسول (ﷺ)  
اس کے دوست ہیں جس کا کوئی دوست نہیں اور اگر کسی کا کوئی وارث نہ  
ہو تو ماموں اس کا وارث ہے۔

باب ۱۳۵۶۔ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْخَالِ

۱۹۲۸۔ حَدَّثَنَا بَنْدَارٌ نَا ابُو أَحْمَدَ الزَّبِيرِيُّ ثَنَا سَفِيَانُ  
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ  
بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهَيْلِ بْنِ حُنَيْفٍ  
قَالَ كَتَبَ مَعِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ  
مَوْلَىٰ مَنْ لَا مَوْلَىٰ لَهُ وَالْخَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ

اس باب میں عائشہ اور مقدم بن محمد کرب سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۹۲۹۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس کا کوئی  
وارث نہ ہو اس کا ماموں اس کا وارث ہے۔

۱۹۲۹۔ حَدَّثَنَا اسْلَخُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا ابُو عَاصِمٍ عَنْ  
ابْنِ جَرِيحٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مَسْلَمٍ عَنْ طَاوُسِ عَنِ  
عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
الْخَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ

یہ حدیث حسن غریب ہے اسے بعض راوی مرسل نقل کرتے ہیں اور اس میں حضرت عائشہؓ کا ذکر نہیں کرتے۔ اس مسئلے میں صحابہؓ کا  
اختلاف ہے۔ بعض صحابہ خال، ماموں اور پھوپھی کو میراث دیتے ہیں جب کہ علماء ذوی الارحام کی وراثت میں اسی حدیث پر عمل پیرا ہیں  
لیکن زید بن ثابت اس مسئلے میں میراث کو بیت المال میں جمع کرانے کا حکم دیتے تھے۔

باب ۱۳۵۷۔ جو شخص اس حالت میں فوت ہو کہ اس کا کوئی وارث نہ ہو۔  
۱۹۳۰۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ کا ایک آزاد کردہ  
غلام کھجور کے درخت سے گر کر مر گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: دیکھو اس کا  
کوئی وارث ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا۔ کوئی نہیں فرمایا: تو پھر اس کا مال  
اس کی بہستی والوں کو دے دو۔

باب ۱۳۵۷۔ مَا جَاءَ فِي الَّذِي يَمُوتُ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ  
۱۹۳۰۔ حَدَّثَنَا بَنْدَارٌ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ نَا سَفِيَانُ  
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ مَجَاهِدِ بْنِ  
وَرْدَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ مَوْلَىٰ لِلنَّبِيِّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَعَ مِنْ عِدْقِ نَخْلَةٍ فَمَاتَ فَقَالَ  
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظَرُوا هَلْ لَهُ مِنْ وَارِثٍ  
قَالُوا لَا قَالَ فَاذْفَعُوهُ إِلَىٰ بَعْضِ أَهْلِ الْقَرْيَةِ

یہ حدیث حسن ہے اور اس باب میں بریدہ سے بھی حدیث منقول ہے۔

باب۔ ۱۳۵۸ باب فی میراث المولی الأسفل

باب۔ ۱۳۵۸

۱۹۳۱۔ حدثنا ابن ابی عمر ثنا سفیان عن عمرو بن دینار عن عَوْسَجَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَدْعُ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ

یہ حدیث حسن ہے اہل علم کے نزدیک اگر کسی شخص کا عصبہ میں سے بھی کوئی وارث نہ ہو تو اس کی میراث مسلمانوں کے بیت المال جمع کرادی جائے گی۔

توضیح: اس حدیث میں آپ ﷺ کا اسی غلام کو مال وراثت دینا بھی اسی قبیل سے تھا کیوں کہ اس کا وارث نہیں تھا۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۱۳۵۹۔ مَا جَاءَ فِي إِبْطَالِ الْمِيرَاثِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ

باب ۱۳۵۹۔ مسلمان اور کافر کے درمیان کوئی میراث نہیں۔

۱۹۳۲۔ حضرت اسامہ بن زیدؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔

۱۹۳۲۔ حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا ثنا سفیان عن الزهري ح وثنا علي بن حجرنا هشيم عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

ابن ابی عمر، سفیان سے اور وہ زہری سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس باب میں جابرؓ اور عبد اللہ بن عمروؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے عمرو بن زہری سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ مالک بھی زہری سے وہ علی بن حسین سے وہ عمرو بن عثمان سے وہ اسامہ بن زید سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ لیکن اس میں مالک کو وہم ہوا ہے بعض راوی عمرو بن عثمان اور بعض عمر بن عثمان کہتے ہیں۔ جب کہ عمرو بن عثمان بن عفان ہی مشہور ہے۔ عمر بن عثمان کو وہم نہیں جانتے۔ اہل علم اسی حدیث پر عمل کرے ہیں۔ بعض علماء عمرہ کی میراث میں اختلاف کرتے ہیں بعض کے نزدیک اس کے مسلمان وارثوں کو دے دیا جائے جب کہ بعض کہتے ہیں کہ اس کے مال کا کوئی مسلمان وارث نہیں ہو سکتا۔ ان کی دلیل یہی حدیث ہے۔ امام شافعی کا بھی یہی قول ہے۔

۱۹۳۳۔ حضرت جابرؓ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ دو دین والے آپس میں وارث نہیں ہو سکتے۔

۱۹۳۳۔ حدثنا محمد بن مسعدة نا حسين بن نمير عن ابن ابي عمير عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل مللتين

یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف جابرؓ کی روایت سے جانتے ہیں۔ ان سے اسے ابن ابی عمیر نے نقل کیا ہے۔

باب ۱۳۶۰۔ مَا جَاءَ فِي إِبْطَالِ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ

باب ۱۳۶۰۔ قاتل کو میراث سے محروم کرنے کے متعلق۔

۱۹۳۴۔ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اسْحَقِ بْنِ

۱۹۳۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قاتل

عَبْدَ اللَّهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ

وارث نہیں ہوتا۔

أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

یہ حدیث صحیح ہے۔ ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ اسحاق بن عبد اللہ بن ابی فروہ سے بعض اہل علم احادیث نقل کرتے ہیں۔ جن میں احمد بن حنبل بھی شامل ہیں۔ علماء اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ قاتل اور قاتلِ خطا میں قاتلِ مقتول کا وارث نہیں ہوتا لیکن بعض کے نزدیک قاتلِ خطا میں وارث ہوتا ہے۔ مالک کا یہی قول ہے۔

باب ۱۳۶۱۔ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

باب ۱۳۶۱۔ شوہر کی دیت سے بیوی کو حصہ دینا۔

۱۹۳۵۔ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ وَاحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا

۱۹۳۵۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا: دیت

نَا سَفْيَانَ بْنِ عَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

عاقلہ پر واجب الاداء ہوتی ہے اور بیوی شوہر کی دیت کی وارث نہیں

قَالَ قَالَ عُمَرُ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَلَا يَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ

ہوتی۔ اس پر ضحاک بن سفیان کلابی نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ ﷺ

زَوْجِهَا شَيْئًا فَأَخْبِرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سَفْيَانَ الْكَلَابِيِّ أَنَّ

نے انہیں لکھا کہ اشیم ضبابی کی بیوی کو ان کے شوہر کی دیت میں سے ان

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ وَرِثَ

کا حصہ دو۔

امْرَأَةً أَشِيمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۶۲۔ مَا جَاءَ أَنَّ الْمِيرَاثَ لِلْوَرَثَةِ وَالْعَقْلَ

باب ۱۳۶۲۔ میراث وراثاء کی اور دیت عصبہ پر واجب الاداء ہے۔

عَلَى الْعَصْبَةِ

۱۹۳۶۔ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنِ

۱۹۳۶۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بنی لیثان کی

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

ایک عورت کے جنین (بچے) کے مرکر ساقط ہو جانے (ضائع

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي

ہو جانے) پر ایک غرہ بطور دیت ادا کرنے کا حکم دیا یعنی ایک باندی یا

لَحْيَانَ سَقَطَ مَيْتًا بَغْرَةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي

ایک غلام۔ پھر وہ عورت جس کو غرہ ادا کرنے کا حکم دیا تھا وہ بھی فوت

قَضَى عَلَيْهَا بَغْرَةَ تُوَفِّقَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

ہوگی۔ آپ ﷺ نے فیصلہ دیا کہ اس کی میراث اس کے بیٹوں اور شوہر

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ

کے لیے ہے اور دیت اس کے عصبہ پر۔

عَقَلَهَا عَلَى عَصْبَتِهَا

یونس نے یہ حدیث زہری سے انہوں نے سعید بن مسیب سے اور ابو سلمہ سے انہوں نے ابو ہریرہؓ سے اور انہوں نے رسول ﷺ سے اسی طرح کی حدیث نقل کی ہے۔ پھر مالک زہری سے وہ سعید بن مسیب سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے یہی حدیث بیان کرتے ہیں۔

باب ۱۳۶۳۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسَلِّمُ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ  
 ۱۹۳۷۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ نَا أَبُو اسَامَةَ وَ ابْنِ نَمِيرٍ  
 وَ وَكَيْعٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ  
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
 وَهَبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ الدَّارِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ  
 الشِّرْكِ يُسَلِّمُ عَلَى يَدِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ  
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ أَوْلَى النَّاسِ  
 بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ

باب ۱۳۶۲۔ اس شخص کے متعلق جو کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہو۔  
 ۱۹۳۷۔ حضرت تمیم دارئی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا  
 کہ وہ مشرک جو کسی مسلمان کے ہاتھ پر مسلمان ہوگا اس کا کیا حکم  
 ہے: فرمایا: وہ اس کی زندگی اور موت کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔

اس حدیث کو ہم صرف عبد اللہ بن مہب سے نقل کرتے ہیں۔ بعض انہیں ابن مہب کہتے ہیں۔ وہ تمیم داری سے نقل کرتے ہیں۔  
 جب کہ بعض ان کے درمیان قبیصہ بن ذویب کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ یحییٰ بن حمزہ اسے عبد العزیز بن عمر سے نقل کرتے ہوئے قبیصہ بن  
 ذویب کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ لیکن میرے نزدیک یہ سند متصل نہیں۔ بعض اہل علم اس حدیث پر عمل کرتے ہیں جب کہ بعض کا کہنا ہے  
 کہ اس کی میراث بیت المال میں جمع کرادی جائے۔ امام شافعیؒ کا بھی یہی قول ہے ان کا استدلال اس حدیث سے ہے کہ ”ان الولاء  
 لمن اعتق“ ولاء اسی کے لیے ہے جس نے آزاد کیا۔ (۱)

۱۹۳۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ نَا ابْنِ لَهَيْعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ  
 شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ  
 وَلَدُ الزَّانَا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ  
 ۱۹۳۸۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے  
 نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کسی شخص نے کسی آزاد  
 عورت یا باندی سے زنا کیا۔ تو بچہ زنا کا ہوگا۔ نہ وہ وارث ہوگا اور نہ اس  
 کا کوئی وارث ہوگا۔

یہ حدیث ابن لہیعہ کے سوا اور راوی بھی عمرو بن شعیب سے نقل کرتے ہیں علماء اسی پر عمل کرتے ہیں کہ ولد الزنا اپنے باپ کا وارث  
 نہیں ہوتا۔

توضیح: لیکن وہ اپنی ماں کا وارث ہوتا ہے اور ماں بھی اس کی وارث ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔ (مترجم)

باب ۱۳۶۴۔ مَنْ يَرِثُ الْوَلَاءِ

۱۹۳۹۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ نَا ابْنِ لَهَيْعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ  
 شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَرِثُ الْوَلَاءُ مَنْ يَرِثُ الْمَالِ  
 جو مال کا وارث ہوتا ہے۔

۱۹۳۹۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے  
 نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ولاء کا وہی وارث ہوتا ہے  
 جو مال کا وارث ہوتا ہے۔

اس حدیث کی سند قوی نہیں۔

(۱) ولاء سے مراد وہ حقوق ہیں جو آزاد کرنے والے کو ملتے ہیں مثلاً اس کا وارث ہونا۔ وغیرہ وغیرہ (مترجم)

۱۹۴۰۔ حضرت واثلہ بن اسقع کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ عورت تین ترکوں کی مالک ہوتی ہے۔ اپنے آزاد کئے ہوئے غلام کے ترکے کی جس بچے کو اس نے اٹھا کر پالا ہو۔ اس کی اور اس بچے کی جسے لے کر اس نے اپنے شوہر سے لعان کیا اور اس سے الگ ہو گئی۔

۱۹۴۱۔ حدثنا هارون ابو موسى المستملى البغدادي نا محمد بن حرب نا عمرو بن روية التغلبي عن عبد الواحد ابن عبد الله بن بسر النصري عن وائلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة تحوز ثلاثة موارث غيبها ولقيظها وولدها الذي لا عنت عنه

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے محمد بن حرب کی روایت سے اسی سند سے جانتے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وصیتوں کے متعلق رسول اللہ ﷺ سے

أَبْوَابُ الْوَصَايَا عَنْ

منقول احادیث کے ابواب

رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۱۳۶۵۔ ثلث ۱۱۳ مال کی وصیت

باب ۱۳۶۵۔ مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ بِالثَّلَاثِ

۱۹۴۱۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں فتح مکہ کے سال بیمار ہو گیا اور ایسا بیمار ہوا کہ موت قریب نظر آنے لگی۔ آنحضرت ﷺ میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میرے پاس بہت دولت ہے اور صرف ایک ہی بیٹی ہے۔ میں اپنے پورے مال کی وصیت کر جاؤں؟ (یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی) آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں۔ میں نے عرض کیا۔ آدھے مال کی؟ فرمایا: نہیں میں نے عرض کیا: تہائی مال؟ فرمایا: تہائی مال کی وصیت مناسب ہے۔ اور یہ بھی زیادہ ہے۔ تم اپنے ورثاء کو اغنیاء چھوڑ کر جاؤ۔ یہ اس سے بہتر ہے۔ کہ وہ تنگ دست ہوں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ تم اگر ان میں سے کسی پر خرچ کرو گے تو تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ تمہارا اپنی بیوی کو ایک لقمہ کھلانا بھی ثواب کا موجب ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ: کیا میں اپنی ہجرت سے پیچھے ہٹ گیا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: میرے بعد تم رضائے الہی کے لیے جو بھی نیک عمل کرو گے تمہارا مرتبہ بڑھے گا اور درجات بلند کئے جائیں گے۔ شاید تم میرے بعد زندہ رہو اور تم سے کچھ تو میں نفع حاصل کریں اور کچھ تو میں نقصان اٹھائیں۔ پھر آپ

۱۹۴۱۔ حدثنا ابن ابی عمر نا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال مررت بعام الفتح مرصا أشفيت منه على الموت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذني فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي فأوصي بمالي كله قال لا قلت فثلثي مالي قال لا قلت فالفطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس إنك لن تنفق نفقة إلا أجزت فيها حتى اللقمة ترفعها إلي في امرأتك قال قلت يا رسول الله أخلف عن هجرتي قال إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا زددت به رفعة ودرجة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم امض لا ضحايي هجرتهم ولا تردهم علي أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ

ﷺ دعا کرنے لگے کہ اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو رواں کر دے۔  
انہیں ان کے پیروں پر واپس نہ لوٹا۔ لیکن بیچارے سعد بن خولہ رسول اللہ ﷺ  
ان کے مکہ ہی میں فوت ہو جانے پر افسوس کیا کرتے تھے۔

اس باب میں ابن عباسؓ بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور کئی سندوں سے سعد بن ابی وقاص سے منقول ہے۔ اہل علم اسی پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کرنا جائز نہیں اور بعض علماء کہتے ہیں کہ تہائی سے کم کی وصیت کرنا مستحب ہے اس لیے آپ ﷺ نے تہائی کو بھی بہت فرمایا۔

۱۹۴۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ کسی لوگ (ایسے بھی ہیں جو) ساٹھ سال تک اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزارتے ہیں پھر جب موت کا وقت آتا ہے تو وصیت میں وارثوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ جس کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو جاتی ہے پھر حضرت ابو ہریرہؓ نے یہ آیت پڑھی ”من بعد وصية يوصي بها او دين غير مضار وصية من الله“ سے ”وذلك الفوز العظيم“ تک۔ (۱)

۱۹۴۲۔ حدثنا نصر بن علي نا عبد الصمد بن عبد الوارث نا نصر بن علي ثنا الاشعث بن جابر عن شهر بن حوشب عن ابي هريرة انه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهم الموت فيضاران في الوصية فيجب لهما النار ثم قرأ علي ابو هريرة من بعد وصية يوصي بها او دين غير مضار وصية من الله الى قوله ذلك الفوز العظيم

ترجمہ :- وصیت کے بعد جو ہو چکی ہے یا قرض کے جب اوروں کا نقصان نہ کیا ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کا اور اللہ ہی سب کچھ جاننے والے اور عمل کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ہمیشہ وہیں رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔  
یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ نصر بن علی جو اشعث بن جابر سے نقل کرتے ہیں۔ نصر تھمضی کے دادا ہیں۔

باب ۱۳۶۶۔ وصیت کی ترغیب۔

باب ۱۳۶۶۔ مَا جَاءَ فِي الْحَبِّ عَلَى الْوَصِيَّةِ

۱۹۴۳۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کسی مسلمان کو زبیر نہیں دیتا کہ اسے کسی چیز میں وصیت کرنی ہو اور وہ دو راتیں اسی طرح گزار دے کہ وصیت نہ کرے بلکہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہئے۔

۱۹۴۳۔ حدثنا ابن ابی عمر نا سفیان عن ایوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرأ مسلمة يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه الا ووصيته مكتوبة عنده

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسے زہری، سالم سے وہ ابن عمر سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۳۶۷۔ آنحضرت ﷺ نے وصیت نہیں کی۔

باب ۱۳۶۷۔ مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُوَصَّ

۱۹۴۴۔ طلحہ بن مصرف کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی اوفی سے پوچھا کہ

۱۹۴۴۔ حدثنا احمد بن منيع نا ابو قطن نا مالك



نَاقَتِهِ وَأَنَا تَحْتَ جِرَانِهَا وَهِيَ تَقْضِعُ بِحَرْنِهَا وَإِنْ  
لُعَابَهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيْ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ  
عَزَّوَجَلَّ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ  
وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۶۹۔ مَا جَاءَ بِيَدَا الْبَالِدَيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ

۱۹۴۷۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ نَاسِيفَانُ بْنُ عَيْبَةَ عَنْ  
أَبِي إِسْحَقَ الْهَمْدَانِي عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيِّ أَنَّ  
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالذَّيْنِ قَبْلَ  
الْوَصِيَّةِ وَأَنْتُمْ تَقْرَأُونَ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الذَّيْنِ

باب ۱۳۶۹۔ قرض وصیت پر مقدم ہوگا۔

۱۹۴۷۔ حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے قرض وصیت سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا جبکہ تم لوگ قرآن میں وصیت کو پہلے اور قرض کو بعد میں پڑھتے ہو۔ (یعنی اس حکم میں تقدیم و تاخیر ہے جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے۔)

تمام اہل علم اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرض کی ادائیگی وصیت پر مقدم ہوگی۔

باب ۱۳۷۰۔ جَوْشَخْصٍ مَوْتِ كَيْ دَقْتِ صَدَقَةٍ كَرَى يَاطْلَامِ آرَاذِ كَرَى۔

باب ۱۳۷۰۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ أَوْ يُعْتَقُ عِنْدَ الْمَوْتِ

۱۹۴۸۔ حضرت ابو حبیہ طائی کہتے ہیں۔ کہ مجھے میرے بھائی نے اپنے مال کے ایک حصے کی وصیت کی۔ میری ابو درداءؓ سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ اسے کس مصرف پر خرچ کیا جائے؟ فقراء اور مساکین کو دے دیا جائے یا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں پر خرچ کیا جائے۔ انہوں نے فرمایا: اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو میں اسے مجاہدین پر خرچ کرتا۔ پھر یہ حدیث بیان کی کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جو شخص مرتے وقت غلام آزاد کرتا ہے اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اس وقت ہدیہ دیتا ہے جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔

۱۹۴۸۔ حَدَّثَنَا بَنْدَارٌ نَاسِيفَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِي نَاسِيفَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي حَبِيْبَةَ الطَّائِي قَالَ أَوْضَى إِلَيَّ أَحْيَى بَطَافِيَةً مِنْ مَالِهِ فَلَقِيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَقُلْتُ إِنَّ أَحْيَى أَوْضَى إِلَيَّ بَطَافِيَةً مِنْ مَالِهِ فَأَيْنَ تَرَى لِي وَضَعَهُ فِي الْفُقَرَاءِ أَوِ الْمَسَاكِينِ أَوِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ أَمَا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ لَمْ أَعْدِلْ بِالْمُجَاهِدِينَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ الَّذِي يُعْتَقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدَى إِذَا شَبِعَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

توضیح: یعنی ثواب تو اس کو بھی ملتا ہے لیکن کم۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۱۳۷۱۔ بلا عنوان

باب ۱۳۷۱۔

۱۹۴۹۔ حضرت عروہؓ، ام المؤمنین حضرت عائشہؓ سے نقل کرتے ہیں کہ بریرہؓ اپنی بدل کتابت میں حضرت عائشہؓ سے مدد لینے کیلئے آئیں۔

۱۹۴۹۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَاسِيفَانُ الْبَلْبَاسِيُّ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ

جبکہ انہوں نے اس میں سے بالکل ادا نہیں کیا تھا۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا: وہاں جاؤ اور ان سے پوچھو اگر وہ لوگ میرے ادا کرنے پر راضی ہوں اور حق ولاء مجھے دیں تو میں ادا کرنے کے لئے تیار ہوں۔ بریرہؓ نے ان لوگوں سے اس کا تذکرہ کیا تو ان لوگوں نے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ اگر وہ تمہاری زر کتابت ادا کر کے ثواب چاہتی ہیں اور ولاء ہمارے لیے چھوڑتی ہیں تو ہمیں منظور ہے حضرت عائشہؓ نے آنحضرت ﷺ سے اس کا ذکر کیا تو فرمایا: تم ان سے خرید لو اور آزاد کرو۔ ولاء کا حق اسی کیلئے ہوتا ہے جو آزاد کرتا ہے پھر آنحضرت ﷺ کھڑے ہوئے اور فرمایا: کیا بات ہے لوگ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں جو شخص ایسی شرط لگائے وہ شرط پوری نہیں کی جائے گی۔ اگر چہ وہ سومرتی ہی کیوں نہ شرط لگائے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور حضرت عائشہؓ سے کئی سندوں سے منقول ہے۔ علماء اسی پر عمل کرتے ہیں کہ ولاء اسی کی ہے جو آزاد کر دے۔

ولاء اور ہبہ کے متعلق رسول اللہ ﷺ سے

منقول احادیث کے ایواب (۱)

باب ۱۳۷۲۔ ولاء، آزاد کرنے والے کا حق ہے۔

۱۹۵۰۔ حضرت عائشہؓ نے بریرہ کو خریدنے کا ارادہ کیا تو اس کے مالکوں نے ولاء کی شرط رکھ دی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ولاء اسی کا حق جو آزاد کرے یا فرمایا جو نعمت کا دلی ہو۔

اس باب میں ابن عمرؓ اور ابو ہریرہؓ سے بھی حدیثیں نقل کی گئی ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اہل علم اسی پر عمل کرتے ہیں۔

باب ۱۳۷۳۔ ولاء بیچنے یا ہبہ کرنے کی ممانعت

۱۹۵۱۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ولاء بیچنے اور ہبہ کرنے سے منع فرمایا۔

عائشہ فی کتابتہا ولم تكن قضت من كتابتها شيئاً فقالت لها عائشہ ارجعني إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكفون ولاءك لي فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فابوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك ويكفون لنا ولاءك فلتفعل فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعي فأعطيني فإتت الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يشترون شروطاً ليس في كتاب الله فليس له وإن اشتراطاً مائة مرة

أَبْوَابُ الْوَلَاءِ وَالْهَبَةِ عَنْ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۱۳۷۲۔ ما جاء أن الولاء لمن أعتق

۱۹۵۰۔ حدثنا بندار نا عبدالرحمن بن مهدي نا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشتروا الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعطى الثمن أو لمن ولي النعمة

باب ۱۳۷۳۔ النهي عن بيع الولاء وهبته

۱۹۵۱۔ حدثنا ابن ابي عمر نا سفيان بن عيينة نا عبد الله بن دينار سمع عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته

یہ حدیث حسن صحیح ہے ہم اسے صرف عبداللہ بن دینار کی روایت سے جانتے ہیں۔ وہ ابن عمرؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ شعبہ، سفیان ثوری اور مالک بن انس بھی عبداللہ بن دینار سے اسے نقل کرتے ہیں۔ شعبہ سے منقول ہے کہ اگر عبداللہ بن دینار مجھے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے اجازت دیں تو میں ان کی پیشانی چوم لوں۔ یحییٰ بن سلیم نے یہ حدیث عبید اللہ بن عمر سے انہوں نے نافع سے انہوں نے ابن عمرؓ سے اور انہوں نے آنحضرت ﷺ سے نقل کی ہے۔ لیکن اس میں وہم ہے اور صحیح سند یہ ہے کہ عبید اللہ بن عمر عبداللہ بن دینار سے وہ ابن عمرؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ اس سند سے کئی راویوں نے یہ حدیث عبید اللہ بن عمر سے نقل کی ہے اور عبداللہ بن دینار سے نقل کرنے میں منفرد ہیں۔

باب ۱۳۷۴۔ باب ماجاء فی من تولی غیر موالیه  
او ادعی الی غیر ایه

۱۹۵۲۔ حدثنا هناد ثنا ابو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال حطبننا علي فقال من زعم أن عندنا شيئا إلا كتاب الله ولهذه الصحيفة صحيفة فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات فقد كذب وقال فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين غير إلى نور فمن أحدث فيها حدثا أو أوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيمة صرفا ولا عدلا ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولی غیر موالیه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرف ولا عدل وذمة المسلمین واحدة يسعی بها أذنانهم

باب ۱۳۷۳۔ باپ اور آزاد کرنے والے کے علاوہ کسی کو باپ یا آزاد کرنے والا کہنا۔

۱۹۵۲۔ ابراہیم تمیمی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے خطبہ دیا اور فرمایا: جس نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب اور اس صحیفے کے علاوہ بھی کچھ ہے جس میں اونٹوں اور زخموں کی دیات کے متعلق تحریر ہے وہ جھوٹا ہے۔ پھر بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عمیر اور ثور کے درمیان مدینہ حرم ہے۔ جس نے اس میں بدعت شروع کی یا کسی بدعتی کو پناہ دی اللہ تعالیٰ تمام لوگوں اور فرشتوں کی اسپر لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے کوئی فرضی یا نقلی عبادت قبول نہیں کریں گے۔ اور جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کی یا اپنے آزاد کرنے والے کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کی اس پر بھی اللہ، اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی کوئی فرضی یا نقلی عبادت قبول نہیں کریں گے۔ اور مسلمانوں کا کسی کو پناہ دینا ایک ہی ہے۔ ان کا ادنیٰ آدمی بھی اگر کسی کو پناہ دے دے تو سب کو اس کی پابندی کرنا ضروری ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض اسے اعمش سے وہ ابراہیم تمیمی سے وہ حارث سے اور وہ علیؓ سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت علیؓ سے یہ حدیث کئی سندوں سے منقول ہے۔

باب ۱۳۷۵۔ جو شخص اپنے بیٹے کی نسبت کا انکار کر دے۔

۱۹۵۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو فزارہ کا ایک شخص آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری بیوی نے ایک سیاہ فام بچے کو جنم دیا ہے۔ آپ ﷺ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے عرض کیا: جی ہاں۔ فرمایا: ان کا

باب ۱۳۷۵۔ ماجاء فی الرجل ینتفی من ولده  
۱۹۵۳۔ حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار وسعيد بن عبد الرحمن المحزومي قالانا سفیان عن الزهري عن سعيدين المسيب عن أبي هريرة قال جاء رجل من فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن

رنگ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا: سرخ۔ آپ ﷺ نے پوچھا: کیا ان میں کوئی کالا بھی ہے؟ عرض کیا: جی ہاں۔ آپ ﷺ نے پوچھا: وہ کہاں سے آگیا؟ اس نے عرض کیا: شاید اس میں کوئی رگ آگئی ہو۔ (یعنی اس کی نسل میں کوئی کالا ہوگا) آپ ﷺ نے فرمایا: تو پھر شاید تمہارے بیٹے میں بھی ایسی کوئی رگ تمہارے باپ دادا کی آگئی ہو۔

امْرَأَتِي وَوَلَدَتِ غُلَامًا أَسْوَدَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا الْوَأْتِنَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ فَهَلْ فِيهَا أَوْزُقٌ قَالَ إِنْ فِيهَا لَوْزُقًا قَالَ أَنَّى آتَاهَا ذَلِكَ قَالَ نَعْلٌ عِرْقًا نَزَعَهَا قَالَ فَهَذَا نَعْلٌ عِرْقًا نَزَعَهُ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۷۶۔ مَا جَاءَ فِي الْقَافَةِ

باب ۱۳۷۶۔ قیافہ شناسی کے متعلق  
۱۹۵۴۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو آپ ﷺ کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم نے دیکھا کہ مجز نے ابھی زید بن حارثہ اور اسامہ بن زید کو دیکھ کر کہا کہ یہ پاؤں ایک دوسرے سے ہیں۔ (۱)

۱۹۵۴۔ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا مَسْرُورًا تَبَرُّقًا وَسَارِيحًا وَجْهَهُ فَقَالَ أَلَمْ تَرَيِ أَنَّ مُحْجِرًا نَظَرَ إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ هَذِهِ الْأَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سفیان بن عیینہ سے زہری سے وہ عمروہ سے اور وہ عائشہؓ سے اس طرح نقل کرتے ہیں۔ کہ آپ ﷺ نے فرمایا: تم نے دیکھا کہ مجز زید بن حارثہ اور اسامہ بن زید کے پاس سے گزرا جب کہ ان کے سر ڈھکے ہوئے اور پاؤں ننگے تھے۔ مجز نے کہا کہ یہ پیر ایک دوسرے میں سے ہیں۔ "سعید بن عبد الرحمن اور کئی حضرات نے بھی اسے اسی طرح سفیان سے نقل کیا ہے۔ بعض علماء اس حدیث سے قیافہ کے معتبر ہونے پر استدلال کرتے ہیں۔

باب ۱۳۷۷۔ مَا جَاءَ فِي حَبِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهُدْيَةِ

باب ۱۳۷۷۔ آنحضرت ﷺ کا ہدیے کی ترغیب دلانا۔

۱۹۵۵۔ حضرت ابو ہریرہؓ، رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: آپس میں ہدیے دیا کرو۔ ہدیہ دینے سے دل کی خنگی دور ہو جاتی ہے۔ نیز کوئی پڑوسی عورت اپنے پڑوس میں رہنے والی عورت کو بکری کا کھر دیتے ہوئے بھی نہ شرمائے (یعنی حقیر چیز کا بھی ہدیہ دیا جاسکتا ہے)

۱۹۵۵۔ حَدَّثَنَا إِزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّاءَ نا أَبُو مَعْشَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَهَادُّوا فَإِنَّ الْهُدْيَةَ تُدْهِبُ وَحَرَّ الصَّدْرِ وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةَ لِجَارَتِهَا وَلَوْ شِئِقَ فُرْسِنِ شَاةٍ

یہ حدیث اس سند سے غریب ہے اور ابو معشر کا نام صحیح ہے اور یہ بنو ہاشم کے مولیٰ ہیں بعض اہل علم ان کے حافظے پر اعتراض کرتے ہیں۔  
باب ۱۳۷۸۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الرَّجُوعِ فِي الْهَيْبَةِ

(۱) اسامہ بن زید کا رنگ کالا اور ان کے والد زید کا رنگ سفید تھا لہذا لوگ ان کے نسب میں طعن کرتے تھے لیکن مجز جو اس وقت قیافہ شناس تھے انہوں نے دونوں کے پیر دیکھ کر فیصلہ دیا کہ ان میں باپ بیٹے کا رشتہ ہے اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ واللہ اعلم (مترجم)

۱۹۵۶۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کسی چیز کو بطور ہدیہ دے کر واپس لینے والے کی مثال اس کتے کی سی ہے کہ جو خوب کھا کر پیٹ بھر لے اور قئے کر دے۔ پھر دوبارہ اپنی قے کھانے لگے۔

۱۹۵۶۔ حدثنا احمد بن منيع نا اسحق بن يوسف الازرق نا حسين المكتب عن عمرو بن شعيب عن طاؤس عن ابن عمر أنّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يُعْطَى الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَالْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَهُ ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْئِهِ

اس باب میں ابن عباسؓ اور عبد اللہ بن عمروؓ سے بھی حدیثیں منقول ہیں۔

۱۹۵۷۔ حضرت ابن عمرؓ اور ابن عباسؓ مرفوعاً نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کسی شخص کے لیے ہدیہ دینے کے بعد واپس لینا حلال نہیں۔ ہاں البتہ باپ بیٹے کو چیز دینے کے بعد واپس لے سکتا ہے۔ اور جو شخص کوئی چیز دے کر واپس لیتا ہے۔ اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے جو کھا کر پیٹ بھرنے کے بعد قے کرے اور پھر دوبارہ اسے کھانے لگے۔

۱۹۵۷۔ حدثنا محمد بن بشار نا ابن ابی عدی عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب قال نُبِيّ طَاؤُسُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ قَالَ لَا يَجِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطَى عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطَى وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطَى الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَهُ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ امام شافعی اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ باپ کے علاوہ کسی شخص کو ہدیہ دینے کے بعد واپس لینا حلال نہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تقدیر کے متعلق رسول اللہ ﷺ سے

أَبْوَابُ الْقَدْرِ عَنْ

منقول احادیث کے ابواب

رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

توضیح: تقدیر پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ چنانچہ بندوں کے افعال خواہ نیک ہوں یا بد۔ تمام کے تمام تخلیق کائنات سے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ دیئے گئے۔ لہذا بندے سے سرزد ہونے والا ہر فعل خدا کے علم و اندازے کے مطابق ہے۔ لیکن اس سے قطعاً یہ مراد نہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اچھائی یا برائی کا راستہ اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا۔ بلکہ حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و دانش سے نوازا کہ اس کے سامنے نیکی اور برائی دونوں راستے واضح کر دیئے ہیں اور ان پر چلنے کا اختیار دے دیا ہے۔ نیز یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اگر نیکی کا راستہ اختیار کرو گے تو اللہ رب العزت راضی ہو جائیں گے اور تمہیں انعامات اور بہتر جزاء سے سرفراز فرمائیں گے۔ لیکن اس کے برعکس اگر بری راہ اختیار کرو گے تو یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا باعث ہوگا۔ جس کی وجہ سے سزا اور عذاب کے مستحق قرار دیئے جاؤ گے۔

یہ بات ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ مسئلہ تقدیر عقل و فکر سے بالاتر ہے اور یہ ایسا راز ہے کہ جس کا بھید کسی پر آشکار نہیں کیا گیا۔ لہذا اس کے بارے میں غور و فکر اور بحث و مباحثہ کرنا جائز نہیں صرف مذکورہ بالا اعتقاد رکھنا ہی فلاح دارین کا ضامن ہے۔ چنانچہ حضرت علیؓ

کے کسی شخص نے قضاء و قدر کے متعلق سوال کیا تو فرمایا: یہ ایک بڑا راستہ ہے اس پر نہ چلو۔ اس نے دوبارہ یہی سوال کیا تو فرمایا: یہ ایک گہرا دریا ہے۔ اس میں نہ اترو لیکن اس شخص نے تیسری مرتبہ بھی یہی سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ: یہ خدا کا ایک راز ہے جو تم سے پوشیدہ ہے اس لیے اس کی تعقیب و تحقیق میں مت پڑو۔

حاصل یہ کہ فلاح و سعادت اسی میں مضمر ہے کہ اس مسئلے کے متعلق اللہ اور اسکے رسول کے فرمودات پر بلاچون و چرا عمل کیا جائے نیز اسے عقلیات پر منطبق کرنے اور عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش نہ کی جائے کیونکہ یہ گمراہی و بربادی کا راستہ ہے۔ واللہ اعلم۔ (مترجم)

باب ۱۳۷۹۔ مَا جَاءَ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي الْخَوْضِ فِي الْقَدْرِ

۱۹۵۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک مرتبہ تشریف

لائے تو ہم لوگ تقدیر پر بحث کر رہے تھے۔ آپ ﷺ غصے میں آ گئے

یہاں تک کہ آپ ﷺ کا چہرہ سرخ ہو گیا گویا کہ آپ ﷺ نے چہرے پر

انار کے دانوں کا عرق نچوڑ دیا کیا ہو۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم

لوگوں کو اس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ کیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں؟ تم

لوگوں سے پہلے کی قومیں اس مسئلے پر بحث مباحث کرنے کی وجہ سے

ہلاک ہو گئیں۔ میں تم لوگوں کو قسم دیتا ہوں کہ اس مسئلے میں آئندہ بحث

دہرا کرنا۔

۱۹۵۸۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعَاوِيَةَ الْجَمْحَرِيُّ نَا

صَالِحُ الْمَرِي عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

سَيْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدْرِ

فَغَضِبَ حَتَّى إِحْمَرَ وَجْهُهُ حَتَّى كَانَتْمَا فُفْيِي فِي

وَجَنْتِيهِ الرَّمَانُ فَقَالَ أَبْهَذَا أَمْرُكُمْ أَمْ بِهَذَا أُرْسِلْتُ

إِلَيْكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِينَ تَنَازَعُوا فِي

هَذَا الْأَمْرِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ أَلَّا تَنَازَعُوا فِيهِ

اس باب میں عمرؓ، عائشہؓ اور انسؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف صالح مری کی روایت سے جانتے ہیں۔ اور ان کی غریب احادیث بہت ہیں جنہیں نقل کرنے میں وہ منفرد ہیں۔

۱۹۵۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آدمؑ اور

موسیٰؑ کے درمیان مکالمہ ہوا۔ موسیٰؑ نے فرمایا: اے آدمؑ اللہ تبارک و

تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا پھر اپنی روح آپ میں پھونکی اور

آپ نے لوگوں کو گمراہ کیا اور جنت سے نکال دیا۔ آدمؑ نے فرمایا: تم وہ

موسیٰؑ ہو جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے سے ہم کلام ہونے کے لیے چنا۔ تم

مجھے ایسے کام پر ملامت کر رہے ہو جو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا

کرنے سے بھی پہلے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا چنانچہ آدمؑ، موسیٰؑ سے

جیت گئے۔

۱۹۵۹۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنِ عَرَبِيِّ نَا

الْمَعْتَمِرُ بْنُ سَلِيمَانَ نَا أَبِي عَنْ سَلِيمَانَ الْأَعْمَشِ

عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ مُوسَى يَا

آدَمُ أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَتَفَخَّ فَبَدَّكَ مِنْ

رُوحِهِ أَعْوَيْتَ النَّاسَ وَ أَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ

آدَمُ أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اضْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ

أَتَلَوْنِي عَلَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ

يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَالَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى

اس باب میں عمرؓ اور جنابؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے (یعنی سلیمان تمیمی کی اعمش سے)

اعمش کے بعض ساتھی اسے اعمش سے وہ ابو صالح سے وہ ابو ہریرہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں جب کہ بعض راوی ابو ہریرہؓ

کی جگہ ابوسعیدؓ سے نقل کرتے ہیں۔ پھر یہ حدیث آنحضرت ﷺ سے ابو ہریرہؓ کے واسطے سے کئی سندوں سے منقول ہے۔

توضیح: یہاں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح تو ہر فاسق کہہ سکتا ہے کہ مجھے ملامت نہ کرو۔ جو کچھ میری تقدیر میں لکھا تھا وہی ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کہنے والا اور تکلیف میں ہے۔ یعنی دنیا میں جب کہ آدم سے مذکورہ بالا گفتگو کا صدور دار تکلیف سے نکل جانے کے بعد ہوا۔ اور دنیا میں ان کی غلطی کا کفارہ ہو چکا تھا۔ یعنی دنیا میں تو حضرت آدم نے بھی بجز و انکساری کے ساتھ یہی دعا کی 'ربنا ظلمنا انفسنا.....' الآیۃ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۱۳۸۰۔ مَا جَاءَ فِي الشَّقَاءِ وَالسَّعَادَةِ

باب ۱۳۸۰ از بد بختی اور نیک بختی کے متعلق۔

۱۹۶۰۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم جو یہ اعمال کرتے ہیں کیا یہ نیا امر ہے یا عرض کیا: کہ نیا شروع ہوا ہے؟ یا یہ پہلے سے تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ یا اس سے فراغت حاصل کی جا چکی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ پہلے سے مکتوب ہے اور اس سے فراغت ہو چکی ہے۔ اے ابن خطاب ہر شخص پر وہ چیز آسان کر دی گئی ہے۔ جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ لہذا جو نیک بخت لوگ ہیں وہ نیک بختی کے لیے عمل کرتے ہیں (یعنی اعمال صالحہ کرتے ہیں) اور جو بد بخت ہیں وہ اسی کے لیے عمل کرتے ہیں (یعنی اعمال سنیہ کے مرتکب ہوتے ہیں)

۱۹۶۰۔ حَدَّثَنَا نُبْدَارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ نَا شُعْبَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَحْدُثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ فِيهِ أَمْرٌ مُّبْتَدِعٌ أَوْ مُبْتَدَأٌ أَوْ فِيمَا قَدْ فُرِعَ مِنْهُ قَالَ فِيمَا قَدْ فُرِعَ مِنْهُ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَكُلُّ مُسَرَّرٍ أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ وَ أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلشَّقَاءِ

اس باب میں علیؓ، حدیثہ بن اسید، انس اور عمران بن حصینؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۹۶۱۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ آنحضرت ﷺ کے ساتھ تھے۔ آپ ﷺ زمین کرید رہے تھے (جیسے کوئی تفکر کی حالت میں ایسے کرتا ہے) اچانک آپ ﷺ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور فرمایا: تم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جس کے متعلق متعین نہ ہو چکا ہو کہ وہ جنتی سے یا دوزخی۔ و کعب کہتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا

۱۹۶۱۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلَوَانِيِّ نَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَمِيرٍ وَ وَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَنْكُثُ فِي الْأَرْضِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا قَدْ عَلِمَ قَالَ وَكَيْعٌ إِلَّا قَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوا أَفَلَا تَنْكَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اعْمَلُوا فِكُلُّ مُسَرَّرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ

نہیں جس کے لیے جنت یا دوزخ میں اس کی جگہ لکھی نہ جا چکی ہو۔ صحابہ نے عرض کیا: کیا ہم بھروسہ کر لیں؟ یعنی اپنی تقدیر کے لکھے ہوئے پر (فرمایا عمل کرو ہر ایک جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس پر وہ آسان کر دیا گیا ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۸۱۔ مَا جَاءَ أَنَّ الْأَعْمَالَ بِالْخَوَاتِيمِ

باب ۱۳۸۱۔ اعمال کی مقبولیت کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔

۱۹۶۲۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ صادق و مصدق رسول اللہ ﷺ نے ہمیں بتایا کہ تم میں سے ہر ایک ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک نطفے کی حالت میں رہتا ہے پھر اتنے ہی دن وہ علقہ (لوٹھرا)

۱۹۶۲۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ أَبِي مَعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ

رہتا ہے۔ پھر مضغہ (گوشت کا ٹکڑا) ہو جاتا ہے اور چالیس دن تک اسی حالت میں رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جو اس میں روح پھونکتا ہے اور چار چیزیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ (رزق، موت، عمل اور یہ کہ وہ نیک بخت ہے یا بد بخت) قسم ہے۔ اس اللہ کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں کہ تم میں سے کوئی (ایسا بھی ہے) کہ وہ اہل جنت والے اعمال کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہتا ہے اور اس کی تقدیر آگے بڑھتی ہے پھر اس کا خاتمہ دوزخیوں کے اعمال پر کر دیا جاتا ہے اور وہ دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور پھر تم میں سے ایسا بھی ہے جو دوزخیوں والے کام کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے لیکن اس کی تقدیر آگے بڑھتی ہے اور اس کا خاتمہ اہل جنت کے اعمال پر ہو جاتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔

الْمَصْدُوقِ اَنْ اَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ اُمِّهِ فِي اَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عِلْقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسِلُ اللّٰهُ اِلَيْهِ الْمَلَكَ فَيَنْفُخُ فِيْهِ الرُّوْحَ وَيَوْمَئِذٍ يَكْتُبُ رِزْقَهُ وَاَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيٌّ اَوْ سَعِيْدٌ فَاَوَّلُ الَّذِي لَا اِلٰهَ غَيْرُهُ اِنْ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اِلَّا ذِرَاعٌ ثُمَّ يَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَاِنْ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اِلَّا ذِرَاعٌ ثُمَّ يَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمد بن یسار سے یحییٰ بن سعید سے وہ اعمش سے وہ زید بن وہب سے وہ عبد اللہ بن مسعود سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس باب میں ابو ہریرہؓ اور انسؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ احمد بن حسن، احمد بن حنبل سے نقل کرتے ہیں کہ میری آنکھوں نے یحییٰ بن سعید قطان جیسا آدمی نہیں دیکھا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شعبہ اور ثوری بھی اعمش سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ محمد بن علاء بھی وکیع سے وہ اعمش سے اور وہ زید سے اسی کی طرح نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۳۸۲۔ مَا جَاءَ كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوَلَّدُ عَلٰى الْفِطْرَةِ  
۱۹۶۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى الْقَطَعِىُّ نَا عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رَبِيْعَةَ الْبَنَانِيَّ نَا الْاَعْمَشَ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوَلَّدُ عَلٰى الْاِمْلَةِ فَاَبَاؤُهُ يَهُودًا يَهُودًا يَهُودًا يَهُودًا وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُشْرِكَانِهِ فَيَلْ يَارَسُوْلُ اللّٰهِ فَمَنْ هَلَكَ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ اللّٰهُ اَعْلَمَ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ بِهٖ

باب ۱۳۸۲۔ ہر مولود فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔  
۱۹۶۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر مولود ملت اسلامیہ پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی، یا مشرک بنا دیتے ہیں۔ عرض کیا گیا جو بچے اس سے پہلے ہی فوت ہو گئے (کہ ان کے والدین انہیں یہودی وغیرہ بنا سکیں یعنی بلوغت سے پہلے) آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ اگر بڑے ہوتے تو کیا کرتے۔

ابو کریب اور حسن بن حریش بھی وکیع سے وہ اعمش سے وہ ابوصالح سے وہ ابو ہریرہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس میں ملت کی جگہ فطرت کا لفظ نقل کیا گیا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شعبہ وغیرہ اسے اعمش سے وہ ابوصالح سے وہ ابو ہریرہؓ سے اور وہ اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یولد علی الفطرة“

توضیح: یہاں فطرت سے مراد وہ خلقت اور طینت انسانی ہے جس پر اسے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ اسی طینت سے حق کو پہچاننے، احکام کو قبول کرنے اور دین اسلام کو اختیار کرنے پر قادر ہوتا ہے۔ نیز حق و باطل کے درمیان تمیز بھی کر سکتا ہے۔ رہ گیا مسئلہ کفار کے نابالغ بچوں

کا تو اس میں صحیح قول یہی ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بے گناہ کو عذاب نہیں دیتے۔ جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے تو یہ حکم آپ پر وحی نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ اس کے بعد آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ مشرکین و کفار کے بچے بھی جنت میں جائیں گے۔ واللہ اعلم (مترجم)۔

باب ۱۳۸۳۔ مَا جَاءَ لَا يَزِيدُ الْقَدْرَ إِلَّا الدُّعَاءُ

باب ۱۳۸۳۔ تقدیر کو صرف دعا ہی لوٹا سکتی ہے

۱۹۶۴۔ حدثنا محمد بن حميد الرازي وسعيد بن

۱۹۶۴۔ حضرت سلمانؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

يعقوب قالانا يحيى بن الضريس عن ابى مودود

قضاء (قدر) کو صرف دعا ہی رد کر سکتی ہے اور عمر کو نیکی کے علاوہ کوئی چیز

عن سليمان التيمي عن ابى عثمان النهدي عن

نہیں بڑھا سکتی۔

سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا

يزيد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر

اس باب میں ابواسید بھی حدیث نقل کرتے ہیں، حضرت سلمانؓ کی حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ ہم اسے صرف یحییٰ بن ضریس کی روایت سے جانتے ہیں۔ اور ابومودود ہیں۔ ایک کو فضہ اور دوسرے کو عبدالعزیز سلیمان کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک بصری اور دوسرے مدینی ہیں، جنھوں نے یہ حدیث نقل کی ہے وہ فضہ بصری ہیں۔

توضیح: اس سے مراد یہ ہے کہ جس قضاء کے متعلق لکھا جا چکا ہے کہ یہ دعا سے لوٹائی جا سکتی ہے وہ رد ہو جائے گی اس سے ان لوگوں پر رد ہوتا ہے جو حضرات کہتے ہیں کہ تقدیر میں جو لکھا جا چکا ہے وہ تو مٹ نہیں سکتا لہذا عمل اور دعا کا کیا فائدہ چنانچہ جن چیزوں کے متعلق یہ لکھا جا چکا ہے کہ یہ دعا سے ٹل جائیں گی وہ تو ٹلیں گی۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۱۳۸۴۔ مَا جَاءَ أَنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ اصْبَعِي الرَّحْمَنِ

باب ۱۳۸۴۔ لوگوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔

۱۹۶۵۔ حدثنا هناد نا ابو معاوية عن الاعمش عن

۱۹۶۵۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھا

ابى سفيان عن انس قال كان رسول الله صلى الله

کرتے تھے، ”یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك“ اے

عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت

دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ میں

قلبي على دينك فقلت يا نبي الله ائنا بك وبما

نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ، ہم ایمان لائے آپ پر بھی اور جو

جئت به فهل نخاف علينا قال نعم إن القلوب بين

چیز آپ ﷺ لائے اس پر بھی۔ کیا آپ ﷺ ہمارے بارے میں ڈرتے

اصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء

ہیں؟ فرمایا: ہاں کیونکہ دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں وہ جس

طرح چاہتے ہیں انھیں پھیر دیتے ہیں۔

اس باب میں نو اس بن سمان، ام سلمہؓ، عائشہؓ اور ابو زررہؓ سے بھی حدیثیں منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسے اسی طرح کئی راوی اعمش سے وہ ابوسفیان سے اور وہ انسؓ سے نقل کرتے ہیں۔ بعض راوی انسؓ کی جگہ جابرؓ سے بھی اسے نقل کرتے ہیں لیکن ابوسفیان کی اعمش سے منقول حدیث زیادہ صحیح ہے۔

باب ۱۳۸۵۔ مَا جَاءَ أَنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ

باب ۱۳۸۵۔ اللہ تعالیٰ نے دوزخیوں اور جنتیوں کے متعلق کتاب لکھی

وَأَهْلِ النَّارِ

ہوئی ہے۔

۱۹۶۶۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ ﷺ کے پاس دو کتابیں تھیں فرمایا: کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ کتابیں کیا ہیں؟ ہم نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ ﷺ) لایا یہ کہ آپ ہمیں بتائیں آپ ﷺ نے دائیں ہاتھ والی کتاب کے متعلق فرمایا: یہ رب العالمین کی طرف سے ہے اور اس میں اہل جنت کے نام ہیں۔ پھر ان کے آباؤ اجداد اور ان کے قبیلوں کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں میزان ہے (یعنی ٹول) پھر ان میں نہ کی ہوگی اور نہ بڑھائے جائیں گے۔ پھر آپ ﷺ نے بائیں ہاتھ والی کتاب کے متعلق فرمایا کہ یہ بھی رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اس میں اہل دوزخ، ان کے آباؤ اجداد اور قبائل کے نام مذکور ہیں اور پھر آخر میں میزان کر دیا گیا ہے۔ اسکے بعد ان میں نہ کی ہوگی اور نہ زیادتی۔ صحابہؓ نے عرض کیا: تو پھر عمل کا کیا فائدہ ہوا؟ اگر دوزخیوں اور جنتیوں کے متعلق فیصلہ ہو ہی چکا ہے تو عمل سے کیا حاصل ہوگا؟ فرمایا: متوسط چال چلو اور قریب ہوتے جاؤ کیونکہ اہل جنت کا خاتمہ جنت والوں ہی کے عمل پر ہوگا اگرچہ اس سے پہلے کیسے بھی عمل ہوں اور اہل دوزخ کا خاتمہ دوزخ والوں کے اعمال پر ہی ہوگا خواہ اس سے پہلے اس نے کسی طرح کے بھی عمل کئے ہوں۔ پھر آنحضرت ﷺ نے ہاتھوں سے اشارہ کیا اور دونوں کتابوں کو پھینک دیا پھر فرمایا: تمہارا رب بندوں سے فارغ ہو چکا ہے ایک فریق جنت میں اور دوسرا دوزخ میں ہے۔

تقدیم بھی بکر بن مضر سے اور وہ البقیل سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں ابن عمر سے

بھی حدیث منقول ہے۔ البقیل کا نام حسی بن ہانی ہے۔

۱۹۶۷۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں تو اسے عمل میں لگا دیتے ہیں۔ پوچھا گیا: کیسے عمل میں لگاتے ہیں؟ یا رسول اللہ ﷺ) آپ نے فرمایا: اسے موت سے پہلے نیک اعمال کی توفیق دے دیتے ہیں۔

۱۹۶۶۔ حدثنا قتیبہ بن سعید نا الليث عن ابی قبیل عن شمی ابن مانع عن عبد اللہ بن عمرو قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان فقال اتدرون ما هذان الكتابان فقلنا لا يا رسول الله الا ان تحبنا فقال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه اسماء اهل الجنة و اسماء ابائهم وقبائلهم ثم اجمل على اجرهم فلا يزداد فيهم ولا ينقص منهم ابدا ثم قال للذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه اسماء اهل النار و اسماء ابائهم وقبائلهم ثم اجمل على اجرهم فلا يزداد فيهم ولا ينقص منهم ابدا فقال اصحابه فقيم العمل يا رسول الله ان كان امر قد فرغ منه فقال سددوا و قابوا فان صاحب الجنة يحتم له بعمل اهل الجنة وان عمل اى عمل و ان صاحب النار يحتم له بعمل اهل النار و ان عمل اى عمل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فبئدهما ثم قال فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير

تقدیم بھی بکر بن مضر سے اور وہ البقیل سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں ابن عمر سے

بھی حدیث منقول ہے۔ البقیل کا نام حسی بن ہانی ہے۔

۱۹۶۷۔ حدثنا علی بن حجر نا اسمعيل بن جعفر عن حميد عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اذا اراد بعبد خيرا استعمله فقيل كيف يستعمله يا رسول الله قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۸۶۔ مَا جَاءَ لَا عُدْوَى وَلَا صَفْرَ وَلَا هَامَةَ

باب ۱۳۸۶۔ حدوی (۱) صفر (۲) اور بارہ (۳) کی نفی۔

۱۹۶۸۔ حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا: کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی۔ ایک اعرابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! ایک اونٹ جسے کھلی ہوتی ہے جب دوسرے اونٹوں کے درمیان آتا ہے تو سب کو کھلی والا کر دیتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تو پھر پہلے اونٹ کو کسی کی کھلی لگی؟ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ اور نہ ہی صفر کا اعتقاد صحیح ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کو پیدا کیا اور اس کی زندگی، رزق اور مصیبتیں بھی لکھ دیں۔

۱۹۶۸۔ حدثنا بندار نا عبدالرحمن مہدی نا سفیان عن عمارة بن القعقاع نا ابو زرعة بن عمرو بن جریر قال نا صاحب لنا عن ابن مسعود قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يعدي شئ شيئا فقال اعرابي يا رسول الله البعير اجرِب الحشفة نذنيه فيجرِب الابل كلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن اجرِب الاول لا عدوى ولا صفر خلق الله كل نفس فكتب حياتها ورزقها ومصائبها

اس باب میں حضرت ابو ہریرہؓ، ابن عباسؓ اور انسؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ اور میں نے محمد بن عمرو بن صفوان النہدی البصری کو کہتے سنا کہ علی بن مدینی فرماتے ہیں۔ اگر مجھے رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان قسم اٹھائی جائے تو میں قسم اٹھاؤں گا کہ میں نے عبدالرحمن بن مہدی سے زیادہ علم والا نہیں دیکھا۔

باب ۱۳۸۷۔ تقدیر خیر و شر پر ایمان لانا۔

۱۹۶۹۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی بندہ اس وقت مؤمن نہیں ہو سکتا۔ جب تک اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لائے یہاں تک کہ وہ جان لے کہ جو چیز اسے ملنے والی تھی وہ اسے ہی ملی کسی اور کے پاس نہیں جاسکتی تھی اور جو چیز اسے نہیں ملنی وہ کسی صورت اسے نہیں مل سکتی۔

باب ۱۳۸۷۔ مَا جَاءَ فِي الْإِيمَانِ بِالْقَدْرِ خَيْرُهُ وَشَرُّهُ ۱۹۶۹۔ حدثنا ابو الخطاب زياد بن يحيى البصرى نا عبدالله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن ابنيه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحتى يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وان ما اخطاه لم يكن ليصيبه

اس باب میں عبادہؓ، جابرؓ اور عبد اللہ بن عمرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث اس سند سے غریب ہے ہم اسے صرف عبد اللہ بن میمون کی سند سے جانتے ہیں۔ اور یہ منکر الحدیث ہیں۔

۱۹۷۰۔ حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ کوئی بندہ اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک چار چیزوں پر ایمان نہ لائے۔ ۱۔ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کےائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ ۲۔ موت پر ایمان لائے (یعنی اس کیلئے اعمال صالحہ سے تیاری کرے)۔ ۳۔ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لائے اور ۴۔ تقدیر پر ایمان لائے۔

۱۹۷۰۔ حدثنا محمود بن غيلان نا ابو داؤد انبانا شعبة عن منصور عن ربعي بن خراش عن عبلتي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالحق ويشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله بعثني بالحق ويؤمن بالمولوت ويؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر

(۱) عدوی: اس کی تفصیل حدیث میں آ رہی ہے۔ (مترجم)۔ (۲) صفر: اس میں علماء کے دو اقوال میں ایک یہ کہ صفر کو محرم پر مقدم کیا جائے جیسے کفار عرب کیا کرتے تھے دوسرے یہ کہ عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ جانور کے پیٹ میں ایک کیزا ہے جو بھوک کے وقت بیجان کرتا ہے اور اکثر جانور کو مار ڈالتا ہے۔ (۳) ہاندہ: اُلُو کو کہتے ہیں عرب اس سے بدفالی لیتے تھے بعض کا خیال تھا کہ میت کی ہڈیاں سڑ کر اُلُو بن جاتی ہیں۔ (مترجم)

محمود بن غیلان، نصر بن شمیل سے اور وہ شعبہ سے اسی کے مانند نقل کرتے ہیں۔ لیکن ربیع ایک شخص سے اور وہ علیؑ سے نقل کرتے ہیں۔ ابوداؤد کی شعبہ سے منقول حدیث میرے نزدیک نصر کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے کئی راویوں نے بھی منصور سے انھوں نے ربیع سے اور انھوں نے علیؑ سے یہی حدیث نقل کی ہے۔ چارود بیان کرتے ہیں کہ وکیع کہتے ہیں: مجھے خبر پہنچی ہے کہ ربیع بن خراش نے اسلام میں ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہیں بولا۔

باب ۱۳۸۸۔ مَا جَاءَ أَنَّ النَّفْسَ تَمُوتُ حَيْثُ مَا كَتَبَ لَهَا

باب ۱۳۸۸۔ ہر شخص وہیں مرتا ہے جہاں اس کی موت لکھی ہوتی ہے۔

۱۹۷۱۔ حَدَّثَنَا بَنْدَارٌ نَا مُؤَمَّلٌ نَا سَفِيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مَطْرِبْنِ عِكَامِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَضَى اللَّهُ لِعَبْدٍ أَنْ يَمُوتَ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً

۱۹۷۱۔ حضرت مطرب بن عکامس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کی کسی جگہ موت لکھی ہوتی ہے تو اس کے لئے وہاں کوئی کام نکل آتا ہے۔

اس باب میں ابو عروہ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ مطرب بن عکامس کی اس حدیث کے علاوہ کسی حدیث کا ہمیں علم نہیں۔ محمود بن غیلان، مؤمل، اور ابوداؤد حنفی سے اور وہ سفیان سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ احمد بن منیع اور علی بن حجر بھی یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:..... الخ اس حدیث میں ”الہا حاجتہ“ کے الفاظ بیان کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابو عروہ صحابی ہیں ان کا نام یسار بن عبد ہے اور ابویح: عامر بن اسامہ بن عمری ہذلی ہیں۔

باب ۱۳۸۹۔ مَا جَاءَ لَا تَرُدُّ الرَّقِيَّ وَالِدَ وَآءٌ مِنْ قَدْرِ اللَّهِ شَيْئًا

باب ۱۳۸۹۔ رقیہ اور دوالتقدیر کو نہیں لوٹا سکتے۔

۱۹۷۲۔ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ نَا سَفِيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي حِزَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَقِيَّ نَسْتَرْقِيهَا وَدَوَاءٌ نَتَدَاوَى بِهِ وَتَقَاةٌ نَتَقِيهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدْرِ اللَّهِ شَيْئًا قَالَ هِيَ مِنْ قَدْرِ اللَّهِ

۱۹۷۲۔ حضرت ابو خزامہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا! یہ رقیہ جن سے ہم دم کرتے ہیں اور یہ دوائیں جن سے ہم علاج کرتے ہیں اور یہ پچاؤ کی چیزیں جن سے ہم ضرب سے بچتے ہیں (یعنی ڈھال وغیرہ) کیا یہ اللہ کی تقدیر میں سے کچھ لوٹا سکتی ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ تو خود ہی اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہیں۔

یہ حدیث ہم صرف زہری کی روایت سے جانتے ہیں۔ کئی راوی اسے سفیان سے وہ زہری سے وہ ابو خزامہ سے اور وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں۔ یہ زیادہ صحیح ہے۔ اسی طرح کئی راوی زہری سے وہ ابو خزامہ سے اور وہ اپنے والد سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۳۹۰۔ مَا جَاءَ فِي الْقَدْرِيةِ

باب ۱۳۹۰۔ قدریہ کے متعلق

۱۹۷۳۔ حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى نَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَبِيبٍ وَ عَلِيِّ بْنِ نَزَارٍ عَنْ

۱۹۷۳۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری امت میں سے دو گروہ ایسے ہیں جن کا اسلام میں کوئی حصہ

عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَيْسَ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبُ الْمُرْجِئَةِ وَالْقَدْرِيَّةِ

نہیں۔ قدریہ (۱) اور مرجئیہ (۲)

اس باب میں عمرؓ، ابن عمرؓ اور رافع بن خدیجؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ محمد بن رافع، محمد بن بشر سے وہ سلام بن ابوعمرہ سے، وہ عکرمہ سے وہ ابن عباسؓ سے اور وہ نبی اکرم ﷺ سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ پھر محمد بن بشر بھی علی سے وہ زرار سے وہ عکرمہ سے وہ ابن عباسؓ سے وہ نبی کریم ﷺ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔

۱۹۷۴۔ حدثنا ابوهريرة محمد بن فراس البصرى نا ابو قتية سلم بن قتيبة نا ابو العوام عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ابن ادم والى حبيبه تسعة وتسعون مائة ان اخطاته المنيا وقع فى الهرام حتى يموت

۱۹۷۴۔ حضرت عبداللہ بن شخیرؓ، آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: بنو آدم کی تصویر اس نقشے پر تیار کی گئی ہے کہ اس کے دونوں جانب نانوائے موتیں ہیں اگر وہ ان سے بچ جائے تو بڑھاپے میں گرفتار ہو جاتا ہے پھر اسی میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں ابوالعوامؓ وہ عمران قطان ہیں۔

باب ۱۳۹۱۔ مَا جَاءَ فِي الرِّضَاءِ بِالْقَضَاءِ

۱۹۷۵۔ حدثنا محمد بن بشار نا ابو عامر عن محمد بن ابى حميد عن اسمعيل بن محمد بن سعد بن ابى وقاص عن ابيه عن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعادته ابن ادم رضاه بما قضى الله له ومن شقاوته ابن ادم تركه استخاره الله ومن شقاوته ابن ادم سخطه بما قضى الله له

۱۹۷۵۔ حضرت سعدؓ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بنو آدم کی سعادت اسی میں ہے کہ اللہ کی قضاء و قدر پر راضی رہے اور اس کی بدبختی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب نہ کرے اور اس کی قضاء پر ناراضگی کا اظہار کرے۔

یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف محمد بن ابی حمید کی روایت سے جانتے ہیں انھیں حماد بن ابی حمید بھی کہتے ہیں۔ یہ ابوالبراہیم مدینی ہیں اور محدثین کے نزدیک قوی نہیں۔

باب ۱۳۹۲۔ بلا عنوان

۱۹۷۶۔ حدثنا محمد بن بشار نا ابو عاصم نا حيوة بن شريح اخبرني ابو صحر ثني نافع ان ابن عمر عرض كيف افعال الله فقال لا اعلم

۱۹۷۶۔ حضرت نافعؓ فرماتے ہیں کہ ابن عمرؓ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا فلاں آپ کو سلام کہتا ہے۔ انھوں نے فرمایا: مجھے خبر ملی ہے کہ

(۱) قدریہ: ایک فرقہ ہے جو تقدیر کے منکر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مخلوق کے افعال ان ہی کی طرف منسوب ہیں اور یہی اس کے خالق ہیں اس میں ارادہ الہی کا کوئی دخل نہیں (مترجم)

(۲) مرجئیہ: یہ بھی ایک فرقہ ہے جو قدریہ کے برعکس ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان مجبور ہے اور اس کے تمام افعال تقدیر سے ہیں انسان کو اس میں کسی قسم کا اختیار نہیں۔ نیز یہ کہ ایمان کے ساتھ کوئی گناہ ضرور نہیں پہنچاتا۔ (مترجم)

اس نے نیا عقیدہ نکالا ہے اگر یہ صحیح ہے تو اسے میرا سلام نہ کہنا اس لئے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس امت میں یا فرمایا میری امت میں سے اہل قدر میں دھننا صورتیں بدلنا، اور پتھر برسنا ہوتا رہے گا۔ (۱)

جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ فَلَانًا يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ فَقَالَ إِنَّهُ بَلَّغَنِي أَنَّهُ قَدْ أَخَذَتْ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَتْ فَلَا تُقْرَأُ مِنِّي السَّلَامَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوْفِي أُمَّتِي الشُّكُّ مِنْهُ خَسْفٌ أَوْ مَسْخٌ أَوْ قَذْفٌ فِي أَهْلِ الْقَدْرِ

یہ حدیث غریب ہے اور ابو صخر کا نام حمید بن زیاد ہے۔

۱۹۷۷۔ عبد الواحد بن سلیم کہتے ہیں کہ میں مکہ آیا تو عطاء بن ابی رباح سے ملاقات کی اور ان سے کہا: ابو محمد! اہل بصرہ تقدیر کے متعلق کچھ چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا: بیٹے تم قرآن پڑھتے ہو؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا: تو پھر سورہ زخرف پڑھو۔ کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا اور ”حم“ سے ”حکیم“ تک پڑھا۔ فرمایا: جانتے ہو کہ ام الكتاب کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ فرمایا: یہ وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کرنے سے پہلے لکھا۔ اس میں تحریر ہے کہ فرعون دوزخی ہے اور ابولہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود ٹوٹ گیا۔ عطاء کہتے ہیں کہ پھر میں نے صحابی رسول ﷺ و لید بن عبادہ بن صامت سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا: آپ کے والد نے موت کے وقت کیا وصیت کی تھی؟ فرمایا: انہوں نے مجھے بلایا اور فرمایا: بیٹے اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تب ہی اس پر ایمان لاؤ گے۔ اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ گے اور اگر تم اسکے علاوہ کسی اور عقیدے پر مرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور حکم دیا کہ لکھو اس نے عرض کیا: کیا لکھوں؟ فرمایا: تقدیر، جو گزر چکی اور جو ہمیشہ ہمیشہ ہونے والی ہے یعنی قیامت تک۔

۱۹۷۷۔ حدثنا يحيى بن موسى نا أبو داود الطيالسي عن عبد الواحد بن سليم قال قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبي رباح فقلت له يا أبا محمد إن أهل البصرة يقولون في القدر قال يا بني أتقرأ القرآن قلت نعم قال فأقرء الزخرف قال فقرأت حم والكتب المبين أنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم قال أتدرى ما أم الكتاب قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه كتاب كتبه الله قبل أن يخلق السماء وقبل أن يخلق الأرض فيه إن فرعون من النار وفيه ثبت يدا أبي لهب وتب قال عطاء فلقيت الوليد بن عبادة ابن صامت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته ما كانت وصية أبيك عند الموت قال دعائي فقال يا بني أتني الله وأعلم أنك إن تتقي الله وتؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله خير وشره فإن مت على غير هذا دخلت النار

إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ أَكْتُبُ قَالَ مَا لَكْتُبُ قَالَ أَكْتُبُ الْقَدْرَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَاتِبٌ إِلَى الْآبِدِ

آیات کا ترجمہ: قسم ہے اس واضح کتاب کی۔ ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا۔ تاکہ تم لوگ سمجھ سکو اور یہ قرآن ہمارے پاس لوح محفوظ میں ہے۔ اس سے برتر اور مستحکم ہے۔ یہ حدیث غریب ہے۔

(۱) یعنی عذاب کی یہ کیفیات آتی رہیں گی۔

۱۹۷۸۔ حضرت عبداللہ بن عمروؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تقدیریں آسمان و زمین پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے لکھ دی تھیں۔

۱۹۷۸۔ حدثنا ابراهيم بن عبدالله بن المنذر الصنعاني نا عبدالله بن يزيد المقرئ نا حيوه بن شريح ثنى ابو هانى الخولاني انه سمع ابا عبد الرحمن الحبلى يقول سمعت عبدالله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قدّر الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرضين بخمسين ألف سنة

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۱۹۷۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ مشرکین قریش آنحضرت ﷺ کے پاس تقدیر کے متعلق جھگڑتے ہوئے حاضر ہوئے اس پر یہ آیت نازل ہوئی ”یوم یسحبون.....“ الایۃ۔ یعنی جس دن اپنے چہروں کے تل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اور پھر کہا جائے گا کہ پکھو دو بزخ کا حزرہ ہم نے ہر چیز تقدیر کے اندازے کے مطابق پیدا کی۔

۱۹۷۹۔ حدثنا محمد بن العلاء ومحمد بن بشار قالنا وكيع عن سفيان الثوري عن زياد بن اسمعيل عن محمد بن عباد بن جعفر المنزوي عن أبي هريرة قال جاء مشركوا قريش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمون في الفدر فنزلت هذه الآية يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقرانا كل شيء خلقناه بقدر

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فتنوں کے متعلق رسول اللہ ﷺ سے

منقول احادیث کے ابواب

باب ۱۳۳۔ تین جرموں کے علاوہ کسی مسلمان کا خون بہانا حرام ہے۔

۱۹۸۰۔ حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیفؓ کہتے ہیں کہ عثمان بن عفانؓ اپنے دور خلافت میں اہل فتنہ کے ڈر سے گھر میں مجبوس تھے کہ ایک دن چھت پر چڑھے اور فرمایا: میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کسی مسلمان کا خون تین جرموں کے علاوہ بہانا حرام ہے۔ اول یہ کہ شادی شدہ زنا کرے۔ دوم یہ کہ اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے۔ سوم یہ کہ کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کرے۔ (ان جرموں کی پاداش میں کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے۔) اللہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

أَبْوَابُ الْفِتَنِ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۱۳۹۳۔ مَا جَاءَ لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُّسْلِمٍ إِلَّا بِأَحْدَى ثَلَاثٍ

۱۹۸۰۔ حدثنا احمد بن عبدة الضبي نا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن ابي امامة بن سهل بن حنيف ان عثمان بن عفان اشرف يوم الدار فقال انشدكم بالله اتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجلى دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث زنا بعد احصان اوار تداد بعد اسلام او قتل نفس بغير حق فقتل به فوالله ما زنت في جاهلية

وَلَا فِي إِسْلَامٍ وَلَا أَرْتَدُّتْ مُنْذُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا قَتَلْتُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ فِيهَا نَفْسِي

کی قسم میں نے نہ کبھی جاہلیت میں زنا کیا اور نہ ہی اسلام لانے کے بعد پھر جس دن سے میں نے رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اس کے بعد مرتد نہیں ہوا۔ اور نہ ہی میں نے کسی ایسے شخص کو قتل کیا ہے جس کا قتل اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ لہذا تم لوگ مجھے کس جرم میں قتل کرتے ہو۔

اس باب میں ابن مسعود، عائشہ، اور ابن عباسؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسے حماد بن سلمہ یحییٰ بن سعید سے مرفوع نقل کرتے ہیں۔ پھر یحییٰ بن سعید قطان اور کئی راوی یحییٰ بن سعید سے یہی حدیث موقوفاً نقل کرتے ہیں۔ حضرت عثمانؓ سے یہ حدیث کئی سندوں سے مرفوعاً منقول ہے۔

باب ۱۳۹۴۔ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الدِّمَاءِ وَالْأَمْوَالِ

باب ۱۳۹۴۔ جان و مال کی حرمت

۱۹۸۱۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ ثَنَا ابُو الْأَحْوَصِ عَنْ شَيْبِ بْنِ غِرْقَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ لِلنَّاسِ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحَرَمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا لَا يَحْنِي حَانَ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ أَلَا لَا يَحْنِي حَانَ عَلَى وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٍ عَلَى وَالِدِهِ أَلَا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ آتَى أَنْ يَعْبُدَ فِي بِلَادِكُمْ هَذِهِ أَبَدًا وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِيمَا تَحْفَرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَسِيرْ ضِي بِهِ

۱۹۸۱۔ حضرت عمرو بن احوصؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں سے خطاب فرماتے ہوئے پوچھا: یہ کونسا دن ہے؟ عرض کیا گیا: حج اکبر کا دن۔ آپ ﷺ نے فرمایا: بیشک تم لوگوں کی جان، مال اور عزت آپس میں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں۔ جس طرح آج کے دن کی تمہارے اس شہر میں حرمت ہے۔ جان لو کہ ہر مجرم اپنے اوپر ہی جنایت کرتا ہے۔ یعنی اس کا خمیازہ اسے ہی بھگتنا ہوگا۔ اور جان لو کہ کوئی جنایت کرنے والا اپنے بیٹے پر یا بیٹا اپنے باپ پر جنایت نہیں کرتا یہ بھی ذہن نشین کر لو کہ شیطان اس سے مایوس ہو چکا ہے کہ تمہارے اس شہر میں کبھی اس کی عبادت کی جائے۔ لیکن اس کی ان اعمال سے تھوڑی بہت اطاعت ضرور ہوگی جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو اور وہ اسی پر راضی ہو جائے گا۔

اس باب میں ابو بکرؓ، ابن عباسؓ، جابرؓ اور حدیث بن عمروؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسے زائدہ شیبہ بن غرقہ کی سند سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۳۹۵۔ مَا جَاءَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرْوَعَ مُسْلِمًا

باب ۱۳۹۵۔ کسی مسلمان کو گھبراہٹ میں بتانا کرنے کی ممانعت۔

۱۹۸۲۔ حَدَّثَنَا بَنْدَارٌ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ نَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ لِأَعْيَابٍ جَادًا فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ

۱۹۸۲۔ حضرت عبداللہ بن سائبؓ بن یزید اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی شخص بطور مذاق اپنے بھائی کو پریشان کرنے کے لیے اس کی لاشھی نہ لے اور اگر کسی نے لی ہو تو واپس کر دے۔

اس باب میں ابن عمرؓ، سلیمان بن صردؓ، جعدہ اور ابو ہریرہؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف ابن ابی ذئب کی روایت سے جانتے ہیں۔ سائب بن یزید صحابی ہیں انھوں نے آنحضرت رسول اللہ ﷺ سے احادیث سنی ہیں۔ جب آپ کی وفات ہوئی اس وقت ان کی عمر سات سال تھی جبکہ ابو یزید بن سائب بھی صحابی ہیں اور انھوں نے کئی احادیث رسول اللہ ﷺ سے نقل کی ہیں۔

باب ۱۳۹۶۔ مَا جَاءَ فِي إِشَارَةِ الرَّجُلِ عَلَىٰ أَحِيهِ بِالسَّلَاحِ

باب ۱۳۹۶۔ کسی مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرنے کی ممانعت۔

۱۹۸۳۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْهَاشِمِيُّ نَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ نَا خَالِدَ الْحِذَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَبْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَشَارَ عَلَىٰ أَحِيهِ بِحَدِيدَةٍ لَعَنَتْهُ الْمَلَائِكَةُ

۱۹۸۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کسی شخص نے اپنے کسی بھائی کی طرف کسی ہتھیار سے اشارہ کیا تو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔

اس باب میں ابو بکرؓ، عائشہؓ اور جابرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے یعنی خالد بن حزاء کی روایت ہے۔ محمد بن سیرین سے بھی ابو ہریرہؓ کے واسطے سے اسی طرح کی حدیث نقل کی گئی ہے لیکن یہ مرفوع نہیں اور اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں ”اگرچہ وہ اس کا حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو“ (۱) قتیبہ بھی حماد بن زید سے اور وہ ابویوب سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۳۹۷۔ النَّهْيُ عَنْ تَعَاطِي السَّيْفِ مَسْئُولًا

باب ۱۳۹۷۔ ننگی تلوار لینے کی ممانعت۔

۱۹۸۴۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ الْبَصْرِيُّ نَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفَ مَسْئُولًا

۱۹۸۴۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ننگی تلوار لینے اور دینے سے منع فرمایا۔ (۲)

اس باب میں ابو بکرؓ، سے بھی حدیث نقل کی گئی ہے۔ مذکورہ حدیث حماد بن سلمہ کی روایت سے حسن غریب ہے۔ ابن لہیعہ اسے ابو زبیر سے وہ جابرؓ سے وہ جہنی سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ میرے نزدیک حماد کی حدیث زیادہ صحیح ہے

باب ۱۳۹۸۔ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

باب ۱۳۹۸۔ جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے۔

۱۹۸۵۔ حَدَّثَنَا بِنْدَارُ نَا مَعْدِيُّ بْنُ سَلِيمَانَ نَا أَبُو عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا يَتَّبِعَنَّكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذِمَّتِهِ

۱۹۸۵۔ حضرت ابو ہریرہؓ، رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے لہذا ایسا نہ ہو کہ اللہ کی پناہ توڑنے کے جرم میں وہ تمہارا مواخذہ کرے۔

(۱) حقیقی بھائی کی قید لگانے کی وجہ یہی ہے کہ ان میں عداوت کا احتمال بعید ہے۔ چنانچہ مراد یہی ہے کہ مذاقاً بھی ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

(۲) اس ممانعت کی وجہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہو کہ اندیشہ ہے کہ ہاتھ سے پھسل کر کسی کو زخمی نہ کر دے یا یہ بھی ممکن ہے کہ لینے والا دشمن ہو اور موقع پاتے ہی مار ڈالنے کی کوشش کرے۔ واللہ اعلم۔

اس باب میں جندبؓ اور ابن عمرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔

باب ۱۳۹۹۔ جماعت کی پابندی کرنا۔

باب ۱۳۹۹۔ فِی لُزُومِ الْجَمَاعَةِ

۱۹۸۶۔ حدثنا احمد بن منيع نا النضر بن اسمعيل ابو المغيرة عن محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال خطبنا عمر بالجابية فقال يا ايها الناس اني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فقال اوصيكم باصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفسوا الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد الا لا يخلوون رجلا بامرأة الا كان ثالثهما الشيطان عليكم بالجماعة واياكم والفرقة فان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد من اراد بحبوة الجنة فليزم الجماعة من سرتة حسنته وساءتة سببته فليلك المؤمن

۱۹۸۶۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے جابہ کے مقام پر ہم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اے لوگو میں تم لوگوں کے درمیان رسول اللہ ﷺ کا قائم مقام ہوں۔ اور آپ ﷺ نے فرمایا: میں تم لوگوں کو اپنے صحابہؓ کی اطاعت کی وصیت کرتا ہوں پھر ان کے بعد آنے والوں کی اور پھر ان سے متصل آنے والوں کی (یعنی تابعین اور تبع تابعین کی) اس کے بعد جھوٹ رواج پکڑ جائے گا۔ یہاں تک کہ آدمی بغیر قسم کھلانے قسم کھانے لگے گا۔ اور بغیر گواہی طلب کئے گواہی دینے کے لئے موجود ہوگا۔ خبردار کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ ظلمت (۱) نہ کرے اس لئے کہ ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تم لوگوں کا جماعت کے ساتھ التزام ضروری ہے جسے اس کی نیکی خوش اور برائی بری لگے وہی مؤمن ہے۔

یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے لیکن اسے محمد بن سوقہ سے بھی بواسطہ ابن مبارک نقل کیا گیا ہے اور یہ کئی سندوں سے

آنحضرت ﷺ سے منقول ہے۔

۱۹۸۷۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ میری امت کو یا فرمایا: امت محمدیہ کو گواہی پر جمع نہیں کریں گے اور جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے جبکہ جو شخص جماعت سے جدا ہو اور آگ میں ڈال دیا گیا۔

۱۹۸۷۔ حدثنا ابو بكر بن نافع البصرى ثنا المعتمر بن سليمان ثنا سليمان المديني عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يجمع امتي او قال امة محمد على الضلالة ويد الله على الجماعة ومن شد شد الى النار

یہ حدیث اس سند سے غریب ہے میرے نزدیک سلیمان مدنی، سلیمان بن سفیان ہیں۔ اس باب میں ابن عباسؓ سے بھی حدیث

منقول ہیں۔

۱۹۸۸۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہوتا ہے۔

۱۹۸۸۔ حدثنا يحيى بن موسى ثنا عبدالرزاق نا ابراهيم بن ميمون عن ابن طاؤس عن ابيه عن ابن

(۱) یعنی تنہائی میں نہ ہے۔ (مترجم)

عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُ  
اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے ابن عباسؓ کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

باب ۱۴۰۰۔ مَا جَاءَ فِي نَزْوِلِ الْعَذَابِ إِذَا لَمْ يُغَيَّرِ  
باب ۱۴۰۰۔ منکرات کو نہ روکنے پر عذاب کا نازل ہونا۔  
الْمُنْكَرِ

۱۹۸۹۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا: اے لوگو! تم یہ آیت پڑھتے ہو  
”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ“  
جائوں کی فکر کو ضروری سمجھو۔ کوئی گمراہ تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتا بشرطیکہ تم  
ہدایت یافتہ ہو جب کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ: اگر لوگ ظالم  
کو ظلم کرتے ہوئے دیکھ کر اسے روکیں نہیں تو قریب ہے کہ اللہ تبارک  
تعالیٰ ان سب پر عذاب بھیج دے۔ (۱)

۱۹۸۹۔ حدثنا احمد بن منيع نا يزيد بن هارون نا  
اسماعيل بن ابى خالد عن قيس بن ابى حازم عن  
ابى بكر بن الصديق انه قال يا ايها الناس انكم  
تقرءون هذه الآية يا ايها الذين امنوا عليكم  
انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم واني  
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان  
الناس اذا راؤ الظالم فلم يأخذوا على يديه اوشك  
ان يعمهم الله بعقاب منه

اسی طرح کی محمد بن بشر، یزید بن ہارون سے اور وہ اسماعیل بن خالد سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس باب میں عائشہؓ  
ام سلمہؓ نعمان بن بشیرؓ عبد اللہ بن عمرؓ اور حذیفہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ کئی راوی اسماعیل سے یزید کی روایت کی طرح مرفوعاً نقل  
کرتے ہیں۔ جب کہ بعض راوی اسے موقوفاً بھی نقل کرتے ہیں۔

توضیح: اس آیت کے عموم پر عمل کرنا اس لیے صحیح نہیں کہ یہ آیت یا تو بحسب اشخاص یا بحسب زمان مخصوص ہے چنانچہ بحسب اشخاص  
مخصوص و مقید ہونے کی صورت یہ ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جن کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کوئی اثر نہیں ہوتا بلکہ ان میں سے  
ہر ایک خود پسند و متکبر ہے لہذا اس قسم کے لوگوں کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ تاکہ قتلہ اور زیادہ نہ بڑھے۔ جب کہ بحسب زمان مخصوص  
ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی خاص زمانے کے متعلق فرمایا: کہ تم لوگ اپنی فکر کرو۔ لیکن وہ زمانہ ابھی تک نہیں آیا اور  
قیامت کے نزدیک آئے گا۔ چنانچہ ابن مسعودؓ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا: ”اس سے مراد ہمارا اور تمہارا زمانہ نہیں۔“ کیونکہ لوگ اس  
میں سنتے بھی ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح ابو ثعلبہ حشنیؓ نے حضور اکرم ﷺ سے۔ اس آیت کی تفسیر کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا:  
اس زمانے تک امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہو جب تک تم یہ نہ دیکھو کہ صفت بخل کی اطاعت، خواہشات نفسانی کی اتباع، دنیا کو  
آخرت پر ترجیح اور ہر ذی رائے اپنی رائے و عقل کو پسند کرنے لگے۔ اور لوگوں نے علماء سے رجوع کرنا چھوڑ دیا ہو تو اس صورت میں اس  
سے اعراض کر سکتے ہو۔ یا یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ تم ان لوگوں میں رہتے ہوئے بے اختیار اس منکر میں پڑنے کا خطرہ محسوس کر  
رہے ہو تو ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ تاکہ خود برائی میں نہ پڑو اور اپنی فکر کرو۔ واللہ اعلم (مترجم)

(۱) یہاں مراد یہ ہے کہ تم لوگ اس آیت کو پڑھ کر اس کے عموم پر عمل کرتے ہوئے امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے اعراض کرتے ہو یہ صحیح نہیں کیونکہ میں نے  
رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا..... الحدیث۔ (مترجم)

باب ۱۴۰۱۔ مَا جَاءَ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ  
عَنِ الْمُنْكَرِ

۱۹۹۰۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ  
عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ  
حَدِيفَةَ بْنِ الْيَمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا  
مِنْهُ فَتَدْعُونَهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ

۱۹۹۰۔ حضرت حدیفہ بن یمانؓ کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:  
اس پروردگار کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے امر  
بالمعروف اور نہی عن المنکر (اچھی باتوں کا حکم اور برائی سے روکنا)  
کرتے رہو ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر عذاب بھیج دیں اور تم  
لوگ اس سے دعائیں مانگو اور وہ قبول نہ کرے۔

علی بن حجر بھی اسماعیل بن جعفر سے اور وہ عمرو بن ابی عمرو سے اسی سند سے اسی کے مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔

۱۹۹۱۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ  
عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ  
الْأَنْصَارِيِّ الْأَشْهَلِيِّ عَنْ حَدِيفَةَ بْنِ الْيَمَانَ أَنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي  
بِيَدِهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتُلُوا مَا مَكُمُ وَتَحْتَلِدُوا  
بِأَسْيَافِكُمْ وَيَرِثَ دُنْيَاكُمْ شِرَارُكُمْ

۱۹۹۱۔ حضرت حدیفہ بن یمانؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:  
اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ قیامت اس وقت  
تک نہ آئے گی جب تک تم لوگ اپنے امام کو قتل نہ کرو گے، آپس میں  
ایک دوسرے کو تلواروں سے نہ مار ڈالو گے اور تمہارے بدترین لوگ  
حکومت و اقتدار پر قابض نہ ہو جائیں گے۔

یہ حدیث حسن ہے۔

۱۹۹۲۔ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ نَافِعِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ الْحَيْشَ الَّذِي  
يُخَسَفُ بِهِمْ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لَعَلَّ فِيهِمْ الْمَكْرَهَ قَالَ  
إِنَّهُمْ يُبْعَثُونَ عَلَيَّ نِيَاتِهِمْ

۱۹۹۲۔ حضرت ام سلمہؓ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتی ہیں کہ آپ ﷺ  
نے اس لشکر کا ذکر کیا جو دھنسا دیا جائے گا۔ (یعنی اس پر عذاب نازل  
ہوگا) ام سلمہؓ نے عرض کیا: ممکن ہے کہ اس میں بعض لوگ مجبور بھی  
ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ لوگ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں  
گے۔ (۱)

یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے اور نافع سے بھی عائشہ کے واسطے سے مرفوعاً نقل کی گئی ہے۔

باب ۱۴۰۲۔ مَا جَاءَ فِي تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ بِالْيَدِ  
أَوْ بِاللِّسَانِ أَوْ بِالْقَلْبِ

۱۹۹۳۔ حَدَّثَنَا بَنْدَارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ نَافِعِ بْنِ حَبِيبٍ  
عَنْ قَيْسِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ طَارِقِ بْنِ شَهَابِ

۱۹۹۳۔ حضرت طارق بن شہابؓ کہتے ہیں کہ جس نے سب سے پہلے  
نماز سے پہلے خطبہ دینا شروع کیا وہ مروان تھا چنانچہ ایک شخص کھڑا ہوا

(۱) اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چند نیک لوگ جو اپنی قوم کے اعمال کی سزا میں ان کے ساتھ عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ ان کے ساتھ قیامت کے دن ان کی  
نیوں جیسا ہی معاملہ کیا جائے گا۔ واللہ اعلم (مترجم)

اور مروان سے کہا کہ تم نے سنت کی مخالفت کی ہے۔ اس نے جواب دیا: اے فلاں سنت جسے تم ڈھونڈ رہے ہو چھوڑ دی گئی ہے۔ ابوسعیدؓ نے فرمایا: اس نے اپنا حق ادا کر دیا۔ (یعنی امر بالمعروف کا) اس لیے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ جو شخص کسی برائی کو دیکھے اسے ہاتھ سے روک دے۔ اگر ایسا نہ کر سکتا ہو تو زبان سے روکے اور اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو دل میں اسے برا جانے اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔

قَالَ أَوَّلُ مَنْ قَدَّمَ الْخُطْبَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرُوانٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لِمَرُوانٍ خَالَفْتَ السُّنَّةَ فَقَالَ يَا فُلَانُ تَرَكَ مَا هُنَاكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۴۰۳۔ ۱۴۰۳۔ منہ

باب ۱۴۰۳۔ اسی سے متعلق۔

۱۹۹۴۔ حضرت نعمان بن بشیرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حدود اللہ پر قائم رہنے والے اور اس پر عمل نہ کرنے والے کی مثال اس قوم جیسی ہے جو قرعہ اندازی کر کے سمندر میں ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ بعض اوپر کی منزل پر بیٹھے اور بعض نیچے کی منزل پر تو جو لوگ نیچے تھے وہ لوگ پانی لینے کے لیے اوپر چڑھتے اور اوپر بیٹھنے والوں پر پانی گرا دیتے۔ چنانچہ اوپر والوں نے کہا کہ ہم تمہیں پانی لینے کی اجازت نہیں دیتے کیونکہ تم لوگ اوپر آ کر ہمیں تکلیف دیتے ہو۔ اس پر نیچے والے کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم نیچے سے کشتی میں ایک سوراخ کر لیتے ہیں اس میں سے پانی لے لیں گے پھر اگر وہ لوگ ان کے ہاتھ پکڑ کر انہیں سوراخ کرنے سے روک دیں گے تو سب محفوظ رہیں گے ورنہ سب کے سب غرق ہو جائیں گے۔ (۱)

۱۹۹۴۔ حدثنا احمد بن منيع نا معاوية عن الاعمش عن الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْمُدْهِنِ فِيهَا كَمِثْلِ قَوْمٍ نَاسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينِهِ فِي الْبَحْرِ فَاصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَاصَابَ بَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا يَصْعَدُونَ فَيَسْتَقُونَ الْمَاءَ فَيَصِيبُونَ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْلَاهَا فَقَالَ الَّذِينَ فِي أَعْلَاهَا لَا نَدْعُكُمْ تَصْعَدُونَ فَتُؤَدُّونَنَا فَقَالَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا فَإِنَّا نَنْقُبُهَا فِي أَسْفَلِهَا فَنَسْتَقِي فَإِنِ اخْتَدُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ فَمَنْعُواهُمْ نَجْوًا جَمِيعًا وَإِنْ تَرَكَوهُمْ غَرِقُوا جَمِيعًا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۴۰۴۔ ظالم سلطان کے سامنے حق بات کہنا افضل ترین جہاد ہے۔

باب ۱۴۰۴۔ أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلِ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

۱۹۹۵۔ حضرت ابوسعید خدریؓ، رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: عظیم ترین جہاد ظالم سلطان کے سامنے حق بات کہنا ہے۔

۱۹۹۵۔ حدثنا القاسم بن دينار الكوفي نا عبد الرحمن ابن مصعب ابو يزيد نا اسرائيل عن محمد بن حجاجة عن عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نِ الْحُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةَ عَدْلِ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

(۱) یہ حدیث امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے وجوب پر دلالت کرتی ہے چنانچہ علماء اسے فرض کفایہ قرار دیتے ہیں۔ واللہ اعلم (مترجم)

اس باب میں ابوامامہؓ بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ ابوسعیدؓ کی حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۱۴۰۵۔ سُؤَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا

باب ۱۴۰۵۔ رسول کریم ﷺ کی امت کے لیے تین دعائیں۔

فِي أُمَّتِهِ

۱۹۹۶۔ حدثنا محمد بن بشار نا وهب بن جرير ثنا ابى قال سمعت النعمان بن راشد عن الزهرى عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن خباب بن الارت عن ابيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوة فاطلها فقالوا يا رسول الله صليت صلوة لم تكن تصليتها قال اجل انها صلوة رغبة و رهبة انى سالت الله فيها ثلاثا فاعطاني اثنتين ومنعني واحدة سالته ان لا يهلك امتى بسنة فاعطانيها وسالته ان لا يسلب عليهم عدوا من غيرهم فاعطانيها وسالته ان لا يذيق بعضهم باس بعض فمنعنيها

۱۹۹۶۔ حدثنا محمد بن بشار نا وهب بن جرير ثنا ابى قال سمعت النعمان بن راشد عن الزهرى عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن خباب بن الارت عن ابيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوة فاطلها فقالوا يا رسول الله صليت صلوة لم تكن تصليتها قال اجل انها صلوة رغبة و رهبة انى سالت الله فيها ثلاثا فاعطاني اثنتين ومنعني واحدة سالته ان لا يهلك امتى بسنة فاعطانيها وسالته ان لا يسلب عليهم عدوا من غيرهم فاعطانيها وسالته ان لا يذيق بعضهم باس بعض فمنعنيها

یہ حدیث حسن ہے اور اس باب میں سعد اور ابن عمرؓ سے بھی حدیثیں کی گئی ہیں۔

۱۹۹۷۔ حدثنا قتيبة نا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابه عن ابي اسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله زوى لى الارض فرأيت مشارقها ومغربها وان امتى سيبلغ ملكها ما زوى لى منها وأعطيت الكنزىن الأحمر والأبيض وانى سالت ربى لامتنى ان لا يهلكها بسنة عامية وان لا يسلب عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وان ربى قال يا محمد انى اذا قضيت قضاء فانه لا يرد وانى اعطيتك لامتنى ان لا اهلكهم بسنة عامية ولا اسلب عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من اقطارها اوقال من بين اقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبى

۱۹۹۷۔ حدثنا قتيبة نا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابه عن ابي اسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله زوى لى الارض فرأيت مشارقها ومغربها وان امتى سيبلغ ملكها ما زوى لى منها وأعطيت الكنزىن الأحمر والأبيض وانى سالت ربى لامتنى ان لا يهلكها بسنة عامية وان لا يسلب عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وان ربى قال يا محمد انى اذا قضيت قضاء فانه لا يرد وانى اعطيتك لامتنى ان لا اهلكهم بسنة عامية ولا اسلب عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من اقطارها اوقال من بين اقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبى

بعض لوگ دوسروں کو ہلاک کریں گے اور انہیں قید کریں گے۔

بَعْضُهُمْ بَعْضًا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۴۰۶۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الْفِتْنَةِ

۱۹۹۸۔ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ الْبَصْرِيُّ عَنْ

عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ نَا مُحَمَّدَ بْنَ حَجَّادَةَ عَنْ

رَجُلٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أُمِّ مَالِكِ الْبَهْرِيَّةِ قَالَتْ ذَكَرَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِتْنَةً فَقَرَّبَهَا قَالَتْ

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ فِيهَا قَالَ رَجُلٌ فِي

مَا شَبَّهَتْهُ يَوْمَئِذٍ حَقَّهَا وَيَعْبُدُ رَبَّهُ وَرَجُلٌ اخْتَدَى بِرَأْسِ

فَرَسِهِ يُخَيِّفُ الْعَدُوَّ وَيُخَيِّمُونَ

باب ۱۳۰۶۔ جو شخص فتنے کی وقت ہو اس کے متعلق۔

۱۹۹۸۔ حضرت ام مالک بہریہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فتنے کا

ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ بہت قریب ہے۔ میں نے عرض کیا: اس دور میں

کون بہترین شخص ہوگا؟ فرمایا: وہ شخص جو اپنے جانوروں میں ہوگا اور

ان کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے رب کی عبادت کرے گا۔ دوسرا وہ شخص

جو اپنے گھوڑے کو پکڑ کر دشمن کو ڈرا رہا ہوگا اور وہ اسے ڈرا رہے ہوں

گے۔

اس باب میں ام ہشتر، ابوسعید خدری اور ابن عباسؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔ لیث بن ابی

سلمیم بھی اسے طاؤس سے اور وہ نبی اکرم ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔

۱۹۹۹۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ایک فتنہ ایسا ہوگا جو عرب کو گھیر لے گا، اور اس میں قتل ہونے والے

دو زخمی ہوں گے۔ اس میں تلوار سے زیادہ زبان شدید ہوگی۔ (یعنی اس

زمانے میں کلمہ حق کہنا کسی پر تلوار نکالنے سے زیادہ شدید ہوگا)۔ واللہ

اعلم (مترجم)

۱۹۹۹۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعَاوِيَةَ الْحَمَحِيُّ نَا

حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ لَيْثِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ

سَيْمِينَ كُوشَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ الْفِتْنَةُ تَسْتَنْظِفُ

الْعَرَبَ قَتْلَاهَا فِي النَّارِ اللَّيْسَانُ فِيهَا أَشَدُّ مِنَ السَّيْفِ

یہ حدیث غریب ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ زیاد بن سیمین کی اس حدیث کے علاوہ کسی حدیث کو ہم نہیں پہچانتے کہ وہ لیث سے

نقل کرتے ہوں۔ حماد بن سلمہ اسے لیث سے مرفوعاً اور حماد بن زیاد نبی سے موقوفاً نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۳۰۷۔ امانت داری کا اٹھ جانا۔

۲۰۰۰۔ حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے دو حدیثیں

بیان کیں ان میں سے ایک میں نے دیکھی اور دوسری کا انتظار کر رہا

ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: مردوں کے دلوں میں پہلے امانت (ایمان

اور پھر قرآن نازل ہوا ہے چنانچہ انہوں نے امانت کا حق قرآن سے

بھی پہچانا اور سنت سے بھی۔ پھر آنحضرت ﷺ نے ہمیں رفع امانت

کے متعلق بتاتے ہوئے فرمایا: کوئی شخص ایک مرتبہ سوائے گا تو اس کے

دل سے امانت کا اثر چھین لیا جائے گا اور صرف ایک دھبہ باقی رہ

جائے گا۔ پھر ایک مرتبہ اور سوائے گا تو امانت اور چھین لی جائے گی۔

باب ۱۴۰۷۔ مَا جَاءَ فِي رَفْعِ الْأَمَانَةِ

۲۰۰۰۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ أَبِي مَعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ

زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَيْنِ قَدْرَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَ

أَنَا أَنْتَظِرُ الْأَخَرَ حَدَّثَنَا أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَدْرِ

قُلُوبِ الرِّجَالِ ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْآنُ فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ

وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ الْأَمَانَةِ فَقَالَ

يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيُظَلُّ

أَثَرُهَا مِثْلَ الْوَسْكِ ثُمَّ يَنَامُ نَوْمَةً فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ

اور اس کا اثر گھنے کے برابر رہ جائے گا جیسے کہ تم انگارے کو اپنے پاؤں پر لڑھکا دو اور وہ چھالا بن جائے لیکن اس میں کچھ نہ ہو۔ (۱) پھر آپ ﷺ نے ایک کنکری اٹھائی اور اسے اپنے پاؤں پر لڑھکا کر دکھایا پھر فرمایا: جب صبح ہوگی تو لوگ خرید و فروخت کر رہے ہوں گے اور کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ امانت کو ادا کرے یہاں تک کہ کہا جائے گا: فلاں قبیلے میں ایک شخص امین ہے اور یہاں تک کہ کسی کی تعریف میں اس طرح کہا جائے گا: کتنا چست و چالاک آدمی ہے (یعنی کاروبار وغیرہ میں) جب کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ راوی کہتے ہیں بے شک مجھ پر ایسا زمانہ آیا کہ میں بلا خوف و خطر خرید و فروخت کیا کرتا تھا۔ اگر کسی مسلمان کے پاس میرا حق رہ جاتا تو وہ خود مجھے واپس کر دیتا اور اگر یہودی اور نصرانی ہوتا تو ان کے سردار ہمیں ہمارا حق دلواتے۔ (یعنی آنحضرت ﷺ کا زمانہ) لیکن آج کل میں کسی سے معاملات نہیں کرتا۔ ہاں البتہ فلاں اور فلاں شخص سے کر لیتا ہوں۔

فَيَطْلُ أَثَرَهَا مِثْلَ أَثَرِ الْمَجْلِيِّ كَحَجْمٍ دَخَرَجْتَهُ عَلَى رَجُلِكَ فَفَقَطَّتْ فِتْرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ أَخَذَ حَصَاةً فَدَخَرَجَهَا عَلَى رَجُلِهِ فَقَالَ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَّبِعُونَ لَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ حَتَّى يُقَالَ إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا وَحَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ مَا أَجْلَدَهُ وَأَطْرَفَهُ وَاعْقَلَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ قَالَ وَلَقَدْ أَتَى عَلِيٌّ زَمَانَ وَمَا أَبَالِي أَيْكُمْ بَايَعْتُ فِيهِ لِأَنَّ كَانَ مُسْلِمًا لِيَرُدَّنَهُ عَلَيَّ دِينَهُ وَلَئِنْ كَانَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا لِيَرُدَّنَهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ فَمَا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ أَبَايِعُ مِنْكُمْ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۴۰۸۔ لَتَرَكَبَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

۲۰۰۱۔ حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي نا سفيان عن الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي أنَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَرَجَ إِلَى حُنَيْنٍ مَرَّ بِشَجْرَةٍ لِلْمُشْرِكِينَ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ يُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمُ الْهَبَةُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَرَكَبَنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

باب ۱۴۰۸۔ ام سابقہ کی عادات اس امت میں بھی ہوں گی۔ ۴۰۰۱۔ حضرت ابو واقد لیثی فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم ﷺ غزوہ حنین کے لیے نکلے تو مشرکوں کے ایک درخت پر سے گزر ہوا اسے ذات انواط کہتے تھے۔ مشرکین اس پر اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہمارے لیے بھی ذات انواط بنا دیجئے جیسے ان کے لیے ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: سبحان اللہ یہ تو اسی طرح ہے جیسے قوم موسیٰ نے ان سے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم لوگ ام سابقہ کے افعال کے مرتکب ہو گے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابو واقد لیثی کا نام حارث بن عوف ہے۔ اس باب میں ابوسعید اور ابو ہریرہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔

باب ۱۴۰۹۔ رندوں کے کلام کے متعلق۔

باب ۱۴۰۹۔ مَا جَاءَ فِي كَلَامِ السَّبَاعِ

(۱) یہ مثال آپ ﷺ نے اس شخص کے متعلق بیان کی جس کے دل سے امانت نکل چکی ہوگی کہ وہ اس پھالے کی طرح بلند مرتبے والا معلوم ہوگا لیکن حقیقت میں اس میں امانت کا نام بھی نہیں ہوگا۔ (مترجم)

۲۰۰۲- حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی۔ جب تک درندے انسانوں سے بات نہیں کریں گے اور جب تک کسی شخص سے اسکے کوڑے کو پھندنا اور اس کا تمس وغیرہ بات نہیں کریں گے مزید یہ کہ اس کی ران اسے یہ بھی بتائے گی کہ اسکی عدم موجودگی میں اس کی بیوی نے کیا کیا

۲۰۰۲- حدثنا سفيان بن وكيع نا ابي عن القاسم بن الفضل نا ابو نصره العدي عن ابي سعيد بن الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذئبي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس وحتى يكلم الرجل عدته سوطه وشراك نعله وتخبيره فخذته بما أحدث أهله بعده

اس باب میں ابو ہریرہؓ سے بھی منقول ہے۔ مذکورہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ ہم اسے قاسم بن فضل کی روایت سے جانتے ہیں اور یہ ثقہ اور مامون ہیں۔ انہیں یحییٰ بن سعید اور عبد الرحمن بن مہدی ثقہ کہتے ہیں۔

باب ۱۴۱۰- چاند کے پھٹنے کے متعلق

۲۰۰۳- حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں چاند پھٹا اور آپ ﷺ نے فرمایا: گواہ ہو جاؤ۔ (۱)

باب ۱۴۱۰- مَا جَاءَ فِي انْشِقَاقِ الْقَمَرِ

۲۰۰۳- حدثنا محمود بن غيلان نا ابو داود عن شعبة عن الاعمش عن مُجاهد عن ابن عمر قال انفلق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشهدوا

اس باب میں ابن مسعودؓ، انسؓ اور جبر بن مطعمؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۴۱۱- زمین کے دھسنے کے متعلق۔

۲۰۰۴- حضرت حذیفہ بن اسیدؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنے حجرے سے ہم لوگوں کو قیامت کے متعلق بات چیت کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی۔ جب تک تم دس نشانیاں نہ دیکھ لو۔ ۱- سورج کا مغرب سے طلوع ہوتا۔ ۲- یا جوج، ماجوج ۳- جانور کا نکلنا۔ ۴- تین جگہ سے زمین کا دھسنا مشرق۔ ۵- مغرب اور ۶- جزیرہ عرب میں ۷- عدن کی جڑ سے آگ کا نکلنا جو آدمیوں کو ہانکنے لگی یا فرمایا: اکٹھا کرے گی اور ان کے ساتھ جہاں وہ رات گزاریں رات گزارے گی اور جہاں وہ قیلولہ کریں گے یعنی دو پہر گزاریں گے وہیں وہ بھی ٹھہرے گی۔ (۲)

باب ۱۴۱۱- مَا جَاءَ فِي الْخَسْفِ

۲۰۰۴- حدثنا بندار نا عبد الرحمن بن مهدى نا سفيان عن فرات الفزاز عن ابي الطفيل عن حذيفة بن أسيد قال أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرقفة ونحن ننذا كرا الساعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات طلوع الشمس من مغربها ويا جوج و ما جوج والذابة وثلاث خسوف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسوف بجزيرة العرب وذا تخرج من قعر عدن نسف الناس أو تخشى الناس

(۱) چاند کا پھٹنا قیامت کی نشانی بھی ہے اور آنحضرت ﷺ کا حجرہ بھی چٹا بچھ جب کفار مکہ نے حجرہ طاب کیا تو آپ ﷺ نے انہیں چاند کا پھٹنا بطور مجزہ دکھایا اور فرمایا: گواہ رہنا لیکن کفار نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے ہم پر جادو کر دیا ہو لہذا مسافروں سے پوچھا تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی۔ واللہ اعلم (مترجم)

(۱) باقی نشانوں کے لیے اس حدیث کی توضیح ملاحظہ کیجئے اور ان کی تفسیر اس باب کے آخر میں مذکور ہے۔ (مترجم)

فَتَبَيَّنَتْ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا وَتَقَبَّلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا

محمود بن غیلان، کبج سے اور وہ سفیان سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں اور اس میں آٹھویں چیز دھواں زیادہ نقل کرتے ہیں۔ ہناد بھی۔ ابو احوص سے اور وہ فرات قزاز سے کبج کی سفیان سے منقول حدیث کے مثل نقل کرتے ہیں۔ محمود بن غیلان، ابو داؤد طیالسی سے وہ شعبہ سے اور مسعودی سے اور وہ فرات قزاز سے عبد الرحمن کی سفیان سے منقول حدیث کی مانند نقل کرتے ہوئے نویں، نشانی دجال کا ظہور اور دھویں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ اور ابو موسیٰ، ابو نعمان سے وہ شعبہ سے اور وہ فرات سے شعبہ کی حدیث کے مثل نقل کرتے ہوئے دسویں نشانی بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک ہوا ہے جو انہیں اڑا کر دریا میں پھینک دے گی یا زردل سیسی بن مریم ہے۔ اس باب میں علیؑ، ابو ہریرہؓ، ام سلمہؓ اور صفیہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۰۰۵۔ حدثنا محمود بن غیلان نا ابو نعیم نا سفیان عن سمة بن كهيل عن ابي ادريس المرهبي عن مسلم بن صفوان عن صفية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيت حتى يغزوا جيش حتى اذا كانوا بالبيداء او بببداة من الارض خسف باولهم واجرهم ولم ينج او سطهم قلت يا رسول الله فمن كره منهم قال يبعضهم الله على ما في انفسهم

۲۰۰۵۔ حضرت صفیہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لوگ اس گھر پر چڑھائی کرنے سے اس وقت تک باز نہیں آئیں گے جب تک ایک لشکر اس طرف آکر بیدار یا فرمایا بیدار کی زمین پر پہنچ کر پورے کا پورا دھنس نہیں جائے گا۔ ان میں سے کوئی بھی نجات نہیں پاسکے گا۔ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ جو لوگ ان لوگوں میں سے اس فعل کو برا سمجھیں گے؟ فرمایا: اللہ تعالیٰ انہیں ان کے دلوں کے حال کے مطابق اٹھائیں گے۔ (یعنی ان کی نیتوں پر دار و مدار ہوگا ورنہ یہاں تو سب ہلاک ہو جائیں گے)۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۰۰۶۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس امت کے آخر میں (یہ عذاب نازل ہوں گے) دھسنا، چہرے مسخ ہونا اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہونا۔ پھر کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ کیا ہم لوگ نیک لوگوں کی موجودگی کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے۔ فرمایا: ہاں اگر برائی غالب آجائے گی تو۔

۲۰۰۶۔ حدثنا ابو كريب نا صيفي بن ربيع عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في اخر هذه الامة خسف ومسح وقذف قالت قلت يا رسول الله انهلك وبنينا الصالحون قال نعم اذا ظهر الخبث

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے حضرت عائشہؓ کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ عبد اللہ بن عمر کے حافظ پر یحییٰ بن سعید اعتراض کرتے ہیں۔

توضیح: قیامت کی نشانیاں دو قسم کی ہیں ایک وہ جو قیامت کے قریب آنے کی علامت ہیں۔ جن میں سے رسول اللہ ﷺ کی بعثت سب سے پہلی نشانی ہے اور اس کے بعد باقی نشانوں میں سے دھواں، دجال کا نکلنا وغیرہ ہیں جب کہ دوسری قسم ان نشانوں کی ہے جو قیامت کے قائم ہونے پر دلالت کریں گی جیسے سورج کا مغرب سے نکلنا، زلزلے اور اس آگ کا نمودار ہونا ہے جو لوگوں کو گھیر کر حشر کی طرف لے جائے گی۔

حدیث میں جن دس نشانیوں کا ذکر ہے ان میں سے چند تفسیر طلب ہیں چنانچہ

(۱) دلہ الارض: سے مراد ایک عجیب الخلق اور نادر شکل کا جانور ہے جو مسجد الحرام میں صفا و مروہ کے درمیان سے نکلے گا۔ اس کی شکل چوپائے کی سی ہوگی اور لمبائی ساٹھ گز ہوگی۔ جب کہ بعض علماء اس کے متعلق یہ تفسیر کرتے ہیں کہ اس کا چہرہ انسانوں کی طرح، پاؤں اونٹ کی طرح، گردن گھوڑے کی طرح، دم چیل کی طرح، سرین ہرن کی طرح، سینگ بارہ سگے کی طرح اور ہاتھ بندر کی طرح ہوں گے۔ جب یہ نکلے گا تو صفایا ایک زلزلے سے پھٹ جائے گا اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا۔

(۲) یاجوج ماجوج: یہ دو قبیلوں کے نام ہیں جنہیں ان کے فساد اور لوٹ مار کی وجہ سے ذوالقرنین نے ایک دیوار سے بند کر دیا تھا تاکہ لوگ ان کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ قیامت کے قریب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ باہر نکل آئیں گے۔

(۳) آگ جو عدن سے نکلے گی: بعض حضرات کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ اس کی ابتداء شام سے ہوگی۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ ملک شام کو اس قدر وسیع و عریض کر دیا جائے کہ پورے عالم کے لوگ اس میں جمع ہو جائیں گے۔

(۴) دھوئیں کی نشانی کے متعلق علماء کا کہنا ہے کہ یہ بہت بڑا دھواں ہے جو مشرق سے مغرب تک تمام زمین پر چھا جائے گا۔ اور چالیس روز تک چھایا رہے گا۔ جس کے اثر سے منافقین و کفار بیہوش ہو جائیں گے، جب کہ مسلمان صرف دماغ و حواس کی کدورت اور زکام میں مبتلا ہوں گے۔

(۵) ایک ایسی ہوا چلے گی جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ لوگ کفار ہوں گے اور ان کو ہانکنے والی آگ اس ہوا کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی تاکہ ان کفار کو سمندر میں دھکیلنے کا عمل تیزی سے پورا ہو۔

(۶) دھننے کے عذاب: ابن مالک کہتے ہیں کہ عذاب کے طور پر زمین کا دھنس جانا مختلف زمانوں اور مختلف علاقوں میں واقع ہو چکا ہے لیکن احتمال ہے کہ یہ یقین خسوف ظاہر ہوں گے اور پہلوں سے زیادہ شدید ہوں گے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۱۳۱۲۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔

۲۰۰۷۔ حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں کہ میں غروب آفتاب کے بعد مسجد میں داخل ہوا تو آنحضرت ﷺ تشریف فرما تھے۔ فرمانے لگے: ابو ذر جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا: یہ سجدے کی اجازت لینے کے لیے جاتا ہے اور اسے اجازت دے دی جاتی ہے گویا کہ پھر حکم دیا جائے گا کہ وہیں سے طلوع کرو جہاں سے آئے ہو۔ اس طرح وہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی۔ ”ذٰلِكَ مُسْتَقَرُّهَا“ یعنی یہی اس کا مستقر ہے راوی کہتے ہیں کہ یہ ابن مسعودؓ کی قراءت ہے۔

باب ۱۴۱۲۔ مَا جَاءَ فِي طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا  
۲۰۰۷۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ أَتَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ لِتَسْتَأْذِنَ فِي السُّجُودِ فَيُؤَذَّنُ لَهَا وَكَانَهَا قَدْ قِيلَ لَهَا اطَّلَعِي مِنْ حَيْثُ جَعَلْتَ فَتَطَّلَعُ مِنْ مَغْرِبِهَا قَالَ ثُمَّ قَرَأَ ذَلِكَ مُسْتَقَرًّا لَهَا وَقَالَ ذٰلِكَ قِرَاءَةُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں صفوان بن صفوان بن عسال، حذیفہ بن اسید، انس اور ابو موسیٰ سے بھی احادیث منقول ہیں۔

باب ۱۳۱۳۔ یاجوج ماجوج کا نکلنا

۲۰۰۸۔ حضرت زینب بنت جحش فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ

باب ۱۴۱۳۔ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ يَاجُوجَ وَمَا جُوجَ  
۲۰۰۸۔ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ

نیند سے بیدار ہوئے تو آپ ﷺ کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا پھر آپ ﷺ نے تین مرتبہ ”لا الہ الا اللہ“ پڑھا اور فرمایا: عرب کے لیے اس شر سے ہلاکت ہے جو قریب ہو گیا ہے۔ آج کے دن یا جوج ماجوج کو روکنے والی دیوار میں اس کے برابر سوراخ ہو گیا ہے اور پھر آپ ﷺ نے انگلی سے گول دائرے کا نشان بنا کر دکھایا۔ زینب فرماتی ہیں: میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! ہم صالحین کے ہونے کے باوجود ہلاک کر دیئے جائیں گے۔ فرمایا: ہاں! اگر برائی غالب ہو جائے گی تو۔

وغير واحد قالوا اخبرنا سفیان عن الزهر عن عروة عن زينب بنت ابى سلمة عن حبيبة عن ام حبيبة عن زينب بنت جحش قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوم محمرا وجهه وهو يقول لا اله الا الله يرددها تلك مرات ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه وعقد عشرًا قالت زينب قلت يا رسول الله افسهلك وفتينا الصالحون قال نعم اذا كفر الخبيث

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سفیان نے اسے جید قرار دیا ہے۔ حمیدی، سفیان کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں نے زہری کی اس سند سے چار عورتوں کو یاد کیا ہے۔ زینب بنت ابوسلمہ کو جو حبیبہ سے نقل کرتی ہیں اور یہ دونوں نبی کریم ﷺ کی بیویاں ہیں۔ معمر، زہری سے یہی حدیث نقل کرتے ہوئے حبیبہ کا ذکر نہیں کرتے۔

باب ۱۴۱۴۔ خوارج کے متعلق (۱)

باب ۱۴۱۴۔ ماجاء فی فرقة المارقة

۲۰۰۹۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آخری زمانے میں ایک قوم پیدا ہوگی جس میں جوان جوان کم عقل لوگوں کی کثرت ہوگی۔ وہ لوگ قرآن تو پڑھیں گے لیکن یہ ان کے خلق سے نیچے نہیں اترے گا یہ لوگ (رسول کریم ﷺ) والی بات کہیں گے لیکن دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے۔

۲۰۰۹۔ حدثنا ابو كريب نا ابو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في اخر الزمان قوم احدث الاسنان سفهاء الاحلام بقرء ون القرآن لا يجاوز تراقيهم يقولون من قول خير البرية يمعرون من الدين كما يمعرون السهم من الرمية

اس باب میں علیؑ، ابوسعیدؓ اور ابوذرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس حدیث کے علاوہ بھی کئی حدیثوں میں ان کے اوصاف مذکور ہیں کہ یہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن یہ ان کی ہنسی سے تجاوز نہیں کرے گا اور دین سے اس طرح نکل جائیں گے۔ جیسے تیر شکار سے۔ یہ درحقیقت خوارج کا فرقہ حرور یہ اور دوسرے خوارج ہیں۔

باب ۱۴۱۵۔ اشرہ کے متعلق (۲)

باب ۱۴۱۵۔ ماجاء فی الاثره

۲۰۱۰۔ حضرت اسید بن حذیر فرماتے ہیں کہ ایک انصاری نے عرض کیا:

۲۰۱۰۔ حدثنا محمود بن غيلان نا ابو داؤد نا

(۱) خوارج ایک فرقہ ہے جس کا ظہور حضرت علیؑ کے زمانے میں مسئلہ تحکیم سے ہوا۔ یہ لوگ حضرت علیؑ، حضرت معاویہؓ، ابوموسیٰؓ، عمرو بن عاصؓ اور صحابہ کی ایک بڑی جماعت کو کافر سمجھتے ہیں۔ نعوذ باللہ انہیں مارتا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی صفت میں حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: ”يمعرون من الدين“ جب کہ خوارج کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے حضرت علیؑ کے خلاف خروج کیا اور علم بغاوت بلند کیا۔ حرورہ ایک جگہ کا نام ہے جس میں یہ لوگ جا کر آباد ہوئے۔ صاحب اشاء کہتے ہیں کہ ان کی باقیات میں سے قرامطہ، باطنیہ اور اسماعیلیہ ہیں۔ بعض علماء ان کے پندرہ فرق اور بعض اس سے بھی زیادہ بیان کرتے ہیں ان کی اکثریت عمان، موصل، حضرموت اور نواحی عرب میں آباد ہے۔ (مترجم)

(۲) اشرہ سے مراد لوگ ہیں جو صحابہ کرامؓ پر دوسرے لوگوں کو مقدم کریں گے۔ واللہ اعلم (مترجم)

یا رسول اللہ ﷺ آپ نے فلاں شخص کو استعمال کیا جب کہ مجھ سے یہ کام نہیں لیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: بے شک تم لوگ میرے بعد اثرہ و دیکھو گے لہذا مجھ سے حوض پر ملاقات کرنے تک صبر کرنا۔

شعبة عن قتادة نا انس بن مالك عن أسيد بن حضير أن رجلاً من الأنصار قال يا رسول الله استعملت فلاناً ولم تستعملني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۰۱۱۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم لوگ میرے بعد اثرہ بھی دیکھو گے اور ایسے بہت سے کام دیکھو گے جنہیں تم اچھا نہیں سمجھو گے۔ صحابہؓ نے پوچھا: آپ ﷺ میں اس وقت کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا: تم ان حاکموں کا حق ادا کرنا (یعنی ان کی اطاعت کرنا اور ان کے خلاف بغاوت نہ کرنا اور اپنا حق خدا سے مانگنا)

۲۰۱۱۔ حدثنا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد عن الاعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون بعدي أثره وأموراً تنكرونها قالوا فما تأمرنا قال أدوا إليهم حقهم وأسألوا الله الذي لكم

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۴۱۶۔ آپ ﷺ کا صحابہؓ کو قیامت تک کی خبریں دینے کے متعلق

باب ۱۴۱۶۔ ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة

۲۰۱۲۔ حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ نے عصر کی نماز پڑھائی اور پھر خطاب فرمایا جس میں آپ ﷺ نے قیامت تک واقع ہونے والی کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ چنانچہ جس نے یاد کر لیا، یاد کر لیا اور جو بھول گیا بھول گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: دنیا بڑی سرسبز و شاداب اور میٹھی ہے اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو آئندہ آنے والے لوگوں کا خلیفہ بنانے والے ہیں پھر وہ دیکھیں گے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو، خبردار: دنیا اور عورتوں سے پرہیز کرو۔ خبردار: کسی شخص کو کسی چیز کا علم ہونے کے بعد لوگوں کی ہیبت حق بات کہنے سے باز نہ رکھے۔ راوی کہتے ہیں کہ ابو سعید یہ حدیث بیان کرتے ہوئے رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ کی قسم ہم بہت چیزوں سے ڈر گئے آپ نے فرمایا: جان لو کہ قیامت کے دن ہر عہد شکن کے لیے اس کی عہد شکنی کے مطابق جھنڈا نصب کیا جائے گا اور امام عام سے بد عہدی کرنے والا سب سے بڑا عہد شکن ہے اس کا جھنڈا اس کی پشت پر لگایا جائے گا۔ ابو سعید فرماتے ہیں کہ اس دن جو چیزیں ہم نے یاد کیں ان میں آپ ﷺ کا یہ فرمان بھی

۲۰۱۲۔ حدثنا عمران بن موسى القزاز البصرى نا حماد بن زيد نا على بن زيد أبى عن نصره عن أبى سعيد بن الخدرى قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً صلوة العصر بنهار ثم قام خطيباً فلم يدع شيئاً يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه فكان فيما قال إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء وكان فيما قال ألا لا تمنعن رجلاً هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه قال فبكى أبو سعيد فقال قد والله رأينا أشياء فهبنا وكان فيما قال ألا إنه ينصب لكل غدير لواء يوم القيامة بقدر غدرته ولا غدره أعظم من غدره إمام عامه يركز لواءه عند إسته وكان فيما حفظنا يومئذ ألا إن

بَنِي آدَمَ خُلِقُوا عَلَى طَبَقَاتٍ شَتَّى فَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَى مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَى كَافِرًا وَيَمُوتُ كَافِرًا وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَى مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ كَافِرًا وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَى كَافِرًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا أَلَا وَإِنَّ مِنْهُمْ بَطِيئَ الْغَضَبِ سَرِيعَ الْفِيءِ وَمِنْهُمْ سَرِيعَ الْغَضَبِ سَرِيعَ الْفِيءِ فَتِلْكَ بِتِلْكَ أَلَا وَإِنَّ مِنْهُمْ سَرِيعَ الْغَضَبِ بَطِيئَ الْفِيءِ أَلَا وَخَيْرُهُمْ بَطِيئَ الْغَضَبِ سَرِيعَ الْفِيءِ وَشَرُّهُمْ سَرِيعَ الْغَضَبِ بَطِيئَ الْفِيءِ أَلَا وَإِنَّ مِنْهُمْ حَسَنَ الْقَضَاءِ حَسَنَ الطَّلَبِ وَمِنْهُمْ سَيِّئَ الْقَضَاءِ حَسَنَ الطَّلَبِ وَمِنْهُمْ حَسَنَ الْقَضَاءِ سَيِّئَ الطَّلَبِ فَتِلْكَ بِتِلْكَ أَلَا وَإِنَّ مِنْهُمْ سَيِّئَ الْقَضَاءِ سَيِّئَ الطَّلَبِ أَلَا وَخَيْرُهُمْ حَسَنَ الْقَضَاءِ حَسَنَ الطَّلَبِ أَلَا وَشَرُّهُمْ سَيِّئَ الْقَضَاءِ سَيِّئَ الطَّلَبِ أَلَا وَإِنَّ الْغَضَبَ جَمْرَةٌ فِي قَلْبِ ابْنِ آدَمَ أَمَا رَأَيْتُمْ إِلَى حُمْرَةَ عَيْنِيهِ وَإِنْفَاخَ أَوْدَاجِهِ فَمَنْ أَحْسَبَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَلْصِقْ بِالْأَرْضِ قَالَ وَجَعَلْنَا نَلْتَفِتُ إِلَى الشَّمْسِ هَلْ بَقِيَ مِنْهَا شَيْءٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا فِيمَا مَضَى مِنْهَا إِلَّا كَمَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيمَا مِنْهُ

یہ حدیث حسن ہے۔

تھا کہ آگاہ ہو جاؤ! انسان کئی طبقات پر پیدا ہوئے ہیں ان میں سے بعض مومن پیدا ہوتے ہیں مومن ہی کی حیثیت سے زندہ رہتے ہیں اور مومن ہی مرتے ہیں جب کہ بعض کافر پیدا ہوتے ہیں اسی حیثیت سے جیتے ہیں اور اس پر ہی مرتے ہیں، بعض ایسے بھی ہیں جو مومن ہی پیدا ہوتے ہیں اور اسی حیثیت سے جیتے ہیں لیکن مرتے کافر ہو کر ہیں۔ پھر ان کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کافر پیدا ہوتا ہے کافر بن کر زندگی گزارتا ہے لیکن خاتمہ ایمان پر ہو جاتا ہے۔ انہی میں سے کچھ ایسے ہیں جنہیں دیر سے غصہ آتا ہے اور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جب کہ بعض غصے کے بھی تیز ہوتے ہیں اور ٹھنڈے بھی جلدی ہو جاتے ہیں اور یہ دونوں برابر برابر ہیں۔ انہی میں ایسا طبقہ بھی ہے جو جلدی غصے میں آ جاتا ہے لیکن دیر سے اس کا اثر نراکل ہوتا ہے۔ ان میں سب سے بہتر دیر سے غصے میں آنے والے اور جلدی ٹھنڈے ہونے والے ہیں جب کہ سب سے بدتر جلدی غصہ میں آنے والے اور دیر سے ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ یہ بھی جان لو کہ ان میں بعض لوگ جلدی قرض ادا کرنے والے اور سہولت کے ساتھ ہی تقاضا کرنے والے ہیں (یعنی جب وہ کسی کو قرض دیتے ہیں) بعض قرض کی ادائیگی میں برے ہیں لیکن تقاضا حسن و خوبی ہی کے ساتھ کرتے ہیں۔ تیسرا طبقہ ایسا بھی ہے جو ادائیگی میں تو ٹھیک ہے لیکن تقاضے میں برا ہے جب کہ کچھ ایسے بھی جو مانگنے میں بھی برے ہیں اور ادا کرنے میں بھی صحیح نہیں۔ جان لو کہ ان میں سے سب سے بہتر بحسن و خوبی تقاضا کرنے والے اور ادا کرنے والے اور ان میں سے بدترین وہ ہیں جو دونوں چیزوں میں برے ہیں۔ خبردار! غضب ابن آدم کے دل میں ایک چنگاری ہے کیا تم اس کی آنکھوں کی سرنخی اور اس کی گردن کی رگوں کے پھولنے کو نہیں دیکھتے۔ لہذا اگر کسی کو غصہ آنے لگے تو زمین سے لپٹ جائے تاکہ اسے اپنی حیثیت کا یقین ہو جائے۔ راوی کہتے ہیں ہم نے سورج کو دیکھنا شروع کر دیا کہ کچھ باقی ہے یا غروب ہو گیا۔ چنانچہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جان لو! دنیا کی باقیات گزرے ہوئے زمانے کی بہ نسبت اتنی ہی رہ گئی ہیں جتنا تمہارا آج کا دن گزرے ہوئے پورے دن کی بہ نسبت۔

اس باب میں مغیرہ بن شعبہ، ابو یزید بن اخطب، حدیفہ اور ابو مریم بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ تمام راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے قیامت تک ہوئے والے واقعات کی خبر دی۔

باب ۱۴۱۷۔ مَا جَاءَ فِي أَهْلِ الشَّامِ

باب ۱۴۱۷۔ اہل شام کی فضیلت

۲۰۱۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نا ابوداؤد نا شعبة  
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِيكُمْ  
لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ  
خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ  
قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ هُمْ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ

۲۰۱۳۔ حضرت قرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر اہل شام خراب ہو جائیں تو پھر لوگوں میں بھی خیر و بھلائی نہیں نیز میری امت میں سے ایک فرقہ ایسا ہے جس کی ہمیشہ مدد و نصرت ہوتی رہے گی اور کسی کا ان کی مدد نہ کرنا انہیں نقصان نہیں۔ پہنچائے گا۔ یہاں تک کہ قیامت قائم ہو۔ امام بخاری علی بن مدینی سے نقل کرتے ہیں کہ یہ فرقہ محدثین کا ہے۔

اس باب میں عبد اللہ بن حوالہ، زید بن ثابتؓ، ابن عمرؓ اور عبد اللہ بن عمروؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۰۱۴۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نا يزيد بن هارون نا  
بَهْزُبْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ  
اللَّهِ آيْنَ تَأْمُرُنِي قَالَ هَهُنَا وَنَحَا بِيَدِهِ نَحْوَ الشَّامِ

۲۰۱۴۔ حضرت بہز بن حکیم اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ آپ ﷺ مجھے کہاں قیام کا حکم دیتے ہیں؟ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے اپنے دست مبارک سے شام کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا: اس طرف۔ (۱)

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۴۱۸۔ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ  
بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

باب ۱۴۱۸۔ میرے بعد کافر ہو کر ایک دوسرے کو قتل نہ کرنے لگ جانا۔

۲۰۱۵۔ حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ نا يحيى  
بن سعيد نا فضيل بن غزوان ثنا عكرمة عن ابن  
عبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا  
تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

۲۰۱۵۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرے بعد دوبارہ کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو۔

اس باب میں عبد اللہ بن مسعودؓ، جریرؓ، ابن عمرؓ، کرز بن علقمہؓ، وائلہ بن اسقعؓ اور صابجیؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۴۱۹۔ مَا جَاءَ أَنَّهُ تَكُونُ فِتْنَةُ الْقَائِدِ فِيهَا خَيْرٌ  
مِنَ الْقَائِمِ

باب ۱۴۱۹۔ ایسا قز جس میں بیٹھا رہنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا۔

۲۰۱۶۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ نا الليث عن عيَّاش بن عباس

۲۰۱۶۔ حضرت بسر بن سعیدؓ، سعد بن ابی وقاصؓ سے نقل کرتے ہیں کہ

(۱) شام کی فضیلت میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیمؓ نے بھی ہجرت کے لیے اسی کو اختیار کیا۔ پھر اکثر انبیاء و ہیں سے مبعوث ہوئے اور اس زمین میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

عثمان بن عفانؓ نے آنحضرت ﷺ کا یہ قول نقل کیا کہ فرمایا: ایک ایسا فتنہ آنے والا ہے جس میں بیٹھا رہنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر، کھڑا رہنے والا چلنے والے سے بہتر اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا: اگر کوئی میرے گھر میں داخل ہو اور مجھے قتل کرنے لگے تو میں کیا کروں؟ فرمایا: حضرت آدمؑ کے بیٹے ہابیل کی طرح ہو جاؤ جو اپنے بھائی کے ہاتھوں قتل ہوا۔

عن بکیر بن عبداللہ بن الأشج عن بسر بن سعید أنّ سعد بن ابی وقاص قال عند فتنۃ عثمان بن عفان أشهد أنّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال إنّها ستکون فتنۃ القاعد فیہا خیر من القائم والقائم خیر من الماشی والماشی خیر من الساعی قال آفرء یت إن دخل علی بیتی وبسط یدہ الی لیقتلنی قال کن کابن آدم

اس باب میں ابو ہریرہؓ، جناب بن اریثؓ، ابوبکرؓ، ابن مسعودؓ، ابو واقدؓ، ابو موسیٰؓ اور خرشہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے اور بعض راوی اسے لیث بن سعدؓ سے نقل کرتے ہوئے ایک راوی کا اضافہ کرتے ہیں۔ پھر یہ آنحضرت ﷺ کے واسطے سے سندوں سے منقول ہے۔

باب ۱۴۲۰۔ ایک فتنہ ایسا ہوگا جو اندھیری رات کی طرح ہوگا۔

باب ۱۴۲۰۔ ما جاء ستکون فتنۃ کقطع الیل المظلم

۲۰۱۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اعمال صالحہ میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ اندھیری رات کی طرح فتنے تم لوگوں کو گھیر لیں۔ جن میں انسان صبح مؤمن اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ پھر شام کو مؤمن ہوگا لیکن صبح تک کافر ہو جائے گا اور اپنے دین کو دنیا و فانی کے تھوڑے سے مال کے عوض بیچ دے گا۔

۲۰۱۷۔ حدثنا قتیبہ نا عبدالعزیز بن محمد عن العلاء بن عبدالرحمن عن ابیہ عن ابی ہریرۃ أنّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بادروا بالأعمال فتنۃ کقطع الیل المظلم یصبح الرجل مؤمناً ویمسی کافراً و یمسی مؤمناً و یصبح کافراً ینبع أحدہم دینہ بعرض من الدنیا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۰۱۸۔ حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ رات کو نیند سے بیدار ہو گئے اور فرمایا: سبحان اللہ: آج کی رات کتنے فتنے نازل ہوئے اور کتنے خزانے اترے۔ کون ہے جو ازواجِ مطہرات کو جگائے کہ بہت سی بدن کو اوڑھنے والیاں (۱) آخرت میں نگی ہوں گی۔

۲۰۱۸۔ حدثنا سويد بن نصر نا عبد اللہ بن المبارک نا معمر عن الزہری عن ہند بنت الحارث عن أم سلمة أنّ النبی صلی اللہ علیہ وسلم استیقظ لیلۃ فقال سبحان اللہ ما دأ انزل اللیلۃ من الفتنۃ ما دأ انزل من الخزائن ومن یوقظ صواحب الحجرات یارب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرۃ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(۱) ان عورتوں سے مراد ایسے کپڑے پہننے والی، مال حرام سے لباس بنانے والی اور اس طرح کپڑے پہننے والی عورتیں مراد ہیں جن کے اعضاء نہیں چھتے۔ (مترجم)

۲۰۱۹- حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے قریب ایسے فتنے واقع ہوں گے جو اندھیری رات کی طرح ہوں گے۔ ان میں انسان صبح مؤمن ہوگا تو شام کا کافر اور شام کو مؤمن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا۔ اور بہت سے لوگ تھوڑے سے مال کے عوض اپنا دین تک بیچ ڈالیں گے۔

۲۰۱۹- حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا اللَّيْثِ عَنْ يَزِيْدِ بْنِ اَبِي حَبِيْبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَكُوْنُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتْنٌ كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيْهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِيْ كَافِرًا وَيُمْسِيْ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيْعُ اَقْوَامٌ دِيْنَهُمْ بِعَرَضِ الدُّنْيَا

اس باب میں ابو ہریرہؓ، جناب نعمان بن بشیرؓ اور ابو موسیٰؓ بھی احادیث منقول کرتے ہیں یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔

۲۰۲۰- حضرت حسنؓ، آنحضرت ﷺ کے اس قول کے متعلق فرماتے تھے (صبح مؤمن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا..... الحدیث) کہ صبح کو اپنے بھائی کی جان، مال اور عزت کو اپنے اوپر حرام سمجھے گا لیکن شام کو حلال سمجھنے لگے گا۔ اور اسی طرح شام کو حرام سمجھتا ہوگا تو صبح حلال سمجھنے لگے گا۔ (۱)

۲۰۲۰- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا جَعْفَرِ بْنِ سَلِيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ هَذَا الْحَدِيْثِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِيْ كَافِرًا وَيُمْسِيْ مُؤْمِنًا وَ يُصْبِحُ كَافِرًا قَالَ يُصْبِحُ مُحْرَمًا لِدَمِ اَخِيْهِ وَعَرَضِهِ وَمَالِهِ وَيُمْسِيْ مُسْتَحِلًّا لَهٗ وَيُمْسِيْ مُحْرَمًا لِدَمِ اَخِيْهِ وَعَرَضِهِ وَمَالِهِ وَيُصْبِحُ مُسْتَحِلًّا لَهٗ

۲۰۲۱- حضرت وائل بن حجرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے ایک شخص کو یہ سوال کرتے ہوئے سنا کہ اگر ہم پر ایسے حاکم حکمرانی کرنے لگیں جو ہمیں ہمارا حق نہ دیں اور اپنا حق طلب کریں تو ہم کیا کریں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: سنو اور اطاعت کرو اس لیے کہ ان کا عمل ان کے ساتھ اور تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہوگا۔

۲۰۲۱- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَالُ نَا يَزِيْدِ بْنِ هَارُوْنَ نَا شُعْبَةَ عَنْ سَمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلٌ يَسْأَلُهٗ فَقَالَ اَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَيْنَا اُمْرَاءٌ يَمْنَعُوْنَا حَقَّنَا وَيَسْئَلُوْنَا حَقَّهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْمَعُوْا وَاطِيعُوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حَمَلُوْا وَعَلَيْكُمْ مَا حَمَلْتُمْ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۳۱- قتل کے متعلق

باب ۱۴۲۱- مَا جَاءَ فِي الْهَرْجِ

۲۰۲۲- حضرت ابو موسیٰؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمہارے بعد ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں علم اٹھالیا جائے گا اور ہرج کی کثرت ہوگی۔ عرض کیا: ہرج کیا ہے؟ فرمایا: قتل

۲۰۲۲- حَدَّثَنَا هِنَادُنَا أَبُو معاوية عن الاعمش عن شقيق عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ورأيكم أياما يرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج قالوا يا رسول الله ما الهرج قال القتل

اس باب میں ابو ہریرہ، خالد بن ولید اور معقل بن یسار سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۰۲۳۔ حضرت معقل بن یسار رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ قتل کے ایام میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے۔

۲۰۲۳۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ رَدَّ إِلَى مَعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةٍ فَرَدَّهُ إِلَى الْمُعَلَّى بْنِ يَسَارٍ رَدَّهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعِبَادَةُ فِي الْهَرَجِ كَهَجْرَةِ إِلَى

یہ حدیث صحیح غریب ہے ہم اسے صرف معقل بن یسار کی روایت سے جانتے ہیں۔

۲۰۲۴۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی تو پھر قیامت تک نہیں اٹھائی جائے گی۔

۲۰۲۴۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ أَيُّوبَ عَنِ أَبِي قَلَابَةَ عَنِ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثُوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَ السِّيفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۲۲۔ لکڑی کی تلوار بنانے کا حکم

۲۰۲۵۔ عدیرہ بنت ابہان بن صفی غفاری کہتی ہیں کہ حضرت علیؓ میرے والد کے پاس آئے اور انہیں لڑائی میں اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ میرے والد نے کہا: میرے دوست اور تمہارے چچا زاد بھائی رسول اکرم ﷺ نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ اگر لوگوں میں اختلافات ہو جائیں تو میں لکڑی کی تلوار بنا لوں۔ لہذا میں نے دو بنوائی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چلوں تو میں تیار ہوں۔ عدیرہ فرماتی ہیں کہ حضرت علیؓ نے ان کو چھوڑ دیا۔

باب ۱۴۲۲۔ مَا جَاءَ فِي اتِّخَاذِ السِّيفِ مِنْ حَسَبِ

۲۰۲۵۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا سَمْعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَدِيْسَةَ بِنْتِ أَهْبَانَ بْنِ صَيْفِيٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَتْ جَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَى أَبِي قَدْعَاهُ إِلَى الْخُرُوجِ مَعَهُ فَقَالَ لَهُ أَبِي إِنَّ خَلِيلِي وَأَبْنُ عَمَّتِكَ عَهْدَ إِلَيَّ إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ أَنْ اتَّجِدَ سَيْفًا مِنْ حَسَبٍ فَقَدْ اتَّخَذْتُهُ فَإِنْ شِئْتَ خَرَجْتُ بِهِ مَعَكَ قَالَتْ فَتَرَكْتُهُ

اس باب میں محمد بن سلمہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف عبداللہ بن عبید کی روایت سے

جانتے ہیں۔

۲۰۲۶۔ حضرت ابو موسیٰ، آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ کہ آپ ﷺ نے فرمایا: فتنے کے زمانے میں اپنی کمانیں توڑ دینا، زین کو کاٹ دینا اور اپنے گھروں ہی میں رہنا۔ جس طرح ہابیل بن آدم نے قتل ہونے پر صبر کیا تھا۔

۲۰۲۶۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَا سَهْلَ بْنَ حَمَادٍ نَا حَمَامُ نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَجَّادَةَ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثُرَوَانَ عَنِ هُزَيْلِ بْنِ شَرْحِبِيلَ عَنِ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْفِتْنَةِ كَسَبُوا فِيمَا قَسَبَكُمْ وَقَطَعُوا فِيهَا أَوْتَارَكُمْ وَالزَّمُوا فِيهَا أَجْوَانَ بِيوتِكُمْ وَكُونُوا كَأَبْنِ آدَمَ

(۱) ان کا مقصد یہی ہے کہ محرمات کو حلال سمجھنے لگے گا اور یہ کفر ہے۔ (مترجم)

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ عبد الرحمن بن ثروان، ابو قیس اودی کا نام ہے۔

باب ۱۴۲۳۔ مَا جَاءَ فِي أَشْرَاطِ السَّاعَةِ

باب ۱۳۲۳۔ قیامت کی علامات

۲۰۲۷۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا اور یہ حدیث میرے بعد کوئی ایسا شخص بیان نہیں کرے گا جس نے رسول اللہ ﷺ سے سنی ہو آپ ﷺ نے فرمایا: قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا۔ جہالت ظاہر وغالب ہو جائے گی۔ زنا رواج پکڑ جائے گا۔ شراب بکثرت استعمال ہوگی۔ عورتوں کی کثرت ہوگی اور مرد کم ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ پچاس عورتوں کا نگران ایک ہی مرد ہوگا۔

۲۰۲۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ نَا شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيُظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَفْسُقُوا الزَّانَا وَيَشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ وَيَقُلُّ الرِّجَالُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ

اس باب میں ابوموسیٰ اور ابو ہریرہ سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۰۲۸۔ حضرت زبیر بن عدی فرماتے ہیں کہ ہم انس بن مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حجاج سے ہونے والی شکایات بیان کیں فرمانے لگے۔ ہر سال سے اس کے بعد آنے والا سال بدتر ہوتا جائے گا۔ یہاں تک کہ قیامت آجائے گی۔ میں نے یہ آنحضرت ﷺ سے سنا۔

۲۰۲۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَفِيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَشَكَّوْنَا إِلَيْهِ مَا نَلْفَى مِنَ الْحَجَّاجِ فَقَالَ مَا مِنْ عَامٍ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرُّ مِنْهُ حَتَّى تَلْفُوا رَبِّكُمْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۰۲۹۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اس روئے زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے۔

۲۰۲۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ

یہ حدیث حسن ہے۔ محمد بن ثنیٰ اسے خالد بن حارث سے وہ حمید سے اور وہ انس سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں لیکن یہ روایت مرفوع نہیں۔ اور پہلے والی زیادہ صحیح ہے۔

۲۰۳۰۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک آبائی احمق لوگ دنیا کے سعادت مند لوگ شمار نہ ہونے لگیں گے۔

۲۰۳۰۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ح وَثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا اسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ الْأَشْهَلِيِّ

عَنْ حَدِيثِ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ اسْعُدُ النَّاسِ بِالذُّنْيَا لِكُحْمِ بْنِ لُكْحَمٍ

یہ حدیث حسن ہے۔ ہم اسے صرف عمرو بن عمرو کی روایت سے جانتے ہیں۔

۲۰۳۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: زمین اپنے جگر گوشوں کو تے کر دے گی یعنی اپنے خزانے اگل دے گی مثلاً سونے چاندی کے ستون وغیرہ پھر چور آئے گا، اور کہے گا کہ اسی کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹا گیا۔ پھر قاتل آئے گا اور کہے گا کہ اسی کے لیے میں نے قتل کیا اور پھر قاطع رحم آئے گا اور کہے گا کہ اسی کی وجہ سے میں نے قطع رحم کیا لہذا وہ لوگ اسے چھوڑ دیں گے اور اس میں سے کچھ نہیں لیں گے۔

۲۰۳۱۔ حدثنا واصل بن عبد الأعلى نا محمد بن فضيل عن ابيه عن ابي حازم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقىء الارض افلاذ كبدها امثال الاسطوان من الذهب والفضة قال فيحيى السارق فيقول في هذا قطعت يدي ويحيى القاتل فيقول في هذا قتلت ويحيى القاطع فيقول في هذا قطعت رجلي ثم يدعوناه فلا يأخذون منه شيئا

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ باب بلا عنوان۔

۲۰۳۲۔ حضرت علی بن ابی طالبؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر میری امت میں پندرہ خصلتیں آجائیں گی تو ان پر مصیبتیں نازل ہوں گی۔ پوچھا گیا: یا رسول اللہ ﷺ (ﷺ) وہ کیا ہیں؟ فرمایا: جب مال غنیمت دولت ہو جائے گا۔ امانت کو لوگ غنیمت سمجھنے لگیں گے، زکوٰۃ کو جرم مانہ سمجھا جائے گا۔ شوہر بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرے گا۔ نیز اپنے دوست کے ساتھ وفا اور باپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے گا، مسجد میں لوگ زور زور سے باتیں کریں گے قوم کا زعمیم ان کا گھسیا ترین آدمی ہوگا، کسی شخص کا اکرام اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے کیا جائے گا شراب پی جائے گی۔ ریشمی کپڑا پہنا جائے گا گانے والیاں اور باجے وغیرہ لے جائے جائیں گے اور امت کے آخری لوگ پہلوں پر لعنت بھیجیں گے۔ چنانچہ اس وقت لوگ عذابوں کے منتظر ہیں یا تو سرخ آندھی یا حسف (دھسنے کا عذاب) یا پھر چہرے مسخ ہو جانے والا عذاب۔

باب۔ ۲۰۲۴۔ حدثنا صالح بن عبد الله نا الفرخ بن فضالة ابو فضالة الشامي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عمر بن علي عن علي بن ابي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فعلت امتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء قيل وما هي يا رسول الله قال اذا كان المغنم ذولا والامانة مغنما والزكوة مغرما واطاع الرجل زوجته وعق امه وبر صديقته وحفا اباه وارزقتع الاصوات في المساجد وكان زعيم القوم اذلهم واكرم الرجل مخافة شره وشرب الخمر وليس الحرير واتخذت التيات والمعازف ولعن اجر هذه الامة اولها فلير تقبوا عند ذلك ريحا حمراء او خسفا او مسحا

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے حضرت علیؓ کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں نیز ہمیں علم نہیں کہ اسے فرخ بن فضالہ کے علاوہ کسی اور نے بھی بن سعید سے نقل کیا ہو۔ بعض محدثین فرخ کو ان کے حافظے کی وجہ سے ضعیف قرار دیتے ہیں۔ کعب اور کئی ائمہ ان سے احادیث نقل کرتے ہیں۔

۲۰۳۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب مال غنیمت کو دولت ٹھہرایا جائے، امانت کو غنیمت سمجھ لیا جائے، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جائے، غیر دینی علوم سکھائے جائیں، آدمی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے اسی طرح دوست کے ساتھ وفا اور باپ کے ساتھ بے وفائی کرنے لگے۔ لوگ مسجد میں زور زور سے باتیں کریں، قبیلے کا سردار فاسق ہو۔ قوم کا زعم گھنٹیا آدمی ہو، کسی شخص کی عزت اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے کی جائے، گانے والیاں اور باجے رواج پکڑ جائیں، شرابیں پی جائیں، اور امت کے آخری لوگ گزرے ہوؤں کو برا بھلا اور ان پر لعنت ملامت کرنے لگیں تو پھر وہ لوگ سرخ آندھی، زلزلے، خسف مسخ اور آسمان سے پتھر برسنے کے عذابوں کا انتظار کریں۔ اس وقت نشانیاں اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے کسی پرانی (موتیوں کی) لڑی کا دھاگہ ٹوٹ جائے اور وہ پے در پے گرنے لگیں۔ (یعنی قیامت کی نشانیاں)

۲۰۳۳۔ حدثنا علی بن حجر نا محمد بن یزید عن المستلم ابن سعید عن رمیح الجزامی عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إذا اتخذ الفیء ذولاً والأمانة مغنماً والزکوۃ مغرمًا وتعلم لغير الدین و اطاع الرجل امرأته وعق امه و اذنی صدیقہ واقضى اباه وظهرت الاصوات فی المساجد وساد القبیلۃ فاسقہم وكان زعیم القوم ارذلہم واکرم الرجل مخافۃ شرہ وظهرت القینات والمعازف وشربت الخمر ولعن اجر هذه الامۃ اولہا فلیر تقبوا عند ذلک ریحاً حمراء وزلزلة وخسفاً و مسخاً وقذفاً وایات تتابع کنظام بال قطع سلکة فتتابع

یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

۲۰۳۴۔ حضرت عمران بن حصینؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس امت میں (تین عذاب آئیں گے۔ خسف، مسخ اور قذف۔ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! کب؟ فرمایا: جب گانے والیوں اور باجوں کا رواج ہو جائے گا اور لوگ شرابیں پینے لگیں گے۔

۲۰۳۴۔ حدثنا عباد بن یعقوب الکوفی نا عبد اللہ بن عبد القدوس عن الاعمش عن ہلال بن یساف عن عمران بن حصین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی هذه الامۃ خسفٌ و مسخٌ وقذفٌ فقال رجلٌ من المسلمین یا رسول اللہ و متی ذلک قال اذا ظهرت القینات والمعازف وشربت الخمر

یہ حدیث غریب ہے اور اعمش سے بھی عبدالرحمن بن سابط کے حوالے سے منقول ہے لیکن یہ مرسل ہے۔

باب ۱۴۲۵۔ آنحضرت ﷺ کی بعثت قیامت کے قرب کی نشانی ہے۔

باب ۱۴۲۵۔ ماجاء فی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انا والساعة کھا تین

۲۰۳۵۔ مستورد بن شداد فہری، آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: میں اور قیامت ایک ساتھ مبعوث کیے گئے۔ لیکن میں اس پر درمیانی انگلی کی شہادت انگلی پر سبقت کی طرح سبقت لے گیا۔ (۱)

۲۰۳۵۔ حدثنا محمد بن عمر بن ہیاج الاسدی الکوفی نا یحیی بن عبدالرحمن الارحبی نا عبیدۃ بن الاسود عن محالد عن قیس بن ابی حازم

(۱) اس مثال کی توضیح یہ ہے کہ دونوں انگلیوں کی جڑ ایک ہی جگہ سے شروع ہوتی ہے جب کہ آخر میں درمیانی انگلی شہادت کی انگلی پر لمبائی میں سبقت لے جاتی ہے۔ اور شہادت کی انگلی کچھ پیچھے رہ جاتی ہے چنانچہ قیامت بھی اتنی ہی پیچھے رہ گئی ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

الْمُسْتَوْرِدِينَ شَدَادِ الْفِهْرِيِّ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُعْتَثُ أَنَا فِي نَفْسِ السَّاعَةِ فَسَبَقْتُهَا كَمَا سَبَقَتْ هَلِيبَهُ هَلِيبَهُ لِأَصْبَعِيهِ السَّبَابِيَةِ وَالْوُسْطَى

یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے مستور بن شداد کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

۲۰۳۶۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے پھر ابوداؤد نے اپنی شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا اور فرمایا: ان دونوں میں کتنا کم فرق ہے۔

۲۰۳۶۔ حدثنا محمد بن غيلان نا ابو داؤد انبانا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار أبو داؤد بالسبابة والوسطى فما فضل أحدهما على الأخرى

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۴۲۶۔ تریوں سے جنگ کے متعلق

باب ۱۴۲۶۔ مَا جَاءَ فِي قِتَالِ التُّرُكِ

۲۰۳۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ، رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم لوگ ایک ایسی قوم سے جنگ نہیں کرو گے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے پھر مزید فرمایا: کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ایسے لوگوں سے تمہاری جنگ نہ ہوگی جن کے چہرے ڈھالوں کی طرح چھپنے ہوں گے۔

۲۰۳۷۔ حدثنا سعيد بن عبدالرحمن وعبدالجبار بن العلاء قالنا نا سفیان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً يعالهم الشعر ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً كانوا وجوههم الممجان المطرقة

اس باب میں ابو بکر صدیقؓ، بریدہؓ، ابوسعیدؓ، عمرو بن تغلب اور معاویہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۴۲۷۔ کسریٰ کی ہلاکت کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہوگا۔

باب ۱۴۲۷۔ مَا جَاءَ إِذَا ذَهَبَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ

۲۰۳۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب قیصر و کسریٰ ہلاک ہو جائیں گے تو ان کے بعد نہ کوئی قیصر آئے گا اور نہ کسریٰ۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم لوگ قیصر و کسریٰ کے خزانے جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرو گے۔ (۱)

۲۰۳۸۔ حدثنا سعيد بن عبدالرحمان نا سفیان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذبي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(۱) قیصر، سلطان روم کا اور کسریٰ شاہ فارس کا لقب تھا۔ ان کے اکثر علاقے حضرت عمرؓ اور عثمان کے ادوار میں فتح ہوئے۔ (مترجم)

باب ۱۴۲۸۔ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِّن قَبْلِ الْحِجَازِ

۲۰۳۹۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا حُسَيْنَ بْنَ مُحَمَّدِ الْبَغْدَادِي، ثنا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي فَلَابَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَخْرُجُ نَارٌ مِّنْ حَضْرَمَوْتَ أَوْ مِّنْ نَّحْوِ بَحْرِ حَضْرَمَوْتَ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ تَحْشُرُ النَّاسَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنَا فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ

۲۰۳۹۔ حضرت سالم بن عبد اللہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حضر موت یا فرمایا: حضر موت کے سمندر کی طرف سے قیامت سے پہلے ایک آگ نمودار ہوگی جو لوگوں کو اکٹھا کرے گی۔ عرض کیا گیا: ہم لوگ اس وقت کیا کریں؟ فرمایا: شام میں سکونت اختیار کرنا۔

اس باب میں حذیفہ بن اسید، انس، ابو ہریرہ اور ابو ذر سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۴۲۹۔ مَا جَاءَ لِاتَّقَوْمِ السَّاعَةِ حَتَّى يَخْرُجَ كَذَّابُونَ

۲۰۴۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَرٍ عَنْ هَمَامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْبُعَتْ كَذَّابُونَ دَجَالُونَ قَرِيبٌ مِّنْ ثَلَاثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ

۲۰۳۹۔ میں کذاب ظاہر ہونے سے پہلے قیامت نہیں آئے گی۔

۲۰۴۰۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم میں کے قریب چھوٹے دجال نبوت کے دعویدار بن کر ظاہر نہیں ہوں گے۔

اس باب میں جابر بن سمرہ اور ابن عمر سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۲۰۴۱۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ نَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي فَلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثُوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِّنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى يَعْبُدُوا الْأَوْثَانَ وَأَنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي

۲۰۴۱۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی۔ جب تک میری امت کے کئی قبائل مشرکین کے ساتھ الحاق نہیں کر لیں گے اور جن کی پوجا تمیں کریں گے۔ پھر فرمایا: میری امت میں میں جھوٹے پیدا ہوں گے ہر ایک کا یہی دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔

یہ حدیث صحیح ہے۔

باب ۱۴۳۰۔ مَا جَاءَ فِي تَقْيِيفِ كَذَّابٍ وَمُبِيرٍ

۲۰۴۱۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ شَرِيكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُصْمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَقْيِيفِ

۲۰۴۱۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو تقییف میں سے ایک جھوٹا اور ایک ہلاک کرنے والا پیدا ہوں گے۔

كَذَّابٌ وَمُبِيرٌ

اس باب میں اسماء بنت ابی بکر سے بھی حدیث منقول ہے۔ عبدالرحمن بن واقد بھی شریک سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث ابن عمر کی روایت سے حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف شریک کی سند سے جانتے ہیں اور وہ راوی کا نام عبدالرحمن بن عصم بیان کرتے تھے جب کہ اسرائیل عبداللہ بن عصمہ کہتے ہیں کذاب سے مراد کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد مختار بن ابوعبید ثقفی اور ہلاک کرنے والے سے مراد حجاج بن یوسف ثقفی ہیں۔ ابوداؤد سلیمان بن مسلم لُحی، نصر بن شمیل سے اور وہ ہشام بن حسان سے نقل کرتے ہیں کہ حجاج کے قتل کیے ہوئے افراد کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار تک پہنچتی ہے۔

باب ۱۳۳۱۔ تیسری صدی کے متعلق۔

باب ۱۴۳۱۔ مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ الثَّالِثِ

۲۰۴۲۔ حضرت عمران بن حصین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سب لوگوں سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں پھر ان کے بعد والے، پھر ان کے بعد والے پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو موٹا ہونا چاہیں گے، موٹاپے کو پسند کریں گے۔ وہ لوگ گواہی طلب کیے بغیر گواہی دیں گے۔

۲۰۴۲۔ حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضِيلِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَدْرِكَ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ يَتَسَمَّنُونَ وَيُجْبُونَ السِّمْنَ يُعْطُونَ الشَّهَادَةَ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلُوا هَا

یہ حدیث محمد بن فضیل بھی اعمش سے وہ علی بن مدرک سے اور وہ ہلال بن یساف سے اور وہ عمران بن حصین سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ محمد بن فضیل کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے پھر یہی حدیث کئی سندوں سے عمران بن حصین ہی سے مرفوعاً کئی سندوں سے منقول ہے۔

۲۰۴۳۔ حضرت عمران بن حصین کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بہترین لوگ میری بعثت کے زمانے کے لوگ ہیں۔ پھر جوان کے بعد ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ تیسرے زمانے کے لوگوں کا ذکر کیا یا نہیں۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو بغیر طلب کیے گواہی دیں گے، خیانت کریں گے۔ امین نہیں ہوں گے اور ان میں موٹا پاز زیادہ ہوگا۔ (۱)

۲۰۴۳۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا ابُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْثَانَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ أُمَّتِي الْقُرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ فِيهِمْ ثُمَّ الَّذِي يَلُونَهُمْ قَالَ وَلَا أَعْلَمُ ذَكَرُ الثَّلَاثِ أَمْ لَا ثُمَّ يَنْشُوْهُمُ أَقْوَامٌ يَشْهَتُونَ وَلَا يُشْتَشْهَتُونَ وَيُحُوْنُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَعْشُوْهُمْ السِّمْنَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۳۲۔ خلفاء کے متعلق

باب ۱۴۳۲۔ مَا جَاءَ فِي الْخُلَفَاءِ

(۱) یعنی بزرگ اور اہل علم کہلوانا پسند کریں گے جس سے وہ درحقیقت متصف نہیں ہوں گے۔ جب کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد جمع امول ہے بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ لوگ زیادہ ہوتے جائیں گے اور زیادہ کھانے پینے کو پسند کریں گے۔ واللہ اعلم (مترجم)

۲۰۴۴۔ حدثنا ابو كريب نا عمر بن عبید عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون من بعدى اثنا عشر اميرا قال ثم تكلم بشيء لم افهمه فسالت الادي يلى فقال قال كلهم من قريش

۲۰۴۳۔ حضرت جابر بن سمره کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرے بعد بارہ (۱۲) امیر آئیں گے راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ ﷺ نے کوئی بات فرمائی لیکن میں سمجھ نہیں سکا۔ چنانچہ میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے جابر بن سمرہ سے منقول ہے۔ ابو کریب بھی اسے عمرو بن عبید سے وہ اپنے والد سے وہ ابو بکر بن ابوموسیٰ سے اور وہ جابر بن سمرہ سے اسی طرح مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث اس سند سے غریب ہے یعنی بواسطہ ابو بکر بن ابوموسیٰ۔ اس باب میں ابن مسعود اور عبد اللہ بن عمرو سے بھی احادیث منقول ہیں۔

۲۰۴۵۔ حدثنا بندار نا ابو داود نا حميد بن مهران عن سعد بن اوس عن زياد بن كسب العَدَوِيّ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي بَكْرَةَ تَحْتَ مَنِيرَابِنِ عَامِرٍ وَهُوَ يَخْطُبُ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ رَقَاقٌ فَقَالَ أَبُو بِلَالٍ انظُرُوا إِلَى أَمِيرِنَا يَلْبَسُ ثِيَابَ الْفَسَاقِ فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ أَسْكُتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ أَهَانَهُ اللَّهُ

۲۰۴۵۔ حضرت زیاد بن کسب عدوی کہتے ہیں کہ میں ابو بکر کے ساتھ ابن عامر کے منبر کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ خطبہ دے رہا تھا۔ اور اس کے جسم پر باریک کپڑے تھے۔ ابو بلال کہنے لگے: دیکھو ہمارا امیر فساق کے کپڑے پہنتا ہے۔ ابو بکر نے فرمایا: خاموش ہو جاؤ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ کی زمین میں حاکم کی اہانت کرے گا۔ اللہ اسے ذلیل کریں گے۔

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۱۴۳۳۔ مَا جَاءَ فِي الْخِلَافَةِ

باب ۱۴۳۳۔ خلافت کے متعلق۔

۲۰۴۶۔ حدثنا احمد بن منيع نا سريح بن النعمان نا حشر بن نباتة عن سعيد بن جمهان قال ثبتي ..... سفينه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في امتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك ثم قال لي سفينه امسك خلافة ابي بكر ثم قال وخلافة عمر وخلافة عثمان ثم قال امسك خلافة علي فوجدناها ثلاثين سنة قال سعيد فقلت له ان نبى امية يزعمون ان الخلافة فيهم قال كذبوا بنو الزرقاء بل هم ملوك من شر الملوك

۲۰۴۶۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری امت میں تیس سال تک خلافت رہے گی پھر بادشاہت آجائے گی۔ سفینہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کی خلافت گن لو یہ پورے تیس سال ہیں۔ سعید نے عرض کیا: بنو امیہ سمجھتے ہیں کہ خلافت انہی میں ہے۔ فرمایا: بنو زرقاء جھوٹ بولتے ہیں۔ بلکہ یہ لوگ تو بدترین بادشاہوں میں سے ہیں۔

شَرِّ الْمُلُوكِ

اس باب میں عمرؓ اور علیؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ دونوں حضرات بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے کسی شخص کو خلیفہ مقرر نہیں کیا۔ یہ حدیث حسن ہے اسے کئی راوی سعید بن جبہان سے نقل کرتے ہیں۔ ہم بھی اسے صرف انہی کی روایت سے جانتے ہیں۔

۲۰۴۷۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ عمر بن خطابؓ سے کہا گیا کہ آپؓ کسی کو خلیفہ بنا دیتے۔ فرمایا: اگر میں خلیفہ بنا تا ہوں تو ابو بکرؓ نے بھی کسی کو خلیفہ مقرر کیا تھا اور اگر نہ مقرر کروں تو اس میں رسول اللہ ﷺ کی اقتداء ہے کیونکہ آپ ﷺ نے کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا۔ اس حدیث میں طویل قصہ ہے۔

۲۰۴۷۔ حدثنا يحيى بن موسى نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قيل لبعمر بن الخطاب لو استخلفت قال إن استخلفت فقد استخلفت أبو بكر وإن لم استخلف لم يستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث قصة طويلاً

یہ حدیث صحیح ہے اور ابن عمرؓ سے کئی سندوں سے نقل کی گئی ہے۔

باب ۱۴۳۴۔ خلفاء قیامت تک قریش میں سے ہوں گے۔

باب ۱۴۳۴۔ مَا جَاءَ أَنَّ الْخُلَفَاءَ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ

۲۰۴۸۔ حضرت عبداللہ بن ابی ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ربیعہ کے کچھ لوگ عمرو بن عاصؓ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ بکر بن وائل (قبیلے) کے ایک شخص نے کہا کہ: قریش کو باز رہنا چاہیے ورنہ اللہ تعالیٰ خلافت کو جمہور عرب میں کر دیں گے۔ عمرو بن عاصؓ نے فرمایا: تم غلط کہتے ہو ایسا نہیں ہوگا کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قریش خیر و شر میں لوگوں کے حاکم ہوں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی۔

۲۰۴۸۔ حدثنا حسين بن محمد البصري نا خالد بن الحارث نا شعبة عن حبيب بن الزبير قال سمعتُ عبد الله بن أبي الهذيل يقول كان ناس من ربيعة عند عمرو بن العاص فقال رجل من بكرين وأئيل لستهمين قريش أولي جعلن الله في هذا الأمر في جمهور من العرب غيرهم فقال عمرو بن العاص كذبت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قريش ولاه الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة

اس باب میں ابن عمرؓ، ابن مسعودؓ اور جابرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۲۰۴۹۔ حضرت عمرو بن حکم کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہؓ کو آنحضرت ﷺ کا یہ قول نقل کرتے ہوئے سنا کہ دن و رات کا عرصہ بھی نہ گزرنے پائے گا کہ ایک قبیلہ حجابہ کا اک مولیٰ حکومت پر قابض ہو جائے گا۔ (۱)

۲۰۴۹۔ حدثنا محمد بن بشازنا ابو بكر الحنفی عن الحميد بن جعفر عن عمرو بن الحكم قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالى يقال له جهجاه

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۱۴۳۵۔ گمراہ حکمرانوں کے متعلق

باب ۱۴۳۵۔ مَا جَاءَ فِي الْأَيِّمَةِ الْمُضِلِّينَ

(۱) احادیث کے تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ حجابہ قبیلہ بنی قحطان سے ہوگا اور اس کی حکومت امام مہدی کے بعد ہوگی نیز یہ سلاطین صالحین میں سے ہوگا۔ واللہ اعلم (مترجم)

۲۰۴۹۔ حدثنا قتيبة نا حماد بن زيد عن ايوب عن ابى قلابه عن ابى اسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما اخاف على امتى ائمة مضلين قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتى على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى ياتي امر الله  
 یہ حدیث صحیح ہے۔

باب ۱۴۳۶۔ ماجاء في المهدي

۲۰۵۰۔ حدثنا عبيد بن اسباط بن محمد القرشي نا ابى نا سفيان الثوري عن عاصم بن بهدلة عن زب عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي يواطى اسمه اسمي

اس باب میں علیؑ، ابوسعیدؑ، ام سلمہؑ اور ابو ہریرہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۰۵۱۔ حضرت عبد اللہؓ، رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: اہل بیت میں سے میرے نام کا ایک شخص دینا کا والی ہوگا۔

۲۰۵۱۔ حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار نا سفيان بن عيينة عن عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلى رجل من اهل بيتي يواطى اسمه اسمي

۲۰۵۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر دنیا کی بقاء کا ایک دن باقی رہ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا کو اتنا طویل کر دیں گے کہ وہ شخص حکومت کرنے۔ (۲)

۲۰۵۲۔ قال عاصم وانا ابو صالح عن ابى هريرة قال لو لم يبق من الدنيا الا يومًا لطول الله ذلك اليوم حتى يلى  
 یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۰۵۳۔ حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ﷺ کے بعد کوئی بدعت شروع ہو جائے۔ چنانچہ ہم نے آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میری امت میں ایک مہدی آئے گا۔ جو پانچ، سات یا نو سال (راوی کو شک ہے)

۲۰۵۳۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر نا شعبة قال سمعت زيد العمي قال سمعت ابا الصديق الناجي يحدث عن ابى سعيد ن الحدرى قال خشيتنا ان يكون بعد نبينا حدث

ظہران ہے جو قرآن و سنت کے مطابق حکومت نہ کرے۔ واللہ اعلم (مترجم)

(۱) گمراہ حکمرانوں سے مراد ہر وہ

(۲) ان تینوں احادیث میں اس شخص سے مراد امام مہدی ہیں۔ (مترجم)

تک حکومت کرے گا۔ پھر اس کے پاس ایک شخص آئے گا۔ اور کہے گا  
اے مہدی مجھے دیجئے، مجھے دیجئے۔ چنانچہ وہ اسے اتنے دینا دیں گے  
جتنے اس میں اٹھانے کی استطاعت ہوگی۔

فَسَأَلْنَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي  
أُمَّتِي الْبَهْدِيَّ يَخْرُجُ يَعِيشُ حَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ تِسْعًا  
زَيْدُ الشَّامِكِ قَالَ قُلْنَا وَمَا ذَاكَ قَالَ سِنِينَ قَالَ فَيَجِيءُ  
إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ يَا مَهْدِيَّ أَعْطِنِي أَعْطِنِي قَالَ  
فَيُحْتَجِي لَهُ فِي نَوْبِهِ مَا اسْتَطَاعَ أَنْ يَحْمِلَهُ

یہ حدیث حسن ہے اور کئی سندوں سے ابوسعیدؓ سے مرفوعاً منقول ہے۔ اور ابوصدیق کا نام بکر بن عمر ہے انہیں بکر بن قیس بھی کہتے ہیں۔

باب ۱۳۳۷۔ عیسیٰ بن مریم کے نزول کے متعلق۔ (۱)

۲۰۵۳۔ حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس  
ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے عنقریب تم لوگوں  
میں عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے جو عدل و انصاف کے ساتھ حکومت  
کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیے کو  
موقوف کر دیں گے اور اتنا مال تقسیم کریں گے کہ لوگ قبول کرنا چھوڑ  
دیں گے۔

باب ۱۴۳۷۔ مَا جَاءَ فِي نَزْوِلِ عَيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ

۲۰۵۴۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا الْلَيْثِ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ  
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ  
يُنزَلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيُكْسِرُ  
الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَ يَضَعُ الْحِزْبَةَ وَيُفِيضُ  
الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۳۸۔ دجال کے متعلق

۲۰۵۳۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے  
فرمایا: نوح کے بعد کوئی نبی ایسا نہیں جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے  
سے ڈرایا نہ ہو اور میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں پھر آپ ﷺ نے اس کے  
اوصاف بیان کیے اور فرمایا: شاید مجھے دیکھنے اور سننے والوں میں سے  
بھی کوئی اسے دیکھے صحابہ نے عرض کیا: اس دن ہمارے دلوں کی کیا  
کیفیت ہوگی؟ فرمایا: آج کی طرح یا اس سے بھی بہتر۔

باب ۱۴۳۸۔ مَا جَاءَ فِي الدَّجَالِ

۲۰۵۴۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعَاوِيَةَ الْجَمْحَرِيُّ نَا  
حَمَادِ بْنِ سَلْمَةَ عَنْ خَالِدِ الْحِذَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَّاقَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ  
الْحَرَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ بَعْدَ نُوحٍ إِلَّا قَدْ أَنْذَرَ  
قَوْمَهُ الدَّجَالَ وَ إِنِّي أَنْذِرُكُمْوَهُ فَوَصَفَهُ لَنَا رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَعَلَّهُ سَيُؤَدِّرُكُمْ بَعْضُ  
مَنْ رَأَى أَوْ سَمِعَ كَلَامِي قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ  
قُلُوبُنَا يَوْمَئِذٍ فَقَالَ مِثْلَهَا يَعْنِي الْيَوْمَ أَوْ خَيْرٌ

(۱) حضرت عیسیٰ کے نازل ہونے سے مراد ان کا آسمان سے زمین پر اترنا ہے احادیث صحیحہ حضرت عیسیٰ کے قیامت کے نزدیک آسمان سے زمین پر تشریف  
لانے پر دلالت کرتی ہیں نیز یہ کہ وہ دین محمدی کی اتباع اور اسی کے مطابق اپنے تمام احکام و فرامین جاری کریں گے۔ اکثر روایات ان کی حکومت کی مدت  
چالیس سال تک بیان کرتی ہیں جب کہ بعض احادیث میں ۳۵ سال کا بھی تذکرہ ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ کی وفات ہوگی اور انہیں روضہ اقدس میں آنحضرت  
ﷺ کے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ واللہ اعلم (مترجم)

اس باب میں عبداللہ بن بسرؓ، عبداللہ بن مغفلؓ اور ابو ہریرہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اس حدیث کا صرف خالد حذاء کی روایت سے جانتے ہیں اور ابو عبیدہ کا نام عامر بن عبداللہ بن جراح ہے۔

۲۰۵۵۔ حدثنا عبد بن حميد نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قام رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَأَتْنِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَالَ فَقَالَ إِنِّي لَأُنذِرُكُمْ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ وَلَقَدْ أَنْذَرَ نُوحٌ قَوْمَهُ وَلَكِنْ سَأَقُولُ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَزُ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَزَ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَأَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَئِذٍ لِلنَّاسِ وَهُوَ يُحَذِّرُهُمْ فَمَنْتَهُ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَنْ نَرَى أَحَدًا مِنْكُمْ رَبَّهُ حَتَّى يَمُوتَ وَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَأُ مِنْ كَرِهِ عَمَلَهُ

۲۰۵۵۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ کھڑے ہوئے اور خطاب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ستائش بیان کرنے کے بعد دجال کا ذکر کیا اور فرمایا: میں تم لوگوں کو اس سے ڈراتا ہوں جیسے کہ مجھ سے پہلے تمام انبیاءؑ ڈرایا کرتے تھے نوحؑ نے بھی اپنی قوم کو اس فتنے سے ڈرایا لیکن میں اس کے متعلق ایسی بات بتاؤں گا جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی وہ یہ کہ تم لوگ جانتے ہو کہ وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں۔ زہری کہتے ہیں کہ عمر بن ثابت انصاری نے مجھے بعض صحابہؓ سے نقل کرتے ہوئے بتایا کہ آپ ﷺ نے اس روز لوگوں کو دجال کے فتنے سے ڈراتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ: تم لوگ جانتے ہو کہ تم میں سے کوئی اپنے خالق حقیقی اللہ رب العزت کو اپنی زندگی میں نہیں دیکھ سکتا۔ نیز اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ جو لوگ اس سے بیزار ہوں گے وہی یہ لفظ پڑھ سکیں گے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۰۵۶۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہودی تم لوگوں سے جنگ کریں گے اور تمہیں ان پر مسلط کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ پتھر کہے گا اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے اسے قتل کرو۔

۲۰۵۶۔ حدثنا عبد بن حميد نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَقَاتِلُكُمْ الْيَهُودُ فَتَسْلُطُونَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُولَ الْحَجْرُ يَا مُسْلِمُ هَذَا الْيَهُودِيُّ وَرَأَيْتُ فَاقْتُلَهُ

باب ۱۳۳۹۔ دجال کہاں سے نکلے گا۔

۲۰۵۷۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دجال مشرق کی ایک زمین سے نکلے گا جسے خراسان کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے ڈھالوں کی طرح چھپے ہوں گے۔

باب ۱۴۳۹۔ مَا جَاءَ مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ الدَّجَالُ

۲۰۵۷۔ حدثنا بندار واحمد بن منيع قالا نا روح بن عباد نا سعيد بن ابى عروبة عن ابى التياح عن المغيرة بن سبيع عن عمرو بن حريمث عن ابى بكر بن الصديق قال حدثنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدَّجَالُ يَخْرُجُ مِنْ أَرْضِ الْمَشْرِقِ يُقَالُ لَهَا خُرَّاسَانُ يَتَّبِعُهُ أَقْوَامٌ كَانُوا وَجُوهَهُمْ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ

اس باب میں ابو ہریرہؓ اور عائشہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسنِ غریب ہے۔ عبد اللہ بن شوذب بھی اسے ابوتیاح سے نقل کرتے ہیں اور یہ حدیث انہی کی روایت سے معروف ہے۔

باب ۱۴۴۔ مَا جَاءَ فِي عِلَامَاتِ خُرُوجِ الدَّجَالِ

۲۰۵۸۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَا الْحَلَمُ بْنُ

الْمُبَارَكِ نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي

مَرِيَمَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَفِيَانَ عَنِ يَزِيدِ بْنِ قَطِيبِ

التَّكُونِيِّ عَنِ أَبِي بَحْرِيَةَ صَاحِبِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ

حَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَلْحَمَةُ

الْعُظْمَى وَفَتَحَ الْقُسْطَنْطِينَةَ وَخُرُوجِ الدَّجَالِ فِي

سَبْعَةِ أَشْهُرٍ

اس باب میں صعّب بن جشمہ، عبد اللہ بن بسر، عبد اللہ بن مسعود اور ابو سعید خدریؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے

ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

۲۰۵۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا أَبُو دَاوُدَ عَنِ

شُعْبَةَ عَنِ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ

فَتَحَ الْقُسْطَنْطِينَةَ مَعَ قِيَامِ السَّاعَةِ

محمود کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے۔

باب ۱۴۴۱۔ مَا جَاءَ فِي فِتْنَةِ الدَّجَالِ

۲۰۶۰۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرَانَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ

وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدِ بْنِ جَابِرِ دَخَلَ

حَدِيثَ أَحَدِ هِمَافِي حَدِيثِ الْآخِرِ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

بْنِ يَزِيدِ بْنِ جَابِرِ عَنِ يَحْيَى بْنِ جَابِرِ الطَّائِي عَنِ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ جَبْرِ عَنْ أَبِيهِ جَبْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنِ

النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلَابِيِّ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّجَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ فَحَقَّقَ

فِيهِ وَرَفَعَ حَتَّى ظَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ قَالَ فَانصَرَفْنَا

مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رُحْنَا

(۱) قسطنطنیہ: روم کا ایک شہر ہے جو صحابہؓ کے دور میں ایک مرتبہ فتح ہو چکا ہے لیکن یہ دوبارہ کفار کے قبضے میں جانے کے بعد دوبارہ دجال کے خروج کے قریب

فتح ہو گا اور احادیث میں یہی فتح مراد ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۱۴۴۰۔ دجال کے نکلنے کی نشانیاں

۲۰۵۸۔ حضرت معاذ بن جبلؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

زبردست خونریزی، قسطنطنیہ کی فتح اور دجال کا خروج یہ سب سات ماہ کے

انداز اندر ہو گا۔ (۱)

۲۰۵۹۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ قسطنطنیہ قیامت کے

قریب فتح ہو گا۔

باب ۱۴۴۱۔ دجال کا فتنہ

۲۰۶۰۔ حضرت نو اس بن سمان کلانی فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول

اکرم ﷺ نے دجال کا ذکر کیا تو اس طرح اس کی ذلت و حقارت اور اس

کے فتنے کی بڑائی بیان کی کہ ہم سمجھنے لگے کہ وہ کھجوروں کی آڑ میں ہے۔

پھر ہم لوگ آپ ﷺ کے پاس سے چلے گئے اور دوبارہ خدمت اقدس

میں حاضر ہوئے تو آپ ہمارے دلوں کے خوف کو بھانپ گئے پوچھا:

کیا حال ہے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اکل آپ نے دجال کا

فتنہ بیان کیا تو ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ کھجوروں کی آڑ میں ہے۔ یعنی یقیناً

وہ آنے والا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: دجال کے علاوہ ایسی بھی چیزیں

ہیں جن کا مجھے دجال کے فتنے سے زیادہ خوف ہے کیونکہ اگر دجال

میری موجودگی میں نکلا تو میں اس سے تم لوگوں کی طرف سے مقابلہ کرنے والا ہوں اور اگر میری غیر موجودگی میں نکلا تو ہر شخص خود اپنے نفس کی طرف سے مقابلہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پر میرے خلیفہ ہیں۔ (۱) اس کی صفت یہ ہے کہ وہ جوان ہوگا، گھٹنگھریا لے بالوں والا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی (۲) اور عبدالعزیٰ بن قطن (۳) کا ہم شکل ہوگا۔ اگر تم میں سے کوئی اسے دیکھے تو سورہ کہف کی پہلی آیات پڑھے۔ وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور دائیں بائیں (۴) کے لوگوں کو خراب کرے گا۔ اے اللہ کے بندو: ثابت قدم رہنا۔ پھر ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ (ﷺ) کہ وہ کتنی مدت زمین پر ٹھہرے گا؟ فرمایا چالیس دن تک۔ پہلا دن ایک سال کے برابر، دوسرا ایک ماہ کے برابر اور تیسرا ایک ہفتے کے برابر پھر باقی ایام تمہارے ان ایام ہی کی طرح ہوں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا: کیا اس سال بھر کے برابر دن (۵) میں ہمیں ایک دن کی نمازیں کافی ہوں گی؟ فرمایا: نہیں اندازہ کر کے نمازیں پڑھ لیا کرنا۔ عرض کیا: اس کی زمین پر رفتار کیا ہوگی؟ فرمایا: اس کی رفتار بارش کی طرح ہوگی وہ ہوا کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا۔ وہ ایک قوم کے پاس آ کر انہیں اپنی خرافات کی دعوت دے گا وہ لوگ اسے جھٹلا دیں گے اور واپس کر دیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں کا مال و دولت اسی کے ساتھ چلا جائے گا وہ لوگ صبح انہیں گے تو دیکھیں گے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ پھر وہ دوسری قوم کے پاس جائے گا اور انہیں دعوت دے گا وہ لوگ اس کی دعوت قبول کریں گے اور اس کی تصدیق کریں گے۔ چنانچہ وہ آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برساؤ، بارش برسنے لگے گی۔ پھر زمین اس کے حکم سے غلہ وغیرہ اگائے گی۔ ان کی

إِلَيْهِ فَعَرَفَ ذَلِكَ فِينَا فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَكَرْتَ الدَّجَالَ الْعِدَاةَ فَحَفِضْتَ وَرَفَعْتَ حَتَّى طَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ قَالَ غَيْرُ الدَّجَالَ أَخَوْفَ لِي عَلَيْكُمْ أَنْ يَخْرُجَ وَآنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَاجِبُهُ دُونَكُمْ وَإِنْ يَخْرُجَ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَأَمْرُؤَ حَاجِبُ نَفْسِهِ وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِنَّهُ شَابٌ قَطَطٌ عَيْنُهُ قَائِمَةٌ شَبِيهَةٌ بِعَبْدِ الْعُرَى بْنِ قَطَنِ فَمَنْ رَأَى مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ قَوَاتِحَ سُورَةِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ قَالَ يَخْرُجُ مَا بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ فَعَاتَ يَمِينًا وَشِمَالًا يَا عِبَادَ اللَّهِ أُتْبِتُوا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا لَبَنُهُ فِي الْأَرْضِ قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةِ وَيَوْمٌ كَشَهْرِ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الْيَوْمَ الَّذِي كَالسَّنَةِ أَنْكَفِينَا فِيهِ صَلَوةً يَوْمٌ قَالَ لَا وَلَكِنْ أَقْدِرُوا لَهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا سُرْعَتُهُ فِي الْأَرْضِ قَالَ كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرْتَهُ الرِّيحُ فَيَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ فَيَكْذِبُونَ وَيَرْتَدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَيَنْصِرَفَ عَنْهُمْ فَتَتَّبِعُهُ أَمْوَالُهُمْ فَيُضْبِحُونَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ فَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ وَيُضَيِّقُونَهُ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ أَنْ تُمْطِرَ فُتُمْطِرُ وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ أَنْ تُنْبِتَ فُتُنْبِتُ فُتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ كَأَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرَى وَأَمَدِهِ خَوَاصِرَ وَأَدْرَهُ ضُرُوعًا ثُمَّ يَأْتِي الْخَرِبَةَ فَيَقُولُ لَهَا أَخْرِجِي كَنُوزَكَ

(۱) یعنی وہ اس کے شر سے محفوظ رہے گا۔ (مترجم)

(۲) اس کی دوسری آنکھ بھی ہوگی لیکن بے نور ہوگی۔ (مترجم)

(۳) عبدالعزیٰ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ زمانہ جہلیت میں ایک بادشاہ تھا۔ (مترجم)

(۴) اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے راستے میں آنے والے ہی متاثر نہیں ہوں گے بلکہ دوسرے لوگ بھی متاثر ہوں گے۔ (مترجم)

(۵) اس ایک سال کے برابر دن کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ سورج کو غروب ہونے سے روک دے گا۔ اور یہ قدرت اللہ رب العزت اسے لوگوں کی آزمائش کے لیے

عطا کریں گے۔ (مترجم)

چراگاہ میں بہت لمبی کوہان والے جانور کو کس پھلائے ہوئے ہتھنوں میں دودھ بھرا ہوا پھرنے لگیں گے۔ پھر وہ ویران زمین کو حکم دے گا تو وہ اپنے خزانے اگل دے گی اور وہ اس طرح اس کے ساتھ رہیں گے جیسے شہد کی کھیاں اپنے سردار کے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ پھر وہ ایک نوجوان کو دعوت دے گا اور اسے تلوار سے دو ٹکڑے کر دے گا پھر وہ اسے بلائے گا تو وہ اس طرح زندہ ہو کر آئے گا کہ اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا اور نرس رہا ہوگا۔ اسی اثناء میں شام کی مشرقی جانب سے سفید مینار پر سے عیسیٰ بن مریمؑ دوزرد کپڑوں میں ملبوس بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے اگر وہ سر جھکائیں گے تو ان کے بالوں سے نورانی قطرات ٹپکیں گے اور جب اسے اٹھائیں گے تو وہ قطرات چمکدار موتیوں کی طرح نیچے اتر آئیں گے (یہ ان کی بے انتہا نورانیت سے کنایہ ہے) اور کوئی ان کے سانس کی ہوا لگتے ہی مر جائے گا۔ (یعنی کفار) نیز ان کے سانس کی ہوا ان کی حد نظر تک ہوگی پھر وہ دجال کو تلاش کریں گے تو وہ انہیں باب لد پر مل جائے گا۔ (۱) وہ اسے قتل کر دیں گے اور پھر اللہ کی چاہت کے مطابق مدت تک زمین پر قیام کریں گے پھر اللہ کی چاہت کے مطابق مدت تک زمین پر قیام کریں گے پھر اللہ تعالیٰ وحی بھیجیں گے کہ میرے بندوں کو طور کی طرف لے جائیے اس لیے کہ وہاں میں نے اپنے ایسے بندے نازل کیے ہیں کہ ان سے لڑنے کی کسی میں تاب نہیں۔ فرمایا: پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجیں گے وہ اسی طرح آئیں گے جس طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ہر بلندی سے پھیل پڑیں گے پھر ان کا پہلا گروہ بحرہ طبریہ پر سے گزرے گا اور اس کا پورا پانی پی جائے گا۔ پھر جب ان کا دوسرا گروہ وہاں سے گزرے گا تو وہ لوگ کہیں گے کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ پھر وہ لوگ آگے چل دیں گے یہاں تک کہ بیت المقدس کے ایک پہاڑ پر پہنچیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا اب آسمان والوں کو بھی قتل کر دیں۔ لہذا وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے واپس کر دیں گے۔ اس

فَيَنْصَرِفُ مِنْهَا فَتَبَعَهُ كَيْعَاسِيبِ النَّحْلِ ثُمَّ يَدْعُو رَجُلًا شَابًا مُمْتَلِيًا شَبَابًا فَيَضْرِبُهُ بِالسِّيفِ فَيَقْطَعُهُ حَزَلَتَيْنِ ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيَقْبَلُ يَتَهَلَّلُ وَجْهَهُ يَضْحَكُ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ هَبَطَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بِشَرْقِيِّ دِمَشْقَ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ وَأَضْعَا يَدَهُ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ إِذَا طَاطَأَ رَأْسَهُ فَظَرَ وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّوْلُوءِ قَالَ وَلَا يَجِدُ رِيحَ نَفْسِهِ يَعْنِي أَحَدًا إِلَّا مَاتَ وَرِيحُ نَفْسِهِ مُنْتَهَى بَصَرِهِ قَالَ فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يَدْرِكَهُ بَبَابٍ لَدَى فَيَقْتُلُهُ قَالَ فَيَلْبَثُ كَذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ ثُمَّ يُوجِي اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ حَرَزَ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ فَإِنِّي قَدْ أَنْزَلْتُ عِبَادًا لِي لَا يَدَانِ لِأَحَدٍ يَفْتَالِيهِمْ قَالَ وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَاجُوجَ وَ مَا جُوجَ وَهُمْ كَمَا قَالَ اللَّهُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ قَالَ وَيَمُرُّ أَوْلَاهُمْ بِبُحَيْرَةِ الطُّبْرِيَّةِ فَيَشْرَبُ مَا فِيهَا ثُمَّ يَمُرُّ بِهَا إِجْرَاهُمْ فَيَقُولُونَ لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءٌ ثُمَّ يَسِيرُونَ حَتَّى يَنْتَهُوا إِلَى جَبَلٍ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ فَيَقُولُونَ لَقَدْ قَتَلْنَا مَنْ فِي الْأَرْضِ فَهَلُمَّ فَلَنَقْتُلَنَّ مَنْ فِي السَّمَاءِ فَيَرْمُونَ بِنُشَابِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نُشَابَهُمْ مُحْمَرًا دَمًا وَيُحَاصِرُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَأَصْحَابَهُ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ يَوْمئِذٍ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ لِأَحَدِكُمْ الْيَوْمَ قَالَ فَيَرْعَبُ عِيسَى بَنُ مَرْيَمَ إِلَى اللَّهِ وَأَصْحَابُهُ قَالَ فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّعْفَ فِي رِقَابِهِمْ فَيَضْبَحُونَ فَرَسِي مَوْتِي كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ قَالَ وَيُهْبِطُ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ فَلَا يَجِدُ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلَّا وَقَدْ مَلَأَتْهُ زَهْمَتُهُمْ وَنَتْنُهُمْ وَدَمَاتُهُمْ قَالَ فَيَرْعَبُ عِيسَى إِلَى اللَّهِ وَأَصْحَابُهُ قَالَ فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ فَتَحْمِلُهُمْ

(۱) باب لد: یعنی لد کا دروازہ، لد بیت المقدس میں ایک جگہ کا نام ہے۔ جبکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ فلسطین کی ایک بستی ہے۔ (مترجم)

دوران حضرت عیسیٰ اور ان ساتھی ان کا محاصرہ کر لیں گے اور اس دن بیل کا ایک سران لوگوں کے نزدیک تمہارے آج کے سودیناروں سے بہتر ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گردنوں میں کینز پیدا کر دیں گے جس سے وہ لوگ صبح تک سب کے سب اس طرح ہلاک ہو جائیں گے جیسے ایک شخص ہلاک ہوتا ہے۔ پھر عیسیٰ اور ان کے ساتھی آئیں گے تو باشت بھرزین بھی ایسی نہ ہوگی جو ان کی چریوں، بدبو اور خون سے بھری ہوئی نہ ہو۔ چنانچہ عیسیٰ اور ساتھی دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف ایسے پرندے بھیجیں گے جن کی گردنیں اونٹ کی طرح ہوں گی وہ انہیں اٹھا کر مہبل کے مقام پر پھینک دیں گے۔ اس کے بعد مسلمان ان کے تیروں، کمانون اور ترکشوں سے سات سال تک ایندھن جلا لیں گے پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائیں گے کہ اسے مٹی کا کوئی گھریا کوئی خیمہ نہیں روک سکے گا اس سے زمین دھل کر آئینے کی طرح صاف شفاف ہو جائے گی پھر زمین سے کہا جائے گا کہ اپنے پھل وثمار اگل دو اور برکت واپس لاؤ۔ چنانچہ ایک پورا گروہ ایک انار (کے درخت) نے کھائے گا اور اس کے لوگ اس کے چھلکے سے سایہ کریں گے نیز دودھ میں اتنی برکت پیدا کر دی جائے گی کہ ایک اونٹنی کے دودھ سے ایک جماعت سیر ہو جائے گی، ایک گائے کے دودھ سے ایک قبیلہ اور ایک بکری کے دودھ سے ایک کنبہ سیر ہو جائے گا۔ وہ ایک اسی طرح زندگی گزار رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہوا بھیجیں گے جو ہر مٹھمن کی روح قبض کر لے گی اور باقی صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح راستے میں جماع کرتے پھریں گے اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔

باب ۱۴۳۲۔ دجال کی صفات کے متعلق

۲۰۶۱۔ حضرت ابن عمر، رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ سے دجال کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا: جان لو کہ تمہارا رب کا نام نہیں جب کہ دجال کی دائیں آنکھ کافی ہوگی گویا کہ وہ ایک پھولا ہوا انگور

فَطَرَحَهُمْ بِالْمُهَيْلِ وَيَسْتَوْقِدُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ قِسِيهِمْ  
وَنُشَابِيهِمْ وَجَعَابِهِمْ سَبْعَ سِنِينَ وَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ  
مَطْرًا لَا يُكْنُ مِنْهُ بَيْتٌ وَبِرٍّ وَلَا مَدْرٍ قَالَ فَيَغْسِلُ  
الْأَرْضَ فَيَتْرُكُهَا كَالزَّلْفَةِ قَالَ ثُمَّ يُقَالُ لِلْأَرْضِ  
أَخْرَجِي نَمْرَتَكَ وَرِدِّي بَرَكَتِكَ فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ  
العَصَابَةُ الرُّمَانَ وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا وَيُبَارِكُ فِي  
الرِّسْلِ حَتَّىٰ إِنَّ الْفَقَامَ مِنَ النَّاسِ لَيَكْتَفُونَ بِاللِّفْحَةِ  
مِنَ الْإِبِلِ وَإِنَّ الْقَبِيلَةَ لَيَكْتَفُونَ بِاللِّفْحَةِ مِنَ الْبَقْرِ وَإِنَّ  
الْفَحْدَ لَيَكْتَفُونَ بِاللِّفْحَةِ مِنَ الْغَنَمِ فَيَنِمُّ هُمْ  
كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ رِيحًا فَقَبِضَتْ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ  
وَيَبْقَى سَائِرُ النَّاسِ يَتَهَارِجُونَ كَمَا يَتَهَارِجُ رَجُ الْحُمْرِ  
فَعَلَيْهِمْ تَقَوْمُ السَّاعَةِ

یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے۔

باب ۱۴۴۲۔ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الدَّجَالِ

۲۰۶۱۔ حدثنا محمد بن الاعلى الصُّعَانِيُّ نا  
المعتمر بن سليمان عن عبيدالله بن عمر عن نافع  
عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ

سُئِلَ عَنِ الدَّجَالِ فَقَالَ أَلَا إِنَّ رَبِّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ أَلَا (۱) -  
وَإِنَّهُ أَعْوَرٌ عَيْنُهُ الْيُمْنَى كَانَتْهَا عَيْنَبَةُ طَافِيَةً

اس باب میں سعد، حذیفہ، ابو ہریرہ، جابر بن عبد اللہ، ابو بکرہ، عائشہ، انس، اسماء، ابن عباس اور فلطان بن عاصم سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث عبد اللہ بن عمر کی روایت سے حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۴۴۳ - ماجاء فی ان الدجال لا یدخل المدینة  
۲۰۶۲ - حدثنا عبدة بن عبد الله الخزازی نا یزید  
بن هارون نا شعبة عن قتادة عن انس قال قال  
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الدجال  
المدینة فيجد المملیكة یحرسونها فلا یدخلها  
الطاعون ولا الدجال ان شاء الله

باب ۱۴۴۳ - دجال مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔  
۲۰۶۲ - حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دجال مدینہ  
میں آئے گا تو فرشتوں کو اس شہر کا محاصرہ کیے ہوئے پائے گا لہذا.....  
انشاء اللہ یہاں نہ طاعون کی وبا پھیلے گی اور نہ دجال داخل ہو سکے گا۔

اس باب میں ابو ہریرہ، قاطرہ بنت قیس، یحییٰ، اسامہ بن زید اور سمرہ بن جندب سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

۲۰۶۳ - حدثنا قتیبة نا عبدالعزیز بن محمد عن  
العلاء بن عبدالرحمن عن ابيه عن ابي هريرة ان  
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الايمان يمان  
والكفر من قبل المشرق والسكينة لاهل الغنم  
والفخر والرياء في الفدادين اهل الخيل و اهل  
الوبر يأتي المسيح اذا جاء دبر احدى صرفت المملیكة  
ووجهه قبل الشام وهنالك يهلك  
یہ حدیث صحیح ہے۔

۲۰۶۳ - حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایمان  
دائیں کی طرف سے نکلا ہے جب کہ کفر مشرق کی طرف سے۔ بکری  
والوں میں تسکین اور عاجزی جب کہ اونٹ اور گھوڑے والوں میں تکبر  
غرور اور درشتگی پائی جاتی ہے۔ اور دجال جب احد (پہاڑ) کے پیچھے  
پہنچے گا تو فرشتے اس کا رخ شام کی طرف موڑ دیں گے جہاں وہ ہلاک  
ہوگا۔

باب ۱۴۴۴ - ماجاء فی قتل عيسى بن مريم  
الدجال

۲۰۶۴ - حدثنا قتیبة الليث عن ابن شهاب انه سمع  
عبيد الله بن عبد الله بن ثعلبة الانصاري يحدث عن  
عبدالرحمن بن يزيد الانصاري من بنی عمرو بن  
عوف قال سمعت عمی مجمع بن حارثية  
الانصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه

باب ۱۴۴۴ - حضرت عیسیٰ بن مریم دجال کو قتل کریں گے۔

۲۰۶۴ - حضرت مجمع بن حارثیہ انصاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے  
فرمایا: حضرت عیسیٰ باب لد پر دجال کو قتل کریں گے۔

(۱) اس روایت میں دائیں آنکھ کا اور بعض روایات میں بائیں آنکھ کے متعلق آیا ہے کہ وہ کائی ہوگی۔ اس میں تطبیق یہ ہے کہ یہ کیفیات اس پر بدتقربیں گی اور یہ اس لیے  
ہوگا کہ اہل ہمسرت جان نکلیں کہ یہ اپنے عیب کو ختم نہیں کر سکتا تو الوہیت کا دعویٰ انہیں طرح سے۔ واللہ اعلم (مترجم)

وَسَلَّمَ يَقُولُ يَقْتُلُ ابْنَ مَرْيَمَ الدَّجَالَ بِنَابِ لُدٍّ

اس باب میں عمران بن حصینؓ، نافع بن عتبہؓ، ابو ہریرہؓ، حذیفہ بن اسیدؓ، ابو ہریرہؓ، کیسانؓ، عثمان بن ابی العاصؓ، جابرؓ، ابوامامہؓ، ابن مسعودؓ، عبداللہ بن عمرؓ، سمرہ بن جندبؓ، نواس بن سمانؓ، عمرو بن عوفؓ اور حذیفہ بن یمانؓ سے بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔  
یہ حدیث صحیح ہے۔

باب۔ بلا عنوان

باب۔ ۱۴۴۵

۲۰۶۵۔ حضرت قتادہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو کانے دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ جان لو کہ وہ کانٹا ہے اور تمہارا رب کانٹا نہیں۔ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔

۲۰۶۵۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ إِلَّا أَنَّهُ أَعْوَرُوْا إِنْ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ مِثْكَوْبٍ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ  
یہ حدیث صحیح ہے۔

باب ۱۴۴۶۔ ابن صیاد کے متعلق۔

باب ۱۴۴۶۔ مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ ابْنِ صَيَّادٍ

۲۰۶۶۔ حضرت ابو سعیدؓ فرماتے ہیں کہ ابن صیاد نے میرے ساتھ حج یا عمرے کا سفر کیا تو لوگ آگے بڑھ گئے اور میں اور وہ پیچھے رہ گئے۔ جب میں اس کے ساتھ تھا رہ گیا تو میرا دل خوف کی وجہ سے کھڑا ہو گیا اور مجھے اس سے وحشت ہونے لگی کیونکہ لوگ اسکے متعلق کہا کرتے تھے کہ دجال وہی ہے۔ جب میں ایک جگہ ٹھہرا تو اس سے بھی کہا کہ اپنا سامان اس درخت کے نیچے رکھ دو۔ اتنے میں اس نے کچھ بکریاں دیکھیں تو پیالہ لے کر گیا اور ان کا دودھ نکال کر لایا اور مجھ سے کہا کہ اسے پیو۔ لیکن مجھے اس کے ہاتھ سے کوئی چیز پینے میں کراہت محسوس ہوئی کیونکہ لوگ اسے دجال کہتے تھے۔ لہذا میں نے اس سے یہ کہہ دیا کہ آج گرمی ہے اور میں گرمی میں دودھ پینا پسند نہیں کرتا۔ اس نے کہا: ابوسعید میں نے لوگوں کی ان باتوں سے جو وہ میرے متعلق کہتے ہیں تک آ کر فیصلہ کیا کہ رمی نے کراہت سے باندھوں اور گا گھونٹ کرم جاؤں۔ دیکھو! میری حیثیت سی اور پر پوشیدہ رہے تو رہے تم لوگوں پر تو پوشیدہ نہیں رہتی چاہئے اس لیے تم لوگ احادیث رسول اللہ ﷺ کو تمام لوگوں سے زیادہ جانتے ہو۔ ان انصاریوں کی جماعت کیا رسول اللہ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کافر سے جب کہ میں مسلمان ہوں؟ کیا آپ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ ناقابل تولد

۲۰۶۶۔ حَدَّثَنَا سَفِيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ نَا عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ الْحَرِيرِيِّ عَنْ أَبِي نُضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ صَحِبْنِي ابْنُ صَيَّادٍ إِمَّا حُجَّاجًا وَ إِمَّا مُعْتَمِرِينَ فَانْطَلَقَ النَّاسُ وَتَرَكْتُ أَنَا وَهُوَ فَلَمَّا خَلَصْتُ بِهِ أَقْشَعُرْتُ مِنْهُ وَاسْتَوْحَشْتُ مِنْهُ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ فِيهِ فَلَمَّا نَزَلْتُ قُلْتُ لَهُ ضَعْ مَتَاعَكَ حَيْثُ تِلْكَ الشَّجَرَةَ قَالَ فَابْضِرْ غَنَمًا فَاحْذِ الْقَدْحَ فَانْطَلَقَ فَاسْتَحَلَبَ ثُمَّ أَتَانِي بِلَبَنٍ فَقَالَ لِي يَا أَبَا سَعِيدٍ اشْرَبْ فَكَرِهْتُ أَنْ أَشْرَبَ عَنْ يَدِهِ شَيْئًا لِمَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهِ فَقُلْتُ لَهُ هَذَا الْيَوْمُ يَوْمٌ صَائِفٌ وَإِنِّي أَكْرَهُ فِيهِ

اللَّبَنَ فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ اخْذَ خَبَلًا فَأَوْثَقَهُ إِلَى الشَّجَرَةِ ثُمَّ أَحْتَقِقَ لِمَا يَقُولُ النَّاسُ لِي وَفِي آرَأَيْتَ مَنْ خَفِيَ عَلَيْهِ حَدِيثِي فَلَنْ يَخْفَى عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ النَّاسَ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ كَافِرٌ وَأَنَا مُسْلِمٌ

ہوگا اور اس کی اولاد نہ ہوگی جب کہ میں نے اپنا بچہ مدینہ میں چھوڑا ہے پھر کیا رسول کریم ﷺ نے یہ نہیں فرمایا: کہ وہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا جب کہ میں اہل مدینہ میں سے ہوں اور اس وقت تمہارے ساتھ مکہ ہی جا رہا ہوں۔ ابوسعید کہتے ہیں کہ اس نے اس قسم کی اتنی دلیلیں پیش کیں کہ میں سوچنے لگا کہ شاید لوگ اسکے متعلق جھوٹی باتیں کہتے ہوں گے۔ پھر اس نے کہا: ابوسعید میں تمہیں ایک سچی خبر بتاتا ہوں کہ اللہ کی قسم میں دجال اور اس کے باپ کو جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ اس وقت کہاں ہے جب اس نے یہ بات کہی تو میں نے کہا خرابی، ہوتیری اے دن۔ یعنی مجھے پھر اس سے بدگمانی ہوگئی کیونکہ آخر میں اس نے ایسی بات کہہ دی تھی۔

الْم يَقُلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ عَقِيمٌ لَا يُؤَلَّدُ لَهُ وَقَدْ خَلَّفْتُ وَلَدِي بِالْمَدِينَةِ أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجُلُّ لَهُ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ أَلَسْتُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ ذَا أَنْطَلِقَ مَعَكَ إِلَى مَكَّةَ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا زَالَ يُجِئِي بِهَذَا حَتَّى قُلْتُ فَاعْلَمَهُ مَكْدُوبٌ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ وَاللَّهِ لَا خَيْرَ لَكَ خَيْرًا حَقًّا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْرِفُهُ وَأَعْرِفُ وَالِدَهُ وَآيِنَ هُوَ السَّاعَةَ مِنَ الْأَرْضِ فَقُلْتُ تَبَا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ

یہ حدیث حسن ہے۔

۲۰۶۷۔ حضرت ابن عمرؓ سے منقول ہے۔ کہ آنحضرت ﷺ اپنے چند صحابہ (جن میں عمرؓ بھی شامل تھے) کے ساتھ ابن صیاد کے پاس سے گزرے وہ بنو مغالہ کے قلعے کے پاس لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ آپ ﷺ کی آمد کا اسے اس وقت تک اندازہ نہ ہوا جب تک آنحضرت ﷺ نے اپنا دست مبارک اس کی پیٹھ پر نہیں مار دیا اور فرمایا: کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن صیاد نے آپ ﷺ کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں پھر ابن صیاد نے رسول اللہ ﷺ سے کہا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر آپ ﷺ نے پوچھا کہ تمہارے پاس کس نوعیت کی خبریں آتی ہیں؟ اس نے کہا جھوٹی بھی اور سچی بھی آپ ﷺ نے فرمایا: تو پھر تیرا کام خلت ہو گیا۔ پھر فرمایا: میں نے دل میں تمہارے متعلق کوئی بات سوچی ہے۔ (لہذا بتاؤ کہ وہ کیا ہے)۔ (۱) اور آپ ﷺ نے یہ آیت سوچ لی ”یوم تاتی..... الایۃ ابن صیاد نے کہا وہ (۲) دن ہے (یعنی دخان کا جزء ہے) آپ ﷺ نے فرمایا: دھکار ہو (۳) تم پر، تم اپنی اوقات سے آگے نہیں بڑھ

۲۰۶۷۔ حدثنا عبد بن حمید نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهری عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ بابن صياد في نفر من أصحابه منهم عمر بن الخطاب وهو يلعب مع الغلمان عند اطم بن مغالة وهو غلام فلم يشعروا حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال اتشهد اني رسول الله فنظر اليه ابن صياد قال اشهد انك رسول الاميين قال ثم قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم اتشهد اني رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم امننت بالله ورسوله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ياتيك قال ابن صياد يا نبي صادق وكاذب فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الامر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشهد اني قد خبأت لك خبيئًا وخبالة يَوْمًا تاتي السماء بدخان مبين

(۱) آپ ﷺ نے اس سے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ جن اسے امور نبی کی جھوٹی سچی خبریں دیا کرتے تھے۔ (مترجم) (۲) اس نے کہا کہ وہ پوشیدہ بات دن ہے اس کے معنی دعویٰ کے آتے ہیں۔ چنانچہ وہ پوری آیت بتانے میں تو کامیاب نہیں ہوا۔ جو آپ ﷺ نے سوچ رکھی تھی۔ البتہ ایک لفظ ضرور بتا دیا۔ یہ اس کے کاہن ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ (مترجم) (۳) اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی حقیقت واضح ہوگئی ہے وہ ایک کاہن ہے اور کاہن ہی رہے گا لہذا آپ ﷺ نے اسے دھکار دیا کہ تیری اصلیت واضح ہوگئی۔ (مترجم)

سکتے۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا رسول اللہ ﷺ مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن اتا دوں؟ فرمایا: اگر یہ دجال ہی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسے قتل کرنے کی قدرت نہیں دیں گے اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو اسے مارنے میں تمہارے لیے بھلائی نہیں ہے۔ عبدالرزاق کہتے ہیں کہ اس سے مراد دجال ہی ہے۔

فَقَالَ ابْنُ صَبَّادٍ هُوَ الدُّخُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَبُ فَلَنْ تَعُدَّ وَقَدْرَكَ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فَأَضْرِبُ عُنُقَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِكَ حَقًّا فَلَنْ تُسَلِّطَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَا يَبُكُّ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ يُعْنِي الدَّجَالَ

۲۰۶۸۔ حضرت ابوسعیدؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مدینہ کی بعض راہوں میں ابن صباد کو دیکھا تو اسے روکا وہ ایک یہودی لڑکا تھا اس کے سر پر چوٹی تھی۔ آپ ﷺ کے ساتھ ابوبکرؓ و عمرؓ بھی تھے۔ آپ ﷺ نے اس سے پوچھا: کیا تم میرے متعلق گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: میں اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر آپ ﷺ نے اس سے پوچھا: تم مغیبات میں سے کیا دیکھتے ہو؟ اس نے کہا: عرش کو پانی پر۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ ابلیس کے عرش کو سمندر پر دیکھ رہا ہے۔ آپ ﷺ نے پوچھا: اور کیا دیکھتے ہو؟ اس نے کہا: ایک سچا اور دو جھوٹے یا کھانا دو سچے اور ایک جھوٹا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ اس پر مشتبہ ہو گیا ہے اور پھر آپ ﷺ نے اسے چھوڑ دیا۔

۲۰۶۸۔ حدثنا سفیان بن وكيع نا عبدالاعلى عن الجريري عن ابى نصره عن ابى سعيد قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن صباد في بعض طرق المدينة فاحتبسه وهو غلام يهودي وله ذوابة ومعه ابوبكر وعمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشهد اني رسول الله فقال اتشهد اني رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم امنت بالله وملكه وكتبه ورسله واليوم الاخر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اراي قال ما تراهي عرشا فوق الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم يراي عرش ايليس فوق البحر قال ما تراهي قال اراي صادقا وكاذبا قال النبي صلى الله عليه وسلم لبس عليه فودعه

اس باب میں عمرؓ، حسین بن علیؓ، ابن عمرؓ، ابوذرؓ، ابن مسعودؓ، جابرؓ اور حفصہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔

۲۰۶۹۔ حضرت ابوبکرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دجال کے ماں باپ کے ہاں تیس سال تک اولاد نہ ہوگی اس کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوگا جو کانا ہوگا اور اس کا ضرر اس کے نفع سے زیادہ ہوگا۔ اس کی آنکھیں سوئیں گی، دل نہیں سوائے گا۔ پھر آنحضرت ﷺ نے اس کے والدین کا حلیہ وغیرہ بیان کیا اور فرمایا: اس کا باپ کافی لبا اور بالکل دبلا پتلا ہوگا اور اس کی ناک مرغ کی چونچ کی طرح ہوگی۔ جب کہ اس کی ماں کے پستان لے لے ہوں گے اور وہ عورت ہوگی۔ ابوبکرؓ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے یہودیوں کے ہاں ایک بچے کی ولادت کا سنا تو میں اور زبیر بن عوامؓ اسے دیکھنے کے لیے گئے ہم نے اس کے ماں باپ کو

۲۰۶۹۔ حدثنا عبد الله بن معاوية الحمصي نا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن ابى بكره عن ابى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث ابو الدجال وامة ثلاثين عاما لا يولد لهما ولد ثم يولد لهما غلام اعور اضر شىء واقله منفعة تنام عيناه ولا ينام قلبه ثم نعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابويه فقال ابوه طوال ضرب اللحم كان انفه منقار وامة امرأة فرضاخية طويلة الثديين قال ابوبكره فسمعت بمولود في اليهود

آنحضرت ﷺ کے بیان کردہ اوصاف کے مطابق پایا۔ میں نے ان سے پوچھا: کیا تمہاری اولاد ہے؟ انہوں نے کہا ہم تیس سال تک بے اولاد رہے پھر ہمارے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جو کانا ہے اور اس میں نفع سے زیادہ ضرر ہے۔ اس کی آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا۔ پھر ہم ان کے پاس سے نکلے تو اچانک اس لڑکے پر نظر پڑ گئی وہ ایک موٹی روئیں دار چادر میں دھوپ میں پڑا ہوا تھا اور کچھ گنگنا رہا تھا پھر اس نے ہم سے پوچھا کہ تم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کیا تم نے سن لیا؟ کہنے لگا ہاں میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا۔

بِالْمَدِينَةِ فَذَهَبْتُ أَنَا وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِيهِ فَإِذَا نَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمَا فَلَنَاهُلُ لَكُمَا وَلَدٌ فَقَالَا مَكُنْنَا ثَلَاثِينَ غَامًا لَا يُؤَلِّدُ لَنَا وَلَدٌ نَمُّ وَلَدُنَا غُلَامٌ اعْوَرٌ أَصْرُ شَيْءٍ أَقْلَةٌ مَنَفَعَةٌ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ قَالَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمَا فَإِذَا هُوَ مُنْجَدِّلٌ فِي الشَّمْسِ فِي قَطِيفَةٍ وَنَهْ هَمِيمَةٌ فَكَشَفَ عَنْ رَأْسِهِ فَقَالَ مَا قُلْتُمَا قُلْنَا وَهَلْ سَمِعْتُمَا قُلْنَا قَالَ نَعَمْ تَنَامُ عَيْنَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف حماد بن سلمہ کی روایت سے جانتے ہیں۔

توضیح: ابن صیاد کا اصل نام "صاف" تھا۔ جبکہ بعض حضرات عبد اللہ کہتے ہیں۔ وہ ایک یہودی تھا اور جادو کھانت میں زبردست مہارت رکھتا تھا۔ اس کی شخصیت پر اسرار بن کر رہ گئی تھی کیونکہ آنحضرت ﷺ کو بھی وحی کے ذریعے اس کے متعلق متعین طور پر نہیں بتایا گیا۔ چنانچہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ وہی دجال ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا اور حضرت عیسیٰ اسے قتل کریں گے۔ ان کی دلیل حدیث باب ہے۔ جب کہ بعض صحابہ کہتے تھے کہ وہ کانا دجال تو نہیں لیکن چھوٹے دجالوں میں سے ضرور ہے کیونکہ پہلے یہ کانا دجال تھا لیکن بعد میں مسلمان ہو گیا اور حج و جہاد میں بھی مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوا۔ جب کہ دجال کافر ہوگا کفر ہی کی حالت میں مرے گا نیز مدینے اور مکہ میں اس کا داخلہ ممنوع ہوگا۔ اس کی اولاد نہیں ہوگی پھر حضرت تمیم داری کی حدیث بھی یہ لوگ اپنی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں جس میں ایک کشتی کے سمندر میں طوفان گھر جانے اور ایک جزیرے میں اتر کر دجال کو دیکھنے کا ذکر ہے۔ اس سے یہی واضح ہوتا ہے اس کی حیثیت و حقیقت مبہم ہی رہی۔ شاید اس سے مقصود مسلمانوں کی آزمائش ہو۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۱۴۴۷۔ بلا عنوان

باب ۱۴۴۷۔

۲۰۷۰۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آج کے دن کوئی شخص ایسا نہیں کہ اس پر سو برس گزر جائیں یعنی سو برس تک سب مرجائیں گے۔ (۱)

۲۰۷۰۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ أَبِي مَعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُوَيْبَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلَى الْأَرْضِ نَفْسٌ مَنُفُوسَةٌ يَعْنِي الْيَوْمَ يَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةٌ سَنَةً

اس باب میں ابن عمر، ابوسعید اور بریرہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔

۲۰۷۱۔ حضرت عبد اللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں ایک مرتبہ ہمارے ساتھ نماز عشاء پڑھی۔ پھر سلام پھیر کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا: دیکھو جو لوگ آج کی رات زندہ ہیں ان میں سے کوئی سو سال کے بعد زندہ نہیں رہے گا

۲۰۷۱۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمِيدٌ نَا عَبْدَ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنِ بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَتْمَةَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ

(۱) اس سے یہ مراد نہیں کہ قیامت آجائے گی بلکہ یہ ہے کہ اس طبقے کے لوگ ختم ہو جائیں گے جیسا کہ بعد والی حدیث میں آ رہا ہے (مترجم)

ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے آنحضرت ﷺ سے یہ حدیث نقل کرنے میں غلطی کی اور اسے سو برس تک باقی نہ رہنے کے معنی میں نقل کیا حالانکہ درحقیقت آنحضرت ﷺ کی مراد یہ تھی کہ سو سال بعد اس قرن (صدی یا زمانے) کے لوگ حتم ہو جائیں گے۔

صَلَاةُ الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ  
 أَرَأَيْتُمْ لِيَلْتَكُمُ هَذِهِ عَلَيَّ رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَيْبِقِي  
 مِمَّنْ هُوَ عَلَيَّ ظَهْرُ الْأَرْضِ أَحَدٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَوَهَلِ  
 النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 تِلْكَ فِيمَا يَتَحَدَّثُونَ بِهَذَا الْأَحَادِيثِ نَحْوِ مِائَةِ سَنَةٍ  
 وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْقَى  
 مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَيَّ ظَهْرُ الْأَرْضِ أَحَدٌ يُرِيدُ بِذَلِكَ  
 أَنْ يَنْحَرِمَ ذَلِكَ الْقَرْنُ  
 یہ حدیث صحیح ہے۔

باب ۱۳۳۸۔ ہو کو برا بھلا کہنے کی ممانعت

۲۰۷۲۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم  
 کبھی برامت کہو اور اگر یہ اتنی چلے کہ تمہارے لیے تکلیف کا باعث ہو  
 یہ دعا پڑھو۔ اللہم سے آخر تک اے اللہ ہم تجھ سے اس ہو اور اس میں جو  
 کچھ ہے ان میں سے بہتری کے طلبگار ہیں۔ نیز اس چیز کی بہتری کے  
 بھی طلبگار ہیں جس کی وہ مامور ہے پھر ہم اس میں موجود شر اور جس شر  
 کے لیے وہ مامور ہے اس سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔

باب ۱۴۴۸۔ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ سَبِّ الرِّيَّاحِ  
 ۲۰۷۲۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ  
 الشَّهِيدِ نَا مُحَمَّدِ ابْنِ فَضِيلِ نَا الِاعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ  
 ابْنِ اَبِي ثَابِتٍ عَنْ ذُرِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ  
 اِبْدِئِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الرِّيَّاحَ فَاِذَا رَأَيْتُمْ مَا  
 تَكْرَهُوْنَ فَقُولُوا اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ  
 الرِّيَّاحِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا اَمْرَتْ بِهٖ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ  
 شَرِّ هَذِهِ الرِّيَّاحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا اَمْرَتْ بِهٖ

اس باب میں عائشہؓ، ابو ہریرہؓ، عثمان بن ابوعاصؓ، انسؓ، ابن عباسؓ اور جابرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۰۷۳۔ حضرت فاطمہ بنت قیسؓ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ  
 منبر پر چڑھے اور بٹتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں داری نے مجھ سے ایک قسم  
 بیان کیا ہے جس سے میں بہت خوش ہوا چنانچہ میں نے چاہا کہ تمہیں  
 بھی سادوں کہ اہل فلسطین میں سے چند لوگ ایک کشتی میں سوار ہو کر  
 یہاں تک کہ وہ کشتی موجوں میں گھر گئی جس نے انہیں ایک جزیرے پر  
 پہنچا دیا۔ وہاں انہوں نے ایک لمبے بالوں والی عورت دیکھی۔ انہوں  
 نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا: میں جسامہ ہوں۔ انہوں  
 نے کہا: پھر ہمیں کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا: نہ میں تمہیں کچھ بتاتی ہوں اور نہ  
 ہی پوچھتی ہوں۔ ہاں تم لوگ بستی کے کنارے پر چلو وہاں کوئی تم سے

۲۰۷۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا مَعَاذُ بْنُ هِشَامٍ  
 اَنَا ابْنُ اَبِي عَن فَتَادَةَ عَنِ التَّمَعِظِيِّ عَنِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ  
 اَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعَدَ الْمُنْبَرِ  
 فَصَحَبَتْ فَقَالَ اِنَّ نَبِيْمَا الدَّارِيَّ حَدَّثَنِي بِحَدِيثٍ  
 فَقَرَحَتْ فَاَحْبَبْتُ اَنْ اُحَدِّثْكُمْ اَنَّ نَاسًا مِنْ اَهْلِ  
 فِلَسْطِيْنَ رَكِبُوا سَفِيْنَةً فِي الْبَحْرِ فَجَالَتْ بِهَمَّ حَتَّى  
 فَدَقَّتْهُمْ فِي جَزِيْرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ فَاِذَا هُمْ بِدَايَةِ  
 لِبَاسَةٍ نَاشِرَةٍ شَعْرَهَا فَقَالُوا مَا اَنْتِ قَالَتْ اَنَا  
 الْجَسَّاسَةُ قَالُوا فَاُخْبِرُنَا قَالَتْ لَا أُخْبِرُكُمْ وَلَا

أَسْتَحْبِرُّكُمْ وَلَكِنْ اتُّوا أَقْصَى الْقَرْيَةِ فَإِنَّ نَمَّ مَنْ  
يُخْبِرُكُمْ وَيَسْتَحْبِرُّكُمْ فَاتَيْنَا أَقْصَى الْقَرْيَةِ فَإِذَا رَجُلٌ  
مُوتِقٌ بِسِلْسِلَةٍ فَقَالَ أَخْبِرُونِي عَنْ عَيْنِ زُعَرَ قُلْنَا  
مَلَأَى تَدْفِقُ قَالَ أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ الَّذِي  
بَيْنَ الْأَرْدَنِ وَفِلَسْطِينَ هَلْ أَطَعَمَ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ  
أَخْبِرُونِي عَنْ النَّبِيِّ هَلْ بُعِثَ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ أَخْبِرُونِي  
كَيْفَ النَّاسُ إِلَيْهِ قُلْنَا سِرَاعٌ فَزَيَّ نَزْوَةٌ حَتَّى كَادَ  
قُلْنَا فَمَا أَنْتَ قَالَ أَنَا الدَّجَالُ وَ إِنَّهُ يَدْخُلُ  
الْأَمْصَارَ كُلَّهَا إِلَّا طَيْبَةَ وَ طَيْبَةَ الْمَدِينَةَ

کچھ پوچھے گا بھی اور بتائے گا بھی۔ چنانچہ ہم لوگ وہاں گئے تو دیکھا  
کہ ایک شخص زنجیروں میں بندھا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا: مجھے چشمہ  
زغر کے متعلق بتاؤ؟ ہم نے کہا وہ بھرا ہوا ہے اور اس سے پانی چھلک رہا  
ہے۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے بحیرہ (طبریہ) کے متعلق بتاؤ؟ ہم نے  
کہا اس سے بھی پانی چھلک رہا ہے۔ پھر اس نے اردن اور فلسطین کے  
درمیان موجود بیسان کی کھجوروں کے متعلق پوچھا۔ ہم نے کہا ہاں وہ  
پھل دیتی ہیں۔ پھر اس نے پوچھا: کیا کوئی نبی مبعوث ہوا ہے؟ ہم نے  
کہا: ہاں۔ اس نے پوچھا کہ لوگ ان کی دعوت کس طرح قبول کرتے  
ہیں؟ ہم نے کہا: تیزی کے ساتھ اس مرتبہ اس نے اپنے جسم کو اس زور  
سے حرکت دی کہ ہم نے سمجھا شاید یہ ابھی کھل جائے۔ پھر ہم نے اس  
سے پوچھا: تم کون ہو؟ اس نے کہا: میں دجال ہوں۔ اور وہ تمام شہروں  
میں جائے گا سوائے طیبہ کے اور طیبہ مدینہ منورہ ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ یعنی قتادہ کی شععی سے نقل کردہ حدیث کئی اور راوی بھی حضرت فاطمہ بنت قیسؓ سے بواسطہ شععی اسے  
نقل کرتے ہیں۔

۲۰۷۴۔ حدثنا محمد بن بشار نا عمرو بن عاصم  
نا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن  
جندب عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله  
عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قالوا  
وكيف يذل نفسه قال يتعرض من البلاء ما لا يطيق  
یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۲۰۷۳۔ حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مؤمن کو  
زیب نہیں دینا کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ عرض کیا گیا وہ کیسے؟  
فرمایا: وہ اس طرح کہ خود کو ایسی مصیبت میں ڈال دے کہ اس سے نمٹنے  
کی استطاعت نہ رکھتا ہو۔

۲۰۷۵۔ حدثنا محمد بن حاتم المؤدب نا محمد  
بن عبد الله الانصاري نا حميد الطويل عن انس بن  
مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انصُر  
أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَصْرَتُهُ  
مَظْلُومًا فَكَيْفَ أَنْصُرُ ظَالِمًا قَالَ تَكْفُمُهُ عَنِ الظُّلْمِ  
فَذَاكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ

۲۰۷۵۔ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:  
اپنے مظلوم اور ظالم بھائی کی مدد کرو۔ عرض کیا گیا: مظلوم کی مدد تو میں  
نے کی۔ لیکن اس کے ظالم ہونے کی صورت میں کس طرح اس کی مدد  
کروں؟ فرمایا: اسے ظلم کرنے سے روکو یہی اس کی مدد ہے۔

اس باب میں عائشہؓ سے بھی حدیث نقل کی گئی ہے۔ حضرت انسؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۰۷۶۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے جنگل میں سکونت اختیار کی وہ سخت خوار بدخلق ہو گیا۔ (کیونکہ اسے لوگوں سے ملنے کا اتفاق کم ہوتا ہے۔ اور جس نے شکار کا پیچھا کیا وہ غافل ہو گیا نیز جو حاکموں کے دروازے پر گیا وہ فتنوں میں مبتلا ہو گیا۔

۲۰۷۶۔ حدثنا محمد بن بشار نا عبدالرحمن بن مهدى نا سفيان عن ابى موسى عن وهب بن منبّه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد عفل ومن اتى ابواب السلطان افتن

اس باب میں ابو ہریرہؓ سے بھی حدیث منقول ہے۔ یہ حدیث ابن عباسؓ کی روایت سے حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف ثوری کی سند سے جانتے ہیں۔

۲۰۷۷۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم لوگ مدد کیے جانے والے ہو اور تم لوگوں کو مال و دولت عطا کیا جائے گا۔ نیز تمہارے ذریعے بڑے بڑے قلعے اور بہت سے شہر فتح کیے جائیں گے۔ لہذا جس کو یہ انعامات عطا کیے جائیں اسے چاہئے کہ وہ اللہ رب العزت سے ڈرے اور بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ پھر جو شخص میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرے گا وہ اپنے لیے جہنم میں ٹھکانہ بنا لے۔

۲۰۷۷۔ حدثنا محمود بن غيلان نا ابو داود انبانا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انكم منصورون ومصيبون ومفتوح لكم فممن ادرك ذلك منكم فليتنق الله وليامر بالمعروف ولينه عن المنكر ومن يكذب على فليتبوا مقعده من النار

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۰۷۸۔ حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ فتنے کے متعلق آنحضرت کے ارشاد کو کون بخوبی بیان کر سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا: میں۔ پھر میں نے بیان کیا کہ کسی شخص کے لیے اس کے اہل و عیال، مال اور اس کا بڑوسی فتنہ ہیں (یعنی ان کے حقوق کی ادائیگی میں نقص رہ جاتا ہے) اور ان فتنوں کا کفارہ نماز، روزہ، صدقہ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: میں اس فتنے کے متعلق نہیں پوچھ رہا میں تو اس فتنے کی بات کر رہا ہوں جو سمندر کی موج کی طرح اٹھے گا۔ میں نے عرض کیا: امیر المؤمنین آپ کے اور اس عظیم فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ حائل ہے۔ فرمایا: کیا وہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ عرض کیا: توڑا جائے گا۔ فرمایا: تو پھر وہ قیامت تک دوبارہ بند نہیں ہوگا۔ ابو داؤد اہل اپنی حدیث میں حماد کا یہ قول بھی نقل کرتے ہیں کہ میں نے مسروق سے کہا کہ حذیفہؓ سے پوچھئے کہ

۲۰۷۸۔ حدثنا محمود بن غيلان نا ابو داود نا شعبة عن الاعمش وعاصم بن بهدلة وحماد سمعوا ابا وايل عن حذيفة قال قال عمر اياكم يحفظ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنه فقال حذيفة انا قال حذيفة فتنه الرجل في اهله وماله وولده وجاهه تكفرها الصلوة والصلوم والصدقة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال عمر لست عن هذا اسئلك ولكن عن الفتنه التي تموج كموج البحر قال يا امير المؤمنين ان بينك وبينها بابا مغلقا قال عمر ايفتح ام يكسر قال بل يكسر قال اذن لا يعلق الى يوم القيامة قال ابو وايل في حديث حماد فقلت لمسروق سل حذيفة عن

الْبَابِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عُمَرُ

وہ دروازہ کیا ہے؟ فرمایا: وہ حضرت عمرؓ کی ذات ہے۔

یہ حدیث صحیح ہے۔

توضیح: اس فتنے سے مراد مسلمانوں کے مابین اٹھنے والے فتنے، جنگیں اور لڑائی جھگڑا وغیرہ ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ جب تک حضرت عمرؓ کی ذات اقدس مسلمانوں میں موجود رہے گی یہ فتنے سر نہیں اٹھائیں گے اور ان کی وفات کے بعد امن و امان ختم ہو جائے گا اور فتنے سر اٹھائیں گے پھر وہ کبھی ختم نہیں ہو گے۔ واللہ اعلم (مترجم)

۲۰۷۹۔ حدثنا هارون بن اسحق الهمداني نا

محمد بن عبد الوهاب عن مسعر عن ابي حصين عن الشعبي عن العدي بن كعب بن عجرة قال خرج اينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تسعة، خمسة واربعة احد العديين من العرب والاخر من العجم فقال اسمعوا هل سمعتم انه سيكون بعدي امراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم واعانهم على ظلمهم فليس مني وليس منه وليس بوارد على الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وانا منه وهو وارد على الحوض

۲۰۷۹۔ حضرت کعب بن عجرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ ہماری طرف تشریف لائے، ہم کل نو آدمی تھے جن میں سے پانچ عربی اور چار عجمی یا اس کے برعکس۔ آپ نے فرمایا: سنو کیا تم لوگوں نے سنا کہ میرے بعد ایسے حاکم اور امراء آئیں گے کہ اگر کوئی شخص ان کے دربار میں جائے گا، ان کی جھوٹے ہونے کے باوجود تصدیق کرے گا۔ اور ان کی ظلم پر اعانت کرنے کا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی وہ میرے حوض پر آئے گا ہاں جو ان حکام کے پاس نہیں جائے گا۔ ان کی ظلم پر اعانت نہیں کرے گا اور ان کے جھوٹ بولنے کے باوجود ان کی تصدیق نہیں کرے گا وہ مجھ سے اور میں اس سے وابستہ ہوں اور وہ شخص میرے حوض پر آسکے گا۔

یہ حدیث صحیح غریب ہے۔ ہم اسے مسعر کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ ہارون یہ حدیث محمد بن عبد الوهاب سے وہ سفیان سے وہ ابو حسین سے وہ شععی سے وہ عاصم عدوی سے وہ کعب بن عجرہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ پھر ہارون محمد سے وہ سفیان سے وہ زبید سے وہ ابراہیم سے (یہ ابراہیم نخعی نہیں) وہ کعب بن عجرہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے مسعر ہی کی حدیث کی طرح بیان کرتے ہیں۔ اس باب میں حدیث اور ابن عمرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔

۲۰۸۰۔ حدثنا محمود بن غيلان نا ابو داود حدثنا

اسماعيل بن موسى الفزاري ابن ابنة السدي الكوفي نا عمر بن شاكِر عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالفابيض على الحمر

۲۰۸۰۔ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ ﷺ نے فرمایا: لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اپنے دین پر قائم رہنے والا ہاتھ میں انگارا پکڑنے والے کی طرح تکلیف میں مبتلا ہوگا۔

یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔ عمر بن شاکر: بصری ہیں ان سے کئی اہل علم احادیث نقل کرتے ہیں۔

۲۰۸۱- حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ ایک مرتبہ چند بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس کھڑے ہوئے اور فرمایا: کیا میں تمہیں اچھوں اور بروں کے متعلق بتاؤں؟ وہ لوگ خاموش رہے تو آپ ﷺ نے یہی جملہ تین مرتبہ دہرایا۔ اس پر ایک شخص نے عرض کیا۔ کیوں نہیں یا رسول اللہ ﷺ ہمیں بتائیے کہ ہم میں کون اچھا اور کون برا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے نیک اور اچھا وہ شخص ہے۔ جس سے لوگ نیکی ہی کی امید رکھیں اور اس کے شر سے بے خوف ہوں جب کہ بدترین شخص وہ ہے جس سے نیکی کی کوئی امید نہ ہو بلکہ اس کے شر سے بھی لوگ محفوظ نہ ہوں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

۲۰۸۲- حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب میری امت کے لوگ انڑا کرڑ کر چلیں گے اور بادشاہوں کی اولاد (یعنی مفتوحہ علاقوں کے بادشاہوں کی اولاد جو مسلمانوں کی غلام ہوگی) ان کی خدمت کرے گی یعنی فارس و روم کی اولاد تو ان کے نیک لوگوں پر ان کے بدترین لوگ مسلط کر دیئے جائیں گے۔

یہ حدیث غریب ہے اسے ابو معاویہؓ بھی یحییٰ بن سعید انصاری سے نقل کرتے ہیں۔ ہم سے اسے محمد بن اسماعیل نے ابو معاویہ کے حوالے سے انہوں نے یحییٰ بن سعید انصاری کے حوالے سے انہوں نے عبد اللہ بن دینار کے انہوں نے ابن عمرؓ کے اور انہوں نے آنحضرت ﷺ کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ جب کہ ابو معاویہ کی یحییٰ بن سعید سے بواسطہ عبد اللہ بن دینار حضرت ابن عمرؓ سے منقول حدیث کی کوئی اصل نہیں۔ مشہور حدیث موسیٰ بن عبیدہ ہی کی ہے۔ پھر مالک بن انس بھی یہی حدیث یحییٰ بن سعید سے مرسل نقل کرتے ہوئے عبد اللہ بن دینار کو سند میں بیان نہیں کرتے۔

۲۰۸۳- حضرت ابو بکرؓ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی برکت سے ایک فتنے سے بچایا جو میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا تھا کہ جب کسری ہلاک ہوا تو آپ ﷺ نے پوچھا: اس کا خلیفہ کسے بنایا گیا؟ عرض کیا گیا: اس کی بیٹی کو۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جن پر کوئی عورت حکمرانی کرتی ہو ابو بکرؓ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عائشہؓ بصرہ آئیں تو مجھے آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد یاد آ گیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی معیت سے بچالیا۔ (۱)

۲۰۸۱- حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلٰى اَنَسِ بْنِ جُلُوْسٍ فَقَالَ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ قَالَ فَمَسَكْتُوْا فَقَالَ ذٰلِكَ تِلْكَ مَرَاتٍ فَقَالَ رَجُلٌ بَنِيْ يٰرَسُوْلَ اللّٰهِ اُخْبِرْنَا بِخَيْرِنَا مِنْ شَرِّنَا قَالَ خَيْرِكُمْ مَنْ يُّرْجِحُ خَيْرَهُ وَيُؤْمِنُ شَرَّهُ وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُّرْجِحُ خَيْرَهُ وَلَا يُؤْمِنُ شَرَّهُ

۲۰۸۲- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيُّ نَا زَيْدِ بْنِ حَبَابٍ اَخْبَرَنِيْ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ثَنِيْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا مَشَتْ اُمَّتِي الْمَطْبِطَاءُ وَخَدَمَهَا اَبْنَاؤُ الْمَلُوْكَ اَبْنَاؤُ فَارِسَ وَالرُّومِ سَلَطَ شِرَارُهَا عَلٰى اِخْيَارِهَا

۲۰۸۳- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْثِي ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ نَا حَمِيْدُ الطَّوِيْلِ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ اَبِي بَكْرَةَ قَالَ عَصَمَنِي اللّٰهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ مَنْ اسْتَحْلَفُوْا قَالُوْا اِبْنَتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ اَمْرَهُمْ اِمْرَاةٌ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْتُ عَائِشَةَ يَعْنِي الْبَصْرَةَ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَصَمَنِي اللّٰهُ بِهِ

(۱) اس حدیث میں جنگ کی طرف اشارہ ہے جو حضرت علیؓ اور حضرت عائشہؓ کے مابین ہوئی۔ (مترجم)

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۰۸۴۔ حضرت عمر بن خطابؓ، رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں تم لوگوں کے بہترین اور بدترین حکام کا نہ بتاؤں؟ بہترین حکام وہ ہیں جنہیں تم بھی چاہتے ہو اور وہ بھی تمہیں چاہتے ہیں نیز تم ان کے لیے دعائیں کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جب کہ بدترین حکام وہ ہیں جن سے تم لوگ بھی بغض رکھتے ہو اور وہ بھی تم سے بغض رکھتے ہیں پھر تم ان لوگوں پر اور وہ تم لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔

۲۰۸۴۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا أَبُو عَامِرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِ أُمَرَاءِكُمْ وَشِرَارِهِمْ خِيَارُهُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَتَدْعُونَ لَهُمْ وَيَدْعُونَ لَكُمْ وَشِرَارُ أُمَرَائِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَ لَهُمْ وَيَلْعَنُونَ لَكُمْ

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف محمد بن حمید کی روایت سے جانتے ہیں اور یہ ضعیف ہیں۔

۲۰۸۵۔ حضرت ام سلمہؓ، رسول اللہ ﷺ کا یہ قول نقل کرتی ہیں کہ فرمایا: میری امت میں عنقریب ایسے حاکم آئیں گے جنہیں تم (ایسے اعمال کی وجہ سے پسند بھی کرو گے اور بعض برے اعمال کی وجہ سے) ناپسند بھی کرو گے۔ چنانچہ جوان کے منکرات کو ناپسند کرے گا وہ بری الذمہ ہے اور جوان کے منکرات کو برا جانے گا وہ ان کا گناہ میں شریک ہونے سے بچ جائے گا۔ لیکن جو شخص ان سے رضا مندی ظاہر کرے گا اور ان کا ساتھ دے گا وہ ہلاک ہو گیا۔ پھر کسی نے پوچھا: کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں؟ فرمایا: نہیں! جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں۔

۲۰۸۵۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ نَا زَيْدُ بْنُ هَارُونَ نَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ ضَبَّةَ بِنْتِ مِحْصَنَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أئِمَّةٌ تَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرَى وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلُّوا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۰۸۶۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم لوگوں کے حکام تمہارے بہترین لوگ ہوں۔ تمہارے اغنیاء تمہارے سخی ترین لوگ ہوں اور تم لوگ اپنے کام آپس میں مشورے سے کرتے ہو تو تم لوگوں کے لیے زمین کی پیٹھ اس کے پیٹھ سے بہتر ہے۔ یعنی زندہ رہ کر چلنا پھرنا مرکز زمین میں دفن ہو جانے سے بہتر ہے۔ لیکن جب تمہارے حاکم بدترین لوگ ہوں، تمہارے اغنیاء بخیل ہوں اور تم لوگوں کے کام عورتوں کے سپرد کر دیئے گئے ہوں زمین کا پیٹھ اس کی پیٹھ سے بہتر ہے یعنی موت زندگی سے بہتر ہے۔

۲۰۸۶۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشْقَرُ نَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَا نَا صَالِحُ الْمُرِّي عَنِ سَعِيدِ الْجَرِيرِيِّ عَنِ أَبِي عَثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَتْ أُمَرَاؤُكُمْ خِيَارَكُمْ وَأَغْنِيَاءُكُمْ سَمَحَاءَكُمْ وَأُمُورُكُمْ سُورَى بَيْنَكُمْ فَظَهَرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا وَإِذَا كَانَتْ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارًاكُمْ وَأَغْنِيَاءُكُمْ بُخَلَاءَكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَاءِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف صالح مری کی روایت سے جانتے ہیں اور ان کی روایتیں ایسی ہیں کہ انہیں کسی اور نے نقل نہیں کیا۔ نیز وہ نیک شخص ہیں۔

۲۰۸۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ، آنحضرت ﷺ نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: تم لوگ ایسے زمانے میں ہو کہ اگر تم میں سے کوئی اس چیز کا دسواں حصہ بھی چھوڑ دے جس کا اسے حکم دیا گیا ہے تو ہلاک ہو گیا۔ لیکن بعد میں ایسا وقت آنے والا ہے کہ اگر اس میں کوئی دس فیصد بھی اپنے مامور بہ کو انجام دیتا رہا وہ نجات پا گیا۔

۲۰۸۷۔ حدثنا ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني نا نعيم بن حماد عن سفيان بن عيينة عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم في زمان من ترك منكم عشر ما امر به هلك ثم ياتي زمان من عمل منهم بعشر ما امر به نجا

یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف نعیم بن حماد کی روایت سے جانتے ہیں اور وہ سفیان بن عیینہ سے نقل کرتے ہیں۔ اس باب میں ابوزرّ اور ابوسعیدؓ سے بھی احادیث نقل کی گئی ہیں۔

۲۰۸۸۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک مرتبہ پر کھڑے ہوئے اور فرمایا: فتنوں کی زمین اس طرف ہے اور مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جہاں سے شیطان کا سینگ یا فرمایا: سورج کا سینگ نکلتا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۰۸۸۔ حدثنا عبد بن حميد نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ههنا أرض الفتن وأشار إلى المشرق حيث يطلع قرن الشيطان أو قال قرن الشمس

۲۰۸۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے انہیں کوئی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ وہ بیت المقدس میں نصب ہوں گے۔ (۱)

۲۰۸۹۔ حدثنا قتيبة نا رشدين بن سعد عن يونس عن ابن شهاب الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من خراسان رايات سود فلا يردّها شيء حتى تنصب بالبيداء

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

## خواب کے متعلق رسول کریم ﷺ سے

### منقول احادیث کے ابواب

باب ۱۳۳۹۔ مؤمن کا خواب نبوت کے چھیالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔

۲۰۹۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب زمانہ قریب ہو جائے گا۔ (۲) تو مؤمن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ اور سچا

## أَبْوَابُ الرُّؤْيَا عَنِ رَسُولِ اللَّهِ

### صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۱۴۴۹۔ أَنَّ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِّنْ سُنَّةٍ وَأَزْبَعِينَ جُزْءًا مِّنَ النَّبُوءَةِ

۲۰۹۰۔ حدثنا نصر بن علي نا عبد الوهاب الثقفي نا ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة قال

(۱) یہ جھنڈے امام مہدی کے زمانے میں نکلیں گے جو ان کے مددگار و معاون ہوں گے۔ واللہ اعلم (مترجم)

(۲) زمانے کی قربت کے متعلق علماء کے تین اقوال ہیں۔ (۱) جب قیامت قریب ہوگی۔ (۲) اس سے مراد ان واقعات کا ہونا ہے۔ (۳) اس سے مراد زمانے کا

چھوٹا ہونا ہے یعنی قیامت کے قریب (بے برکتی کی وجہ سے) سال مہینوں کے برابر ہوں گے اور اسی طرح ماہ بھٹے کا اور ہفت دن کے برابر ہوگا وغیرہ (مترجم)

خواب اس کا ہوتا ہے جو خود سچا ہو۔ نیز مسلمان کا خواب نبوت کے چھالیس حصوں میں سے ایک ہے۔ (۱) پھر خوب تین قسم کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک تو اچھے خواب جو اللہ کی طرف سے بشارت ہوتے ہیں دوسرے وہ جو شیطان کی طرف سے غم میں مبتلا کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور تیسرے وہ خواب جو انسان اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے وہی نیند میں متصور ہو جاتے ہیں۔ لہذا اگر تم میں سے کوئی خواب میں ایسی چیز دیکھے جسے وہ پسند نہ کرتا ہو تو کھڑا ہو کر تھوک دے اور لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے۔ (۲) پھر آپ ﷺ نے فرمایا: کہ میں خواب میں زنجیر دیکھنا پسند کرتا ہوں کیونکہ (اس کی تعبیر دین پر ثابت قدم رہنا ہے جب کہ گلے میں ڈالے جانے والے طوق کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكْذُرُوا مِنَ الْمُؤْمِنِ تَكْذِبٌ وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيثًا وَرُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ وَالرُّؤْيَا ثَلَاثٌ فَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ بُشْرَى مِنَ اللَّهِ وَالرُّؤْيَا مِنْ تَحْزِينِ الشَّيْطَانِ وَالرُّؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ بِهَا الرَّجُلُ نَفْسَهُ فَإِذَا رَأَى أَحَدَكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ وَلْيَتَفَلَّحْ وَلَا يُحَدِّثْ بِهِ النَّاسَ قَالَ وَأَحَبُّ الْقَيْدِ فِي النَّوْمِ وَأَكْرَهُهُ الْغَلُّ الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي اللَّيْلِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۰۹۱۔ حضرت عبادہ بن صامتؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مؤمن کا خواب نبوت کے چھالیس اجزاء میں سے ایک جزء ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

۲۰۹۱۔ حدثنا محمود بن غيلان نا ابو داود عن شعبة عن قتادة سمع انسا يُحَدِّثُ عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ

اس باب میں ابو ہریرہؓ، ابو زرین عقیلیؓ، انسؓ، ابوسعیدؓ، عبداللہ بن عمروؓ، عوف بن مالکؓ اور ابن عمرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔

باب ۱۳۵۰۔ نبوت ختم ہوگئی۔ اور مبشرات باقی ہیں۔

باب ۱۴۵۰۔ ذَهَبَتِ النَّبُوءَةُ وَبَقِيَتِ الْمُبَشِّرَاتُ

۲۰۹۲۔ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رسالت اور نبوت منقطع ہوگئی ہیں اور اب میرے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ لوگوں پر یہ بات شاق گزری تو آپ ﷺ نے فرمایا: لیکن مبشرات باقی رہیں گی۔ عرض کیا گیا کہ مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا: مسلمان

۲۰۹۲۔ حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني نا عفان بن مسلم نا عبد الواحد نا المختار بن قلفل نا انس بن مالك قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنَّبُوءَةَ

(۱) مؤمن کا خواب نبوت کے چھالیس حصوں میں سے ایک ہے۔ اس موضوع سے متعلق کئی احادیث کتب احادیث میں مذکور ہیں بعض میں ستر حصوں کا تذکرہ ہے بعض میں چالیس اور بعض میں اسی ہیں، ومالی ذک۔ اس کے متعلق قاضی عیاض، طبری کا قول نقل کرتے ہیں کہ یہ اختلاف خواب دیکھنے والے کے حساب سے ہوتا ہے۔ چنانچہ مؤمن صالح کا خواب چھالیسواں حصہ ہے اور فاسق کاسترواں حصہ۔ ایک اور قول یہ بھی ہے۔ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ خواب نبوت کی موافقت کی وجہ سے آتے ہیں۔ اس لیے کہ صرف یہی ایک ایسا جزء ہے جو نبوت کے اجزاء میں سے قیامت تک باقی ہے اور یہی زیادہ مختار ہے اگرچہ

اس مسئلہ میں علماء کے کئی اقوال ہیں۔ واللہ اعلم (مترجم)

(۱) اس کی تفصیل آئندہ احادیث میں آئے گی۔ انشاء اللہ۔ (مترجم)

فَدَانَقَطَعْتُ فَلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِيٍّ قَالَ فَتَنَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ لَكِنَّ الْمُبَشِّرَاتُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ وَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ أَجْزَاءِ النَّبُوَّةِ

اس باب میں ابو ہریرہؓ، حذیفہ بن اسیدؓ، ابن عباسؓ اور ام کرزہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث اس سند سے صحیح غریب ہے۔

۲۰۹۳۔ حدثنا ابن ابی عمر نا سفیان عن ابن المنکدر عن عطاء بن یسار عن رجل من أهل مصر قال سألت أبا الدرداء عن قول الله عز وجل لهم البشرى فى الحیوة الدنيا فقال ما سألنى عنها أحد غیرك إلا رجلٌ واحدٌ منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما سألنى عنها أحدٌ غیرك منذ أنزلت هى الرؤیا الصالحة یراها المسلم أو ترى له

۲۰۹۳۔ عطاء بن یسار کہتے ہیں کہ ایک مصری شخص نے ابو درداءؓ سے اس آیت کے متعلق پوچھا ”لهم البشرى فى الحیوة الدنيا“ (۱) تو انہوں نے فرمایا: کہ جب سے میں نے آنحضرت ﷺ سے اس آیت کی تفسیر پوچھی ہے تمہارے علاوہ صرف ایک شخص نے مجھ سے اس کے متعلق دریافت کیا ہے۔ اور جب میں نے اس کے متعلق آنحضرت ﷺ سے پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا: یہ آیت جب سے نازل ہوئی ہے تم پہلے شخص ہو جس نے اس کے متعلق پوچھا ہے۔ پھر فرمایا: اس سے مراد نیک خواب ہے جسے کوئی مسلمان دیکھتا ہے یا فرمایا کہ اسے دکھایا جاتا ہے۔ (۲)

اس باب میں عبادہ بن صامتؓ سے حدیث منقول ہے اور مذکورہ حدیث حسن ہے۔

۲۰۹۴۔ حدثنا قتیبة نا ابن لهیعة عن دراج عن أبی الهیثم عن أبی سعید عن النبى صلى الله عليه وسلم قال أصدق الرؤیا بالسحار

۲۰۹۴۔ حضرت ابو سعیدؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سچے ترین خواب وہ ہوتے ہیں جو سحری کے وقت دیکھے جائیں۔

توضیح: چونکہ یہ وقت صلحاء کی عبادت میں مشغولیت کا ہوتا ہے۔ لہذا ان کا سونے والوں پر بھی اثر پڑتا ہے جو خوابوں کی صداقت پر متح ہیں۔ پھر اس وقت میں برکات کا نزول بھی ہوتا ہے۔ لوگوں کی دعائیں بھی قبول کی جاتی ہیں اور اللہ رب العزت آسمان اول پر آجاتے ہیں۔ واللہ اعلم (مترجم)

۲۰۹۵۔ حدثنا محمد بن بشار نا ابو داود نا حرب بن شداد و عمران القطان عن یحیی بن ابی کثیرة عن أبی سلمة قال نبئت عن عبادة بن الصامت قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى لهم البشرى فى الحیوة

۲۰۹۵۔ حضرت عبادہ بن صامتؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ سے ”لهم البشرى فى الحیوة الدنيا“..... الآیة کے متعلق پوچھا تو فرمایا: یا تمہارے نیک خواب ہیں جو تمہیں دیکھتا ہے یا فرمایا کہ اسے دکھائے جاتے ہیں۔

(۱) سورہ یونس آیت ۲۴۔

(۲) اس آیت کے متعلق مفسرین اور بھی اقوال نقل کرتے ہیں جو کہ کتب تفسیر میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ (مترجم)

الدُّنْيَا قَالَ هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُؤْمِنُ  
أَوْ تُرَى لَهُ

حرب اپنی روایت میں عن یحییٰ کی جگہ حدیث یحییٰ کا لفظ بیان کرتے ہیں۔

باب ۱۴۵۱۔ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى

باب ۱۳۵۱۔ آنحضرت ﷺ کا قول کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا  
بے شک اس نے مجھے ہی دیکھا۔

۲۰۹۶۔ حَدَّثَنَا بِنْدَارٌ نَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ نَا  
سَفِيَانَ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ أَبِي  
الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى فَإِنَّ  
الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي

۲۰۹۶۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے  
خواب میں مجھے دیکھا اس نے بلاشک و شبہ میری ہی زیارت کی اس  
لیے کہ شیطان میری صورت بنا کر نہیں آسکتا۔

اس باب میں ابو ہریرہؓ، ابو قتادہؓ، ابن عباسؓ، ابوبکرؓ، ابو جحیفہؓ، ابوسعیدؓ، جابرؓ، انسؓ اور ابومالک اشجعیؓ سے بھی احادیث نقل کی گئی ہیں  
ابومالک اپنے والد سے نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

توضیح: اس حدیث کی تفسیر میں علماء کا اختلاف ہے ان چند اقوال میں سے یہاں صرف راجح اور صحیح قول نقل کرنے پر ہی اکتفاء کیا  
جائے گا۔ چنانچہ صحیح قول یہی ہے کہ آنحضرت ﷺ کا خواب میں تشریف لانا اور ان کی زیارت ہونا حقیقی ہے۔ قاضی کہتے ہیں کہ بعض علماء کا  
قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو اس فضیلت کے ساتھ مختص کیا ہے کہ آپ ﷺ کی زیارت صحیح اور سچی ہے۔ نیز شیطان کو  
آپ ﷺ کی صورت میں متصور ہونے سے روک دیا، تاکہ حق باطل کے ساتھ مخلط نہ ہو سکے اور وہ خواب میں بھی آنحضرت ﷺ پر جھوٹ نہ  
باندھ سکے۔ واللہ اعلم۔ (مترجم)

باب ۱۴۵۲۔ مَا جَاءَ إِذَا رَأَى فِي الْمَنَامِ مَا يَكْرَهُ مَا يَصْنَعُ  
۲۰۹۷۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعْدٍ  
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ  
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ الرَّؤْيَا مِنَ  
اللَّهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا  
يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُتْ عَنْ يَسَارِهِ تِلْكَ مَرَاتٍ وَلْيَسْتَعِذْ  
بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَا يَبْصُرُهُ

باب ۱۳۵۲۔ اگر خواب میں کوئی مکروہ چیز دیکھے تو کیا کرے۔

۲۰۹۷۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اچھے  
خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں جب کہ برے خواب شیطان  
کی طرف سے ہوتے ہیں۔ لہذا اگر تم میں سے کوئی ایسی چیز دیکھے جسے  
وہ ناپسند کرتا ہو یعنی برا خواب دیکھے تو اپنے بائیں طرف تین مرتبہ  
تھوکے اور اللہ تعالیٰ سے اس خواب کے شر سے پناہ مانگے۔ تو اسے  
نقصان نہیں پہنچے گا۔

اس باب میں عبداللہ بن عمروؓ، ابوسعیدؓ، جابرؓ اور انسؓ سے بھی حدیثیں منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

توضیح: اس باب میں متعدد روایات آئی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی برا خواب دیکھے تو بائیں طرف تین مرتبہ تھوکے اور 'اعوذ  
باللہ من الشیطان الرجیم ومن شرہا' پڑھتا جائے۔ نیز آپ ﷺ نے تھوکنے کے لئے بائیں جانب کو اس لیے مخصوص کیا کہ یہ  
شیطان کے آنے اور نجاسات کی جگہ ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۱۴۵۳ - مَا جَاءَ فِي تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا

باب ۱۴۵۳ - خواب کی تعبیر کے متعلق

۲۰۹۸ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نا ابو داؤد انبانا  
شعبة اخبرني يعلى بن عطاء قال سمعت وكيع بن  
عُدُسٍ عَنْ أَبِي رَزِينِ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِينَ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعِينَ  
جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ وَهِيَ عَلَى رَجُلٍ طَائِرٍ مَا لَمْ يُحَدِّثْ  
بِهَا فَإِذَا تَحَدَّثَ بِهَا سَقَطَتْ قَالَ وَ أَحْسِنُهُ قَالَ وَلَا  
تُحَدِّثْ بِهَا إِلَّا لَيِّبًا أَوْ حَبِيبًا

۲۰۹۸ - حضرت ابو زین عقیلیؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا  
مؤمن کا خواب نبوت کے چالیس اجزاء میں سے ایک جزء ہے۔ اور یہ  
کسی شخص کیلئے اس وقت تک پرندے کی مانند ہے جب تک وہ اسے  
کسی کے سامنے بیان نہ کرے۔ اگر اس نے بیان کر دیا تو گویا کہ وہ  
اڑ گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ  
اپنا خواب کسی عقلمند یا دوست کے سامنے ہی بیان کرو

۲۰۹۹ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ النَّخْلَانِيُّ نا يزيد بن  
هارون نا شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن  
عُدُسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينِ الْعُقَيْلِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرُّؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةِ  
وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ وَهِيَ عَلَى رَجُلٍ طَائِرٍ مَا لَمْ  
يُحَدِّثْ بِهَا وَإِذَا حَدَّثَ بِهَا وَقَعَتْ

۲۰۹۹ - ابو زین عقیلیؓ، رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ  
نے فرمایا: مسلمان کا خواب نبوت کے چھیالیس اجزاء میں سے ایک  
ہے اور یہ کسی شخص کے لیے اس وقت تک پرندے کی مانند ہوتا ہے  
جب تک  
اسے وہ کسی سے بیان نہیں کرتا۔ اگر بیان کر دیتا ہے تو اس کی بیان کردہ  
تعبیر واقع ہو جاتی ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابو زین عقیلیؓ کا نام لقیط بن عامر ہے۔ حماد بن سلمہ، یعلیٰ بن عطاء سے یہ حدیث نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں  
کہ کعب بن عدس سے روایت ہے جب کہ شعبہ، ابو عوانہ اور ہشیم، یعلیٰ بن عطاء سے اور وہ کعب بن عدس سے نقل کرتے ہیں۔  
توضیح: مذکورہ بالا حدیث میں جس خواب کے کسی کے سامنے بیان کرنے کی ممانعت آئی ہے وہ ایسا خواب ہے کہ جس کے وقوع سے  
وہ آدمی ذرتا ہو لیکن نیک اور اچھے خواب بھی کسی عقلمند، دوست اور خیر خواہ آدمی ہی سے بیان کرنے چاہئیں تاکہ وہ اس کی الٹی تعبیر نہ کرے۔  
واللہ اعلم (مترجم)

۳۰۰۰ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَيْدٍ اللَّهُ السَّلْمِيُّ  
البصري نا يزيد بن زريع نا سعيد عن قتادة عن  
محمد بن سيرين عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّؤْيَا ثَلَاثُ فَرُؤْيَا حَقٌّ وَرُؤْيَا  
يُحَدِّثُ الرَّجُلَ بِهَا نَفْسَهُ وَرُؤْيَا تُحْزِنُ مِنَ الشَّيْطَانِ  
فَمَنْ رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيَصَلِّ وَكَانَ يَقُولُ  
يُعْجِبُنِي الْقَيْدُ وَآكْرَهُ الْعُلَّ الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ  
وَكَانَ يَقُولُ مَنْ رَأَى فَإِنِّي أَنَا هُوَ فَإِنَّهُ لَيْسَ  
لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلَ بِي وَكَانَ يَقُولُ لَا تَقْصُ الرُّؤْيَا

۳۰۰۰ - حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: خواب  
تین قسم کے ہیں۔ ایک سچا خواب، دوسرا وہ خواب کہ اس قسم کے انسان  
کے ذہن میں خیالات آتے ہیں اور تیسرا شیطان کی طرف سے غمگین  
کرنے والا خواب ہے۔ چنانچہ جو برا خواب دیکھے وہ اٹھے اور نماز  
پڑھے۔ نیز آپ ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے خواب میں زنجیر کا دیکھنا  
پسند ہے جب کہ طوق کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے کہ زنجیر دین پر ثابت  
قدی کی دلیل ہے۔ آپ ﷺ نے مزید فرمایا کہ اگر کسی نے خواب میں  
مجھے دیکھا تو وہ میں ہی ہوں کیونکہ شیطان میری صورت میں متصور نہیں  
ہو سکتا۔ پھر فرمایا: کہ خواب صرف کسی عالم یا ناصح کے سامنے ہی بیان کیا

إِلَّا عَلَىٰ عَالِمٍ أَوْ نَاصِحٍ

کرو۔

اس باب میں انسؓ، ابوبکرؓ ام علاءؓ، ابن عمرؓ، عائشہؓ، ابوسعیدؓ، جابرؓ، ابوموسیٰؓ، ابن عباسؓ اور عبداللہ بن عمروؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۴۵۷۔ مَا جَاءَ فِي الذِّئْبِ فِي حُلْمِهِ  
 ۳۰۰۱۔ حدثنا محمود بن غيلان نا ابو احمد  
 الزبيرى نا سفيان عن عبدالاعلى عن ابى  
 عبد الرحمن عن علي قال اراه عن النبي صلى الله  
 عليه وسلم قال من كذب في حلمه كلف يوم  
 القيامة عقدا شعيرة

باب ۱۴۵۴۔ جو شخص اپنا خواب بیان کرنے میں جھوٹ سے کام لے۔  
 ۳۰۰۱۔ حضرت علیؓ سے منقول ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ وہ رسول کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: جو شخص جھوٹا خواب بیان کرے یعنی درحقیقت اس نے خواب نہ دیکھا ہو لیکن لوگوں سے کہے کہ اس نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے تو قیامت کے دن اسے دو جو کے دانوں کو گرہ لگانے کا حکم دیا جائے گا۔

تقیہ، ابووانہ سے وہ عبدالاعلیٰ سے وہ ابو عبدالرحمن سلمی سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس باب میں ابن عباسؓ، ابو ہریرہؓ ابوشریحؓ، اور وائلہ بن اسحقؓ سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث پہلی سے زیادہ صحیح ہے۔

۳۰۰۲۔ حدثنا محمد بن بشارنا عبدالوهاب نا  
 ايوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى  
 الله عليه وسلم قال من نحلّم كاذبا كلف يوم  
 القيامة ان يعقد بين شعيرتين ولن يعقد بينهما  
 یہ حدیث صحیح ہے۔

۳۰۰۲۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص جھوٹا خواب بیان کرے گا اسے قیامت کے دن دو جو کے دانوں میں گرہ لگانے کا مکلف کیا جائے گا۔ جو وہ کبھی نہیں کر سکے گا۔

باب ۱۴۵۵۔ بلا عنوان

باب ۱۴۵۵۔

۳۰۰۳۔ حدثنا قتيبة نا الليث عن عقيل عن الزهري  
 عن حمزة بن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول  
 الله صلى الله عليه وسلم يقول بينا انا نائم اذ اتيت  
 بقذح لبن فشربت منه ثم اعطيت فضلى عمر بن  
 الخطاب قالوا فما اولته يا رسول الله قال العلم

۳۰۰۳۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں سو رہا تھا کہ ایک دودھ کا پیالہ لایا گیا میں نے اس میں سے پیا اور جو باقی بچا وہ عمر بن خطابؓ کو دے دیا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ اس کی کیا تعبیر ہوئی؟ فرمایا: علم۔

اس باب میں ابو ہریرہؓ، ابوبکرؓ، ابن عباسؓ، عبداللہ بن سلامؓ، خزیمہؓ، طفیل بن سجرہؓ، ابو امامہؓ اور جابرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

باب ۱۴۵۱۔ بلا عنوان

باب ۱۴۵۰۔

۳۰۰۴۔ حدثنا الحسين بن محمد الحريري البلخي نا  
 عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن ابى أمامة بن سهل  
 ۳۰۰۴۔ حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیفؓ، بعض صحابہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ

میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے بعض کی قمیصیں چھاتی تک اور بعض کی اس سے نیچے تک ہیں یعنی ناف یا گھٹنے تک ہیں پھر عمرؓ کو پیش کیا گیا تو ان کی قمیص زمین پر لٹک رہی تھی وہ اسے کھینچ رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا: اس کی کیا تعبیر ہوئی؟ فرمایا: اس کی تعبیر دین ہے۔

بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَا وَأَنْتُمْ رَأَيْتُمُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمْصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدْيَ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَعَرَضَ عَلَيَّ عُمَرُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَبْحُرُهُ قَالُوا فَمَا أَوْلَتْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الدِّينُ

عبد بن حمید، یعقوب بن ابراہیم بن سعد سے وہ اپنے والد سے وہ صالح بن کیسان سے وہ زہری سے وہ ابوامامہ سے وہ ابوسعید خدری سے اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث پہلی سے زیادہ صحیح ہے۔ توضیح: اس حدیث سے حضرت عمرؓ کی ابوبکرؓ پر فضیلت ثابت نہیں ہوتی اس لیے کہ ان کی فضیلت پر اور بہت سی احادیث دلالت کرتی ہیں اس لیے یہاں اس سے سکوت اختیار کیا گیا۔ قمیص کی دین کے ساتھ مناسبت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ ساتر عورت ہے جیسا کہ دین ساتر عیوب و ذنوب ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۱۴۵۶۔ مَا جَاءَ فِي رُؤْيَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدِّينِ وَالذَّلْوِ

۳۰۰۵۔ حضرت ابوبکرؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے پوچھا: تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا: جی ہاں میں نے دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک تر ازو اتارا گیا پھر آپ ﷺ اور ابوبکرؓ کا وزن کیا گیا۔ آپ ﷺ زیادہ وزنی تھے پھر ابوبکرؓ کا وزن کیا گیا تو ابوبکرؓ بھاری تھے پھر عمرؓ اور عثمانؓ کا وزن کیا گیا تو عمرؓ بھاری تھے۔ پھر تر ازو اٹھالیا گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ خواب سننے کے بعد ہم نے آپ ﷺ کے چہرے پر کراہت کے آثار دیکھے۔ (۱) یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۰۰۵۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا الْأَنْصَارِيُّ نَا إِسْحَبَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيَا فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا رَأَيْتُ كَأَنَّ مِيزَانًا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فَوُزِنْتَ أَنْتَ وَأَبُوبَكْرٍ فَرَجَحْتَ أَنْتَ بِأَبِي بَكْرٍ وَوُزِنَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَرَجَحَ أَبُو بَكْرٍ وَوُزِنَ عُمَرُ وَوُزِنَ عُثْمَانُ فَرَجَحَ عُمَرُ ثُمَّ رُفِعَ الْمِيزَانُ فَرَأَيْنَا الْكِرَاهِيَةَ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۳۰۰۶۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ سے ورقہ بن نوفل کے متعلق پوچھا گیا تو حدیث نے عرض کیا کہ انہوں نے آپ کی رسالت کی تصدیق کی تھی پھر آپ ﷺ کے اعلان سے پہلے وہ انتقال کر گئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے وہ خواب میں دکھائے گئے تو ان کے بڑے پر سفید رنگ کے کپڑے تھے اگر وہ روزِ نبی ہوتے تو کسی اور رنگ کے کپڑے

۳۰۰۶۔ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ نَا يُونُسُ بْنُ بَكْرِ نَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَرَقَةَ فَقَالَتْ لَهُ حَدِيثُهَا أَنَّهُ كَانَ صَلَفَكَ وَ إِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَطْهَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱) شاید کراہت کی وجہ یہ ہو کہ آپ ﷺ نے سمجھا ہو کہ خلافت عثمانؓ ہی تک ہوگی۔ یہ سوچ بھی واقف سے مطابقت رکھتی تھی کیونکہ حضرت عثمانؓ کے زمانے تک کی خلافت ہی باحقاق اصحاب ہوئی جب کہ حضرت علیؓ کے زمانے میں اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ نیز یہ خواب اصحاب نبی ﷺ کے مراتب پر بھی دلالت کرتا ہے۔ کہ افضل ترین ابوبکرؓ پھر عمرؓ اور پھر عثمانؓ اور اہل سنت کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ (مترجم)

وَسَلَّمَ أُرَيْتُهُ فِي الْمَنَامِ وَعَلَيْهِ نِيَابٌ بِيَاضٍ وَلَوْ كَأَنَّ  
مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَكَانَ عَلَيْهِ لِبَاسٌ غَيْرُ ذَلِكَ

یہ حدیث غریب ہے اور عثمان بن عبدالرحمن محدثین کے نزدیک قوی نہیں۔

توضیح: ورقہ بن نوفل، ام المومنین حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے جنہوں نے آنحضرت ﷺ کے اعلان نبوت سے پہلے آپ ﷺ کا حال سن کر رسالت کی تصدیق کر دی تھی۔ نیز اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی میت کو سفید کپڑوں میں دیکھنا اس کی عاقبت اچھی ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

۳۰۰۷۔ حدثنا محمد بن بشار نا ابو عاصم نا ابن جریج ثنی موسی بن عقبه ثنی سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فقال رأيت الناس اجتمعوا فنزع أبو بكر ذنوبًا أو ذنوبين وفيه ضعف والله يعفركم ثم قام عمر فنزع فاستحالت غربًا فلم أر عبقريًا يفري فريته حتى صرت الناس بالعطن

۳۰۰۷۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے آنحضرت ﷺ کے ابو بکرؓ و عمرؓ کو خواب میں دیکھنے کے متعلق فرمایا: چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا: میں نے بہت سے لوگوں کو ایک کنوئیں پر جمع ہوتے ہوئے دیکھا پھر ابو بکرؓ نے ایک یاد و ذول پانی پیچھا۔ اور ان کے کھینچنے میں ضعف تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کریں گے۔ پھر عمرؓ کھڑے ہوئے اور ذول نکالا تو وہ بہت بڑا ہو گیا پھر میں نے کسی پہلوان کو ان کی طرح کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا یہاں تک کہ لوگ سیراب ہو کر اپنی آرام گاہوں میں چلے گئے۔

اس باب میں ابو ہریرہؓ سے بھی حدیث منقول ہے یہ حدیث ابن عمرؓ کی روایت سے صحیح غریب ہے۔

توضیح: اس حدیث میں خلافت کی طرف اشارہ ہے کہ ابو بکرؓ کی خلافت دو سال ہے اور یہی ہو چنانچہ ان کی خلافت دو سال تین ماہ تھی۔ ان کے کھینچنے میں ضعف سے مراد ان کے ایام خلافت میں اضطراب ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کریں گے۔ سے مراد یہ ہے کہ ان کے دور میں اٹھنے والے فتنے انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ ان کے بعد کسی پہلوان کو..... ان۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں دین کی تعظیم، اعلاء کلمۃ اللہ، کثرت فتوحات اور بہت سے خزانے وغیرہ فتح ہوں گے اور اس کے بعد لوگ اس طرح سیر ہو گئے کہ اپنے اونٹوں وغیرہ کو بھی پانی پلا دیا۔ اور انہیں آرام سے ان کی جگہوں پر بٹھا دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر خواب میں کسی کو پانی پلاتے دیکھا جائے تو اس کی تعبیر فیضانِ علوم ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

۳۰۰۸۔ حدثنا محمد بن بشار نا ابو عاصم نا ابن جریج اخبرني موسى بن عقبه قال اخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهبة وهي الححفة فأولتها وباء المدينة ينقل إلى الححفة

۳۰۰۸۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ، رسول اللہ ﷺ کا ایک خواب نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: میں نے خواب میں ایک سیاہ قام عورت کو دیکھا جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ مدینہ سے نکلی اور مہیجہ یعنی جحفہ کے مقام پر جا کر ٹھہر گئی۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایک وباء مدینہ میں آئے گی جو جحفہ منتقل ہو جائے گی۔

یہ حدیث صحیح غریب ہے۔

توضیح: ورقہ بن نوفل، ام المؤمنین حضرت خدیجہ کے چچا ادبھائی تھے، جنہوں نے آنحضرت ﷺ کے اعلان نبوت سے پہلے آپ ﷺ کا حال سن کر رسالت کی تصدیق کر دی تھی۔ نیز اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی میت کو سفید کپڑوں میں دیکھنا اس کی عاقبت اچھی ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

۳۰۰۹۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: آخری زمانے میں مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ اور سب سے سچا خواب اس کا ہوتا ہے جو خود سچا ہوتا ہے۔ نیز خواب تین قسم کے ہوتے ہیں۔ اچھا خواب جو اللہ کی طرف سے بشارت ہوتا ہے۔ دوسرا وہ جس چیز کے متعلق انسان سوچتا رہتا ہے اور تیسرا شیطان کی طرف سے غم میں ڈالنے کے لیے۔ اور اگر کوئی بُرا خواب دیکھے تو وہ اسے کسی سے بیان نہ کرے اور چاہے کہ اٹھے اور نماز پڑھے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں زنجیر دیکھنا پسند ہے اور طوق کا دیکھنا ناپسند کرتا ہوں اس لیے کہ زنجیر دیکھنے کی تعبیر دین پر ثابت قدم رہنا ہے اور آنحضرت ﷺ نے فرمایا: مومن کا خواب نبوت کے چھاپیس اجزاء میں سے ایک جزء ہے۔

۳۰۰۹۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ نَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي سَيْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ لَا تَكَاذُرُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ تَكْذِيبٌ وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيثًا وَالرُّؤْيَا ثَلَاثُ الْحَسَنَةُ بُشْرَى مِنَ اللَّهِ وَالرُّؤْيَا يُحَدِّثُ الرَّجُلُ بِهَا نَفْسَهُ وَالرُّؤْيَا تَحْزِينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلَا يُحَدِّثُ بِهَا أَحَدًا وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُعْجِبُنِي الْقَيْدُ وَأَكْرَهُ الْعُلَّ الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ قَالَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ

عبدالوہاب ثقفی یہ حدیث ایوب سے مرویاً نقل کرتے ہیں۔ جب کہ حماد بن زید سے ایوب ہی سے موقوفاً نقل کرتے ہیں۔

۳۰۱۰۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے خواب میں اپنے دونوں ہاتھوں میں سونے کے دو ٹکٹے دیکھے۔ مجھے انہوں نے فکر میں ڈال دیا۔ پھر مجھ پر وحی کی گئی۔ کہ ان دونوں کو پھونک ماروں۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا تو یہ دونوں اڑ گئے۔ پھر میں نے ان کی تعبیر کی کہ میرے بعد دو کذاب نکلیں گے ایک کا نام میلہ ہوگا جو پیامہ سے نکلے گا اور دوسرا عنسی جو صنعاء سے نکلے گا۔ یہ حدیث صحیح غریب ہے۔

۳۰۱۰۔ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ الْبَغْدَادِيُّ نَا أَبُو الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي حَسِينٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ فِي يَدَيَّ سَوَارِينَ مِنْ ذَهَبٍ فَهَمَّيْنِي شَانَهُمَا فَأَوْجَى إِلَيَّ أَنْ أَنْفُخَهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا فَأَوْلَتْهُمَا كَأَذْيَيْنِ يَخْرُجَانِ مِنْ بَعْدِي يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا مُسَيْلِمَةُ صَاحِبُ الْبَيْمَامَةِ وَالْعَنْسِيُّ صَاحِبُ صَنْعَاءَ

توضیح: یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مرد کا اپنے جسم پر ممنوع چیزوں کا زیور دیکھنے کی تعبیر کسی کا جھوٹا باندھنا اور تہمت لگانا جب کہ اس تہمت وغیرہ سے بچنا ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

۳۰۱۱۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے

۳۰۱۱۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ نَا عَمْرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ ظُلَّةً يُنْطَفُ مِنْهَا السَّمْنُ وَالْعَسَلُ وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَسْتَقُونَ بِأَيْدِيهِمْ فَالْمُسْتَكْبِرُ وَالْمُسْتَقِيلُ وَرَأَيْتُ سَبِيًّا وَاصِلًا مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَارَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَتْ بِهِ فَعَلَوَتْ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَكَ فَعَلَا ثُمَّ أَخَذَهُ رَجُلٌ بَعْدَهُ فَعَلَا ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ فَقَطَّعَ بِهِ ثُمَّ وَصَلَ لَهُ فَعَلَا بِهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَيْ رَسُولَ اللَّهِ يَا بِي أَنْتَ وَ أُمِّي وَاللَّهِ لَتَدْعُنِي أَعْبُرَهَا فَقَالَ أَعْبُرَهَا فَقَالَ أَمَا الظُّلَّةُ فَظُلَّةُ الْإِسْلَامِ وَأَمَا مَا يُنْطَفُ مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ فَهَذَا الْقُرْآنُ لِيُنْتَهَ وَحَلَاوَتُهُ وَأَمَا الْمُسْتَكْبِرُ وَالْمُسْتَقِيلُ فَهُوَ الْمُسْتَكْبِرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِيلُ مِنْهُ وَأَمَا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَهُوَ الْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِهِ فَيَعْلِيكَ اللَّهُ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ بَعْدَكَ رَجُلٌ آخَرَ فَيَعْلُوَا بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بَعْدَهُ رَجُلٌ آخَرَ فَيَعْلُوَا بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ آخَرَ فَيَنْقَطِعُ بِهِ ثُمَّ يُوَصَّلُ فَيَعْلُوَا بِهِ أَيْ رَسُولَ اللَّهِ لَتَحْدِثُنِي أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَبْتُ بَعْضًا وَأَخْطَأْتُ بَعْضًا قَالَ أَقْسَمْتُ يَا بِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ لَتُخْبِرُنِي مَا الَّذِي أَخْطَأْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُفْسِمُ

یہ حدیث صحیح ہے۔

آج کی رات خواب میں ایک بدلی دیکھی جس سے گھی اور شہد نیک رہا ہے۔ اور لوگ اس سے ہاتھوں میں لے کر پنی رہے ہیں۔ ان میں زیادہ پینے والے بھی ہیں اور کم پینے والے بھی پھر میں نے آسمان سے زمین تک لنگتی ہوئی ایک رسی دیکھی۔ یا رسول اللہ! آپ نے اسے پکڑا اور اوپر چڑھ گئے پھر آپ ﷺ کے بعد ایک اور آدمی نے رسی پکڑی اور وہ بھی چڑھ گیا۔ پھر ایک اور شخص بھی اسی طرح اوپر چڑھا۔ لیکن جب اس کے بعد والا شخص چڑھنے لگا تو وہ ٹوٹ گئی لیکن اسے دوبارہ جوڑ دیا گیا اور اس طرح وہ شخص بھی چڑھ گیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان ہوں میں آپ ﷺ کو قسم دیتا ہوں کہ اس کی تعبیر مجھے بیان کر دیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اچھا کرو کہنے لگے۔ وہ بدلی اسلام کی بدلی ہے۔ اور اس میں سے گھی اور شہد کے ٹپکنے کی تعبیر قرآن کریم ہے جس کی نرمی اور مٹھاس گھی اور شہد سے مناسبت رکھتی ہے۔ زیادہ پینے والے اور تھوڑے پینے والے بھی قرآن کے زیادہ اور کم سیکھنے والے ہیں۔ اور وہ رسی حق ہے جس پر آپ ﷺ ہیں چنانچہ آپ ﷺ نے حق کو پکڑا اور چڑھ گئے یعنی اس پر ثابت قدم رہتے ہوئے مقبوض ہوں گے پھر آپ کے بعد آنے والا خلیفہ بھی اسی طرح حق کو مضبوطی سے تھامے رہے گا اور وہ بھی اعلیٰ علیین کی طرف چڑھ جائے گا۔ پھر دوسرا خلیفہ بھی اسی طرح ہوگا لیکن تیسرے شخص کے دور خلافت میں کچھ رخ نہ آئے گا۔ لیکن وہ ختم ہو جائے گا۔ اور وہ بھی اوپر چڑھ جائے گا۔ یعنی اپنے ساتھیوں کی اجارے میں اعلیٰ علیین کی طرف چلا جائے گا۔ یا رسول اللہ! اب بتائیے کہ میں نے صحیح تعبیر کی یا غلط؟ آپ ﷺ نے فرمایا: کچھ صحیح ہے اور کچھ غلط بھی۔ ابو بکرؓ نے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ پر خدا ہوں میں آپ ﷺ کو قسم دیتا ہوں کہ میری غلطی کی اصلاح کیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: قسم مت دو۔

توضیح: اس خواب کی تعبیر بیان کرنے میں حضرت ابو بکر صدیقؓ سے کیا غلطی ہوئی اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ چنانچہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ انہوں نے تعبیر پوری نہیں کی وہ اس طرح کہ اس بدلی میں سے شہد اور گھی کا ٹپکنا قرآن وحدیث دونوں پر دلالت کرتا ہے جب کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کا رسول اللہ ﷺ کو قسم دینا اس میں غلطی تھی۔ نیز بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ تعبیر خود بیان کرنا غلطی تھی اس لیے کہ آنحضرت ﷺ اسے بیان کرتے تو اس سے علم یقین حاصل ہوتا واللہ اعلم (مترجم)

۳۰۱۲۔ حدثنا محمد بن بشار نا وهب بن يزيد عن ابيه عن ابي رجاء عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى بنا الصبح اقبل على الناس بوجهه وقال هل راي احد منكم رؤيا الليلة

۳۰۱۳۔ حضرت سمرہ بن جندبؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب فجر کی نماز پڑھ چکے تو ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر پوچھتے کہ کیا کسی نے آج رات کوئی خواب دیکھا ہے۔ (۱)

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور عوف اور جریر بن حازم سے بھی بواسطہ ابورجاء منقول ہے وہ سمرہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں اس حدیث میں طویل قصہ ہے۔ بندار بھی وہب بن جریر سے یہی حدیث مختصر نقل کرتے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
 أَبْوَابُ الشَّهَادَاتِ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ  
 صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
 گواہوں کے متعلق آنحضرت ﷺ سے  
 منقول احادیث کے ابواب

توضیح: شہادت کے ابواب کے شروع میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے متعلق چند ضروری احکام اور بعض ہدایات بیان کی جائیں ضابطہ شہادت (گواہی) کے متعلق قرآن حکیم، سنت نبوی ﷺ اور قواعد میں ہمہ جہت تفصیل موجود ہے جسے یہاں انحصار کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔

اسلام میں گواہ کا عادل ہونا اہم ترین چیز ہے کیونکہ شہادت ایک ایسا وسیلہ ہے جو عدالت کو انصاف و عدل تک پہنچنے میں فیصلہ کن مدد دیتا ہے چنانچہ ضروری ہے کہ گواہ مذہب، اخلاق اور قانون کے معیار پر صحیح اترتا ہو۔ اس کی گواہی سچی اور انصاف پر مبنی ہو۔ نیز اگر وہ واقعہ کو سو رج کی طرف صاف طور پر دیکھ لے تو گواہی دے وگرنہ نہیں۔

قرآن حکیم کا حکم ہے کہ شہادت صرف اللہ ہی کے لیے دی جائے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ”کونوا قوامین بالقسط شهداء لله“ یعنی انصاف پر قائم رہ کر صرف اللہ ہی کے لیے گواہی دو اس کے علاوہ قرآن کریم نے شہادت کی صداقت پر ایسا زور دیا ہے کہ جس کی نظیر دنیا کے کسی قانون میں نہیں ملتی۔ چنانچہ حکم ربانی ہے کہ شہادت دو تو انصاف کے ساتھ دو خواہ یہ تمہاری ذات، والدین اور عزیز واقارب کے خلاف ہی جائے۔ نیز انصاف کے معاملے میں خواہشات نفسانی کی اتباع نہ کرو خواہ دوسرا فریق سرمایہ دار ہو یا غریب و محتاج، پھر یہ بھی ضروری ہے کہ گواہ تعداد میں قانون کے مطابق ہوں اور ہر گواہ عادل ہونے کے ساتھ ساتھ عقل و یادداشت کی صفات سے بھی متصف ہو۔

چنانچہ زنا کی تہمت ثابت کرنے کے لیے چار مرد گواہوں کی گواہی ضروری ہے۔ اسی طرح قصاص، قتل اور عقوبات (فوجداری مقدمات) میں دو مرد گواہ اور عام شہری تو انین کے مقدمات میں دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی لازمی ہے۔

(۱) آپ ﷺ یہ سوال اس لیے کیا کرتے تھے تاکہ اگر کوئی خواب بیان کرے تو آپ اس کی تعبیر بیان کریں۔ واللہ اعلم (مترجم)

یہاں یہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ گواہ پیش کرنا مدعی کا حق ہے ورنہ مدعی علیہ قسم کے ذریعے خود کو بری کرنے کا حق رکھتا ہے لیکن اگر بعد میں قسم جھوٹی ثابت ہوگی تو یہ کا عدم ہو جائے گی۔ نیز حلف (قسم) کا منہی کے حکم سے دی جائے گی۔ گواہی کے متعلق جن چیزوں کی رعایت رکھنے کا حکم دیا گیا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔

جھوٹی شہادت نہ دی جائے۔ کیونکہ یہ ناقابل قبول اور قابل سزا ہے۔ گناہ کبیرہ کے مرتکب اور فاسق کی گواہی ناقابل اعتبار ہے۔ سزا یافتہ دروغ گوئی میں مشہور، قانون کی خلاف ورزی کرنے والے مجرم، احکام اسلام کے مجرم، قاتل، خائن، تہمت یا کسی اور وجہ سے مجروح شدہ شخص کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ البتہ فاسق کی فاسق کے مقدمے میں یا ایسے فاسق کی گواہی جو ذاتی وقار کی وجہ سے سچی گواہی دے سکے بعض حالات میں قابل قبول ہوتی ہے لیکن باپ، بیٹے، میاں بیوی، غلام اور آقا کی ایک دوسرے کے حق میں گواہی غیر معتبر ہے۔ پھر بنیادی طور پر یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ آدمی گواہی دینے کا اہل اسی وقت ہوگا جب کہ اس میں تین شرطیں پائی جاتی ہوں۔ (۱) کہ مسلمان ہو (۲) کہ وہ عاقل ہو (۳) کہ وہ بالغ ہو واللہ اعلم (مترجم)

۳۰۱۳۔ حدثنا الانصاری نا معن نا مالک عن  
عبد اللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم  
عن ابيه عن عبد اللہ بن عمرو بن عثمان عن ابي  
عمرة الأنصاری عن زید بن خالد الجھنی أن  
رسول اللہ صَلَّى اللہ علیہ وسلم قال آلا أُخبرکم  
بخیر الشہداء الذی یأتی بشہادته قبل أن یسألها

۳۰۱۳۔ حضرت زید بن خالد جھنی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:  
کیا میں تمہیں بہترین گواہوں کے متعلق نہ بتاؤں! وہ ایسے گواہ ہیں جو  
سوال سے پہلے گواہی دیتے ہیں۔ (۱)

احمد بن حسن، عبد اللہ بن مسلمہ سے اور وہ مالک سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں۔ ابن ابی عمرہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اکثر راوی انہیں عبد الرحمن بن ابی عمرہ کہتے ہیں اور مالک کے یہ حدیث نقل کرنے میں اختلاف کرتے ہیں چنانچہ بعض ابی عمرہ سے اور بعض ابن ابی عمرہ سے روایت کرتے ہیں ان کا نام عبد الرحمن بن ابی عمرہ انصاری ہے۔ اور یہی ہمارے نزدیک صحیح ہے۔ اس لیے کہ مالک کے علاوہ بھی کئی راوی عبد الرحمن بن ابی عمرہ انصاری ہی کہتے ہیں۔ وہ زید بن خالد سے اس کے علاوہ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ وہ بھی صحیح ہیں۔ نیز ابو عمرہ، زید بن خالد جھنی کے مولیٰ ہیں ان کی ایک حدیث یہ بھی ہے جس میں غلول کا ذکر ہے یہ ابی عمرہ سے منقول ہے۔

۳۰۱۴۔ حدثنا بشر بن آدم بن بنت اذھر السمان نا  
زید الحباب ثنی ابی بن عباس بن سهل بن سعد  
قال ثنی ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم ابي  
عمرة ثنی زید بن خالد الجھنی أنه سمع رسول

۳۰۱۴۔ حضرت زید بن خالد جھنی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:  
بہترین گواہ وہ ہیں جو گواہی طلب کرنے سے پہلے گواہی دیتے ہیں۔ یہ  
حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔

(۱) اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے متعلق صاحب حق کو بھی علم نہ ہو کہ یہ اس کے حق کے اثبات کا گواہ ہے۔ چنانچہ وہ اسے طلب نہیں کر سکے گا۔ لہذا اسے طلب کیے بغیر اس کا گواہی دینا موجب ثواب ہے۔ اس طرح اس حدیث اور ایک اور حدیث جو پیچھے گزر چکی ہے کہ ”ان سے گواہی طلب کیے بغیر گواہی دینے کے لیے آجائیں گے۔“ میں تعارض نہیں رہتا۔ نیز بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حدیث جموں نے گواہوں پر محمول ہے جب کہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ حدیث باب سے مراد امانت اور ودیعت کی گواہی ہے کیونکہ اسے کوئی نہیں جانتا پھر بعض حضرات کہتے ہیں کہ حدیث باب خاص اور دوسری حدیث عام ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ الشُّهَدَاءِ مَنْ  
أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا

۳۰۱۵- حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: خانہ مرد  
وغورت کی، ایہی، یا کسی ایسے مرد وغورت کی گواہی جن پر حد جاری  
ہو چکی ہو، یا کسی دشمن کی گواہی یا ایسے شخص کی گواہی جو ایک مرتبہ جھوٹا  
ثابت ہو چکا ہے یا کسی کے ملازم کی اس کے حق میں گواہی اور ولاء یا  
قرابت میں تہمت زدہ کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ (۱) یعنی ان  
تمام مذکورہ اشخاص کی گواہی قابل قبول نہیں۔

۳۰۱۵- حدثنا قتيبة بن مروان بن معاوية الفزاري  
عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة  
عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه  
وسلم لا تجوز شهادة خائب ولا خائبة ولا مجلود  
حدًا ولا مجلودة ولا ذي عير لا حية ولا مخرب  
شهادة ولا القانيع أهل البيت لهم ولا ظنين في ولاء  
ولا قرابة قال الفزاري القانيع التابع

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف یزید بن زیاد دمشقی کی روایت سے جانتے ہیں اور یہ ضعیف ہیں۔ پھر یہ حدیث ان کے علاوہ  
کوئی راوی بھی زہری سے نقل نہیں کرتے۔ اس باب میں عبد اللہ بن عمروؓ سے بھی حدیث منقول ہے ہمیں اس حدیث سے مراد کا علم نہیں اور  
پھر میرے نزدیک اس کی سند بھی صحیح نہیں۔ علماء کا عمل اس طرح ہے کہ قریب کی قریب کے لیے شہادت جائز ہے۔ ہاں باپ کی بیٹی کے  
لیے شہادت میں اختلاف ہے اسی طرح بیٹی کی باپ کے لیے۔ چنانچہ اکثر علماء ان دونوں کی ایک دوسرے کے لیے شہادت کو ناجائز قرار  
دیتے ہیں۔ لیکن بعض اہل علم اس کی اجازت دیتے ہیں بشرطیکہ وہ دونوں عدل ہوں۔ پھر بھائی کی بھائی کے لیے شہادت اور قرابت  
داروں کی آپس میں شہادت کے متعلق علماء میں کوئی اختلاف نہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ کسی دشمن کی کسی پر شہادت کسی صورت بھی جائز  
نہیں اگرچہ گواہ عدل ہی کیوں نہ ہو۔ ان کی دلیل عبدالرحمن سے منقول حدیث ہے کہ آپؐ نے فرمایا: صاحب عداوت کی گواہی جائز نہیں۔  
حدیث باب سے بھی یہی مراد ہے کہ دشمن کی گواہی ناقابل قبول ہے۔

۳۰۱۶- حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا میں  
تمہیں سب سے بڑے گناہ کے متعلق نہ بتاؤں؟ عرض کیا گیا: کیوں  
نہیں یا رسول اللہ ﷺ؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کے ساتھ شرک کرنا،  
والدین کو ناراض کرنا اور جھوٹی گواہی یا فرمایا جھوٹی بات کہنا راوی کہتے  
ہیں کہ آنحضرت ﷺ مار بار "شہادۃ زور" کو دہرانے لگے یہاں تک کہ  
ہم کہنے لگے کاش آپ ﷺ چپ ہو جائیں۔

۳۰۱۶- حدثنا حميد بن مسعدة نا بشر بن  
المفضل عن الحريري عن عبد الرحمن بن أبي  
بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا  
أخبركم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال  
الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور  
أو قول الزور فما زال رسول الله صلى الله عليه  
وسلم يقولها حتى قلنا لئنه سكت

یہ حدیث صحیح ہے۔

۳۰۱۷- حضرت امین بن خرم کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک مرتبہ

۳۰۱۷- حدثنا احمد بن منيع نا مروان بن معاوية

(۱) یعنی جس کا قریبی نہیں تھا لیکن اس سے قرابت ظاہر کی یا کوئی غلام اس کا آزاد کیا ہوا نہیں تھا۔ اسے اپنا آزاد کردہ کہے اور اس جھوٹ کے ساتھ مشہور ہو چکا ہو  
اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ (مترجم)

خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا: اے لوگو! جھوٹی گواہی، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر کر دی گئی ہے۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی۔ "فَاَحْتَبُوا... الْآيَةَ" یعنی بتوں کی ناپاکی سے بچو اور جھوٹی بات سے پرہیز اور اجتناب کرو۔ (یعنی اس کے قریب بھی مت جاؤ)۔

عَنْ سَفِيَانَ بْنِ زَيْدٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ فَاتِكِ بْنِ فَصَّالَةَ عَنْ أَيْمَنَ بْنِ حُرَيْمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ حَظِيظًا فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ عُدَلْتُ شَهَادَةَ الزُّورِ إِشْرَاكَ بِاللَّهِ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَحْتَبُوا الرَّجْسَ مِنَ الْأَوْتَانِ وَاحْتَبُوا قَوْلَ الزُّورِ

اس حدیث کو ہم صرف سفیان بن زیاد کی روایت سے جانتے ہیں۔ اور ان سے نقل کرنے میں اختلاف ہے۔ پھر ایمن بن حریم کا مجھے علم نہیں کہ ان کا آنحضرت ﷺ سے سماع ثابت ہے یا نہیں۔

۳۰۱۸۔ حضرت عمران بن حصینؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ: میرے زمانے کے لوگ سب سے بہتر ہیں پھر ان کے بعد کے زمانے والے پھر ان کے بعد والے اور پھر ان کے بعد والے۔ یعنی تین زمانوں کے متعلق فرمایا: پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو بزرگی کو پسند کریں گے اور ای کو دوست رکھیں گے۔ (یعنی)

۳۰۱۸۔ حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى نَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَدْرِكٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثَلَاثًا ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ مِنْ بَعْدِهِمْ يَتَسَمَّنُونَ وَيُحِبُّونَ السَّمْنَ يُعْطُونَ الشَّهَادَةَ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلُوهَا

بڑے کھلوانا پسند کریں گے) اور طلب کیے بغیر گواہی دینے کے لیے موجود ہوں گے۔

یہ حدیث اعمش کی علی بن مدرک کی روایت سے غریب ہے۔ اعمش اس سند سے روایت کرتے ہیں کہ اعمش، ہلال بن یساف سے اور وہ عمران بن حصینؓ سے نقل کرتے ہیں۔ چنانچہ ابوعمار سے وکیع سے وہ اعمش سے وہ ہلال بن یساف سے وہ عمران بن حصینؓ سے اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی کی طرح نقل کرتے ہیں۔ یہ محمد بن فضیل کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اس حدیث سے وہ گواہ مراد ہیں جو بغیر سوال کے جھوٹی گواہی دینے کیلئے تیار ہوں گے۔ محدثین کہتے ہیں اس کا بیان عمر بن خطابؓ کی حدیث میں ہے۔ کہ سب زمانوں میں سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں..... پھر جھوٹ ظاہر ہوگا یہاں تک کہ لوگ گواہی طلب کیے بغیر گواہی دیں گے۔ قسم کھلانے سے پہلے قسم کھائیں گے۔ جبکہ حدیث باب میں وہ گواہ مراد ہیں جو صاحب حق کے طلب کرنے پر فوراً گواہی دینے کیلئے تیار ہوں۔ یہ نہیں کہ بغیر بلائے شہادت دینے کے لیے آجائیں۔ یہ تطبیق بعض اہل علم بیان کرتے ہیں۔ (۱)

## الحمد للہ جامع ترمذی شریف کی اوّل جلد مکمل ہوئی